

نئے اضافوں کے ساتھ

عالم اسلام میں اپنی نوعیت کی منفرد کتاب

# ثبوتِ قادیانیت پر تباہی کا ضریب!

قادیانی مذهب کے عقائد و عزائم، مضحکہ خیزیوں، تضاد بیانیوں  
اور کذب و ریا پر مبنی ناقابل تردید اور ہوش ربا عکس شہادتیں

3

ترتیب و تحقیق

محمد متین خالد





## ”ثبوت حاضر ہیں“

یہ کتاب، اپنے اندر  
 قادیانی مذہب کے بانی  
 آنجنابی، مرزا غلام احمد قادیانی  
 اس کے بیٹوں، اس کے نام نہاد خلیفوں اور دیگر اہم قادیانیوں کی  
 مستند تصانیف اور اخبارات و رسائل کی  
 قابل اعتراض اور دل آزار کفریہ عبارتوں کی عکسی نقول لیے ہوئے ہے  
 قادیانی جرائم کے یہ ثبوت  
 اتنے واضح ہیں کہ دنیا کی کسی بھی عدالت میں  
 ان عکسی دستاویزات کی صداقت کو چیلنج کرنا  
 کسی بھی قادیانی کے لیے ممکن نہیں ہے  
 میں اس کتاب میں درج  
 تمام حوالوں اور عکسی نقول کے مصدقہ ہونے  
 کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں  
 اور قادیانی جماعت کے موجودہ سربراہ سمیت  
 روڈ نمبر ۱ کے تمام قادیانیوں (بشمول لاہوری گروپ) کو  
 چیلنج کرتا ہوں کہ  
 اگر اس کتاب میں موجود، کوئی بھی عکس غیر حقیقی ہو،  
 یا میری طرف سے کسی بھی نوع کی ترمیم ہوئی ہو، کسی قسم کا اضافہ کیا گیا ہو، یا  
 ایک بھی خانہ ساز حوالہ پایا جائے  
 تو میں اس کے لیے ہر قسم کی سزا پانے کے لیے تیار ہوں!  
 بصورت دیگر انہیں ضد اور ہٹ دھرمی چھوڑ کر آخرت کی فکر کرتے  
 ہوئے اسلام کی آغوش میں آ جانا چاہیے  
 ہے کسی قادیانی میں اخلاقی جرأت جو میرے اس چیلنج کو قبول کرے؟

محمد تقی خان

نئے اضافوں کے ساتھ

عالمِ اسلام میں اپنی نوعیت کی منفرد کتاب

# قادیانیت پر تباہی کا ضریح!

قادیانی مَذہب کے عقائد و عِزائم، مَضحکہ خیزیوں، تضادِ بیانیوں  
اور کذب و ریا پر مبنی ناقابلِ تردید اور ہوش رُباعکشی شہادتیں

جلد سوم

محمد قیصر خالد

علم و فن پبلشرز

الحمد مارکیٹ 40- اردو بازار، لاہور،

فون: 7352332-7232336-8405100



## جملہ حقوق محفوظ

ثبوتِ حاضریں! جلد سوم

نام کتب

ثبوتِ حاضریں

مصنف

علم و سائنس پبلیشرز

ناشر

محمد نوید شاہین ایڈووکیٹ ہائی کورٹ

قانونی مشیر

جوہر رحمانیہ پرنٹرز، لاہور

مطبع

فضیل کیانی

سرورق

تاج کمپوزنگ سنٹر، لاہور

کمپوزنگ

(نئے اضافوں کے ساتھ) 2011ء

سن اشاعت

700/- روپے

قیمت

علم و سائنس پبلیشرز

الحمد مارکیٹ 40- اردو بازار، لاہور،

فون: 7352332-7232336-8405100



# انتخاب

”نبوت حاضر ہیں!“ کی تدوین اور تیاری کوئی معمولی کاوش نہیں بلکہ جان جوکھوں کا کام ہے۔ موضوعات کا انتخاب، حوالہ جات کی تلاش، قادیانی کتب کا حصول، مواد کی درجہ بہ درجہ سلسلہ بندی، کمپوزنگ، پروف ریڈنگ، لے آؤٹ، عکسی نقول کا اصل کتب سے سکین کرنا، حوالہ جات کو ایک خاص ترتیب سے درست جگہ پر رکھنا، کمپوز شدہ مواد اور عکسی شہادتوں کا تفصیلی موازنہ، حوالہ نمبر اور صفحہ نمبر کا سو فیصد صحیح ہونا، حتی الامکان غلطی سے گریز کرنا، یہ ایسے مسلسل اور چانگسل مراحل ہیں جنہیں کامیابی سے عبور کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ گویا:

یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجے  
اک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے

یہ مجھ اکیلے کا کام نہیں بلکہ پوری ٹیم کا مشن ہے جس نے نہایت مستعدی، حزم و احتیاط، محنت، لگن، اخلاص اور دلی جذبے سے سرشار ہو کر یہ مشکل فریضہ کامیابی سے انجام دیا۔ ان حضرات میں جناب وقار احمد، جناب عامر خورشید، جناب سہیل باوا (ختم نبوت اکیڈمی، لندن)، جناب پروفیسر جمیل احمد عدیل، جناب پروفیسر سمیر ملک، جناب گلراز احمد، جناب السید عقیل انجم (کراچی)، جناب محمد احمد ترازوی (کراچی)، حافظ عبدالقیوم، جناب محمد ہاشم جاوید،

جناب عبداللہ، جناب شہزاد انجم، جناب خالد محمود (سابق یوٹیل کنڈن)،  
 جناب عبدالرؤف اسلام آباد، جناب محمد ضیاء الحق نقشبندی، جناب عین الحق،  
 جناب شوکت علی شاہد (ننگانہ صاحب)، جناب ظفر عباس (ننگانہ صاحب)،  
 جناب سید علی الحسنین بخاری، جناب محمد شاہد حنیف، جناب ظفر اقبال،  
 جناب فضیل کیانی، جناب رفاقت علی تاج، جناب محمد ذاکر، جناب محمد  
 شفیق (شاہدرہ)، جناب اسد اللہ (جڑانوالہ) شامل ہیں۔ ان رفقاء نے کتاب کی  
 تیاری کے سلسلہ میں آنے والی تمام مشکلات میں میرا ہر ممکن ہاتھ بٹایا، قدم قدم پر  
 رہنمائی فرمائی، ہر مرحلہ پر حوصلہ افزائی کی، نہایت مفید مشوروں سے نوازا اور عمدہ  
 تجاویز دیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر مجھے ان احباب کا بھرپور تعاون میسر نہ ہوتا تو  
 شاید یہ کتاب اس قدر جلد شائع نہ ہو پاتی۔ اس کتاب کا انتساب ان دوستوں  
 کے نام کرتے ہوئے میں بے حد فخر و اعجاب محسوس کر رہا ہوں:

۔ کریں کس زباں سے شکر یہ ادا ہم  
 کہ الفاظ کم ہیں عنایت زیادہ



## ترتیب عنوانات

2	چیلنج	✽
5	انتساب	✽
23	توجہ فرمائیں	✽
27	فہرست ٹائٹل کتب	✽
33	حضرت مولانا مفتی جمیل احمد نعیمی ضیائی مدظلہ	✽
42	تقریباً جمیل	✽
42	آئینہ قادیانیت	✽
45	مقابلہ ہے آئینہ!	✽
	محمد متین خالد	

### قادیانی اخلاق

Love for all, Hatred for none

53		
56	لوگوں پر لطف اور رحم	□
57	لوگوں سے نرمی اور احسان کر	□
57	نہایت قابل شرم بات	□
57	اندھے کو اندھا کہنا بھی دل دکھاتا ہے	□
58	اللہ تعالیٰ کا حکم	□
58	تلخ بات	□

- 58 پر لے درجے کا شریر النفس □
- 58 سفلوں اور کینوں کا کام □
- 59 کبھی گالی کا جواب نہیں دیا □
- 59 کبھی دشنام دہی نہیں کی □
- 59 گالی مت دو □
- 59 مجھے تہذیب و اخلاق کے ساتھ بھیجا گیا ہے □
- 60 بدزبانی طریق شرافت نہیں □
- 60 گالیاں سن کے دعا دو □
- 60 سخت زبانی سے برکت جاتی رہتی ہے □
- 60 اہم نکات □
- 61 بندروں اور سوہروں کی طرح □
- 62 خنزیر سے زیادہ پلید لوگ □
- 62 جیسا کہ سنڈاس پاخانہ سے □
- 62 جھوٹ کی نجاست، آسمانی لعنت □
- 63 خدائی لعنت کے دس لاکھ جوتے □
- 63 مرد خنزیر، عورتیں کتیاں □
- 63 ولد الحرام □
- 63 عیسائی، یہودی، مشرک □
- 64 کتوں کی طرح جھوٹ کا مردار کھانے والے □
- 64 خراب عورتیں اور دجال کی نسل □
- 64 پر میشر کی جگہ □



- 65 پیٹ سے چوہا؟
- 65 رحم پر مہر
- 65 عضو تناسل کاٹ دیتا.....
- 66 جہاں سے نکلے تھے.....
- 66 کتھیروں کی اولاد
- 67 ذریعہ البغایا کی تشریح
- 68 حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑویؒ کو گالیاں
- 71 بدتر ہر ایک بد سے
- 80 گالیاں دینے کی وجہ

81

**لعنت بازی**  
مرزا قادیانی کا پسندیدہ مشغلہ

- 83 میں امام الزماں ہوں
- 84 مومن لعان نہیں ہوتا
- 84 10 لعنتیں
- 85 لعنت، لعنت، لعنت..... 1 تا 1000
- 86 10 لاکھ لعنتیں
- 86 جب دل بگڑتا ہے
- 86 یہ خدا کا کلام ہے

87

**قادیانی ڈکشنری**

- 89 اعتراف
- 89 کدو سے مراد قادیان

- 92 ادنیٰ الارض سے مراد قادیان
- 93 دمشق سے مراد قادیان
- 93 قرآن مجید قادیان کے قریب نازل ہوا
- 93 یروشلم سے مراد قادیان
- 94 مقام لُد سے مراد لدھیانہ
- 95 مسجد اقصیٰ سے مراد قادیان کی مسجد
- 95 جہنم سے مراد طاعون
- 95 محدث سے مراد نبوت
- 96 زرد کپڑے سے مراد بیماری
- 98 آدم، احمد، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، مریم سے مراد مرزا قادیانی
- 99 دجال سے مراد بابا اقبال قومیں
- 99 فرعون اور ہامان سے مراد
- 100 ہندو سے مراد
- 100 موت کے معنی فتح
- 100 بیوہ سے مراد
- 101 دلبۃ الارض سے مراد
- 104 دجال کون؟
- 104 مجھ سے خدا تعالیٰ لکھواتا ہے

## 105 مرزا قادیانی کے سفید جھوٹ

- 109 جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے؟
- 110 کتوں کا طریق

- 110 جھوٹ بولنے سے بدتر! □
- 110 جھوٹ بولنے والا کتوں، سورؤں اور بندروں سے بدتر □
- 110 جھوٹ کی نجاست □
- 111 جھوٹ بولنے والا مرتد □
- 111 جھوٹ بولنے والا کجتر اور ولد الزنا □
- 111 لعنت ہے مفتری پر □
- 111 جھوٹ تمام گناہوں کی ماں □
- 111 جھوٹے پر قیامت تک لعنت □
- 112 جھوٹے کی زندگی..... لعنتی زندگی □
- 112 جھوٹ بولنا، مردار خوروں کا کام □
- 112 جھوٹ بولنا اور گوہ کھانا برابر □
- 112 اہم نکات □
- 113 قرآن مجید میں طاعون کا ذکر □
- 114 قرآن مجید میں قادیان کا ذکر □
- 114 نبیوں کی بشارت اور خواہش □
- 115 دنیا کی عمر سات ہزار برس □
- 115 قیامت کب آئے گی؟ □
- 115 بخاری شریف میں □
- 116 سیاہ رنگ کا نبی □
- 117 قرآن میں مثل ابن مریم □
- 117 احادیث میں مثل ابن مریم □
- 117 مسیح موعود اور اس کی توہین □

- 118 انبیاء گذشتہ کے کشوف □
- 118 اولیائے گذشتہ کے کشوف □
- 118 چودھویں صدی کا مجدد □
- 119 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین □
- 120 کرشن نبی، رُڈر گوپال، آریوں کا بادشاہ □
- 120 کتاب سوانح یوسف آرز □
- 121 میرا کوئی استاد نہیں □
- 122 انبیائے کرام اور زرد چادر کی تعبیر □
- 122 ہذا خلیفۃ المہدی □
- 123 میں وہی کہتا ہوں جو خدا نے میرے منہ میں ڈالا □
- 123 اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر اسلام بھی جھوٹا ہے □
- 124 نبیوں کی توہین کرنے والا تحبیث، شیطان اور پلید ہے □
- 125** **مرزا قادیانی کی تضاد بیانیاں**
- 127 ہم اللہ تعالیٰ کے بغیر بلائے نہیں بولتے □
- 128 میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی روح بولتی ہے □
- 128 دو متضاد اعتقاد □
- 128 جھوٹا □
- 128 مخبوط الحواس انسان □
- 129 دو متناقض باتیں □
- 129 پاگل، مجنوں یا منافق □
- 129 اہم نکات □

- 130 خدا تعالیٰ کا قانون قدرت □
- 130 سچ کی قبر □
- 131 دو بکریاں □
- 131 مولوی عبداللطیف قادیانی اور عبدالرحمان قادیانی □
- 132 مرزا احمد بیگ اور اس کا داماد □
- 132 میرا نام غازی ہے □
- 132 غازی نام رکھنا رسول کریم ﷺ کی نافرمانی ہے □
- 133 اندھے کو اندھا کہنا بھی دل دکھانا ہے □
- 133 اندھے کو اندھا کہنا درست ہے □
- 134 سچ موعود کی پیش گوئی اجماع امت ہے □
- 134 سچ موعود کی پیش گوئی اجماع امت نہیں ہے □
- 134 پرندوں کا اڑنا قرآن سے ثابت ہے □
- 135 پرندوں کا اڑنا قرآن سے ثابت نہیں ہے □
- 135 سچ موعود؟ □
- 135 سچ موعود □
- 136 حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی ہیں □
- 136 حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی نہیں ہیں □
- 136 دلۃ الارض سے مراد طاعون □
- 137 دلۃ الارض سے مراد علماء سو □
- 137 آسمان سے □
- 137 آسمان سے نہیں □
- 138 سرسید..... ایک منکر □

- 138 سرسید.....دانا اور مردم شناس
- 138 سرسید.....فراڈیا اور دھوکے باز
- 139 سرسید.....قدر مرداں بعد از مردن
- 140 طاعون کی خواہش
- 140 طاعون سے پناہ
- 140 کبھی گالی کا جواب نہیں دیا
- 140 گالی جوابی طور پر ہے
- 141 میری دادیاں سادات میں سے تھیں
- 141 میری دادیاں مغلیہ خاندان سے تھیں
- 142 اللہ تعالیٰ سے التجا
- 142 انگریز سے التجا
- 142 انگریزی نہیں آتی
- 143 انگریزی پڑھی تھی
- 143 میرے کئی استاد تھے
- 144 میرا کوئی استاد نہیں
- 145 انبیاء کو احکام نہیں ہوتا
- 146 اور احکام ہو گیا.....!
- 146 الہام اپنی زبان میں
- 146 الہام دوسری زبانوں میں
- 146 الہامی کتابوں میں تبدیلی نہیں ہوئی
- 147 الہامی کتابیں تبدیل ہو چکی ہیں

- 147 حضرت مسیح متواضع، حلیم اور عاجز
- 148 حضرت مسیح شرابی، کبابی
- 148 لد ایک گاؤں
- 148 لد، بے جا جھگڑے کرنے والے
- 151 **باپ سچا یا بیٹا؟**
- 153 تائید الہی سے لکھے گئے رسائل
- 154 نبی کریم ﷺ کے والد محترم (مرزا قادیانی کی تحریر)
- 155 مرزا بشیر الدین محمود کا اختلاف
- 155 معجزہ شق القمر (مرزا قادیانی کی تحریر)
- 156 مرزا بشیر الدین محمود کا اختلاف
- 156 اسمہ احمد سے مراد (مرزا قادیانی کی تحریر)
- 157 مرزا بشیر الدین محمود کا اختلاف
- 157 نبی دوسرے نبی کا مطیع (مرزا قادیانی کی تحریر)
- 158 مرزا بشیر الدین محمود کا اختلاف
- 158 نبی کے لیے شرط (مرزا قادیانی کی تحریر)
- 158 مرزا بشیر الدین محمود کا اختلاف
- 159 حضرت مسیح صلیب پر (مرزا قادیانی کی تحریر)
- 159 مرزا بشیر الدین محمود کا اختلاف
- 160 کر مہائے تو مارا کرد گستاخ (مرزا قادیانی کی تحریر)
- 160 مرزا بشیر الدین محمود کا اختلاف

- 160 مسیح موعود صرف مسلمان ہو گا یا نبی بھی (مرزا قادیانی کی تحریر)
- 160 مرزا بشیر الدین محمود کا اختلاف
- 161 حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی (مرزا قادیانی کی تحریر)
- 161 مرزا بشیر الدین محمود کا اختلاف
- 161 باپ جھوٹا
- 162 بیٹا مردود

## قادیانی تحریفات

- 166 میں قرآن کی تفسیر تیار کروں گا
- 166 ملحد اور کافر کون؟
- 167 سخت شریر، بد معاش اور گنڈا؟؟؟
- 167 دجال کون؟
- 167 اللہ تعالیٰ مجھے غلطی پر ایک لمحہ بھی باقی نہیں رہنے دیتا
- 167 روح القدس کی قدسیت ہر وقت ملہم کے تمام قویٰ میں کام کرتی رہتی ہے
- 168 میرے اندر ایک آسمانی روح بول رہی ہے
- 168 جو لوگ خدائے تعالیٰ سے الہام پاتے ہیں، وہ بلائے نہیں بولتے
- 168 میں قرآن کو دوبارہ واپس لاؤں گا
- 169 عیسیٰ لدھیانہ میں آ کر قرآن کی غلطیاں نکالے گا
- 169 اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے صحیح معنی مجھ پر ظاہر کیے
- 169 اللہ تعالیٰ براہین احمدیہ میں فرماتا ہے
- 170 مسیلمہ کذاب کی تحریف قرآن



- 170 مسیلمہ کذاب کی تحریف شدہ آیات □  
 قرآن مجید کی لفظی تحریف □
- 171 (اصل قرآنی آیات اور مرزا قادیانی کی تحریف شدہ آیات)
- 178 قرآن مجید کی معنوی تحریف □
- 181 تحریف منہبی □
- 186 تحریف حدیث □
- 187 اگر تجھے پیدانہ کرتا..... □
- 187 کلمہ طیبہ اور درود شریف میں تحریف □
- 187 مسلمانوں کا کلمہ □
- 187 قادیانیوں کا کلمہ □
- 188 مسلمانوں کا درود شریف □
- 188 قادیانی امت کا درود □
- 189 مرزا قادیانی پر درود و سلام □
- 190 مرزا قادیانی پر درود و سلام کے اعتراض کا قادیانی جواب □
- 191 حضرت مجدد الف ثانیؒ کی تحریر میں تحریف □
- 192 شیخ سعدیؒ کے کلام سے سرقہ □
- 194 مرزا قادیانی کی اپنی تحریروں میں تحریف □
- 198 قرآن مجید میں تحریف کرنے والا ملحد، بے ایمان، یہودی، سورا اور بندر □
- 199 قرآن مجید میں تبدیلی کرنے والا ملحد اور کافر ہے □
- 199 کتابت کی غلطیاں □

## مرزا قادیانی کی پیش گوئیاں (جو پوری نہ ہو سکیں)

205

207

صدق یا کذب جانچنے کا معیار 

208

اگر ایک بھی پیش گوئی جھوٹی نکلی 

208

تمام رسوائیوں سے بڑھ کر 

208

مدعی کاذب کی پیش گوئی 

208

نبیوں کی پیشگوئیاں ٹلتی نہیں 

209

توریت اور قرآن میں نبوت کا ثبوت 

209

اگر کوئی تلاش کرتا کرتا مر بھی جائے 

209

پیش گوئی کا جب انجام ہو یدا ہوگا! 

209

غلط بیانی اور بہتان طرازی راست بازوں کا کام نہیں 

210

کاذب کی پیشگوئی ہرگز پوری نہیں ہوتی 

210

اہم نکات 

211

پہلی پیش گوئی 

211

خواتین مبارکہ 

213

دوسری پیش گوئی 

213

موت مکہ میں ہوگی یا مدینہ میں 

215

تیسری پیش گوئی 

215

مرزا قادیانی کی عمر 

219

چوتھی پیش گوئی

- 219 9 نام والد لڑکا □
- 220 ساڑھے تین ماہ بعد ”الہام“..... لڑکے کے دو نام □
- 221 اسی دن پھر ”الہام“..... لڑکے کے چار نام □
- 222 گیارہ دن بعد پھر الہام..... لڑکے کے 9 نام □
- 222 27 دن بعد لڑکے کے بجائے لڑکی پیدا ہوئی □
- 223 پانچویں پیش گوئی □
- 223 ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیلوی □
- 227 میاں عبدالحکیم خان صاحب اسٹنٹ سرجن پٹیلہ کی میری نسبت پیشگوئی □
- 229 تمام جماعت احمدیہ کے لیے اعلان □
- 231 راست باز کون □
- 233 چھٹی پیش گوئی □
- 233 عبداللہ آتھم □
- 241 ساتویں پیش گوئی □
- 241 بکرو شیب (کنواری یا بیوہ) □
- 245 آٹھویں پیش گوئی □
- 245 چاند و سورج گرہن □
- 269 گرہنوں کا پہلا اجتماع □
- 270 گرہنوں کا دوسرا اجتماع □
- 270 گرہنوں کا تیسرا اجتماع □
- 272 صالح بن طریف برغواطی □
- 272 ابو منصور عیسیٰ □

- 273 علی محمد باب
- 273 مرزا قادیانی
- 274 نویں پیش گوئی
- 274 مولانا ثناء اللہ امرتسری کی موت
- 280 ”مولوی ثناء اللہ صاحب کا قادیان آنا۔“
- 281 مولوی ثناء اللہ کے رقعہ کا جواب
- 287 مولوی ثناء اللہ صاحب (امرتسری) کے ساتھ آخری فیصلہ
- 294 دسویں پیش گوئی
- 294 محمدی بیگم
- 317 خانہ بربادی

### 339 قادیانیوں سے 30 انعامی سوالات

- 341 (1) پہلا سوال..... جھوٹا کون؟؟؟
- 343 باادب گزارش!
- 344 قابل توجہ گورنمنٹ
- 350 اپنی وحی پر یقین
- 350 (2) دوسرا سوال..... قرآن نے میرا نام ابن مریم رکھا؟
- 352 (3) تیسرا سوال..... جہاد، خدا کے حکم سے بند؟
- 352 (4) چوتھا سوال..... بیوہ کا نام؟
- 353 (5) پانچواں سوال..... پچاس الماریاں؟
- 354 (6) چھٹا سوال..... قرآن شریف میں قادیان کا ذکر؟

- 355 (7) ساتواں سوال..... مسلمانوں کی جاسوسی؟
- 356 ”قابل توجہ گورنمنٹ از طرف مہتمم کاروبار تجویز تعطیل جمعہ
- 358 پڑاسرار منی آرڈر
- 359 (8) آٹھواں سوال..... بخاری شریف میں؟
- 359 (9) نواں سوال..... کنجریوں کی اولاد؟
- 361 ”اشتہار نصرت دین و قطع تعلق از اقارب مخالف دین“
- 364 (10) دسواں سوال..... کئی لاکھ پیش گوئیاں؟
- 365 نشان اور معجزہ ایک ہی ہے
- 366 (11) گیارہواں سوال..... حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہودی استاد؟
- 367 (12) بارہواں سوال..... شوخ و شنگ لڑکا؟
- 367 (13) تیرہواں سوال..... گستاخ رسول حرامی ہے؟
- 369 (14) چودھواں سوال..... مرزا قادیانی کی تاریخ پیدائش؟
- 371 (15) پندرہواں سوال..... مرزا قادیانی کی ایک نقش اور شرمناک تحریر؟
- 375 میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا
- 376 (16) سولہواں سوال..... آخری مجدد کون؟
- 377 (17) سترہواں سوال..... خدا تعالیٰ کا الہام؟
- 377 (18) اٹھارہواں سوال..... کینے آدمی کی عادت؟
- 378 (19) انیسواں سوال..... تھیٹر؟
- 379 (20) بیسواں سوال..... پانچ اور پچاس کا قادیانی فرق؟
- 381 (21) اکیسواں سوال..... نماز میں فارسی نظم؟
- 382 (22) بائیسواں سوال..... بلا عنوان؟

- 382 (23) تیسواں سوال..... مسیح موعود اور اس کی توہین؟
- 383 (24) چوبیسواں سوال..... ادھر ادھر؟
- 384 (25) پچیسواں سوال..... ٹیچی ٹیچی؟
- 385 (26) چھبیسواں سوال..... اسلام میں نیچی تو میں؟
- 386 (27) ستائیسواں سوال..... حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور صلیب؟
- 387 (28) اٹھائیسواں سوال..... قادیانی کلمہ کی حقیقت؟
- 388 احمد سے مراد مرزا قادیانی
- 389 (29) انیسواں سوال..... اکھنڈ بھارت؟
- 391 (30) تیسواں سوال..... مرزا قادیانی کی تصویر؟

393

### عکسی شہادتیں

- 395 مجھے ضرور پڑھیے!!!
- 395 مناظرہ کی کتاب
- 395 تبلیغ زبانی نہیں بلکہ تحریر پیش کرنی چاہیے
- 395 غور و فکر کرنے کی نصیحت
- 396 مسخ شدہ لوگوں کی علامت
- 396 تعصب



102258

## توجہ فرمائیں!

- اس کتاب کے 9 ابواب ہیں۔
- ہر باب ایک مختلف موضوع کا مکمل احاطہ کرتا ہے۔
- ان ابواب کے شروع میں قادیانیوں کی متعلقہ گستاخیوں، ہرزہ سرائیوں اور مضحکہ خیزیوں کو نمبر شمار لگا کر ایک ترتیب سے درج کیا گیا ہے۔
- پھر کتاب کے آخر میں اسی ترتیب کے ساتھ اصل قادیانی کتب کے عکس دے دیے گئے ہیں۔ مثلاً ”قادیانی اخلاق“ کے باب میں حوالہ نمبر 31 کا عکسی ثبوت، کتاب کے آخر میں حوالہ نمبر 31 کے تحت فراہم کر دیا گیا ہے۔
- اصل قادیانی کتابوں کے ٹائٹل کا عکس ہر حوالہ کے ساتھ بار بار دینے کے بجائے صرف ایک دفعہ دیا گیا ہے، اس کے لیے دیکھیے صفحہ نمبر 27 تا 30
- اہم معترضہ قادیانی تحریروں کو نمایاں کرنے کے لیے ان کے گرد موٹی آؤٹ لائن لگا دی گئی ہے۔
- قادیانی کتب سے پورے صفحے کا عکس دینے سے قادیانیوں کا یہ اعتراض بھی ختم ہو جاتا ہے کہ ان کی گستاخانہ اور متنازع فیہ عبارات سیاق و سباق سے ہٹ کر بیان کی جاتی ہیں۔
- قارئین کرام سے درخواست ہے کہ اس کتاب میں موجود قابل اعتراض، دل آزار اور توہین آمیز قادیانی عبارات پڑھتے وقت کثرت سے استغفار کریں۔ شکر یہ!







أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ  
بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكٰذِبِينَ.  
أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. وَلَا حَوْلَ وَلَا  
قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ.



پھول بغیر کانٹے کے نہیں ہوتا۔ آپ کتنا ہی نیک کام کیوں نہ  
کریں، نکتہ چین اپنی نیش زنی سے باز نہیں آتے۔ کسی کے عیب  
تلاش کرنے والے کی مثال اُس مکھی جیسی ہے جو سارا  
خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر ہی بیٹھتی ہے۔ چاند کو دیکھ کر  
کتے بھونکا کرتے ہیں اور بھونک بھونک کر یونہی اپنے آپ کو تھکا  
دیتے ہیں۔ حسد کا کوئی علاج نہیں۔ امیر المؤمنین حضرت علی کرم  
اللہ وجہہ کا قول زریں ہے کہ حاسد کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ  
جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ افسردہ ہو جاتا ہے۔

حاسد حسد کی آگ میں ہر دم جلا کرے  
وہ شمع کیا بجھے، جسے روشن خدا کرے



## فہرست ٹائٹل کتب

صفحہ نمبر

397	سنن الدار القطنی	□
398	تذکرہ مجموعہ وحی والہامات (مرزا قادیانی)	□
399	مکتوبات احمد جلد اول (مرزا قادیانی)	□
400	ملفوظات جلد اول (مرزا قادیانی)	□
401	ملفوظات جلد دوم (مرزا قادیانی)	□
402	ملفوظات جلد سوم (مرزا قادیانی)	□
403	ملفوظات جلد چہارم (مرزا قادیانی)	□
404	ملفوظات جلد پنجم (مرزا قادیانی)	□
405	مجموعہ اشتہارات جلد اول (مرزا قادیانی)	□
406	مجموعہ اشتہارات جلد دوم (مرزا قادیانی)	□
407	سیرت المہدی جلد اول (مرزا بشیر احمد ایم اے)	□
408	سیرت المہدی جلد دوم (مرزا بشیر احمد ایم اے)	□
409	سیرت المہدی جلد سوم (مرزا بشیر احمد ایم اے)	□
410	ریویو آف ریلیجنز، کلمۃ الفصل (مرزا بشیر احمد ایم اے)	□

- 411 انجام آتھم (مرزا قادیانی) □
- 412 ضرورت الامام (مرزا قادیانی) □
- 413 شخہ حق (مرزا قادیانی) □
- 414 آسمانی فیصلہ (مرزا قادیانی) □
- 415 براہین احمدیہ (چہار حصے) (مرزا قادیانی) □
- 416 ست بچن (مرزا قادیانی) □
- 417 مواہب الرحمن (مرزا قادیانی) □
- 418 ازالہ اوہام (مرزا قادیانی) □
- 419 کشتی نوح (مرزا قادیانی) □
- 420 اربعین (مرزا قادیانی) □
- 421 براہین احمدیہ حصہ پنجم (مرزا قادیانی) □
- 422 نجم الہدیٰ (مرزا قادیانی) □
- 423 انوار الاسلام (مرزا قادیانی) □
- 424 نزول المسیح (مرزا قادیانی) □
- 425 نور الحق (مرزا قادیانی) □
- 426 چشمہ معرفت (مرزا قادیانی) □
- 427 حقیقت الوحی (مرزا قادیانی) □
- 428 آئینہ کمالات اسلام (مرزا قادیانی) □
- 429 اعجاز احمدی (مرزا قادیانی) □
- 430 حجۃ اللہ (مرزا قادیانی) □

- 431 قادیان کے آریہ اور ہم (مرزا قادیانی) □
- 432 تحفہ الندوہ (مرزا قادیانی) □
- 433 الہدیٰ (مرزا قادیانی) □
- 434 خطبہ الہامیہ (مرزا قادیانی) □
- 435 روحانی خزائن جلد 18 (مرزا قادیانی) □
- 436 تذکرہ الشہادتین (مرزا قادیانی) □
- 437 حملہ البشریٰ (مرزا قادیانی) □
- 438 حقیقت الہدیٰ (مرزا قادیانی) □
- 439 تحفہ گولڑویہ (مرزا قادیانی) □
- 440 لیکچر سیالکوٹ (مرزا قادیانی) □
- 441 نشان آسمانی (مرزا قادیانی) □
- 442 ایام اصلاح (مرزا قادیانی) □
- 443 شہادۃ القرآن (مرزا قادیانی) □
- 444 پیغام صلح (مرزا قادیانی) □
- 445 کرامت الصادقین (مرزا قادیانی) □
- 446 سراج منیر (مرزا قادیانی) □
- 447 کشف الغطاء (مرزا قادیانی) □
- 448 تریاق القلوب (مرزا قادیانی) □
- 449 البلاغ (مرزا قادیانی) □
- 450 کتاب البریہ (مرزا قادیانی) □

- 451 در شین (مرزا قادیانی) □
- 452 دافع البلاء (مرزا قادیانی) □
- 453 سر الخلافہ (مرزا قادیانی) □
- 454 توضیح مرام (مرزا قادیانی) □
- 455 ایک غلطی کا ازالہ (مرزا قادیانی) □
- 456 تحفہ بغداد (مرزا قادیانی) □
- 457 استفتاء (مرزا قادیانی) □
- 458 آریہ دھرم (مرزا قادیانی) □
- 459 جنگ مقدس (مرزا قادیانی) □
- 460 ستارہ قیصرہ (مرزا قادیانی) □
- 461 انوارِ خلافت، انوار العلوم جلد 3، (مرزا بشیر الدین محمود) □
- 462 تفسیر کبیر (مرزا بشیر الدین محمود) □
- 463 تفسیر صغیر (مرزا بشیر الدین محمود) □
- 464 حقیقت النبوة، انوار العلوم جلد 2 (مرزا بشیر الدین محمود) □
- 465 حیات احمد (یعقوب علی عرفانی قادیانی) □
- 466 حیات ناصر (یعقوب علی عرفانی قادیانی) □
- 467 مجدد اعظم (ڈاکٹر بشارت احمد قادیانی) □
- 468 منظور الہی (محمد منظور الہی قادیانی) □
- 469 Africa Speaks (قادیانی خلیفہ مرزا ناصر کا دورہ افریقہ) □



حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے فرمایا:

عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سيكون في امتي كذابون ثلثون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. (مسلم شریف)

ترجمہ: ”حضرت ثوبان روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ قریب ہے کہ میری امت میں تیس جھوٹے پیدا ہوں گے جن میں سے ہر ایک یہی کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:

”خبردار! کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے۔ کیوں کہ بہترے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے: میں مسیح ہوں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔“  
(متی باب 24 فقرہ 5)







## تقریظِ جمیل

### ”ثبوت حاضر ہیں“

### قادیانی کفریہ عقائد و عزائم کا مستند دستاویزی ثبوت

عقیدہ ختم نبوت اسلام کا وہ بنیادی اور مرکزی عقیدہ ہے جس میں معمولی سا شبہ بھی کفر ہے، امام اعظم حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ”جو شخص کسی جھوٹے بدعی نبوت (نبوت کا دعویٰ کرنے والا) سے دلیل طلب کرے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔“ کیونکہ دلیل طلب کر کے اُس نے اجرائے نبوت کے امکان کا عقیدہ رکھا اور یہی کفر ہے، عقیدہ ختم نبوت اسلام کی بنیاد و اساس ہے جس پر مکمل ایمان رکھے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، قرآن مجید کی 100 کے قریب آیات اور 200 سے زائد احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، آپ ﷺ کے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں، تمام صحابہ کرام، تابعین عظام، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور چودہ صدیوں کے مفسرین، محدثین، متکلمین، علماء اور صوفیاء سمیت پوری امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع رہا ہے کہ حضور اکرم ﷺ کی بعثت کے ساتھ ہی نبوت و رسالت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے بند ہو گیا ہے اور آپ ﷺ کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کی ضرورت باقی نہیں رہی، لہذا اب اگر کوئی شخص کسی بھی معنوں میں دعویٰ نبوت کرتا ہے تو وہ بالاتفاق امت کافر و مرتد، کذاب و دجال اور دائرہ اسلام سے خارج قرار پاتا ہے۔

خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں، آپ ﷺ کے

بعد کسی شخص کو اس منصب پر فائز نہیں کیا جائے گا، قرآن مجید میں ہے ”ماکان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین“ (الاحزاب 40) ”محمد ﷺ تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔“ تمام ائمہ و مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں ”خاتم النبیین“ کے معنی ہیں کہ ”آپ ﷺ آخری نبی ہیں“ آپ ﷺ کے بعد کسی کو ”منصب نبوت“ پر فائز نہیں کیا جائے گا۔

جس طرح قرآن کریم کی نصوص قطعیہ سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہے، بالکل اسی طرح یہ عقیدہ حضور ﷺ کی احادیث متواترہ سے بھی ثابت ہے، آپ ﷺ فرماتے ہیں ”میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔“ (ابوداؤد جلد 2، ص: 228) ”مجھے تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا اور مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔“ (مشکوٰۃ، 512) ”رسالت و نبوت ختم ہو چکی ہے پس میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ نبی۔“ (ترمذی، جلد 2، ص: 51) ”میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔“ (ابن ماجہ: 297)

ان ارشادات نبوی میں اس امر کی تصریح فرمادی گئی ہے کہ آپ ﷺ آخری نبی اور رسول ہیں اور آپ ﷺ کی امت آخری امت، آپ ﷺ کا قبلہ آخری قبلہ، آپ ﷺ پر نازل شدہ کتاب آخری آسمانی کتاب ہے، یہ سب آپ ﷺ کی ذات مبارکہ کے ساتھ منصب ختم نبوت کے اختصاص کے تقاضے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے پورے کر دیے، چنانچہ قرآن مجید کو ”ذکر للعالمین“ اور بیت اللہ شریف کو ”ہدی للعالمین“ کا اعزاز بھی آپ ﷺ کی ختم نبوت کے صدقے میں ملا، ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباسؓ ”تفسیر ابن عباس“ میں فرماتے ہیں، ”نختم الله به النبیین قبله فلا یكون نبی بعده“ ”خاتم“ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ ﷻ نے سلسلہ انبیاء حضور اکرم ﷺ کی ذات اقدس پر ختم فرمادیا ہے، پس آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔“ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب ”خصائص کبریٰ“ میں آپ ﷺ کا خاتم النبیین ہونا، آپ ﷺ کی خصوصیت قرار دیا ہے، امام اہلسنت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ”حضور پر نور خاتم النبیین سید المرسلین ﷺ کا خاتم یعنی بعثت میں آخر جمیع انبیاء و مرسلین بلا تاویل و بلا تخصیص

ہونا ضروریات دین سے ہے، جو اس کا منکر ہو یا اس میں ادنیٰ شک و شبہ کو بھی راہ دے، کافر مرتد ملعون ہے۔“ (فتاویٰ رضویہ جلد 6- ص 57)

چنانچہ ان تصریحات، تشریحات اور دلائل و اقوال سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور اکرم ﷺ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک نبوت و رسالت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، اس لیے حضور اکرم ﷺ کے بعد جو شخص بھی نبوت و رسالت کا دعویٰ کرے اور پھر اس دعوے کے بارے میں کتنی ہی تاویلیں کیوں نہ کرے، اپنی نبوت کو ظلی، بروزی، تشریحی، غیر تشریحی، یا لغوی ثابت کرنے کیلئے لاکھ جتن کرے، لیکن اسے کافر، مرتد اور زندیق ہی قرار دیا جائے گا، چنانچہ اب آپ ﷺ کے بعد کسی کو اس منصب پر فائز نہیں کیا جائے گا، آپ ﷺ سے پہلے جتنے انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، ان میں سے ہر نبی نے اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دی اور گزشتہ انبیاء علیہم السلام کی تصدیق کی، آپ ﷺ نے گزشتہ انبیاء علیہم السلام کی تصدیق تو فرمائی مگر کسی نئے آنے والے نبی کی بشارت نہیں دی، بلکہ فرمایا ”قیامت اُس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 کے قریب دجال اور کذاب پیدا نہ ہوں، جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔“ ایک اور ارشاد مبارک ہے کہ ”قریب ہے کہ میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں، ہر ایک یہی کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔“ ان ارشادات میں حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے ایسے ”مدعیان نبوت“ کیلئے دجال اور کذاب کا لفظ استعمال فرمایا، جس کا معنی ہے کہ ”وہ لوگ شدید دھوکے باز اور بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے ہوں گے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے مسلمانوں کو اپنے دامن فریب میں پھنساتیں گے۔“ لہذا امت کو خبردار کر دیا گیا کہ وہ ایسے عیار و مکار جھوٹے مدعیان نبوت اور ان کے ماننے والوں سے دور رہیں، آپ ﷺ کی اس پیشگوئی کے مطابق عہد رسالت مآب ﷺ سے لے کر آج تک سینکڑوں کذاب اور دجال مدعیان نبوت پیدا ہوئے، جن کا حشر تاریخ اسلام سے واقفیت رکھنے والے خوب جانتے ہیں۔

لیکن بیسویں صدی میں فرنگی سرپرستی میں قادیان کے ایک ضمیر فروش مرزائے

قادیانی نے جس نبوت کا ذبہ کا دعویٰ کیا، اُس کا لازمی نتیجہ یہی نکلتا تھا کہ جو بھی شخص مرزا کی نبوت پر ایمان نہ لائے وہ کافر قرار دیا جائے، چنانچہ قادیانیوں نے بھی یہی کیا، انہوں نے اُن تمام مسلمانوں کو اپنی تحریر و تقریر میں اعلانیہ کافر قرار دیا، جنہوں نے مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانا، قادیانیوں کا مسلمانوں سے اختلاف صرف مرزا کی نبوت کے معاملے میں ہی نہیں تھا، بلکہ خود قادیانیوں نے اپنا خدا، اپنا اسلام، اپنا قرآن، اپنی نماز، اپنا روزہ، غرض کہ اپنی ہر چیز مسلمانوں سے الگ قرار دی، جس کا منطقی نتیجہ ظاہر ہے کہ اُن کے غیر مسلم اقلیت ہونے کی شکل میں نکلا، مرزا قادیانی نے اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، برصغیر میں مرزا کی عجمی نبوت کا مقصد انگریزی اقتدار کی مضبوطی کیلئے مسلمانوں کی فکری وحدت کو پارہ پارہ کرنا اور جذبہ جہاد کا خاتمہ تھا، مرزا کی ساری زندگی انگریز کی حاشیہ برداری میں گزری، اُس نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ حکومت برطانیہ کی مدح سرائی اور جاسوسی میں صرف کیا، انگریز کا دور حکومت مرزا کے نزدیک ”سایہ رحمت اور ایسے امن و استحکام کا باعث تھا، جو اُسے مکہ و مدینہ میں بھی نہیں مل سکتا۔“ ایسی صورت میں مرزا کے قبیحین یہ کب گوارا کرتے کہ انگریز اس سرزمین سے چلے جائیں، چنانچہ مرزا کی جماعت نے برصغیر میں انگریز کے قیام کو طول دینے کیلئے اُسے ہر ممکن مدد و معاونت فراہم کی، حقیقت یہ ہے کہ قصر نبوت میں نقب لگانے کی کوشش کرنے والے مرزا کی ذریت نے ”اکھنڈ بھارت“ کے خواب کو عملی جامہ پہنانے کیلئے تحریک پاکستان کی ہی مخالفت نہیں کی بلکہ انہوں نے قیام پاکستان کے بعد بھارت و اسرائیلی گٹھ جوڑ سے عالمی سطح پر پاکستان کے خلاف سازشیں کر کے وجود پاکستان کو نقصان پہنچانے میں بھی کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا۔

یہاں یہ تاریخی حقیقت بھی پیش نظر رہے کہ قادیانیت کے خلاف تحریک تحفظ ختم نبوت کی رہبری و قیادت میں علماء و مشائخ اہلسنت ہمیشہ پیش پیش رہے، علمائے اہلسنت و جماعت کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ سب سے پہلے مومنانہ فراست سے کام لیتے ہوئے مرزا کے کفر و نفاق اور اُس کے مزموم عقائد کا پردہ چاک کر کے اُس کا اُس وقت زبردست رد کیا، جس وقت کچھ لوگ مرزائے قادیانی کو ”مرد صالح“ اور اُس کی کتاب ”براہین احمدیہ“ کو

صدی کا شاہکار قرار دے رہے تھے، عین اسی وقت علمائے حق اہلسنت و جماعت کے نمائندے عارف کامل ”علامہ غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ“ مرزا قادیانی کی کتاب ”براہین احمدیہ“ میں کئے گئے مرزا کے دعوؤں کا بطلان اپنی کتاب ”رجم الشیاطین براغلو طات البراہین“ میں پیش کر کے اُس کے کفر و گمراہی کا پردہ چاک کیا، علامہ غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ برصغیر کے سب سے پہلے عالم دین تھے جنہوں نے مرزا کی کتاب ”براہین احمدیہ“ کے ابتدائی حصے پڑھ کر اُس کے کفر گمراہی کو بھانپ لیا تھا اور انہوں نے بروقت اس فتنے کا رو کر کے برصغیر کے مسلمانوں کو مرزا کے ناپاک عزائم سے آگاہ کیا، حقیقت یہ ہے کہ تعاقب فتنہ قادیانیت کے سب سے پہلے سرخیل علامہ غلام دستگیر ہاشمی قصوری سے لے کر پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی، حجۃ الاسلام علامہ حامد رضا خاں، امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب، مبلغ اسلام علامہ شاہ عبدالعلیم صدیقی، پروفیسر محمد الیاس برنی، قاضی فضل احمد لدھیانوی، تاج العلماء مولانا مفتی عمر نعیمی، مفتی مظفر احمد دہلوی، قائد تحریک ختم نبوت 1953ء علامہ ابوالحسنات سید محمد احمد قادری، مجاہد ملت حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی، غازی تحریک ختم نبوت 1953ء سید ظلیل احمد قادری، حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی، مفتی ظفر علی نعمانی، صوفی محمد ایاز خان نیازی اور علامہ عبدالمصطفیٰ الازہری، رحمہم اللہ تعالیٰ اجمعین تک ہزاروں علماء و مشائخ اہلسنت شامل ہیں، لیکن عصر حاضر میں جس کے نام پر قادر مطلق نے تحریک ارتداد قادیانیت کا سہرا مقدر فرمایا، وہ شخصیت حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، تاریخ اسلام میں ریاست و مملکت کی سطح پر فتنہ انکار ختم نبوت کو کفر و ارتداد قرار دینے اور اُس کے خلاف سب سے پہلے علم جہاد بلند کرنے کا اعزاز جانشین رسول خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا اور اُن کے بعد یہ اعزاز انہی کی اولاد امجاد میں علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی کو نصیب ہوا۔

علامہ شاہ احمد نورانی نے 30 جون 1974ء کو قومی اسمبلی میں قادیانیت کے خلاف قرارداد پیش کرنے سے لے کر اُس کی منظوری تک نہایت ہی محنت و جانفشانی سے کام کیا، اس دوران آپ نے قومی اسمبلی کے اجلاسوں میں باقاعدگی سے شرکت کے ساتھ، اراکین

اسمبلی کو اعتماد میں لینے، انہیں مسئلہ ختم نبوت کی اہمیت و حیثیت سے روشناس کرانے، رات گئے تک اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار کے ساتھ قادیانیوں سے پوچھے جانے والے سوالات کی تیاری کے ساتھ، مرزا ناصر اور صدرالدین لاہوری کے محضر نامے کے جواب میں 75 سوالات پر مشتمل سوالنامہ کی تیاری میں بھی بھرپور حصہ لیا، آپ نے قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی اور رہبر کمیٹی کے رکن ہونے کے باوجود عوامی رائے عامہ، ہموار کرنے کیلئے ملک بھر کے طوفانی دوروں میں چالیس ہزار میل کا سفر طے کیا اور ڈیڑھ سو سے زائد شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں عوامی جلسوں سے خطاب کر کے مسلمانوں کو قادیانیوں کے گمراہ کن عقائد، فتنہ پردازوں اور شرانگیزیوں سے آگاہ کیا، پاکستان کی تاریخ میں اسمبلی فلور پر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کیلئے سب سے پہلے مسلمان کی تعریف کو آئین کا حصہ بنانے کا مطالبہ کرنے والے علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی کی پیش کردہ قرار کے نتیجے میں 7 ستمبر 1974ء کو ملک کی منتخب پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو ان کے کفریہ عقائد کی بناء پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا اور یوں نوے سالہ فتنہ اپنے منطقی انجام کو پہنچا۔

علماء اسلام کی گرفت اور پارلیمنٹ کے متفقہ فیصلے کے بعد قادیانی جماعت نے اپنے لٹریچر کو چھپانے کی منظم کوشش کی اور اپنے اسلام دشمن عقائد پر ترقیہ کا پردہ ڈال کر اہل اسلام میں نقب زنی کا عمل جاری رکھا، ایسے میں ضرورت اس امر کی تھی کہ قادیانیت کے کفر و ارتداد کو مستند شہادتوں کے ساتھ عوام کے سامنے لایا جائے اور شہادتیں بھی ایسی کہ ناقابل تردید ہوں، لیکن مجبوری یہ تھی کہ قادیانی لٹریچر تک عوام تو کجا خواص کی بھی رسائی آسان نہیں تھی اور اگر خوش قسمتی سے قادیانی کتب و رسائل دستیاب ہو بھی جائیں تو قادیانی اپنے لٹریچر کے ہر نئے ایڈیشن میں تحریف کا فریضہ باقاعدگی سے سرانجام دیتے رہتے ہیں، پھر دور جدید میں عوام کے پاس وقت کی بڑی قلت ہے کہ مرزائی لٹریچر کی ورق گردانی کر کے اس میں سے حقائق تلاش کریں، جہاں تک قادیانی لٹریچر کے مطالعہ کا اتفاق ہوا، ہمیں ان میں اجراء نبوت و وفات مسیح کی کج بحثیوں، جھوٹے الہامات، نہ پوری ہونے والی پیشین گوئیوں، علماء و مشائخ کے خلاف دشنام طرازیوں، سیدنا مسیح علیہ السلام پر توہین آمیز تمترے، پادری عبداللہ آقہم سے

ہونے والے مناظرے اور محمدی بیگم کی مناکت کی جھوٹی تاویلات کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا، علم و حکمت ہو بھی تو کیونکر، کہ خدا جب ایمان لیتا ہے تو عقل و حکمت چھین لیتا ہے مرزا کے ساتھ بھی یہی ہوا، آج مرزا اور اُس کے قبعین دین و دنیا دونوں میں ذلیل و خوار اور راندہ درگاہ ہیں، مرزا کے رنگ برنگے ماضی، اُس کے جھوٹے دعوؤں، تحریروں، جھوٹی وحی و الہامات اور پیشین گوئیوں کا تجزیہ ہمیں یہ نتیجہ اخذ کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ وہ ایک باخبر کذاب تھا اور وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی دھوکہ دے رہا تھا، اُس نے خدا کے نام اور جعلی نبوت کو سامراجی مقاصد کی تکمیل میں استعمال کیا اور اُس کے اس تمام کاروبار کا مقصد، ذاتی عظمت اور مذہب کے نام پر دولت و شہرت اکٹھی کرنا تھا، قادیانیوں کی انجیل ”تذکرہ“ میں وہ لغویات اور احمقانہ پن ہے جو کسی اہم شخص کی سوانح عمری اور تاریخ میں ہرگز نہیں ملتا، مرزا قادیانی کی جھوٹی وحی عربی، اردو، فارسی، انگریزی، عبرانی، ہندی اور پنجابی زبان میں ہے، زبان گھٹیا، مبہم، عامیانہ، گندی اور غلط ہے، حقیقت میں اُس کا بڑا حصہ لغو اور بے معنی فقرات پر مشتمل ہے، جس کے کوئی واضح معانی نہیں ہیں، پھر بھی قادیانی ذریت اُس کے بیانات کی مختلف تاویلات پیش کر کے مرزا کی جھوٹی نبوت ثابت کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔

چنانچہ وقت کی اس اہم ترین ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے معروف سکالر محمد متین خالد زید مجدہ نے علماء کرام اور نامور اہل علم و دانش کی سرپرستی میں برسوں کی انتھک محنت کے بعد زیر نظر شاندار ضخیم کتاب ”ثبوت حاضر ہیں!“ ترتیب دی ہے، یہ اپنی نوعیت کی منفرد اور شاہکار کتاب ہے جس میں قادیانیوں کی اسلام کے خلاف ہرزہ سرائیوں، مضحکہ خیزیوں اور کفریہ عقائد و عزائم کو مستند عکسی و دستاویزی شہادتوں کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، یہاں یہ امر واضح رہے کہ عکسی ثبوت شائع کرنے کے حوالے سب سے پہلا کام علامہ محمد منشا تابش تصوری صاحب (مدرس جامعہ نظامیہ لاہور) نے ”دعوت فکر“ میں کیا تھا، دعوت فکر اس حوالے سے پہلی کتاب ہے، جس میں متنازعہ تحریروں کے عکسی ثبوت کو بطور حوالہ استعمال کیا گیا تھا، اس کتاب کی اشاعت سے قبل صرف حوالے شائع کیے جاتے تھے عکسی ثبوت نہیں، جنہیں اصل کتاب

سامنے نہ ہونے کی وجہ سے مخالفین با آسانی جھٹلا دیتے تھے، لیکن اب متنازعہ تحریروں کے عکسی ثبوت بمعہ اصل حوالوں کی موجودگی میں راہ فرار ممکن نہیں رہا، نوجوان سکالر محمد متین خالد نے اصل عکسی ثبوت کے ساتھ ”ثبوت حاضر ہیں!“ ترتیب دے کر قادیانیوں کے متعلق نادر و نایاب معلومات، حیرت انگیز سنسنی خیز انکشافات اور اسلام دشمن مذموم سرگرمیوں کے تمام خفیہ گوشے بے نقاب کر دیئے ہیں، انہوں نے قادیانیوں کے مذموم عقائد و عزائم کے عکسی ثبوت یکجا کرنے کیلئے قادیانی کتب و رسائل اور اخبارات کے 50 ہزار سے زائد صفحات کھنگالنے کے بعد بڑی محنت اور خوبی سے یہ کتاب ترتیب دی ہے، جس کی موجودگی میں اب قادیانیوں کیلئے کسی بھی قسم کے انکار، تاویل اور فرار کی گنجائش آسان نہیں رہی ہے۔

اپنے موضوع کے اعتبار سے یہ ایک ایسی بلند پایہ تحقیقی کتاب ہے، جو قادیانی کفریہ عقائد و عزائم کا مستند دستاویزی ثبوت فراہم کرتی ہے، ہماری نظر میں دور حاضر میں قادیانیت کے مذموم عقائد و عزائم اور اس کی اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے پروفیسر محمد الیاس برنی کی کتاب ”قادیانی مذہب کا علمی محاسبہ“ کے بعد جدید کتب میں اس سے بہتر کتاب کوئی نہیں ہے، یہ کتاب اپنی تحقیق کے لحاظ سے ایک ایسی کتاب ہے جس کا مطالعہ قادیانیوں کیلئے راہ ہدایت کا سبب بن سکتا ہے، اس کتاب کا مطالعہ علماء، خطباء، وکلاء، اساتذہ اور طلبہ کو فتنہ قادیانیت کے خلاف مضبوط دلائل اور ٹھوس معلومات کا ذخیرہ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ قادیانیت کے خلاف بحث و مناظرہ میں مستند حوالوں کے علاوہ عدالتی کارروائی میں بھی بطور ثبوت پیش کیا جاسکتا ہے، درحقیقت ایسی کتاب وقت کی اہم ضرورت تھی، جسے جناب محمد متین خالد صاحب نے بروقت پورا کیا ہے، فاضل مؤلف کی اس کوشش و کاوش نے قادیانیت کی حقیقی گھناؤنی تصویر اور اسلام دشمن شرمناک کردار ہر قاری کے سامنے رکھ دیا ہے، موصوف کی یہ کوشش جہاں حقیقت اور اعتدال پسندی کی مظہر ہے، وہاں غیر جانب دار رویہ کی بھی عکاس ہے، ہم اس اعلیٰ کوشش پر مؤلف زید محمد ہم اور ان کے معاونین و محبین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ﷻ مؤلف کی اس کوشش و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر توشہ آخرت بنائے، ان کے علم و عمل، مرتبے و مقام میں خیر و برکت عطا فرمائے اور



فتنہ قادیانیت کی سرکوبی اور بیخ کنی کیلئے ہمیں بھی اپنے اسلاف کی طرح سرفروشانہ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین بحرمتہ خاتم النبیین سید المرسلین علی وآلہ واصحابہ اجمعین)

سماں کی رانی مجاہدین ختم نبوت

**احقر جمیل احمد نعیمی ضیائی**

(ناظم تعلیمات، دارالعلوم نعیمیہ کراچی)

جمعرات یکم رمضان المبارک ۱۴۳۱ھ / 12 اگست 2010ء



## آئینہ قادیانیت

جنوری 2003ء کی بات ہے کہ خاکسار صرف قادیانی مذہب کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی کی ہی تصانیف کے کئی برسوں کے مطالعہ کے بعد اس نتیجہ پر پہنچ چکا تھا کہ یہ ایک نیا مذہب ہے اور قرآن مجید کی تعلیمات کے خلاف ہے، اب میں کسی وقت بھی اعلان کرنا چاہتا تھا کہ میرا اس خود ساختہ مذہب سے کوئی تعلق نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے دین، اسلام سے تعلق ہے، لیکن اس سے قبل چونکہ میرا مسلم سکالرز کی قادیانی مذہب پر لکھی جانے والی کتاب کا کوئی مطالعہ نہیں تھا، خاکسار نے ایک مسلمان دوست سے کہا کہ کیا وہ مجھے اس مذہب پر مسلم سکالرز کی کچھ کتب مہیا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے، اس نے چند کتابیں مہیا کیں، جن میں جناب محمد متین خالد صاحب کی شہرہ آفاق کتاب ”ثبوت حاضر ہیں“ بھی تھی۔ خاکسار نے جب اس کتاب کو دیکھا تو پہلی نظر میں ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں، بلکہ ایک ایسی کبھی نہ کند ہونے والی تیز دھار تلوار ہے جس کی کاٹ ہمیشہ قادیانی مریدان و معلمین کو لرزہ بر اندام رکھے گی۔ شرط صرف اس کو استعمال کرنے کی ہے۔ اس کتاب نے نہ صرف میرے نتائج کی تصدیق کی بلکہ مجھ پر بہت سے قادیانی عقائد و معاملات کو نئے زاویوں سے واضح کرنے میں مددگار ثابت ہوئی۔ خاکسار کے دل میں جناب متین خالد صاحب کے دیدار کی خواہش پیدا ہوئی، بعد میں جب دوسری کتابوں کے مطالعہ کا موقع ملا تو مجھ پر اس کتاب کی اہمیت مزید واضح ہوئی، کیونکہ اکثر کتابیں عالمانہ رنگ میں تھیں، جن سے بحث و مباحثہ میں زیادہ تر ایک عالم ہی فائدہ اٹھا سکتا تھا، لیکن ”ثبوت حاضر ہیں“ کا کمال یہ ہے کہ ایک عام آدمی بھی جس کو بات کرنے کا سلیقہ ہو، استعمال کرتے ہوئے قادیانیوں کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکال سکتا ہے۔ اس طرح میرے دل میں بھی ”بزرگ“ سکالر جناب متین خالد صاحب کی زیارت کا شوق دو آتھ ہو گیا اور متین خالد صاحب کی کچھ دوسری

تصنیفات مطالعہ میں آئیں تو شوق دید کئی آتو ہو گیا۔ اس اثناء میں خوش قسمتی سے ٹیلیفون پر رابطہ ہوا تو آواز بجائے بزرگ کے جوان سی لگی۔ میں نے مولانا جناب سہیل باوا صاحب (لندن) سے کہا کہ ماشاء اللہ، جناب متین خالد صاحب کی ہمت ہی نہیں بلکہ آواز بھی جوانوں جیسی ہے، جواب میں وہ کہنے لگے کہ وہ ماشاء اللہ جوان ہیں، میں نے بھی اس سکھ کی طرح (جس کو لوگ صحیح بات بتا رہے تھے لیکن وہ سمجھ رہا تھا کہ میں سکھ ہوں اور یہ سب مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کی بات مان کر میں بھی بیوقوف نہیں بنوں گا) سوچا کہ نیا نیا اس طرف آیا ہوں، مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ (سکھ کی طرح شاید اس لیے سوچا کہ جس مذہب میں 55 سال گزارے ہیں، اس مذہب کے بانی اگر صحیح نہیں تو کم از کم شکل و صورت سے سکھ ہی تھے، بیشک تصویر دیکھ لیں اور کسی سکھ سے موازنہ کر لیں)، خاکسار نے جواب میں کہا کہ کیا بات کر رہے ہیں، اتنا تحقیقی اور پائیدار کام، جس کے لیے ایک عمر اور مہارت چاہیے، کیا ایک جوان آدمی کا کام ہے؟ انہوں نے متین خالد صاحب کے بارے میں کچھ اور بھی تذکرہ کیا جس نے میرے شوق دید پر، ”جلتی پرتیل“ کا کام کیا اور رشک بھی آیا کہ ایسی توفیق خدا کی ہی عنایت ہے جس کو بھی دے۔ اور دل سے یہی دعا نکلی کہ اللہ تعالیٰ اس توفیق میں اپنی قدرت سے اضافہ کرے اور ان کی تحریروں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہدایت کا سبب بنائے۔ آمین!

ستمبر 2004ء میں خاکسار کو پاکستان جانے کی توفیق ہوئی، جناب متین خالد صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ ایئر پورٹ پر آ کر میری عزت افزائی کریں گے۔ جب رات کے دو بجے لاہور ایئر پورٹ پر پہنچا تو جناب سید کفیل بخاری شاہ صاحب، جناب عبدالطیف چیمہ صاحب، جناب ثاقب خورشید صاحب، جناب لیاقت علی صاحب اور کئی دوسرے احباب کے ساتھ میرے محترم دوست جناب متین خالد صاحب بھی استقبال کرنے والوں میں موجود تھے۔

باشرع، متین و پرکشش چہرہ، مناسب لباس میں ”باوقار بزرگ“ متین صاحب سے ملاقات کا اعزاز حاصل ہوا، اور دل میں خیال آیا کہ عمر کی بزرگی تو ایک رسمی بات ہے، اصل بزرگی نیک اور پائیدار کام میں ہے، جو محض خدا کے فضل سے حاصل ہوتی ہے اور جوانی میں بھی مل جاتی ہے۔ اور ساتھ ہی دعا نکلی کہ اے اللہ اس کے نیک کام کا اجر اور عزت جناب متین خالد صاحب کی اگلی نسلوں کو بھی منتقل کرنا، آمین۔ میری بد قسمتی کہ اچانک بیماری کی وجہ سے جرمنی واپس لوٹنا پڑا، جس کی وجہ سے تفصیلی ملاقات اور کچھ سیکھنے کی سعادت حاصل نہ ہو سکی، لیکن

میرے لیے یہ بھی خوشی و اطمینان کی بات تھی کہ ملاقات تو ہوئی۔ الحمد للہ  
 اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جناب متین خالد صاحب کی کوششوں میں برکت ڈالے  
 اور ان کی کتابوں بالخصوص ”ثبوت حاضر ہیں“ کو زیادہ سے زیادہ سے لوگوں کے لیے راہ  
 ہدایت کا موجب بنائے اور ان کی نسلوں کو بھی برکتوں اور فضلوں سے نوازے۔ (آمین) میں  
 اپنے لیے بھی دعا کا خواستگار ہوں کہ خدا مجھے بھی بہتر سے بہتر رنگ میں اسلام کی خدمت اور  
 قادیانیت کے فریب کو آشکارہ کرنے کی توفیق دے۔ آمین!

شیخ راہیل احمد

(جرمنی)



## مقابل ہے آئینہ!

یہ قدرت کے فیصلے ہیں کہ کس سے کیا کام لینا ہے! اپنے عملی سفر کی شروعات سے شاید میرے سان گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ مجھے نبوت محمد ﷺ کے باغیوں اور منکرین ختم نبوت، قادیانیوں سے مدت العمر برسر پیکار رہنا پڑے گا۔ میں حضور شفیع المذنبین، سید المرسلین، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کا نہایت ادنیٰ امتی ہوں۔ آپ ﷺ کے دربار کی عزت و ناموس اور عظمت کا تحفظ میری اولین ایمانی ذمہ داری ہے۔ اگر مولائے کائنات ﷺ نے مجھ عاجز کو عملی محاذ پر ایک سپاہی بنا کر متعین فرمایا ہے تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ سب میرے آقا و مولا ﷺ کی کرم فرمائی اور نگاہ التفات ہے، البتہ اس اعزاز پر نازاں ہونے کا حق مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔

ظہور اسلام کے ساتھ ہی طاغوتی توانائیاں اپنے پورے کروفر کے ساتھ فعال ہو گئی تھیں..... ”یہ (نادان) چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں لیکن اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا کر رہے گا، اگرچہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔“ (القصف: 8)!

چنانچہ مشیت ایزدی اپنے رُسل کے غلبے کو یقینی بنانے کے لیے سدا متحرک رہی ہے۔ انبیا کی مخالف قوتیں اپنے تمام تر کروفر کے باوجود اپنے ہی قدموں میں ڈھیر ہونے لگتی ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ مومنین جو اس مبارزت میں آزمائشوں اور ابتلاؤں کے انعامات سے سرفراز کیے جاتے ہیں کہ یہی تب و تابِ جاودانہ ان کا صلہ و ثمر ہے۔

کچھ نہیں مانگتا بس آپ ﷺ کی چوکھٹ کے لیے

اپنے شانوں سے جدا اپنا یہ سر مانگتا ہوں

کون نہیں جانتا کہ انسانیت کا واحد نجات دہندہ دین اسلام ایک ہمہ گیر نظام ہے۔

اللہ نے اگر اسے اپنا آخری پیغام قرار دیا ہے، اسے جو ہر آئینہ ایام کی صفت سے متصف کیا ہے تو لازمی بات ہے اس نقش کو مٹانے کی مساعی بھی انفرادی نہیں، اجتماعی ہی متشکل ہونا تھی۔

کفر کو ملت واحدہ ہونے کی ”توفیق“ صرف اور صرف دین اسلام کی بدولت ہی ملی ہے اور جس گھڑی وادی قاران میں طیبہ کا چاند چمکا تھا، اسی ساعت عالم کفر نے قلعہ بند ہونے کی ٹھان لی تھی۔ یہ سلسلہ جس کا آغاز مکہ کے ”دارالندوہ“ سے ہوا تھا تو عہد موجود کی یورپی یونین تک پھیلتا چلا گیا ہے۔ وہ یہود و نصاریٰ جو ازلوں سے ایک دوسرے کے لہو کے پیا سے ہیں، دین اسلام کے انہدام کی سازش میں ایک دم متحد و متفق ہیں۔ سیاسی، تعلیمی، فکری، عسکری، اخلاقی، تمدنی، تہذیبی، معاشی..... غرض ہر پہلو سے ملت اسلامیہ کو زک پہنچانے کی کوشش ہمیشہ استمرار آٹھارہ ہی ہے۔ اور اس حوالے سے ایک حربہ ابتدا ہی سے استعمال کیا گیا، جی ہاں! مسلمانوں کی مرکزیت کو پارہ پارہ کرنے کے لیے متوازی نبوت قائم کرنے کا مجرب نسخہ بار بار برتا گیا اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ مسلمانوں نے اپنی بے عملیوں کے دور میں کم و بیش ہر جنگ میں مینہ میسرہ کے زخم کھائے ہیں، سلطنتوں کے ان فرمانرواؤں نے غلامی کے عذابوں تک کو سہہ لیا ہے، خوشحالی سے بد حالی تک کی مسافرت کو اپنی تقدیر بنا لیا ہے، عملی تفوق کو چینی پستیوں میں مبدل کر لینے کی اذیت برداشت کر لی ہے، غرض ہر میدان میں سبکداری کی قسمت کو قبول کر لیا ہے، لیکن ایک منور نقطے کی اس ڈیڑھ ہزار سال میں حفاظت کا ایسا حق ادا کیا ہے کہ مذاہب عالم اور بنی نوع انسان کی تاریخ میں اس کی نظیر ڈھونڈے سے نہیں ملتی۔ اور نور کا وہ نیو کلیس ہے، حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی پاکیزہ شخصیت سے لامحدود اور غیر مشروط محبت، احترام اور عقیدت۔ حکومتیں، ریاستیں بنتی ٹوٹی رہتی ہیں۔ زوال سے دو چار امت مسلمہ کو دیکھ کر بھلے ہی آنکھیں خون کے آنسو روتی ہیں، دل سپارہ ہوتا ہے لیکن اس آئین مسلم پر ملت بیضا کو عامل پا کر روح کے معبد میں جنت کے چراغوں کی قطاری جل اٹھتی ہے اور طنطنہ آدم کو ایک نیا وقار، ایک تازہ اعتبار عطا ہونے لگتا ہے کہ حضور شافع محشر ﷺ کے پیروکاروں نے آپ ﷺ سے جو عقیدت پر مفاہمت کے عنوان سے بھی منافقت کے پاؤں نہیں نکلنے دیے۔ مستشرقین نے اپنی ذہنی عیاری کا ثبوت دیتے ہوئے آپ ﷺ کو ہمیشہ ”مفسر اسلام (ﷺ)“ لکھا، حالانکہ آپ ﷺ کا تو امتیاز ہی یہ ہے کہ آپ ﷺ قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کے رسول اور نبی ہیں۔ اور وہ گروہ جو انسانیت کو ایک جادے پر گامزن دیکھنے کے روادار نہیں، جو اپنے مخصوص مفادات اور مذموم عزائم کی وجہ سے نہیں چاہتے کہ انسان فوز و فلاح کے ارمغان سے ہمکنار ہو، وہ آپ ﷺ کے پروگرام کی راہ میں روڑے اٹکانے کے لیے بڑی

باریک تدبیریں اختیار کرتے رہتے ہیں۔ اور ان میں سے ایک تدبیر یہ ہے کہ کسی طرح اس دائرے سے منسلک نقطہ ماسکہ کا اعتبار آپ ﷺ سے چھن جائے۔ ظاہر ہے یہ مکروہ سازش اسی صورت میں باامراد ہو سکتی ہے کہ آپ ﷺ کے مقابل جدید نبوت کی عمارت تعمیر کر لی جائے، جیسے ابراہم نے یمن میں بیت اللہ کا حریف شاندار کلیسا ایجاد کر لیا تھا۔ ہمارا پختہ اعتقاد ہے کہ جس رب نے خانہ کعبہ کو جلال بخشا ہے، اسی رب نے اپنے آخری نبی حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو آسمانی رعب سے نوازا ہے۔ سو تاریخ گواہ ہے کہ آپ ﷺ کی ذات کی نفی کر کے نئی نبوت کے اثبات کی جرأت شاید و باید ہی کسی نے کی ہو۔ ننانوے اعشاریہ نو فیصد مدعیان نبوت نے آپ ﷺ کو تسلیم کر کے اپنی جعلی نبوت کا چراغ جلانے کی کوشش کی ہے۔ مسیلمہ جیسا بد صورت مدعی بھی آپ ﷺ کی توسیع کا ادعا لے کر منظر پر ابھرا تھا۔ لیکن قدرت نے مسلمانوں کا ایسا Mind Set مرتب فرما دیا ہے کہ کسی امتی، ظلی، بروزی، تشریحی، غیر تشریحی کسی بھی نوع کے مدعی نبوت کو قبول کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی۔ ختم نبوت کے عقیدے سے یہ محبت و جرأت اس درجہ مثالی ہے کہ اسے آپ ﷺ کا زبردست معجزہ کہنا چاہیے۔

لیکن یہ دلچسپ توارد ہے کہ ہر مدعی نبوت نے منہ کی کھائی ہے، پھر بھی طالع آزمائی کا شوق ماند نہیں ہوا۔ اس سلسلے کی آخری اور بھرپور کاوش استعماریت کے سائبان میں پروان چڑھائی گئی اور مشرقی پنجاب بھارت کے ایک گاؤں قادیان سے مرزا غلام احمد نامی ایک شخص کو دریافت کیا گیا۔ ”احمدیت“ کے ٹائٹل سے ایک تحریک اس کے وجود سے جاری کی گئی۔ یہ مخبوط الحواس شخص سیالکوٹ کی کچھری میں الہمد ٹائپ معمولی اہلکار تھا۔ کتب بینی کے شوق اور مناظرانہ کارروائیوں نے اسے مذہبی حلقوں میں مناسب تعارف کی فضا مہیا کر دی تھی۔ برطانوی راج، 1857ء کے بعد اگرچہ مقامی باشندوں کے جسموں میں اپنے بچے گاڑ چکا تھا لیکن ذہنوں کی تسخیر کا اہم مرحلہ ہنوز باقی تھا۔ فرنگی کو منجی ثابت کرنے اور اسے رحمت خداوندی کا عکس جتانے کے لیے مرزا قادیانی نے اپنے دور کے ”میڈیا“ کو وقف کر دیا۔ فنڈز کی کمک چونکہ کبھی معطل نہیں ہوئی لہذا تلوار کے جہاد کے خلاف ان کا ”قلمی جہاد“ بھی کبھی نہیں رکا۔

زمانے نے کروٹ لینا ہی ہوتی ہے، یہ جدل ایک جبر ہے، جس سے مفر ممکن نہیں مگر مغادہ عاجلہ کو قبلہ یقین کرنے والے ایمانے وقت اپنے حال کو سنوارنے کے لیے ماضی و

استقبال دونوں کی نفی کر بیٹھتے ہیں۔ آنجنابی مرزا قادیانی اور ان کے متعین سے بھی یہی غلطی ہوئی۔ 26 مئی 1908ء کو مرزا قادیانی نہایت عبرتناک موت سے ہمکنار ہوا۔ ان کی موت کے صرف 39 سال 2 ماہ اور 19 دن بعد یعنی 14 اگست 1947ء کو مسلمانوں کی آزاد سرزمین کا وائسرائے انگریز نہیں بلکہ ایک سچا مومن گورنر جنرل تھا۔ بس اتنی ہی دیر باقی تھی آزادی میں، لیکن مرزا قادیانی نے یہ سوچا تھا کہ کل سبجانی فرنگی صاحب بہادر ابد لآباد تک یہاں حکمران رہے گا اور یوں ان کی مذہبی پیشوائیت اسی طرح قائم و دائم رہے گی، جس طرح فرعون کے دربار میں ہامان کی پاپائیت کا طوطی بولتا تھا۔ افسوس! مرزا قادیانی نے فرعون کے انجام کو فراموش کر دیا۔ جی جناب! 63 برس پہلے جغرافیہ بدلاتو تاریخ کا طلسم بھی ٹوٹ گیا۔ قادیانی اکابرین سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ ”حضرت مسیح موعود“ نے شبانہ روز مجاہدے کے بعد انگریز سامراج کی مدحت بلکہ مدائنت میں جو ”پچاس الماریاں“ تخلیق فرمائی ہیں، اس بار ندامت کو کس خلیج میں غرق کریں؟ ان کا ایسا سوچنا بلا جواز نہیں تھا کہ سارا منظر نامہ ہی تبدیل ہو چکا تھا۔ انگریز کے عطا فرمودہ خطاب، عتاب بن چکے تھے۔ مرزا قادیانی کے خاندان کی بقا تو انگریز کے ”خود کاشتہ پودے“ کی بقا کے ساتھ مشروط تھی۔ یہاں ”خلافت“ نے نسل در نسل منتقل ہونا تھا اور یہ مسند کوئی معمولی نہیں، ایک ہیڈ آف دی سٹیٹ سے بھی بڑھ کر پروٹوکول ”خلیفہ“ کو ملتا ہے۔ ایک برطانوی انگریز آئن ایڈم سن نے A man of God کے نام سے قادیانی خلیفہ مرزا طاہر کی سوانح حیات تحریر کی ہے۔ اس کے پندھویں باب کا مطالعہ کر لیجیے اور دیکھیے کہ ”خاندان مسیح موعود“ میں خلافت کا عہدہ پانے کے لیے کیسی شدید تڑپ موجود ہے۔ مختصر یہ کہ مرزا قادیانی کی اولاد نے سادہ لوح مریدوں کے بیٹن بہا چندوں کی بدولت عیش و تمعیم سے بھرپور زندگی گزاری ہے۔ (اور گزار رہی ہے)۔ یوں اس سلسلے کا قیام اور استحکام سیدہ حاسیدہ حاشی مسئلہ ہے۔ مگر جب اس کے بانی کے پیدا کردہ لٹریچر پر نظر ڈالی جاتی تو یہاں 3/4 حصہ برٹش حکومت کی تعریفوں سے مزین ملتا تھا۔ صرف تعریفوں سے نہیں، حد درجہ خوشامدی اُسلوب میں ملکہ برطانیہ کی قصیدہ خوانی ملتی تھی، جسے دیکھ/پڑھ کر عقل سلیم کے حامل بعض قادیانی نوجوانوں کا خون کھول اٹھتا تھا۔ سوجھ بوجھ اس وپیدگی کا یہ ڈھونڈا گیا کہ ایسی تحریروں کو ممکن حد تک بلیک آؤٹ کیا جائے۔ علاوہ ازیں مرزا قادیانی کی شخصیت سے وابستہ مضحکہ خیزیاں بھی زیادہ تر ان کی اپنی کتب میں اور باقی قادیانی لٹریچر میں محفوظ ہو گئی تھیں۔ تصویر



کے اس رُخ کو چھپا کر ”بانی سلسلہ احمدیت“ کو ایک ”مقدس ہستی“ کے بہروپ میں پیش کرنا، ناگزیر ہو گیا تھا۔ اس طرح Cosmetics کا بڑا فنکارانہ استعمال کر کے مرزا قادیانی کو ایک برگزیدہ اور بے پناہ عالم کے گیٹ اپ میں پورٹریے کر دیا گیا۔ سادہ لوح قادیانیوں نے انہیں سچ سچ کا ”مہدی معبود“ اور ”سیح موعود“ یقین کر لیا۔ بلاشبہ تیز طرار رجحان ساز قادیانیوں (آج کی زبان میں انہیں سٹیک ہولڈرز کہیے) کو اس حوالے سے کامیابی ہوئی کہ آخر کلا کاری بھی کوئی چیز ہے۔ اس ساری ٹوشنگی میں بنیادی کردار ادا کرنے والا ایک ہی ہنر تھا کہ ”معترضہ احمدیہ لٹریچر“ کسی طرح اپنوں اور غیروں کی دسترس سے اتنا دور کر دیا جائے کہ کوئی چاہے بھی تو اس ”روحانی خزینے“ تک رسائی حاصل نہ کر سکے۔ نیز بطور نعم البدل نئے لٹریچر کا سیلاب اس شدت سے بہا دیا جائے کہ کسی کو اس سے فرصت ہی نہ ملے۔

ایک چال قادیانیوں نے چلی، ایک تدبیر اس عاجز کے ذہن میں قدرت نے ڈال دی کہ ردِ قادیانیت کے لیے ایک بالکل نیا، موثر، کارگر اور دندان شکن زاویہ تراشا جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے فرار رہ نہ جائے۔ سو، میں نے دن رات ایک کر کے اصل قادیانی لٹریچر جمع کیا۔ اور پھر ان کی اپنی چھاپی ہوئی کتب کے عکس تیار کیے۔ یوں ایک یکسر منفرد کتاب ”ثبوت حاضر ہیں!“ کے عنوان سے قارئین کی نذر کر دی۔ اس کی پہلی جلد 1997ء میں منصہ شہود پر آئی تو قادیانی ایوانوں میں بھونچال برپا ہو گیا۔ متعدد قادیانی حضرات کو اس بہانے خدا نے اسلام قبول کرنے کی سعادت عطا فرمادی۔ تمام علمی حلقوں نے ناچیز کی اس کاوش کو بے حد سراہا لیکن مجھے یہ احساس برابر مضطرب رکھتا تھا کہ میرا کام ہنوز ادھورا ہے۔ اس دوران میں تحقیق و تدقیق کا عمل جاری رہا۔ یوں ”ثبوت حاضر ہیں!“ کی مزید جلدیں نئے حوالوں کے ساتھ سامنے لانے کی توفیق ملنے لگی۔ اس وقت تیسری جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ان اوراق میں میرا تبصرہ نہ ہونے کے برابر ہے، بس یہ جالیے! ”مقابل ہے آئینہ!“

خاکپائے مجاہدین ختم نبوت

**محمد متین خالد**

Email: fatchqadyaniat@hotmail.com









تعمیرت حاضر ہیں!

قادیانی اخلاق!

Love for all, hatred for none



روزمرہ زندگی میں شائستہ گفتگو ہر شخص کے اخلاق عالیہ میں شامل ہونی چاہیے۔  
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے:

□ وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ.

(الانعام: 108)

ترجمہ: اور تم نہ گالیاں دو انہیں جن کی یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا (کہیں ایسا نہ ہو) کہ وہ بھی گالیاں دینے لگیں اللہ کو زیادتی کرتے ہوئے جہالت سے۔  
اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے:

□ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حَسَنًا. (البقرہ: 83)

لوگوں سے نیکی اور بھلائی کی بات کہو۔

حضور خاتم النبیین ﷺ نے ارشاد فرمایا: کسی مسلمان کو گالی دینا بڑے گناہ کی بات ہے (بخاری و مسلم) مزید ارشاد فرمایا: گالی بکنے اور بے حیائی کی بات کرنے والے کے پاس اسلام کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ (امام احمد)

مگر افسوس صد افسوس نہایت! ”سلطان القلم“ کہلوانے والے آنجنابی مرزا قادیانی کے سینہ بے گنجینہ اور زبان بے عنان سے ایسی ایسی فحش گالیاں نکلیں جنہیں سن کر بڑی سے بڑی بھٹیاریں بھی پناہ مانگے۔ ان نہایت دل آزار گالیوں کی وجہ سے مرزا قادیانی کے عذاب میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں اللہ تعالیٰ، حضور نبی کریم ﷺ، انبیائے کرام بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام، صحابہ کرام اور دیگر مقدس شخصیات کی نسبت ایسے ایسے الفاظ تحریر کیے ہیں کہ جنہیں پڑھ کر ایک مسلمان کا دل زخم زخم اور جگر پاش پاش ہوتا ہے۔ کیا یہ حکم خداوندی کی تعمیل ہے؟ کیا مسیح موعود کی تہذیب اور خواص ایسے ہی ہونے چاہئیں؟

قارئین کرام! مرزا قادیانی نے قرآنی آیات احادیث مبارکہ اور اپنی تمام تحریروں و الہامات کو سراسر فراموش کرتے ہوئے انھیں ملیا میٹ کر دیا۔ اس نے نہ قرآنی آیات کی تفسیر کی، نہ احکام رسول خدا ﷺ پر عمل کیا اور نہ اپنی تبلیغی تحریروں کی پروا کی۔ نجانے کن خیالات کی بنا پر وہ خود کو مسیح موعود منوانا چاہتا ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ سجادہ نشین حضرات اور علمائے کرام نے مرزا قادیانی کے کفر کا فتویٰ دیا تھا، اسے دجال، کذاب اور کافر لکھا تھا، اس لیے مرزا قادیانی نے ردِ عمل میں انھیں سب و شتم سے نوازا تو افسوس! مرزا قادیانی نے یہاں بھی حکم خداوندی کی تعمیل نہ کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے:

□ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَٰفِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يَحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

(آل عمران: 134)

ترجمہ: اور ضبط کرنے والے ہیں غصہ کو اور درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔

مرزا قادیانی نے نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا، کیا نبی اور رسول اس طرح کے ہوتے ہیں کہ غصے میں آ کر لوگوں کو ماں بہن کی تنگی گالیاں دینی شروع کر دیں۔ آئیے! جھوٹے مسیح موعود کے ”ارشادات عالیہ“ ملاحظہ فرمائیں:-

## لوگوں پر لطف اور رحم

مرزا قادیانی کا ایک الہام ہے:

(1) ”تلطف بالناس و ترحم علیہم۔“

لوگوں سے لطف کے ساتھ پیش آ اور ان پر رحم کر!“

(انجام آتھم صفحہ 55 مندرجہ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 55 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 470 پر)

مرزا قادیانی ایک دوسرے الہام میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے داؤد کے نام سے مخاطب کرتے ہوئے کہا:



## لوگوں سے نرمی اور احسان کر

(2) ”یا داؤد عامل بالناس رفقاً و احساناً۔“

اے داؤد! لوگوں سے نرمی اور احسان کے ساتھ معاملہ کر۔“

(انجام آتھم صفحہ 60 مندرجہ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 55 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 471 پر)

## نہایت قابل شرم بات

(3) ”چونکہ اماموں کو طرح طرح کے اوباشوں، اور سفلوں اور بد زبان لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، اس لیے ان میں اعلیٰ درجہ کی اخلاقی قوت کا ہونا ضروری ہے اُن میں طیش نفس اور مجنونانہ جوش پیدا نہ ہو اور لوگ ان کے فیض سے محروم نہ رہیں۔ یہ نہایت قابل شرم بات ہے کہ ایک شخص خدا کا دوست کہلا کر پھر اخلاقِ رذیلہ میں گرفتار ہو اور درشت بات کا ذرہ بھی متحمل نہ ہو سکے اور جو امام زمان کہلا کر ایسی کچی طبیعت کا آدمی ہو کہ ادنیٰ ادنیٰ بات میں منہ میں جھاگ آتا ہے، آنکھیں نیلی پیلی ہوتی ہیں، وہ کسی طرح امام زمان نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس پر آیت اِنکَ لَعَلٰی خُلِقِ عَظِيْمٌ کا پورے طور پر صادق آ جانا ضروری ہے۔“

(ضرورت الامام صفحہ 8 مندرجہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 478 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 472 پر)

## اندھے کو اندھا کہنا بھی دل دکھانا ہے

(4) ”خدا تعالیٰ کی سچی اطاعت اور نوع انسان کی حقیقی بھلائی وہی شخص بجالا سکتا ہے جو وقت شناس ہو ورنہ نہیں۔ مثلاً ایک شخص گوراست گو ہے مگر اپنی راستی کو حکمت کے ساتھ ملا کر استعمال نہیں کرتا بلکہ لاشی کی طرح مارتا ہے اور بے تمیزی سے ایک شریف خصلت کو بے محل کام میں لاتا ہے تو وہ ایک حکیم منش کے نزدیک ہرگز قابل تعریف نہیں ٹھہرتا۔ ایسے کو جاہل نیک بخت کہیں گے۔ نہ دانائیک بخت اگر کوئی اندھے کو اندھا اندھا کر کے پکارے اور پھر کسی کے منع کرنے پر یہ کہے کہ میاں کیا میں جھوٹ بولتا ہوں تو اسے یہی کہا جائے گا کہ بے شک تو

راست گو ہے مگر احمق یا شریر کہ جس راستی کے اظہار کی تجھے ضرورت ہی نہیں، اس کو واجب الاظہار سمجھتا ہے اور اپنے بھائی کے دل کو دکھاتا ہے۔“  
(شخص حق صفحہ 411 مندرجہ روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 366 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 473 پر)

## اللہ تعالیٰ کا حکم

(5) ”اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں صاف فرمادیا کہ لا تباذوا بالانقلاب یعنی لوگوں کے ایسے نام مت رکھو جو ان کو برے معلوم ہوں تو پھر برخلاف اس آیت کے کرتا کن لوگوں کا کام ہے؟“  
(تختہ غزنویہ صفحہ 11 مندرجہ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 541 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 474 پر)

## تلخ بات

(6) ”میری فطرت اس سے دور ہے کہ کوئی تلخ بات منہ پر لاؤں۔“  
(آسمانی فیصلہ صفحہ 110 مندرجہ روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 320 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 475 پر)

## پرلے درجے کا شریر النفس

(7) ”اور خود ہم ایسے الفاظ کو صراحتاً یا کنایتاً اختیار کرنا جب عظیم سمجھتے ہیں اور مرتکب ایسے امر کو پرلے درجہ کا شریر النفس خیال کرتے ہیں۔“  
(براہین احمدیہ صفحہ 102 مندرجہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 90، 91 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 476، 477 پر)

## سفلوں اور کینوں کا کام

(8) ”ناحق گالیاں دینا سفلوں اور کینوں کا کام ہے۔“  
(ست بچن صفحہ 21 مندرجہ روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 133 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 478 پر)

## کبھی گالی کا جواب نہیں دیا

(9) ”وقد ستونی بکل سب فمار ددت علیہم جوابہم۔ ترجمہ: مجھے کو گالی دی گئی، میں نے جواب نہیں دیا۔“

(مواہب الرحمن صفحہ 211 مندرجہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 236 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 479 پر)

## کبھی دشنام دہی نہیں کی

(10) ”میں سچ سچ کہتا ہوں کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے میں نے ایک لفظ بھی ایسا استعمال نہیں کیا جس کو دشنام دہی کہا جائے۔“

(ازالہ اوہام صفحہ 9 مندرجہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 109 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 480 پر)

## گالی مت دو

(11) ”کسی کو گالی مت دو، گو وہ گالی دیتا ہو۔“

(کشتی نوح صفحہ 12 مندرجہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 11 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 481 پر)

## مجھے تہذیب و اخلاق کے ساتھ بھیجا گیا ہے

(12) ”خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو یعنی اس عاجز کو ہدایت اور دین حق ..... اور تہذیب اخلاق کے ساتھ بھیجا۔“

(اربعین نمبر 3 صفحہ 84 مندرجہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 426 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 482 پر)

## بدزبانی طریق شرافت نہیں

(13) ”گالیاں دینا اور بدزبانی کرنا طریق شرافت نہیں ہے۔“

(ازبعین نمبر 4 صفحہ 129 مندرجہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 471 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 483 پر)

## گالیاں سن کے دعا دو

(14) ”گالیاں سن کر دعا دو پا کے دکھ آرام دو

کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار“

(براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 114 مندرجہ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 144 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 484 پر)

## سخت زبانی سے برکت جاتی رہتی ہے

(15) ”مخالف جو گالیاں دیتے ہیں اور گندے اور ناپاک اشتہار شائع کرتے ہیں، ہم کو

ان کا جواب گالیوں سے کبھی دینا نہیں چاہیے۔ ہم کو سخت زبانی کی ضرورت نہیں کیونکہ سخت

زبانی سے برکت جاتی رہتی ہے اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ اپنی برکت کو کم کریں۔“

(ملفوظات جلد دوم صفحہ 161 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 485 پر)

## اہم نکات

مرزا قادیانی کی مذکورہ بالا تحریروں سے مندرجہ ذیل باتیں اخذ ہوتی ہیں:-

- 1- لوگوں سے لطف کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور ان پر رحم کرنا چاہیے۔
- 2- لوگوں سے نرمی اور احسان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔
- 3- اماموں میں اعلیٰ درجہ کی اخلاقی قوت کا ہونا ضروری ہے۔
- 4- اگر کوئی آدمی ایسی کچی طبیعت کا ہو کہ ادنیٰ ادنیٰ بات سے اس کے منہ میں جھاگ آ

- جائے، اُس کی آنکھیں نیلی پیلی ہو جائیں، وہ کسی طرح امام الزماں نہیں ہو سکتا۔
- 5 اندھے کو اندھا کہنا بھی دل دکھاتا ہے۔
- 6 لوگوں کے ایسے نام نہ رکھو جو ان کو برے معلوم ہوں۔
- 7 مرزا قادیانی کی فطرت ایسی نہیں ہے کہ کوئی تلخ بات اس کے منہ پر آئے۔
- 8 کسی شخص کے لیے غیر اخلاقی الفاظ استعمال کرنا نجس عظیم ہے اور ایسا شخص شریر النفس ہے۔
- 9 گالیاں دینا سفلوں اور کمینوں کا کام ہے۔
- 10 مرزا قادیانی نے کبھی کسی کو گالی کا جواب نہیں دیا۔
- 11 کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے، چاہے وہ گالی دے۔
- 12 مرزا قادیانی نے کبھی کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا جسے گالی کہا جائے۔
- 13 مرزا قادیانی کا کہنا ہے کہ خدا نے مجھے ہدایت اور تہذیب اخلاق کے ساتھ بھیجا۔
- 14 گالیاں دینا اور بدزبانی کرنا شریف آدمی کا کام نہیں۔
- 15 گالیاں سن کے وعادینی چاہیے۔
- 16 سخت زبانی سے برکت جاتی رہتی ہے۔
- آئیے! اب مرزا قادیانی کا حیران کن ”تضاد“ دیکھتے ہیں۔

## بندروں اور سؤروں کی طرح

(16) ”جس وقت یہ سب باتیں پوری ہو جائیں گی، تو کیا اُس دن یہ احمق مخالف جیتے ہی رہیں گے؟ اور کیا اس دن یہ تمام لڑنے والے سچائی کی تلوار سے نکلنے نہیں ہو جائیں گے؟ ان بیوقوفوں کو کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں رہے گی اور نہایت صفائی سے ناک کٹ جائے گی اور ذلت کے سیاہ داغ ان کے منحوس چہروں کو بندروں اور سؤروں کی طرح کر دیں گے۔“

(انجام آٹھم صفحہ 53 مندرجہ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 337 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 486 پر)

## خنزیر سے زیادہ پلید لوگ

(17) ”دنیا میں سب جانداروں سے زیادہ پلید اور کراہت کے لائق خنزیر ہے مگر خنزیر سے زیادہ پلید وہ لوگ ہیں جو اپنے نفسانی جوش کے لیے حق اور دیانت کی گواہی کو چھپاتے ہیں۔ اے مردار خور مولویو! اور گندے روحو! تم پر افسوس! کہ تم نے میری عداوت کے لیے اسلام کی سچی گواہی کو چھپایا۔ اے اندھیرے کے کیرو!“

(انجام آتھم صفحہ 21 مندرجہ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 305 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 487 پر)

## جیسا کہ سنڈ اس پاخانہ سے

(18) ”منشی الہی بخش صاحب نے جھوٹے الزاموں اور بہتان اور خلاف واقعہ کی نجاست سے اپنی کتاب ”عصائے موسیٰ“ کو ایسا پھر دیا ہے جیسا کہ ایک ٹالی اور بدر رو گندے کپڑے سے بھری جاتی ہے یا جیسا کہ سنڈ اس پاخانہ سے۔“

(اربعین نمبر 4 حاشیہ صفحہ 114، 115 مندرجہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 456، 457 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 488، 489 پر)

## جھوٹ کی نجاست، آسمانی لعنت

(19) ”اس پیشگوئی کی تکذیب میں پادریوں نے جھوٹ کی نجاست کھائی۔ عبدالحق اور عبدالبجار غزنویان وغیرہ مخالف مولویوں نے بھی وہ نجاست کھائی..... عبدالحق غزنوی بار بار لکھتا ہے کہ پادریوں کی فتح ہوئی۔ ہم اس کے جواب میں بجز اس کے کیا کہیں اور کیا لکھیں کہ اے بد ذات یہودی صفت پادریوں کا اس میں منہ کالا ہوا اور ساتھ ہی تیرا بھی۔ اور پادریوں پر ایک آسمانی لعنت پڑی اور ساتھ ہی وہ لعنت تجھ کو بھی کھا گئی۔ اگر تو سچا ہے تو اب ہمیں دکھلا کہ آتھم کہاں ہے؟ اے خبیث کب تک تو جنے گا.....“

(انجام آتھم صفحہ 45 مندرجہ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 329 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 490 پر)

## خدائی لعنت کے دس لاکھ جوتے

(20) ”خاص کر رئیس الدجالین عبدالحق غزنوی اور اس کا تمام گروہ علیہم نعال لعن اللہ الف الف مرۃ (ترجمہ: ان پر خدائی لعنت کے دس لاکھ جوتے برسیں!) اے پلیدو جہاں! پیشگوئی تو پوری ہو گئی۔ لیکن تعصب کے غبار نے تجھ کو اندھا کر دیا۔“  
(انجام آتھم صفحہ 46 مندرجہ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 330 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 491 پر)

## مرد خنزیر، عورتیں کتیاں

(21) ”ان العدا صاروا خنازیر الغلا. ونسائهم من دونهن الا کلب. دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتوں سے بڑھ گئی ہیں۔“  
(نجم الہدی صفحہ 53 مندرجہ روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 53 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 492 پر)

## ولد الحرام

(22) ”اور ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جاوے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زادہ نہیں۔“  
(انوار الاسلام صفحہ 30 مندرجہ روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 31 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 493 پر)

## عیسائی، یہودی، مشرک

(23) ”جو میرے مخالف تھے، ان کا نام عیسائی اور یہودی اور مشرک رکھا گیا۔“  
(نزول المسح (حاشیہ) صفحہ 4 مندرجہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 382 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 494 پر)

## کتوں کی طرح جھوٹ کا مردار کھانے والے

(24) ”مگر کیا یہ لوگ قسم کھالیں گے؟ ہرگز نہیں۔ کیونکہ یہ جھوٹے ہیں اور کتوں کی طرح جھوٹ کا مردار کھا رہے ہیں۔“

(انجام آتھم (ضمیمہ) صفحہ 25 مندرجہ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 309 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 495 پر)

## خراب عورتیں اور دجال کی نسل

(25) ”اور جاننا چاہیے کہ ہر ایک شخص جو ولد الحلال ہے اور خراب عورتوں اور دجال کی نسل میں سے نہیں ہے، وہ دو باتوں میں سے ایک بات ضرور اختیار کرے گا یا تو بعد اس کے دروغگوئی اور افترا سے باز آ جائے گا یا ہمارے اس رسالہ جیسا رسالہ بنا کر پیش کرے گا۔“

(نور الحق صفحہ 163 مندرجہ روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 163 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 496 پر)

## پر میشر کی جگہ

(26) ”پر میشر ناف سے دس انگلی نیچے ہے (سمجھنے والے سمجھ لیں)۔“

(چشمہ معرفت صفحہ 106 مندرجہ روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 114 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 497 پر)

پر میشر ہندوؤں کے خدا کو کہتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے ہندوؤں کے خدا کو اپنی ناف سے دس انگلی نیچے قرار دے کر انہیں بہت بڑی گالی دی۔ اس کے رد عمل میں ہندوؤں نے نہ صرف اپنے جلوسوں میں دین اسلام اور ہمارے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی توہین کی بلکہ مسلمانوں کی دل آزاری پر مبنی ”ستیا رتھ پرکاش“ نامی کتاب بھی لکھی جس کے پہلے ایڈیشن میں صرف 13 ابواب تھے جبکہ مرزا قادیانی کی طرف سے ہندوؤں کی مذہبی شخصیات کو گالیاں دینے کے بعد چودھویں باب کا اضافہ کیا گیا جس میں انہوں نے حضور نبی کریم ﷺ کو ناقابل بیان گالیاں دیں۔ پھر ایک عرصہ بعد سوائے زمانہ کتاب ”رنگیلا رسول“ بھی لکھی گئی



جس سے برصغیر کے مسلمانوں میں کہرام برپا ہو گیا۔ اس کی تمام تر ذمہ داری مرزا قادیانی اور ان کی ذریت پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے ہندوؤں کو اشتعال دلایا۔ حالانکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جھوٹے خداؤں کو بھی گالی نہ دو مبادا یہ کہ وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دیں۔

### پیٹ سے چوہا؟

(27) ”اب عبدالحق کو ضرور پوچھنا چاہیے کہ اس کا وہ مہلبہ کی برکت کا لڑکا کہاں گیا؟ کیا اندر ہی اندر پیٹ میں تحلیل پا گیا یا پھر رجعت قہقری کر کے نطفہ بن گیا۔۔۔۔۔ اور اب تک اس کی عورت کے پیٹ میں سے ایک چوہا بھی پیدا نہ ہوا۔“

(انجام آقلم صفحہ 317، 311 مندرجہ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 311، 317 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 498، 499 پر)

### رحم پر مہر

(28) ”خدا تعالیٰ نے اس (عبدالحق غزنوی) کی بیوی کے رحم پر مہر لگا دی“  
(حقیقۃ الوحی تترہ صفحہ 444 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 444 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 500 پر)

### عضو تناسل کاٹ دیتا.....

(29) ”حضرت مسیح موعود کے قریباً ہم عمر مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی بھی تھے۔ ان کے والد کا جس وقت نکاح ہوا، اگر ان کو حضرت اقدس مسیح موعود (مرزا قادیانی) کی حیثیت معلوم ہوتی اور وہ جانتے کہ میرا ہونے والا بیٹا محمد رسول اللہ ﷺ کے ظل اور بروز کے مقابلہ میں وہی کام کرے گا جو آنحضرت ﷺ کے مقابلہ میں ابو جہل نے کیا تھا تو وہ اپنے آلہ تناسل کو کاٹ دیتا اور اپنی بیوی کے پاس نہ جاتا۔“

(مرزا بشیر الدین محمود کا خطبہ نکاح۔ روزنامہ الفضل قادیان مورخہ 2 نومبر 1922ء جلد 10 شمارہ 35)  
(عکس صفحہ نمبر 501 پر)

## جہاں سے نکلے تھے.....

(30) ”جھوٹے آدمی کی یہ نشانی ہے کہ جاہلوں کے رو برو تو بہت گزاف مارتے ہیں مگر جب کوئی دامن پکڑ کر پوچھے کہ ذرا ثبوت دے کر جاؤ تو جہاں سے نکلے تھے، وہیں داخل ہو جاتے ہیں۔“

(حیات احمد، حضرت سچ موعود کے سوانح حیات جلد دوم نمبر اول صفحہ 25 از یعقوب علی عرفانی ایڈیٹر الحکم قادیان)  
(عکس صفحہ نمبر 502 پر)

## کنجریوں کی اولاد

(31) ”تلك كتب ينظر اليها كل مسلم بعين المحبة والمودة و ينتفع من معارفها و يقبلني و يصدق دعوتي. الا ذرية البغايا الذين ختم الله على قلوبهم فهم لا يقبلون.“

(ترجمہ) ”میری ان کتابوں کو ہر مسلمان محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اس کے معارف سے فائدہ اٹھاتا ہے اور میری دعوت کی تصدیق کرتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے مگر کنجریوں (بدکار عورتوں) کی اولاد نے میری تصدیق نہیں کی کہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔“

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ 547، 548 بندرجہ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 547، 548 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 503، 504 پر)

سوچنا چاہیے کہ دنیا کی سوا ارب آبادی میں سے کتنے لوگ مرزا قادیانی کی کتابوں کو محبت و مودت کی نظر سے دیکھتے اور ان کی تصدیق کرتے ہیں؟

خود مرزا قادیانی کے پہلے دونوں بیٹوں مرزا سلطان احمد اور مرزا فضل احمد نے ہمیشہ اپنے باپ کی مخالفت کی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا باپ نبوت کا دعویٰ کرنے کے باوجود اپنی پہلی بیوی حرمت بی بی کے شرعی حقوق پورے نہیں کرتا۔ مرزا قادیانی نے اپنے بیٹے فضل احمد کو اپنی تمام جائیداد سے عاق کیا۔ (باوجود یہ کہ عاق کرنے والے پر حضور نبی کریم ﷺ نے لعنت بھیجی ہے) اور ان کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات نیکی، بدی، خوشی، غمی وغیرہ میں شرکت ختم کر

دی۔ مرزا قادیانی نے اپنے پہلے دونوں بیٹوں کے بارے میں ایک اشتہار شائع کیا جس میں لکھا:

(32) ”سواب ان سے کچھ تعلق رکھنا قطعاً حرام اور ایمانی غیوری کے برخلاف اور ایک دیوتی کا کام ہے۔ مومن دیوت نہیں ہوتا۔“

(مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 187 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 505 پر) یہاں یہ بھی یاد رہے کہ مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا فضل احمد، مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا تھا (اسی لیے مرزا قادیانی نے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا تھا۔ (انوار خلافت صفحہ 91 مندرجہ انوار العلوم جلد 3 صفحہ 149 از مرزا بشیر الدین محمود ابن مرزا قادیانی) وہ مرزا قادیانی کی کتابوں کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھتا تھا اور اس کی دعوت کی تصدیق بھی نہیں کرتا تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا فضل احمد اور اس کی والدہ (مرزا قادیانی کی بیوی) اس فتویٰ ”ذریۃ البغایا“ کی زد میں آتے ہیں؟ قادیانیوں کو اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔

## ذریۃ البغایا کی تشریح

قادیانیوں کا موقف ہے کہ ”ذریۃ البغایا“ گالی نہیں ہے۔ اس کے جواب میں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ مرزا قادیانی پر ایمان لائے، وہ سب ”ذریۃ البغایا“ ہیں؟ کیا اس پر انھیں کوئی اعتراض اور تکلیف تو نہیں؟ یاد رہے کہ ذریۃ البغایا عربی زبان میں ایک سخت اور غلیظ قسم کی گالی ہے۔ یعنی ”بدکار عورتوں کی اولاد“۔ بغایا کے معنی اس درجہ مشہور و معروف، واضح اور مسلم ہیں کہ اس میں تاویل بازی اور سخن سازی کے سوا اختلاف کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ ذریۃ البغایا یا بغایا مرزا قادیانی کے مخصوص الفاظ ہیں جن کو اس نے اپنی تصانیف میں بکثرت اور تکرار سے استعمال کیا ہے اور اس کے معنی بھی خود ہی کیے ہیں۔ لغت کی رو سے، قرآن مجید کی جہت سے اور خود آنجنابی مرزا قادیانی کی تصانیف کے لحاظ سے بغایا کے معنی ملاحظہ فرمائیں:

امام راغب اصفہانی اپنی مشہور و معروف لغت قرآن ”مفردات“ میں لکھتے ہیں کہ بغت المرأة بغا اس وقت بولتے ہیں جب عورت بدچلن ہو جائے۔ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس حد سے جو اس کے لیے ہے، نکل جاتی ہے۔

مرزا قادیانی کی اصل عبارت عربی میں ہے۔ اس کا ترجمہ ہم نے لکھا ہے۔ مرزا

قادیانی کے الفاظ یہ ہیں الا ذریۃ البغایا۔ عربی کا لفظ البغایا جمع کا صیغہ ہے۔ واحد اس کا بغیۃ ہے جس کا معنی بدکار، فاحشہ، زانیہ ہے۔

□ خود مرزا نے خطبہ الہامیہ صفحہ 49 (مندرجہ روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 49) پر لفظ بغایا کا ترجمہ بازاری عورتیں کیا ہے۔

□ ”اور ایسے ہی انجام آتقم کے صفحہ 282 (مندرجہ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 282)

□ نور الحق حصہ اول صفحہ 123 (مندرجہ روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 163) پر لفظ بغایا کا ترجمہ نسل بدکاران، زنا کار، زن بدکار وغیرہ کیا ہے۔

□ لہجہ النور صفحہ 31، 85، 86، 89 (مندرجہ روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 371، 426،

428، 431) پر لفظ بغایا کا ترجمہ زانیہ، زنان فاسقہ، زنان بازاری اور زنان فاحشہ کیا ہے۔  
نیز قرآن پاک میں ہے کہ جب یہودیوں نے حضرت مریمؑ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد کہا تھا:

□ وما کانت امک بغیا (سورۃ مریم: 28)

ترجمہ: تری ماں زنا کار اور بدکار نہ تھی۔

□ ولم اک بغیا (سورۃ مریم: 20)

ترجمہ: اور نہ میں بدکار ہوں۔

ان آیات کے تحت مرزا قادیانی کے بیٹے اور قادیانی خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود نے لفظ بغیا کا ترجمہ ”بدکار“ کیا ہے۔ (تفسیر صغیر صفحہ 385، 386 از مرزا بشیر الدین محمود) اسی طرح مولوی محمد علی لاہوری قادیانی نے بھی اپنی تفسیر بیان القرآن میں انہی آیات کے تحت بغیا کا ترجمہ بدکار کیا ہے۔

## حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑویؒ کو گالیاں

مشہور روحانی بزرگ حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑویؒ کے بارے میں مرزا قادیانی لکھتا ہے:  
(33) ”مجھے ایک کتاب کذاب (پیر مہر علی شاہ) کی طرف سے پہنچی ہے۔ وہ خبیث کتاب اور بچھو کی طرح نیش زن۔ پس میں نے کہا کہ اے گولڑہ کی زمین تجھ پر لعنت، تو ملعون کے سبب

سے ملعون ہوگئی پس تو قیامت کو ہلاکت میں پڑے گی۔“

(اعجاز احمدی صفحہ 75 مندرجہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 188 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 506 پر)

عجیب بات ہے کہ مخالفت حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑویؒ نے کی اور لعنت گولڑہ کے تمام رہنے والوں پر کی اور وہ بھی قیامت تک۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر گولڑہ کی سر زمین پر کوئی قادیانی آباد ہو گیا تو کیا وہ بھی اس ابدی لعنت کا مستحق ہوگا؟

(34) اس کے علاوہ مولانا ثناء اللہ امرتسریؒ کو ”عورتوں کی عار“ کہا۔

(اعجاز احمدی صفحہ 92 مندرجہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 196 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 507 پر)

مولانا محمد حسین بٹالویؒ کے متعلق لکھا:

(35) ”کذاب، متکبر، سربراہ گمراہان، جاہل، شیخ احمقان، عقل کا دشمن۔“

(انجام آختم صفحہ 242, 241 مندرجہ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 241, 242 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 509, 508 پر)

مولانا نذیر حسین دہلویؒ کے متعلق لکھا:

(36) ”وہ گمراہ اور کذاب ہے۔“

(انجام آختم صفحہ 251 مندرجہ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 251 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 510 پر)

مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کے متعلق لکھا:

(37) ”اندھا شیطان، گمراہ دیو، شقی، ملعون۔“

(انجام آختم صفحہ 252 مندرجہ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 252 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 511 پر)

مولانا سعد اللہ کے بارے میں لکھا:

(38) ”اور لعیموں میں سے ایک فاسق آدمی کو دیکھتا ہوں کہ ایک شیطان ملعون ہے۔

سفیہوں کا نطفہ بدگو ہے اور خبیث اور مفسد اور جھوٹ کو طمع کر کے دکھانے والا

منحوس ہے جس کا نام جاہلوں نے سعد اللہ رکھا ہے۔“

(حقیقۃ الوحی تتر صفحہ 14 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 445 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 512 پر)

مولانا عبدالحق غزنوی کے بارے میں لکھا:

□ ”اے عبدالحق غزنوی! اے گمراہ عبد الجبار! اور تم نے دیکھ لیا کہ تمہیں طاقت نہیں

ہوئی کہ میری کلام جیسی کلام بنا لاؤ۔ اور عبد الجبار کی جماعت میں سے ایک موذی نے کہا کہ یہ

شخص دجال اور اکفر الکفار ہے اور ان میں سے ایک غزنوی شخص ہے جس کو عبدالحق کہتے ہیں

اور اس نے گالیاں دیں اور پیشہ کی طرح اچھلا اور وہ ایک چوہا ہے شیروں کو اپنے سوراخ میں آواز

سے ڈراتا ہے اور ایک شیخ لمبی زبان والا بہت ہذیان والا عبدالحق سے مشابہ ہے۔ اس نے

گمان کیا ہے کہ وہ زمانہ کے فاضلوں میں سے ہے اور یہ شیخ نجفی ہے اور شیعہ ہے۔ اور اس نے

عربی میں میرنی طرف ایک خط لکھا۔ بلکہ اسے باوجود اس کے سب اور شتم کو کمال تک پہنچا دیا۔

اور کسی گالی کو نہ چھوڑا جسکو کمینہ رذیلوں کی طرح نہ لکھا۔ اور نہیں جانتا کہ ایمان کیا ہے

اور مومنوں کی خصلتیں کیا ہیں۔ اور ہم گالی کی طرح رجوع نہیں کرتے جیسا کہ اس نے عناد

سے کیا۔ مگر تو کمینوں اور سفلوں میں سے تھا۔ اور تمام تر تعجب یہ ہے کہ عبدالحق غزنوی پانچ

برس سے مجھے گالیاں نکال رہا ہے۔ اور ہم نے فحش گوئی سے پرہیز کیا ہے اور ہر ایک درخت

پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اور امید رکھتا ہوں کہ وہ اپنے تجاوز سے باز آجائیں گے اور بکواس سے

باز نہ آئے۔ پس میں نے جان لیا کہ وہ مردود اور مخذول ہیں۔ اور بد بخت اور محروم ہیں اپنے

تئیں تو بہت نیک آدمیوں میں سے خیال کرتا ہے اور بد بختوں کے طریق پر چلتا ہے۔ فاسقوں

کی طرح تو زندگی بسر کرتا ہے۔ تیری باطنی پلیدی نے تیری صورت کو متغیر کر دیا تو ایک بھیڑیا

ہے نہ انسان کی قسم اور شریروں میں سے ہے اور تو بوڑھا ہو گیا اور چڑا پرانا ہو گیا اور خبیث اور فساد

کے طریقوں کو تو نہیں چھوڑتا۔ قبل اس کے جو تجھ کو کیڑے کھالیں اور موت آجائے اور تو نے مجھ

سے دشمنی کی پس خدا تجھے تباہ کرے اور جلد بازوں کی طرح بکواس مت کر پس خدا نے تیرا منہ

کالا کیا۔ کلب العناد، پس اے مسخ شدہ اور تیرا سر تیرے ہی جوتوں کے ساتھ نرم کیا جائے گا۔

تجھ پر لعنت، اے غزنی کے بندر، تو کتوں کی طرح تھا، بک بک کرنے والا، کم

معرفت لکنت لسان کا داغ رکھنے والا

اور کتا ایک صورت ہے اور تو اسکی روح ہے۔

پس تیرے جیسا آدمی کتے کی طرح بھونکتا ہے اور فریاد کرتا ہے۔

ہم نے تنبیہ کے لیے تجھے طمانچہ مارا مگر تو نے طمانچہ کو کچھ نہ سمجھا۔

پس کاش ہماری پاس مضبوط اونٹ کے چمڑے کا جوتا ہوتا۔

اور جو گالی تو دینا چاہے گا وہ ہم سے سنے گا۔

اور اگر تو بات اور حملہ میں نرمی کرے گا تو ہم بھی نرمی کریں گے۔

اور میں تیرے نفس میں علم اور عقل نہیں دیکھتا۔

اور تو خنزیر کی طرح حملہ کرتا ہے اور گدھوں کی طرح آواز کرتا ہے۔

اور تو نے بدکار عورت کی طرح رقص کیا۔

اور مجھے فاسق ٹھہرایا حالانکہ تو سب سے زیادہ فاسق ہے۔

اے شیخ شقی سوچ!

اور انسان کی طرح فکر کر اور گدھے کی طرح آواز نہ کر۔

پس میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر خدا کا خوف اور حیا نہ ہوتا۔

تو میں قصد کرتا کہ گالیوں سے تجھے فنا کر دیتا۔“

(حجتہ اللہ ص 12 تا 18 مندرجہ روحانی خزائن جلد نمبر 12، ص 172 تا 236 از مرزا قادیانی)

ہم اس صورتحال پر کچھ تبصرہ نہیں کرتے، اگر کسی ”قادیانی“ میں سلیم الفطرتی کے عناصر

متحرک و فعال ہیں تو وہ خود اپنے ”پیر و مرشد“ کی شخصیت کے دونوں پہلوؤں کا موازنہ کر لے۔

## بدتر ہر ایک بد سے

(39) ”بدتر ہر ایک بد سے وہ ہے جو بدزباں ہے

جس دل میں یہ نجاست بیت الخلا یہی ہے“

(قادیان کے آریہ اور ہم صفحہ 61 مندرجہ روحانی خزائن، جلد 20 صفحہ 458، از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 513 پر)

مرزا قادیانی اس شعر کا خود مصداق ہے۔ اس نے اپنی کتابوں میں مختلف لوگوں کو جو گالیاں دی ہیں، ان کی تعداد ہزاروں میں بنتی ہے۔ صفحات کی کمی کے پیش نظر صرف چند مثالیں پیش خدمت ہیں۔

- اے مردار خور مولویو (انجام آتھم ضمیرہ صفحہ 21 / حاشیہ، مندرجہ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 305 از مرزا قادیانی)
- اندھیرے کے کیڑو (انجام آتھم ضمیرہ صفحہ 21، حاشیہ، روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 305 از مرزا قادیانی)
- اے بدذات (انجام آتھم ضمیرہ صفحہ 45، روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 329 از مرزا قادیانی)
- اے خبیث (انجام آتھم ضمیرہ صفحہ 45، روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 329 از مرزا قادیانی)
- اے پلیدو جال (انجام آتھم ضمیرہ صفحہ 46، روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 330 از مرزا قادیانی)
- اسلام کے عار مولویو (انجام آتھم ضمیرہ صفحہ 48، روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 332 از مرزا قادیانی)
- اے نابکار (بدکردار) (انجام آتھم ضمیرہ صفحہ 50، روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 334 از مرزا قادیانی)
- اے بدذات فرقہ مولویاں (انجام آتھم ضمیرہ صفحہ 21 / حاشیہ، روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 305 از مرزا قادیانی)
- اَلو (ضمیرہ براہین احمدیہ پنجم صفحہ 165، روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 332 از مرزا قادیانی)
- امام الفتن (اتمام الحجہ صفحہ 24، روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 303 از مرزا قادیانی)
- انسانوں سے بدتر اور پلیدتر (ایام الفلاح صفحہ 166، روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 413 از مرزا قادیانی)
- اے بد بخت مفتریو (انجام آتھم ضمیرہ صفحہ 58، روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 342 از مرزا قادیانی)
- ایہا المکذوبون الغالون (انجام آتھم صفحہ 224، روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 224، از مرزا قادیانی)
- اے شیخ احمقان (انجام آتھم صفحہ 241، روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 241 از مرزا قادیانی)
- ایہا الشیخ الضال (انجام آتھم صفحہ 251، روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 251 از مرزا قادیانی)
- اول درجہ کے کاذب (آئینہ کمالات اسلام صفحہ 601، روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 601 از مرزا قادیانی)
- تنگ اسلام مولویو (آئینہ کمالات اسلام صفحہ (د)، روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 608 از مرزا قادیانی)
- اے کوتاہ نظر مولوی (آئینہ کمالات اسلام صفحہ (د)، روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 608 از مرزا قادیانی)
- اے نفسانی مولویو (ازالہ اوہام صفحہ 105، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 105 از مرزا قادیانی)
- اے غبی (کم عقل) (مواہب الرحمن صفحہ 131، روحانی خزائن صفحہ 352 ج 19 از مرزا قادیانی)



- انسانیت کے ہر ایہ (لباس) (نور الحق حصہ 1، روحانی خزائن جلد 8 ص 4، 5 از مرزا قادیانی)  
سے بے بہرہ اور بے ہند
- اے بے ایمانو (مجموعہ اشتہارات جلد دوم صفحہ 69 از مرزا قادیانی)
- بد بخت پلید طبع مولوی (ایام الصلح صفحہ 165، روحانی خزائن جلد 14 ص 413 از مرزا قادیانی)
- بے ایمان اور اندھے (انجام آتھم ضمیرہ ص 22 / حاشیہ، روحانی خزائن جلد 11 ص 306 از مرزا قادیانی)
- بد ذات (انجام آتھم ضمیرہ ص 45، روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 329 از مرزا قادیانی)
- بندروں (انجام آتھم ضمیرہ ص 53، روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 337 از مرزا قادیانی)
- باطل پرست بطلوی (انجام آتھم ص 59، روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 59 از مرزا قادیانی)
- بدکار آدمی (شہادت القرآن ص 84، روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 380 از مرزا قادیانی)
- بے ہند (نور الحق صفحہ 3 حصہ اول، روحانی خزائن جلد 8 ص 5 از مرزا قادیانی)
- بھیڑیے (اعجاز احمدی صفحہ 39، روحانی خزائن جلد 19 ص 150 از مرزا قادیانی)
- بچھو (اعجاز احمدی صفحہ 75، روحانی خزائن جلد 19 ص 188 از مرزا قادیانی)
- بے حیا (تذکرہ الشہادتین ص 38، روحانی خزائن جلد 20 ص 40 از مرزا قادیانی)
- بڑا خبیث (ہیبتہ الوحی تترہ ص 107، روحانی خزائن ج 22 ص 543 از مرزا قادیانی)
- پلید ملاؤں (ایام الصلح ص 165، روحانی خزائن جلد 14 ص 413 از مرزا قادیانی)
- پلید جاہلوں (ایام الصلح ص 166، روحانی خزائن جلد 14 ص 414 از مرزا قادیانی)
- پلید تر (ایام الصلح ص 166، روحانی خزائن جلد 14 ص 413 از مرزا قادیانی)
- پلید دل (انجام آتھم ضمیرہ ص 4، روحانی خزائن جلد 11 ص 288 از مرزا قادیانی)
- پلید و جاں (انجام آتھم ضمیرہ ص 46، روحانی خزائن جلد 11 ص 330 از مرزا قادیانی)
- ثناء اللہ کو علم اور ہدایت (اعجاز احمدی ص 43، روحانی خزائن جلد 19 ص 155 از مرزا قادیانی)  
سے ذرہ مس نہیں
- ثناء اللہ تجھے جھوٹ کا (اعجاز احمدی ص 51، روحانی خزائن جلد 19 ص 163 از مرزا قادیانی)  
دودھ پلایا گیا
- جاہل سجادہ نشین (انجام آتھم ضمیرہ ص 18 / حاشیہ، روحانی خزائن جلد 11 ص 302 از مرزا قادیانی)
- جنگل کے وحشی (انجام آتھم ضمیرہ ص 49، روحانی خزائن جلد 11 ص 333 از مرزا قادیانی)

- جانور (نزول المسح ص 8، روحانی خزائن جلد 18 ص 386 از مرزا قادیانی)
- جنگلوں کے غول (اعجاز احمدی ص 81، روحانی خزائن جلد 19 ص 193 از مرزا قادیانی)
- جھوٹ کا گوہ کھایا (انجام آتھم ضمیمہ ص 50، روحانی خزائن جلد 11 ص 334 از مرزا قادیانی)
- جھوٹ بولنے کا سرغنہ (نزول المسح ص 9، روحانی خزائن جلد 18 ص 387 از مرزا قادیانی)
- چار پائے ہیں نہ آدمی (انجام آتھم ضمیمہ ص 10، روحانی خزائن جلد 11 ص 294 از مرزا قادیانی)
- حرامی (شہادۃ القرآن ص 3 ج، روحانی خزائن جلد 6 ص 380 از مرزا قادیانی)
- حرام زادہ (انوار اسلام ص 30، روحانی خزائن جلد 9 ص 32 از مرزا قادیانی)
- حرص کے جنگل کے شیطان (نور الحق ص 89 حصہ 1، روحانی خزائن جلد 8 ص 120 از مرزا قادیانی)
- حلال زادہ نہیں (انوار اسلام ص 30، روحانی خزائن جلد 9 ص 31 از مرزا قادیانی)
- حاطبہ لیلیٰ (آئینہ کمالات اسلام ص 600، روحانی خزائن جلد 5 ص 600 از مرزا قادیانی)
- خبیث طبع (انجام آتھم ضمیمہ صفحہ 21 / حاشیہ، روحانی خزائن جلد 11 ص 305 از مرزا قادیانی)
- خنزیر سے زیادہ پلید (انجام آتھم ضمیمہ صفحہ 21 / حاشیہ، روحانی خزائن جلد 11 ص 305 از مرزا قادیانی)
- خالی گدھے (انجام آتھم ضمیمہ صفحہ 47، روحانی خزائن جلد 11 ص 331 از مرزا قادیانی)
- خبیث نفس (شہادۃ القرآن ص 5، روحانی خزائن جلد 8 ص 382 از مرزا قادیانی)
- خبیث طینت (انجام آتھم ضمیمہ صفحہ 8، روحانی خزائن جلد 11 ص 292 از مرزا قادیانی)
- خبیث فرقہ (انجام آتھم ضمیمہ صفحہ 9 / حاشیہ، روحانی خزائن جلد 11 ص 293 از مرزا قادیانی)
- خناسوں (انجام آتھم ضمیمہ صفحہ 17 / حاشیہ، روحانی خزائن جلد 11 ص 17 از مرزا قادیانی)
- نحسین ابن نحسین (نور الحق ص 64 حصہ 1، روحانی خزائن جلد 8 ص 87 از مرزا قادیانی)
- خراب عورتوں اور (نور الحق ص 123 حصہ 1، روحانی خزائن جلد 8 ص 163 از مرزا قادیانی)
- دجال کی نسل
- خبیث النفس (ضیاء الحق ص 9، روحانی خزائن جلد 9 ص 259 از مرزا قادیانی)
- خبیث القلب (انوار اسلام ص 21، روحانی خزائن جلد 9 ص 23 از مرزا قادیانی)
- خشک دماغ (ست بچن ص 9، روحانی خزائن جلد 10 ص 121 از مرزا قادیانی)
- دل کے مجذوم (انجام آتھم ضمیمہ ص 21 / ج، روحانی خزائن جلد 11 ص 305 از مرزا قادیانی)
- دجال (انجام آتھم ضمیمہ ص 46، روحانی خزائن جلد 11 ص 330 از مرزا قادیانی)

- دنیا کے کیرے (برہین پنجم ص 143، روحانی خزائن جلد 21 ص 311 از مرزا قادیانی)
- ولہ الارض (ازالہ اوہام ص 510، روحانی خزائن جلد 3 ص 373 از مرزا قادیانی)
- دنیا کے کتے (استثناء ص 20، روحانی خزائن جلد 12 ص 128 از مرزا قادیانی)
- دجال اکبر (انجام آتھم ص 47، روحانی خزائن جلد 11 ص 47 از مرزا قادیانی)
- دیوٹوں (مجموعہ اشتہارات جلد اول ص 125 از مرزا قادیانی)
- دیوانے درندوں (ضیاء الحق ص 35، روحانی خزائن جلد 9 ص 296 از مرزا قادیانی)
- دجال فریبہ (انجام آتھم ص 204، روحانی خزائن جلد 11 ص 204 از مرزا قادیانی)
- دجال کمینہ (انجام آتھم ص 206، روحانی خزائن جلد 11 ص 206 از مرزا قادیانی)
- دجال کے ہمراہیو (مجموعہ اشتہارات جلد دوم صفحہ 69 از مرزا قادیانی)
- ذلیل (ایام الصلح ص 166، روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 413 از مرزا قادیانی)
- ذلت کے سیاہ داغ (انجام آتھم ضمیمہ ص 53، روحانی خزائن جلد 11 ص 337 از مرزا قادیانی)
- ذریت شیطان (انجام آتھم ضمیمہ ص 24 / ح، روحانی خزائن جلد 11 ص 308 از مرزا قادیانی)
- ذلت کے روسیاعی (انجام آتھم ضمیمہ ص 59، روحانی خزائن جلد 11 ص 343 از مرزا قادیانی)
- کے اندر غرق
- رئیس الدجالین (انجام آتھم ضمیمہ ص 46، روحانی خزائن جلد 11 ص 330 از مرزا قادیانی)
- رئیس المحدثین (انجام آتھم ص 241، روحانی خزائن جلد 11 ص 241 از مرزا قادیانی)
- راس الغاوین (انجام آتھم ص 241، روحانی خزائن جلد 11 ص 241 از مرزا قادیانی)
- رئیس المتصلفین (انجام آتھم ص 251، روحانی خزائن جلد 11 ص 251 از مرزا قادیانی)
- رنڈیوں کی اولاد (آئینہ کمالات اسلام ص 548، روحانی خزائن جلد 5 ص 548 از مرزا قادیانی)
- رئیس التکبرین (آئینہ کمالات اسلام ص 599، روحانی خزائن جلد 5 ص 599 از مرزا قادیانی)
- سوروں (انجام آتھم ضمیمہ ص 53، روحانی خزائن جلد 11 ص 337 از مرزا قادیانی)
- سیاہ داغ (انجام آتھم ضمیمہ ص 53، روحانی خزائن جلد 11 ص 337 از مرزا قادیانی)
- سگان قبیلہ (انجام آتھم ضمیمہ ص 229، روحانی خزائن جلد 11 ص 229 از مرزا قادیانی)
- سلطان التکبرین (انجام آتھم ضمیمہ ص 251، روحانی خزائن جلد 11 ص 251 از مرزا قادیانی)
- سفہاء (انجام آتھم ضمیمہ ص 253، روحانی خزائن جلد 11 ص 253 از مرزا قادیانی)

- سفیہوں کا نطفہ (تمہ ہدیۃ الوحی ص 14، روحانی خزائن جلد 22 ص 445 از مرزا قادیانی)
- سانپوں (نورالحق ص 23 حصہ 1، روحانی خزائن جلد 8 ص 32 از مرزا قادیانی)
- سڑے گلے مردہ (انجام آتھم ضمیرہ ص 62، روحانی خزائن جلد 11 ص 346 از مرزا قادیانی)
- شیطان (انجام آتھم ضمیرہ ص 4، روحانی خزائن جلد 11 ص 288 از مرزا قادیانی)
- شیاطین الانس (انجام آتھم ضمیرہ ص 18 / حاشیہ، روحانی خزائن جلد 11 ص 302 از مرزا قادیانی)
- شیخ نجدی (انجام آتھم ضمیرہ ص 198، روحانی خزائن جلد 11 ص 198 از مرزا قادیانی)
- شیخ احمقان (انجام آتھم ضمیرہ ص 241، روحانی خزائن جلد 11 ص 241 از مرزا قادیانی)
- شیخ الضال (انجام آتھم ضمیرہ ص 251، روحانی خزائن جلد 11 ص 251 از مرزا قادیانی)
- شقی (انجام آتھم ضمیرہ ص 252، روحانی خزائن جلد 11 ص 252 از مرزا قادیانی)
- شغال (آئینہ کمالات اسلام ص 604، روحانی خزائن جلد 5 ص 295 از مرزا قادیانی)
- شیطننت کی بدبو (آئینہ کمالات اسلام ص 301، روحانی خزائن جلد 5 ص 301 از مرزا قادیانی)
- شیخ نامہ سیاہ (آئینہ کمالات اسلام ص 306، روحانی خزائن جلد 5 ص 306 از مرزا قادیانی)
- شیخ مفضل (کرامات الصادقین ص 27، روحانی خزائن جلد 7 صفحہ 69 از مرزا قادیانی)
- شریر بھڑیے (انجام آتھم ص 9، روحانی خزائن جلد 11 ص 9 از مرزا قادیانی)
- شیخ ضال بطالوی (انجام آتھم ص 241، روحانی خزائن جلد 11 ص 241 از مرزا قادیانی)
- شیخ الضالہ (اعجاز احمدی ص 76، روحانی خزائن جلد 19 ص 188 از مرزا قادیانی)
- شیخ چالباز (کرامات الصادقین ص 22، روحانی خزائن جلد 7 ص 65 از مرزا قادیانی)
- شیاطین (نزول المسح ص 11، روحانی خزائن جلد 18 ص 389 از مرزا قادیانی)
- شریر النفس (آریہ دھرم ص 31، روحانی خزائن جلد 10 ص 31 از مرزا قادیانی)
- ضال بطالوی (انجام آتھم ص 241، روحانی خزائن جلد 11 ص 241 از مرزا قادیانی)
- ضلالت پیشہ (ہدیۃ الوحی ص 311، روحانی خزائن جلد 22 ص 324 از مرزا قادیانی)
- طوائف (انجام آتھم ضمیرہ ص 23 / حاشیہ، روحانی خزائن جلد 11 ص 307 از مرزا قادیانی)
- ظالم طبع (دافع البلاء ص 18، روحانی خزائن جلد 18 ص 238 از مرزا قادیانی)
- علیہم نعال لعن اللہ (انجام آتھم ضمیرہ ص 46، روحانی خزائن جلد 11 ص 330 از مرزا قادیانی)
- الف الف مرۃ

- عبد الشيطان (انجام آتھم ضمیرہ ص 58، روحانی خزائن جلد 11 ص 342 از مرزا قادیانی)
- عورتوں کے عار (اعجاز احمدی ص 83، روحانی خزائن جلد 19 ص 196 از مرزا قادیانی)
- عبد الحق کا منہ کالا (انجام آتھم ضمیرہ ص 58، روحانی خزائن جلد 11 ص 342 از مرزا قادیانی)
- عالون (انجام آتھم ص 224، روحانی خزائن جلد 11 ص 224 از مرزا قادیانی)
- غوی فی البطالہ (انجام آتھم ص 230، روحانی خزائن جلد 11 ص 230 از مرزا قادیانی)
- عاوین (انجام آتھم ص 254، روحانی خزائن جلد 11 ص 254 از مرزا قادیانی)
- غول (انجام آتھم ص 252، روحانی خزائن جلد 11 ص 252 از مرزا قادیانی)
- غبی (انجام آتھم ضمیرہ ص 33، روحانی خزائن جلد 11 ص 317 از مرزا قادیانی)
- غدار زمانہ (اعجاز احمدی ص 77، روحانی خزائن جلد 19 ص 190 از مرزا قادیانی)
- غول البراری (کرامات الصادقین ص (د)، روحانی خزائن جلد 7 ص 152 از مرزا قادیانی)
- غزنویوں کی جماعت (انجام آتھم ضمیرہ ص 58، 59، روحانی خزائن جلد 11 ص 342، 343 از مرزا قادیانی)
- پر لعنت
- فرعون سے مراد شیخ (انجام آتھم ضمیرہ ص 56، روحانی خزائن جلد 11 ص 340 از مرزا قادیانی)
- محمد حسین بٹالوی
- نمک یا عبد الشيطان (انجام آتھم ضمیرہ ص 58، روحانی خزائن جلد 11 ص 342 از مرزا قادیانی)
- قاسق آدمی (تترہ ہیئۃ الوحی ص 14، روحانی خزائن جلد 22 ص 445 از مرزا قادیانی)
- قوم کے خناسوں (انجام آتھم ص 17 / حاشیہ، روحانی خزائن جلد 11 ص 17 از مرزا قادیانی)
- کتے (استثناء ص 20، روحانی خزائن جلد 12 ص 128 از مرزا قادیانی)
- کج طبع (آئینہ کمالات اسلام ص 301، روحانی خزائن جلد 5 ص 301 از مرزا قادیانی)
- کوتہ نظر مولوی (آئینہ کمالات اسلام ص (د)، روحانی خزائن جلد 5 ص 608 از مرزا قادیانی)
- کوز مغزی (نزول المسح ص 66، روحانی خزائن جلد 18 ص 444 از مرزا قادیانی)
- کذاب (تترہ ہیئۃ الوحی ص 128 / ح، روحانی خزائن جلد 22 ص 565 از مرزا قادیانی)
- کیرا (ضمیرہ براہین احمدیہ پنجم ص 165، روحانی خزائن جلد 21 ص 332 از مرزا قادیانی)
- کینہ ور (چشمہ معرفت ص 131 ج 2، روحانی خزائن جلد 23 ص 336 از مرزا قادیانی)
- کینگی (مواہب الرحمن ص 13، روحانی خزائن جلد 19 ص 352 از مرزا قادیانی)

(اعجاز احمدی ص 43، روحانی خزائن جلد 19 ص 155 از مرزا قادیانی)	کرگس	<input type="checkbox"/>
(کرامات الصادقین ص 6، روحانی خزائن جلد 7 ص 48 از مرزا قادیانی)	کجدل	<input type="checkbox"/>
(الہدی ص 18، روحانی خزائن جلد 18 ص 262 از مرزا قادیانی)	کینوں	<input type="checkbox"/>
(انجام آتھم ص 206، روحانی خزائن جلد 11 ص 206 از مرزا قادیانی)	کینہ	<input type="checkbox"/>
(انجام آتھم ضمیمہ ص 25، روحانی خزائن جلد 11 ص 309 از مرزا قادیانی)	کتوں	<input type="checkbox"/>
(انجام آتھم ص 265، روحانی خزائن جلد 11 ص 265 از مرزا قادیانی)	کلانعام	<input type="checkbox"/>
(انجام آتھم ضمیمہ ص 21 / حاشیہ، روحانی خزائن جلد 11 ص 305 از مرزا قادیانی)	گندی روجو	<input type="checkbox"/>
(انجام آتھم ضمیمہ ص 47، روحانی خزائن جلد 11 ص 331 از مرزا قادیانی)	گدھے	<input type="checkbox"/>
(تتمہ حقیقۃ الوحی ص 115، روحانی خزائن جلد 21 ص 320 از مرزا قادیانی)	گمراہ	<input type="checkbox"/>
(مواہب الرحمن ص 13، روحانی خزائن جلد 19 ص 352 از مرزا قادیانی)	گرگ	<input type="checkbox"/>
(نور الحق ص 89 ج 1، روحانی خزائن جلد 8 ص 120 از مرزا قادیانی)	گمراہی اور حرص	<input type="checkbox"/>
	جنگل کے شیطان	
(تتمہ حقیقۃ الوحی ص 15-14 ج، روحانی خزائن جلد 22 ص 445 از مرزا قادیانی)	لیموں	<input type="checkbox"/>
(براہین احمدیہ پنجم ص 149، روحانی خزائن جلد 21 ص 317 از مرزا قادیانی)	لاف و گزاف کے بیٹے	<input type="checkbox"/>
(انجام آتھم ضمیمہ 21 / حاشیہ، روحانی خزائن جلد 11 ص 305 از مرزا قادیانی)	مردار خور	<input type="checkbox"/>
(انجام آتھم ضمیمہ ص 53، روحانی خزائن جلد 11 ص 337 از مرزا قادیانی)	منخوس چہروں	<input type="checkbox"/>
(انجام آتھم ضمیمہ ص 58، روحانی خزائن جلد 11 ص 342 از مرزا قادیانی)	مفتریو	<input type="checkbox"/>
(انجام آتھم ص 252، روحانی خزائن جلد 11 ص 252 از مرزا قادیانی)	ملعونین	<input type="checkbox"/>
(آئینہ کمالات اسلام ص 402، روحانی خزائن جلد 5 ص 402 از مرزا قادیانی)	منخوش	<input type="checkbox"/>
(نزول المسیح ص 224، روحانی خزائن جلد 18 ص 602 از مرزا قادیانی)	مردار	<input type="checkbox"/>
(تتمہ حقیقۃ الوحی ص 15-14 ج، روحانی خزائن جلد 22 ص 445 از مرزا قادیانی)		<input type="checkbox"/>
(تتمہ حقیقۃ الوحی ص 15-14 ج، روحانی خزائن جلد 22 ص 445 از مرزا قادیانی)		<input type="checkbox"/>
(آسمانی فیصلہ ص 32، روحانی خزائن جلد 4 ص 342 از مرزا قادیانی)	گس طینت مولویوں	<input type="checkbox"/>
(استثناء ص 20، روحانی خزائن جلد 12 ص 128 از مرزا قادیانی)	تھپٹا الحواس	<input type="checkbox"/>
(انجام آتھم ضمیمہ ص 28 / حاشیہ، روحانی خزائن جلد 11 ص 312 از مرزا قادیانی)	مخالفوں کی ذلت	<input type="checkbox"/>

- مولویوں کی ذلت (انجام آتھم ص 24 / ح، روحانی خزائن جلد 11 ص 24 از مرزا قادیانی)
- مولوی سخت ذلیل (انجام آتھم ص 24 / ح، روحانی خزائن جلد 11 ص 24 از مرزا قادیانی)
- مکذوبوں (انجام آتھم ص 224، روحانی خزائن جلد 11 ص 224 از مرزا قادیانی)
- منحوس (تمتہ حقیقۃ الوحی ص 14، روحانی خزائن جلد 22 ص 445 از مرزا قادیانی)
- مغرور (تمتہ حقیقۃ الوحی ص 115، روحانی خزائن جلد 22 ص 551 از مرزا قادیانی)
- مجنون درندہ (آسمانی فیصلہ ص 14، روحانی خزائن جلد 4 ص 324 از مرزا قادیانی)
- ناپاک طبع (ایام الصلح ص 165، روحانی خزائن جلد 14 ص 413 از مرزا قادیانی)
- نادان بطلوی (انجام آتھم ص 20 / حاشیہ، روحانی خزائن جلد 11 ص 20 از مرزا قادیانی)
- نفاق زدہ (انجام آتھم ص 24 / حاشیہ، روحانی خزائن جلد 11 ص 24 از مرزا قادیانی)
- نیم عیسائیو (مجموعہ اشتہارات جلد دوم صفحہ 69 از مرزا قادیانی)
- تالائق نذیر حسین (انجام آتھم ص 45، روحانی خزائن جلد 11 ص 45 از مرزا قادیانی)
- نجاست خور جانور (نزول اسح ص 8، روحانی خزائن جلد 18 ص 386 از مرزا قادیانی)
- تابکاروں (انجام آتھم ضمیمہ ص 24 (حاشیہ)، روحانی خزائن جلد 11 ص 308 از مرزا قادیانی)
- نادان صحابی (براہین احمدیہ پنجم ص 120، روحانی خزائن جلد 21 ص 285 از مرزا قادیانی)
- تالائق چیلوں (ضیاء الحق ص 27، روحانی خزائن جلد 9 ص 285 از مرزا قادیانی)
- ناپاک فرقہ (انجام آتھم ضمیمہ ص 23 / ح، روحانی خزائن جلد 11 ص 308 از مرزا قادیانی)
- وہ گدھا ہے نہ انسان (انجام آتھم ضمیمہ ص 47، روحانی خزائن جلد 11 ص 331 از مرزا قادیانی)
- جنگل کے وحشی (انجام آتھم ضمیمہ ص 49، روحانی خزائن جلد 11 ص 333 از مرزا قادیانی)
- ولد الحرام (انوار اسلام ص 30، روحانی خزائن جلد 9 ص 31 از مرزا قادیانی)
- ولد الحلال نہیں (انوار اسلام ص 29، روحانی خزائن جلد 9 ص 31 از مرزا قادیانی)
- واہ رے شیخ چلی کے (انوار اسلام ص 30، روحانی خزائن جلد 9 ص 40 از مرزا قادیانی)
- بڑے بھائی
- والد جال البطال (انجام آتھم ص 251، روحانی خزائن جلد 11 ص 251 از مرزا قادیانی)
- ہامان (انجام آتھم ضمیمہ ص 56، روحانی خزائن جلد 11 ص 340 از مرزا قادیانی)
- ہندو زادہ (انجام آتھم ص 59 حاشیہ، روحانی خزائن جلد 11 ص 59 از مرزا قادیانی)

- ہوا و ہوس کا بیٹا (اعجاز احمدی ص 43، روحانی خزائن جلد 19 ص 154 از مرزا قادیانی)
- ہزار لعنت کا رسہ (مجموعہ اشتہارات جلد دوم ص 77 از مرزا قادیانی)
- ہچو گرگ (مواہب الرحمن ص 131، روحانی خزائن جلد 19 ص 352 از مرزا قادیانی)
- ہچو جنین (مواہب الرحمن ص 138، روحانی خزائن جلد 19 ص 359 از مرزا قادیانی)
- یہودی صفت (انجام آتھم ضمیرہ ص 3، روحانی خزائن جلد 11 ص 287 از مرزا قادیانی)
- یادہ گوہ (انجام آتھم ضمیرہ ص 19 / ح، روحانی خزائن جلد 11 ص 303 از مرزا قادیانی)
- یہودی سیرت (انجام آتھم ص 24 / ح، روحانی خزائن جلد 11 ص 24 از مرزا قادیانی)
- یہودی (انجام آتھم ضمیرہ ص 45، روحانی خزائن جلد 11 ص 329 از مرزا قادیانی)
- یا شیخ الصلوات (اعجاز احمدی ص 76، روحانی خزائن جلد 19 ص 188 از مرزا قادیانی)
- یک چشم (انجام آتھم ضمیرہ ص 24 / ح، روحانی خزائن جلد 11 ص 308 از مرزا قادیانی)
- یہودیت کا خمیر (انجام آتھم ضمیرہ ص 21 / ح، روحانی خزائن جلد 11 ص 305 از مرزا قادیانی)
- یہ غول البراری (کرامات الصادقین صفحہ 9)، روحانی خزائن جلد 7 ص 152 از مرزا قادیانی)

## گالیاں دینے کی وجہ

- (40) ”جب انسان دلائل سے ٹکست کھاتا اور ہار جاتا ہے۔ تو گالیاں دینی شروع کر دیتا ہے اور جس قدر کوئی زیادہ گالیاں دیتا ہے اسی قدر اپنی ٹکست کو ثابت کرتا ہے۔“
- (انوار خلافت صفحہ 20 مندرجہ انوار العلوم جلد 3 صفحہ 80 از مرزا بشیر الدین محمود ابن مرزا قادیانی)
- (عکس صفحہ نمبر 514 پر)





ثبوتِ حاضرین!

لَعْنَتِ بَازِي

مرزا قادیانی کا پسندیدہ مشغلہ



لعنت کے معنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونے کے ہوتے ہیں۔ لعنت جس قدر بری چیز ہے، اس قدر اس کے کرنے پر پابندیاں بھی عائد کی گئی ہیں۔ کسی مسلمان پر لعنت کرنا حرام ہے۔

حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ”نہیں ہے مسلمان طعنہ کرنے والا نہ لعنت کرنے والا اور نہ بدگو۔“ (ترمذی)

حضرت ابوودرؤا فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”جب بندہ کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے، جس پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں پھر وہ زمین کی طرف اترتی ہے تو زمین کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں (یعنی زمین اس لعنت کو قبول نہیں کرتی) پھر وہ دائیں بائیں گھومتی ہے، جب کہیں اس کو راستہ نہیں ملتا تو جس پر لعنت کی گئی ہے، اس کے پاس پہنچتی ہے۔ اگر وہ واقعی لعنت کا مستحق ہے تو اس پر پڑتی ہے ورنہ پھر کہنے والے پر پڑ جاتی ہے۔“ (ابوداؤد)

ایک اور موقع پر نبی کریم ﷺ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: ”مسلمان کو لعنت کرنا قتل کرنے کے مترادف ہے۔“ (اور قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے بلکہ قرآن مجید کے مطابق ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے)۔

جھوٹا مدعی نبوت آنجہانی مرزا قادیانی اپنے مخالفین کی تنقید پر فوراً طیش میں آ جاتا، آنکھیں سرخ اور منہ میں جھاگ آ جاتی اور پھر وہ اپنے مخالفین کو دل بھر کر نکسالی زبان میں گالیاں دیتا اور اندھا دھند لعنت بازی کی کلاشکوف چلا دیتا۔ جبکہ اس کا یہ بھی دعویٰ ہے:

میں امام الزماں ہوں

(41) ”اس زمانہ میں امام الزمان کون ہے جس کی پیروی تمام عام مسلمانوں اور زاہدوں

اور خواب بینوں اور ملہموں کو کرنی خدا تعالیٰ کی طرف سے فرض قرار دیا گیا ہے۔ سو میں اس وقت بے دھڑک کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے فضل اور عنایت سے وہ امام الزمان میں ہوں۔“  
(ضرورۃ الامام صفحہ 25 مندرجہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 495 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 515 پر)

### مومن لعان نہیں ہوتا

(42) ”لعنت بازی صدیقیوں کا کام نہیں۔ مومن لعان نہیں ہوتا۔“  
(ازالہ اوہام صفحہ 660 مندرجہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 456 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 516 پر)

قارئین کرام: آئیے دیکھتے ہیں ”سلطان القلم“ کی ”گل افشائیاں!“

### 10 لعنتیں

(43) ”میرے دل سے اس وقت حق کی تائید کے لیے ایک بات نکلتی ہے اور میں اس کو روک نہیں سکتا کیونکہ وہ میرے نفس سے نہیں بلکہ القاء ربی ہے جو بڑے زور سے جوش مار رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب کہ آپ نے مجھے کافر ٹھہرایا اور جھوٹ بولنا میری سرشت کا خاصہ قرار دیا تو اب آپ کو اللہ جل شانہ کی قسم ہے کہ حسب طریق مذکورہ بالا میرے مقابلہ پر فی الفور آ جاؤ تا دیکھا جائے کہ قرآن کریم اور فرمودہ نبی ﷺ کے رو سے کون کاذب اور دجال اور کافر ثابت ہوتا ہے اور اگر اس تبلیغ کے بعد ہم دونوں میں سے کوئی شخص متخلف رہا اور باوجود اشد غلو اور تکفیر اور تکذیب اور تفسیق کے میدان میں نہ آیا اور شغال کی طرح ڈم دبا کر بھاگ گیا تو وہ مندرجہ ذیل انعام کا مستحق ہوگا۔

(1) لعنت

(2) لعنت

(3) لعنت

(4) لعنت

(5) لعنت

- (6) لعنت  
 (7) لعنت  
 (8) لعنت  
 (9) لعنت  
 (10) لعنت

تک عشرۃ کاملہ..... میں علی وجہ البصیرت یقین رکھتا ہوں کہ آپ صرف استخوان فروش ہیں اور علم اور روایت اور تقہ سے سخت بے بہرہ اور ایک غبی اور پلید آدمی ہیں..... اب آپ کسی حیلہ و بہانہ سے گریز نہیں کر سکتے..... اب آپ کسی حیلہ و بہانہ سے گریز نہیں کر سکتے، اب تو دس لعنتیں آپ کی خدمت میں نذر کر دی ہیں اور اللہ جل شانہ کی قسم بھی دی ہے کہ آپ آسانی طریق سے میرے ساتھ صدق اور کذب کا فیصلہ کر لیں۔ اگر آپ مجھ کو جھوٹا سمجھنے میں سچے ہیں تو میری اس بات کو سنتے ہی مقابلہ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ ورنہ ان تمام لعنتوں کو ہضم کر جائیں گے اور کچے اور بیہودہ عذرات سے ٹال دیں گے اور میں آپ کو ہلاک کرنا نہیں چاہتا۔ ایک ہی ہے جو آپ کو درحالت نہ باز آنے کے ہلاک کرے گا اور اپنے دین کو آپ کے اس فتنہ سے نجات دے گا اور آپ کے قادیان آنے کی کچھ ضرورت نہیں۔ اگر آپ اللہ اور رسول کے نشان کے موافق آزمائش کے لیے مستعد ہوں تو میں خود بٹالہ اور امرتسر اور لاہور میں آسکتا ہوں، تاسیہ روئے شود ہر کہ دروغش باشد۔“

(مکتوبات احمد جلد اول طبع جدید صفحہ 341، 342، 352، 353 از مرزا قادیانی)  
 (عکس صفحہ نمبر 517، 518، 519، 520 پر)

### لعنت، لعنت، لعنت..... 1000

(44) مرزا قادیانی کی ذہنی کیفیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس نے کسی پر لعنت ڈالی تو بجائے یہ کہنے کے کہ تجھ پر ہزار لعنت ہو یا تحریری طور پر اسے اس طرح لکھ دیتا مگر اس نے باقاعدہ لعنت نمبر 1، لعنت نمبر 2، لعنت نمبر 3..... لعنت نمبر 1000 تک لکھ دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قادیانی ذریعہ البغایا سے سلطان القلم کہتی ہے۔ براہ کرم یہ اصل حوالہ ضرور ملاحظہ فرمائیں۔

(نور الحق صفحہ 118 تا 122 مندرجہ روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 158 تا 162 از مرزا قادیانی)  
 (عکس صفحہ نمبر 521، 522، 523، 524، 525 پر)

## 10 لاکھ لعنتیں

(45) ”اے بدذات یہودی صفت پادریوں کا اس میں منہ کالا ہوا۔ اور ساتھ ہی تیرا بھی۔ اور پادریوں پر ایک آسمانی لعنت پڑی اور ساتھ ہی وہ لعنت تجھ کو بھی کھا گئی۔ اگر تو سچا ہے تو اب ہمیں دکھلا کہ آتھم کہاں ہے؟ اے خبیث کب تک تو جئے گا؟ کیا تیرے لیے ایک دن موت کا مقرر نہیں۔ ایسا ہی ذرہ انصاف کرنا چاہیے کہ کس قوت اور چمک سے کسوف اور خسوف کی پیشگوئی پوری ہوئی اور ہمارے دعویٰ پر آسمان نے گواہی دی۔ مگر اس زمانہ کے ظالم مولوی اس سے بھی منکر ہیں۔ خاص کر رئیس الدجالین عبدالحق غزنوی اور اس کا تمام گروہ علیہم نعال لعن اللہ الف الف مرة.“ (یعنی ان پر 10 لاکھ جوتے اور اللہ کی لعنتیں)

(انجام آتھم صفحہ 45 مندرجہ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 329، 330 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 526، 527 پر)

## جب دل بگڑتا ہے

مرزا قادیانی کا کہنا ہے:

(46) ”جب دل بگڑتا ہے تو زبان ساتھ ہی بگڑ جاتی ہے۔“

(آسمانی فیصلہ صفحہ 37 مندرجہ روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 347 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 528 پر)

## یہ خدا کا کلام ہے

اپنی بیہودہ گفتگو کے بارے میں مرزا قادیانی کا کہنا ہے:

(47) ”میں نے بار بار بیان کر دیا ہے کہ یہ کلام جو میں سناتا ہوں یہ قطعی اور یقینی طور پر

خدا کا کلام ہے جیسا کہ قرآن اور توریت خدا کا کلام ہے۔“

(تحفہ الندوہ صفحہ 7 مندرجہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 95 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 529 پر)

قارئین کرام! اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ مرزا قادیانی اپنی ”بکواسیات“ اور

”لغویات“ کو کیا درجہ دے رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں:

”جب نثنی بانس پر چڑھے تو گھونگھٹ کیا۔“



تہذیب و جاہل و ہیر!

قادیانی و کشمیری





تاویلات کے گورکھ دھندے کا دوسرا نام ”قادیانیت“ ہے۔ مرزا قادیانی، اس کے جانشین اور قادیانی مریمان بلاشبہ تاویل کے ہنر میں باکمال بازیگر ہیں۔ مگر افسوس! یہ دیا علم الکلام، یہ جدید لغت، روایتی عقیدت مندوں کے ذہنی اطمینان کے لیے ہی اکسیر ثابت ہو سکتا ہے۔ جو شخصی معروضی اساس پر اس بھان متی کے کنبے کو دیکھتا ہے تو وہ اپنی بے ساختہ ہنسی ضبط نہیں کر سکتا۔ یوں دیکھا جائے تو مرزا قادیانی اور اس کے قبعین کے فکری آفاق بڑے ہی محدود واقع ہوئے ہیں۔ علمی لحاظ سے ”قادیانیت“ کا پیڈنٹل بڑا ہی مختصر اور بہت ہی کم تر ہے۔ سچ کہا گیا ہے: صدرہ پڑھ کر بھی احمق رہے۔

اس تناظر میں قادیانی ڈکشنری کے چند نمونے ملاحظہ فرمائیے:-

## اعتراف

(48) ”ایک نئے معنی اپنی طرف سے گھڑ لینا بھی تو الحاد اور تحریف ہے۔ خدا تعالیٰ مسلمانوں کو اس سے بچائے۔“

(ازالہ اوہام صفحہ 745 مندرجہ روحانی خزائن، جلد 3 صفحہ 501، از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 530 پر)

## کدعہ سے مراد قادیان

(49) ”اب دیکھو یہ تین سوتیرہ مخلص جو اس کتاب میں درج ہیں، یہ اسی پیشگوئی کا مصداق ہے جو احادیث رسول اللہ ﷺ میں پائی جاتی ہے۔ پیشگوئی میں کدعہ کا لفظ بھی ہے جو صریح قادیان کے نام کو بتلا رہا ہے پس تمام مضمون اس حدیث کا یہ ہے کہ وہ

مہدی موعود قادیان میں پیدا ہوگا اور اس کے پاس ایک کتاب چھپی ہوئی ہوگی جس میں تین سو تیرہ اس کے دوستوں کے نام درج ہوں گے۔“

(انجام آتھم صفحہ 45 مندرجہ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 329 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 531 پر)

اس ضمن میں مولانا محمد رفیق دلاوری لکھتے ہیں:

”امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت مہدیؑ، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہوں گے۔ ان کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوگی اور بیت المقدس کی طرف ہجرت فرمائیں گے۔ اخرجہ نعیم بن حماد اور شیخ علی متقی نے رسالہ ”البرہان فی احوال مہدی آخر الزمان“ میں لکھا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں متولد ہوں گے۔ مکہ مکرمہ میں ظہور فرمائیں گے۔ بیت المقدس کی طرف ہجرت کریں گے اور اسی جگہ انتقال فرمائیں گے۔ (تج الکرامہ، صفحہ 358) لیکن اس کے برخلاف امام مستغفری نے ”دلائل الغیۃ“ میں عبداللہ بن عمرؓ سے روایت کی ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کرمہ نامی ایک گاؤں میں پیدا ہوں گے۔ (ایضاً) اسی طرح میزان الاعتدال میں کامل ابن عدی سے نقل کیا ہے کہ مہدی ایک گاؤں سے ظاہر ہوں گے جس کا نام کرمہ ہوگا۔ (میزان الاعتدال، جلد 2، صفحہ 161) غرض مہدی علیہ السلام کی جائے ولادت میں روایات مختلف ہیں۔ میرے خیال میں اگر صحیح ہیں تو وہی روایات صحیح ہو سکتی ہیں جن میں صاحب الزمان مہدی علیہ السلام کا مدینہ منورہ میں متولد ہونا مذکور ہے۔ رہی کرمہ میں پیدا ہونے کی مؤخر الذکر روایتیں سو وہ پایہ اعتبار سے ساقط ہیں کیونکہ ان کا ایک راوی عبدالوہاب بن ضحاک ضعیف ہے۔ نسائی نے اس کو متروک الحدیث اور دارقطنی نے منکر الحدیث لکھا ہے اور ابو حاتم نے اسے کاذب بتایا ہے۔ (میزان الاعتدال، جلد 2، صفحہ 160)

کرمہ والی روایت ایک جھوٹے راوی عبدالوہاب بن ضحاک کا من گھڑت افسانہ ہے۔ لیکن مسیح قادیان کو اس سے کوئی سروکار نہ تھا کہ کوئی روایت صحیح ہے یا سقیم۔ بلکہ وہ تو ہمیشہ یہ دیکھا کرتے تھے کہ کس چیز سے ان کے آشیانہ مہدویت و مسیحیت کے لیے کوئی تنکا فراہم ہو سکتا ہے؟ جب کوئی روایت خلاف مدعا ہوتی تھی تو صحیحین کی متفق علیہ حدیث سے بھی، جس کی صحت ساری دنیا کے علماء اور ہر زمانہ کے مسلمانوں کے نزدیک مسلم رہی ہے، روگردان ہو

جاتے اور اگر مفید مطلب ہوتی تو چاہے کسی ہی مبتذل روایت کیوں نہ ہو اسے صحیح قرار دے کر اپنے پروپیگنڈا کا آلہ کار بنا لیتے۔ کرمہ والی روایت کو بھی انہوں نے مفید مطلب سمجھ کر لے لیا اور بساطِ زندگی پرستی پر قدم رکھ کر اس سے اپنی خانہ ساز مہدویت پر استدلال کرنے لگے۔ اگر محض کسی ضعیف روایت کو اپنے دعویٰ کی تائید میں پیش کرتے تو کوئی انوکھی بات نہیں تھی کیونکہ دنیا میں تقدس کے جتنے جھوٹے دکاندار گزرے ہیں انہوں نے موضوع اور مجروح روایات کی آڑ لے کر خلقِ خدا کو گمراہ کیا ہے لیکن قادیان کے ”مسح موعود“ میں تو یہ کمال تھا کہ لغو روایات سے مطلب براری تو ایک طرف رہی، موضوع یا ضعیف روایتوں میں بھی حسبِ دلخواہ تصرف کر کے ان کو اپنے سانچے میں ڈھال لیتے تھے، چنانچہ مندرجہ ذیل تحریروں سے آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے کرمہ کو کدعہ میں تبدیل کر کے کس طرح مطلب براری کی نامراد کوشش کی۔ لکھتے ہیں:

□ ”ایسا ہی احادیث میں یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ مہدی موعود ایسے قصبہ کا رہنے والا ہوگا جس کا نام کدعہ یا کدیہ ہوگا۔ اب ہر ایک دانا سمجھ سکتا ہے کہ یہ لفظ کدعہ دراصل قادیان کے لفظ کا مخفف ہے۔“

(کتاب البریہ، صفحہ 243 مندرجہ روحانی خزائن، جلد 13 صفحہ 260، 261 از مرزا قادیانی) دوسری جگہ لکھتے ہیں:

□ ”میری نسبت قرآن کریم نے اس قدر پورے پورے قرائن اور علامات کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ ایک طور سے میرا نام بتلا دیا ہے اور حدیثوں میں کدعہ کے لفظ سے میرے گاؤں کا نام موجود ہے۔“

(تذکرۃ الشہادتین، صفحہ 39 مندرجہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 40 از مرزا قادیانی) جبکہ ایک اور جگہ پر لکھتے ہیں:

□ ”اور میرے بزرگوں کے پرانے کاغذات سے جواب تک محفوظ ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس ملک میں سمرقند سے آئے تھے اور ان کے ساتھ قریباً دو سو آدمی ان کے توابع اور خدام اور اہل و عیال میں سے تھے اور وہ ایک معزز رئیس کی حیثیت سے اس ملک میں داخل ہوئے اور اس قصبہ کی جگہ میں جو اس وقت ایک جنگل پڑا ہوا تھا جو لاہور سے ٹھمنیا بفاصلہ پچاس کوس بگوشہ شمال مشرق واقع ہے، فروکش ہو گئے جس کو انہوں نے آباد کر کے اس کا نام اسلام پور رکھا۔ جو پیچھے سے اسلام پور قاضی ماجھی کے نام سے مشہور ہوا اور رفتہ رفتہ اسلام پور کا لفظ لوگوں کو بھول گیا۔ اور قاضی ماجھی کی جگہ پر قاضی رہا اور پھر آخر قادی بنا اور پھر اس سے بگڑ کر

قادیان بن گیا اور قاضی ماجھی کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ علاقہ جس کا طولانی حصہ تقریباً ساٹھ کوس ہے، اُن دنوں میں سب کا سب ہاتھ کھلاتا تھا۔ غالباً اس وجہ سے اس کا نام ہاتھ تھا کہ اس ملک میں بھینسیں بکثرت ہوتی تھیں اور ماجھ زبان ہندی میں بھینس کو کہتے ہیں۔“

(کتاب البریہ صفحہ 145، 146 مندرجہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 163، 164 (حاشیہ) از مرزا قادیانی)

لوگ معترض ہیں کہ مرزا قادیانی نے اپنا ابوسیدھا کرنے کے لیے کرمہ کو کدعہ میں تبدیل کر کے اپنے دامن تقدس پر بددیانتی کا داغ لگایا۔ لیکن میرے نزدیک بددیانتی کا الزام کسی حد تک بے محل ہے۔ ”بوقت ضرورت“ ایک آدھ حرف کو دوسرے حرف سے تبدیل کر لینے میں کوئی لمبی چوڑی بددیانتی لازم نہیں آتی۔ بلکہ سچ پوچھو تو یہ مرزا قادیانی کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے کرمہ کی جگہ کدعہ اور کدیہ لکھ کر لغات عرب میں دو لفظوں کا اضافہ فرما دیا۔ ع: ایں چہ احسان است قربانت شوم۔ البتہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ حضرت ”سج موعوذ“ صاحب نے آسان طریق چھوڑ کر سنگلاخ راستہ اختیار کیا۔ اگر کرمہ کی روایتوں کے بجائے ان روایات سے مطلب براری کی کوشش فرماتے جن میں حضرت مہدی علیہ السلام کا مدینہ طیبہ میں متولد ہونا مذکور ہے تو ان کے لیے مہدی بننے میں زیادہ سہولت رہتی۔ کیونکہ مدینہ اور قادیاں میں حرف وال مشترک ہے۔ کرمہ کو کدعہ بنا کر قادیاں قرار دینے میں جو تکلف کیا گیا، وہ مدینہ کو قادیاں بنا لینے کی صورت میں نہ کرنا پڑتا۔ موخر الذکر طریق استدلال میں صرف اتنا کہنے کی ضرورت تھی کہ ”مدینہ سے قادیاں مراد ہے کیونکہ دونوں میں حرف وال موجود ہے۔“ لیکن یہ پیرایہ کیوں نہ اختیار کیا؟ اس لیے کہ یہ جعہ مطہرہ اسلامی عظمت کا اولین گہوارہ جناب حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دارالہجرت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے۔ یہیں سے اسلامی علم و عمل کے سرچشمے پھوٹے اور دنیا حلاوت اندوز رشد و سعادت ہوئی۔ مرزا قادیانی سمجھتے تھے کہ مسلمان ان کی تمام تعلقوں اور لن ترانوں کو برداشت کر لیں گے لیکن مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین و تفسیح ہرگز گوارا نہ کریں گے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ قادیانی نے کرمہ کو تو اپنی توجہ کا مرکز بنایا لیکن مدینہ منورہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی۔“ (رئیس قادیان از مولانا محمد رفیق دلاوری)

## ادنی الارض سے مراد قادیان

(50) ”خواب میں دیکھا کہ میرے پاس مرزا غلام قادر میرے بھائی کھڑے ہیں اور

میں یہ آیت قرآن شریف کی پڑھتا ہوں غَلَبَتِ الرُّومُ فِي أَذْنِي الْأَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ  
غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ اور کہتا ہوں کہ أَذْنِي الْأَرْضِ سے قادیان مراد ہے اور میں کہتا ہوں کہ  
قرآن شریف میں قادیان کا نام درج ہے۔“

(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات صفحہ 649 طبع چہارم از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 532 پر)

## دمشق سے مراد قادیان

(51) ”صحیح مسلم میں یہ جو لکھا ہے کہ حضرت مسیح دمشق کے منارہ سفید شرقی کے پاس  
اتریں گے..... دمشق کے لفظ کی تعبیر میں میرے پر منجانب اللہ یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اس جگہ  
ایسے قصبہ کا نام دمشق رکھا گیا ہے، جس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو یزیدی الطبع اور یزید پلید  
کی عادات اور خیالات کے پیرو ہیں..... مجھ پر یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ دمشق کے لفظ سے دراصل  
وہ مقام مراد ہے، جس میں یہ دمشق والی مشہور خاصیت پائی جاتی ہے۔“

(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات صفحہ 141 طبع چہارم از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 533 پر)

## ”قرآن مجید قادیان کے قریب نازل ہوا“

(52) ”انا انزلناہ قریباً من القادیان“

اس کی تفسیر یہ ہے کہ انا انزلناہ قریباً من دمشق بطرف شرقی عند  
المنارة البيضاء کیونکہ اس عاجز کی سکونتی جگہ قادیان کے شرقی کنارہ پر ہے۔“

(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات صفحہ 59 طبع چہارم از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 534 پر)

## یروشلم سے مراد قادیان

(53) ”ذکریا 14 باب میں مذکور ہے کہ آخری زمانہ میں مسیح موعود کے عہد میں سخت  
طاعون پڑے گی۔ اس زمانہ میں تمام فرقے دنیا کے متفق ہوں گے کہ یروشلم کو تباہ کر دیں۔ تب  
انہی دنوں میں طاعون پھوٹے گی اور اسی دن یوں ہوگا کہ جیتا پانی یروشلم سے جاری ہوگا یعنی

خدا کا مسیح ظاہر ہو جائے گا اور اس جگہ یروشلم سے مراد بیت المقدس نہیں ہے بلکہ وہ مقام ہے جس سے دین کے زندہ کرنے کے لیے الہی تعلیم کا چشمہ جوش مارے گا اور وہ قادیان ہے۔ جو خدا تعالیٰ کی نظر میں دارالامان ہے۔ خدا تعالیٰ نے جیسا کہ اس امت کے خاتم الخلفا کا نام مسیح رکھا ایسا ہی اس کے خروج کی جگہ کا نام یروشلم رکھ دیا اور اُس کے مخالفوں کا نام یہود رکھ دیا۔“  
(نزول اسح صفحہ 44 مندرجہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 420 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 535 پر)

### مقام لُد سے مراد لدھیانہ

(54) ”اَوَّلُ بَلَدَةٍ بَايَعَنِي النَّاسُ فِيهَا اسْمُهَا لَدِّيَانَةُ. وَهِيَ اَوَّلُ اَرْضٍ قَامَتِ الْاَشْرَارُ فِيهَا لِلْاِهَانَةِ. فَلَمَّا كَانَتْ بَيْعَةَ الْمَخْلَصِينَ. حُرْبَةً لِقَتْلِ الدَّجَالِ اللَّعِينِ. بِاشَاعَةِ الْحَقِّ الْمُبِينِ. اشِيرُ فِي الْحَدِيثِ اَنَّ الْمَسِيحَ يَقْتُلُ الدَّجَالَ عَلٰى بَابِ اللَّدِّ بِالضَّرْبَةِ الْوَاحِدَةِ فَاللَّدُّ مَلْخَصٌ مِنْ لَفْظِهِ لَدِّيَانَةُ كَمَا لَا يَخْفَى عَلٰى ذَوِي الْفِطْنَةِ.“  
(الہدی صفحہ 92 مندرجہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 341 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 536 پر)  
(ترجمہ): ”سب سے پہلے میرے ساتھ لودھانہ میں بیعت ہوئی تھی جو دجال کے قتل کے لیے ایک حربہ (ہتھیار) تھی۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ مسیح موعود دجال کو باب لد میں قتل کرے گا۔ پس لد دراصل مختصر ہے لدھیانہ سے۔“

مرزا قادیانی نے ایک اور جگہ پر لکھا:

(55) ”لُدُّ اِنَّ لَوْكُوْنَ كُوْكَتِي هِيْنَ جُوْبِيْ جَابِجْمُكْرُنِيْ وَالِيْ هُوْنَ.“

(ازالہ اوہام صفحہ 730 مندرجہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 492 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 537 پر)

حالانکہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مقام لد پر قتل کریں گے۔ لد آج کل اسرائیل کا ایئر بیس ہے۔

## مسجد اقصیٰ سے مراد قادیان کی مسجد

(56) ”مسجد اقصیٰ سے مراد مسیح موعود کی مسجد ہے جو قادیان میں واقع ہے۔ جس کی نسبت براہین احمدیہ میں خدا کا کلام یہ ہے۔ مبارک و مبارک و کل امر مبارک يجعل فیہ۔ اور یہ مبارک کا لفظ جو بصیغہ مفعول اور فاعل واقع ہوا، قرآن شریف کی آیت بار کنا حولہ کے مطابق ہے۔ پس کچھ شک نہیں جو قرآن شریف میں قادیان کا ذکر ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ سبحان الذی اسرىٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بار کنا حولہ۔“

(خطبہ الہامیہ صفحہ 21 مندرجہ روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 21 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 538 پر)

## جہنم سے مراد طاعون

(57) ”یاد رہے کہ میرے تمام الہامات میں جہنم سے مراد طاعون ہے۔“

(حقیقۃ الوحی صفحہ 145 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 583 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 539 پر)

## محدث سے مراد نبوت

(58) ”اے نادانو! میری مراد نبوت سے یہ نہیں کہ میں نعوذ باللہ آنحضرت ﷺ کے مقابل پر کھڑا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں، یا کوئی نئی شریعت لایا ہوں۔ صرف مراد میری نبوت سے کثرت مکالمت و مخاطبت الہیہ ہے جو آنحضرت ﷺ کی اتباع سے حاصل ہے۔ سو مکالمہ اور مخاطبہ کے آپ لوگ بھی قائل ہیں۔ پس یہ صرف لفظی نزاع ہوئی۔ یعنی آپ لوگ جس امر کا نام مکالمہ و مخاطبہ رکھتے ہیں میں اس کی کثرت کا نام بحکم الہی نبوت رکھتا ہوں۔ ولکل ان یصطلح اور میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے اور اسی نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے۔“

(حقیقۃ الوحی تترہ صفحہ 68، مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 503)

پس آپ کے دعویٰ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور نہ ہی آپ کا کوئی الہام یا آپ کی کوئی تحریر منسوخ ہوئی، بلکہ نبوت کی مسلمانوں میں رائج تعریف کے پیش نظر 1901ء سے پہلے آپ نبی کے لفظ کو ظاہر سے پھیر کر بمعنی محدث لیتے تھے لیکن 1901ء کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو نبوت کی حقیقت کا انکشاف کیا، اسی پہلی چیز کا نام بحکم الہی نبوت رکھا، اور اس نئی تعریف کے ماتحت اپنے آپ کو نبی قرار دیا۔“

(روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 9 دیباچہ از جلال الدین شمس قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 540 پر)

### زرد کپڑے سے مراد بیماری

(59) ”احادیث میں ہے کہ مسیح موعود دو زرد رنگ چادروں میں اترے گا۔ ایک چادر بدن کے اوپر کے حصہ میں ہوگی اور دوسری چادر بدن کے نیچے کے حصہ میں۔ سو میں نے کہا کہ یہ اس طرف اشارہ تھا کہ مسیح موعود دو بیماریوں کے ساتھ ظاہر ہوگا کیونکہ تعبیر کے علم میں زرد کپڑے سے مراد بیماری ہے اور وہ دونوں بیماریاں مجھ میں ہیں یعنی ایک سر کی بیماری اور دوسری کثرت پیشاب اور دستوں کی بیماری۔“

(تذکرہ الشہادتین صفحہ 46 مندرجہ روحانی خزائن جلد 20 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 541 پر)

(60) ”دو مرض میرے لاحق حال ہیں۔ ایک بدن کے اوپر کے حصہ میں۔ اور دوسری بدن کے نیچے کے حصہ میں۔ اوپر کے حصہ میں دوران سر ہے اور نیچے کے حصہ میں کثرت پیشاب ہے اور دونوں مرضیں اسی زمانہ سے ہیں جس زمانہ سے میں نے اپنا دعویٰ مامور من اللہ ہونے کا شائع کیا ہے۔ میں نے ان کے لے دعائیں بھی کیں مگر منع میں جواب پایا اور میرے دل میں القا کیا گیا کہ ابتدا سے مسیح موعود کے لیے یہ نشان مقرر ہے کہ وہ دو زرد چادروں کے ساتھ دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اترے گا۔ سو یہ وہی دو زرد چادریں ہیں جو میری جسمانی حالت کے ساتھ شامل کی گئیں۔ انبیاء علیہم السلام کے اتفاق سے زرد چادر کی تعبیر بیماری ہے اور دو زرد چادریں دو بیماریاں ہیں جو دو حصہ بدن پر مشتمل ہیں اور میرے پر بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے یہی کھولا گیا ہے کہ دو زرد چادروں سے مراد دو



بیماریاں ہیں اور ضرورت تھا کہ خدا تعالیٰ کا فرمودہ پورا ہوتا۔“

(حقیقۃ الوحی صفحہ 320، مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 320 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 542 پر)

قادیانی جماعت کے موجودہ سربراہ سمیت دنیا کا کوئی قادیانی انبیاء علیہم السلام کا اتفاق قرآن مجید سے ثابت کر دے کہ زرد چادر کی تعبیر بیماری ہے تو وہ مجھ سے منہ مانگا انعام حاصل کر سکتا ہے۔ بصورت دیگر انہیں ماننا پڑے گا کہ مرزا قادیانی جاہل مطلق اور کذاب تھا۔

(61) ”میں ایک دائم المرض آدمی ہوں اور وہ دو زرد چادریں جن کے بارے میں حدیثوں میں ذکر ہے کہ ان دو چادروں میں مسح نازل ہوگا وہ دو زرد چادریں میرے شامل حال ہیں جن کی تعبیر علم تعبیر الرویا کے رو سے دو بیماریاں ہیں۔ سو ایک چادر میرے اوپر کے حصہ میں ہے کہ ہمیشہ سرد اور دوران سر اور کمی خواب اور تشنج دل کی بیماری دورہ کے ساتھ آتی ہے۔ اور دوسری چادر جو میرے نیچے کے حصہ بدن میں ہے وہ بیماری ذیابیطس ہے کہ ایک مدت سے دامنگیر ہے اور بسا اوقات سو سو دفعہ رات کو یا دن کو پیشاب آتا ہے اور اس قدر کثرت پیشاب سے جس قدر عوارض ضعف وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب میرے شامل حال رہتے ہیں۔ بسا اوقات میرا یہ حال ہوتا ہے کہ نماز کے لیے جب زینہ چڑھ کر اوپر جاتا ہوں تو مجھے اپنے ظاہر حالت پر امید نہیں ہوتی کہ زینہ کی ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھنے تک میں زندہ رہوں گا۔ اب جس شخص کی زندگی کا یہ حال ہے کہ ہر روز موت کا سامنا اس کے لیے موجود ہوتا ہے اور ایسے مریضوں کے انجام کی نظریں بھی موجود ہیں تو وہ ایسی خطرناک حالت کے ساتھ کیونکر افترا پر جرأت کر سکتا ہے اور وہ کس صحت کے بھروسے پر کہتا ہے کہ میری اسی برس کی عمر ہوگی۔ حالانکہ ڈاکٹری تجارب تو اس کو موت کے پنجہ میں ہر وقت پھنسا ہوا خیال کرتے ہیں۔ ایسی مرضوں والے مدقوق کی طرح گداز ہو کر جلد مر جاتے ہیں یا کارپینکل یعنی سرطان سے ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر جس زور سے میں ایسی حالت پر خطر میں تبلیغ میں مشغول ہوں کیا کسی مفتری کا کام ہے۔ جب میں بدن کے اوپر کے حصہ میں ایک بیماری اور بدن کے نیچے کے حصہ میں ایک دوسری بیماری دیکھتا ہوں تو میرا دل محسوس کرتا ہے کہ یہ وہی دو

چادریں ہیں جن کی خبر جناب رسول اللہ ﷺ نے دی ہے۔“

(اربعین نمبر 3، 4 ضمیمہ) صفحہ 4 مندرجہ روحانی خزائن جلد 17، صفحہ 470، 471 از مرزا قادیانی

(عکس صفحہ نمبر 543، 544 پر)

(62) ”دیکھو میری بیماری کی نسبت بھی آنحضرت ﷺ نے پیشگوئی کی تھی جو اسی طرح

دقوع میں آئی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مسیح آسمان پر سے جب اترے گا تو دو زرد چادریں اس

نے پہنی ہوئی ہوں گی تو اسی طرح مجھ کو دو بیماریاں ہیں ایک اوپر کے دھڑ کی اور ایک نیچے کے

دھڑ کی یعنی مراق اور کثرت یول۔“

(ملفوظات جلد پنجم، صفحہ 32، 33 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 545، 546 پر)

مسیح موعود مراق کے عارضے میں مبتلا ہوگا اور اسے شوگر کا مرض لاحق ہوگا..... کیا یہ

مسیح موعود کے اوصاف ہیں یا نقائص؟ فضائل ہیں یا رذائل؟ آخر اپنی بیماریوں پر اتنا بھی کیا

اترانا کہ دو زرد چادروں سے مراد دو عوارض لے لیے! خوبیوں کی بجائے معائب کو نشانیاں

قرار دینے میں کیا حکمت ہو سکتی ہے! حضرت علی کا قول زریں ہے کہ سب سے بڑا بیوقوف وہ

شخص ہے جو دوسروں کی رذیل صفات کو تو برا سمجھے اور خود ان پر جما ہوا ہو۔

آدم، احمد، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، مریم سے مراد مرزا قادیانی

(63) ”يَا اٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ يَا مَرْيَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ

الْجَنَّةَ۔ يَا اَحْمَدُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ نَفَعْتُ فَيْكَ مِنْ لَدُنِّي رُوْحَ الصِّدْقِ۔

حضرت مسیح موعود ان الہامات کی تشریح فرماتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔ ”مریم

سے مریم ام عیسیٰ مراد نہیں۔ اور نہ آدم سے آدم ابوالبشر مراد ہے اور نہ احمد سے اس جگہ حضرت

خاتم الانبیاء ﷺ مراد ہیں اور ایسا ہی ان الہامات کے تمام مقامات میں کہ جو موسیٰ اور عیسیٰ اور

داؤد وغیرہ نام بیان کیے گئے ہیں۔ ان ناموں سے بھی وہ انبیاء مراد نہیں ہے بلکہ ہر ایک جگہ یہی

عاجز مراد ہے۔ اب جبکہ اس جگہ مریم کے لفظ سے کوئی مونث مراد نہیں بلکہ مذکر مراد ہے تو قاعدہ

یہی ہے کہ اس کے لیے صیغہ مذکر ہی لایا جائے یعنی یا مریم اسکن کہا جائے..... اور زوج کے

لفظ سے رفقا اور اقربا مراد ہیں، زوج مراد نہیں ہے۔ اور لغت میں یہ لفظ دونوں طور پر اطلاق پاتا ہے اور جنت کا لفظ اس عاجز کے الہامات میں کبھی اس جنت پر بولا جاتا ہے کہ جو آخرت سے تعلق رکھتا ہے۔ اور کبھی دنیا کی خوشی اور فحشابی اور سرور اور آرام پر بولا جاتا ہے۔“ (مکتوبات احمدیہ جلد اول صفحہ 599 طبع جدید، مکتوب بنام میر عباس علی شاہ صاحب)  
(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات صفحہ 55، 56 طبع چہارم از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 547، 548 پر)

## دجال سے مراد با اقبال قومیں

(64) ”ہمارے نزدیک ممکن ہے کہ دجال سے مراد با اقبال قومیں ہوں اور گدھا ان کا یہی ریل ہو جو مشرق اور مغرب کے ملکوں میں ہزار ہا کوسوں تک چلتے دیکھتے ہو۔“  
(ازالہ اوہام صفحہ 174 مندرجہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 174 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 549 پر)

## فرعون اور ہامان سے مراد

(65) ”من عنده يعصمك الله مزعنده وان لم يعصمك الناس. واذيمكوريك الذي كفر. او قدلى يا هامان. لعلى اطلع الى اله موسى داني لاطنه من الك اذيين تبت دا ابى لهب و تب ما كان له ان يدخل فيها الا خائفا. وما اصابك فمن الله. الفتة ههنا فاصبر كما صبرا ولو العزم. الا انها لفتة من اللهلحجب حبا جما. حبا من الله العزيز الاكرم. عطائنا غير مجدوذ. شاتان تذبحان. وكل من عليها فان. ولا تهنوا الا تحزنوا. المتعلم ان الله على كل شىء قدير. انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. اليس الله بكاف عبده. فبراه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها.“

ترجمہ: ”یعنی خدا تجھے بچائے گا۔ اگرچہ لوگ نہ بچائیں۔ میں پھر کہتا ہوں کہ خدا تجھے بچائے گا۔ اگرچہ لوگ نہ بچائیں۔ وہ زمانہ یاد کر کہ جب ایک شخص تجھ سے مکر کرے گا اور اپنے رفیق ہامان کو کہے گا کہ فتنہ انگیزی کی آگ بھڑکا۔ اس جگہ فرعون سے مراد شیخ محمد حسین

بطالوی ہے اور ہامان سے مراد نو مسلم سعد اللہ ہے اور پھر فرمایا کہ وہ کہے گا کہ میں اس کے خدا کی حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہوں اور میں اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ یعنی باخدا ہونے کا دعویٰ سراسر کذب ہے کوئی تعلق خدا تعالیٰ سے نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ فرعون ہلاک ہو گیا۔ اور دونوں ہاتھ اُس کے ہلاک ہو گئے یعنی یہ شخص ذلیل کیا جائے گا اور ہاتھ جس کسب معاش کا ذریعہ ہیں نکلے ہو جائیں گے۔“

(انجام آتھم ضمیمہ صفحہ 56 مندرجہ روحانی خزائن جلد 11، صفحہ 340 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 550 پر)

### ہندو سے مراد

(66) ”ہندو سے مراد ایسا شخص ہوا کرتا ہے، جو دنیا کے غم و ہم میں مبتلا ہو اور چاہے کہ کسی دنیوی ابتلاؤں سے نجات ہو۔“

(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات صفحہ 661 طبع چہارم، از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 551 پر)

### موت کے معنی فتح

(67) ”ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں۔ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں اس کے یہ معنی ہیں کہ قبل از موت مکی فتح نصیب ہوگی۔ جیسا کہ وہاں دشمن کو قہر کے ساتھ مغلوب کیا گیا تھا، اسی طرح یہاں بھی دشمن قہری نشانوں سے مغلوب کیے جائیں گے۔ دوسرے یہ معنی ہیں کہ قبل از موت مدنی فتح نصیب ہوگی۔“

(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات صفحہ 503 طبع چہارم از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 552 پر)

### بیوہ سے مراد

(68) ”تخمیناً اٹھارہ برس کے قریب عرصہ گزرا ہے کہ مجھے کسی تقریب سے مولوی محمد حسین بٹالوی ایڈیٹر رسالہ اشاعت السنہ کے مکان پر جانے کا اتفاق ہوا۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا

کہ آج کل کوئی الہام ہوا ہے؟ میں نے اس کو یہ الہام سنایا جس کو میں کئی دفعہ اپنے مخلصوں کو سنا چکا تھا۔ اور وہ یہ ہے کہ بِمَكْرٍ وَ نَيْبٍ جس کے یہ معنی ان کے آگے اور نیز ہر ایک کے آگے میں نے ظاہر کیے کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ وہ دو عورتیں میرے نکاح میں لائے گا۔ ایک بکر ہوگی اور دوسری بیوہ۔ چنانچہ یہ الہام جو بکر کے متعلق تھا پورا ہو گیا اور اس وقت بقتلہ تعالیٰ چار پسر اس بیوی سے موجود ہیں اور بیوہ کے الہام کی انتظار ہے۔“

”خاکسار کی رائے میں یہ الہام الہی اپنے دونوں پہلوؤں سے حضرت ام المومنین کی ذات میں ہی پورا ہوا ہے جو بکر یعنی کنواری آئیں اور شیب یعنی بیوہ رہ گئیں۔ واللہ اعلم۔“  
(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات صفحہ 31 طبع چہارم از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 553 پر)

## دَابَّةُ الْأَرْضِ سے مراد

قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے:

”وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ  
النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ.“ (النمل: 82)

ترجمہ: ”اور جب وعدہ (قیامت) ان پر پورا ہونے کو ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک (عجیب) جانور نکالیں گے کہ وہ ان سے باتیں کرے گا کہ (کافر) لوگ ہماری (یعنی اللہ تعالیٰ کی) آیتوں پر یقین نہیں لاتے تھے۔“

اس آیت میں دابة الارض سے مراد جانور (چوپایہ) ہے۔ احادیث مبارکہ میں قیامت کی اولین علامتوں میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت دابة الارض (جانور) کا نکلنا مذکور ہے۔ اس جانور کے قد و قامت، مقام خروج اور دیگر تفصیلات روایات میں مذکور ہیں۔

مرزا قادیانی کے نزدیک دابة الارض سے کیا مراد ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔

(69) ”اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہی دابة الارض جو ان آیات میں مذکور ہے جس کا مسیح موعود کے زمانہ میں ظاہر ہونا ابتدا سے مقرر ہے۔ یہی وہ مختلف صورتوں کا جانور ہے جو مجھے عالم کشف میں نظر آیا اور دل میں ڈالا گیا کہ یہ طاعون کا کیرا ہے اور خدا تعالیٰ نے اس کا

نام دابة الارض رکھا۔“

(نزول اسح صفحہ 39 مندرجہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 416 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 554 پر)

(70) ”بس اس سے زیادہ دابة الارض کے اصلی معنوں کی دریافت کے لیے اور کیا شہادت ہوگی کہ خود قرآن شریف نے اپنے دوسرے مقام میں دابة الارض کے معنی کیڑا کیا ہے۔ سو قرآن کے برخلاف اس کے معنی کرنا یہی تحریف اور الحاد اور وجہ ہے۔“

(نزول اسح صفحہ 40، 41 مندرجہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 417، 418 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 555، 556 پر)

درحقیقت مرزا اور مرزائیوں کی یہ تاویل نہیں بلکہ جھوٹ پر جھوٹ ہے۔ ایک تو جھوٹ پہلا تھا مگر اب اس کو سچ ثابت کرنے کے لئے مزید جھوٹ بولنا پڑ گیا۔ سچ ہے کہ ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے ہزاروں جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ ویسے تو یہ تمام تاویلات اتنی سفید جھوٹ ہیں کہ ان کا پردہ فاش کرنے کے لیے اور کسی تحریر کی ضرورت نہیں لیکن مزید کمک پہنچانے کے لیے کچھ اور رہنمائی کی جاتی ہے:-

1- مرزا قادیانی کے تفسیری معیار کے مطابق اسلام کی تاریخ میں کسی مفسر، محدث اور مجدد نے دابة الارض سے طاعون کا کیڑا مراد نہیں لیا ہے، اس لیے آیت کی یہ تفسیر لائق قبول نہیں۔

2- اگر بغرض محال یہ من گھڑت تفسیر صحیح بھی ہو تو آیت میں سب موعود کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ لہذا مرزا قادیانی پھر بھی اپنے اس دعویٰ میں جھوٹے کا جھوٹا رہا۔

3- خود مرزا قادیانی نے آیت بالا کی مختلف تفسیریں کی ہیں... چنانچہ اپنی کتاب ”ازالہ اوہام“ میں لکھتا ہے:

(71) ”وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ۔ (سورہ نمل: 38) یعنی جب ایسے دن آئیں گے جو کفار پر عذاب نازل ہو اور ان کا وقت مقدر قریب آ جائے گا تو ہم ایک گروہ دابة الارض کا زمین سے نکالیں گے، وہ گروہ متکلمین کا ہوگا جو اسلام کی حمایت میں تمام ادیان باطلہ پر حملہ کرے گا۔“

(ازالہ اوہام صفحہ 270 مندرجہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 370 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 557 پر)

اسی کتاب میں ایک دوسری جگہ دابة الارض کے معنی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے:

(72) ”ایسا ہی دابة الارض یعنی وہ علماء و واعظین جو آسمانی قوت اپنے اندر نہیں رکھتے ابتدا سے چلتے آتے ہیں۔ لیکن قرآن کا مطلب یہ ہے کہ آخری زمانہ میں ان کی حد سے زیادہ کثرت ہوگی اور ان کے خروج سے مراد وہی ان کی کثرت ہے۔“

(ازالہ اوہام صفحہ 273 مندرجہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 373 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 558 پر)

مرزا قادیانی نے اپنی کتاب ”حملۃ البشری“ میں دابة الارض سے علمائے سوء مراد لیے ہیں۔ اس سے مراد وہ نہیں جو اسلام کی حمایت میں ادیان باطلہ پر حملہ کریں گے۔ وہ لکھتا ہے:

(73) ”ان المراد من دابة الارض علماء السوء الذين

يشهدون بالقوالهم ان الرسول حق والقرآن حق ثم يعملون

الخبائث ويخدمون الدجال.“

ترجمہ: ”بے شک دابة الارض سے مراد علمائے سوء ہیں جو اپنے قول سے

رسول اور قرآن کے حق ہونے کی گواہی دیتے ہیں، پھر برے عمل

کرتے ہیں اور دجال کی خدمت کرتے ہیں۔“

(حملۃ البشری صفحہ 142 مندرجہ روحانی خزائن جلد 7 صفحہ 308) (عکس صفحہ نمبر 559 پر)

ان سب عبارتوں کا حاصل یہ نکلا کہ مرزا قادیانی کے نزدیک دابة الارض کے کل تین معنی ہیں:

1- طاعون کا کثیرا 2- اچھے متکلمین 3- برے علماء و واعظین

اب خود مرزا قادیانی کے کلام میں تناقض پیدا ہو گیا اور بقول مرزا قادیانی تناقض صرف پاگل، جاہل اور منافق کے کلام میں ہوتا ہے۔ (”کوئی دانشمند اور قائم الحواس آدمی ایسے دو متضاد اعتقاد ہرگز نہیں رکھ سکتا۔“ ازالہ اوہام صفحہ 239 مندرجہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 220 از مرزا قادیانی، ”جھوٹے کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔“ براہین احمدیہ ضمیمہ حصہ پنجم صفحہ 111 مندرجہ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 275 از مرزا قادیانی، ”ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ اس شخص کی حالت ایک جھٹل الحواس انسان کی حالت ہے کہ ایک کھلا کھلا تناقض اپنے

کلام میں رکھتا ہے۔“ حقیقتہ الوحی صفحہ 191 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 191 از مرزا قادیانی، ”ایک دل سے دو متناقض باتیں نکل نہیں سکتیں کیونکہ ایسے طریق سے یا انسان پاگل کہلاتا ہے یا منافق۔“ ست بچن صفحہ 31 مندرجہ روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 143 از مرزا قادیانی، ”کسی سچا اور عقلمند اور صاف دل انسان کی کلام میں ہرگز تناقض نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی پاگل اور مجنون یا ایسا منافق ہو کہ خوشامد کے طور پر ہاں میں ہاں ملا دیتا ہو، اس کا کلام بے شک متناقض ہو جاتا ہے۔“ ست بچن صفحہ 31 مندرجہ روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 142 از مرزا قادیانی، اس لیے دابة الارض والی آیت اس کے حق میں دلیل تو کیا بنتی، امت مرزا سیہ کی ضلالت و گمراہی کی ایک اور نشانی بن گئی۔

”نزول المسیح“ میں مرزا نے دابة الارض کا معنی ”طاعون کا کیرا“ کے علاوہ کوئی اور معنی کرنے کو تحریف اور دجل کہا ہے۔ اور مذکورہ بالا حوالہ جات ازالہ ادہام وغیرہ میں خود مرزا قادیانی نے دابة الارض سے مراد علماء واعظین وغیرہ لیے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی نے خود تحریف، دجل اور الحاد کا ارتکاب کیا ہے۔

## دجال کون؟

(74) ”دجال کے معنی بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ جو شخص دھوکہ دینے والا اور گمراہ کرنے والا اور خدا کے کلام کی تحریف کرنے والا ہو، اس کو دجال کہتے ہیں۔“  
(حقیقت الوحی صفحہ 456 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 456 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 560 پر)

## مجھ سے خدا تعالیٰ لکھواتا ہے

(75) ”یہ بات بھی اس جگہ بیان کر دینے کے لائق ہے کہ میں خاص طور پر خدا تعالیٰ کی اعجاز نمائی کو انشاء پر دازی کے وقت بھی اپنی نسبت دیکھتا ہوں کیونکہ جب میں عربی میں یا اردو میں کوئی عبارت لکھتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ کوئی اندر سے مجھے تعلیم دے رہا ہے۔“  
(نزول المسیح صفحہ 561 مندرجہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 434 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 561 پر)





تعمیرت کا فریضہ ہے!

مرزا قادیانی  
کے  
سفید جھوٹ



انسان میں جتنی اخلاقی برائیاں ہو سکتی ہیں ان میں سب سے زیادہ بری اور خطرناک برائی جھوٹ ہے کیونکہ یہ برائی ہر قسم کی قولی و عملی برائیوں کی جڑ ہے۔ یہ صرف ایک اکیلی برائی نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ سے جھوٹے میں بیسیوں قسم کی دوسری برائیاں بھی لازمی طور سے پیدا ہو جاتی ہیں۔

ہمارا دین اسلام ایسا عالی مرتبہ ہے کہ راستی اور سچائی اس کا بڑا جز ہے۔ ہمارے نبی کریم سید المرسلین خاتم النبیین ﷺ نے مختلف اوقات میں فرمایا ہے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولے۔ یہ کیسا پیارا اور سچا مقولہ ہے جس کی خوبی اور صداقت پر ہر ایک انسان شہادت دیتا ہے۔ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اس لیے اس کا شمار کبیرہ گناہوں میں ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا آدمی بظاہر غلط بیانی کر کے اپنا کوئی وقتی فائدہ حاصل کر لیتا ہے، لیکن جب اس کے جھوٹ کا پول کھل جاتا ہے تو اسے انتہائی شرمندگی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ معاشرے میں اسے جھوٹا اور کذاب کا لقب مل جاتا ہے۔ آخرت میں طے والی شدید ترین سزا کے علاوہ جھوٹا آدمی دنیا میں خدائی نعمت ”صراط مستقیم“ پانے کا مستحق نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لعنت اللہ علی الکاذبین (آل عمران: 61) (ترجمہ) جھوٹوں پر خدا کی لعنت!

قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے:

1- واجتنبوا قول الزور. (الحج: 30)

اور جھوٹ بولنے سے بچے رہو۔

2- ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. (يونس: 69)

جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔

3- ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب (مومن: 28)

بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اُسے جو حد سے بڑھنے والا بہت جھوٹ بولنے والا ہو۔

4- ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب. (الصف: 7)  
اور اس شخص سے کون زیادہ خالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے (یعنی اس پر وحی تو آتی نہیں مگر وہ کہتا ہے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔)

5- ويوم القيمة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة (زمر: 61)  
اور روزِ قیامت آپ دیکھیں گے انہیں جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے تھے، اس حال میں کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

1- من كذب على متعمداً فليتبوا مقعده من النار. (بخاری شریف)  
(ترجمہ): جو شخص مجھ پر قصداً جھوٹ بولے (یعنی میری حدیث نہ ہو اور وہ اسے حدیث بیان کرے) تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنالے۔

2- لا تكذبوا على فانه من كذب عى فليلج النار. (صحیح بخاری)  
(ترجمہ): مجھ پر جھوٹ نہ بولو، کیونکہ بے شک جس نے مجھ پر جھوٹ بولا تو وہ (جہنم کی) آگ میں داخل ہوگا۔

3- من حدث عني يحدث يري انه كذب فهو احد الكاذبين. (صحیح مسلم)  
(ترجمہ): جس نے مجھ سے ایسی حدیث بیان کی جس کا جھوٹ ہونا معلوم ہو، تو وہ شخص جھوٹوں میں سے ایک (یعنی جھوٹا) ہے۔

4- حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا۔ اس نے کہا مجھ میں چار بری عادتیں ہیں۔ آپ ﷺ کے فرمانے سے میں ان عادتوں میں سے ایک کو چھوڑ سکتا ہوں۔ چوری کرنا، شراب پینا، زنا کرنا اور جھوٹ بولنا۔ آپ ﷺ نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ (جھوٹ چھوڑنے سے وہ شخص سب بری عادتوں سے بچ گیا)۔

5- حضور خاتم النبیین ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: ”منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ (1) جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ (2) جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔

(3) جب معاہدہ کرے تو بد عہدی کرے۔“

جھوٹ صرف یہی نہیں ہوتا کہ آدمی اپنی طرف سے غلط بیانی کرے بلکہ یہ بھی جھوٹ ہے کہ ہر سنی سنائی بات جس کا کوئی سر ہونہ پیر، آگے بیان کر دے۔ انسان کو بلا تحقیق بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ حضور سرور کائنات ﷺ نے اسے بھی جھوٹ شمار کیا ہے۔ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: ”کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے۔“ (صحیح مسلم) ایک دوسرے موقع پر آپ ﷺ نے جھوٹا خواب بیان کرنے کے بارے میں شدید وعید فرمائی ہے۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے۔ ”سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی وہ خواب بیان کرے جو اس نے دیکھا ہی نہیں۔“ (صحیح بخاری) قادیان کا جھوٹا مدعی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی کذابوں میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ اس نے جھوٹ کو اپنی فطرت ثانیہ بنا لیا تھا۔ وہ اپنی جھوٹی نبوت ثابت کرنے کے لیے ہر روز ایک نیا جھوٹ تراشتا اور پھر اسے ثابت کرنے کے لیے مزید کئی جھوٹ بولتا۔ قہر خدا کا کہ مرزا قادیانی انتہائی بے باکی سے خدائے رسول اور آسمانی کتابوں کے بارے میں بھی جھوٹ و غلط بیانی سے کام لیتا۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ اس کی سرشت میں سرایت کر گیا ہے۔ آئیے پہلے جھوٹ نہ بولنے کے بارے میں اس کے ”اقوال زریں“ پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور بعد ازاں اس کے ”سفید جھوٹ“ ملاحظہ کرتے ہیں:

ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ  
دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا

جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے

(76) ”جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا۔“

(چشمہ معرفت صفحہ 222 مندرجہ روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 231 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 562 پر)

## کتوں کا طریق

(77) ”جھوٹ کے مُردار کو کسی طرح نہ چھوڑنا، یہ کتوں کا طریق ہے نہ انسانوں کا۔“  
(انجام آتھم صفحہ 43 مندرجہ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 43 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 563 پر)

## جھوٹ بولنے سے بدتر

(78) ”جھوٹ بولنے سے بدتر دُنیا میں اور کوئی برا کام نہیں۔“  
(حقیقۃ الوحی صفحہ 27 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 459 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 564 پر)

## جھوٹ بولنے والا کتوں، سوروں اور بندروں سے بدتر

(79) ”ایسا آدمی جو ہر روز خدا پر جھوٹ بولتا ہے اور آپ ہی ایک بات تراشتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ خدا کی وحی ہے جو مجھ کو ہوئی ہے۔ ایسا بد ذات انسان تو کتوں اور سوروں اور بندروں سے بدتر ہوتا ہے۔ پھر کب ممکن ہے کہ خدا اس کی حمایت کرے۔“  
(براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 126 مندرجہ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 292 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 565 پر)

## جھوٹ کی نجاست

(80) ”محض ہنسی کے طور پر یا لوگوں کو اپنا رسوخ جتانے کے لیے دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے یہ خواب آئی، اور یا الہام ہوا اور جھوٹ بولتا ہے یا اس میں جھوٹ ملاتا ہے، وہ اس نجاست کے کیڑے کی طرح ہے جو نجاست میں ہی پیدا ہوتا ہے اور نجاست میں ہی مر جاتا ہے۔“  
(تحفہ گولڈیہ ضمیر صفحہ 20 مندرجہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 56 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 566 پر)

## جھوٹ بولنے والا مرتد

(81) ”جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں۔“

(تذکرہ گولڈیہ ضمیر صفحہ 20 مندرجہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 56 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 567 پر)

## جھوٹ بولنے والا کنجر اور ولد الزنا

(82) ”وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں، وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شر ماتے ہیں۔“

(فقہ حق صفحہ 60 مندرجہ روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 386 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 568 پر)

## لعنت ہے مفتری پر

(83) ”لعنت ہے مفتری پہ خدا کی کتاب میں

عزت نہیں ہے ذرہ بھی اُس کی جناب میں“

(نصرۃ الحق، برائین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 11 مندرجہ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 21 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 569 پر)

## جھوٹ تمام گناہوں کی ماں

(84) ”جھوٹ اکبر الکبائر اور تمام گناہوں کی ماں ہے۔“

(مجموعہ اشتہارات جلد دوم صفحہ 208 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 570 پر)

## جھوٹے پر قیامت تک لعنت

(85) ”خدا کی جھوٹوں پر نہ ایک دم کے لیے لعنت ہے بلکہ قیامت تک لعنت ہے۔“

(اربعین نمبر 3 مندرجہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 398 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 571 پر)

## جھوٹے کی زندگی..... لعنتی زندگی

(86) ”دروغ گوئی کی زندگی جیسی کوئی لعنتی زندگی نہیں۔“

(نزول اسحٰ ص 2 مندرجہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 380 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 572 پر)

## جھوٹ بولنا، مردار خوروں کا کام

(87) ”فضولیاں اور جھوٹ بولنا مردار خوروں کا کام ہے۔“

(مجموعہ اشتہارات جلد دوم صفحہ 88 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 573 پر)

## جھوٹ بولنا اور گوہ کھانا برابر

(88) ”جھوٹ بولنا اور گوہ کھانا ایک برابر ہے۔“

(حقیقۃ الوحی صفحہ 206 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 215 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 574 پر)

## اہم نکات

مرزا قادیانی کی مذکورہ بالا تحریروں سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے:

- 1- جب کوئی شخص کسی ایک بات میں جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر اس کی دوسری باتوں پر بھی اعتبار نہیں رہتا۔
- 2- جھوٹ کے مردار کو نہ چھوڑنا انسانوں کا نہیں بلکہ کتوں کا طریقہ ہے۔
- 3- جھوٹ بولنے سے بدتر دنیا میں اور کوئی بُرا کام نہیں۔
- 4- ایسا آدمی جو ہر روز خدا پر جھوٹ بولتا ہے اور آپ ہی ایک بات تراشتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ خدا کی وحی ہے جو مجھ کو ہوئی ہے۔ ایسا بد ذات انسان تو کتوں اور سوروں اور بندروں سے بدتر ہوتا ہے۔ پھر کب ممکن ہے کہ خدا اس کی حمایت کرے۔



- 5- جو شخص محض ہنسی کے طور پر یا لوگوں میں اپنا رسوخ جتانے کے لیے دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے یہ خواب آئی، اور یا الہام ہوا اور جھوٹ بولتا ہے یا اس میں جھوٹ ملاتا ہے، وہ اس نجاست کے کیڑے کی طرح ہے جو نجاست میں ہی پیدا ہوتا ہے اور نجاست میں ہی مر جاتا ہے۔
- 6- جھوٹ بولنے والا مرتد ہوتا ہے۔
- 7- وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں، وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرما تے ہیں۔
- 8- جھوٹ تمام گناہوں کی ماں ہے۔
- 9- جھوٹے شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کچھ دیر کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ہوتی ہے۔
- 10- جھوٹے شخص کی زندگی ایک لعنتی کی زندگی ہوتی ہے۔
- 11- جھوٹ بولنا مردار خوروں کا کام ہے۔
- 12- جھوٹ بولنا اور گوہ کھانا برابر حیثیت رکھتا ہے۔

قارئین کرام: آئیے! مرزا قادیانی کے ان ”فرمودات عالیہ“ کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ جھوٹ بولنے پر خود اس کا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے۔

۔ لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا

## قرآن مجید میں طاعون کا ذکر

(89) ”یہ بھی یاد رہے کہ قرآن شریف میں بلکہ توریت کے بعض صحیفوں میں بھی یہ خبر موجود ہے کہ مسیح موعود کے وقت طاعون پڑے گی۔ بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی انجیل میں یہ خبر دی ہے۔“

(کشتی نوح صفحہ 5 مندرجہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 5 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 575 پر)

قرآن مجید میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے۔ مرزا قادیانی نے قرآن مجید کے حوالے

سے جھوٹ بولا ہے۔

## قرآن مجید میں قادیان کا ذکر

(90) ”کشفی طور پر میں نے دیکھا کہ میرے بھائی صاحب مرحوم مرزا غلام قادر میرے قریب بیٹھ کر بہ آواز بلند قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے ان فقرات کو پڑھا کہ انا انزلنہ قریباً من القادیان تو میں نے سن کر بہت تعجب کیا کہ کیا قادیان کا نام بھی قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے؟ تب انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو لکھا ہوا ہے۔ تب میں نے نظر ڈال کر جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ فی الحقیقت قرآن شریف کے دائیں صفحہ میں شاید قریب نصف کے موقع پر یہی الہامی عبارت لکھی ہوئی موجود ہے۔ تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ ہاں واقعی طور پر قادیان کا نام قرآن شریف میں درج ہے اور میں نے کہا کہ تین شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے۔ مکہ اور مدینہ اور قادیان۔“

(ازالہ اوہام صفحہ 77 حاشیہ مندرجہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 140 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 576 پر)

قرآن مجید میں قادیان کا ذکر نہیں ہے۔ مرزا قادیانی نے نہ صرف جھوٹ بولا ہے بلکہ تحریف قرآنی کا بھی مرتکب ہوا ہے جو صریحاً کفر ہے۔

## نبیوں کی بشارت اور خواہش

(91) ”اے عزیزو! تم نے وہ وقت پایا ہے جس کی بشارت تمام نبیوں نے دی ہے اور اس شخص کو یعنی مسیح موعود کو تم نے دیکھ لیا جس کے دیکھنے کے لیے بہت سے پیغمبروں نے بھی خواہش کی تھی۔“ (اربعین نمبر 4 صفحہ 100 مندرجہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 442 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 577 پر)

مرزا قادیانی تو بتلانہ سکا اور چل بسا۔ کیا مرزا کی حضرات میں سے کوئی بتلا سکتا ہے کہ جن حضرات انبیاء کرام نے مرزا قادیانی کی بشارت دی اور جنہوں نے مرزا قادیانی کے دیکھنے کی تمنا ظاہر فرمائی۔ ان حضرات انبیاء کرام کے اسمائے گرامی کیا ہیں؟ اور یہ تمنائیں اور

بشارتیں کس صحیفہ اور کونسی کتاب میں درج ہیں؟ میرا چیلنج ہے کہ قادیانی قیامت تک بھی ایسا کوئی حوالہ پیش نہیں کر سکتے۔

## دنیا کی عمر سات ہزار برس

(92) ”تمام نبیوں کی کتابوں سے اور ایسا ہی قرآن شریف سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے آدم سے لے کر اخیر تک دنیا کی عمر سات ہزار برس رکھی ہے۔“

(لیکچر سیالکوٹ صفحہ 5 مندرجہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 207 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 578 پر)

تمام نبیوں کی جن کتابوں اور قرآن شریف کی جن آیتوں میں یہ مضمون موجود ہے، اس کی صحیح عبارت پیش کر کے کوئی مرزائی ہے جو اپنے روحانی باپ کی پیشانی سے اس جھوٹ کی لعنت کو دور کر دے۔

## قیامت کب آئے گی؟

(93) ”ایک اور حدیث بھی مسیح ابن مریم کے فوت ہو جانے پر دلالت کرتی ہے اور وہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ آج کی تاریخ سے سو برس تک تمام بنی آدم پر قیامت آ جائے گی۔“

(ازالہ ادہام صفحہ 127 مندرجہ روحانی خزائن جلد 3 ص 227 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 579 پر)

یہ رسول کریم ﷺ پر کھلا کھلا بہتان ہے کیونکہ کسی معتبر تو کجا کسی ضعیف حدیث میں بھی یہ الفاظ سرے سے موجود نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو حوالہ پیش کیا جائے۔

## بخاری شریف میں

(94) ”بخاری کے صفحہ 1080 میں یہ حدیث ہے وهذا الکتب الذی ہدی اللہ بہ

رسولکم فخذوا بہ تہتدوا یعنی اسی قرآن سے تمہارے رسول نے ہدایت پائی ہے سو تم بھی اسی کو اپنا رہنما پکڑو تا تم ہدایت پاؤ۔ پھر بخاری میں یہ بھی حدیث ہے حسبنا کتاب اللہ ما کان من شرط لیس فی کتاب اللہ لہو باطل قضاء اللہ احق دیکھو صفحہ 348, 377, 29۔“

(ازالہ اوہام صفحہ 510 مندرجہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 610 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 580 پر)

بخاری شریف کے مذکورہ صفحات تو کجا پوری بخاری شریف بلکہ پورے ذخیرہ احادیث میں یہ الفاظ حدیث کے حوالے سے موجود نہیں۔ مرزا قادیانی نے اس اعتبار سے صریح جھوٹ بولا ہے۔

## سیاہ رنگ کا نبی

(95) ”ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ سے دوسرے ملکوں کے انبیاء کی نسبت سوال کیا گیا تو آپ نے یہی فرمایا کہ ہر ایک ملک میں خدا تعالیٰ کے نبی گزرے ہیں اور فرمایا کہ کان فی الہند نبیا اسود اللون اسمہ کاہنا یعنی ہند میں ایک نبی گزرا ہے جو سیاہ رنگ تھا اور نام اس کا کاہن تھا یعنی کھیا جس کو کرشن کہتے ہیں اور آپ سے پوچھا گیا کہ کیا زبان پارسی میں بھی کبھی خدا نے کلام کیا ہے تو فرمایا کہ ہاں خدا کا کلام زبان پارسی میں بھی اترا ہے جیسا کہ وہ اس زبان میں فرماتا ہے۔“ اس مشتمل خاک را گر نہ چشم چہ کنم۔“

(چشمہ معرفت صفحہ 11 مندرجہ روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 382 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 581 پر)

یہ حضور نبی کریم ﷺ پر خالص افتراء ہے۔ اس کا وجود احادیث صحیحہ تو درکنار روایات ضعیفہ میں بھی ثابت نہیں۔ گویا احادیث کے ذخیرہ میں اس کا کہیں نام و نشان نہیں۔ حضور ﷺ کی جانب ایسی روایات کا منسوب کرنا بلاشبہ دوزخ جانے کی بھرپور تیاری ہے۔ اگر کسی مرزائی میں ہمت ہے تو اس کو حدیث صحیح سے ثابت کرے؟ اور حدیث کی کتاب کا حوالہ دے جس میں یہ روایت ان الفاظ میں مندرج ہے۔ ورنہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں۔ من کذب علی متعمدا فالیثو مقعدہ من النار یعنی جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنائے!

## قرآن میں مثل ابن مریم

(96) ”قرآن کریم اور احادیث صحیحہ یہ امید و بشارت ہوا تر دے رہی ہیں کہ مثل ابن مریم اور دوسرے مثل بھی آئیں گے۔“

(ازالہ اوہام صفحہ 214 مندرجہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 314 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 582 پر)

## احادیث میں مثل ابن مریم

(97) ”کیا حدیثوں میں یہ مذکور نہیں کہ مثل ابن مریم وغیرہ اس امت میں پیدا ہوں گے۔ تو پھر جب قرآن سچ ابن مریم کو مارتا ہے اور حدیثیں مثل ابن مریم کے آنے کا وعدہ دیتی ہیں تو اس صورت میں کیا اشکال باقی رہا؟“

(ازالہ اوہام صفحہ 536 مندرجہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 388 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 583 پر)

قرآن مجید اور احادیث میں کسی مثل ابن مریم کا ذکر نہیں۔ مرزا قادیانی نے سفید جھوٹ بولا ہے۔

## مسیح موعود اور اس کی توہین

(98) ”لیکن ضرور تھا کہ قرآن شریف اور احادیث کی وہ پیشگوئیاں پوری ہوتیں جن میں لکھا تھا کہ مسیح موعود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علما کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا۔ وہ اس کو کافر قرار دیں گے اور اس کے قتل کے لیے فتوے دیے جائیں گے اور اس کی تختہ توہین کی جائے گی اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا۔“

(از بطن صفحہ 18 مندرجہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 404 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 584 پر)  
قرآن و حدیث میں ایسا کوئی ذکر نہیں۔ یہ خالص جھوٹ ہے۔ ہے کوئی قادیانی جو ہمیں یہ بتائے کہ یہ پیشگوئیاں قرآن کریم کے کون سے پارہ، کونسی سورت اور کون سے رکوع میں لکھی ہیں یا حدیث کی کونسی کتاب کے کون سے باب میں درج ہیں؟

## انبیا گزشتہ کے کشوف

(99) ”انبیا گزشتہ کے کشوف نے اس بات پر قطعی مہر لگا دی کہ وہ چودھویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا اور نیز یہ کہ پنجاب میں ہوگا۔“

(اربعین نمبر 2 صفحہ 23 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 585, 586 پر)

## اولیائے گزشتہ کے کشوف

(100) ”اولیاء گزشتہ کے کشوف نے اس بات پر قطعی مہر لگا دی کہ وہ چودھویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا اور نیز یہ کہ پنجاب میں ہوگا۔“

(اربعین نمبر 2 صفحہ 29 مندرجہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 371 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 587 پر)

مرزا قادیانی کے دور میں جب یہ کتاب شائع ہوئی تو یہاں لفظ ”انبیا“ تھا۔ بعد ازاں قادیانی قیادت نے انبیا کی جگہ لفظ ”اولیاء“ کر دیا۔ مزید براں یہ اولیائے کرام پر جھوٹ باندھا گیا ہے۔

## چودھویں صدی کا مجدد

(101) ”احادیث صحیحہ میں آیا تھا کہ وہ مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا، اور وہ چودھویں صدی کا مجدد ہوگا۔“

(براہین احمدیہ حصہ پنجم (ضمیمہ) صفحہ 188 مندرجہ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 359 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 588 پر)

”احادیث“ عربی میں جمع کثرت کا وزن ہے اور جمع کثرت کم از کم دس سے شروع ہوتی ہے۔ لہذا مرزا قادیانی کے دعویٰ کے مطابق کم از کم دس احادیث ایسی ہونی چاہئیں۔ حالانکہ دس احادیث تو کجا احادیث کے پورے ذخیرہ میں ایک ضعیف سے ضعیف حدیث بھی ایسی نہیں پائی جاتی جس میں حضور اکرم ﷺ نے چودھویں صدی کا ذکر کیا ہو اور کہا ہو کہ اس

کے سر پر مسیح موعود ظاہر ہوگا۔ مرزا قادیانی کا حضور سرور دو عالم ﷺ پر یہ سراسر افتراء، جھوٹ اور بہتان ہے، مرزا قادیانی، حضور نبی رحمت ﷺ پر یہ افتراء باندھ کر آپ ﷺ کے ارشاد کے مطابق اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا چکا ہے۔

## حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین

(102) ”یہ بات بالکل غیر معقول ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد کوئی ایسا نبی آنے والا ہے کہ جب لوگ نماز کے لیے مساجد کی طرف دوڑیں گے تو وہ کلیسیا کی طرف بھاگے گا۔ اور جب لوگ قرآن شریف پڑھیں گے تو وہ انجیل کھول بیٹھے گا اور جب لوگ عبادت کے وقت بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے تو وہ بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوگا اور شراب پئے گا اور سور کا گوشت کھائے گا اور اسلام کے حلال و حرام کی کچھ پرواہ نہیں رکھے گا۔“

(حقیقت الوجدی صفحہ 31 مندرجہ روحانی خزائن، جلد 22 صفحہ 31 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 589 پر)

مسئلہ پنجاب کی اسلامی مقدس شخصیات کے خلاف دریدہ ذہنی اور بد لگامی سے ہر مسلمان کا رواں رواں کانپ اٹھتا ہے۔ کاش حکومت ایسی فضول کتابیں ضبط کر لیتی جس سے مسلمانان عالم کے دل چھلنی اور سینے پاش پاش ہوتے ہیں۔ ہمارے خیال میں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں بلکہ خود مثیل مسیح کے دعویدار، مرزا قادیانی کی اپنی تصویر ہے جو عملی رنگ میں ہم قارئین کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ واقعی یہ غیر معقول اور بیہودہ امر ہے کہ رسول اکرم ﷺ کے بعد کوئی ایسا انگریزی نبی آنے والا ہے کہ جب لوگ نماز کے لیے بیت اللہ کو جائیں گے تو وہ قادیان کی طرف بلائے گا۔ لوگ مسجد نبوی ﷺ اور روضہ رسول ﷺ کی طرف دوڑیں گے تو وہ بہشتی مقبرہ کی طرف بھاگے گا اور جب لوگ قرآن شریف پڑھیں گے تو وہ اپنی بائبل یعنی تذکرہ مجموعہ وحی والہامات کھول بیٹھے گا اور جب لوگ عبادت کے وقت بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے تو وہ قادیان منارۃ المسیح کی طرف توجہ دلائے گا اور ای پلومر کی دوکان سے ٹانک وائن منگوائے گا اور سور کا گوشت کھائے گا اور اسلام کے ارشادات کی کچھ پرواہ نہ کرے گا۔ واطیعو اللہ واطیعو الرسول کی بجائے واطیعو الانگریز واطیعو المرزا کا راگ الاپے گا۔ میں ڈنکے کی چوٹ پر دنیا بھر کے تمام

قادیانیوں کو چیلنج کرتا ہوں اور ایک لاکھ روپے کا نقد انعام پیش کرتا ہوں کہ وہ ایسی مذکورہ تحریر کسی اسلامی کتاب سے پیش کریں ورنہ یہ تسلیم کریں کہ آنجناب مرزا قادیانی نے یہ بدترین جھوٹ اُس عظیم الشان ہستی کے خلاف بولا جو ”وجیہا فی الدنیا والآخرۃ (آل عمران: 45)“ ہے اور جن کی پکی نبوت پر تمام مسلمان ایمان رکھتے ہیں۔

## کرشن نبی، رُڈر گوپال، آریوں کا بادشاہ

(103) ”ہر ایک نبی کا مجھے نام دیا گیا ہے چنانچہ جو ملک ہند میں کرشن نام ایک نبی گزرا ہے جس کو رُڈر گوپال بھی کہتے ہیں (یعنی فنا کرنے والا اور پرورش کرنے والا) اس کا نام بھی مجھے دیا گیا ہے پس جیسا کہ آریہ قوم کے لوگ کرشن کے ظہور کا ان دنوں میں انتظار کرتے ہیں وہ کرشن میں ہی ہوں اور یہ دعویٰ صرف میری طرف سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ نے بار بار میرے پر ظاہر کیا ہے کہ جو کرشن آخری زمانہ میں ظاہر ہونے والا تھا وہ تو نبی ہے آریوں کا بادشاہ۔“

(حقیقت الوحی صفحہ 86 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 521، 522 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 590، 591 پر)

میں عقل و دانش بباہر گریست

اللہ رب العزت کی ذات پر ایک فصیح بہتان ہے اور ایسا رنگ حملہ ہے۔ جس کی نظیر ڈھونڈنے سے نہ ملے گی۔ یہ ایک ایسا خیال فاسد ہے جس کے تصور سے مسلمانان کی روح لرزہ بر اندام ہوتی ہے اور ایمان اموز باللہ کی گود میں، استغفر اللہ کی پناہ میں اور سبحانک اللہ کی آغوش مرحمت میں منہ ڈھانپ لیتا ہے۔

خدا مخلوق رکھے ہر بلا سے

خصوصاً آج کل کے ”انجیا“ سے

## کتاب سوانح یوسف آؤ

(104) ”کتاب سوانح یوز آسف جس کی تالیف کو ہزار سال سے زیادہ ہو گیا ہے، اس میں



صاف لکھا ہے کہ ایک نبی یوز آسف کے نام سے مشہور تھا اور اس کی کتاب کا نام انجیل تھا۔“  
 (تختہ گولڈویہ صفحہ 14 مندرجہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 100 از مرزا قادیانی)  
 (عکس صفحہ نمبر 592 پر)  
 اس مذکورہ کتاب کا کوئی وجود نہیں۔ مرزا قادیانی نے اپنی طرف سے فرضی نام لکھ کر  
 جھوٹ بولا ہے۔

## میرا کوئی استاد نہیں

(105) ”ہمارے نبی ﷺ نے اور نبیوں کی طرح ظاہری علم کسی استاد سے نہیں پڑھا تھا۔  
 مگر حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ مکتبوں میں بیٹھے تھے اور حضرت عیسیٰ نے ایک یہودی استاد  
 سے تمام تورات پڑھی تھی۔ غرض اسی لحاظ سے کہ ہمارے نبی ﷺ نے کسی استاد سے نہیں  
 پڑھا، خدا آپ ہی استاد ہوا، اور پہلے پہل خدا نے ہی آپ کو افرء کہا یعنی پڑھ، اور کسی نے  
 نہیں کہا۔ اس لیے آپ نے خالص خدا کے زیر تربیت تمام دینی ہدایت پائی اور دوسرے نبیوں  
 کے دینی معلومات انسانوں کے ذریعہ سے بھی ہوئے۔ سو آنے والے کا نام جو مہدی رکھا گیا۔  
 سو اس میں یہ اشارہ ہے کہ وہ آنے والا علم دین خدا سے ہی حاصل کرے گا اور قرآن اور  
 حدیث میں کسی استاد کا شاگرد نہیں ہوگا۔ سو میں حلقاً کہہ سکتا ہوں کہ میرا حال یہی حال ہے۔  
 کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا  
 ہے یا کسی مفسر یا محدث کی شاگردی اختیار کی ہے پس یہی مہدویت ہے جو نبوت محمدیہ کے  
 منہاج پر مجھے حاصل ہوئی ہے اور اسرار دین بلا واسطہ میرے پر کھولے گئے۔“

(ایام الحج صفحہ 147 مندرجہ روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 394 از مرزا قادیانی)  
 (عکس صفحہ نمبر 593 پر)

مرزا قادیانی نے یہ پھر جھوٹ بولا ہے۔ خود مرزا قادیانی کا اعتراف موجود ہے  
 کہ اس نے عربی، فارسی، قواعد، صرف و نحو، حکمت اور منطق وغیرہ کی تعلیم فضل الہی، فضل احمد  
 اور گل علی شاہ نامی استادوں سے حاصل کی۔ (کتاب البریہ صفحہ 161 تا 163 مندرجہ روحانی  
 خزائن جلد 13 صفحہ 179 تا 181 از مرزا قادیانی)

## انبیائے کرام اور زرد چادر کی تعبیر

(106) ”صحیح موعود کے لیے یہ نشان مقرر ہے کہ وہ دو زرد چادروں کے ساتھ دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اترے گا۔ سو یہ وہی دو زرد چادریں ہیں جو میری جسمانی حالت کے ساتھ شامل کی گئیں۔ انبیاء علیہم السلام کے اتفاق سے زرد چادر کی تعبیر بیماری ہے اور دو زرد چادریں دو بیماریاں ہیں جو دو حصہ بدن پر مشتمل ہیں۔ اور میرے پر بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے یہی کھولا گیا ہے کہ دو زرد چادروں سے مراد دو بیماریاں ہیں۔ اور ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ کا فرمودہ پورا ہوتا۔“

(حقیقۃ الوحی صفحہ 307 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 320 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 594 پر)

کیا کوئی قادیانی بتا سکتا ہے کہ وہ کون کون سے انبیائے کرام ہیں جن کا اس بات پر اتفاق ہے کہ زرد چادر کی تعبیر بیماری ہے، اور یہ کہاں لکھا ہے؟

## ہذا خلیفۃ المہدی

(107) ”اگر حدیث کے بیان پر اعتبار ہے تو پہلے ان حدیثوں پر عمل کرنا چاہیے جو صحت اور وثوق میں اس حدیث پر کئی درجہ بڑھی ہوئی ہیں مثلاً صحیح بخاری کی وہ حدیثیں جن میں آخری زمانہ میں بعض خلیفوں کی نسبت خبر دی گئی ہے خاص کر وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے اس کی نسبت آواز آئے گی کہ **هَذَا خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي**۔ اب سوچو کہ یہ حدیث کس پایہ اور مرتبہ کی ہے جو ایسی کتاب میں درج ہے جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔“  
(شہادۃ القرآن صفحہ 41 مندرجہ روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 337 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 595 پر)

صحیح بخاری میں یہ حدیث قطعاً موجود نہیں ہے۔ مرزا قادیانی نے حدیث کے حوالہ سے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے۔ جو شخص صحیح بخاری جیسی کتاب کے بارے میں کذب بیانی کر سکتا ہے، وہ اپنے دعویٰ نبوت کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہہ سکتا۔ قادیانیوں کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اگر کوئی قادیانی بخاری شریف میں سے یہ الفاظ دکھا دے تو میں اسے ایک لاکھ

روپے انعام دوں گا۔ بصورت دیگر اسے ماننا پڑے گا کہ مرزا قادیانی نے جھوٹ بولا ہے اور جھوٹا آدمی مہدی ہو سکتا ہے اور نہ سچ موعود۔

قارئین کرام! آپ نے مرزا قادیانی کے جھوٹ ملاحظہ کیے لیکن اس کے باوجود مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے:

میں وہی کہتا ہوں جو خدا نے میرے منہ میں ڈالا

(108) ”میں زمین کی باتیں نہیں کہتا کیونکہ میں زمین سے نہیں ہوں، بلکہ میں وہی کہتا ہوں جو خدا نے میرے منہ میں ڈالا ہے۔“

(پیغام صلح صفحہ 47 مندرجہ روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 485 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 596 پر)

مزید کہا:

اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر اسلام بھی جھوٹا ہے

(109) ”یاد رکھو کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر اسلام بھی جھوٹا ہے۔“  
(ملفوظات جلد پنجم صفحہ 586 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 597 پر)

بعض قادیانی، مرزا قادیانی کے جھوٹوں پر شرمندہ ہونے کے بجائے نہایت ڈھٹائی سے الٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر الزام لگا دیتے ہیں کہ انہوں نے بھی جھوٹ بولے تھے۔ لہذا اگر مرزا قادیانی نے جھوٹ بولا ہے تو کوئی حرج نہیں۔

قادیانیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی کی توہین ہے۔ قرآن مجید، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس اعزاز سے معزز کر رہا ہے: انہ کان صدیقاً نبیا (مریم: 41) کہ وہ مجسم سچائی تھا اور اللہ کا نبی! سو، ہمارا پختہ عقیدہ ہے کہ جسے قرآن نے صدیق (بہت زیادہ سچ بولنے والا) کہا ہے، اس کی زبان صداقت ہی کی ترجمان تھی۔ حضرت

ابراہیم علیہ السلام کا کلام تعریفی و تورہ کے قبیل سے تھا۔ دیکھنے والے اسے جھوٹ سمجھے، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہرگز جھوٹ نہ بولے تھے جیسا کہ شراہ حدیث نے وضاحت کر دی ہے۔ اس لیے مرزا قادیانی کو ظلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملہ پر قیاس کرنا ہرگز صحیح نہیں ہے۔ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جھوٹ کا الزام لگانے والے کو خود مرزا قادیانی نے خبیث، شیطان اور پلید کہا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں:

### نبیوں کی توہین کرنے والا خبیث، شیطان اور پلید ہے

(110) ”حضرت موسیٰ“ کی نسبت یہ کہے کہ نعوذ باللہ وہ مال حرام کھانے والا تھا، یا حضرت مسیح کی نسبت یہ زبان پر لاوے کہ وہ طوائف کے گندہ مال کو اپنے کام میں لایا یا حضرت ابراہیم کی نسبت یہ تحریر شائع کرے کہ مجھے جس قدر ان پر بدگمانی ہے اس کی وجہ ان کی دروغگوئی ہے تو ایسے خبیث کی نسبت اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کی فطرت ان پاک لوگوں کی فطرت سے مغائر پڑی ہوئی ہے اور شیطان کی فطرت کے موافق اس پلید کا مادہ اور خمیر ہے۔“  
(آئینہ کمالات اسلام صفحہ 598 مندرجہ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 598 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 598 پر)

دروغ آدمی را کند شرمسار  
دروغ آدمی را کند بے وقار



ثبوتِ حاضرین!

مرزا قادیانی  
کی  
تضاد بیانیان



ایک شاعر نے کہا تھا:

بات وہ کہیے کہ جس بات کے سو پہلو ہوں  
کوئی تو پہلو رہے بات بدلنے کے لیے

آنجنابی مرزا قادیانی اس شعر کی مکمل تصویر تھا۔ گویا شاعر نے یہ شعر مرزا قادیانی ہی کے لیے کہا تھا یا پھر مرزا قادیانی نے اس شعر سے پورا پورا فائدہ اٹھایا ہے۔ بات کچھ بھی ہو، بہر حال یہ شعر مرزا قادیانی پر پوری طرح صادق آتا ہے۔ آپ مرزا قادیانی کے کسی بیان یا کسی بھی تحریر پر غور کریں تو وہ اس شعر کی مکمل تفسیر یا گرگٹ کی تصویر نظر آئے گا۔ آپ اس مضمون کو پڑھیں اور غور فرما کر خود فیصلہ کریں، ان شاء اللہ آپ میری رائے سے متفق ہوں گے۔ مزید برآں سچے نبی کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کا کلام ہر قسم کے تضاد سے پاک اور مبرا ہوتا ہے۔ وہ کسی بات میں متضاد رائے نہیں رکھتا۔ کیونکہ وہ جو کچھ کہتا ہے، اذن الہی سے کہتا ہے۔ آنجنابی مرزا قادیانی نبوت و رسالت کا مدعی تھا۔ وہ ہر بات میں متضاد رائے رکھتا تھا۔ اس کی تحریریں مختلف تضادات سے بھری پڑی ہیں۔ حالانکہ اس کا دعویٰ تھا:

ہم اللہ تعالیٰ کے بغیر بلائے نہیں بولتے

(111) ”جو لوگ خدائے تعالیٰ سے الہام پاتے ہیں، وہ بغیر بلائے نہیں بولتے اور بغیر سمجھائے نہیں سمجھتے اور بغیر فرمائے کوئی دعویٰ نہیں کرتے۔“

(ازالہ اوہام صفحہ 198 مندرجہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 197 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 599 پر)

## میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی روح بولتی ہے

مرزا قادیانی کا الہام ہے:

(112) "اعلموا ان فضل اللہ معی وان روح اللہ ینطق فی نفسی"

ترجمہ: "جان لو کہ اللہ کا فضل میرے ساتھ ہے اور اللہ کی روح میرے ساتھ بول

رہی ہے۔"

(انجام آتھم صفحہ 176 مندرجہ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 176 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 600 پر)

صفحات کی کمی کے پیش نظر مرزا قادیانی کی تحریروں سے صرف چند حوالے پیش

خدمت ہیں جن میں مکمل تضاد پایا جاتا ہے۔ پہلے تضاد بیانی کے متعلق مرزا قادیانی کی "قیمتی

آرا" ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں وہ خود اپنے دام میں کس طرح گرفتار ہوا ہے۔

### دو متضاد اعتقاد

(113) "کوئی دانشمند اور قائم الحواس آدمی ایسے دو متضاد اعتقاد ہرگز نہیں رکھ سکتا۔"

(ازالہ اوہام صفحہ 239 مندرجہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 220 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 601 پر)

### جھوٹا

(114) "جھوٹے کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔"

(براہین احمدیہ ضمیمہ حصہ پنجم صفحہ 111 مندرجہ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 275 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 602 پر)

### مخبوط الحواس انسان

(115) "ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ اس شخص کی حالت ایک مجتہد الحواس انسان کی حالت



ہے کہ ایک کھلا کھلا تناقض اپنے کلام میں رکھتا ہے۔“

(حقیقۃ الوحی صفحہ 191 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 191 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 603 پر)

## دو متناقض باتیں

(116) ”ایک دل سے دو متناقض باتیں نکل نہیں سکتیں کیونکہ ایسے طریق سے یا انسان پاگل کہلاتا ہے یا منافق۔“

(ست بچن صفحہ 31 مندرجہ روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 143 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 604 پر)

## پاگل، مجنوں یا منافق

(117) ”کسی سچیار اور عقلمند اور صاف دل انسان کی کلام میں ہرگز تناقض نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی پاگل اور مجنوں یا ایسا منافق ہو کہ خوشامد کے طور پر ہاں میں ہاں ملا دیتا ہو، اس کا کلام بے شک متناقض ہو جاتا ہے۔“

(ست بچن صفحہ 30 مندرجہ روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 142 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 605 پر)

## اہم نکات

- 1- مرزا قادیانی کی مذکورہ بالا تحریروں سے درج ذیل نتیجہ اخذ ہوتا ہے:
- 2- کوئی دانشمند اور قائم الحواس آدمی دو متضاد اعتقاد ہرگز نہیں رکھ سکتا۔
- 3- اس شخص کی حالت ایک مخبوط الحواس انسان ایسی ہے جو ایک کھلا کھلا تناقض اپنے کلام میں رکھتا ہے۔
- 4- ایک دل سے دو متناقض باتیں نکل نہیں سکتیں کیونکہ اس طرح انسان پاگل کہلاتا ہے یا منافق۔
- 5- کسی سچیار، عقلمند اور صاف دل انسان کے کلام میں ہرگز تناقض نہیں ہوتا۔ ہاں اگر

کوئی پاگل اور مجنوں یا ایسا منافق ہو کہ خوشامد کے طور پر ہاں میں ہاں ملا دیتا ہو، اس کا کلام بے شک تناقض ہو جاتا ہے۔

مرزا قادیانی کے الفاظ میں مذکورہ بالا اقتباسات کا خلاصہ یہ ہے کہ جس انسان کے کلام (تحریر) میں تناقض (تضاد) ہوتا ہے، وہ پاگل، منافق، مجبوط الحواس اور جھوٹا ہوتا ہے۔ آئیے مرزا قادیانی کے خود اپنے قائم کردہ معیار کے مطابق اس کی تحریریں ملاحظہ فرمائیں:

## خدا تعالیٰ کا قانون قدرت

### پہلا موقف

(118) ”خدا تعالیٰ کا قانون قدرت ہرگز بدل نہیں سکتا۔“

(کرامت الصادقین صفحہ 8 مندرجہ روحانی خزائن جلد 7 صفحہ 50 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 606 پر)

### دوسرا موقف

(119) ”وہ اپنے خاص بندوں کے لیے اپنا قانون بھی بدل لیتا ہے مگر وہ بدلنا بھی اس کے قانون میں ہی داخل ہے۔“

(چشمہ معرفت صفحہ 96 مندرجہ روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 104 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 607 پر)

## مسیح کی قبر

### پہلا موقف

(120) ”یہ تو سچ ہے کہ مسیح اپنے وطن گلیل میں جا کر فوت ہو گیا۔“

(ازالہ اوہام صفحہ 472 مندرجہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 353 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 608 پر)

## دوسرا موقف

(121) ”بعد اس کے مسج اس زمین سے پوشیدہ طور پر بھاگ کر کشمیر کی طرف آ گیا اور وہیں فوت ہوا اور تم سن چکے ہو کہ سری نگر محلہ خان یار میں اس کی قبر ہے۔“  
(کشتی نوح صفحہ 54 مندرجہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 57، 58 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 609 پر)

## دو بکریاں

(122) ”شَلْتَانِ تَذْبَحَانِ. ترجمہ: دو بکریاں ذبح کی جائیں گی۔“  
(براہین احمدیہ جلد 1 صفحہ 610 مندرجہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 610 | حاشیہ در حاشیہ | از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 610 پر)

## مولوی عبداللطیف قادیانی اور عبدالرحمان قادیانی

### پہلا موقف

(123) ”خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگرچہ میں تجھے قتل سے بچاؤں گا۔ مگر تیری جماعت میں سے دو بکریاں ذبح کی جائیں گی اور ہر ایک جو زمین پر ہے آخر فنا ہوگا یعنی بیگناہ اور معصوم ہونے کی حالت میں قتل کی جائیں گی۔ یہ خدا تعالیٰ کی کتابوں میں محاورہ ہے کہ بیگناہ اور معصوم کو بکرے یا بکری سے تشبیہ دی جاتی ہے اور کبھی گائیوں سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے سو خدا تعالیٰ نے اس جگہ انسان کا لفظ چھوڑ کر بکری کا لفظ استعمال کیا۔ کیونکہ بکری میں دو ہنر ہیں وہ دودھ بھی دیتی ہے اور پھر اس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے اور یہ پیشگوئی شہید مرحوم مولوی محمد عبداللطیف اور ان کے شاگرد عبدالرحمن کے بارے میں ہے کہ جو ”براہین احمدیہ“ کے لکھے جانے کے بعد پورے تیس برس بعد پوری ہوئی۔ اب تک لاکھوں کروڑوں انسانوں نے اس پیشگوئی کو میری کتاب ”براہین احمدیہ“ کے صفحہ 511 میں پڑھا ہوگا اور ظاہر ہے کہ جیسا کہ ابھی میں نے لکھا ہے بکری کی صفتوں میں سے ایک دودھ دینا ہے اور ایک اس کا گوشت ہے جو کھایا جاتا

ہے۔ یہ دونوں بکری کی صفتیں مولوی عبداللطیف صاحب مرحوم کی شہادت سے پوری ہوئیں۔“  
(تذکرۃ الشہادتین صفحہ 72 مندرجہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 72 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 611 پر)

## مرزا احمد بیگ اور اس کا داماد

### دوسرا موقف

(124) ”ایسا ہی ”براہین احمدیہ“ میں احمد بیگ اور اس کے داماد کے متعلق کی پیشگوئی کی نسبت صفحہ 510 اور صفحہ 511 میں اور صفحہ 515 میں پہلے سے خبر موجود ہے اور وہ یہ ہے..... شاتان تلذبحان۔ دو بکریاں ذبح کی جائیں گی پہلی بکری سے مراد مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری ہے اور دوسری بکری سے مراد اس کا داماد ہے..... ان پیشگوئیوں میں علاوہ اور پیشگوئیوں کے جو ان کے ضمن میں بیان کی گئیں دو بکریوں کے ذبح ہونے کی پیشگوئی احمد بیگ اور اس کے داماد کی طرف اشارہ ہے جو آج سے سترہ برس پہلے ”براہین احمدیہ“ میں شائع ہو چکی ہے۔“  
(انجام آتھم صفحہ 56، 57 مندرجہ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 340، 341 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 612 پر)

## میرا نام غازی ہے

### پہلا موقف

(125) ”اس عاجز کا نام مکاشفات میں غازی رکھا گیا ہے۔“  
(نشان آسمانی صفحہ 15 مندرجہ روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 375 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ 613 پر)

## غازی نام رکھنا رسول کریم ﷺ کی نافرمانی ہے

### دوسرا موقف

(126) ”اب اس کے بعد جو شخص کافر پر تلوار اٹھاتا اور اپنا نام غازی رکھتا ہے، وہ اس

رسول کریم ﷺ کی نافرمانی کرتا ہے۔“

(مجموعہ اشتہارات جلد دوم صفحہ 408 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ 614 پر)

## اندھے کو اندھا کہنا بھی دل دکھانا ہے

پہلا موقف

(127) ”خدا تعالیٰ کی سچی اطاعت اور نوع انسان کی حقیقی بھلائی وہی شخص بجالا سکتا ہے جو وقت شناس ہو ورنہ نہیں۔ مثلاً ایک شخص گوراست گو ہے مگر اپنی راستی کو حکمت کے ساتھ ملا کر استعمال نہیں کرتا بلکہ لاٹھی کی طرح مارتا ہے اور بے تمیزی سے ایک شریف خصلت کو بے محل کام میں لاتا ہے تو وہ ایک حکیم منش کے نزدیک ہرگز قابل تعریف نہیں ٹھہرتا۔ ایسے کو جاہل نیک بخت کہیں گے۔ نہ دانائیک بخت اگر کوئی اندھے کو اندھا اندھا کر کے پکارے اور پھر کسی کے منع کرنے پر یہ کہے کہ میاں کیا میں جھوٹ بولتا ہوں تو اسے یہی کہا جائے گا کہ بے شک تو راست گو ہے مگر احمق یا شریر کہ جس راستی کے اظہار کی تجھے ضرورت ہی نہیں، اس کو واجب الاظہار سمجھتا ہے اور اپنے بھائی کے دل کو دکھاتا ہے۔“

(شخص حق صفحہ 40 مندرجہ روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 366 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 615 پر)

## اندھے کو اندھا کہنا درست ہے

دوسرا موقف

(128) ”2 مئی 1906ء کی ڈاک میں مجھے دہلی کے اندھے عیسائی احمد مسیح کا وہ اشتہار ملا تھا جس میں عیسائی مذکور نے اسلام اور عیسائیت کے درمیان آخری فیصلہ کرنے کے واسطے مجھے مبالغہ کے واسطے طلب کیا۔“

(مجموعہ اشتہارات جلد دوم صفحہ 671 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 616 پر)

## مسیح موعود کی پیش گوئی اجماع امت ہے

پہلا موقف

(129) ”یہ تمام الفاظ و اسما ظاہر پر ہی محمول ہیں بلکہ صرف صورت پیشگوئی پر ایمان لے آئے ہیں پھر اجماع کس بات پر ہے۔ ہاں تیرھویں صدی کے اختتام پر مسیح موعود کا آنا ایک اجماعی عقیدہ معلوم ہوتا ہے۔“

(ازالہ اوہام صفحہ 185 مندرجہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 189 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 617 پر)

## مسیح موعود کی پیش گوئی اجماع امت نہیں ہے

دوسرا موقف

(130) ”اور واقعی یہ سچ اور بالکل سچ ہے کہ امت کے اجماع کو پیشگوئیوں کے امور سے کچھ تعلق نہیں اور ہمارے حال کے مولویوں کو یہ سخت دھوکا لگا ہوا ہے کہ پیشگوئیوں کو بھی جن کی اصل حقیقت ہنوز درپردہ غیب ہے اجماع کے شکنجہ میں کھینچنا چاہتے ہیں۔“

(ازالہ اوہام صفحہ 402 مندرجہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 308 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 618 پر)

## پرندوں کا اڑنا قرآن سے ثابت ہے

پہلا موقف

(131) ”حضرت مسیح علیہ السلام کی چڑیاں باوجودیکہ معجزہ کے طور پر ان کا پرواز قرآن کریم سے ثابت ہے مگر پھر بھی مٹی کی مٹی ہی تھے۔“

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ 68 مندرجہ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 68 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 619 پر)

## پرندوں کا اڑنا قرآن سے ثابت نہیں ہے

دوسرا موقف

(132) ”اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان پرندوں کا پرواز کرنا قرآن شریف سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا بلکہ ان کا ہلنا اور جنبش کرنا بھی پاپائے ثبوت نہیں پہنچتا۔“

(ازالہ اوہام صفحہ 308 مندرجہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 256، 257 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 621، 620 پر)

## مسیح موعود؟؟؟

پہلا موقف

(133) ”اس عاجز نے جو مثیل موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے جس کو کم فہم لوگ مسیح موعود خیال کر بیٹھے ہیں۔“

(ازالہ اوہام صفحہ 190 مندرجہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 192 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 622 پر)

## مسیح موعود

دوسرا موقف

(134) ”میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں وہ مسیح موعود ہوں جس کے بارے میں خدا تعالیٰ کی تمام پاک کتابوں میں پیشگوئیاں ہیں کہ وہ آخری زمانہ میں ظاہر ہوگا۔“

(تحفہ گولڈویہ (ضمیمہ) صفحہ 118 مندرجہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 295 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 623 پر)

## حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی ہیں

پہلا موقف

(135) ”حضرت مسیح ابن مریم اس امت کے شمار میں ہی آگئے ہیں۔“

(ازالہ اوہام صفحہ 623 مندرجہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 436 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 624 پر)

## حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی نہیں ہیں

دوسرا موقف

(136) ”حضرت عیسیٰ کو امتی قرار دینا ایک کفر ہے کیونکہ امتی اس کو کہتے ہیں کہ جو بغیر

اتباع آنحضرت ﷺ اور بغیر اتباع قرآن شریف محض ناقص اور گمراہ اور بے دین ہو، اور پھر

آنحضرت ﷺ کی پیروی اور قرآن شریف کی پیروی سے اس کو ایمان اور کمال نصیب ہو۔ اور ظاہر

ہے کہ ایسا خیال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کرنا کفر ہے کیونکہ گو وہ اپنے درجہ میں آنحضرت ﷺ

سے کیسے ہی کم ہوں مگر نہیں کہہ سکتے کہ جب تک وہ دوبارہ دنیا میں آ کر آنحضرت ﷺ کی امت میں

داخل نہ ہوں تب تک نعوذ باللہ وہ گمراہ اور بے دین ہیں یا وہ ناقص ہیں اور ان کی معرفت ناتمام ہے۔

پس میں اپنے مخالفوں کو یقیناً کہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ امتی ہرگز نہیں ہیں۔“

(براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 192 مندرجہ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 364 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 625 پر)

## دلۃ الارض سے مراد طاعون

پہلا موقف

(137) ”تب میرے دل میں ڈالا گیا کہ یہی طاعون ہے اور یہی وہ دلۃ الارض ہے جس

کی نسبت قرآن شریف میں وعدہ ہے۔“

(نزول المسح صفحہ 38 مندرجہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 415، 416 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 626، 627 پر)



## دابة الارض سے مراد علماء سو

دوسرا موقف

(138) ”ان المراد من دابة الارض علماء السوء“

ترجمہ: ”یقیناً دابة الارض سے مراد علماء سو ہیں۔“

(حملہ البشریٰ صفحہ 142 مندرجہ روحانی خزائن جلد 7 صفحہ 308 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 628 پر)

## آسمان سے

پہلا موقف

(139) ”صحیح مسلم کی حدیث میں جو یہ لفظ موجود ہے کہ حضرت مسیح جب آسمان سے اتریں

گے تو ان کا لباس زرد رنگ کا ہوگا۔“

(ازالہ اوہام صفحہ 81 مندرجہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 142 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 629 پر)

## آسمان سے نہیں

دوسرا موقف

(140) ”نحن مناظرون فی امر نزول المسیح من السماء، ولا نسلم انه ثابت

من الكتاب والسنة. بعض احادیث میں عیسیٰ ابن مریم کے نزول کا لفظ پایا جاتا ہے لیکن

کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے کہ ان کا نزول آسمان سے ہوگا۔“

(حماتہ البشریٰ صفحہ 40 مندرجہ روحانی خزائن جلد 7 صفحہ 206 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 630 پر)

## سر سید..... ایک منکر

### پہلا موقف

(141) ”میں نے سید احمد خان صاحب کا نام منکرین کی مد میں اس لیے لکھا ہے کہ ان کو خدا کے اُس الہام بلکہ وحی سے بھی انکار ہے جو خدا سے نازل ہوتی اور علم غیب کی عظمت اپنے اندر رکھتی ہے۔“

(سراج منیر صفحہ 56 مندرجہ روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 58 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 631 پر)

## سر سید..... دانا اور مردم شناس

### دوسرا موقف

(142) ”سر سید احمد خاں صاحب کے۔ سی۔ ایس۔ آئی نے جو اپنے آخری وقت میں یعنی موت سے تھوڑے دن پہلے میری نسبت ایک شہادت شائع کی ہے۔ اس سے گورنمنٹ عالیہ سمجھ سکتی ہے کہ اس دانا اور مردم شناس شخص نے میرے طریق اور رویہ کو بدل پسند کیا ہے۔“

(کشف الغطاء صفحہ 13 مندرجہ روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 189 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 632 پر)

## سر سید..... فراڈیا اور دھوکے باز

### پہلا موقف

(143) ”ان کے وقت میں خدا نے یہ آسمانی سلسلہ پیدا کیا۔ مگر انہوں نے اپنی دنیوی عزت کی وجہ سے اس سلسلہ کو ایک ذرہ عظمت کی نظر سے نہیں دیکھا بلکہ اپنے ایک خط میں کسی اپنے رُو آشنا کو لکھا کہ یہ شخص جو ایسا دعویٰ کرنا ہے، بالکل ہیچ ہے اور اس کی تمام کتابیں لغو اور بے سود اور باطل ہیں اور اس کی تمام باتیں ناراستی سے بھری ہوئی ہیں۔ حالانکہ سر سید صاحب اس بات سے بکلی محروم رہے کہ کبھی میرے کسی چھوٹے سے رسالہ کو بھی اوّل سے آخر تک

دیکھیں۔ وہ غصے کے وقت میں دنیوی رعونت سے ایسے مدہوش تھے کہ ہر ایک کو اپنے پیروں کے نیچے کھلتے تھے اور یہ دکھلاتے تھے کہ گویا ان کو دنیوی حیثیت کے رُود سے ایسا عروج ہے کہ ان کا کوئی بھی ثانی نہیں۔ ہنسی اور ٹھٹھا کرنا اکثر ان کا شیوہ تھا۔ جب میں ایک دفعہ علی گڑھ میں گیا تو مجھ سے بھی اسی رعونت کی وجہ سے جس کا محکم پودہ ان کے دل میں مستحکم ہو چکا تھا ہنسی ٹھٹھا کیا اور یہ کہا کہ آؤ، میں مرید بنتا ہوں اور آپ مرشد بنیں اور حیدرآباد میں چلیں اور کچھ جھوٹی کرامات دکھائیں اور میں تعریف کرتا پھروں گا۔ تب ریاست اپنی سادہ لوحی کی وجہ سے ایک لاکھ روپیہ دے دے گی۔ اس میں دو حصے میرے اور ایک حصہ آپ کا ہوا۔ گویا اس تقریر میں وہ ٹھگ جو سادھو کہلاتے ہیں مجھے قرار دیا۔ ایسا ہی اور کئی باتیں تھیں جن کا اب ان کی وفات کے بعد لکھنا بے فائدہ ہے۔“

(تریاق القلوب صفحہ 339، 340 مندرجہ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 467، 468 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 633، 634 پر)

## سر سید..... قدر مرداں بعد از مُردن

### دوسرا موقف

(144) ”سر سید احمد خان بالقابہ کیسا بہادر اور زیرک اور ان کاموں میں فراست رکھنے والا آدمی تھا۔ انہوں نے آخری وقت میں بھی اس کتاب کا رد لکھنا بہت ضروری سمجھا اور میسوریل بھیجنے کی طرف ہرگز التفات نہ کیا۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو آج وہ میری رائے کی ایسی ہی تائید کرتے جیسا کہ انہوں نے سلطان روم کے بارے میں صرف میری ہی رائے کی تائید کی تھی اور مخالفانہ راؤں کو بہت ناپسند اور قابل اعتراض قرار دیا تھا۔ اب ہم اس بزرگ پولیٹیکل مصالِح شناس کو کہاں سے پیدا کریں تا وہ بھی ہم سے مل کر اس انجمن کی شتاب کاری پر روئیں۔ سچ ہے ”قدر مرداں بعد از مُردن۔“

(البلاغ صفحہ 54 مندرجہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 425 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 635 پر)

## طاعون کی خواہش

پہلا موقف

(145) ”جب فسق کا طوفان برپا ہوا تو میں نے خدا سے چاہا کہ طاعون آئے۔“  
(نزول اسحٰح صفحہ 157 مندرجہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 533 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 636 پر)

## طاعون سے پناہ

دوسرا موقف

(146) ”قرآن میں بھی یہی لکھا ہے کہ وہ لوگ خود عذاب طلب کرتے تھے۔ کبخت یہ نہیں کہتے کہ دعا کرو کہ ہمیں ہدایت ہو جائے طاعون ہی مانگتے ہیں۔ دراصل یہ لوگ دہریہ ہیں۔“  
(ملفوظات جلد دوم طبع جدید صفحہ 549 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 637 پر)

## کبھی گالی کا جواب نہیں دیا

پہلا موقف

(147) ”وقد سبونی بكل سب لماردوت علیہم جوابہم۔ ترجمہ: مجھ کو گالی دی گئی، مگر میں نے جواب نہیں دیا۔“  
(مواہب الرحمن صفحہ 18 مندرجہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 236 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 638 پر)

## گالی جوابی طور پر ہے

دوسرا موقف

(148) ”یہ بات بھی میں تسلیم کرتا ہوں کہ مخالفوں کے مقابل پر تحریری مباحثات میں کسی

قدر میرے الفاظ میں سختی استعمال میں آئی تھی۔ لیکن وہ ابتدائی طور پر سختی نہیں ہے بلکہ وہ تمام تحریریں نہایت سخت حملوں کے جواب میں لکھی گئی ہیں۔ مخالفوں کے الفاظ ایسے سخت اور دشنام دہی کے رنگ میں تھے جن کے مقابل پر کسی قدر سختی مصلحت تھی۔ اس کا ثبوت اس مقابلہ سے ہوتا ہے جو میں نے اپنی کتابوں اور مخالفوں کی کتابوں کے سخت الفاظ اکٹھے کر کے کتاب مثل مقدمہ مطبوعہ کے ساتھ شامل کیے ہیں جس کا نام میں نے کتاب الہدیت رکھا ہے اور باایں ہمہ میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ میرے سخت الفاظ جوابی طور پر ہیں۔ ابتدائی سختی کی مخالفوں کی طرف سے ہے۔“  
(کتاب البریہ [دیباچہ] صفحہ 11 مندرجہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 11 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 639 پر)

## میری دادیاں سادات میں سے تھیں

پہلا موقف

(149) ”میں اگرچہ علوی تو نہیں ہوں مگر بنی فاطمہ میں سے ہوں۔ میری بعض دادیاں مشہور اور صحیح النسب سادات میں سے تھیں۔“  
(نزول اسح صفحہ 48 مندرجہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 426 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 640 پر)

## میری دادیاں مغلیہ خاندان سے تھیں

دوسرا موقف

(150) ”ہمارا خاندان جو اپنی شہرت کے لحاظ سے مغلیہ خاندان کہلاتا ہے اس پیشگوئی کا مصداق ہے کیونکہ اگرچہ سچ وہی ہے کہ جو خدا نے فرمایا کہ یہ خاندان فارسی الاصل ہے مگر یہ تو یقینی اور مشہور و محسوس ہے کہ اکثر مائیں اور دادیاں ہماری مغلیہ خاندان سے ہیں اور وہ صحتی الاصل ہیں یعنی چین کے رہنے والی۔“

(حقیقتہ الوحی صفحہ 209 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 209 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 641 پر)

## اللہ تعالیٰ سے التجا

دوسرا موقف

(151) ”حاجتیں پوری کریں گے کیا تری عاجز بشر  
 کر بیاں سب حاجتیں حاجت روا کے سامنے“  
 (درمبین صفحہ 157 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 642 پر)

## انگریز سے التجا

پہلا موقف

(152) ”التماس ہے کہ سرکار دولتہ دار ایسے خاندان کی نسبت جس کو پچاس برس کے متواتر  
 تجربہ سے ایک وفادار جان نثار خاندان ثابت کر چکی ہے اور جس کی نسبت گورنمنٹ عالیہ کے  
 معزز حکام نے ہمیشہ مستحکم راعے سے اپنی چٹھیاات میں یہ گواہی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکار  
 انگریزی کے بکے خیر خواہ اور خدمت گزار ہیں۔ اس خود کاشتہ پودہ کی نسبت نہایت حزم اور  
 احتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے اور اپنے ماتحت حکام کو اشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس  
 خاندان کی ثابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر مجھے اور میری جماعت کو ایک خاص  
 عنایت اور مہربانی کی نظر سے دیکھیں۔ ہمارے خاندان نے سرکار انگریزی کی راہ میں اپنے  
 خون بہانے اور جان دینے سے فرق نہیں کیا اور نہ اب فرق ہے۔ لہذا ہمارا حق ہے کہ ہم  
 خدمات گذشتہ کے لحاظ سے سرکار دولتہ دار کی پوری عنایات اور خصوصیت توجہ کی درخواست  
 کریں، تاہر ایک شخص بے وجہ ہماری آبروریزی کے لیے دلیری نہ کر سکے۔“

(کتاب البریہ صفحہ 13 مندرجہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 350 از مرزا قادیانی)  
 (عکس صفحہ نمبر 643 پر)

## انگریزی نہیں آتی

پہلا موقف

(153) ”بعض انگریزی الہامات ہیں اور میں انگریزی نہیں جانتا۔ اس کوچہ سے بالکل

تاواقف ہوں ایک فقرہ تک مجھے معلوم نہیں مگر خارقِ عادت طور پر مندرجہ ذیل الہامات ہوئے۔ آئی لو یو۔ آئی ایم وڈ یو۔ آئی شل ہیپ یو۔ آئی کین ویٹ آئی ول ڈو۔ وی کین ویٹ وی ول ڈو۔ صفحہ 480، 481۔ گاڈ از کمنگ بائی ہر آرمی۔ صفحہ 484۔ ہی از وڈ یو ٹوکل ایشی۔ صفحہ 484۔ دی ڈیز شل کم دین گاڈ شیل ہیپ یو گلوری بی ٹو دس لارڈ۔ گارڈ میکراوف ارتھ اینڈ ہون۔ صفحہ 522۔ دوہ آل مین عڈ بی اینگری بٹ گاڈ از وڈ یو ہی شیل ہیپ یو۔ وارڈس آف گاڈ کین ناٹ ایکس چیج۔ صفحہ 554۔ آئی لو یو۔ آئی شیل گو یو لارج پارٹی آف اسلام۔“

(نزول المسح صفحہ 140 مندرجہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 516 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 644 پر)

## انگریزی پڑھی تھی

دوسرا موقف

(154) ”اس زمانہ میں مولوی الہی بخش صاحب کی سہمی سے جو چیف محرر مدارس تھے۔ (اب اس عہدہ کا نام ڈسٹرکٹ انسپکٹر مدارس ہے) کچھری کے ملازم منشیوں کے لیے ایک مدرسہ قائم ہوا کہ رات کو کچھری کے ملازم منشی انگریزی پڑھا کریں۔ ڈاکٹر امیر شاہ صاحب جو اس وقت اسسٹنٹ سرجن پنشنر ہیں استاد مقرر ہوئے۔ مرزا صاحب نے بھی انگریزی شروع کی اور ایک دو کتابیں انگریزی کی پڑھیں۔“

(سیرت الہدی جلد اول صفحہ 155 از مرزا بشیر احمد ایم اے ابن مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 645 پر)

## میرے کئی استاد تھے

دوسرا موقف

(155) ”بچپن کے زمانہ میں میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں چھ سات سال کا تھا

تو ایک فارسی خواں معلم میرے لیے نوکر رکھا گیا، جنہوں نے قرآن شریف اور چند فارسی کتابیں مجھے پڑھائیں اور اس بزرگ کا نام فضل الہی تھا اور جب میری عمر تقریباً دس برس کے ہوئی تو ایک عربی خواں مولوی صاحب میری تربیت کے لیے مقرر کیے گئے جن کا نام فضل احمد تھا۔ میں خیال کرتا ہوں کہ چونکہ میری تعلیم خدا تعالیٰ کے فضل کی ایک ابتدائی تخم ریزی تھی اس لیے ان استادوں کے نام کا پہلا لفظ بھی فضل ہی تھا۔ مولوی صاحب موصوف جو ایک دیندار اور بزرگوار آدمی تھے، وہ بہت توجہ اور محنت سے پڑھاتے رہے اور میں نے صرف کی بعض کتابیں اور کچھ قواعد نحو ان سے پڑھے اور بعد اس کے جب میں سترہ یا اٹھارہ سال کا ہوا تو ایک اور مولوی صاحب سے چند سال پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ ان کا نام گل علی شاہ تھا۔ ان کو بھی میرے والد صاحب نے نوکر رکھ کر قادیان میں پڑھانے کے لیے مقرر کیا تھا، اور ان آخر الذکر مولوی صاحب سے میں نے نحو اور منطق اور حکمت وغیرہ علوم مروجہ کو جہاں تک خدا تعالیٰ نے چاہا حاصل کیا اور بعض طبابت کی کتابیں میں نے اپنے والد صاحب سے پڑھیں اور وہ فن طبابت میں بڑے حاذق طبیب تھے۔“

(کتاب البریہ صفحہ 161 تا 163 مندرجہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 179 تا 181 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 646، 647، 648 پر)

## میرا کوئی استاد نہیں

### پہلا موقف

(156) ”ہمارے نبی ﷺ نے اور نبیوں کی طرح ظاہری علم کسی استاد سے نہیں پڑھا تھا مگر حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ مکتبوں میں بیٹھے تھے اور حضرت عیسیٰ نے ایک یہودی استاد سے تمام توریت پڑھی تھی۔ غرض اسی لحاظ سے کہ ہمارے نبی ﷺ نے کسی استاد سے نہیں پڑھا، خدا آپ ہی استاد ہوا اور پہلے پہل خدا نے ہی آپ کو اقراء کہا۔ یعنی پڑھ۔ اور کسی نے نہیں کہا۔ اس لیے آپ نے خاص خدا کے زیر تربیت تمام دینی ہدایت پائی اور دوسرے نبیوں کے دینی معلومات انسانوں کے ذریعہ سے بھی ہوئے۔ سو آنے والے کا نام جو مہدی رکھا گیا، سو اس میں یہ اشارہ ہے کہ وہ آنے والا علم دین خدا سے ہی حاصل کرے گا اور قرآن اور حدیث میں



کسی استاد کا شاگرد نہیں ہوگا۔ سو میں حلقاً کہہ سکتا ہوں کہ میرا حال یہی حال ہے۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا ہے۔ یا کسی مفسر یا محدث کی شاگردی اختیار کی ہے۔“

(ایام اصلاح صفحہ 168 مندرجہ روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 394 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 649 پر)

بقول مولانا محمد رفیق دلاوریؒ، واقعی مرزا صاحب حدیث، تفسیر اور دوسرے دین علوم سے بے بہرہ تھے اور اسی کا یہ اثر تھا کہ طبیعت قیود شریعت سے آزاد اور خود رائی کی طرف مائل تھی۔ ہر مسئلہ میں دعوائے اسلام کے باوجود یہ حالت تھی کہ اسلامی عقاید سے روگردان ہو کر جھٹ ملاحظہ اور زنادقہ کی صف میں جا کھڑے ہوتے تھے۔ مثل مشہور ہے ”نیم ملاحظہ ایمان“ گو الہامی صاحب بھی حدیث و تفسیر نہ پڑھنے کی وجہ سے نیم ملاحظہ ایمان تھے۔ لیکن دوسرے نیم ملاؤں میں اور الہامی صاحب میں یہ فرق تھا کہ دوسروں کی ذات سے صرف احتمال رہتا ہے کہ کہیں اپنی جہالت سے کسی مسلمان کو غلط عقیدہ بتا کر گمراہ نہ کریں۔ لیکن قادیانی صاحب ایسے خوفناک قسم کے نیم ملاحظہ ایمان تھے کہ انہوں نے سچ مچ ہزاروں لاکھوں کلمہ گوؤں کو مسلوب الایمان بنا دیا۔ اوزنہ صرف اپنے وقت کے مریدوں کو ورطہ ہلاکت میں ڈالا بلکہ جب تک مرزائیت کا وجود اس عالم فانی میں پایا جائے گا، ان کے مریدوں کی آئندہ نسلیں بھی زندقہ و دہریت کے اسی قعر ہلاکت میں پڑی رہیں گی اور ان سب کی گمراہی کا وبال و نکال قادیانی صاحب کے نامہ اعمال میں بھی برابر ثبت ہوتا رہے گا۔“ (رئیس قادیان از مولانا محمد رفیق دلاوریؒ)

## انبیاء کو احتلام نہیں ہوتا

پہلا موقف

(157) ”ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ انبیاء کو احتلام کیوں نہیں ہوتا؟ آپ نے فرمایا کہ چونکہ انبیاء سوتے جاگتے پاکیزہ خیالوں کے سوا کچھ نہیں رکھتے اور ناپاک خیالوں کو دل میں آنے نہیں دیتے، اس واسطے ان کو خواب میں بھی احتلام نہیں ہوتا۔“

(سیرت المہدی جلد اول صفحہ 157 از مرزا بشیر احمد ابن مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 650 پر)

اور احتلام ہو گیا.....

دوسرا موقف

(158) ”ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت صاحب کے خادم میاں حامد علی مرحوم کی روایت ہے کہ ایک سفر میں حضرت صاحب کو احتلام ہوا۔“  
(سیرت المہدی جلد سوم صفحہ 242 از مرزا بشیر احمد ابن مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 651 پر)

الہام اپنی زبان میں

پہلا موقف

(159) ”یہ بالکل غیر معقول اور بیہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی ہو اور الہام اس کو کسی اور زبان میں ہو جس کو وہ سمجھ بھی نہیں سکتا کیونکہ اس میں تکلیف مالا یطاق ہے اور ایسے الہام سے فائدہ کیا ہوا جو انسانی سمجھ سے بالاتر ہے۔“  
(چشمہ معرفت صفحہ 209 مندرجہ روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 218 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 652 پر)

الہام دوسری زبانوں میں

دوسرا موقف

(160) ”بعض الہامات مجھے ان زبانوں میں بھی ہوتے ہیں جن سے مجھے کچھ بھی واقفیت نہیں جیسے انگریزی یا سنسکرت یا عبرانی وغیرہ۔“  
(نزول اسح صفحہ 59 مندرجہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 435 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 653 پر)

الہامی کتابوں میں تبدیلی نہیں ہوتی

پہلا موقف

(161) ”یہ کہنا کہ وہ کتابیں محرف مبدل ہیں۔ ان کا بیان قابل اعتبار نہیں۔ ایسی بات

وہی کہے گا جو خود قرآن شریف سے بے خبر ہے۔“

(چشمہ معرفت صفحہ 75 مندرجہ روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 83 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 654 پر)

## الہامی کتابیں تبدیل ہو چکی ہیں

دوسرا موقف

(162) ”ہر ایک شخص جانتا ہے کہ قرآن شریف نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ انجیل یا

توریت سے صلح کرے گا بلکہ ان کتابوں کو محرف مبذل اور ناقص اور ناقص قرار دیا ہے۔“

(دافع البلاء صفحہ 19 مندرجہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 239 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 655 پر)

□ ”سچ تو یہ بات ہے کہ وہ کتابیں آنحضرت ﷺ کے زمانہ تک بڑی کی طرح ہو چکی تھیں اور بہت جھوٹ اُن میں ملائے گئے تھے جیسا کہ کئی جگہ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے کہ وہ کتابیں محرف مبذل ہیں اور اپنی اصلیت پر قائم نہیں رہیں۔ چنانچہ اس واقعہ پر اس زمانہ میں بڑے بڑے محقق انگریزوں نے بھی شہادت دی ہے۔ پس جب کہ بائبل محرف مبذل ہو چکی تھی۔“

(چشمہ معرفت صفحہ 255 مندرجہ روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 266 از مرزا قادیانی)

## حضرت مسیح متواضع، حلیم اور عاجز

پہلا موقف

(163) ”حضرت مسیح تو ایسے خدا کے متواضع اور حلیم اور عاجز اور بے نفس بندے تھے جو

انہوں نے یہ بھی روانہ رکھا، جو کوئی ان کو نیک آدمی بھی کہے۔“

(براہین احمدیہ صفحہ 104 (حاشیہ) مندرجہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 94 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 656 پر)

## حضرت مسیح شرابی، کبابی

دوسرا موقف

(164) ”یسوع اس لیے اپنے تئیں نیک نہیں کہہ سکا کہ لوگ جانتے تھے کہ یہ شخص شرابی کبابی ہے اور یہ خراب چال چلن نہ خدائی کے بعد بلکہ ابتدا ہی سے ایسا معلوم ہوتا ہے چنانچہ خدائی کا دعویٰ شراب خواری کا ایک بد نتیجہ ہے۔“

(ست بچن صفحہ 172 مندرجہ روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 296 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 657 پر)

## لد ایک گاؤں

پہلا موقف

(165) ”پھر حضرت ابن مریم دجال کی تلاش میں لگیں گے اور لد کے دروازہ پر جو بیت المقدس کے دیہات میں سے ایک گاؤں ہے اس کو جا پکڑیں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔“  
(ازالہ اوہام صفحہ 220 مندرجہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 209 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 658 پر)

لد، بے جا جھگڑے کرنے والے

دوسرا موقف

(166) ”پھر آخر باب لد پر قتل کیا جائے گا۔ لد ان لوگوں کو کہتے ہیں جو بے جا جھگڑنے والے ہوں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب دجال کے بے جا جھگڑے کمال تک پہنچ جائیں گے تب مسیح موعود ظہور کرے گا اور اس کے تمام جھگڑوں کا خاتمہ کر دے گا۔“  
(ازالہ اوہام صفحہ 730 مندرجہ روحانی خزائن جلد 3، صفحہ 492، 493 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 659، 660 پر)

قارئین کریم! آپ نے آنجہانی مرزا قادیانی کی تضاد بیانیوں ملاحظہ کیں۔ آپ

شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ مرزا قادیانی کے نزدیک دو متضاد باتیں رکھنے والا شخص مجبوط  
 الحواس، پاگل یا منافق ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی کے اس فتویٰ کی روشنی میں اس کی اپنی حیثیت  
 خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔

ہم بھی قائل تیری نیرنگی کے ہیں یاد رہے  
 او زمانے کی طرح رنگ بدلنے والے





تہمت حاضر ہیں!

باپ چچا یا بیٹا؟





آنجہانی مرزا قادیانی کا فتویٰ ہے کہ:

(167) ”تلك كتب ينظر اليها كل مسلم بعين المحبة والمودة وينفع من معارفها ويقبلني و يصدق دعوتي. الا ذرية البغايا.“  
 ”جو شخص میری (مرزا قادیانی کی) کتابوں کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھتا، یا اس کے معارف سے فائدہ نہیں اٹھاتا، وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔“

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ 547 مندرجہ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 547، 548 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 662، 661 پر)

دوسرے معنوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص مرزا قادیانی کی تحریروں سے اختلاف کرتا ہے اور ان کے برعکس اپنا نقطہ نظر پیش کرتا ہے، وہ کسی فاحشہ یا رنڈی باز عورت کی اولاد ہے۔ مرزا قادیانی اپنی تحریروں کو مستند کہتا ہوا لکھتا ہے:

## تائید الہی سے لکھے گئے رسائل

(168) ”یہ رسائل جو لکھے گئے ہیں تائید الہی سے لکھے گئے ہیں۔ میں ان کا نام وحی اور الہام تو نہیں رکھتا۔ مگر یہ تو ضرور کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی خاص اور خارق عادت تائید نے یہ رسالے میرے ہاتھ سے نکلوائے ہیں۔“

(سراخلافہ صفحہ 101، 102 مندرجہ روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 415، 416 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 664، 663 پر)

اب ظاہر ہے جو رسائل تائید الہی سے لکھے گئے ہوں اور خدا تعالیٰ کی خاص اور

خارق عادت تائید نے یہ رسالے اس کے ہاتھ سے نکلوائے ہوں، ان سے اختلاف کرنے والا مرزا قادیانی کے بقول حرامی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی کا بڑا بیٹا اور قادیانی جماعت کا دوسرا خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود نے اپنے والد ”سیح موعود“ کی کئی تحریروں سے زبردست اختلاف کرتا ہے بلکہ ان تحریروں کے برعکس اپنا نقطہ نظر پیش کرتا ہے۔ مرزا بشیر الدین کو قادیانی جماعت میں ”مصلح موعود“ اور ”فضل عمر“ کہا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں قادیانی جماعت کا عقیدہ ہے کہ ”خلیفہ کو خدا بناتا ہے!“ لہذا خلیفہ کی کسی بات سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ قادیانی جماعت میں جو شخص اپنے خلیفہ کی کسی بات (تقریر یا تحریر) سے معمولی سا بھی اختلاف کرتا ہے، اسے فوری طور پر جماعت سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ ان لوگوں میں مولوی محمد علی لاہوری، خواجہ کمال الدین، مولوی عبدالمنان عمر، عبدالکریم مہبلہ، ملک عزیز الرحمن، صلاح الدین ناصر، بشیر احمد رازی، چوہدری غلام رسول چیمہ، محمد یوسف ناز، عبدالرحمن مصری، فخر الدین ملتانی احمد کریم شیخ اور جناب شفیق مرزا خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں۔

ذیل میں مرزا غلام احمد قادیانی اور آنجنابی مرزا بشیر الدین محمود کی وہ تحریریں درج کی جا رہی ہیں جن سے باپ بیٹے نے اختلاف کیا ہے۔ میں یہ فیصلہ قادیانیوں پر چھوڑتا ہوں کہ باپ بیٹے کی آپس میں اختلافی تحریروں کے بعد وہ انہیں کس مقام پر قائل کرتے ہیں؟

## نبی کریم ﷺ کے والد محترم

### مرزا قادیانی کی تحریر

(169) ”تاریخ کو ذیکھو کہ آنحضرت ﷺ وہی ایک یتیم لڑکا تھا جس کا باپ پیدائش سے

چند دن بعد ہی فوت ہو گیا۔ اور ماں صرف چند ماہ کا بچہ چھوڑ کر مر گئی تھی۔“

(پیغام صلح صفحہ 28 مندرجہ روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 465 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 665 پر)

سیرت النبی ﷺ کا ہر طالب علم بخوبی جانتا ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ کے والد محترم حضرت عبداللہ آپ ﷺ کی ولادت باسعادت سے چند ماہ پہلے ایک تجارتی سفر میں انتقال کر گئے تھے اور آپ ﷺ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہؓ کا سانحہ ارتحال آپ ﷺ کی ولادت باسعادت کے 6 سال بعد ہوا تھا۔ مگر مرزا قادیانی کو ان تاریخی حقائق کا علم نہیں۔ بقول ڈاکٹر

غلام جیلانی برق: ”مت بھولیے کہ یہ مرزا صاحب کی آخری تحریر تھی جو انہتر برس کے علمی مطالعہ کا نچوڑ تھی۔ پھر تحریر بھی اس ہستی کے متعلق جن کا ذکر ہرزبان پر اور چہ چاہر گھر میں ہے۔ اور واقعہ بھی ایسا جسے ہمارے لاکھوں واعظین تیرہ سو برس سے گلی گلی سن رہے ہیں اور جس سے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی آگاہ ہیں۔ حیرت ہے کہ جناب مرزا صاحب تاریخ نبوی کے اس مشہور ترین واقعہ سے بھی بے خبر نکلے۔“ (حرف بحقیقت، ڈاکٹر محمد جیلانی بریل)

اس عبارت میں مرزا قادیانی نے ”نور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کے بارے میں ”مرگنی“ ایسے الفاظ استعمال کر کے بدترین توہین کا ارتکاب کیا ہے۔

## مرزا بشیر الدین محمود کا اختلاف

(170) ”رسول کریم ﷺ ابھی رحم مادر میں ہی تھے کہ آپ کے والد فوت ہو گئے۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دادا عبدالمطلب کے دل میں غیر معمولی طور پر محبت پیدا کر دی۔“

(تفسیر کبیر جلد 9، صفحہ 97 از مرزا بشیر الدین محمود) (عکس صفحہ نمبر 666 پر)

## معجزہ شق القمر

### مرزا قادیانی کی تحریر

(171) ”ایسا ہی شق القمر کا عالیشان معجزہ جو خدائی ہاتھ کو دکھلا رہا ہے، قرآن شریف میں مذکور ہے کہ آنحضرت ﷺ کی انگلی کے اشارہ سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور کفار نے اس معجزہ کو دیکھا۔ اس کے جواب میں یہ کہنا کہ ایسا وقوع میں آنا خلاف علم ہیئت ہے، یہ سراسر فضول باتیں ہیں کیونکہ قرآن شریف تو فرماتا ہے کہ التَّرْبِیۃُ السَّاعَۃُ وَالشَّقُّ الْقَمَرِ۔ وَإِنْ یُرَوْا آیۃٌ یُعْرَضُوا بِیَعْقُلِہُمُ الْمَسْحُورِ۔ یعنی قیامت نزدیک آگئی اور چاند پھٹ گیا اور کافروں نے یہ معجزہ دیکھا اور کہا کہ یہ پکا جادو ہے جس کا آسمان تک اثر چلا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ نرا دعویٰ نہیں بلکہ قرآن شریف تو اس کے ساتھ ان کافروں کو گواہ قرار دیتا ہے جو سخت

دشمن تھے اور کفر پر ہی مرے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر شق القمر وقوع میں نہ آیا ہوتا تو مکہ کے مخالف لوگ اور جانی دشمن کیونکر خاموش بیٹھ سکتے تھے۔ وہ بلاشبہ شور مچاتے کہ ہم پر یہ تہمت لگائی ہے ہم نے تو چاند کو دو ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھا اور عقل تجویز نہیں کر سکتی کہ وہ لوگ اس معجزہ کو سراسر جھوٹ اور افترا خیال کر کے پھر بھی چپ رہتے۔ بالخصوص جبکہ ان کو آنحضرت ﷺ نے اس واقعہ کا گواہ قرار دیا تھا تو اس حالت میں ان کا فرض تھا کہ اگر یہ واقعہ صحیح نہیں تھا تو اس کا رد کرتے، نہ یہ کہ خاموش رہ کر اس واقعہ کی صحت پر مہر لگا دیتے۔ پس یقینی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ضرور ظہور میں آیا تھا۔“

(چشمہ معرفت صفحہ 42 مندرجہ روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 411 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 667 پر)

## مرزا بشیر الدین محمود کا اختلاف

(172) ”مفسرین نے غلطی سے اس کے یہ معنی کیے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ایک دفعہ یہ معجزہ دکھایا تھا کہ چاند کی طرف اشارہ کیا تو وہ حقیقتہً جسمانی طور پر پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا (فتح البیان) حالانکہ یہ غلط ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو عرب کے سب حصوں میں اور دنیا کے سب حصوں میں ایسا نظر آتا بلکہ نظام شمسی کے لیے مہلک ثابت ہوتا کیونکہ وہ اسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے جبکہ اس کے سب سیارے اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک رہیں۔ پھر کسی صحابی نے بھی جو اس وقت اس مجلس میں ہو یا بکہ یا عرب کے کسی اور مقام پر ہو، اس کی شہادت نہیں دی کہ چاند جسمانی طور پر پھٹ گیا تھا۔“

(تفسیر صغیر صفحہ 706 از مرزا بشیر الدین محمود) (عکس صفحہ نمبر 668 پر)

## اسمہ احمد سے مراد

## مرزا قادیانی کی تحریر

(173) ”مسج علیہ السلام کی گواہی قرآن کریم میں اس طرح پر لکھی ہے کہ مَبَشِّرًا“

بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. یعنی میں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد یعنی میرے مرنے کے بعد آئے گا اور نام اس کا احمد ہوگا۔ پس اگر مسیح اب تک اس عالم جسمانی سے گزر نہیں گیا تو اس سے لازم آتا ہے کہ ہمارے نبی ﷺ بھی اب تک اس عالم میں تشریف فرما نہیں ہوئے کیونکہ نص اپنے کھلے کھلے الفاظ سے بتا رہی ہے کہ جب مسیح علیہ السلام اس عالم جسمانی سے رخصت ہو جائے گا تب آنحضرت ﷺ اس عالم جسمانی میں تشریف لائیں گے۔“

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ 42 مندرجہ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 42 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 669 پر)

## مرزا بشیر الدین محمود کا اختلاف

(174) ”پس اس آیت میں جس رسول احمد نام والے کی خبر دے گئی ہے، وہ آنحضرت ﷺ نہیں ہو سکتے۔ ہاں اگر وہ تمام نشانات جو اس احمد نام رسول کے ہیں آپ کے وقت میں پورے ہوں تب بیشک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں احمد نام سے مراد احمدیت کی صفت کا رسول ہے کیونکہ سب نشانات جب آپ میں پورے ہو گئے تو پھر کسی اور پر اس کے چسپاں کرنے کی کیا وجہ ہے۔“

(انوار خلافت صفحہ 23 مندرجہ انوار العلوم جلد 3 صفحہ 87، 88 از مرزا بشیر الدین محمود)  
(عکس صفحہ نمبر 670، 671 پر)

## نبی دوسرے نبی کا مطیع

### مرزا قادیانی کی تحریر

(175) ”صاحب نبوت تامہ ہرگز امتی نہیں ہو سکتا اور جو شخص کامل طور پر رسول اللہ کہلاتا ہے وہ کامل طور پر دوسرے نبی کا مطیع اور امتی ہو جانا نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ کے رو سے بالکل ممنوع ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن

اللہ (النساء: 65) یعنی ہر ایک رسول مطاع اور امام بنانے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ اس غرض سے نہیں بھیجا جاتا کہ کسی دوسرے کا مطیع اور تابع ہو۔“

(ازالہ اوہام صفحہ 569 مندرجہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 407 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 672 پر)

## مرزا بشیر الدین محمود کا اختلاف

(176) ”بعض نادان کہہ دیا کرتے ہیں کہ نبی دوسرے نبی کا تابع نہیں ہو سکتا اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ (النساء: 65) اور اس سے حضرت مسیح موعود کی نبوت کے خلاف استدلال کرتے ہیں۔ لیکن یہ سب سبب قلتِ تدبر ہیں۔“

(حقیقت النبوة حصہ اول مندرجہ انوار العلوم جلد 2 صفحہ 472 از مرزا بشیر الدین محمود)

(عکس صفحہ نمبر 673 پر)

## نبی کے لیے شرط

### مرزا قادیانی کی تحریر

(177) ”انبیاء اس لیے آتے ہیں کہ تا ایک دین سے دوسرے دین میں داخل کریں اور

ایک قبلہ سے دوسرا قبلہ مقرر کراویں اور بعض احکام کو منسوخ کریں اور بعض نئے احکام لاویں۔“

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ 339 مندرجہ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 339 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 674 پر)

## مرزا بشیر الدین محمود کا اختلاف

(178) ”نادان مسلمانوں کا خیال تھا کہ نبی کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ کوئی نئی شریعت لائے

یا پہلے احکام میں سے کچھ منسوخ کرے یا بلا واسطہ نبوت پائے لیکن اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود کے ذریعہ اس غلطی کو دور کروایا۔“

(حقیقت النبوة (حصہ اول) مندرجہ انوار العلوم جلد 2 صفحہ 454 از مرزا بشیر الدین محمود)  
(عکس صفحہ نمبر 675 پر)

## حضرت مسیح صلیب پر

### مرزا قادیانی کی تحریر

(179) ”حضرت مسیح علیہ السلام وہ انسان تھے جو مخلوق کی بھلائی کے لیے صلیب پر چڑھے۔ گو خدا کے رحم نے ان کو بچا لیا اور مرہم عیسیٰ نے ان کے زخموں کو اچھا کر کے آخر کشمیر جنت نظر میں ان کو پہنچا دیا۔ سو انہوں نے سچائی کے لیے صلیب سے پیار کیا۔ اور اس طرح اس پر چڑھ گئے جیسا کہ ایک بہادر سوار خوش عتاق گھوڑے پر چڑھتا ہے۔ سو ایسا ہی میں بھی مخلوق کی بھلائی کے لیے صلیب سے پیار کرتا ہوں۔“

(تریاق القلوب صفحہ 371 مندرجہ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 498، 499 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 676، 677 پر)

## مرزا بشیر الدین محمود کا اختلاف

(180) ”اگر حضرت مسیح کفارہ ہوئے ہیں تو ان کا کفارہ ہونا اسی صورت میں تسلیم کیا جا سکتا ہے جب وہ خوشی اور انتہائی بشارت کے ساتھ کفارہ ہوئے ہوں۔ جس شخص کو جبراً صلیب پر لٹکا دیا جائے اس کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اپنی خوشی سے لوگوں کے لیے قربان ہوا ہے۔ اگر حضرت مسیح واقعہ میں کفارہ ہونے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے تو چاہیے تھا کہ وہ دوڑ کر صلیب پر چڑھتے اور خوش ہوتے کہ جس غرض کے لیے میں آیا تھا وہ آج پوری ہو رہی ہے۔“

(تفسیر کبیر جلد 9 صفحہ 194 از مرزا بشیر الدین محمود) (عکس صفحہ نمبر 678 پر)

## کرمہائے تو مارا کرو گستاخ

### مرزا قادیانی کی تحریر

(181) ”کرمہائے تو مارا کرو گستاخ..... تیری بخششوں نے ہم کو گستاخ کر دیا۔“

(براہین احمدیہ صفحہ 554، 557 مندرجہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 662، 664 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 679، 680 پر)

### مرزا بشیر الدین محمود کا اختلاف

(182) ”نادان ہے وہ شخص جس نے کہا ”کرم ہائے تو مارا کرو گستاخ“ کیونکہ خدا کے فضل انسان کو گستاخ نہیں بنایا کرتے اور سرکش نہیں کر دیا کرتے بلکہ اور زیادہ شکر گزار اور فرمانبردار بناتے ہیں۔“

(قادیانی خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود کی تقریر، مہاجرہ روزنامہ الفضل، قادیان 23 جنوری 1917ء صفحہ 13)

(عکس صفحہ نمبر 681، 682 پر)

## مسیح موعود صرف مسلمان ہو گا یا نبی بھی

### مرزا قادیانی کی تحریر

(183) ”اس جگہ اگر یہ اعتراض پیش کیا جائے کہ مسیح کا مثل بھی نبی چاہیے کیونکہ مسیح نبی تھا تو اس کا اول جواب تو یہی ہے کہ آنے والے مسیح کے لیے ہمارے سید و مولیٰ نے نبوت شرط نہیں ٹھہرائی بلکہ صاف طور پر یہی لکھا ہے کہ وہ ایک مسلمان ہو گا۔“

(توضیح مرام صفحہ 17 مندرجہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 159 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 683 پر)

### مرزا بشیر الدین محمود کا اختلاف

(184) ”دوسری دلیل حضرت مسیح موعود کے نبی ہونے پر یہ ہے کہ آپ کو آنحضرت ﷺ



نے نبی کے نام سے یاد فرمایا اور نواس بن سمعان کی حدیث میں نبی اللہ کہہ کے آپ کو پکارا گیا ہے۔ پس آنحضرت ﷺ شاہد ہیں اس امر کے کہ حضرت مسیح موعود نبی ہیں۔“

(حقیقت النبوة (حصہ اول) صفحہ 189 مندرجہ انوار العلوم جلد 2 صفحہ 504 از مرزا بشیر الدین محمود)  
(عکس صفحہ نمبر 684 پر)

## حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی

### مرزا قادیانی کی تحریر

(185) ”جو شخص امتی کی حقیقت پر نظر غور ڈالے گا۔ وہ بہ ہدایت سمجھ لے گا کہ حضرت عیسیٰ کو امتی قرار دینا ایک کفر ہے۔“

(”ضمیمہ براہین احمدیہ“ حصہ پنجم صفحہ 188، مندرجہ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 364، از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 685 پر)

## مرزا بشیر الدین محمود کا اختلاف

(186) ”قرآن سے ثابت ہے کہ ہر ایک نبی آنحضرت ﷺ کی امت میں داخل ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لتؤمنن بہ ولتصرنہ پس اس طرح تمام انبیاء علیہم السلام آنحضرت ﷺ کی امت ہوئے۔“

(”تشیذ الاذعان“ قادیان شمارہ نمبر 8، جلد 12، صفحہ 28، اگست 1917ء)  
(عکس صفحہ نمبر 686، 687 پر)

قارئین کرام! آپ نے مختلف تحریروں میں باپ بیٹے کا اختلاف ملاحظہ کیا۔ آئیے! اب دیکھتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟

## باپ جھوٹا

(187) ”میں سچ سچ کہتا ہوں کہ جس کثرت اور صفائی سے غیب کا علم حضرت جل شانہ

نے اپنے ارادہ خاص سے مجھے عنایت فرمایا، اگر دنیا میں اس کثرتِ تعداد اور انکشافِ تام کے لحاظ سے کوئی اور بھی میرے ساتھ شریک ہے تو میں جھوٹا ہوں۔“

(تریاق القلوب صفحہ 169 مندرجہ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 297 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 688 پر)

### بیٹا مردود

(188) ”جو سچ موعود کے ایک لفظ کو بھی جھوٹا سمجھتا ہے۔ وہ خدائی درگاہ سے مردود ہے کیونکہ خدا اپنے نبی کو وفات تک غلطی میں نہیں رکھتا۔“

(بدر 19 جنوری 1911ء صفحہ 7، آئینہ صداقت صفحہ 40 مندرجہ انوار العلوم جلد 6 صفحہ 124 از مرزا بشیر الدین محمود)  
(عکس صفحہ نمبر 689 پر)



نبوت حاضر ہیں!

قادیانی تحریفات



تحریف کا مفہوم ہے اصل الفاظ کو بدل کر کچھ اور لکھ دینا۔ تحریف اگر کسی مصنف یا شاعر کی کتاب میں ہو تو تحریف کرنے والے کو مضمون چور یا شعر چور کہا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر یہ تحریف اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید میں کی جائے تو تحریف کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج اور واجب القتل قرار پائے گا۔ قرآن مجید کی حفاظت کا کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ماضی میں جب کسی اسلام دشمن نے قرآن مجید کے کسی ایک حرف میں بھی تحریف کی ناپاک کوشش کی تو وہ بری طرح ناکام رہا اور ساڑھے چودہ سو سال سے پوری دنیا میں ایک ہی جیسا قرآن مجید موجود رہا ہے۔ قیامت تک قرآن مجید کے کسی لفظ یا آیت کی زیر یا زیر میں بھی تبدیلی نہیں کی جاسکتی کیونکہ اس سے مفہوم بدل سکتا ہے اور معنی کچھ کے کچھ نکل سکتے ہیں۔ دشمنان اسلام مختلف ادوار میں قرآن مجید میں تین طرح کی تحریف کرنے کی کوشش کرتے رہے۔

- 1- **تحریف لفظی:** آیات قرآن مجید میں الفاظ کی کمی بیشی۔
  - 2- **تحریف معنوی:** ترجمہ قرآن مجید کرنے میں ارادۃً اصل معنوں سے ہٹ کر کوئی دوسرا مفہوم بیان کرنا۔
  - 3- **تحریف منصبی:** جو آیات رسول اکرم ﷺ کی شان میں نازل ہوئیں، ان کو اپنے اوپر یا کسی اور پر منطبق کرنا، یا جو آیات مکہ مکرمہ یا بیت اللہ شریف کی شان میں ہوں، ان کو کسی اور جگہ پر چسپاں کرنا وغیرہ۔ قرآن مجید میں تحریف کرنا بہت بڑا جرم ہے اور اس کا مرتکب آخرت میں عذاب عظیم کا مستحق کہا گیا ہے۔ ایسے یہودی الفطرت لوگ کفر صریح کے مرتکب ہیں۔
- قادیانی مذہب کے بانی جھوٹے مدعی نبوت آنجنمانی مرزا قادیانی اور اس کے نام

نہاد خلیفوں نے اپنی کتابوں میں قرآنی آیات کے حوالے سے ہر قسم کی تحریف روارکھی۔

مرزا قادیانی نے کہا تھا:

## میں قرآن کی تفسیر تیار کروں گا

(189) ”میں چاہتا ہوں کہ ایک تفسیر بھی تیار کر کے اور انگریزی میں ترجمہ کرا کر ان کے پاس بھیجی جائے۔ میں اس بات کو صاف صاف بیان کرنے سے رہ نہیں سکتا کہ یہ میرا کام ہے، دوسرے سے ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔“

(ازالہ اہام صفحہ 774 مندرجہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 518 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 690 پر)

مگر مرزا قادیانی مدت العمر مطبوعہ صورت میں کوئی مکمل تفسیر منظر عام پر نہ لاسکا۔ سوائے اس کے کہ اس نے جا بجا تحریفی اقوال اپنی تصانیف میں طاعون کے سیاہ پودوں کی طرح پھیلا دیئے۔

خود مرزا قادیانی کا کہنا ہے کہ قرآن مجید میں تحریف کرنے والا جماعت مومنین سے خارج، ملحد اور کافر ہے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے:

## ملحد اور کافر کون؟

(190) ”اور ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے اور ایک شعور یا نقطہ اس کی شرائع اور حدود اور احکام اور اوامر سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور نہ کم ہو سکتا ہے اور اب کوئی ایسی وحی یا ایسا الہام منجانب اللہ نہیں ہو سکتا جو احکام فرقانی کی ترمیم یا تنسیخ یا کسی ایک حکم کے تبدیل یا تغیر کر سکتا ہو اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ ہمارے نزدیک جماعت مومنین سے خارج اور ملحد اور کافر ہے۔“

(ازالہ اہام صفحہ 70 مندرجہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 170 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 691 پر)

## سخت شریر، بدمعاش اور گنڈا؟؟؟

(191) ”یوں ہی کسی آیت کا سر پیر کاٹ کر اور اپنے مطلب کے موافق بنا کر پیش کر دینا یہ تو اُن لوگوں کا کام ہے جو سخت شریر اور بدمعاش اور گنڈے کہلاتے ہیں۔“

(چشمہ معرفت صفحہ 195 مندرجہ روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 203، 204 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 692، 693 پر)

## دجال کون؟

(192) ”دجال کے معنی بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ جو شخص دھوکہ دینے والا اور گمراہ کرے والا اور خدا کے کلام کی تحریف کرنے والا ہو، اس کو دجال کہتے ہیں۔“

(حقیقت الوحی صفحہ 456 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 456 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 694 پر)

آئیے دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے قرآن مجید و احادیث مبارکہ میں کون کون سی تحریفات کیں اور کس طرح اپنے ہی مقرر کردہ معیار کے مطابق جماعت مومنین سے خارج، ملحد، کافر، سخت شریر، بدمعاش، غنڈہ اور دجال ہو گیا؟  
مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے:

اللہ تعالیٰ مجھے غلطی پر ایک لمحہ بھی باقی نہیں رہنے دیتا

(193) ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ مجھے غلطی پر ایک لمحہ بھی باقی نہیں رہنے دیتا اور مجھے ہر ایک غلط بات سے محفوظ رکھتا ہے۔“

(نور الحق صفحہ 86 حصہ دوم مندرجہ روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 272، از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 695 پر)

روح القدس کی قدسیت ہر وقت ملہم کے تمام قویٰ میں کام کرتی رہتی ہے  
(194) ”اس عاجز کو اپنے ذلتی تجربہ سے یہ معلوم ہے کہ روح القدس کی قدسیت ہر وقت

اور ہر دم اور ہر لحظہ بلا فصل ملہم کے تمام قویٰ میں کام کرتی رہتی ہے۔“  
(آئینہ کمالاتِ اسلام صفحہ 93 مندرجہ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 93 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 696 پر)

## میرے اندر ایک آسمانی روح بول رہی ہے

(195) ”میری زبان کی تائید میں ایک اور زبان بول رہی ہے اور میرے ہاتھ کی تقویت کے لیے ایک اور ہاتھ چل رہا ہے جس کو دنیا نہیں دیکھتی مگر میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے اندر ایک آسمانی روح بول رہی ہے۔ جو میرے لفظ لفظ اور حرف حرف کو زندگی بخشتی ہے۔“  
(ازالہ اوہام صفحہ 563 مندرجہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 403 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 697 پر)

## جو لوگ خدائے تعالیٰ سے الہام پاتے ہیں، وہ بلائے نہیں بولتے

(196) ”جو لوگ خدائے تعالیٰ سے الہام پاتے ہیں، وہ بغیر بلائے نہیں بولتے اور بغیر سمجھائے نہیں سمجھتے اور بغیر فرمائے کوئی دعویٰ نہیں کرتے اور اپنی طرف سے کسی قسم کی دلیری نہیں کر سکتے۔“

(ازالہ اوہام صفحہ 199 مندرجہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 197 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 698 پر)

## میں قرآن کو دوبارہ واپس لاؤں گا

(197) ”آخری زمانہ میں قرآن آسمان پر اٹھایا جائے گا۔ پھر انھیں حدیثوں میں لکھا ہے کہ پھر دوبارہ قرآن کو زمین پر لانے والا ایک مرد فارسی الاصل (یعنی مرزا قادیانی) ہوگا جیسا کہ فرمایا ہے لو کان الایمان معلقاً عند الثریا لنا لہ رجل من فارس۔“  
(ازالہ اوہام صفحہ 393 مندرجہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 493 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 699 پر)



## عیسیٰ لدھیانہ میں آ کر قرآن کی غلطیاں نکالے گا

(198) ”اس بزرگ نے ایک دفعہ جس بات کو عرصہ میں سال کا گزرا ہوگا، مجھ کو کہا کہ عیسیٰ

اب جوان ہو گیا ہے اور لدھیانہ میں آ کر قرآن کی غلطیاں نکالے گا۔“

(ازالہ اوہام صفحہ 708 مندرجہ روحانی خزائن جلد 3 ص 482 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 700 پر)

مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب براہین احمدیہ میں حیات و نزول عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ قرآن مجید کی روشنی میں بیان کیا۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے براہ راست قرآن مجید، اس کے صحیح معنی اور اس کے حقائق و معارف سکھائے ہیں۔ ایک جگہ پر بڑے وثوق کے ساتھ لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ براہین احمدیہ میں فرماتا ہے۔ یعنی قرآن مجید نہیں بلکہ براہین احمدیہ میں۔ ملاحظہ فرمائیں:

## اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے صحیح معنی مجھ پر ظاہر کیے

(199) ”يَا اَحْمَدُ بَارَكَ اللهُ فِيكَ مَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ رَمَى، الرَّحْمَنُ

عَلَّمَ الْقُرْآنَ. ترجمہ: اے احمد خدا نے تجھ میں برکت رکھ دی ہے جو کچھ تو نے چلایا، وہ تو نے نہیں

چلایا بلکہ خدا نے چلایا، خدا نے تجھے قرآن سکھلایا۔ یعنی اس کے صحیح معنی تجھ پر ظاہر کیے۔ (ترجمہ

از مرزا قادیانی، حقیقۃ الوحی صفحہ 70 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 73 از مرزا قادیانی)“

(براہین احمدیہ صفحہ 239 مندرجہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 265 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 701 پر)

## اللہ تعالیٰ براہین احمدیہ میں فرماتا ہے

(200) ”اللہ تعالیٰ براہین احمدیہ میں فرماتا ہے الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ“

(حقیقۃ الوحی صفحہ 51 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 485 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 702 پر)

اس قسم کے فقرے مرزا قادیانی نے اپنی تالیفات میں بہت جگہ لکھے ہیں۔ مسلمان کہا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن شریف کلام اللہ ہے۔ اسی طرح بقول مرزا قادیانی اللہ تعالیٰ براہین احمدیہ میں فرماتا ہے گویا براہین احمدیہ کلام اللہ ہے۔ اسی طرح مرزا قادیانی کی یہ وحی الرحمن علم القرآن..... یعنی وہ اللہ الرحمن ہے جس نے تجھے (مرزا قادیانی کو) قرآن سکھلایا اور صحیح معنوں پر مطلع کیا۔“

## مسئلہ کذاب کی تحریف قرآن

یہاں ایک بات کا تذکرہ دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ مسئلہ کذاب سے لے کر مسئلہ پنجاب تک ہر جھوٹے مدعی نبوت نے اپنی خود ساختہ وحیوں کی آڑ میں قرآن مجید کی مقدس آیات میں تحریفات کیں۔ صفحات کی کمی کے پیش نظر صرف ایک مثال پیش خدمت ہے۔ مسئلہ کذاب نے سورۃ الکوثر میں درج ذیل تحریف کی۔

### اصل آیت قرآن

”انا اعطینک الکوثرۃ فصل لربک وانحورہ ان شانک

هو الابرۃ (الکوثر 1 تا 3)

ترجمہ: بے شک ہم نے آپ کو (جو کچھ عطا کیا) بے حد و بے حساب عطا کیا۔ پس آپ نماز پڑھا کریں۔ اپنے رب کے لیے اور قربانی دیں۔ یقیناً آپ کا جو دشمن ہے، وہی بے نام (ونشاں) ہوگا۔“

### مسئلہ کذاب کی تحریف شدہ آیات

”انا اعطینک الجواہر۔ فصل لربک وهاجر۔ ان

مبغضک رجل فاجر۔“

ترجمہ: ہم نے دیئے تجھ کو جواہرات۔ سو نماز پڑھ اپنے رب کے آگے اور ہجرت کر۔ بے شک جو دشمن رکھنے والا ہے تجھ کو، وہ بدکار شخص ہے۔“

اسی طرح مسئلہ پنجاب آنجنابی مرزا قادیانی نے اپنے گرو کی بیروی میں قرآن

مجید کی بے شمار آیات میں تحریفات کیں۔ چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں!

## قرآن مجید کی لفظی تحریف

### اصل آیت قرآن

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانَ فِي أُمْنِيَّتِهِ. (الحج: 52)

### مرزا قادیانی کی تحریف شدہ آیت

(201) ”وما ارسلنا من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته.“  
(آئینہ کمالات اسلام صفحہ 352 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 703 پر)

یہاں مرزا قادیانی نے قرآن شریف کی آیت سے مِنْ قَبْلِكَ خارج کر دیا ہے کیونکہ اگر مِنْ قَبْلِكَ یہاں رہتا تو مرزا قادیانی کی نبوت کا ٹھکانہ رہتا۔

### اصل آیت قرآن

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُجَادِدِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَأَنْ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ. (التوبة: 63)

### مرزا قادیانی کی تحریف شدہ آیت

(202) ”الم يعلموا انه من يجاد دالله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها ذلك الخزي العظيم.“

(حقیقۃ الوحی صفحہ 130 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 704 پر)

اس آیت میں مرزا قادیانی نے يدخله اپنی طرف سے داخل کیا اور فان له اور

جہنم کو خارج کر دیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ موجودہ قادیانی قیادت نے کتاب کے جدید ایڈیشن میں قرآنی آیت کی تصحیح کر دی ہے مگر ترجمہ اسی تحریف شدہ آیت کا دے دیا ہے۔ سچ ہے چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔

## اصل آیت قرآن

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ  
سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. (الأنفال: 29)

## مرزا قادیانی کی تحریف شدہ آیت

(203) ”یا ایہا الذین امنوا ان تتقوا اللہ يجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیاتکم ویمغفر لکم“

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ 177، از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 705 پر)

اس آیت میں مرزا قادیانی نے ”ویمغفر لکم“ اور ”تمشون بہ“ شامل کر دیا اور

## اصل آیت قرآن

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَيُتَّقِي وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝

(الرحمن : 27)

## مرزا قادیانی کی تحریف شدہ آیت

(204) ”کُلُّ شَيْءٍ فَا نٍ ۝ وَيُتَّقِي وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.“

(ازالہ اوہام صفحہ 53 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 706 پر)

یہاں مرزا قادیانی نے ”من علیہا غائب کر دیا اور اپنی طرف سے شیء کا اضافہ کر دیا۔ مزید برآں دو آیتوں کو ایک آیت بنا دیا۔

یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ آنجناب مرزا قادیانی کی کتاب ”ازالہ اوہام“ جس میں اس نے مذکورہ بالا قرآنی تحریف کی ہے، اس کے ٹائٹل پیج پر لکھا ہے:

(205) ”دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اسے قبول نہ کیا مگر خدا سے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ ازالہ اوہام، فیہ باس شدید و منافع للناس ط۔ الحمد و المننت کہ بعاہ مبارک ذی الحجہ ۱۳۰۸ھ کتاب جامع معارف قرآنی و شارح اسرار کلام ربانی از تالیفات مرسل یزدانی و مامور رحمانی حضرت جناب میرزا غلام احمد صاحب قادیانی۔“

(ازالہ اوہام، سرورق، مندرجہ روحانی خزائن، جلد 3، صفحہ 101 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 707 پر)

## اصل آیت قرآن

”وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ“

(الحجر: 87)

## مرزا قادیانی کی تحریف شدہ آیت

(206) ”اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے۔ انا اتیناک سبعا من المثنای والقرآن العظیم۔“

(براہین احمدیہ صفحہ 580 مندرجہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 558 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 708 پر)

(207) عجیب بات یہ ہے کہ مذکورہ کتاب براہین احمدیہ کے شروع میں دی گئی ”فہرست مضامین“ میں بھی اس آیت قرآنی کو اسی طرح تحریف شدہ لکھا گیا ہے۔ ملاحظہ کیجیے۔

(براہین احمدیہ صفحہ 6، مندرجہ روحانی خزائن جلد 1، صفحہ 6 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 709 پر)

## اصل آیت قرآن

”وجاهدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ.“ (التوبہ: 41)

### مرزا قادیانی کی تحریف شدہ آیت

(208) ”ان یجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم.“

(جنگ مقدس، صفحہ 194 مندرجہ روحانی خزائن، جلد 6 صفحہ 276 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 710 پر)

مرزا قادیانی نے ان یجاہدوا اور باموالہم وانفسہم کے الفاظ اپنی طرف سے داخل کیے اور وجاہدوا باموالکم وانفسکم کو خارج کر کے فی سبیل اللہ کو آخر سے اٹھا کر درمیان میں رکھ دیا ہے۔ یہاں مسلمانوں سے خطاب اور جہاد کا حکم تھا۔ مرزا قادیانی نے یہاں جہاد کے حکم کو ختم کرنے کی ناپاک جہالت کی۔

## اصل آیت قرآن

”هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملئكة

وقضى الامر.“ (البقرہ: 210)

### مرزا قادیانی کی تحریف شدہ آیت

(209) ”یوم یاتی ربک فی ظل من الغمام.“

(حقیقت الوحی صفحہ 154، از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 711 پر)

(210) دیکھیے یہاں مرزا قادیانی نے تحریف قرآنی کر کے اس آیت کا کیا حلیہ بگاڑا۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے شدید غم و غصہ کے نتیجے میں موجودہ قادیانی قیادت نے جدید ایڈیشن میں اس آیت کی تصحیح کر دی ہے۔ مشہور ہے کہ چور خواہ کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو، جاتا ہوا اپنی چوری کا کوئی نشان ضرور چھوڑ جاتا ہے۔ اسی طرح موجودہ قادیانی قیادت نے کیا

کہ قرآنی آیت کی تصحیح تو کر دی لیکن ترجمہ اسی تحریف شدہ آیت کا دے دیا۔  
(حقیقت الوحی صفحہ 154، مندرجہ روحانی خزائن، جلد 22 صفحہ 158، از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 712 پر)

### اصل آیت قرآن

”عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُرْحَمَكُم وَاِنْ عُدْتُمْ عَلٰنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ  
حَصِيرًا.“ (بنی اسرائیل: 8)

### مرزا قادیانی کی تحریف شدہ آیت

(211) ”عَسَىٰ رَبُّكُمْ يَرْحَمُ عَلَيْكُمْ وَاِنْ عُدْتُمْ عَلٰنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ  
لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا.“

(براہین احمدیہ صفحہ 505 مندرجہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 601 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 713 پر)

اس آیت میں مرزا قادیانی نے لفظ کم ختم کر کے اپنی طرف سے علیکم کا  
اضافہ کر دیا۔

### اصل آیت قرآن

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى  
الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۝ (توبہ : 33)

### مرزا قادیانی کی تحریف شدہ آیت

(212) ”هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق و تهذيب الاخلاق.“

(اربعین نمبر 3 صفحہ 35 مندرجہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 425 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 714 پر)

اس آیت میں مرزا قادیانی نے اپنی طرف سے لفظ تهذيب الاخلاق کا اضافہ کیا۔

## اصل آیت قرآن

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ  
ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ (آل عمران: 31)

### مرزا قادیانی کی تحریف شدہ آیت

(213) ”قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ  
وَيَرْحَمْ عَلَيْكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.“

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ 551 مندرجہ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 551 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 715 پر)

اس آیت میں مرزا قادیانی نے ”والله غفور الرحيم“ ختم کر کے اپنی طرف  
سے ”ویرحم علیکم وهو ارحم الراحمین“ کا اضافہ کر دیا ہے۔

## اصل آیت قرآن

يَسَّ ۝ وَالْقُرْآنَ الْحَكِيمَ ۝ انك لمن المرسلين ۝ على  
صراط مستقيم ۝ تنزيل العزيز الرحيم ۝ (یسین: 5 تا 1)

### مرزا قادیانی کی تحریف شدہ آیت

(214) ”یسَّ انک لمن المرسلین۔ علی صراط مستقیم۔ تنزیل  
العزيز الرحيم۔ (ترجمہ مرزا قادیانی) اے سردار! تو خدا کا مرسل ہے،  
راہ راست پر، اس خدا کی طرف سے جو غالب اور رحم کرنے والا ہے۔“

(ہقیقۃ الوحی صفحہ 107 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 110 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 716 پر)



ان آیات میں مرزا قادیانی نے متعدد تحریفات کی ہیں:-

- 1- ان آیات میں مرزا قادیانی نے خود کو صاحب یسین کہا اور بزور (خانہ ساز) الہام ان آیات کو اپنے اوپر منطبق کر لیا۔ گویا اب یہ خطاب سید المرسلین ﷺ کے بجائے مرزا قادیانی کو منتقل ہو گیا۔ (نعوذ باللہ)!
- 2- قرآن مجید میں یس کے بعد ”وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ“ ہے جس میں قرآن حکیم کی قسم کھائی گئی ہے اور اگلی آیت ”إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ“ اس قسم کا جواب ہے، مگر مرزا قادیانی نے تحریف لفظی کر کے ”وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ“ کی آیت کو حذف کر دیا، اور جواب قسم بغیر قسم کے ذکر کر دیا۔
- 3- قرآن کریم میں ”تَنْزِيلُ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ“ کی آیت، قرآن حکیم سے متعلق ہے، اور مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن، عزیز رحیم خدا کی جانب سے نازل شدہ ہے، مگر مرزا قادیانی خود اپنے آپ کو نازل شدہ سمجھ بیٹھے، اور اس آیت کو بھی اپنی صفت قرار دے کر یہ ترجمہ کیا: ”اس خدا کی طرف سے جو غالب اور رحم کرنے والا ہے۔“

## اصل آیت قرآن

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۚ (القدر: 1، 2)

## مرزا قادیانی کی تحریف شدہ آیت

(215) ”اُس روز کشفی طور پر میں نے دیکھا کہ میرے بھائی صاحب مرحوم مرزا غلام قادر میرے قریب بیٹھ کر باواز بلند قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے انھوں نے ان فقرات کو پڑھا کہ انا انزلناه قریباً من القادیان تو میں نے سن کر بہت تعجب کیا کہ کیا قادیان کا نام بھی قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے؟ تب انھوں نے کہا کہ یہ دیکھو لکھا ہوا ہے، تب میں نے نظر ڈال کر جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ فی الحقیقت قرآن شریف کے دائیں صفحہ میں شاید قریب نصف کے موقع پر یہی الہامی عبارت لکھی ہوئی موجود ہے۔ تب میں نے اپنے دل میں کہا

کہ ہاں واقعی طور پر قادیان کا نام قرآن شریف میں درج ہے۔ اور میں نے کہا کہ تین شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے مکہ اور مدینہ اور قادیان۔“  
(ازالہ اوہام صفحہ 77 مندرجہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 140 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 717 پر)

(216) ”پھر بعد اس کے فرمایا اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِّنَ الْقَادِيَانِ. وبالحق انزلناه و بالحق نزل. صدق الله ورسوله و كان امر الله مفعولا. یعنی ہم نے ان نشانوں اور عجائبات کو اور نیز اس الہام پر از معارف و حقائق کو قادیان کے قریب اتارا ہے، اور ضرورتِ حقہ کے ساتھ اتارا ہے اور بضرورتِ حقہ اترا ہے۔ خدا اور اس کے رسول نے خبر دی تھی کہ جو اپنے وقت پر پوری ہوئی۔ اور جو کچھ خدا نے چاہا تھا وہ ہونا ہی تھا۔“

(براہین احمدیہ صفحہ 571 مندرجہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 593 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 718 پر)

نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ اگر مرزا قادیانی کو اپنے خواب کی سچائی پر اعتبار ہوتا تو وہ ضرور بمطابق اپنے کشف قرآن کے متن میں ”قادیان“ کا اضافہ کر لیتا مگر اسے اپنے خوابوں اور اپنی حیثیت کا بھی خوب علم تھا۔ سو وہ قرآن کا ”مسح موعود ایڈیشن“ تو تیار کرنے کی جرأت نہ کر سکا بس قادیان میں ”مینارۃ المسیح“ تعمیر کرا کے خوش ہو گیا۔

## قرآن مجید کی معنوی تحریف

قادیانیوں نے قرآن مجید میں معنوی تحریف کی مذموم جسارت بھی کی ہے۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں کو ارشاد ہے:

”أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.“ (نساء: 59)

(ترجمہ): ”اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، اور اطاعت کرو رسول (ﷺ) کی اور حاکموں

کی جو تم میں سے ہوں۔“

مرزا قادیانی نے اس آیت کی تشریح میں لکھا:

(217) ”جسمانی سلطنت میں بھی یہی خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ ایک قوم میں ایک امیر اور بادشاہ ہو اور خدا کی لعنت ان لوگوں پر ہے جو تفرقہ پسند کرتے ہیں اور ایک امیر کے تحت حکم نہیں چلتے۔ حالانکہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اولی الامر سے مراد جسمانی طور پر بادشاہ اور روحانی طور پر امام الزمان ہے اور جسمانی طور پر جو شخص ہمارے مقاصد کا مخالف نہ ہو اور اس سے مذہبی فائدہ ہمیں حاصل ہو سکے وہ ہم میں سے ہے۔ اسی لیے میری نصیحت اپنی جماعت کو یہی ہے کہ وہ انگریزوں کی بادشاہت کو اپنے اولی الامر میں داخل کریں اور دل کی سچائی سے ان کے مطیع رہیں۔“

(ضرورۃ الامام ص 23 مندرجہ روحانی خزائن ج 13 ص 493 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 719 پر)

قرآن مجید نے تو خدا، رسول اور جماعت مومنین میں سے ان حکام کی اطاعت کو فرض قرار دیا ہے جنہیں کچھ اختیارات تفویض کیے گئے ہوں۔ لیکن مرزا قادیانی نے قرآن کریم کی معنوی تحریف کر کے کفار کی اطاعت کو فرض قرار دے دیا۔ مرزا قادیانی سے تو جرمنی کا مشہور و معروف شاعر گوٹے بھی قرآن دانی میں کہیں آگے تھا اور اس کی سوچ اسلام کے مطابق تھی۔ مرزا قادیانی اپنے دعویٰ نبوت کے باوجود انگریز کی اطاعت کے شرک میں سرتاپا غرق تھا لیکن گوٹے نے جب قرآن حکیم پڑھا تو بے اختیار پکار اٹھا ”اس کا پڑھنے والا کبھی کسی کا غلام نہیں ہو سکتا۔“

مرزا قادیانی نے قرآنی آیت کا صرف اتنا حصہ لیا جس کو وہ توڑ مروڑ سکتا تھا اور آیت کے اس حصے کو چھوڑ دیا جو اس کی مذکورہ تحریف کا بھانڈا بیچ چورا ہے پھوڑ دیتا۔ پوری آیت یہ ہے:

”یا ایہا الدین امنوا اطیعوا للہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذلک خیر و احسن تاویلا (النساء: 59)“

ترجمہ: اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو (اپنے  
ذیشان) رسول کی اور حاکموں کی جو تم میں سے ہوں پھر اگر جھگڑنے لگو  
تم کسی چیز میں تو لوٹا دو اسے اللہ اور (اپنے) رسول (کے فرمان) کی  
طرف اگر تم ایمان رکھتے ہو، اللہ پر اور روزِ قیامت پر یہی بہتر ہے اور  
بہت اچھا ہے اس کا انجام۔“

آیت کا خط کشیدہ فقرہ مرزا قادیانی کمال عیاری سے چھوڑ گیا کیونکہ یہ وہ ہڈی تھی  
جو اس کے حلق سے گزرنہ سکتی تھی۔ سوال یہ ہے کہ اگر انگریز اولی الامر تھے تو ان سے نزاع  
کی صورت میں کس کی طرف رجوع کیا جاتا؟ ظاہر ہے کہ انگریز تو مسلمانوں کے خدا اور رسول  
کریم ﷺ کو مانتے نہیں تھے۔ لہذا مسلمانوں کے خدا اور رسول کی طرف رجوع ہو نہیں سکتا  
تھا۔ شاید ایسی صورت میں مرزا قادیانی کے ذہن میں خدا اور رسول سے مراد ملکہ برطانیہ اور  
سیکرٹری آف سٹیٹ ہوں کیونکہ انگریز کی حکومت میں تو انہی کی طرف رجوع ہو سکتا تھا۔  
انگریز کا عہد سیاسی شرک کا دھڑ تھا کیونکہ انگریز کی حکومت غیر اللہ کی حکومت تھی۔  
انگریز کو اولی الامر میں داخل کرنا قرآن حکیم کی وہ بدترین تحریف ہے جس سے بدتر تحریف  
شاید یہودیوں نے بھی توریت کی کبھی نہ کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے اس قدر بے خونی.....؟ نبوت  
تو کجا اس بے خونی کے ساتھ تو مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی میل نہیں کھاتا۔ معلوم نہیں قادیانیوں  
کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟

قادیانی خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود نے قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر کیا ہے جس میں ارادۃ  
معنوی تحریف کی ہے:

صحیح ترجمہ

غَيْرِ الْمَفْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. نہ (دکھا) رستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا  
غضب ہوا اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہو گئے۔ (سورہ فاتحہ)

## غلط ترجمہ

(218) قادیانی ترجمہ کے مطابق سورہ فاتحہ کی آخری آیت کے نصف غیر المَغضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ کا ترجمہ یوں کیا گیا تھا: ”جن پر نہ تو بعد میں تیرا غضب نازل ہوا ہے اور نہ وہ بعد میں گمراہ ہو گئے ہیں۔“

(تفسیر صغیر صفحہ 4 از مرزا بشیر الدین محمود) (عکس صفحہ نمبر 720 پر)

## صحیح ترجمہ

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. (البقرہ: 4) اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں آپ پر جو نازل ہوا اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہوا اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔

## غلط ترجمہ

(219) ”والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ (البقرہ: 4) اور جو تجھ پر نازل کیا گیا ہے یا جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا تھا اس پر ایمان لاتے ہیں اور آئندہ ہونے والی موعود باتوں پر بھی یقین رکھتے ہیں۔“

(تفسیر صغیر صفحہ 5 از مرزا بشیر الدین محمود) (عکس صفحہ نمبر 721 پر)

اسی طرح تمام قادیانی کتب معنوی تحریفات سے بھری پڑی ہیں۔ اے کاش! کوئی محقق آگے بڑھے اور اس موضوع پر ایک مکمل Thesis تیار کر کے قادیانیوں کی جعل سازی سامنے لائے۔

## تحریف منجہبی

حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی لکھتے ہیں:

نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: ترجمہ..... ”آخر زمانے میں بہت سے دجال،

کذاب (مکار، جھوٹے) ہوں گے (جن کی علامت یہ ہے کہ) وہ تمہارے سامنے ایسی باتیں لائیں گے جو نہ تو تم نے کبھی سنی ہوں گی، نہ تمہارے باپ دادا نے، خبردار! ان سے بچتے رہنا! کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور اپنے فتنے کے جال میں نہ پھانس لیں۔“ (مشکوٰۃ صفحہ: 28)

صاحب مرقات لکھتے ہیں: ”یعنی وہ جھوٹی حدیثیں پیش کریں گے، باطل احکام گھڑیں گے اور اعتقاداتِ باطلہ کو مکر و فریب سے رائج کریں گے۔“

یہ حدیث مبارکہ مرزا قادیانی اور اس کی امت پر حرف بحرف صادق آتی ہے۔

سورہ ”الفتح“ کی آخری آیت ”مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ“ (محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے صحبت یافتہ ہیں وہ کافروں کے مقابلہ میں سخت اور آپس میں مہربان ہیں) اور سورہ القصف کی آیت نمبر 5: ”هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ“ (وہ اللہ ایسا ہے، جس نے اپنے رسول کو ہدایت (قرآن) اور دین حق (اسلام) دے کر بھیجا ہے تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، گو مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو) ان دونوں آیتوں کے بارے میں مرزا قادیانی کا ”الہامی انکشاف“ یہ ہے کہ پہلی آیت میں ”محمد رسول اللہ“ سے اور دوسری آیت میں ”رسولہ“ سے مراد ان کی ذات ہے (نعوذ باللہ) چنانچہ اپنے اشتہار ”ایک غلطی کا ازالہ“ میں لکھتا ہے:

(220) ”حق یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے اس میں ایسے لفظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں، نہ ایک دفعہ بلکہ صد ہا دفعہ..... چنانچہ وہ مکالمات الہیہ جو ”براہین احمدیہ“ میں شائع ہو چکے ہیں، ان میں سے ایک یہ وحی اللہ ہے: ”هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله.“ (دیکھو صفحہ 498 براہین احمدیہ) اس میں صاف طور پر اس عاجز کو رسول کر کے پکارا گیا ہے..... پھر اسی کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی یہ وحی اللہ ہے: ”محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم“ اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا ہے اور رسول بھی۔“

(ایک غلطی کا ازالہ صفحہ 2، 3 روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 206، 207)

(عکس صفحہ نمبر 722، 723 پر)

سورہ صف کی آیت 6: ”وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ“  
 (القف: 6) (اور خوشخبری دیتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہے)  
 اس آیت کریمہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس عظیم الشان رسول کی اپنے بعد تشریف  
 آوری کی خوشخبری دی اور جس کا نام نامی ”احمد“ بتایا اس کا مصداق سرور کائنات حضرت محمد  
 مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ ہیں۔ آنحضرت ﷺ کے زمانے سے (جبکہ یہ آیت نازل ہوئی) آج  
 تک چودہ صدیوں میں مسلمانوں کے ایک تنفس کو بھی اس سے اختلاف نہیں۔ خود  
 آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام  
 کی بشارت کا مصداق ہوں (مشکوٰۃ صفحہ 513) آنحضرت ﷺ نے خود اپنے اسمائے گرامی  
 محمد اور احمد ذکر فرمائے (مشکوٰۃ صفحہ 515)۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اسی بشارت کی بنا پر  
 آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ مجھے دنیا و آخرت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب و تعلق سب  
 لوگوں سے زیادہ حاصل ہے اور یہ کہ ان کے اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں۔ (مشکوٰۃ صفحہ  
 509)۔ اسی آیت کی بنا پر اسلام کا عیسائیت کے مقابلے میں چودہ صدیوں سے معرکہ قائم  
 ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جس نبی کی آمد کی بشارت دی اور جس کا ذکر (تحریف کے  
 باوجود) انجیل سے حذف نہیں کیا جاسکا ہے اس سے مراد حضرت محمد رسول اللہ ﷺ ہیں، ان  
 مختصر اشارات کے بعد اب قادیانی تحریف ملاحظہ فرمائیے:

”مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد“

”آیت مرقوم الصدر کے الفاظ میں مسیح نے خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک پیش گوئی  
 کی ہے کہ ایک ایسے رسول کی بشارت دینے والا ہوں جس کا آنا میرے بعد ہوگا۔ اس کا نام  
 احمد ہے۔ پیش گوئی میں آنے والے رسول کا اسم احمد بتایا گیا ہے، جس کے مصداق آنحضرت ﷺ  
 اس لیے نہیں ہو سکتے کہ قرآنی وحی میں کسی مقام سے آپ کا نام نامی احمد ثابت نہیں ہوتا، ہاں  
 محمد آپ کا اسم گرامی ضرور ہے، جیسا کہ آپ قبل از دعوائے نبوت محمد ﷺ کے نام سے مشہور  
 تھے، اور ایسا ہی قرآنی وحی میں بھی بار بار آپ کا نام محمد ﷺ ہی بتایا گیا ہے۔“

(روزنامہ الفضل قادیان، 19 اگست 1918ء)

(221) ”اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا رسول ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام

کے بعد آیا اور اس کا نام ”احمد“ ہے؟ میرا اپنا دعویٰ ہے، اور میں نے یہ دعویٰ یوں ہی نہیں کر دیا، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام (مرزا قادیانی) کی کتابوں میں بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے، اور حضرت خلیفہ المسیح اول (حکیم نور الدین) نے بھی یہی فرمایا ہے کہ مرزا صاحب، احمد ہیں، چنانچہ ان کے درسوں کے نوٹوں میں یہی چھپا ہوا ہے اور میرا ایمان ہے کہ اس آیت کے مصداق حضرت مسیح موعود علیہ السلام (مرزا قادیانی) ہی ہیں۔“

(انوارِ خلافت صفحہ 21 مندرجہ انوار العلوم جلد 3 صفحہ 86 از مرزا بشیر الدین محمود)  
(عکس صفحہ نمبر 724 پر)

ایک جانب حضرت محمد رسول اللہ ﷺ اور آپ کی پوری امت ہے اور دوسری جانب قادیانی امت کے مسیح موعود، خلیفہ نور دین اور میاں محمود احمد ہیں۔ یہ فیصلہ تو دنیا کے اہل عقل و فہم پر چھوڑتا ہوں کہ ان دونوں فریقوں میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا؟  
(تحفہ قادیانیت مولانا محمد یوسف ندھیانوی جلد 6 صفحہ 208)

آنجنہانی مرزا غلام احمد قادیانی نے وہ آیات جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ کی شان میں نازل فرمائیں، ان کو اپنے اوپر منطبق کیا ہے۔  
اس طرح بے شمار ”الہامات“ جن کے ذریعے مرزا قادیانی نے اپنی ذات، اپنے گاؤں، اپنے خاندان کی شان بیان کرنے میں وحی چوری کی ہے، سب تحریف منہبی کی صورت میں ہیں۔ اسی طرح قرآنی آیات سے ملنے جلتے مشابہ الفاظ اور قرآنی الفاظ میں لپٹے ہوئے ”الہامات اور وحیاں“ بھی تحریف قرآن ہی کی شکلیں ہیں۔

(222) ”انا اعطیناک الکوثر۔ فصل لربک و انحر۔ ان شانک هو الابر“  
(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات صفحہ 235 طبع چہارم از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 725 پر)

(223) ”انا اعطینک الکوثر یعنی ہم تجھے بہت سے ارادتمند عطا کریں گے اور ایک کثیر جماعت تجھے دی جائے گی۔ دیکھو اس پیشگوئی کو ہمیں برس گزر گئے اور اب وہ کثیر جماعت ہوئی اور نہ صرف ستر ہزار بلکہ اب تو یہ جماعت لاکھ کے قریب ہو گئی اور ان دنوں میں



ایک بھی نہ تھا۔“

(نزدول المسیح صفحہ 133 مندرجہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 509 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 726 پر)

(224) ”ورفعناک لک ذکرک“

(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات صفحہ 236 طبع چہارم، از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 727 پر)

(225) ”هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ“

(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات صفحہ 538 طبع چہارم از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 728 پر)

(226) ”وما ینطق عن الہوی. ان هو الا وحی یوحی.“

(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات صفحہ 321 طبع چہارم از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 729 پر)

(227) ”ذنی فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی.“

(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات صفحہ 542 طبع چہارم از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 730 پر)

(228) ”وقل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً.“

(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات صفحہ 292 طبع چہارم از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 731 پر)

(229) ”وداعیا الی اللہ و سراجا منیراً“

(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات صفحہ 541 طبع چہارم از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 732 پر)

(230) ”سبحان الذی اسری بعبدہ لیلاً.“

(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات صفحہ 63 طبع چہارم از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 733 پر)

(231) ”تبت یداً ابی لہب و تب“

(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات صفحہ 546 طبع چہارم از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 734 پر)

(232) ”قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله“  
(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات صفحہ 547 طبع چہارم از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 735 پر)

(233) ”وما ارسلناک الا رحمة للعالمین“  
(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات صفحہ 547 طبع چہارم از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 736 پر)

(234) ”یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر.“  
(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات صفحہ 39 طبع چہارم از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 737 پر)

### تحریف حدیث

(235) ”ایسا ہی احادیث صحیحہ میں آیا تھا کہ وہ مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا۔ اور وہ چودھویں صدی کا مجدد ہوگا۔“

(برائین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 188 مندرجہ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 359، 360 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 738، 739 پر)

احادیث کی کتب میں ایسی کوئی حدیث موجود نہیں۔ مرزا قادیانی نے اپنی طرف سے یہ (جھوٹی) حدیث گھڑی ہے۔

(236) ”لیکن ضرور تھا کہ قرآن شریف اور احادیث کی وہ پیشگوئیاں پوری ہوتیں جن میں لکھا تھا کہ مسیح موعود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علما کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا۔ وہ اس کو کافر قرار دیں گے، اور اس کے قتل کے لیے فتوے دیے جائیں گے، اور اس کی سخت توہین کی جائے گی، اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا۔“

(اربعین 3 صفحہ 17 مندرجہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 404 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 740 پر)

پورے قرآن مجید اور ذخیرہ احادیث میں ایسی کوئی عبارت نہیں، یہاں تک کہ

قرآن مجید اور کتب احادیث میں ”سبح موعود“ کا لفظ تک نہیں ملے گا۔ قادیانی حضرات کبھی بے تعصب ہو کر اس پہلو پر ضرور غور کریں کہ قرآن و حدیث کے وسیع و وسیع اٹاٹے میں مرزا قادیانی کے نام یا شہر وغیرہ کے حوالے سے کوئی اشارہ تک کیوں نہیں ملتا؟

اگر تجھے پیدانہ کرتا.....

(237) ”لولاک لما خلقت الافلاک.“

ترجمہ: ”(اے مرزا) اگر تو نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو پیدانہ کرتا۔“  
(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات صفحہ 525، طبع چہارم، از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 741 پر)

سب جانتے ہیں کہ یہ حدیث قدسی ہے اور اس کے مصداق صرف اور صرف حضور نبی کریم ﷺ ہیں جبکہ ملعون مرزا قادیانی اس حدیث کو اپنے اوپر منطبق کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مرزا قادیانی کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے مرزا، اگر میں تجھے پیدانہ کرتا تو آسمان وزمین اور جو کچھ اس میں ہے، کچھ پیدانہ کرتا۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں جس قدر انبیائے کرام اور اولیائے عظام تشریف لائے اور انھیں مراتب عالیہ عنایت ہوئے، یہ سب مرزا قادیانی کے طفیل سے ہوا۔ یعنی تمام انبیا اور اولیا، مرزا قادیانی کے طفیل اور زلہ ربا ہیں۔ قادیانی عقیدہ کے مطابق اس میں حضور سرور عالم ﷺ بھی شامل ہیں۔ (نعوذ باللہ)

کلمہ طیبہ اور درود شریف میں تحریف


مسلمانوں کا کلمہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ الرَّسُولُ اللَّهُ اللَّهُ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں  
حضرت محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔

قادیانیوں کا کلمہ

(238) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَحْمَدُ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں احمد  
(مرزا غلام احمد) اللہ کے رسول ہیں۔

نوٹ: قادیانیوں نے کلمہ طیبہ میں محمد ﷺ حذف کر کے احمد لگا دیا ہے۔ مرزا ناصر احمد کے دورہ افریقہ پر تصویری کتاب (Afrika speaks) میں ”احمد یہ سنٹرل مارک“ ٹائیجیریا کا نوٹو موجود ہے۔ وہاں پر یہ قادیانی کلمہ لکھا ہوا ہے۔



### مسلمانوں کا درود شریف

(239) اللہم صلّ علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللّٰهُمَّ بَارکْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارکْتَ عَلٰی اِبْرٰہِیْمَ وَّ عَلٰی آلِ اِبْرٰہِیْمَ انکَ حَمِیدٌ مَّجِیدٌ.

### قادیانی امت کا درود

اللہم صلّ علی محمد و احمد و علی آل محمد و احمد کما صلیت

علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ  
اَحْمَدٍ وَّ عَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ وَّ اَحْمَدٍ کَمَا بَارَكْتَ عَلٰی اِبْرَاهِیْمٍ وَّ عَلٰی آلِ اِبْرَاهِیْمٍ  
انک حمید مجید۔

ضیاء الاسلام پریس قادیان کے مطبوعہ رسالہ درود شریف صفحہ 16 پر یہ درود  
شریف لکھا ہوا ہے خط کشیدہ الفاظ میں احمد (مرزا غلام احمد) کا اضافہ کیا گیا۔ اسلام کو مسخ  
کرنے کا پروگرام اور آل ابراہیم و آل محمد کا مقابلہ مرزا غلام احمد کی آل کا مقام؟  
چہ نسبت خاک را با عالم پاک !!!

(240) ”صلی اللہ علیک و علی محمد“

(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات صفحہ 661، طبع چہارم از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 742 پر)

(241) ”اے محمد ﷺ سلسلہ کے برگزیدہ مسیح تجھ پر خدا کا لاکھ لاکھ درود اور لاکھ  
لاکھ سلام ہو۔“

(سیرت المہدی جلد سوم صفحہ 208 از مرزا بشیر احمد ابن مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 743 پر)

(242) ”اللہم صلی علی محمد و علی عبدک المسیح الموعود۔“

(روزنامہ الفضل قادیان 31 جولائی 1937ء صفحہ 5 کالم 2) (عکس صفحہ نمبر 744 پر)

ترجمہ: اے اللہ محمد ﷺ اور اپنے بندے مسیح موعود (مرزا قادیانی) پر درود و سلام بھیج۔

مرزا قادیانی پر درود و سلام

(243) ”اے امام الوریٰ سلام علیک

مہدی عہد و عیسیٰ موعود

احمد ﷺ مجتبیٰ سلام علیک

مہدی عہد و عیسیٰ موعود

احمد ﷺ مجتبیٰ سلام علیک

مطلع قادیان پہ تو چکا  
 ہو کے شمس الہدیٰ سلام علیک  
 تیرے آنے سے سب نبی آئے  
 مظہر الانبیاء سلام علیک  
 مسقط وحی مہبط جبرئیل  
 سدرۃ المنتہیٰ سلام علیک  
 مانتے ہیں تیری رسالت کو  
 اے رسول خدا سلام علیک  
 ہے صدق تیرا کلام خدا  
 اے میرے میرزا سلام علیک  
 تیرے یوسف کا تحفہ صبح و مساء  
 ہے درود و دعا سلام علیک“

(قاضی محمد یوسف قادیانی کی نظم، روزنامہ الفضل قادیان جلد 7 شماره نمبر 100 مورخہ 30 جون 1920ء)  
 (عکس صفحہ نمبر 745 پر)

## مرزا قادیانی پر درود و سلام کے اعتراض کا قادیانی جواب

مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب اربعین نمبر 2 میں مندرجہ ذیل دعویٰ کیا ہے:  
 (244) ”بعض بے خبر یہ اعتراض بھی میرے پر کرتے ہیں کہ اس شخص کی جماعت اس پر  
 فقرہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اطلاق کرتے ہیں اور ایسا کرنا حرام ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ  
 میں مسیح موعود ہوں اور دوسروں کا صلوٰۃ یا سلام کہنا تو ایک طرف، خود آنحضرت ﷺ نے فرمایا  
 کہ جو شخص اس کو پاوے، میرا سلام اس کو کہے اور احادیث اور تمام شروح احادیث میں مسیح موعود کی  
 نسبت صمد ہا جگہ صلوٰۃ و سلام کا لفظ لکھا ہوا موجود ہے۔ پھر جبکہ میری نسبت نبی علیہ السلام نے یہ  
 لفظ کہا، صحابہ نے کہا بلکہ خدا نے کہا، تو میری جماعت کا میری نسبت یہ فقرہ بولنا کیوں حرام ہو گیا۔“  
 (اربعین نمبر 2 صفحہ نمبر 6، مندرجہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 349 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 746 پر)

## حضرت مجدد الف ثانیؒ کی تحریر میں تحریف

(245) ”امام ربانی صاحب اپنے مکتوبات کی جلد ثانی میں جو مکتوب پنجاہ و یکم ہے، اس میں صاف لکھتے ہیں کہ غیر نبی بھی مکالمات و مخاطبات حضرت احدیت سے مشرف ہو جاتا ہے اور ایسا شخص محدث کے نام سے موسوم ہے۔“

(براہین احمدیہ صفحہ 630 مندرجہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 652 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 747 پر)

اس حوالے کو مرزا قادیانی اپنی کتاب ”تحفہ بغداد“ میں لکھتا ہے:

(246) ”وقال المجدد الامام السرھندی الشیخ احمد رضی اللہ عنہ فی مکتوب یکتب فیہ بعض الوصایا الی مریدہ محمد صدیق: اعلم ایہا الصدیق! ان کلامہ سبحانہ مع البشر قد یكون شفاھا و ذلك لأفراد من الانبیاء وقد یكون ذلك لبعض الکمل من متابعیہم، واذ اکثر هذا القسم من الکلام مع واحد منهم یسمی محدثا.“

(تحفہ بغداد صفحہ 21 (حاشیہ) مندرجہ روحانی خزائن جلد 7 صفحہ 28 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 748 پر)

لیکن جب مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مجدد الف ثانیؒ کے مکتوبات میں تحریف کرتے ہوئے یوں درج کیا:

(247) ”مجدد صاحب سرھندی نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ اگرچہ اس امت کے بعض افراد مکالمہ و مخاطبہ الہیہ سے مخصوص ہیں اور قیامت تک مخصوص رہیں گے لیکن جس شخص کو بکثرت اس مکالمہ و مخاطبہ سے مشرف کیا جائے اور بکثرت امور غیبیہ اس پر ظاہر کیے جائیں، وہ نبی کہلاتا ہے۔“

(ہقیقۃ الوحی صفحہ 390 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 406 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 749 پر)

دیکھئے مجدد الف ثانی "تحریر فرماتے ہیں کہ جسے کثرت مکالمہ ہو وہ "محدث" ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنی کتب "براہین احمدیہ" اور "تحفہ بغداد" میں حضرت مجدد الف ثانی کے حوالہ سے بھی یہی تحریر کیا کہ کثرت مکالمہ والا "محدث" کہلاتا ہے لیکن جب خود دعویٰ نبوت کیا تو اپنی کتاب "حقیقت الوحی" میں مجدد صاحب کے حوالہ سے لکھ دیا کہ کثرت مکالمہ والا "نبی" کہلاتا ہے۔

اب آپ خود فیصلہ فرمائیں کہ ایک ہی حوالہ کو مرزا غلام احمد قادیانی تین جگہ لکھتا ہے۔ "براہین احمدیہ" اور "تحفہ بغداد" میں "محدث" لکھتا ہے جبکہ اسی حوالہ کو مرزا غلام احمد قادیانی "حقیقت الوحی" میں نبی لکھتا ہے۔ "محدث" کو "نبی" کرنا محض غلطی نہیں بلکہ صریح اور کھلی بددیانتی ہے۔

حضرت مولانا نور محمد خان صاحب مدرس مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور نے اپنی کتاب "کذبات مرزا" صفحہ 21 مطبوعہ خواجہ برقی پریس دہلی مئی 1933ء میں یہ حوالہ نقل کر کے دنیا کے تمام قادیانیوں کو چیلنج کیا تھا:

"حضرت مجدد صاحب کی عبارت مذکورہ میں مرزا غلام احمد قادیانی نے جس خیانت مجرمانہ چراغ داشتہ جرات سے کام لیا ہے اس پر قیامت تک علمی دنیا لعنت و نفرت کا وظیفہ پڑھ کر مرزا غلام احمد قادیانی کی روح کو لعنت کا "ایصال ثواب" کرے گی۔ کیا کوئی غلمدی جرات کر سکتا ہے کہ خط کشیدہ عبارت مکتوبات امام ربانی "میں دکھلا کر اپنے پیشوا کو کذابوں کی قطار سے علیحدہ کر دے؟"

بقول حضرت مولانا اللہ وسایا مدظلہ: "آج سے سڑسٹھ سال قبل قادیانیوں کو جو چیلنج دیا گیا تھا وہ جوں کا توں برقرار ہے۔ قادیانی امت، آنجہانی مرزا قادیانی کی ذات سے اس خیانت و بددیانتی کے الزام کو دور نہیں کر سکی اور نہ قیامت تک کر سکتی ہے۔ کیا جھوٹا اور بددیانت شخص نبی ہو سکتا ہے؟ یہ قادیانی امت کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔"

## شیخ سعدی کے کلام سے سرقہ

شیخ سعدی شیرازی (1184ء تا 1292ء) شہرہ آفاق فارسی ادیب، شاعر، صوفی



اور مصنف گلستان و بوستان ہیں۔ ان کا ایک مشہور شعر ہے:

مکن تکیہ بر عمر ناپائدار  
مباش ایمن از بازی روزگار

مرزا قادیانی نے کمال صفائی سے اس شعر کو اپنے الہامات میں شامل کر لیا۔

(248) 17 مئی 1908ء ”مکن تکیہ بر عمر ناپائدار“

(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات صفحہ 638 طبع چہارم از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 750 پر)

(249) 26 اپریل 1908ء ”مباش ایمن از بازی روزگار“

(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات صفحہ 640 طبع چہارم از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 751 پر)

اس کے علاوہ مرزا قادیانی نے فارسی کی مشہور ضرب الامثال کو اپنا الہام قرار دیا۔ مثلاً

(250) ”رسیدہ بود بلائے و لے بخیر گذشت“

(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات صفحہ 434 طبع چہارم از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 752 پر)

(251) ”اے بسا آرزو کہ خاک شدہ۔“

(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات صفحہ 104 طبع چہارم از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 753 پر)

عقل حیران ہے کہ خالق نے مخلوق کے کلام کو اپنا کلام بتا کر کیسے نازل کر دیا؟ شاعری کی اصطلاح میں ایسے کلام کو دیا سرقہ کہتے ہیں۔ کیا قادیانیوں کے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ توقع ہے اس عمل کو توار و قرار دے کر وہ مزید علمی خیانت کے مرتکب نہیں ہوں گے کہ ”عذر گناہ بدتر از گناہ“ کی معنویت سے وہ بخوبی آگاہ ہیں۔

## مرزا قادیانی کی اپنی تحریروں میں تحریف

پہلی تحریر

(252) ”انبیا گذشتہ کے کثوف نے اس بات پر قطعی مہر لگا دی کہ وہ چودھویں صدی کے

سر پر پیدا ہوگا اور نیز یہ کہ پنجاب میں ہوگا۔“

(اربعین نمبر 2 صفحہ 23 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 755,754 پر)

دوسری تحریر

(253) ”اولیا گذشتہ کے کثوف نے اس بات پر قطعی مہر لگا دی کہ وہ چودھویں صدی کے

سر پر پیدا ہوگا اور نیز یہ کہ پنجاب میں ہوگا۔“

(اربعین نمبر 2 مندرجہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 371 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 756 پر)

مرزا قادیانی نے کتاب کے پہلے ایڈیشن میں لفظ ”انبیا“ استعمال کیا، بعد میں اسے تبدیل کر کے ”اولیا“ کر دیا۔ علاوہ ازیں یہ انبیا کرام اور اولیا کرام پر صریح بہتان ہے کہ انھیں کشف ہوا کہ مسیح موعود چودھویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا اور پنجاب میں ہوگا۔

پہلی تحریر

(254) ”یا عبدالقادر انی معک اسمع واری غرست لک بیدی رحمتی

وقدرتی و نجیناک من الغم و فتاک فتونا. لیاتینکم منی ہدی الا ان حزب

اللہ ہم الغالبون. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ لیعذبہم وهم

یستغفرون. (ترجمہ) اے عبدالقادر! میں تیرے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ تیرے

لیے میں نے رحمت اور قدرت کو اپنے ہاتھ سے لگایا، اور تجھ کو غم سے نجات دی اور تجھ کو خالص

کیا، اور تم کو میری طرف سے مدد آئے گی۔ خبردار ہو لے کر خدا کا ہی غالب ہوتا ہے۔ اور خدا ایسا

نہیں جو ان کو عذاب پہنچا دے جب تک تو ان کے درمیان ہے یا جب وہ استغفار کریں۔“  
(براہین احمدیہ صفحہ 591، 592 مندرجہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 613، 614 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 757، 758 پر)

## دوسری تحریر

(255) ”یا عبدالقادر انی معک اسمع واری غرست لک بیدی رحمتی و قدرتی. والقیث علیک محبة منی. ولتصنع علی عینی. کزوع اخروج شطاه فاستغلظ فاستوی علی سوقہ. دیکھو براہین احمدیہ صفحہ 514 ترجمہ۔ اے قادر کے بندے! میں تیرے ساتھ ہوں۔ میں دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں۔ میں نے اپنی محبت تیرے پر ڈال دی تاکہ تو میری آنکھوں کے رو برو پرورش کیا جائے۔ تو ایک بیج کی طرح ہے یعنی اکیلا ہے جس کی ابھی کوئی شاخ نہیں نکلی۔ صرف ایک سبزہ نکلا مگر بعد اس کے ایسا ہوگا کہ وہ سبزہ موٹا ہو جاوے گا اور اس کی شاخیں تنہ پر قائم ہوں گی اور وہ ایک بڑا درخت بن جاوے گا۔“

(نزل اسح صفحہ 230 مندرجہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 508 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 759 پر)

## پہلی تحریر

(256) ”وقالوا انی لک هذا ان هذا الا سحر یوثر. لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ. لا یصدق السفیہ الا سیفۃ الہلاک. عدولی و عدولک قل انی امر اللہ فلا تستعجلوہ. اذا جاء نصر اللہ الست ہربکم قالوا بلی. اور کہیں گے یہ تجھے کہاں سے حاصل ہوا۔ یہ تو ایک سحر ہے جو اختیار کیا جاتا ہے۔ ہم ہرگز نہیں مانیں گے جب تک خدا کو ہچشم خود دیکھ نہ لیں۔ سفیہ بجز ضربہ ہلاکت کے کسی چیز کو باور نہیں کرتا۔ میرا اور تیرا دشمن ہے۔ کہہ خدا کا امر آیا ہے سو تم جلدی مت کرو۔ جب خدا کی مدد آئے گی تو کہا جائے گا کہ کیا میں تمہارا خدا نہیں۔ کہیں گے کہ کیوں نہیں۔“

(براہین احمدیہ صفحہ 597، 598 مندرجہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 619، 620 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 760، 761 پر)

## دوسری تحریر

(257) ”وقالوا انى لك هذا ان هذا الا سحر يوترو. لن نومن لك حتى نرى الله جهرة لا يصدق السفیه الا سيفة الهلاك عدوتى و عدو لك. قل انى امر الله فلا تستعجلوه. دیکھو صفحہ 518 و 519 براہین احمدیہ۔ ترجمہ: اور کہتے ہیں کہ یہ مقام تجھے کہاں سے ملا، یہ تو ایک فریب ہے۔ ہم تیرے پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک خدا کو نہ دیکھ لیں۔ یہ لوگ تو بجز موت کے نشان کے کبھی مانیں گے نہیں۔ ان کو کہہ دے کہ مری یعنی طاعون بھی چلی آتی ہے سو تم مجھ سے جلدی مت کرو۔“

(نزل اسح صفحہ 132 مندرجہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 510 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 762 پر)

## پہلی تحریر

(258) ”پھر بعد اس کے فرمایا انا انزلناه قریباً من القادیان. وبالحق انزلناه و بالحق نزل. صدق الله ورسوله و كان امر الله مفعولاً. یعنی ہم نے ان نشانوں اور عجائبات کو اور نیز اس الہام پر از معارف و حقائق کو قادیان کے قریب اتارا ہے اور ضرورت حقہ کے ساتھ اتارا ہے اور بضرورت حقہ اترا ہے۔ خدا اور اس کے رسول نے خبر دی تھی کہ جو اپنے وقت پر پوری ہوئی اور جو کچھ خدا نے چاہا تھا وہ ہونا ہی تھا۔“

(براہین احمدیہ صفحہ 571 مندرجہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 593 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 763 پر)

## دوسری تحریر

(259) ”قریباً بیس برس ہوئے کہ میں نے اپنی کتاب ”براہین احمدیہ“ میں خدا تعالیٰ کا یہ کلام جو میری زبان پر جاری کیا گیا لکھا تھا، یعنی یہ کہ انا انزلناه قریباً من القادیان. وبالحق انزلناه و بالحق نزل صدق الله ورسوله و كان امر الله مفعولاً. (دیکھو براہین احمدیہ صفحہ 498) یعنی ہم نے اس سچ موعود کو قادیان میں اتارا ہے۔ اور وہ ضرورتاً

حقہ کے ساتھ اتارا گیا۔ اور ضرورت حقہ کے ساتھ اترا۔ خدا نے قرآن میں اور رسول نے حدیث میں جو کچھ فرمایا تھا وہ اس کے آنے سے پورا ہوا۔“

(خطبہ الہامیہ صفحہ 20 مندرجہ روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 20 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 764 پر)

## پہلی تحریر

(260) ”وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.“  
(نزول اسح صفحہ 149 مندرجہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 527 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 765 پر)

## دوسری تحریر

(261) ”وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.“  
(براہین احمدیہ صفحہ 256 مندرجہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 266 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 766 پر)

## پہلی تحریر

(262) ”پھر بعد اس کے یہ الہام ہے: يَا عِيسَى ابْنِي مَرْيَمَ كَفَرُوا وَرَافِعُكَ إِلَىٰ مَطَهْرِكَ مِنَ الدِّينِ كَفَرُوا) وَجَاعِلُ الدِّينِ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الدِّينِ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ. اے عیسیٰ! میں تجھے کامل اجر بخشوں گا یا وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا یعنی رفع درجات کروں گا یا دنیا سے اپنی طرف اٹھاؤں گا اور تیرے تابعین کو ان پر جو منکر ہیں قیامت تک غلبہ بخشوں گا یعنی تیرے ہم عقیدہ اور ہم مشربوں کو حجت اور برہان اور برکات کے رُوسے دوسرے لوگوں پر قیامت تک فائق رکھوں گا۔“  
(براہین احمدیہ صفحہ 557، 558 مندرجہ روحانی خزائن جلد 1 ص 664، 665 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 767، 768 پر)

## دوسری تحریر

(263) ”چنانچہ صفحہ 556 برائین احمدیہ میں یہ الہام موجود ہے: یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامة ثلثة من الاولین و ثلثة من الاخرین۔ یعنی اے عیسیٰ! میں تجھے طبعی وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا اور تیرے تابعین کو ان لوگوں پر غلبہ بخشوں گا جو مخالف ہوں گے اور تیرے تابعین دو قسم کے ہوں گے پہلا گروہ اور پچھلا گروہ۔“

(سراج منیر صفحہ 41 مندرجہ روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 43 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 769 پر)

تحریفات کے سلسلہ میں مرزا قادیانی کا اپنا ایک الہام خود اس پر صادق آتا ہے۔

(264) ”مت ایہا النحوان۔“

(ترجمہ): اے بڑے خیانت کھنے والے، مرجا۔“

(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات صفحہ 601 طبع چہارم از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 770 پر)

جبکہ مرزا قادیانی کا کہنا ہے:

(265) ”(1) میں قرآن شریف کے معجزہ کے ظل پر عربی بلاغت فصاحت کا نشان دیا گیا ہوں۔ کوئی نہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے۔“

(2) میں قرآن شریف کے حقائق معارف بیان کرنے کا نشان دیا گیا ہوں۔ کوئی

نہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے۔“

(ضرورۃ الامام صفحہ 26 مندرجہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 496, 497 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 771, 772 پر)

قرآن مجید میں تحریف کرنے والا ملحد، بے ایمان، یہودی، سورا اور بندر  
(266) ”قرآن کریم کی ظاہری ترکیب کو توڑ مروڑ کر اور آیات کے غیر منفک تعلقات کا

ایک دوسرے سے الگ کر کے اور بعض فقرے اپنی طرف سے زائد کر کے کوئی امر ثابت کرنا چاہے اگر اسی بات کا نام ثبوت ہے تو کونسا امر ہے جو ثابت نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ہر ایک ملحد اور بے ایمان اپنے مقاصد اسی طرح ثابت کر سکتا ہے۔ اس بات کو کون نہیں جانتا کہ ایک کتاب کے معنی اسی صورت میں اس کتاب کے معنی کہلاتے ہیں کہ جب اس کی ترتیب اور تعلقات فقرات اور سیاق و سباق محفوظ رکھ کر کیے جائیں۔ لیکن اگر اس کتاب کی ترکیب کو ہی زیر و زبر کیا جائے اور عبارت کے اعضا کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے اور نہایت دلیری کر کے بعض فقرات اپنی طرف سے ملا دیئے جائیں تو پھر ایسی خود ساختہ عبارت سے اگر کوئی مدعا ثابت کرنا چاہیں تو کیا یہ وہی یہود یا نہ تحریف نہیں ہے جس کی وجہ سے قرآن کریم میں ایسے لوگ سؤرا اور بندر کہلائے جنہوں نے اسی طرح تو ریت میں ملحدانہ کارروائیاں کی تھیں۔“

(اتمام الحجہ صفحہ 19 مندرجہ روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 291 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 773 پر)

## قرآن مجید میں تبدیلی کرنے والا ملحد اور کافر ہے

(267) ”ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب ساوی ہے اور ایک شعبہ یا نقطہ اس کی شرائع اور حدود اور احکام اور اوامر سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور نہ کم ہو سکتا ہے اور اب کوئی ایسی وحی یا ایسا الہام منجانب اللہ نہیں ہو سکتا جو احکام فرقانی کی ترمیم یا تنسیخ یا کسی ایک حکم کے تبدیل یا تغیر کر سکتا ہو اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ ہمارے نزدیک جماعت مومنین سے خارج اور ملحد اور کافر ہے۔“

(ازالہ اوہام صفحہ 70 مندرجہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 170 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 774 پر)

## کتابت کی غلطیاں

(268) ”ان کتبی مبرءة مما زعمت. ومنزءة عما ظنت. الا سہو الکاتبین. اوزیغ القلم بتغافل منی لا کجھل الجاہلین. فان قدرت ان تثبت فیہا عشارا فخذ منی بحداء کل لفظ غلط دینارا. واجمع صریفا ونضارا. وکن من المتمولین.“

(عربی سے ترجمہ) ”میری کتابیں ایسی غلطیوں سے جیسا کہ تیرا خیال ہے، مبرا اور منزہ ہیں۔“

ہاں سہو کاتب کی غلطیاں یا لغزش قلم سے جو بے خبری میں ایک مؤلف سے بعض وقت صادر ہو جاتی ہیں، ان میں پائی جاسکتی ہیں۔ لیکن وہ ایسی غلطیاں نہیں جو ایک جاہل زبان سے صادر ہوتی ہیں۔ اگر تم کوئی ایسی غلطی بتا سکو تو میں ہر لفظی غلطی پر ایک دینار دوں گا۔ اس طرح تم سونے چاندی جمع کر کے مالدار بن سکتے ہو۔“

(انجام آتھم صفحہ 241، 242، روحانی خزائن جلد 11، صفحہ 241، 242) (عکس صفحہ نمبر 775، 776 پر)  
(نوٹ: یہ ترجمہ قیوم شاہد قادیانی ایم اے کی کتاب ”مہدی موعود کے علمی خزانے“ مطبوعہ 1978ء کی کتاب سے لیا گیا ہے)

قارئین کرام: نہایت قابل غور بات یہ ہے کہ آنجناب مرزا قادیانی نے تقریباً سو کے قریب کتب تصنیف کیں۔ 1880ء میں اس کی پہلی کتاب براہین احمدیہ شائع ہوئی جس میں اس نے ملہم اور مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھر باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت مختلف دعاوی کر کے بالآخر 1901ء میں اس نے اپنے تہی اور رسول ہونے کا اعلان کر دیا۔ 1908ء میں وہ مختلف عوارض کا شکار ہو کر نہایت عبرتناک موت سے ہمکنار ہوا۔ اس کی تمام تصانیف اس کی زندگی میں شائع ہوئیں اور اب تک مسلسل شائع ہو رہی ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے قرآن مجید کی آیات میں جو تحریفات کیں، وہ بھی مسلسل شائع ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں کے شدید غم و غصہ اور مسلسل احتجاج کے نتیجہ میں قادیانی قیادت نے موجودہ ایڈیشنوں میں ان تحریف شدہ آیات میں تصحیح کر دی ہے۔ لیکن بعض جگہ اب بھی بدستور قرآنی تحریفات موجود ہیں جو ان کے حبیب باطن کی بین دلیل ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کے دور سے لے کر اس کے مرنے کے بعد (تقریباً 90 سال) تک اس کی کتب میں تحریف قرآن مسلسل ہوتی رہی۔ آنجناب مرزا قادیانی سمیت اس کے کسی بیٹے، خلیفہ یا مرید نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ جبکہ مرزا قادیانی کا کہنا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا بلکہ وہی کچھ کہتا ہے جو اے اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے۔ اس سلسلہ میں مرزا قادیانی کی نام نہاد وحی ملاحظہ فرمائیں:

□ ”وما ينطق عن الهوى. ان هو الا وحى يوحى.“

(تذکرہ مجموعہ وحی الہامات طبع چہارم، ص 309، 321 از مرزا قادیانی)



مرزا قادیانی کا مزید کہنا ہے:

”انک باعیننا سمیتک المتوکل و علمنه من لدنا علمًا“

ترجمہ: تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ہم نے تیرا نام متوکل رکھا، اپنی طرف سے علم سکھلایا۔“

(ازالہ اوہام صفحہ 698 مندرجہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 476 از مرزا قادیانی)

”وہب لی علوماً مقدسة نقيه و معارف صافية جلية و علمنی ما لم

یعلم غیرى من المعاصرین۔“

ترجمہ: ”اللہ نے مجھے پاک مقدس علوم نیز صاف و روشن معارف عطا کیے۔ اور وہ کچھ سکھایا جو میرے سوا کسی اور انسان کو اس زمانے میں معلوم نہ تھا۔“

(انجام آتھم صفحہ 75 مندرجہ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 75 از مرزا قادیانی)

”عربی زبان میں باوجود میری کمی کوشش اور کوتاہی جستجو کے جو مجھے کمال حاصل ہے، وہ میرے

رب کی طرف سے ایک کھلا نشان ہے تاکہ وہ لوگوں پر میرے علم اور میرے ادب کو ظاہر کرے..... مجھے یہ فخر بھی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے چالیس ہزار مادہ عربی زبان کا سکھایا گیا ہے۔“

(انجام آتھم، صفحہ 234، مندرجہ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 234 از مرزا قادیانی)

”میری زبان کی تائید میں ایک اور زبان بول رہی ہے، اور میرے ہاتھ کی تقویت

کے لیے ایک اور ہاتھ چل رہا ہے جس کو دنیا نہیں دیکھتی مگر میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے اندر ایک آسانی روح بول رہی ہے، جو میرے لفظ لفظ اور حرف حرف کو زندگی بخشتی ہے۔“

(ازالہ اوہام صفحہ 563 مندرجہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 403 از مرزا قادیانی)

”امام الزمان کو مخالفوں اور عام سائلوں کے مقابل پر اس قدر الہام کی ضرورت

نہیں جس قدر علمی قوت کی ضرورت ہے کیونکہ شریعت پر ہر ایک قسم کے اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ طبابت کے رُوسے بھی، ہیئت کے رُوسے بھی، طبعی کے رُوسے بھی، جغرافیہ کے رُوسے بھی اور کتب مسلمہ اسلام کے رُوسے بھی اور عقلی بنا پر بھی اور نقلی بنا پر بھی۔“

(ضرورۃ الامام صفحہ 10 مندرجہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 480 از مرزا قادیانی)

”میں زمین کی باتیں نہیں کہتا کیونکہ میں زمین سے نہیں ہوں بلکہ میں وہی کہتا ہوں

جو خدا نے میرے منہ میں ڈالا ہے۔“

(پیغام صلح صفحہ 47 مندرجہ روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 485 از مرزا قادیانی)

□ ”میں تو ایک حرف بھی نہیں لکھ سکتا۔ اگر خدا تعالیٰ کی طاقت میرے ساتھ نہ ہو۔

بارہا لکھتے لکھتے دیکھا ہے کہ ایک خدا کی رُوح ہے جو تیر رہی ہے۔ قلم تھک جایا کرتی ہے مگر اندر جوش نہیں تھکتا۔ طبیعت محسوس کیا کرتی ہے کہ ایک ایک حرف خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔“

(ملفوظات جلد دوم صفحہ 483 (طبع جدید) از مرزا قادیانی)

□ ”اور میں سچ سچ کہتا ہوں کہ مسیح کے ہاتھ سے زندہ ہونے والے مر گئے مگر جو شخص

میرے ہاتھ سے جام پئے گا جو مجھے دیا گیا ہے، وہ ہرگز نہیں مرے گا۔ وہ زندگی بخش باتیں جو میں کہتا ہوں۔ اور وہ حکمت جو میرے مُنہ سے نکلتی ہے اگر کوئی اور بھی اس کی مانند کہہ سکتا ہے تو

سمجھو کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا۔ لیکن اگر یہ حکمت اور معرفت جو مُردہ دلوں کے لیے آب حیات کا حکم رکھتی ہے، دوسری جگہ سے نہیں مل سکتی تو تمہارے پاس اس جرم کا کوئی

عذر نہیں کہ تم نے اس سرچشمہ سے انکار کیا جو آسمان پر کھولا گیا۔“

(ازالہ اوہام صفحہ 3 مندرجہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 104 از مرزا قادیانی)

□ ”یہ بات بھی اس جگہ بیان کمر دینے کے لائق ہے کہ میں خاص طور پر خدا تعالیٰ کی

اعجاز نمائی کو انشاء پر دازی کے وقت بھی اپنی نسبت دیکھتا ہوں کیونکہ جب میں عربی میں یا اردو میں کوئی عبارت لکھتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ کوئی اندر سے مجھے تعلیم دے رہا ہے۔“

(نزول اسح صفحہ 56 مندرجہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 434 از مرزا قادیانی)

□ ”میں اپنے نفس سے کچھ نہیں کہتا بلکہ وہی کہتا ہوں جو خدا تعالیٰ میرے دل میں ڈالتا ہے۔“

(تذکرہ الشہادتین صفحہ 79 مندرجہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 79 از مرزا قادیانی)

□ ”وان اللہ لا یترکنی علی خطا طرفۃ عین و یعصمنی من کل مین و

یحفظنی من سبل الشیاطین۔“

ترجمہ: ”اور اللہ تعالیٰ ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے خطا پر قائم نہیں رہنے دیتا

اور مجھے ہر ایک خطا سے محفوظ رکھتا ہے اور شیاطین کے راستوں سے میری حفاظت کرتا ہے۔“

(نور الحق صفحہ 86 مندرجہ روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 272 از مرزا قادیانی)

□ ”انا واکتبا فی کتاب شینا ینخالف النصوص القرانیہ او الحدیثیہ وما

تفوهنا بہ یوما من الدھر۔“

ترجمہ: ”میں نے کسی کتاب میں کبھی کوئی چیز قرآن و حدیث کی تصریحات کے

خلاف نہیں لکھی۔“ (حملۃ البشری صفحہ 72 مندرجہ روحانی خزائن جلد 7 صفحہ 285)

□ ”واللہ یعلم انی ما قلت الا ما قال اللہ تعالیٰ ولم اقل کلمۃ قط مخالفہ وما مسها قلمی فی عمری۔“

ترجمہ: ”خدا جانتا ہے کہ میں جو کچھ کہتا ہوں، وہ وہی کہتا ہوں جو خدا تعالیٰ فرماتا ہے اور میں نے کوئی کبھی ایسا کلمہ تک نہیں کہا جو خلاف خداوند تعالیٰ ہو اور مخالفت خداوندی میرے قلم سے کبھی سرزد نہیں ہوتی۔“

(حملۃ البشری صفحہ 10 مندرجہ روحانی خزائن جلد 7 صفحہ 186 از مرزا قادیانی)

□ ”اور باعث نہایت درجہ فنا فی اللہ ہونے کے اس کی زبان ہر وقت خدا کی زبان ہوتی ہے اور اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہوتا ہے اور اگرچہ اس کو خاص طور پر الہام بھی نہ ہوتا ہے جو کچھ اس کی زبان پر جاری ہوتا ہے، وہ اس کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔“

(حقیقۃ الوحی صفحہ 16 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 18 از مرزا قادیانی)

□ ”مجھے اس خدا کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ مجھے قرآن کے حقائق اور معارف کے سمجھنے میں ہر ایک روح پر غلبہ دیا گیا ہے۔“

(سراج منیر صفحہ 39 مندرجہ روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 41 از مرزا قادیانی)

□ ”جو لوگ خدائے تعالیٰ سے الہام پاتے ہیں وہ بغیر بلائے نہیں بولتے اور بغیر سمجھائے نہیں سمجھتے، اور بغیر فرمائے کوئی دعویٰ نہیں کرتے۔ اور اپنی طرف سے کسی قسم کی دلیری نہیں کر سکتے۔“

(ازالہ اوہام صفحہ 197 مندرجہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 197 از مرزا قادیانی)

□ ”اس عاجز کو اپنے ذاتی تجربہ سے یہ معلوم ہے کہ روح القدس کی قدسیت ہر وقت اور ہر دم اور ہر لحظہ بلا فصل ملہم کے تمام قویٰ میں کام کرتی رہتی ہے۔“

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ 93 مندرجہ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 93 از مرزا قادیانی)

□ ”یوں تو ہمیشہ دین کی تجدید ہو رہی ہے مگر حدیث کا تو یہ منشاء ہے کہ وہ مجدد خدائے تعالیٰ کی طرف سے آئے گا یعنی علوم لدنیہ و آیات سماویہ کے ساتھ۔ اب بتلاویں کہ اگر یہ عاجز حق پر نہیں ہے تو پھر کون آیا جس نے اس چودھویں صدی کے سر پر مجدد ہونے کا ایسا دعویٰ کیا جیسا کہ اس عاجز نے کیا۔“

(ازالہ اوہام صفحہ 179 مندرجہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 179 از مرزا قادیانی)

□ ”جو لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سے مجددیت کی قوت پاتے ہیں، وہ نرے استخوان فروش نہیں ہوتے بلکہ وہ واقعی طور پر نائب رسول اللہ ﷺ اور روحانی طور پر آنجناب کے خلیفہ ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ انہیں ان تمام نعمتوں کا وارث بناتا ہے جو نبیوں اور رسولوں کو دی جاتی ہیں اور ان کی باتیں از قبیل جوشیدن ہوتی ہیں نہ محض از قبیل کوشیدن۔ اور وہ حال سے بولتے ہیں نہ مجرد قال سے۔ اور خدا تعالیٰ کے الہام کی تجلی ان کے دلوں پر ہوتی ہے اور وہ ہر ایک مشکل کے وقت روح القدس سے سکھلائے جاتے ہیں اور ان کی گفتار اور کردار میں دنیا پرستی کی طوئی نہیں ہوتی کیونکہ وہ ہلکی مصفا کیے گئے اور تمام وکمال کھینچے گئے ہیں۔“

(فتح اسلام صفحہ 9 مندرجہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 7 از مرزا قادیانی)


□ ”انی امر یکلمنی ربی..... و یعلمنی من لدنہ و یحسن ادبی و یوحی الی رحمة منہ فاتبع ما یوحی..... وما کان لی ان اترک سبیلہ و اختار طرقاتی. و کلما قلت قلت من امرہ. وما فعلت شیئا عن امری. وما افتريت علی ربی الاعلیٰ وقد خاب من الفتوی.“

(ترجمہ) ”میں وہ مرد ہوں کہ خدا میرے ساتھ گفتگو کرتا ہے اور خزانہ خاص سے تعلیم دیتا ہے۔ اپنے ادب سے مجھ کو ادب سکھاتا ہے۔ اپنی رحمت سے مجھ پر وحی بھیجتا ہے۔ پس میں اس وحی کی پیروی کرتا ہوں اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی راہ کو چھوڑ دوں اور دوسرے راستے کو اختیار کروں اور جو میں نے کہا ہے اس کے حکم سے کہا ہے۔ میں از خود کوئی کام نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہیں باندھتا۔ ہلاک ہو اوہ جس نے افتراء کیا۔“

(مواہب الرحمن صفحہ 5 مندرجہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 221 از مرزا قادیانی)

□ ”ازاں جملہ ایک عصمت بھی ہے جس کو حفظ الہی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ عصمت بھی فرقان مجید کے کامل تابعین کو بطور خارق عادت عطا ہوتی ہے۔ اور اس جگہ عصمت سے مراد ہماری یہ ہے کہ وہ ایسی نالائق اور مذموم عادات اور خیالات اور اخلاق اور افعال سے محفوظ رکھے جاتے ہیں جن میں دوسرے لوگ دن رات آلودہ اور ملوث نظر آتے ہیں۔ اور اگر کوئی لغزش بھی ہو جائے تو رحمت الہی جلد تر ان کا تدارک کر لیتی ہے۔“

(براہین احمدیہ صفحہ 514 مندرجہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 536 از مرزا قادیانی)



شہرت حاصل ہو

مرزا قادیانی

کی  
پیش گوئیاں

(جو پوری نہ ہو سکیں)



قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے:

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخَلِّفًا وَعْدِهِ رُسُلُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

(ابراہیم: 47)

ترجمہ: خدا تعالیٰ کو اپنے رسولوں کے ساتھ وعدہ خلافی کرنے والا گمان نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور انتقام لینے والا ہے۔  
اسی طرح توریت میں یہ حکم ہے:

□ ”میں ان کے لیے ان ہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا، وہی وہ ان سے کہے گا اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا یا اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے۔“

(بائبل عہد نامہ قدیم، کتاب استثناء باب 18 فقرہ نمبر 18 تا 21)

جس طرح آگ کا کیڑا آگ میں خوش اور زندہ رہتا ہے۔ اس طرح قادیان کا جھوٹا مدعی نبوت آنجہانی مرزا قادیانی اپنے جھوٹ پر بہت خوش رہتا تھا۔ ”بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا!“ کے مصداق اسے ہر روز نئی پیش گوئیاں کرنے کا بہت شوق تھا۔ خواہ وہ پوری ہوں یا نہ ہوں۔ حالانکہ پیش گوئیوں کے سچا ہونے کے بارے میں خود مرزا قادیانی کا کہنا ہے:

صدق یا کذب جانچنے کا معیار

(269) ”واضح ہو کہ ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لیے ہماری پیشگوئی سے بڑھ کر اور

کوئی محک امتحان نہیں ہو سکتا۔“

(آئینہ کمالاتِ اسلام صفحہ 288 مندرجہ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 288 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 777 پر)

## اگر ایک بھی پیش گوئی جھوٹی نکلی

(270) ”اگر ثابت ہو کہ میری سو پیشگوئیوں میں سے ایک بھی جھوٹی نکلی ہو تو میں اقرار کروں گا کہ میں کاذب ہوں۔“

(اربعین نمبر 4 صفحہ 119 مندرجہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 461 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 778 پر)

## تمام رسوائیوں سے بڑھ کر

(271) ”کسی انسان کا اپنی پیشگوئی میں جھوٹا لکنا خود تمام رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی ہے۔“  
(تزیان القلوب صفحہ 254 مندرجہ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 382 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 779 پر)

## مدعی کاذب کی پیش گوئی

(272) ”مدعی کاذب کی پیشگوئی ہرگز پوری نہیں ہوتی۔ یہی قرآن کی تعلیم ہے اور یہی توریث کی۔“

(آئینہ کمالاتِ اسلام صفحہ 326 مندرجہ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 326 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 780 پر)

## نبیوں کی پیشگوئیاں ٹلتی نہیں

(273) ”ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیشگوئیاں ٹل جائیں۔“

(کشتی نوح صفحہ 5 مندرجہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 5 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 781 پر)



## توریت اور قرآن میں نبوت کا ثبوت

(274) ”توریت اور قرآن نے بڑا ثبوت نبوت کا صرف پیشگوئی کو قرار دیا ہے۔“  
(استثناء صفحہ 3 مندرجہ روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 111 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 782 پر)

## اگر کوئی تلاش کرتا کرتا مر بھی جائے

(275) ”اور کوئی ایسی پیشگوئی میری نہیں ہے کہ وہ پوری نہیں ہوئی یا اس کے دو حصوں میں سے ایک حصہ پورا نہیں ہو چکا۔ اگر کوئی تلاش کرتا کرتا مر بھی جائے تو ایسی کوئی پیشگوئی جو میرے منہ سے نکلی ہو، اس کو نہیں ملے گی جس کی نسبت وہ کہہ سکتا ہو کہ خالی گئی۔ مگر بے شرمی سے یا بیخبری سے جو چاہے کہے اور میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ ہزار ہا میری ایسی کھلی کھلی پیشگوئیاں ہیں جو نہایت صفائی سے پوری ہو گئیں۔“

(کشتی نوح صفحہ 8 مندرجہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 6 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 783 پر)

(276) پیش گوئی کا جب انجام ہویدا ہوگا

”پیشگوئی کا جب انجام ہویدا ہوگا

قدرت حق کا عجب ایک تماشا ہوگا

جھوٹ اور سچ میں جو ہے فرق وہ پیدا ہوگا

کوئی پا جائے گا عزت کوئی رسوا ہوگا“

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ 281 مندرجہ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 281 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 784 پر)

غلط بیانی اور بہتان طرازی راست بازوں کا کام نہیں

(277) ”غلط بیانی اور بہتان طرازی راست بازوں کا کام نہیں بلکہ نہایت شریر اور بد ذات آدمیوں کا کام ہے۔“

(آریہ دھرم صفحہ 13 مندرجہ روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 13 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 785 پر)

## کاذب کی پیشگوئی ہرگز پوری نہیں ہوتی

(278) ”خدا تعالیٰ صاف فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یهدی من ہو مسرف کذاب۔ سوچ کر دیکھو کہ اس کے یہی معنی ہیں، جو شخص اپنے دعویٰ میں کاذب ہو، اس کی پیشین گوئی ہرگز پوری نہیں ہوتی۔“

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ 322، 323 مندرجہ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 322، 323 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 786، 787 پر)

### اہم نکات

- 1- مرزا قادیانی کی مذکورہ بالا تحریروں سے مندرجہ ذیل نتیجہ اخذ ہوتا ہے:  
مرزا قادیانی کا صدق یا کذب جانچنے کے لیے اس کی پیش گوئی سے بڑھ کر اور کوئی پیمانہ نہیں۔
- 2- مرزا قادیانی کی 100 پیش گوئیوں میں سے اگر کوئی ایک پیش گوئی بھی جھوٹ ثابت ہو جائے تو وہ جھوٹا اور کاذب ہے۔
- 3- مرزا قادیانی کے نزدیک کسی انسان کا اپنی پیش گوئی میں جھوٹا نکلنا خود تمام رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی ہے۔
- 4- جو شخص اپنے دعویٰ میں کاذب ہو، اس کی پیش گوئی ہرگز پوری نہیں ہوتی۔ قرآن اور تورات کی یہی تعلیم ہے۔
- 5- نبیوں کی پیش گوئیاں ٹلتی نہیں بلکہ ہر حال میں پوری ہوتی ہیں۔
- 6- تورات اور قرآن نے نبوت کا سب سے بڑا ثبوت صرف پیش گوئی کے ہی ثابت ہونے کو قرار دیا ہے۔
- 7- مرزا قادیانی کی کوئی ایسی پیشگوئی نہیں ہے جو پوری نہیں ہوئی یا اس کے دو حصوں میں سے ایک حصہ پورا نہیں ہوا۔ اگر کوئی شخص اسے تلاش کرتا کرتا مر بھی جائے تو ایسی کوئی پیشگوئی جو اس کے منہ سے نکلی ہو، اس کو نہیں ملے گی جس کی نسبت وہ کہہ سکتا ہو کہ پیش گوئی پوری نہیں ہوئی۔

8- مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ اس کی ہزار ہا ایسی کھلی کھلی پیشگوئیاں ہیں جو نہایت صفائی سے پوری ہو گئیں۔

قارئین کرام: آئیے دیکھتے ہیں، مرزا قادیانی کے مذکورہ بالا ”فرمودات“ کی روشنی میں اس کی چند اہم پیش گوئیوں کا انجام۔

## پہلی پیش گوئی

### خواتین مبارکہ

آنجنمانی مرزا غلام احمد قادیانی کی پہلی شادی اس کے ماموں مرزا جمعیت بیگ کی بیٹی حرمت بی بی سے 1852ء میں ہوئی جس سے دو بیٹے مرزا سلطان احمد اور مرزا فضل احمد پیدا ہوئے۔ جب مرزا قادیانی کا حرمت بی بی سے دل بھر گیا تو اس نے وہلی کی ایک آزاد خیال فیملی سے تعلق رکھنے والی نصرت جہاں سے 17 نومبر 1884ء کو دوسری شادی رچالی۔ قادیانی نصرت جہاں کو ”ام المومنین“ (نعوذ باللہ) کا درجہ دیتے ہیں جبکہ مرزا قادیانی کی پہلی بیوی کو حقارت سے اس کے بیٹے فضل احمد کے حوالہ سے ”بھجے دی ماں“ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ نصرت جہاں کے بیٹے مرزا بشیر احمد ایم اے (جسے مرزا قادیانی نے ”قمر الانبیا“ کا خطاب دیا) نے اپنے والد مرزا قادیانی کے حالات زندگی پر مشتمل ایک کتاب ”سیرت المہدی“ لکھی۔ قادیانیوں کے نزدیک یہ کتاب بڑی اہم اور مستند ہے۔ اس کتاب میں مرزا بشیر احمد اپنی والدہ نصرت جہاں کے حوالہ سے لکھتا ہے کہ ایک دفعہ مجھے میری والدہ نے بتایا کہ تمہارے ابا (مرزا قادیانی) نے اپنی پہلی بیوی حرمت بی بی سے مباشرت ترک کر دی تھی اور اسے کہا تھا کہ اب میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ اب تم طلاق لے لو یا مجھے وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے حقوق معاف کر دو۔ اس بے چاری نے بڑی سادگی سے جواب دیا کہ اب میں طلاق لے کر کیا کروں گی۔ البتہ میں آپ کو اپنے حقوق زوجیت معاف کرتی ہوں۔ مرزا بشیر احمد اپنی والدہ کے حوالہ سے مزید لکھتا ہے کہ پھر واقعی ایسا ہی ہوا۔ یعنی تمہارے ابا عمر بھر حرمت بی بی کے پاس مباشرت کے لیے نہیں گئے۔ (سیرت المہدی جلد اول صفحہ 33، از مرزا بشیر احمد)

قارئین کرام! ان ہوشربا واقعات پر بحث پھر کبھی سہی۔ ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ نصرت جہاں سے شادی کے بعد مرزا قادیانی نے مالک ارض و سما اللہ تعالیٰ کے حوالہ سے مندرجہ ذیل الہام بیان کیا:

(279) ”پھر خدائے کریم جل شلئ نے مجھے بشارت دے کر کہا کہ تیرا گھر برکت سے بھرے گا اور میں اپنی نعمتیں تجھ پر پوری کروں گا، اور خواتین مبارکہ سے جن میں سے تو بعض کو اس کے بعد پائے گا، تیری نسل بہت ہوگی اور میں تیری ذریت کو بہت بڑھاؤں گا اور برکت دوں گا۔“  
(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات طبع چہارم صفحہ 111 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 788 پر)

مرزا قادیانی نے مزید کہا:

(280) ”اس عاجز نے 20 فروری 1886ء کے اشتہار میں یہ پیشگوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے بیان کی تھی کہ اس نے مجھے بشارت دی ہے کہ بعض بابرکت عورتیں اس اشتہار کے بعد بھی تیرے نکاح میں آئیں گی اور ان سے اولاد پیدا ہوگی۔“  
(مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 113 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 789 پر)

لیکن افسوس! مرزا قادیانی کے نکاح میں کوئی خواتین مبارکہ یا بابرکت عورتیں نہیں آئیں۔ قادیانی کہتے ہیں کہ اس سے مراد محمدی بیگم ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ پیش گوئی 1886ء کی ہے جبکہ محمدی بیگم کا مسئلہ کئی سال بعد شروع ہوا تھا اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا محمدی بیگم آخر تک مرزا قادیانی کے نکاح میں آئی؟ پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اکیلی محمدی بیگم، خواتین مبارکہ ہو سکتی ہے؟ سو مرزا قادیانی کی یہ پیش گوئی بھی جھوٹی ثابت ہوئی۔ حالانکہ مرزا قادیانی نے اس پیش گوئی میں واضح طور پر کہا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے۔ آپ خود سوچیے! جو شخص اللہ تعالیٰ پر بہتان لگائے، وہ کتنا بڑا جھوٹا، کذاب اور دجال ہوگا۔

مرزا قادیانی نے کہا تھا:

(281) ”کیا اس کے سوا کسی اور چیز کا نام ذلت ہے کہ جو کچھ اس نے کہا، وہ پورا نہ ہوا۔“  
(انجام آقلم صفحہ 27 مندرجہ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 311 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 790 پر)

## دوسری پیش گوئی

### موت مکہ میں ہوگی یا مدینہ میں

مرزا قادیانی نے اپنے ایک خدائی الہام میں اپنی موت کی پیش گوئی کرتے ہوئے کہا:  
(282) ”ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں۔“

(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات طبع چہارم صفحہ 503 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 791 پر)  
ہر مسلمان اپنے دل میں یہ شدید خواہش رکھتا ہے کہ اسے زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ حج یا عمرہ کی صورت میں مکہ مکرمہ یا مدینہ طیبہ کی زیارت نصیب ہو جائے اور پھر اس سے بڑھ کر اس کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ اسے ان مقدس شہروں میں موت کی سعادت حاصل ہو جائے۔ حضرت عمر فاروقؓ کی یہ دعا بہت مشہور ہے کہ ”اے اللہ! مجھے اپنے راستہ میں شہادت عطا فرما اور اپنے رسولؐ کے شہر میں موت عطا فرما۔“ حضرت ابن عمرؓ حضور نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں کہ ”جو شخص اس کی طاقت رکھتا ہو کہ مدینہ طیبہ میں مرے، اسے چاہیے کہ وہیں مرے، اس لیے کہ میں اس شخص کا سفارشی ہوں گا جو مدینہ میں مرے گا۔“ دوسری حدیث میں ہے کہ ”میں اس کا گواہ بنوں گا۔“ علمائے کرام نے لکھا ہے کہ اس شفاعت سے مراد خاص قسم کی شفاعت ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور خاتم النبیین ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ ”قیامت میں سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی، میں اس میں سے نکلوں گا پھر ابو بکرؓ اپنی قبر سے نکلیں گے پھر عمرؓ۔ پھر میں جنت البقیع میں جاؤں گا اور وہاں جتنے مدفون ہیں، ان سب کو اپنے ساتھ لوں گا۔ پھر مکہ مکرمہ کے قبرستان والوں کا انتظار کروں گا، وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان آ کر مجھ سے ملیں گے۔“

آنجنہانی مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا مدعی نبوت تھا۔ اس نے پیش گوئی کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا ہے کہ اے مرزا قادیانی تو مکہ میں مرے گا یا مدینہ میں۔ یعنی (نعوذ باللہ) مرزا قادیانی کے خدا کو بھی صحیح طرح معلوم نہ تھا کہ مرزا قادیانی مکہ میں مرے گا یا مدینہ میں؟ مرزا قادیانی کی یہ پیش گوئی سراسر غلط اور عبرتناک ثابت ہوئی۔ مرزا قادیانی براڈر تھ روڈ لاہور کی احمدیہ بلڈنگ میں 26 مئی 1908ء کو مرا اور لاش ریل گاڑی پر

قادیان بھجوائی گئی۔ جب مرزا قادیانی کی لاش لاہور ریلوے اسٹیشن لے جانے کے لیے احمدیہ بلڈنگ سے باہر نکالی گئی تو زندہ دلان لاہور نے اس کا بڑا ”شاندار استقبال“ کیا۔ یعنی راستے بھر مرزا قادیانی کے جنازے پر اس قدر غلاظتیں اور پاخانے پھینکے گئے کہ اس کی لاش بڑی مشکل سے ریلوے اسٹیشن تک پہنچ سکی۔

مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں موت تو درکنار مرزا قادیانی کو ساری زندگی ان مقدس مقامات میں قدم رکھنے کی توفیق تک نہ ہوئی۔ جب کبھی مرزا قادیانی سے پوچھا جاتا کہ آپ حج کرنے کیوں نہیں جاتے؟ تو مرزا قادیانی طرح طرح کی تاویلات کرتا۔ کبھی کہتا کہ صحت ٹھیک نہیں ہے (جبکہ محمدی بیگم سے شادی کرنے کے لیے آخر عمر تک سر توڑ کوشش کرتا رہا) کبھی کہا گیا کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے (جبکہ مخالفین کو 10، 10 ہزار روپے کا چیلنج دیتا) کبھی کہتا کہ میری جان کو خطرہ ہے (درآں حالیکہ اس کا کہنا تھا خدا کے مرسلین کسی سے نہیں ڈرا کرتے) سچی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کو منظور ہی نہ تھا کہ مرزا قادیانی حرمین شریفین کی حدود میں داخل ہو۔ حضور نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: ”جس شخص کے پاس اتنا خرچہ ہو اور سواری کا انتظام ہو کہ بیت اللہ شریف جاسکے اور پھر حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں اس بات میں کہ وہ یہودی ہو کر مر جائے یا نصرانی ہو کر۔“ اب اس کا فیصلہ قادیانی خود کریں کہ باوجود وسائل ہونے کے مرزا قادیانی نے حج نہیں کیا، لہذا وہ کس حیثیت سے مرا؟

قادیانیوں کا اس پیش گوئی کے متعلق یہ کہنا کہ اس سے مراد مکی فتح یا مدنی فتح ہوگی، کائنات کا سب سے بڑا دجل اور جھوٹ ہے۔ دنیا کی کسی لغت میں موت کا معنی فتح نہیں ہے۔ اگر موت کا معنی فتح ہے تو سب قادیانی زہر کھا کر مر جائیں تاکہ سب کی فتح ہو جائے۔ بہر حال مرزا قادیانی کی پیش گوئی کے برعکس اس کی موت لاہور میں اور قبر قادیان میں..... اس کے جھوٹا ہونے کی ایک ایسی ناقابل تردید شہادت ہے جو ہمیشہ قادیانیوں کو ذلت و رسوائی سے دوچار کرتی رہے گی۔ باقی رہا قادیانیوں کا بے یلگی تاویلات کرنا، تو اس سلسلہ میں مرزا قادیانی کا کہنا ہے:

(283) ”اگر ان تمام الفاظ کی تاویل کی جائے گی تو پھر پیشگوئی کچھ بھی نہ رہے گی بلکہ مخالف کے نزدیک ایک باعث تمسخر ہوگا کیونکہ پیشگوئی کی تمام شوکت اور اس کا اثر اپنے ظاہر

الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے اور پیشگوئی کرنے والے کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان علامتوں کو یاد رکھیں اور انہی کو مدعی صادق کا معیار ٹھہرائیں۔ مگر تاویل میں تو وہ سارے نشان مقرر کردہ گم ہو جاتے ہیں اور یہ امر مقبول اور مسلم ہے کہ نصوص کو ہمیشہ ان کے ظاہر پر حمل کرنا چاہیے اور ہر ایک لفظ کی تاویل مخالف کو تسکین نہیں دے سکتی کیونکہ اس طرح تو کوئی مقدمہ فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا۔“

(تختہ گولڈیہ صفحہ 75 مندرجہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 161 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 792 پر)

قادیانی حضرات اپنے ”سیح موعود“ کے مقرر کردہ صرف اس ایک نہایت معقول معیار ہی کو مد نظر رکھ لیں تو قبول اسلام کے سوا ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گی کہ مرزا قادیانی کی پیش گوئیوں کے ”عظیم الشان“ ڈھیر میں ایک بھی پیش گوئی ایسی نہیں ہے جسے تاویل کی سان پر نہ چڑھایا گیا ہو۔

## تیسری پیش گوئی

### مرزا قادیانی کی عمر

مرزا قادیانی کو اپنی عمر کے بارے میں الہام ہوا:

(284) ”تُرَى نَسْلًا بَعِيدًا وَلنَحْيِيكَ حَيوةً طَيِّبَةً. لَمَانِيْنَ حَوْلًا أَوْ قَرِيْبًا مِنْ ذَالِكَ أَوْ تَزِيْدُ عَلَيْهِ سِنِيْنَا. وَكَانَ وَعْدُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا.“

ترجمہ: تو دور کی نسل بھی دیکھے گا اور ہم تجھے خوش زندگی عطا کریں گے۔ اسی سال یا

اس کے قریب یا اس سے چند سال زیادہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔“

(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات طبع چہارم صفحہ 301 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 793 پر)

مرزا قادیانی نے مزید کہا:

(285) ”خدا تعالیٰ نے مجھے صریح لفظوں میں اطلاع دی تھی کہ تیری عمر اسی برس کی ہوگی اور یا یہ کہ پانچ چھ سال زیادہ یا پانچ چھ سال کم۔“

(براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 97 مندرجہ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 258 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 794 پر)

(286) ”خدا نے مسیح کو وعدہ دیا کہ میں تجھے صلیب سے بچاؤں گا اور اپنی طرف تیرا رفع کروں گا، جیسا کہ ابراہیم اور دوسرے پاک نبیوں کا رفع ہوا۔ سو اس طرح ان لوگوں کے منصوبوں کے برخلاف خدا نے مجھے وعدہ دیا کہ میں اتسی برس یا دو تین برس کم یا زیادہ تیری عمر کروں گا تا لوگ کی عمر سے کاذب ہونے کا نتیجہ نہ نکال سکیں۔“  
(تحفہ گولڈویہ | ضمیمہ | صفحہ 8 مندرجہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 44 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 795 پر)

مرزا قادیانی اپنے خدائی الہام میں کہتا ہے:

(287) ”ہم تجھے ایک پاک اور آرام کی زندگی عنایت کریں گے۔ اتسی برس یا اس کے قریب قریب یعنی دو چار برس کم یا زیادہ۔ اور تو ایک دُور کی نسل دیکھے گا۔“  
(تحفہ گولڈویہ صفحہ 33 مندرجہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 69 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 796 پر)

مرزا قادیانی ایک سوال کے جواب میں کہتا ہے:

(288) ”مشیر اعلیٰ: کیا جناب کو یہ بھی اطلاع دی گئی ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہوگی؟  
حضرت اقدس: ہاں عمر کے متعلق مجھے الہاماً یہ بتایا گیا تھا کہ وہ اتسی کے قریب ہوگی۔ اور حال میں ایک روایا کے ذریعہ یہ بھی معلوم ہوا کہ 15 سال اور بڑھانے کے واسطے دعا کی ہے۔“

(ملفوظات جلد سوم صفحہ 537، 538 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 797، 798 پر)

مرزا قادیانی کو محمدی بیگم کا وصل نصیب ہوا نہ عمر میں Extension ہی عطا ہوئی۔

بس Tension ہی اس کا مقدر رہی۔

مرزا قادیانی اپنی کتاب میں لکھتا ہے:

(289) ”اب جس شخص کی زندگی کا یہ حال ہے کہ ہر روز موت کا سامنا اس کے لیے موجود ہوتا ہے اور ایسے مریضوں کے انجام کی نظیریں بھی موجود ہیں تو وہ ایسی خطرناک حالت کے ساتھ کیونکر افترا پر جرات کر سکتا ہے اور وہ کس صحت کے بھروسے پر کہتا ہے کہ میری اتسی برس



کی عمر ہوگی۔ حالانکہ ڈاکٹری تجارب تو اس کو موت کے پنجہ میں ہر وقت پھنسا ہوا خیال کرتے ہیں۔ ایسی مرضوں والے مدقوق کی طرح گداز ہو کر جلد مر جاتے ہیں یا کارپینکل یعنی سرطان سے ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔“

(اربعین نمبر 4 صفحہ 129 مندرجہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 471 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 799 پر)

(290) ”اس جگہ یہ مسئلہ بھی حل ہوا کہ آنحضرت ﷺ کو قرآن کی تکمیل تک جو تیس برس کی مدت تھی، مہلت ملنا اور مخالفانہ کوششوں سے جو ہلاک کرنے کے لیے تھیں، محفوظ رہنا اور زندگی پوری کر کے خدا کے حکم کے ساتھ جانا جیسا کہ میرے لیے بھی اسی برس کی زندگی کی پیشگوئی ہے جب تک میں سب کچھ پورا کر لوں۔“

(تحفہ الندوہ صفحہ 5 مندرجہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 93 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 800 پر)

مرزا قادیانی کے مذکورہ بالا الہامات اور وحیوں سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ بقول مرزا قادیانی، اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ کیا اور الہاماً بتایا تھا کہ اس کی عمر 80 سال یا دو تین سال کم یا زیادہ ہوگی۔ اس بنا پر مرزا قادیانی نے پیش گوئی کر دی کہ اس کی عمر 80 سال کے قریب ہوگی۔ مرزا قادیانی کی اس پیش گوئی کو سچا یا جھوٹا جانچنے کے لیے بڑا آسان فارمولا ہے کہ مرزا قادیانی کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات دیکھ لی جائے۔ زیادہ لمبی چوڑی بحث کی ضرورت نہیں۔ مسلمانوں اور قادیانیوں میں اس بات پر کوئی اختلاف نہیں کہ مرزا قادیانی 26 مئی 1908ء کو آنجنمانی ہوا۔ اب صرف یہ معلوم کرنا باقی ہے کہ مرزا قادیانی کس سال میں پیدا ہوا؟ اس کا فیصلہ خود مرزا قادیانی کی اپنی تحریروں سے کر لیتے ہیں۔ مرزا قادیانی اپنے سوانح میں لکھتا ہے:

(291) ”میرے ذاتی سوانح یہ ہیں کہ میری پیدائش 1839ء یا 1840ء میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی ہے اور میں 1857ء میں سولہ برس کا یا سترھویں برس میں تھا۔“

(کتاب البریہ صفحہ 159 مندرجہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 177 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 801 پر)

یہ مرزا قادیانی کی اپنی واضح تحریر ہے۔ اس میں کہیں بھی کوئی ایسی مشکل بات نہیں جس کی تاویل کی جا سکے۔ مرزا قادیانی نے صریح اور صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ اس کی پیدائش 1839ء یا 1840ء میں ہوئی۔ اس بات کی مزید تصدیق خود اس کے اپنے دوسرے بیان سے بھی ہوتی ہے کہ جب اس کا والد مرزا غلام مرتضیٰ فوت ہوا تو مرزا قادیانی کی عمر 34، 35 سال تھی۔

مرزا قادیانی لکھتا ہے:

(292) ”میری عمر قریباً چونتیس یا پینتیس برس کی ہوگی جب حضرت والد صاحب کا انتقال ہوا۔“

(کتاب البریہ صفحہ 174 مندرجہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 192 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 802 پر)

مرزا غلام مرتضیٰ کا انتقال 1874ء میں ہوا۔ اس کا اقرار مرزا قادیانی نے اپنی کتاب ”نزول اسحٰح“ کے صفحہ 116 پر کیا ہے۔

(نزول اسحٰح صفحہ 116 مندرجہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 494 از مرزا قادیانی)

مرزا قادیانی کا سال ولادت 1839ء یا 1840ء تھا اور سال وفات 1908ء۔  
قارئین کرام! آپ خود حساب کر لیں کہ مرزا قادیانی نے کتنی عمر پائی تھی؟ اگر سال ولادت 1839ء تسلیم کیا جائے تو کل عمر 69 سال بنتی ہے اور اگر 1840ء مان لیا جائے تو کل عمر 68 سال بنتی ہے۔ لہذا الہامی دعوؤں، خدائی وحیوں اور بشارتوں کے باوجود مرزا قادیانی کی عمر 80 سال کے قریب نہ ہوئی اور اس کی پیش گوئی جھوٹی ثابت ہوئی۔

جبکہ مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ اللہ نے اُسے الہام کیا ہے:

(293) ”بَارَكَ اللَّهُ فِي الْهَامِكِ وَوَحِيكَ وَرُؤْيَاكَ“

(ترجمہ) برکت دی اللہ نے تیرے الہام میں اور تیری وحی میں اور تیری رؤیا میں۔“

(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات طبع چہارم صفحہ 569 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 803 پر)

اسی سلسلہ میں ایک اور حوالہ ملاحظہ فرمائیں۔ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا: (294) ”یعنی اُس روز سے جو وہ امام مہم ہو کر اپنے تئیں ظاہر کرے گا چالیس برس تک زندگی کرے گا۔ اب واضح رہے کہ یہ عاجز اپنی عمر کے چالیسویں برس میں دعوتِ حق کے لیے بالہام خاص مامور کیا گیا اور بشارت دی گئی کہ اسی برس تک یا اس کے قریب تیری عمر ہے سو اس الہام سے چالیس برس تک دعوت ثابت ہوتی ہے جن میں سے دس برس کامل گزر بھی گئے۔“ (نشان آسمانی صفحہ 14 مندرجہ روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 374 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 804 پر)

مرزا قادیانی کا کہنا ہے کہ اسے قدرت نے دعوتِ حق کے لیے خاص طور پر مامور کیا اور ایک خاص الہام کے ذریعے بشارت دی گئی کہ تیری عمر 80 سال یا اس کے قریب ہو گی۔ بھول مرزا قادیانی اس الہام سے 40 سال تک دعوتِ حق دینا بھی ثابت ہوتا ہے۔ دعوت کے 10 سال گزر گئے ہیں۔ باقی 30 سال رہ گئے ہیں۔ مرزا قادیانی نے 1892ء میں یہ کتاب تحریر کی۔ اس وقت اس کی عمر 50 سال تھی۔ گویا دعوتِ حق کے لیے اُسے مزید 30 سال زندہ رہنا تھا۔ اس لحاظ سے مرزا قادیانی کی وفات 1922ء کے قریب ہونی چاہیے تھی مگر وہ اپنی الہامی تحریر کے صرف 14 سال بعد ہی 1908ء میں جہنمِ واصل ہو گیا اور اس طرح اس کی عمر 80 سال پوری نہ ہوئی اور یہ پیش گوئی جھوٹی ثابت ہوئی۔

## چوتھی پیش گوئی

### 9 نام والد لڑکا

جھوٹے مدعی نبوت مرزا قادیانی کا ایک نام نہاد ”صحابی“ میاں منظور محمد، قادیان کی ایک مشہور و معروف شخصیت تھا۔ اس کی اہلیہ کا نام محمدی بیگم تھا۔ (یہ وہ محمدی بیگم نہیں تھی جس کے عشق میں مرزا قادیانی گرفتار ہوا تھا) اس کی دو لڑکیاں تھیں، حامدہ بیگم اور صالحہ بیگم۔ حامدہ بیگم کا نکاح سردار کرم دادخاں سے ہوا جبکہ صالحہ بیگم کا نکاح مرزا قادیانی کے سالے، مرزا بشیر الدین محمود کے ماموں اور نصرت بیگم کے بھائی میر محمد اسحاق سے ہوا۔ میاں منظور محمد کی اہلیہ

محمدی بیگم اپنی پہلی بیٹی حامدہ بیگم کی پیدائش کے کچھ عرصہ بعد 1906ء میں جب دوبارہ حاملہ ہوئی تو اس کی خبر مرزا قادیانی کو کسی طریقے سے ہو گئی۔ مرزا قادیانی کی یہ عادت تھی کہ خواہ اس کا اپنا گھر ہو یا کسی مرید کا، اگر اُسے یہ پتہ چل جاتا کہ کوئی خاتون حاملہ ہے تو وہ فوراً لڑکا ہونے کی پیش گوئی داغ دیتا۔ مگر جب لڑکے کی بجائے لڑکی پیدا ہو جاتی تو مختلف تاویلات کا سہارا لے کر اپنی شرمندگی مٹانے کی کوشش کرتا۔ اس قسم کی پیش گوئی مرزا قادیانی نے اپنے مرید میاں منظور کے ہاں بیٹا پیدا ہونے کے متعلق کی۔ مرزا قادیانی نے اپنا الہام بیان کرتے ہوئے کہا:

(295) 19 فروری 1906ء ”دیکھا کہ منظور محمد صاحب کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، اور دریافت کرتے ہیں کہ اس لڑکے کا کیا نام رکھا جائے۔ تب خواب سے حالت الہام کی طرف چلی گئی اور یہ معلوم ہوا:

### ”بشیر الدولہ“

فرمایا: کئی آدمیوں کے واسطے دعا کی جاتی ہے معلوم نہیں کہ منظور محمد کے لفظ سے کس کی طرف اشارہ ہے۔ ممکن ہے کہ بشیر الدولہ کے لفظ سے یہ مراد ہو کہ ایسا لڑکا میاں منظور محمد کے پیدا ہوگا، جس کا پیدا ہونا موجب خوشحالی اور دولت مند ہو جائے۔ اور یہ بھی قرین قیاس ہے کہ وہ لڑکا خود اقبال مند اور صاحب دولت ہو۔ لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ کب اور کس وقت یہ لڑکا پیدا ہوگا۔ خدا نے کوئی وقت ظاہر نہیں فرمایا۔ ممکن ہے کہ جلد ہو، یا خدا اس میں کئی برس کی تاخیر ڈال دے۔“  
(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات طبع چہارم صفحہ 510، 511 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 805، 806 پر)

### ساڑھے تین ماہ بعد ”الہام“ لڑکے کے دو نام

تقریباً ساڑھے تین ماہ بعد مرزا قادیانی نے منظور محمد اور ان کی اہلیہ محمدی بیگم کا نام لے کر کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا ہے کہ پیدا ہونے والے لڑکے کا ایک نام نہیں بلکہ دو نام ہوں گے۔ چنانچہ مرزا قادیانی لکھتا ہے:

(296) 7 جون 1906ء ”بذریعہ الہام الہی معلوم ہوا کہ میاں منظور محمد صاحب کے گھر میں یعنی محمدی بیگم کا ایک لڑکا پیدا ہوگا، جس کے دو نام ہوں گے۔“

## (1) بشیر الدولہ (2) عالم کباب

”یہ ہر دو نام بذریعہ الہام الہی معلوم ہوئے اور ان کی تعبیر اور تفہیم یہ ہے:

(1) بشیر الدولہ سے یہ مراد ہے کہ وہ ہماری دولت اور اقبال کے لیے بشارت دینے والا ہوگا۔ اس کے پیدا ہونے کے بعد یا اس کی ہوش سنبھالنے کے بعد زلزلہ عظیمہ کی پیشگوئی اور دوسری پیشگوئیاں ظہور میں آئیں گی، اور گروہ کثیر مخلوقات کا ہماری طرف رجوع کرے گا۔ اور عظیم الشان فتح ظہور میں آئے گی۔

(2) عالم کباب سے یہ مراد ہے کہ اس کے پیدا ہونے کے بعد چند ماہ تک یا جب تک کہ وہ اپنی برائی بھلائی شناخت کرے، دنیا پر ایک سخت تباہی آئے گی۔ گویا دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اس لڑکے کا نام عالم کباب رکھا گیا۔ غرض وہ لڑکا اس لحاظ سے کہ ہماری دولت اور اقبال کی ترقی کے لیے ایک نشان ہوگا۔ بشیر الدولہ کہلائے گا اور اس لحاظ سے کہ مخالفوں کے لیے قیامت کا نمونہ ہوگا، عالم کباب کے نام سے موسوم ہوگا۔“

(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات طبع چہارم صفحہ 533، 534 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 807، 808 پر)

## اسی دن پھر ”الہام“ لڑکے کے چار نام

اسی دن اور اسی تاریخ کو مرزا قادیانی کو تازہ الہام ہوتا ہے کہ اس پیدا ہونے والے بچے کے دو نام نہیں بلکہ 4 نام ہوں گے۔ مزید یہ بھی کہا کہ جب تک ان چار ناموں والا لڑکا میاں منظور محمد کے نطفہ سے محمدی بیگم کے بطن سے حامدہ بیگم اور صالحہ بیگم کا بھائی پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک میاں منظور کی اہلیہ محمدی بیگم ضرور زندہ رہے گی۔

(297) 7 جون 1906ء ”اس کے بعد معلوم ہوا کہ اس لڑکے کے دو نام اور ہیں۔ (1) ایک شادی خان کیونکہ وہ اس جماعت کے لیے شادی کا موجب ہوگا۔ (2) دوسرے کلمتہ اللہ خان کیونکہ وہ خدا کا کلمہ ہوگا۔ جو ابتدا سے مقرر تھا، اس زمانہ میں پورا ہو جائے گا اور ضرور ہے کہ خدا اس لڑکے کی والدہ کو زندہ رکھے، جب تک یہ پیشگوئی پوری ہو اور گذشتہ الہام ”اے ورڈ اینڈ ٹو گرلز“ اسی پیشگوئی کو بیان کرتا ہے جس کے معنی ہیں، ایک کلمہ اور دو لڑکیاں۔ کیونکہ میاں منظور محمد کی دو لڑکیاں

ہیں اور جب کلمۃ اللہ پیدا ہوگا، تب یہ بات پوری ہو جائے گی۔ ایک کلمہ اور دو لڑکیاں۔“  
(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات طبع چہارم صفحہ 534 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 809 پر)

## گیارہ دن بعد پھر الہام کہ لڑکے کے 9 نام

صرف گیارہ دن بعد مرزا قادیانی پھر لکھتا ہے کہ اب الہام ہوا ہے کہ میاں منظور محمد کے ہاں پیدا ہونے والے لڑکے کے چار نام نہیں بلکہ 9 نام ہوں گے۔ چنانچہ لکھتا ہے:  
(298) 19 جون 1906ء ”میاں منظور محمد صاحب کے اس بیٹے کا نام جو بطور نشان ہوگا، بذریعہ الہام الہی مفصلہ ذیل معلوم ہوئے:-

(1) کلمۃ العزیز (2) کلمۃ اللہ خاں (3) ورڈ

(4) بشیر الدولہ (5) شادی خاں (6) عالم کباب

(7) ناصر الدین (8) فاتح الدین (9) ہذا یوم مبارک

(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات صفحہ 537 طبع چہارم از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 810 پر)  
قارئین کرام! دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، کبھی ایسا لطف آپ کو کسی مزاحیہ تحریر سے بھی فراہم ہوا ہے؟

## 27 دن بعد لڑکے کے بجائے لڑکی پیدا ہوئی

(299) ”وحی الہی قریباً چار ماہ سے اخبار بدر اور الحکم میں چھپ کر شائع ہو چکی ہے اور چونکہ زلزلہ نمونہ قیامت آنے میں تاخیر ہو گئی، اس لیے ضرور تھا کہ لڑکا پیدا ہونے میں بھی تاخیر ہوتی۔ لہذا پیر منظور محمد کے گھر میں 17 جولائی 1906ء میں بروز سہ شنبہ لڑکی پیدا ہوئی اور یہ دعا کی قبولیت کا ایک نشان ہے جو لڑکی پیدا ہونے سے قریباً چار ماہ پہلے شائع ہو چکی تھی۔ مگر یہ ضرور ہوگا کہ کم درجہ کے زلزلے آتے رہیں گے اور ضرور ہے کہ زمین نمونہ قیامت زلزلہ سے رکی رہے جب تک وہ موعود لڑکا پیدا ہو۔“

(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات طبع چہارم صفحہ 557 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 811 پر)  
مرزا قادیانی کا یہ کہنا درست نہیں کہ اس نے لڑکی کی پیدائش سے چار ماہ پہلے بتا دیا

تھا کہ لڑکے کا آنا موخر ہو گیا ہے۔ لڑکی کی پیدائش 17 جولائی 1906ء ہے۔ اس حساب سے مرزا قادیانی کو 17 مارچ 1906ء کو یہ بات بتانی چاہیے تھی۔ جبکہ اس نے 7 جون 1906ء کو کہا کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ اس لڑکے کے دو نام ہوں گے اور پھر 19 جون 1906ء کو اس لڑکے کے 9 نام بتائے۔ اس وقت کیوں نہ صاف صاف کہہ دیا کہ لڑکے کے بجائے لڑکی پیدا ہوگی؟ مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ لڑکی صالحہ بیگم کی پیدائش کے کچھ عرصہ بعد محمدی بیگم مر گئی۔ اور اس طرح 9 نام والا لڑکا آنا تھا نہ آیا۔ مرزا قادیانی کی یہ پیش گوئی بھی غلط اور جھوٹ ثابت ہوئی۔

مرزا قادیانی کا کہنا ہے:

(300) ”جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا۔“

(چشمہ معرفت صفحہ 222 مندرجہ روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 231 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 812 پر)

## پانچویں پیش گوئی

### ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی

ڈاکٹر عبدالحکیم خاں پٹیالہ (بھارت) کے سول ہسپتال میں اسٹنٹ سرجن کے عہدے پر فائز تھے۔ وہ بڑی مشہور و معروف شخصیت کے مالک تھے۔ وہ تقریباً 25 برس تک مرزا غلام احمد قادیانی کے خاص الخاص اور جلیل القدر مریدین میں شمار ہوتے رہے۔ مرزا قادیانی کو آپ سے بڑی محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب پر اپنا فضل و کرم فرمایا کہ 25 سال بعد وہ مرزائیت سے تائب ہو کر دوبارہ مسلمان ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے مرزائیت کے دور میں قرآن کریم کی ایک تفسیر بنام ”تفسیر القرآن بالقرآن“ لکھی۔ مرزا قادیانی کے نزدیک ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کا کیا مقام تھا؟ درج ذیل اقتباس قابل غور ہے۔

مرزا قادیانی لکھتا ہے:

(301) ”چونکہ حدیث صحیح میں آچکا ہے کہ مہدی موعود کے پاس ایک چھپی ہوئی کتاب ہوگی جس میں اس کے تین سوتیرہ اصحاب کا نام درج ہوگا، اس لیے یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ وہ پیشگوئی آج پوری ہوگئی..... اور بموجب منشاء حدیث کے یہ بیان کر دینا پہلے سے ضروری ہے کہ یہ تمام اصحاب نصلتِ صدق و صفار کھتے ہیں اور حسب مراتب جس کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے بعض، بعض سے محبت اور اتقاع الی اللہ اور سرگرمی دین میں سبقت لے گئے ہیں۔“

(انجام آتھم | ضمیمہ | صفحہ 41 مندرجہ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 324، 325 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 813، 814 پر)

(302) اس کے بعد مرزا قادیانی ان تین سوتیرہ (313) صاحبان کا نام درج کرتا ہے، جن میں 159 نمبر پر ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب کا نام درج ہے۔

(انجام آتھم | ضمیمہ | صفحہ 43 مندرجہ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 327 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 815 پر)

مرزا قادیانی نے اپنی معروف کتاب ”ازالہ اوہام“ میں ڈاکٹر عبدالحکیم کا تعارف ان

الفاظ میں کرایا:

(303) ”حقی فی اللہ عبدالحکیم خاں جوان صالح ہے۔ علامات رشد و سعادت اس کے

چہرے سے نمایاں ہیں۔ زیرک اور فہیم آدمی ہے۔ انگریزی زبان میں عمدہ مہارت رکھتے ہیں۔

میں امید رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کئی خدمات اسلام ان کے ہاتھ سے پوری کرے۔ وہ باوجود

زمانہ طالب علمی اور تفرقہ کی حالت کے ایک روپیہ ماہواری بطور چندہ اس سلسلہ کے لیے دیتے

ہیں اور ایسا ہی ان کا دوست خلیفہ رشید الدین صاحب جو ایک اہل آدمی اور انھیں کے ہمرنگ

ہیں اسی قدر چندہ محض للہی محبت کے جوش سے ماہ ب ماہ ادا کرتے ہیں۔ جزاہم اللہ خیر الجزاء۔“

(ازالہ اوہام صفحہ 809 مندرجہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 537 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 816 پر)



ترک مرزائیت کے بعد ڈاکٹر صاحب موصوف نے نہایت تحدی کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ خداوند عالم نے بذریعہ الہام مجھے اطلاع دی ہے کہ میں صادق ہوں اور مرزا قادیانی کاذب، میں حق پر ہوں اور مرزا قادیانی باطل پر اور میرے صادق ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ مرزا قادیانی میری زندگی میں ہی ہلاک ہوگا۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے خدا کی طرف سے یہ الہام ہوا کہ:

(304) ”مرزا مسرف، کذاب اور عیار ہے۔ صادق کے سامنے شریر ہلاک ہوگا۔“  
(مجموعہ اشتہارات جلد دوم صفحہ 673 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 817 پر)

ڈاکٹر صاحب کا کیسا واضح اور صاف اعلان ہے کہ صادق کے سامنے شریر ہلاک ہوگا۔ اب اس میں کسی تاویل وغیرہ کی گنجائش نہیں ہے۔ جو کاذب اور شریر ہوگا، وہ پہلے مرے گا۔  
مرزا قادیانی نے اپنی کتاب ”چشمہ معرفت“ میں اپنے اور ڈاکٹر عبدالحکیم کے مابین اس تحریری مباحثے کو تفصیلاً بیان کیا ہے:

(305) ”ایسا ہی کئی اور دشمن مسلمانوں میں سے میرے مقابل پر کھڑے ہو کر ہلاک ہوئے اور ان کا نام و نشان نہ رہا۔ ہاں آخری دشمن اب ایک اور پیدا ہوا ہے جس کا نام عبدالحکیم خان ہے اور وہ ڈاکٹر ہے اور ریاست پٹیالہ کا رہنے والا ہے جس کا دعویٰ ہے کہ میں اس کی زندگی میں ہی 4 اگست 1908ء تک ہلاک ہو جاؤں گا اور یہ اس کی سچائی کے لیے ایک نشان ہوگا۔ یہ شخص الہام کا دعویٰ کرتا ہے اور مجھے دجال اور کافر اور کذاب قرار دیتا ہے۔ پہلے اس نے بیعت کی اور برابر بیس برس تک میرے مریدوں اور میری جماعت میں داخل رہا۔ پھر ایک نصیحت کی وجہ سے جو میں نے محض اللہ اس کو کی تھی، مرتد ہو گیا..... آخر میں نے اسے اپنی جماعت سے خارج کر دیا۔ تب اس نے یہ پیشگوئی کی کہ میں اس کی زندگی میں ہی 4 اگست 1908ء تک اس کے سامنے ہلاک ہو جاؤں گا مگر خدا نے اس کی پیشگوئی کے مقابل پر مجھے خبر دی کہ وہ خود عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور خدا اس کو ہلاک کرے گا اور میں اس کے شر سے محفوظ رہوں گا۔ سو یہ وہ مقدمہ ہے جس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بلاشبہ یہ سچ بات ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی نظر میں صادق ہے، خدا اس کی مدد کرے گا۔“

(چشمہ معرفت صفحہ 322 مندرجہ روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 337 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 819, 818 پر)

ڈاکٹر موصوف ایک طویل عرصہ تک مرزا قادیانی کے مرید رہے اور اس وقت تک منصب صدق و صفا پر فائز رہے جب تک وہ ان کے ہر دعوے پر آمنا و صدقنا کہتے رہے۔ مگر مرزا قادیانی نے ان کو جماعت سے خارج کر دیا اور حسب معمول ان کے خلاف پروپیگنڈے کی باقاعدہ مہم کا آغاز کر کے ان کی کردار کشی کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ یقیناً قادیانی حضرات ان ہتھکنڈوں سے بخوبی واقف ہیں۔ مگر حق چھپائے نہیں چھپتا۔ ان کا اصل قصور کیا تھا؟ مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر احمد، ڈاکٹر صاحب کے جماعت سے اخراج کے راز پر سے پردہ یوں اٹھاتا ہے:

(306) ”اول یہ کہ حضرت صاحب کو اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعہ اطلاع دی کہ تیرا انکار کرنے والا مسلمان نہیں اور نہ صرف یہ اطلاع دی بلکہ حکم دیا کہ تو اپنے منکروں کو مسلمان نہ سمجھ۔ دوسرے یہ کہ حضرت صاحب نے عبدالحکیم خان کو جماعت سے اس واسطے خارج کیا کہ وہ غیر احمدیوں کو مسلمان کہتا تھا۔ تیسرے یہ کہ مسیح موعود کے منکروں کو مسلمان کہنے کا عقیدہ ایک خبیث عقیدہ ہے۔ چوتھے یہ کہ جو ایسا عقیدہ رکھے اس کے لیے رحمت الہی کا دروازہ بند ہے۔“  
(کلمۃ الفصل صفحہ 125 از مرزا بشیر احمد ایم اے ابن مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 820 پر)

مرزا قادیانی نے ڈاکٹر عبدالحکیم کے بارے میں لکھا:

(307) ”اس امر سے اکثر لوگ واقف ہوں گے کہ ڈاکٹر عبدالحکیم خاں صاحب جو تخمیناً بیس برس تک میرے مریدوں میں داخل رہے، چند دنوں سے مجھ سے برگشتہ ہو کر سخت مخالف ہو گئے ہیں اور اپنے رہنما مسیح الدجال میں میرا نام کذاب، مکار، شیطان، دجال، شریر، حرام خور رکھا ہے اور مجھے خائن اور شکم پرست اور نفس پرست اور مفند اور مفتری اور خدا پر افترا کرنے والا قرار دیا ہے اور کوئی ایسا عیب نہیں ہے جو میرے ذمہ نہیں لگایا۔ گویا جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے، ان تمام بدیوں کا مجموعہ میرے سوا کوئی نہیں گزرا۔ اور پھر اسی پر کفایت نہیں کی بلکہ پنجاب کے بڑے بڑے شہروں کا دورہ کر کے میری عیب شماری کے بارہ میں لیکچر دیے اور لاہور اور امرتسر اور پٹیالہ اور دوسرے مقامات میں انواع و اقسام کی بدیاں عام جلسوں میں میرے ذمہ لگائیں اور میرے وجود کو دنیا کے لیے ایک خطرناک اور شیطان سے بدتر ظاہر کر کے ہر ایک لیکچر میں مجھ پر ہنسی اور ٹھٹھا اڑایا۔ غرض ہم نے اس کے ہاتھ سے وہ دکھ اٹھایا جس

کے بیان کی حاجت نہیں اور پھر میاں عبدالحکیم صاحب نے اسی پر بس نہیں کی بلکہ ہر ایک لیکچر کے ساتھ یہ پیشگوئی بھی صدہا آدمیوں میں شائع کی کہ مجھے خدا نے الہام کیا ہے کہ ”یہ شخص تین سال کے عرصہ میں فنا ہو جائے گا اور اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا کیونکہ کذاب اور مفتری ہے۔ میں نے اس کی ان پیشگوئیوں پر صبر کیا۔ مگر آج جو 14 اگست 1906ء ہے، پھر اس کا خط ہمارے دوست فاضل جلیل مولوی نورالدین صاحب کے نام آیا۔ اس میں بھی میری نسبت کئی قسم کی عیب شماری اور گالیوں کے بعد لکھا ہے کہ 12 جولائی 1906ء کو خدا تعالیٰ نے اس شخص کے ہلاک ہونے کی خبر مجھے دی ہے کہ اس تاریخ سے تین برس تک ہلاک ہو جائے گا۔ جب اس حد تک نوبت پہنچ گئی تو اب میں بھی اس بات میں کچھ مضائقہ نہیں دیکھتا کہ جو کچھ خدا نے اس کی نسبت میرے پر ظاہر فرمایا ہے میں بھی شائع کروں اور درحقیقت اس میں قوم کی بھلائی ہے کیونکہ اگر درحقیقت میں خدا تعالیٰ کے نزدیک کذاب ہوں اور پچیس برس سے دن رات خدا پر افترا کر رہا ہوں اور اس کی عظمت اور جلال سے بے خوف ہو کر اس پر جھوٹ باندھتا ہوں اور اس کی مخلوق کے ساتھ بھی میرا یہ معاملہ ہے کہ میں لوگوں کا مال بددیانتی اور حراخوری کے طریق سے کھاتا ہوں اور خدا کی مخلوق کو اپنی بدکرداری اور نفس پرستی کے جوش سے دکھ دیتا ہوں تو اس صورت میں تمام بدکرداروں سے بڑھ کر سزا کے لائق ہوں تا لوگ میرے فتنہ سے نجات پائیں۔ اور اگر میں ایسا نہیں ہوں جیسا کہ میاں عبدالحکیم خاں نے سمجھا ہے تو میں امید رکھتا ہوں کہ خدا مجھ کو ایسی ذلت کی موت نہیں دے گا کہ میرے آگے بھی لعنت ہو اور میرے پیچھے بھی۔ میں خدا کی آنکھ سے مخفی نہیں۔ مجھے کون جانتا ہے مگر وہی۔ اس لیے میں اس وقت دونوں پیشگوئیاں یعنی میاں عبدالحکیم خاں کی میری نسبت پیشگوئی اور اس کے مقابل پر جو خدا نے میرے پر ظاہر کیا ذیل میں لکھتا ہوں اور اس کا انصاف خدائے قادر پر چھوڑتا ہوں اور وہ یہ ہیں۔

میاں عبدالحکیم خان صاحب اسٹنٹ سرجن پٹیالہ کی میری نسبت پیشگوئی جو اخویم مولوی نورالدین صاحب کی طرف اپنے خط میں لکھتے ہیں۔ ان کے اپنے الفاظ یہ ہیں:

”مرزا کے خلاف 12 جولائی 1906ء کو یہ الہامات ہوئے ہیں۔ مرزا

مصرف کذاب اور عیار ہے۔ صادق کے سامنے شر پر فنا ہو جائے گا  
اور اس کی میعاد تین سال بتائی گئی ہے۔“☆

اس کے مقابل پر وہ پیشگوئی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے میاں عبدالحکیم خان  
صاحب اسٹنٹ سرجن پٹیا کی نسبت مجھے معلوم ہوئی۔ جس کے الفاظ یہ ہیں:

”خدا کے مقبولوں میں قبولیت کے نمونے اور علامتیں ہوتی ہیں اور وہ سلامتی کے  
شہزادے کہلاتے ہیں۔ ان پر کوئی غالب نہیں آسکتا۔ فرشتوں کی کھینچی جھوٹی ٹکوار تیرے آگے  
ہے پر تُو نے وقت کو نہ پہچانا نہ دیکھا نہ جانا۔ رب فرق بین صادق و کاذب۔ انت تریٰ  
کل مصلح و صادق۔☆☆

(مجموعہ اشتہارات جلد دوم صفحہ 672 تا 674 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ 821 تا 823 پر)

مرزا قادیانی نے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر مزید کہا:

(308) ”تب اس نے یہ پیشگوئی کی کہ میں اس کی زندگی میں ہی 4 اگست 1908ء تک  
اس کے سامنے ہلاک ہو جاؤں گا۔ مگر خدا نے اس کی پیشگوئی کے مقابل پر مجھے خبر دی کہ وہ  
خود عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور خدا اس کو ہلاک کرے گا اور میں اس کے شر سے محفوظ  
رہوں گا۔ سو یہ وہ مقدمہ ہے جس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بلاشبہ یہ سچ بات ہے کہ جو

☆ خدا تعالیٰ کا یہ فقرہ کہ وہ سلامتی کے شہزادے کہلاتے ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے  
عبدالحکیم خان کے اس فقرہ کا رد ہے کہ جو مجھے کاذب اور شر پر قرار دے کر کہتا ہے کہ صادق کے  
سامنے شریر فنا ہو جائے گا۔ گویا میں کاذب ہوں اور وہ صادق اور وہ مرد صالح ہے اور میں شریر۔ اور  
خدا تعالیٰ اس کے رد میں فرماتا ہے کہ جو خدا کے خاص لوگ ہیں وہ سلامتی کے شہزادے کہلاتے ہیں۔  
ذلت کی موت اور ذلت کا عذاب ان کو نصیب نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہو تو دنیا تباہ ہو جائے اور صادق اور  
کاذب میں کوئی امر خارق نہ رہے۔

☆☆ یعنی اے میرے خدا صادق اور کاذب میں فرق کر کے دکھلا۔ تُو جانتا ہے کہ صادق اور  
مصلح کون ہے۔ اس فقرہ الہامیہ میں عبدالحکیم خان کے اس قول کا رد ہو جو وہ کہتا ہے کہ صادق کے  
سامنے شریر فنا ہو جائے گا۔ پس چونکہ وہ اپنے تئیں صادق ٹھہراتا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ تو صادق نہیں  
ہے۔ میں صادق اور کاذب میں فرق کر کے دکھلاؤں گا۔“

(مجموعہ اشتہارات جلد دوم صفحہ 673، 674 طبع جدید (حاشیہ) از مرزا قادیانی)

فرض خدا تعالیٰ کی نظر میں صادق ہے خدا اس کی مدد کرے گا۔“  
(چشمہ معرفت صفحہ 322 مندرجہ روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 337 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 824 پر)

مرزا قادیانی اس سلسلہ میں اپنا ایک اور الہام بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے:  
(309) ”اپنے دشمن کو کہہ دے کہ خدا تجھ سے مواخذہ لے گا۔ اور پھر آخر میں اُردو میں فرمایا کہ میں تیری عمر کو بھی بڑھا دوں گا۔ یعنی دشمن جو کہتا ہے کہ صرف جولائی 1907ء سے چودہ مہینے تک تیری عمر کے دن رہ گئے ہیں یا ایسا ہی جو دوسرے دشمن پیشگوئی کرتے ہیں، ان سب کو میں جھوٹا کروں گا اور تیری عمر کو بڑھا دوں گا تا معلوم ہو کہ میں خدا ہوں اور ہر ایک امر میرے اختیار میں ہے۔“

(مجموعہ اشتہارات جلد دوم صفحہ 720 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 825 پر)

اس کے بعد مرزا قادیانی نے ڈاکٹر عبدالکیم کے مکمل بائیکاٹ کے بارے میں اپنی جماعت کو ہدایات دیتے ہوئے کہا:

### تمام جماعت احمدیہ کے لیے اعلان

(310) ”چونکہ ڈاکٹر عبدالکیم اسٹنٹ سرجن پٹیالہ نے جو پہلے اس سلسلہ میں داخل تھا، نہ صرف یہ کام کیا کہ ہماری تعلیم سے اور اُن باتوں سے جو خدا تعالیٰ نے ہم پر ظاہر کیں، منہ پھیر لیا بلکہ اپنے خط میں وہ سختی اور گستاخی دکھلائی اور وہ گندے اور ناپاک الفاظ میری نسبت استعمال کیے کہ بجز ایک سخت دشمن اور سخت کینہ ور کے کسی کی زبان اور قلم سے نکل نہیں سکتے، اور صرف اسی پر کفایت نہیں کی بلکہ بے جا ہتھتیں لگائیں اور اپنے صریح لفظوں میں مجھ کو ایک حرام خور اور بندہ نفس اور شکم پرور اور لوگوں کا مال فریب سے کھانے والا قرار دیا اور محض تکبر کی وجہ سے مجھے پیروں کے نیچے پامال کرنا چاہا۔ اور بہت سی ایسی گالیاں دیں جو ایسے مخالف دیا کرتے ہیں جو پورے جوشِ عداوت سے ہر طرح سے دوسرے کی ذلت اور توہین چاہتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا کہ پیشگوئیاں جن پر ناز کیا جاتا ہے کچھ چیز نہیں۔ مجھ کو ہزار ہا ایسے الہام اور

خوابیں آتی ہیں جو پوری ہو جاتی ہیں۔

غرض اس شخص نے محض توہین اور تحقیر اور دلا زاری کے ارادہ سے جو کچھ اپنے خط میں لکھا ہے اور جس طرح اپنی ناپاک بدگوئی کو انتہا تک پہنچا دیا ہے، ان تمام تہمتوں اور گالیوں اور عیب گوئیوں کے لکھنے کے لیے اس اشتہار میں گنجائش نہیں۔ علاوہ اس کے میری تحقیر کی غرض سے جھوٹ بھی پیٹ بھر کے بولا ہے۔ مگر مجھے ایسے مفتزی اور بدگو لوگوں کی کچھ پروا نہیں، کیونکہ اگر جیسا کہ مجھے اس نے دعا باز، حرام خور، مکار، فریبی اور جھوٹ بولنے والا قرار دیا ہے اور طریق اسلام اور دیانت اور پیروی آنحضرت ﷺ سے باہر مجھے کرنا چاہا ہے اور میرے وجود کو محض فضول اور اسلام کے لیے مضر ٹھہرایا ہے بلکہ مجھے محض شکم پرور اور دشمن اسلام قرار دیا ہے۔ اگر یہ باتیں سچ ہیں تو میں اس کیڑے سے بھی بدتر ہوں جو نجاست سے پیدا ہوتا اور نجاست میں ہی مرتا ہے۔ لیکن اگر یہ باتیں خلاف واقعہ ہیں تو میں امید نہیں رکھتا کہ خدا تعالیٰ ایسے شخص کو اس دنیا میں بغیر مواخذہ کے چھوڑے گا جو مرید ہو کر اور پھر مرتد ہو کر اس درجہ تک پہنچ گیا ہے کہ جو ذلیل سے ذلیل زندگی بسر کرنے والے جیسے چوہڑے اور چمار جو شکم پرور کہلاتے ہیں اور مردار کھانے سے بھی عار نہیں رکھتے، ان کی مانند مجھے بھی محض شکم پرست اور بندہ نفس اور حرام خور قرار دیتا ہے۔

اب میں ان باتوں کو زیادہ طول دینا نہیں چاہتا اور خدا تعالیٰ کی شہادت کا منتظر ہوں اور اس کے ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں اور اس اشارہ پر ختم کرتا ہوں انما اشکوا بشی و حزنی الی اللہ واعلم من اللہ مالا تعلمون۔ اب چونکہ یہ شخص اس درجہ پر میرا دشمن معلوم ہوتا ہے جیسا کہ عمرو بن ہشام آنحضرت کی عزت اور جان کا دشمن تھا، اس لیے میں اپنی تمام جماعت کو متنبہ کرتا ہوں کہ اس سے بکلی قطع تعلق کر لیں۔ اس کے ساتھ ہرگز واسطہ نہ رکھیں ورنہ ایسا شخص ہرگز میری جماعت میں سے نہیں ہوگا۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین۔ امین۔ امین۔ امین۔

المشتر خاکسار مرزا غلام احمد مسیح موعود از قادیان۔ ضلع گورداسپور پنجاب  
(مجموعہ اشتہارات جلد دوم صفحہ 667، 668 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 826، 827 پر)

مرزا قادیانی نے اپنی موت سے سات دن پہلے ڈاکٹر عبدالحکیم کے بارے ایک

سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جلد ہی اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا کہ ہم دونوں میں سے سچا کون اور جھوٹا کون ہے؟ مرزا قادیانی کہتا ہے:

## راست باز کون

(311) ”19 مئی 1908ء

عبدالحکیم کی کتاب کا ذکر تھا کہ بہت سے اعتراض کیے ہیں۔ فرمایا: ہم نے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکے۔ بحثیں ہو چکیں۔ کتابیں مفصل لکھی جا چکی ہیں۔ اب بحث میں پڑنا فضولیوں میں داخل ہے۔

فرمایا:

ہر ایک کی فطرت جدا ہوتی ہے۔ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح کوئی شخص ایک آدمی کی 20 سال مریدی کرنے کے بعد اور اس کے ماتحت تعلیم حاصل کرنے کے بعد اور اس سے فائدہ اٹھانے کے بعد پھر اس کے حق میں ایسی گندی گالیاں بول سکتا ہے۔ ہماری تو سمجھ میں نہیں آ سکتا مگر ہر ایک شخص کی فطرت جدا ہوتی ہے۔

عرب صاحب عبدالحی نے عرض کیا کہ میں پٹیالہ سے آیا ہوں۔ عبدالحکیم نے آپ کے متعلق پیشگوئی کی ہے کہ آنے والی 21 ساون کو آپ کی وفات ہو جائے گی۔ لیکن پٹیالہ کے لوگ خوب جانتے ہیں کہ وہ ایک جھوٹا آدمی ہے۔

حضرت نے فرمایا:

کل يعمل علیٰ ہا کلتہ۔ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا کہ راست باز کون ہے۔“  
(ملفوظات جلد پنجم صفحہ 679، 680 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 828، 829 پر)

مرزا قادیانی اپنی دعا کے بارے میں اتنا پڑ اعتماد تھا کہ لکھتا ہے:

(312) ”اے لوگو! تم یقیناً سمجھ لو کہ میرے ساتھ وہ ہاتھ ہے جو آخر وقت تک مجھ سے وفا کرے گا۔ اگر تمہارے مرد اور تمہاری عورتیں اور تمہارے جوان اور تمہارے بوڑھے اور تمہارے چھوٹے اور تمہارے بڑے سب مل کر میرے ہلاک کرنے کے لیے دعائیں کریں یہاں تک کہ سجدے کرتے کرتے ناک گل جائیں اور ہاتھ شل ہو جائیں، تب بھی خدا ہرگز

تمہاری دعا نہیں سنے گا۔“

(تختہ گولڑویہ [ضمیمہ] صفحہ 14 مندرجہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 50 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 830 پر)

اس کے بعد مرزا قادیانی نے اللہ تعالیٰ سے دو ٹوک الفاظ میں بات کرتے ہوئے کہا:

(313) ”اے میرے خدا اگر تو جانتا ہے کہ میرے دشمن سچے ہیں اور مخلص ہیں پس تو مجھے

ہلاک کر جیسا کہ تو جھوٹوں کو ہلاک کرتا ہے۔“

(نزدل اسح صفحہ 72 مندرجہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 449 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 831 پر)

اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی کی مندرجہ بالا دعا کو قبول کیا اور جھوٹا سچے کی زندگی میں

مر گیا۔ مرزا قادیانی 26 مئی 1908ء صبح ساڑھے دس بجے عبرتناک موت کا شکار ہوا جبکہ ڈاکٹر

عبدالحکیم، مرزا قادیانی کی موت سے 11 سال بعد 1919ء میں اپنی طبعی موت سے ہمکنار ہوئے۔

ڈاکٹر عبدالحکیم کی پیش گوئی سچی نکلی اور مرزا قادیانی کی جھوٹی۔ قادیانیوں کے لیے

مرزا قادیانی کی کتاب ”چشمہ معرفت“ کا صفحہ 322 مندرجہ روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 337

ذلت و رسوائی کا قیامت خیز زلزلہ بنا ہوا ہے۔

آخر میں قادیانیوں سے سوال ہے کہ کیا مرزا قادیانی کے الہامات رحمانی تھے یا

شیطانی؟ وہ کون تھا جو خدا بن کر مرزا قادیانی کو ساری عمر دھوکہ دیتا رہا؟ اس کا جواب خود مرزا

قادیانی اپنی زبانی دیتا ہے۔

(314) ”واضح ہو کہ شیطانی الہامات ہونا حق ہے۔“

(ضرورت الامام صفحہ 13 مندرجہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 483 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 832 پر)



# چھٹی پیش گوئی

عبداللہ آتھم

1857ء کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے ہندوستان پر سیاسی تسلط قائم کیا اور اپنے اقتدار کو استحکام اور طول دینے کے لیے مختلف منصوبے تیار کیے۔ ان میں ایک منصوبہ یہ بھی تھا کہ برطانیہ سے عیسائی مبلغین کی ایک بڑی کمیپ منگوا کر مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کیا جائے۔ لہذا عیسائی مشنریوں نے برصغیر پر یلغار کر دی اور تقریباً ہر علاقہ میں مسلمانوں کو مرتد بنانے کے لیے اپنی سر توڑ کوششیں کر دیں۔ ”لِکَلِّ فِرْعَوْنَ مُوسَى“ کے مصداق اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے کئی مقبول بندوں کو پیدا کیا۔ جن میں مولانا رحمت اللہ کیرانویؒ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ انھوں نے نہ صرف عیسائی مبلغین کے ایک ایک اعتراض کا جواب دیا بلکہ انھیں مناظرہ و مباحثہ کے میدان میں شکست فاش سے دوچار کیا۔ مولانا رحمت اللہ کیرانویؒ اپنی ان ناقابل فراموش اور مجاہدانہ خدمات کے نتیجے میں دیکھتے ہی دیکھتے برصغیر کے مسلمانوں کی آنکھ کا تارا بن گئے۔ چنانچہ اس دور میں طالب شہرت جھوٹے مدعی نبوت مرزا قادیانی نے اعلان کر دیا کہ وہ اسلام کی حمایت میں 50 کتابیں لکھے گا جس میں 300 سے زائد دلائل ہوں گے اور کسی عیسائی کو اس کا جواب دینے کی جرأت نہ ہوگی۔ مرزا قادیانی نے اسلام کی حمایت کے نام پر لوگوں سے لاکھوں روپیہ اکٹھا کیا اور پھر ساری رقم ہضم کر گیا۔ مسلمان مبلغین عیسائیوں کے عقائد پر قرآن اور بائبل کی روشنی میں علمی بحث کرتے جبکہ مرزا قادیانی علمی بحث و مباحثہ کے بجائے پیش گوئیاں اور موت کی دھمکیاں دیتا۔ تاکہ اُسے سستی شہرت نصیب ہو۔ اسی طرح کا ایک واقعہ عیسائیوں کے ایک معروف عالم مسٹر عبداللہ آتھم کے ساتھ پیش آیا۔ مرزا قادیانی کا یہ اعترافی بیان موجود ہے کہ مسٹر عبداللہ آتھم صاحب عیسائیوں میں سے شریف اور سلیم المزاج ہیں۔ (سرمہ چشم آریہ صفحہ 260 مندرجہ روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 310) مرزا قادیانی اور عیسائی مناظر عبداللہ آتھم کے درمیان امرتسر شہر میں ایک مناظرہ طے پایا۔ یہ مناظرہ ڈاکٹر مارٹن کلارک کی کوٹھی واقع امرتسر میں منعقد ہوا۔ مرزا قادیانی کے معاون حکیم نور الدین، مولوی احسن امر وہی اور شیخ اللہ دتہ تھے

جبکہ پادری ٹھا کر داس، پادری ٹامس ہاؤل اور ڈاکٹر مارٹن کلارک عبداللہ آتھم کے مددگار تھے۔ مناظرہ کا موضوع تھا ”الوہیت مسیح“ دونوں فریق 22 مئی 1893ء سے لے کر 5 جون 1893ء تک تقریباً 15 دن بحث و مباحثہ کرتے رہے۔ مرزا قادیانی اس مناظرے میں بری طرح شکست کھا گیا۔ لہذا اپنی خفت مٹانے کے لیے مناظرہ کے آخری دن 5 جون 1893ء کو سب لوگوں کے سامنے ایک پیش گوئی کی اور اسے حسب معمول اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا۔ مرزا قادیانی نے کہا کہ پادری عبداللہ آتھم 5 جون 1893ء سے لے کر پندرہ ماہ کے اندر اندر ہاویہ میں گرا دیا جائے گا، جس کی آخری تاریخ 5 ستمبر 1894ء بنتی ہے اور صاف صاف الفاظ میں یہ اقرار کیا:

(315) ”آج رات جو مجھ پر کھلا وہ یہ ہے کہ جب کہ میں نے بہت تضرع اور ابہتال سے جناب الہی میں دعا کی کہ تو اس امر میں فیصلہ کر اور ہم عاجز بندے ہیں، تیرے فیصلہ کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تو اس نے مجھے یہ نشان بشارت کے طور پر دیا ہے کہ اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جو فریق عمداً جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور سچے خدا کو چھوڑ رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنا رہا ہے، وہ انہی دنوں مباحثہ کے لحاظ سے یعنی فی دن ایک مہینہ لے کر یعنی 15 ماہ تک ہاویہ میں گرایا جائے گا اور اس کو سخت ذلت پہنچے گی بشرطیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے اور جو شخص سچ پر ہے اور سچے خدا کو مانتا ہے اس کی اس بے عزت ظاہر ہوگی اور اس وقت جب یہ پیشینگوئی ظہور میں آوے گی بعض اندھے سو جا کھے کیے جائیں گے اور بعض لنگڑے چلنے لگیں گے اور بعض بہرے سننے لگیں گے۔“

(جنگ مقدس صفحہ 209، 210 مندرجہ روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 291، 292 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 833، 834 پر)

مرزا قادیانی کے نزدیک ہاویہ میں گرنے سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلہ میں مرزا

قادیانی لکھتا ہے:

(316) ”بشرنی ربی بعد دعوتی بموتہ الی خمسة عشر شہر من یوم

خاتمہ البحث.“

ترجمہ: ”میری دعا کے بعد مجھے میرے رب نے خوشخبری دی ہے کہ آتھم خاتم بحث کے دن سے لے کر پندرہ ماہ کے اندر مر جائے گا۔“

(کرامات الصادقین صفحہ 121 مندرجہ روحانی خزائن جلد 7 صفحہ 163 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 835 پر)

اس کے بعد مرزا قادیانی اور مسٹر آتھم کے درمیان جاری مناظرہ ختم ہو گیا۔ دونوں فریق اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ کسی نے مرزا قادیانی سے اس کی پیش گوئی کے بارے میں پوچھا کہ کیا واقعی اسے اللہ نے یہ بات بتائی ہے کہ آتھم پندرہ ماہ میں مر جائے گا۔ کہیں تم نے اپنی طرف سے تو یہ بات نہیں کہہ دی۔ اس پر مرزا قادیانی نے مندرجہ ذیل جواب دیا:

(317) ”سو الحمد للہ والمنة کہ اگر یہ پیشینگوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظہور نہ فرماتی تو ہمارے یہ پندرہ دن ضائع گئے تھے۔ انسان ظالم کی عادت ہوتی ہے کہ باوجود دیکھنے کے نہیں دیکھتا اور باوجود سننے کے نہیں سنتا اور باوجود سمجھنے کے نہیں سمجھتا اور جرأت کرتا ہے اور شوخی کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ خدا ہے لیکن اب میں جانتا ہوں کہ فیصلہ کا وقت آ گیا۔ میں حیران تھا کہ اس بحث میں کیوں مجھے آنے کا اتفاق پڑا۔ معمولی بحثیں تو اور لوگ بھی کرتے ہیں۔ اب یہ حقیقت کھلی کہ اس نشان کے لیے تھا۔ میں اس وقت یہ اقرار کرتا ہوں کہ اگر یہ پیشینگوئی جھوٹی نکلی یعنی وہ فریق جو خدا تعالیٰ کے نزدیک جھوٹ پر ہے، وہ پندرہ ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے بسزائے موت ہاویہ میں نہ پڑے تو میں ہر ایک سزا کے اٹھانے کے لیے تیار ہوں، مجھ کو ذلیل کیا جاوے۔ روسیہ کیا جاوے۔ میرے گلے میں رسہ ڈال دیا جاوے۔ مجھ کو پھانسی دیا جاوے۔ ہر ایک بات کے لیے تیار ہوں اور میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرور ایسا ہی کرے گا۔ ضرور کرے گا۔ ضرور کرے گا۔ زمین آسمان ٹل جائیں، پر اس کی باتیں نہ ٹلیں گی۔“

(جنگ مقدس صفحہ 211 مندرجہ روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 292، 293 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 836، 837 پر)

مرزا قادیانی نے مزید کہا:

(318) ”اب اس سے زیادہ میں کیا لکھ سکتا ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی فیصلہ کر دیا ہو۔ اب ناحق ہنسنے کی جگہ نہیں اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے لیے سولی تیار رکھو اور تمام شیطانوں اور بدکاروں اور لعنتیوں سے زیادہ مجھے لعنتی قرار دو۔“

(جنگ مقدس صفحہ 211 مندرجہ روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 293 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 838 پر) مرزا قادیانی نے آتھم کے 5 ستمبر 1894ء تک مرنے کی جو پیش گوئی کی تھی، اس پر اس نے خدائی قسم بھی اٹھائی تھی۔ اور اس نے یہ بات بڑی تاکید اور اعتماد سے کہی تھی کہ ایسا ہو کر رہے گا، خدا کی بات ٹل نہیں سکتی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی کو یہ خبر دے دی کہ آتھم مقررہ مدت کے اندر مر جائے گا تو پھر مرزا قادیانی کو خود ڈرنے اور گھبرانے کی کیا ضرورت تھی۔ کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ جوں جوں دن گزرتے جاتے، مرزا قادیانی اور اس کے مریدوں کی پریشانی، گھبراہٹ اور بدحواسی میں اضافہ ہوتا جاتا۔ حتیٰ کہ معیاد کے پورا ہونے میں صرف ایک دن رہ گیا۔ مرزا قادیانی کے جاسوس اسے بتا رہے تھے کہ آتھم خیریت سے ہے اور تندرست و فربہ ہے۔ یہ خبر سن کر مرزا قادیانی کے پاؤں تلے زمین نکل گئی تو اس نے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کے بجائے سفلی عملیات اور جادو ٹونے کا سہارا لینا شروع کر دیا۔ تاکہ کسی بھی طرح آتھم مر جائے اور اس کی پیش گوئی پوری ہو جائے۔ اس سلسلہ میں مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر احمد ایم اے کا اعتراضی بیان ملاحظہ فرمائیں:

(319) ”بیان کیا مجھ سے میاں عبداللہ صاحب سنوری نے کہ جب آتھم کی معیاد میں صرف ایک دن باقی رہ گیا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مجھ سے اور میاں حامد علی مرحوم سے فرمایا کہ اتنے چنے (مجھے تعداد یاد نہیں رہی کہ کتنے چنے آپ نے بتائے تھے) لے لو اور ان پر فلاں سورۃ کا وظیفہ اتنی تعداد میں پڑھو (مجھے وظیفہ کی تعداد بھی یاد نہیں رہی) میاں عبداللہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ مجھے وہ سورۃ یاد نہیں رہی مگر اتنا یاد ہے کہ وہ کوئی چھوٹی سی سورۃ تھی جیسے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الخ ہے۔ اور ہم نے یہ وظیفہ قریباً ساری رات صرف کر کے ختم کیا تھا۔ وظیفہ ختم کرنے پر ہم وہ دانے حضرت صاحب کے پاس لے

گئے کیونکہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وظیفہ ختم ہونے پر یہ دانے میرے پاس لے آنا۔ اس کے بعد حضرت صاحب ہم دونوں کو قادیان سے باہر غالباً شمال کی طرف لے گئے اور فرمایا یہ دانے کسی غیر آباد کنوئیں میں ڈالے جائیں گے، اور فرمایا کہ جب میں دانے کنوئیں میں پھینک دوں تو ہم سب کو سرعت کے ساتھ منہ پھیر کر واپس لوٹ آنا چاہیے، اور مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت صاحب نے ایک غیر آباد کنوئیں میں ان دانوں کو پھینک دیا اور پھر جلدی سے منہ پھیر کر سرعت کے ساتھ واپس لوٹ آئے۔ اور ہم بھی آپ کے ساتھ جلدی جلدی واپس چلے آئے اور کسی نے منہ پھیر کر پیچھے کی طرف نہیں دیکھا۔“

(سیرت الہدی جلد اول صفحہ 178 از مرزا بشیر احمد ایم اے ابن مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 839 پر)

مرزا قادیانی کے بڑے بیٹے مرزا محمود کا کہنا ہے کہ اس دن ہمارے گھر ماتم برپا تھا اور عورتیں چیخ چیخ کر واویلا کر رہی تھیں۔ اس کا کہنا تھا:

(320) ”جب آتھم کی پیشگوئی کا آخری دن آیا تو کتنے کرب و اضطراب سے دعائیں کی گئیں۔ میں نے تو محرم کا ماتم بھی کبھی اتنا سخت نہیں دیکھا۔ حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) ایک طرف دعا میں مشغول تھے اور مولوی عبدالکریم صاحب اور سلسلہ کے بعض اور بزرگ مسجد میں جمع ہو کر دعا کر رہے تھے اور تیسری طرف بعض نوجوان (جن کی اس حرکت پر بعد میں برا بھی منایا گیا) جہاں حضرت خلیفہ اول مطب کیا کرتے تھے اور آج کل مولوی قطب الدین صاحب بیٹھتے ہیں، وہاں اکٹھے ہو گئے اور جس طرح عورتیں بین ڈالتی ہیں، اس طرح انہوں نے بین ڈالنے شروع کر دیے۔ ان کی چیخیں سو سو گز تک سنی جاتی تھیں اور ان میں سے ہر ایک کی زبان پر یہ دعا جاری تھی کہ یا اللہ آتھم مر جائے، یا اللہ آتھم مر جائے، مگر اس کہرام اور آہ زاری کے نتیجہ میں آتھم تو نہ مرا۔“

(قادیانی خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود کی تقریر، روزنامہ الفضل قادیان 20 جولائی 1940ء)

(عکس صفحہ نمبر 841، 840 پر)

مرزا محمود مزید لکھتا ہے:

(321) ”حضرت مسیح موعود نے جب آتھم والی پیشگوئی کی اور میعاد کے ختم ہونے کا دن آیا تو مجھے وہ نظارہ اب تک یاد ہے کہ آج کل جہاں حکیم مولوی قطب الدین صاحب کا مطب ہے وہاں لوگ جمع ہوئے اور چینیں مار مار کر دعائیں کرنے لگے کہ الہی یہ پیشگوئی ضرور پوری ہو جائے۔ ایک پٹھان عبدالعزیز ہوا کرتا تھا وہ تو دیوار کے ساتھ بے تحاشا اپنا سر مارتا اور کہتا خدایا اب یہ سورج نہ ڈوبے جب تک آتھم نہ مر جائے۔ حضرت مسیح موعود کو اس کا علم ہوا تو آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ چینیں مار مار کر انھوں نے آسمان سر پر اٹھالیا ہے۔ اگر جھوٹے ہوں گے تو ہم ہوں گے ان کو کس بات کا فکر ہے۔“

(تفسیر کبیر جلد 9 صفحہ 432 از مرزا بشیر الدین محمود) (عکس صفحہ نمبر 842 پر)

قارئین کرام! اب آپ خود فیصلہ کریں کہ اس دن کس کے گھر ماتم برپا ہونا چاہیے تھا؟ مرزا قادیانی کے گھر یا آتھم کے گھر؟ مرزا قادیانی اور ان کے مریدین و اہل خانہ کو پورے اطمینان کے ساتھ آتھم کے مرنے کی خبر کا انتظار کرنا چاہیے تھا مگر یہاں معاملہ برعکس ہوا۔ خدا کی بشارتیں ملنے اور قسمیں اٹھانے کے باوجود مرزا قادیانی اور اس کے مریدوں کو پریشانی لاحق تھی اور ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ بالآخر 5 ستمبر 1894ء کا دن گزر گیا۔ مرزا قادیانی اور اس کی جماعت کو شرمندگی، ذلت اور رسوائی کی وجہ سے سر چھپانے کو جگہ نہ مل رہی تھی۔ ندامت اور پریشانی ہر قادیانی کے چہرے پر نمایاں تھی۔ 6 ستمبر کی صبح ہوتے ہی عیسائیوں نے مرزا قادیانی کی اس پیش گوئی کے غلط اور جھوٹا ہونے پر بڑا جلوس نکالا جس کی قیادت آتھم نے کی۔ انھوں نے بڑے بڑے پوسٹر شائع کیے۔ مرزا قادیانی کا پتلا بنا کر اس پر جوتے مارے اور اسے پھانسی دی۔ یوں مرزا قادیانی اور ان کی جماعت بے حد خجالت اور بدنامی سے دوچار ہوئی۔ بعض عیسائی رسی لے کر قادیان میں مرزا قادیانی کے گھر اُسے سولی دینے کے لیے ”حاضر“ ہو گئے تھے مگر مرزا قادیانی کو گھر سے باہر آنے کی جرأت نہ ہو سکی۔

اس مناظرہ کا الٹ اثر یہ ہوا کہ:

- 1- فشی محمد اسماعیل جس نے مباحثہ کرایا تھا، عیسائی ہو گیا۔
- 2- محمد یوسف مرزائی جو مباحثہ کا سیکرٹری تھا، عیسائی ہو گیا۔
- 3- مرزا قادیانی کی بیوی کا خالہ زاد بھائی میر محمد سعید، عیسائی ہو گیا۔

اور لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کو خود اس کے اپنے الفاظ میں ”تمام شیطانوں اور بدکاروں اور لعنتیوں سے زیادہ لعنتی سمجھنے پر مجبور ہوئے۔“

اب یہ فیصلہ قادیانیوں کے شعور و انصاف پر چھوڑا جاتا ہے کہ کیا مسلمان یہ کہنے میں حق بجانب نہیں ہیں، اگر مرزا قادیانی کا کچھ نام رہا تو ذلت اور رسوائی کے ساتھ رہے گا۔

بعد ازاں مرزا قادیانی نے کہا کہ خدا نے اسے بتایا کہ اس نے آتھم کو مزید کچھ عرصہ کے لیے مہلت دے دی تھی، اس لیے وہ وقت معیاد میں نہیں مرا۔ مرزا قادیانی نے لکھا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے فرمایا:

(322) ”اطلع اللہ علیٰ ہمہ و غمہ۔“

خدا تعالیٰ نے اس کے ہم و غم پر اطلاع پائی اور اس کو مہلت دی۔“

(انوار الاسلام صفحہ 2 مندرجہ روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 2 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 843 پر) مرزا قادیانی کی کتاب ”انوار الاسلام“ 27 اکتوبر 1894ء کی تصنیف ہے جبکہ پیش گوئی کی میعاد 5 ستمبر 1894ء تھی۔ جب یہ میعاد گزر گئی تو پھر خدا نے (ڈیڑھ ماہ بعد) مرزا قادیانی کو بتایا کہ ہم نے اسے مہلت دے دی ہے، اس لیے اب وہ نہیں مرے گا۔ کاش مرزا قادیانی کا خدا سے وقت سے پہلے بتا دیتا تو چنے خراب ہوتے اور نہ مرزائیوں کے گھر ماتم برپا ہوتا۔ مرزا قادیانی کی اس بات میں کوئی وزن نہیں۔ یہ صرف اپنے آپ کو اور قادیانیوں کو سہارا دینے کی ایک جھوٹی اور نہایت بودی کوشش ہے۔ پھر تقریباً 8 سال بعد (1902ء میں) مرزا قادیانی نے اپنی ذلت و رسوائی پر پردہ ڈالنے کے لیے عجیب نکتہ اٹھایا کہ آتھم نے اسی مجلس (5 جون 1893ء) میں رجوع کر لیا تھا۔ (اعجاز احمدی صفحہ 2 مندرجہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 109 از مرزا قادیانی)

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آتھم نے اسی مجلس میں رجوع کر لیا تھا تو پھر مرزا قادیانی کو پیش گوئی کرنے، سفلی عملیات اپنانے، ماتم کرنے اور پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ مزید یہاں پر مرزا قادیانی کے ایک خاص مرید ماسٹر قادر بخش کی مضحکہ خیز منطق کا مطالعہ دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ اس سے آپ قادیانی فہم و فراست کے معیار کا بخوبی اندازہ لگا لیں گے۔

(323) ”5 ستمبر 1894ء کو جس دن عبداللہ آتھم والی پیش گوئی کے پورا ہونے کا انتظار

تھا۔ آپ (یعنی ماسٹر قادر بخش صاحب) قادیان میں تھے کہ آج سورج غروب نہیں ہوگا کہ آتھم مر جائے گا۔ مگر جب سورج غروب ہو گیا تو لوگوں کے دل ڈولنے لگے۔ آپ (یعنی ماسٹر قادر بخش صاحب) فرماتے تھے کہ اس وقت مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، ہاں فکر اور حیرانی ضرور تھی لیکن جس وقت حضور نے تقریر فرمائی اور ابتلاؤں کی حقیقت بتلائی تو طبیعت بشاش اور انشراح صدر پیدا ہو گیا اور ایمان تازہ ہو گیا۔ (ماسٹر قادر بخش صاحب) فرماتے تھے کہ میں نے امرتسر جا کر عبداللہ آتھم کو خود دیکھا، عیسائی اسے گاڑی میں بٹھائے ہوئے بڑی دھوم دھام سے بازاروں میں لیے پھرتے تھے۔ لیکن اسے دیکھ کر یہ سمجھ گیا کہ واقع میں یہ مر گیا ہے۔ اور یہ صرف اس کا جنازہ ہے۔ جسے لیے پھرتے ہیں۔ آج نہیں تو کل مر جائے گا۔“

(”رحیم بخش صاحب۔ ایم۔ اے ولد ماسٹر قادر بخش صاحب“ کا مضمون مندرجہ اخبار الحکم قادیان جلد 25 نمبر 34 مورخہ 7 ستمبر 1923ء) (عکس صفحہ نمبر 844، 845 پر)

قارئین کرام: ایک دفعہ پھر مرزا قادیانی کی الہامی پیش گوئی کا جائزہ لیتے ہیں:-

1- مرزا قادیانی نے 5 جون 1893ء کو کہا تھا کہ میں اور آتھم میں جو جھوٹا ہوگا، وہ 15 ماہ کے اندر ہاویہ میں گرے گا یعنی مر جائے گا۔

2- جب پیش گوئی پوری ہوگی تو بعض اندھے دیکھنے لگیں گے اور بعض لنگڑے چلنے لگیں گے اور بعض بہرے سننے لگیں گے۔

3- مرزا قادیانی نے کہا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو

مجھے ذلیل کیا جائے!

مجھے روسیہ کیا جائے!

میرے گلے میں رسہ ڈال دیا جائے!

مجھ کو پھانسی دی جائے!

4- مرزا قادیانی نے کہا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے لیے سولی تیار رکھو اور تمام شیطانوں اور بدکاروں اور لعنتیوں سے زیادہ مجھے لعنتی قرار دو۔

5- پیش گوئی کی میعاد ختم ہونے کے ایک دن پہلے قادیان میں پریشانی اور گھبراہٹ کے بادل اٹھ آئے۔ مرزا قادیانی اپنے مریدوں سے مل کر سفلی عملیات کرواتا رہا۔



بقول مرزا محمود گھروں میں ماتم ہو رہے تھے۔ لوگوں نے چیخ و پکار سے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔

جبکہ مرزا قادیانی کا خود کہنا ہے:

(324) ”ایک جھوٹا شخص جب کسی اپنی پیشگوئی میں دیکھتا ہے کہ میرا جھوٹ کھل جائے گا تو بے شک وہ ناجائز طریقوں کی طرف توجہ کرتا ہے اور اس کی خبیث ذات سے کچھ بعید نہیں ہوتا کہ ایسی ایسی ناپاک حرکات اس سے صادر ہوں۔“

(کتاب البریہ صفحہ 20 مندرجہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 38 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 846 پر)

قارئین کرام: آتھم کے متعلق مرزا قادیانی کی پیش گوئی سو فیصد جھوٹی نکلی۔ اس طرح وہ بقلم خود جھوٹا نکلا اور لعنتیوں سے زیادہ لعنتی قرار پایا۔ یہ فیصلہ خود اس کا اپنا کیا ہوا ہے۔

## ساتویں پیش گوئی

### بکرو شیب (کنواری یا بیوہ)

مرزا قادیانی کی پہلی شادی اس کے ماموں مرزا جمعیت بیگ کی بڑی بیٹی حرمت بی بی سے ہوئی۔ جبکہ دوسری شادی دہلی کے ایک آزاد خیال گھرانے کی خاتون نصرت جہاں سے ہوئی۔ دو بیویاں ہونے کے باوجود اُسے تیسری شادی کا شوق چرایا۔ اتفاق سے اس کی نظر خاندان کی ایک بچی محمدی بیگم پر پڑی تو ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گیا اور اعلان کر دیا کہ اس لڑکی سے میرا آسمان پر نکاح ہو گیا ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے شادی کرے گا تو نہ صرف اس کا خاوند مر جائے گا بلکہ لڑکی کا والد بھی مر جائے گا۔ محمدی بیگم کے گھر والوں نے مرزا قادیانی کو پاگل سمجھ کر اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہ کی اور اپنی بیٹی کا نکاح اپنے قریبی عزیز سلطان احمد سے کر کے اس کی رخصتی کر دی۔ اس پر مرزا قادیانی نے اپنے مریدوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ فکر نہ کرو، جلد ہی یہ لڑکی بیوہ ہو کر میرے نکاح میں آئے گی۔ مرزا قادیانی کی خوش

گمانی تھی کہ شاید محمدی بیگم کا شوہر فوت ہو جائے تو محمدی بیگم اس کے نکاح میں آ جائے گی۔ پھر لوگوں کو بتایا جائے گا کہ بیوہ عورت کے ملنے سے یہ بشارت پوری ہو گئی۔ مگر افسوس محمدی بیگم کا شوہر فوت ہوا نہ وہ بیوہ ہوئی۔ اس طرح محمدی بیگم سمیت کسی بھی بیوہ کو مرزا قادیانی کی بیوی بننے کا شرف حاصل نہ ہو سکا اور مرزا قادیانی بیوہ کا انتظار کرتے کرتے قادیان کے قبرستان میں چلا گیا۔ اب آپ مرزا قادیانی کا الہام ملاحظہ فرمائیں:

(325) ”تخمیناً اٹھارہ برس کے قریب عرصہ گزرا ہے کہ مجھے کسی تقریب سے مولوی محمد

حسین بٹالوی ایڈیٹر رسالہ اشاعت السنہ کے مکان پر جانے کا اتفاق ہوا۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ آج کل کوئی الہام ہوا ہے؟ میں نے اس کو یہ الہام سنایا جس کو میں کئی دفعہ اپنے مخلصوں کو سنا چکا تھا اور وہ یہ ہے کہ بکرو ٹیب جس کے یہ معنی ان کے آگے اور نیز ہر ایک کے آگے میں نے ظاہر کیے کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ وہ دو عورتیں میرے نکاح میں لائے گا۔ ایک بکر ہوگی اور دوسری بیوہ۔ چنانچہ یہ الہام جو بکر کے متعلق تھا پورا ہو گیا اور اس وقت بفضلہ تعالیٰ چار پسر اس بیوی سے موجود ہیں اور بیوہ کے الہام کی انتظار ہے۔“

(تریاق القلوب صفحہ 73 منورجہ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 201 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 847 پر)

پیش گوئی بتا رہی ہے کہ مرزا قادیانی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی اور اس سے وعدہ کیا گیا کہ ”اللہ تعالیٰ دو عورتیں تیرے نکاح میں لائے گا، ایک کنواری اور دوسری بیوہ۔“ بقول مرزا قادیانی کنواری کا الہام پورا ہو گیا۔ بیوہ کے نکاح کا انتظار ہے۔ لیکن مرزا قادیانی کا تاحیات کسی بیوہ سے نکاح نہیں ہوا اور وہ اس کی حسرت لیے دنیا سے کوچ کر گیا۔ یہ پیش گوئی ایک گپ اور جھوٹ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔

قادیانی تنخواہ یافتہ مبلغین نے مرزا قادیانی کے اس ناکام الہام سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی غلط تاویلات کرنا شروع کر دیں۔ قادیانی مناظر جلال الدین شمس لکھتا ہے:

(326) ”یہ الہام الہی اپنے دونوں پہلوؤں سے حضرت ام المومنین کی ذات میں ہی پورا

ہوا ہے، جو بکر یعنی کنواری آئیں اور شیب یعنی بیوہ رہ گئیں۔“

(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات طبع چہارم صفحہ 31 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 848 پر)

اسے کہتے ہیں ”شاہ سے زیادہ شاہ کا وقادار“! جلال الدین شمس کہتا ہے کہ یہ الہام ایک ہی خاتون (نصرت جہاں) کے بارے میں ہے۔ جب وہ مرزا قادیانی کے نکاح میں آئی تو کنواری تھی اور جب مرزا قادیانی مر گیا تو بیوہ ہو گئی۔ اس کے برعکس مرزا قادیانی کا کہنا ہے کہ کنواری نکاح میں آ گئی ہے جبکہ بیوہ کے الہام کی انتظار ہے۔ یعنی بیوہ عورت سے شادی کا منتظر ہوں کہ کب وہ پیش گوئی پوری ہو؟ مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ الہام پورا نہیں ہوا جبکہ تنخواہ یافتہ ناخلف مرید کہہ رہا ہے کہ حضرت آپ بکواس کر رہے ہیں، الہام پورا ہو چکا ہے۔ حالانکہ مرزا قادیانی کا کہنا ہے:

(327) ”ملہم سے زیادہ کوئی الہام کے معنی نہیں سمجھ سکتا اور نہ کسی کا حق ہے جو اس کے مخالف کہے۔“

(حقیقت الوحی [تمہ] صفحہ 7 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 438 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 849 پر)

جامعہ عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد (دکن) کے پروفیسر جناب محمد الیاس برنی اس قادیانی تادیل پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

□ ”یہ تادیل قادیانی تادیلات کا اچھا نمونہ ہے یعنی مرزا قادیانی کی بیوی بیوہ ہو گئیں تو گویا مرزا قادیانی کا بیوہ سے نکاح ہو گیا اور اس طرح پیش گوئی پوری ہو گئی۔ مرزا قادیانی کی اکثر پیش گوئیاں اس انداز سے پوری ہوئیں اور اس طرح کی تادیلات قادیانی جماعت کا ایمانی سرمایہ ہیں۔“ (قادیانی مذہب کا علمی محاسبہ صفحہ 485)

حضرت مولانا لال حسین اختر اپنے شہرہ آفاق مضمون ”بکرو شیب، مرزا قادیانی کی ایک پیشین گوئی“ میں لکھتے ہیں:

”قارئین کرام! پھر ایک دفعہ مرزا قادیانی کے ”الہام“ اور اس کی تشریح توضیح کو

پڑھ لیجیے اور ساتھ ہی ”تذکرہ“ کے مرتب کی وجل آمیز عبارت پر غور کیجیے کہ کس قدر دھوکا اور فریب دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ واللہ میں تو مرزا کی مبلغین کی ایسی مکروہ چالبازیاں دیکھنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ ان کے قلوب میں نہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، نہ ہی ان لوگوں کو شرم و حیا آتی ہے۔

مرزا قادیانی تو لکھتے ہیں:

”خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ وہ دو عورتیں میرے نکاح میں لائے گا۔ ایک کنواری ہوگی اور دوسری بیوہ۔“

مرزا قادیانی کی اس تصریح کے خلاف مرزا کے چیلے لکھتے ہیں کہ ایک ہی نکاح سے ”الہام“ پورا ہو گیا۔ یعنی نصرت جہاں بیگم (مرزا محمود احمد کی والدہ) کا کنواری ہونے کی حالت میں مرزا قادیانی سے نکاح ہوا اور مرزا کی وفات کے بعد نصرت جہاں بیگم بیوہ رہ گئیں۔

مرزا یوں! ”تریاق القلوب“ صفحہ 34 (مندرجہ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 201) اور ”ضمیمہ انجام آقہم“ صفحہ 14 (مندرجہ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 298) پر درج کردہ اپنے ”مسح موعود“ کی عبارت پر دھو تو تم پر بے روشن کی طرح عیاں ہو جائے گا کہ مرزا قادیانی یہ نہیں لکھتے کہ میری نکاح میں آنے والی کنواری بیوی، بیوہ رہ جائے گی بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دو عورتیں میرے نکاح میں لائے گا۔ ایک کنواری ہوگی اور دوسری بیوہ۔ پس تم بتاؤ کہ کس بیوہ عورت سے مرزا جی کا نکاح ہوا؟ جب کسی بیوہ سے مرزا قادیانی کا نکاح نہیں ہوا اور یقیناً نہیں ہوا تو تمہیں مرزا کو کاذب اور مفتری علی اللہ ماننے میں کون سا امر مان ہے؟ کسی بیوہ عورت سے نکاح نہ ہونے کے باعث مرزا کا شیب (نکاح بیوہ) کا ”الہام“ صریح جھوٹ اور کھلا ہوا افتراء ہوا۔ پس مرزا قادیانی کا کاذب ثابت ہوا کیونکہ بقول مرزا قادیانی:

(328) ”خدا تعالیٰ صاف فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یھدی من ہو مسرف کذاب سوچ کر دیکھو کہ اس کے یہی معنی ہیں، جو شخص اپنے دعویٰ میں کاذب ہو، اس کی پیش گوئی ہرگز پوری نہیں ہوتی۔“

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ 322، مندرجہ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 522، 523 از مرزا قادیانی)

# آٹھویں پیش گوئی

## چاند و سورج گرہن

آنجنہانی مرزا غلام احمد قادیانی عجیب و غریب نفسیات کا مالک تھا۔ ذخیرہ احادیث میں سے ضعیف سے ضعیف، من گھڑت اور موضوع روایت بھی اگر اس کے کسی دعویٰ یا موقف کو تقویت پہنچاتی تو وہ نہ صرف اسے قبول کر لیتا بلکہ اپنے موقف کی حمایت میں غوغا آرائی کا اس قدر طوفان برپا کر دیتا کہ اس حماقت پر صداقت کا گمان ہونے لگتا۔ اس کے برعکس اگر مرزا قادیانی کے کسی موقف کے رد میں صحیح ترین اور متفقہ علیہ احادیث بھی موجود ہوتیں تو مرزا قادیانی نہ صرف انہیں ماننے سے انکاری ہو جاتا بلکہ علی الاعلان کہتا کہ جو حدیثیں میری وحی کے مخالف ہیں، وہ ہم ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں (نعوذ باللہ)! چنانچہ رمضان المبارک میں چاند گرہن (خسوف) اور سورج گرہن (کسوف) کی لغو اور موضوع روایت اس کی روشن مثال ہے۔

سچے مہدی کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مل کر دجال کو قتل کریں گے اور پوری دنیا سے یہود و نصاریٰ کا صفایا کر دیں گے۔ مرزا قادیانی نے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا مگر اندر سے ڈرتا بھی رہا کہ اگر انگریز نے جہاد کے بارے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا؟ لہذا وہ اس سلسلہ میں مختلف تاویلات کرتا رہا۔ کبھی کہا:

(329) ”محققین کے نزدیک مہدی کا آنا کوئی یقینی امر نہیں ہے۔“

(ازالہ اوہام صفحہ 457 مندرجہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 344 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 852 پر)

کبھی کہا:

(330) ”پہلے بھی کئی مہدی آئے اور ممکن ہے کہ آئندہ بھی آویں۔“

(ازالہ اوہام صفحہ 519 مندرجہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 379 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 853 پر)

کبھی کہا:

(331) ”میرا عقیدہ اور میری جماعت کا عقیدہ ہے کہ اس قسم کی تمام حدیثیں جو مہدی کے آنے کے بارے میں ہیں، ہرگز قابل وثوق اور قابل اعتبار نہیں ہیں۔“

(حقیقۃ المہدی صفحہ 3 روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 429، 430 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 855، 854 پر)

مارچ 1894ء میں جب چاند گرہن اور سورج گرہن کا اجتماع رمضان المبارک میں ہوا تو مرزا قادیانی کی رگ خود غرضی پھر پھڑکی اور اس نے ایک غیر مستند اور انتہائی ناقابل اعتبار قول کا سہارا لے کر گوبلز برانڈ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ میں ہی مہدی ہوں اور رمضان میں چاند اور سورج گرہن میری ہی مہدویت کا نشان ہے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے:

(332) ”میرے پاس خاص خدا کی طرف سے گواہی ہے..... مہدی معبود کے لیے قرآن

شریف اور حدیث دارقطنی میں بطور نشان مندرج تھا۔“

(تحفہ گولڈویہ ضمیمہ صفحہ 27 مندرجہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 63 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 856 پر)

مرزا قادیانی نے حسب روایت اپنی خود غرضی کے تحت نہایت بے باکی سے قرآن پاک پر جھوٹ بولا ہے۔ کیا کوئی قادیانی بتا سکتا ہے کہ قرآن مجید کی کونسی آیت، مرزا قادیانی کے دعویٰ مہدویت کا نشان ہے؟

دارقطنی کی رمضان المبارک میں خسوف و کسوف کی وہ روایت جس سے مرزا قادیانی نے استدلال کر کے اپنے دعویٰ مہدویت کی تائید میں پیش کیا، مندرجہ ذیل ہے:

(333) ”عن عمرو بن شمر عن جابر عن محمد بن علی قال ان لمہدینا آیتین

لم تکونا منذ خلق اللہ السموات والارض تنکسف القمر لاول لیلۃ من رمضان و

تنکسف الشمس فی النصف منه ولم تکونا منذ خلق اللہ السموات والارض۔“

(سنن دارقطنی از امام علی بن عمر الدارقطنی جلد اول صفحہ 65، بیروت)

(عکس صفحہ نمبر 857 پر)

(مفرد الفاظ کا ترجمہ) ”محمد بن علی کہتے ہیں، ان (بیشک) لمہدینا (ہمارے مہدی کے لیے) آیتین (دو نشانیاں ہیں) لم تکونا (نہیں ہوئیں ظاہر) مند (جب سے) خلق السموات والارض (تخلیق ہوئی آسمان و زمین کی) تنکسف القمر (چاند گرہن ہوگا) لاول لیلة (پہلی رات) من رمضان (رمضان کی) و (اور) تنکسف الشمس (سورج گرہن ہوگا) فی النصف منه (اس رمضان کے نصف میں) لم تکونا (نہیں ہوئی ظاہر) مند (جب سے) خلق اللہ السموات والارض (پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو)“

اب آئیے مفرد الفاظ کے ترجمہ کی مدد سے پوری روایت کا ترجمہ کرتے ہیں۔

”بیشک ہمارے مہدی کی (کے لیے) دو نشانیاں ہیں، نہیں ہوئیں وہ (نشانیاں) جب سے تخلیق ہوئی آسمان و زمین کی۔ چاند گرہن ہوگا رمضان کی پہلی رات اور سورج گرہن ہوگا اس (رمضان) کے نصف میں، نہیں ہوئی (ظاہر) وہ نشانیاں جب سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو۔“

قارئین! دارقطنی کی روایت کے مفرد الفاظ کا ترجمہ اور پھر روایت کے مفرد الفاظ کی مدد سے پوری روایت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے کیے ہوئے اس ترجمہ کے ساتھ عربی جاننے والا کوئی شخص قطعاً اختلاف نہیں کر سکتا البتہ اس روایت کا جو ترجمہ مرزا قادیانی نے کیا ہے، وہ ملاحظہ فرمائیں اور ان کی دیانت پر اُسے داد دیں۔

(334) (ترجمہ بقلم مرزا قادیانی) ”یعنی ہمارے مہدی کی تائید اور تصدیق کے لیے دو نشان مقرر ہیں اور جب سے کہ زمین و آسمان پیدا کیے گئے وہ دو نشان کسی مدعی کے وقت ظہور میں نہیں آئے اور وہ یہ ہیں کہ مہدی کے ادعا کے وقت میں چاند کو اس پہلی رات میں گرہن ہوگا جو اس کے خسوف کی تین راتوں میں سے پہلی رات ہے یعنی تیرھویں رات اور سورج کو اس کے گرہن کے دنوں میں سے اس دن گرہن ہوگا جو درمیان کا دن ہے یعنی اٹھائیس تاریخ کو۔ اور جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے کسی مدعی کے لیے یہ اتفاق نہیں ہوا کہ اُس کے دعویٰ کے وقت میں خسوف کسوف رمضان میں ان تاریخوں میں ہوا ہو۔“

(انجام آتقم ضمیرہ صفحہ 46 مندرجہ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 330 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 858 پر)

قارئین! مرزا قادیانی کے ترجمہ کو آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ کیا ہم قادیانی جماعت کے پڑھے لکھے مربی حضرات سے پوچھ سکتے ہیں کہ خط کشیدہ الفاظ ”کسی مدعی کے وقت، مہدی کے ادعا کے وقت، جو اس کے خسوف کی تین راتوں میں سے پہلی رات ہے یعنی تیرہویں رات، اور سورج کو اس کے گرہن کے دنوں میں سے اس دن گرہن ہوگا جو درمیان کا دن ہے یعنی اٹھائیس تاریخ کو“، روایت دارقطنی کے کن الفاظ کا ترجمہ ہے؟

قارئین! دارقطنی کی روایت کا جو ہم نے ترجمہ کیا ہے، اس کو اور مرزا قادیانی کے کیے ہوئے ترجمہ کو پرکھیں، کس کا ترجمہ درست ہے اور کس کا غلط؟ اور قابل غور بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنے پورے علم اور تخیلاتی قوت صرف کر کے یہ ترجمہ کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس ترجمہ میں کہیں روایت قطنی کا مفہوم باقی رہ سکتا ہے؟ لا اول لیلة من رمضان کا ترجمہ تیرہویں رات کرنا اور فی النصف منہ کا ترجمہ اٹھائیس تاریخ کرنا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ظلم یہ کہ اس واضح بددیانتی کے باوجود وہ اپنے دعویٰ اور اس پر غلط رنگ میں پیش کی جانے والی دلیل اور تاویل کے نہ ماننے والے کو ”ظالم، ریکس الدجال کے القابات اور ہزار ہزار لعنت!“ کا تحفہ پیش کرتا ہے۔ (انجام آتھم ضمیرہ صفحہ 46 مندرجہ روحانی خزائن 11 صفحہ 330 از مرزا قادیانی)

اس مذکورہ روایت عبارت کے حوالہ سے ذیل میں چند اہم اور قابل غور نکات پیش خدمت ہیں۔ قارئین کرام سے گزارش ہے کہ ان نکات کو خصوصی توجہ سے ملاحظہ فرمائیں:-

1- سب سے اہم بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی اور اس کے پیروکار جس روایت کو حدیث نبوی ﷺ بنا کر پیش کرتے ہیں، وہ حدیث نبوی ﷺ نہیں۔ اسے حدیث نبوی کہنا سراسر جھوٹ اور کذب ہے۔ نبی کریم ﷺ پر بہتان عظیم اور صریح دھوکہ ہے۔ یہ روایت نہ تو حدیث رسول ﷺ ہے اور نہ کسی صحابیؓ ہی کا قول ہے بلکہ یہ قول محمد بن علی کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔

2- اس قول کے بیان کرنے والے محمد بن علی ہیں۔ اس نام کے بہت سے راوی ہیں۔ پھر یہ کیسے معلوم کیا جاسکتا ہے کہ یہ کون سے محمد بن علی ہیں؟ لیکن مرزا قادیانی اور ان کی جماعت کا اصرار ہے کہ یہ محمد بن علی، جناب امام محمد باقر ہیں جو شہید کربلا حضرت امام حسینؑ کے پوتے ہیں۔

3- حضرت امام محمد باقر کی طرف منسوب یہ قول کئی وجوہات کی بنا پر ناقابل اعتبار اور ناقابل حجت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی ساقط اور مردود ہے کیونکہ اس روایت کا



پہلا راوی عمرو بن شمر بڑا جھوٹا آدمی تھا۔ وہ اپنی طرف سے جھوٹی روایتیں بنا بنا کر بزرگوں کی طرف منسوب کر دیتا تھا۔ دارقطنی اور نسائی نے اس کو متروک الحدیث کہا ہے۔ ابن حبان نے اس کی نسبت کہا کہ وہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتا تھا اور موضوع روایات بیان کیا کرتا تھا۔ امام بخاری نے فرمایا کہ عمرو بن شمر منکر الحدیث ہے۔

(میزان الاعتدال جلد 2 صفحہ 262)

4- اس روایت کا دوسرا راوی جابر جعفی ہے۔ یہ شخص بھی بڑا دجال تھا۔ حضرت امام ابوحنیفہ نے فرمایا کہ میں نے جابر جعفی سے بڑھ کر کسی کو جھوٹا نہیں دیکھا۔ نسائی نے کہا کہ وہ متروک الحدیث ہے۔ لیث بن ابوسلم نے کہا کہ وہ کذاب تھا۔ سعید بن جبر نے کہا کہ وہ جھوٹا ہے۔ ابن حبان نے کہا کہ وہ سبائی یعنی عبداللہ بن سبا یہودی کا پیروکار تھا۔ (تہذیب التہذیب جلد 2 صفحہ 46 تا 50)

اس ضمن میں مولانا رفیق دلاوری لکھتے ہیں:

”دارقطنی کی یہ روایت انتہا درجہ کی زل اور بے ہودہ ہے اور اس سے استدلال کرنا اسی شخص کا کام ہے جو علم حدیث سے بے بہرہ ہو یا قادیاں کے مسیح موعود کا سا مطلب پرست ہو۔ چونکہ مرزا قادیانی اس روایت کو کھینچ مان کر مفید مطلب بنا سکتے تھے، اس لیے یہ روایت ان کے نزدیک نہایت صحیح تھی، چنانچہ ضمیمہ، انجام آتھم (صفحہ 49) میں لکھا کہ ”پھر ایک اور اعتراض سادہ لوح عبدالحق کا یہ ہے کہ محدثین نے دارقطنی کی اس حدیث کے بعض راویوں پر جرح کی ہے، اس لیے یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ لیکن اس احمق کو سمجھنا چاہیے کہ حدیث نے اپنی سچائی کو آپ ظاہر کر دیا ہے، کیونکہ اس کی پیش گوئی پوری ہو گئی، پس اس صورت میں جرح سے حدیث کا کچھ نقصان نہیں ہوا، بلکہ جنہوں نے جرح کیا ہے ان کی حماقت ظاہر ہوئی۔ فرض کیا کہ اس حدیث میں کوئی راوی کذاب ہے، مفتری ہے، مگر جبکہ یہ پیشین گوئی پوری ہو گئی تو حدیث کی صحت پر شہادت پیدا ہو گئی۔“

اس کے بعد مرزا قادیانی نے ضمیمہ ”انجام آتھم“ کے صفحہ 50 پر مولوی عبدالحق صاحب غزنوی مرحوم کو خطاب کرتے ہوئے لکھا: ”اے بدذات، خبیث، دشمن اللہ اور رسول کے تو نے یہ یہودیانہ تحریف اسی لیے کی کہ تا یہ عظیم الشان معجزہ پیغمبر خدا ﷺ کا دنیا پر مخفی رہے۔ جابر اور عمرو بن شمر کا جھوٹ تو ہرگز ثابت نہیں ہوا، مگر تیرا جھوٹ اے نابکار پکڑا

گیا۔ جابر اور عمرو کا سچا ہونا کسوف خسوف سے ثابت ہو گیا اور روایت نے روایت کے ضعف کو دور کر دیا۔ اب جو شخص ان بزرگوں (جابر اور عمرو بن شمر) کو جھوٹا کہے وہ بد ذات خود جھوٹا اور بے ایمان ہے۔“

مرزا قادیانی نے کتاب ”حقیقۃ الوحی“ صفحہ 197 میں لکھا، جبکہ یہ پیش گوئی اپنے معنوں کے رو سے کامل طور پر پوری ہو چکی تو اس حدیث سے بڑھ کر اور کون سی حدیث صحیح ہوگی جس کے سر پر محدثین کی تنقید کا بھی احسان نہیں، بلکہ اس نے اپنی صحت کو آپ ظاہر کر کے دکھلا دیا کہ وہ صحت کے اعلیٰ درجہ پر ہے۔ مرزا قادیانی نے کتاب ”تحفہ گولڑویہ“ صفحہ 45 میں اعلان کیا تھا کہ جو کوئی اس حدیث کو موضوع ثابت کرے گا، اس کو سو روپیہ انعام دیا جائے گا۔ اس کے جواب میں علمائے اسلام نے عمرو بن شمر اور جابر جھٹی کی از سر نو قلعی کھول کر قادیانی صاحب کی پیش کردہ روایت کی حقیقت ظاہر کر دی، مگر مرزا قادیانی نے جیسا کہ ان کا معمول تھا کہ انعام مشتہر کرتے تھے، لیکن اس کا ایفا نہیں کرتے تھے، کسی کو پھوٹی کوڑی بھی انعام نہ دی۔“ (رئیس قادیان از مولانا رفیق مولاوری صفحہ 634)

5- فرض کیجیے اگر یہ روایت یا قول صحیح بھی ہو تو بھی یہ مرزا قادیانی کے حق میں نہیں جاتا۔ کیونکہ احادیث مبارکہ میں جس قدر علامتیں حضرت امام مہدیؑ کی بیان ہوئی ہیں، ان میں کوئی علامت بھی مرزا قادیانی میں نہیں پائی جاتی۔ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ دنیا فنا نہ ہوگی جب تک کہ ایک شخص میرے اہل بیت سے عرب کا بادشاہ نہ ہو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا یعنی محمد۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس کے والد کا نام میرے والد محترم کے نام کے مطابق ہوگا یعنی عبداللہ۔ مگر سب جانتے ہیں کہ مرزا قادیانی کا نام غلام احمد قادیانی تھا۔ اس کے باپ کا نام غلام مرتضیٰ تھا۔ مرزا قادیانی قوم کا سید نہ تھا بلکہ مغل قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ احادیث میں حضرت امام مہدی کی نسبت ”من اہل بیٹی من عترتی من ولد فاطمہ“ کے الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ چونکہ سچے امام مہدی حضرت فاطمہؑ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اس بنا پر شہید کربلا حضرت امام حسینؑ کے پوتے امام محمد باقرؑ نے فرمایا کہ ہمارے مہدی کی دو نشانیاں ہیں اور مرزا قادیانی فاطمی نہیں تھا چنانچہ مرزا قادیانی نے خود لکھا:

(335) ”میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں وہ مہدی ہوں جو مصداق ”من ولد فاطمہ و من عترتی“ وغیرہ ہے۔“

(براہین احمدیہ | ضمیمہ | حصہ پنجم صفحہ 186 مندرجہ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 356 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 859 پر)

6- اس پیش گوئی میں لفظ ”آیتیں“ استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ آیت کی جمع ہے۔ آیت اس کھلی نشانی کو کہتے ہیں کہ جس کی مانند اس کے ظہور سے پہلے اس کی مثل کوئی چیز واقع نہ ہوئی ہو اور وہ بے نظیر ہو۔ سچا مہدی تب ہی پہچانا جائے گا۔ اگر روزمرہ معمولات کے مطابق کچھ چیزیں ظہور میں آ جائیں تو پھر سچے مہدی اور جھوٹے مہدی میں تمیز کرنی مشکل ہو جائے گی۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ 13, 14, 15 تاریخیں خسوف (چاند گرہن) کے لیے اور 27, 28, 29 خسوف (سورج گرہن) کے لیے مقرر ہیں اور یہ نظام کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ جبکہ مرزا قادیانی کے زمانہ میں بھی حسب سابق ایسا ہی ہوا۔ اس سے ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی سچا مہدی نہ تھا۔ اگر وہ سچا مہدی ہوتا تو اس کے لیے کوئی خاص نشان ظاہر ہوتا جو اس کو دوسرے جھوٹے مہدیوں سے ممتاز کرتا اور وہ فخر سے کہہ سکتا کہ مجھے ایسا نشان ملا ہے جو کسی کو نہیں ملا۔ لیکن 1894ء میں جب رمضان المبارک میں چاند گرہن اور سورج گرہن لگا اور مرزا قادیانی نے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تو اس وقت یہ گرہن ہندوستان کے علاوہ دنیا بھر میں ہوا۔ اس وقت امریکہ میں مسٹر ڈوئی نے اپنے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہوا تھا اور سوڈان میں محمد احمد نے اپنے مہدی ہونے کا اور وہ دونوں زندہ موجود تھے۔

7- اس پیش گوئی میں دو دفعہ یہ جملہ بطور خاص آیا ہے: ”لم تکونا منذ خلق اللہ السموات والارض“ مطلب اس کا یہ ہے کہ مہدی کی دو نشانیاں ایسی ہیں کہ جب سے زمین و آسمان بنے ہیں، ان دونوں نشانیوں کا ظہور آج تک ہوا ہی نہیں۔ یہ قول اسی صورت میں صحیح ہو سکتا ہے کہ جب اسے ظاہری الفاظ کے مطابق رکھا جائے۔ یعنی رمضان المبارک کی پہلی تاریخ اور پندرہ تاریخ مراد لی جائے کیونکہ جب سے زمین و آسمان بنے ہیں، ان تاریخوں میں کبھی چاند اور سورج کا

گرہن نہیں لگا۔ جبکہ مرزا قادیانی کے دور میں 13 رمضان المبارک کو چاند گرہن اور 28 رمضان المبارک کو سورج گرہن لگا۔ اور ایسا مرزا قادیانی سے پہلے ہزاروں مرتبہ ہو چکا ہے۔

8- اس قول میں مہدی کے دو نشانوں کے بے نظیر ہونے کے بعد پہلی علامت یہ بیان کی گئی کہ ”تنكسف القمر لاول ليلة من رمضان“ یعنی چاند گرہن رمضان المبارک کی پہلی رات میں ہوگا اور دوسری علامت یہ بیان کی گئی کہ: ”وتنكسف الشمس في النصف منه“ یعنی سورج گرہن رمضان کی درمیانی تاریخ کو ہوگا۔ اس جملہ میں لفظ نصف اور منہ پر غور فرمائیں۔ منہ میں ضمیر مذکر ہے اور اس کا مرجع رمضان ہے۔ نصف سے مراد رمضان المبارک کی 14 یا 15 تاریخ ہے۔ سورج گرہن کا دوسرا نشان بھی بے نظیر، بے مثل اور بالکل منفرد و انوکھا ہوگا۔ جبکہ مرزا قادیانی کے وقت میں چاند گرہن رمضان کی 13 تاریخ کو جبکہ سورج گرہن رمضان کی 28 تاریخ کو لگا تھا۔ چنانچہ مرزا قادیانی خود لکھتا ہے: ”چاند گرہن 13 رمضان کو ہوا اور سورج گرہن 28 رمضان کو“ (انجام آتھم ضمیرہ صفحہ 50 مندرجہ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 334 از مرزا قادیانی) لیکن براہ خود غرضی کا کہ مرزا قادیانی کی سلطانی قلم نے ان تاریخوں کا ترجمہ اپنے مفاد کے تحت کر کے اپنے لیے جگ ہنسائی کا سامان پیدا کر لیا۔ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب ”حقیقۃ الوحی“ میں اس قول کا ترجمہ یہ لکھا:

(336) ”مہدی موعود کے زمانہ میں رمضان کے مہینہ میں چاند گرہن اس کی اول رات میں ہوگا یعنی تیرہویں تاریخ میں اور سورج کا گرہن اس کے دنوں میں سے بیچ کے دنوں میں ہوگا یعنی اسی رمضان کے مہینہ کی اٹھائیسویں تاریخ کو۔“

(حقیقۃ الوحی صفحہ 194 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 202 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 860 پر)

یعنی چاند کی اول تاریخ سے مراد تیرہویں تاریخ اور رمضان کے نصف سے مراد اٹھائیس تاریخ۔ اب ان عقل کے اندھوں کو کون سمجھائے کہ تیرہ رمضان کو کوئی اول

رمضان نہیں کہتا اور نہ اٹھائیں تاریخ کو کوئی رمضان کا نصف کہتا ہے۔ یہ ہیں قادیانی تاویلات جس پر پوری قادیانی عمارت کھڑی ہے۔ پھر اس کتاب میں مرزا قادیانی نے مزید لکھا:

(337) ”عرب کے محاورہ میں پہلی رات کا چاند قمر کہی نہیں کہلاتا بلکہ تین دن تک اس کا نام ہلال ہوتا ہے اور بعض کے نزدیک سات دن کا ہلال کہلاتا ہے۔“

(حقیقۃ الوحی صفحہ 196 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 203 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 861 پر)

مزید اس ضمن میں حضرت مولانا رفیق دلاوری لکھتے ہیں:

”کیونکہ عربی میں چاند کو قمر کہتے ہیں اور وہ مختلف حالتوں میں ہلال یا بدر وغیرہ کہلاتا ہے، اس لیے ہلال اور بدر وغیرہ سب کو قمر کہہ سکتے ہیں، کیونکہ عربی میں چاند کا یہی اصلی نام ہے، چنانچہ رب جلیل نے فرمایا: هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا (وہ ذات پاک جس نے سورج کو چمک دار اور چاند کو نور بنایا) اور فرمایا: والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم (ہم نے چاند کے لیے منزلیں مقرر کی ہیں ان کے بموجب ترقی کرتا ہے پھر رو بہ زوال ہوتا ہے، یہاں تک کہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی مانند رہ جاتا ہے) اور قاموس اور اس کی شرح تاج العروس میں ہے: الهلال غوة القمر وہی اول لیلئہ (ہلال قمر کی پہلی رات کا نام ہے) اور تاج العروس اور لسان العرب میں ہے: یسمی القمر للیلین من اول شہر حلالا (مہینہ کی پہلی دو راتوں میں قمر کو ہلال کہتے ہیں) غرض چاند کی پہلی رات کو جس طرح ہلال کہتے ہیں، اسی طرح قمر بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ قمر سب تاریخوں کے لیے مشترک نام ہے۔ ہر رات کا چاند قمر کہلاتا ہے، خواہ وہ پہلی رات کا ہو یا چودھویں کا یا کسی اور تاریخ کا۔

پس مرزا قادیانی کا ضمیر ”انجام آتھم“ صفحہ 47 میں نہایت دیدہ دلیری سے یہ لکھنا کہ احمقوں نے یہ معنی کس لفظ سے سمجھ لیے، اے نادانوں، آنکھوں کے اندھو، مولویت کو بدنام کرنے والو، ذرا سوچو کہ حدیث میں قمر کا لفظ آیا ہے، اگر یہ مقصود ہوتا کہ پہلی رات میں چاند گرہن ہوگا تو حدیث میں قمر کا لفظ نہ آتا بلکہ ہلال کا لفظ آتا۔“ اس بات کی بین دلیل ہے کہ مرزا قادیانی کو نہ تو قرآن پر عبور تھا نہ لغت ہی سے مس تھا، لیکن انھیں باایں ہمہ جہل و نادانی

علمائے امت کے خلاف دریدہ دہنی کرتے ہوئے انھیں شرم نہیں آتی۔ مرزا قادیانی نے ضمیرہ ”انجام آتھم“ میں متذکرہ صدر الفاظ درج کرنے کے بعد از سر نو یوں گل افشانی کی: ”سواب سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ اس علمیت کے ساتھ مولوی کہلاتے ہیں۔ اب تک یہ بھی خبر نہیں کہ پہلی رات کے چاند کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟“ اور ضمیرہ ”انجام آتھم“ صفحہ 47 میں یہ بھی لکھا کہ ”اگر مہینہ کی پہلی رات مراد ہوتی تو روایت یوں ہونی چاہیے تھی: ینکسف الہلال لاول لیلة“ لیکن بے چارے مرزے کی بلا جانے کہ عربی محاورہ تنکسف القمر ہی بولا جاتا ہے ینکسف الہلال خلاف محاورہ اور غلط ہے۔

یاد رہے کہ جب سے آفتاب اور ماہتاب پیدا ہوئے، کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ چاند کو رمضان کی پہلی اور سورج کو رمضان کی چودھویں یا پندرہویں تاریخ گہن لگا ہو، بلکہ چاند کو ہمیشہ قمری مہینہ کی تیرہویں، چودھویں یا پندرہویں رات اور سورج کو قمری مہینہ کی دو تاریخوں اٹھائیسویں یا ائیسویں تاریخ میں گہن لگتا ہے، لیکن روایت مسطورہ کے بموجب حضرت مہدی علیہ السلام کے زمن سعادت میں اسی طرح قاعدہ نجوم کے خلاف چاند کو رمضان کی درمیانی تاریخ میں گہن لگے گا جس طرح نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی وفات کے دن 10 تاریخ کو لگا تھا، بعض علما نے لکھا ہے کہ آفتاب کو جو خلاف معمول 10 تاریخ کو گہن لگا تو اس سے خدائے قادر و توانا کو اہل نجوم کے اس قاعدہ کا ابطال منظور تھا، جن کے نزدیک کسوف 28 یا 29 کے سوا کسی اور تاریخ میں ہرگز نہیں ہو سکتا۔ (رئیس قادیان از مولانا محمد مفتی دلاوری)

اس ضمن میں معروف عالم دین حضرت مفتی ابولبابہ شاہ منصور صاحب لکھتے ہیں:

□ ”علم الفلکیات کی رو سے یہ ایک طے شدہ اور مسلمہ قانون ہے کہ چاند گرہن ہمیشہ قمری مہینے کے وسط اور سورج گرہن ہمیشہ مہینے کے آخر میں ہی ممکن ہے۔ یہ مسئلہ فلکیات کا بالکل ابتدائی اور عام سا مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ اس فن کے مبتدی بھی جانتے اور باآسانی سمجھا سکتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں چاند گرہن ہمیشہ اسلامی تاریخ کے حساب سے 13، 14، 15 اور سورج گرہن ہمیشہ 27، 28، 2 کو ہوگا۔ اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے فلکی نظام ہی کچھ ایسا رکھا ہے۔ البتہ حضرت مہدی کے ہاتھ پر جس سال کے محرم میں عاشورہ کی

رات کو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت جہاد و خلافت ہوگی اور اس محرم سے پہلے ذی الحجہ میں منیٰ میں سخت خوزیزی ہوگی، اس سال رمضان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے چاند گرہن 13، 14، 15 رمضان کے بجائے یکم رمضان المبارک کی رات کو ہوگا اور سورج گرہن 27، 28، 29 رمضان کے بجائے 15 رمضان المبارک کو ہوگا۔ یہ دونوں باتیں ناممکن ہیں اور نہ تخلیق کائنات سے آج تک ہوئی ہیں۔ لیکن قانون سے ہٹ کر پیش آنے والی چیزوں کی علامت بھی عام قوانین سے ہٹ کر ہوتی ہے۔“

(ہفت روزہ ضرب مومن کراچی 22 تا 28 اگست 2008ء جلد نمبر 12، شمارہ 36)

مرزا قادیانی ”حقیقۃ الوحی“ میں لکھتا ہے:

(338) ”ہمارے مخالف سراسر تعصب سے یہ اعتراض کرتے ہیں۔ اول یہ کہ حدیث کے لفظ یہ ہیں چاند گرہن پہلی رات میں ہوگا اور سورج گرہن بیچ کے دن میں مگر ایسا نہیں ہوا یعنی ان کے زعم کے موافق ”چاند گرہن شب ہلال کو ہونا چاہیے تھا جو قمری مہینہ کی پہلی رات ہے اور سورج گرہن قمری مہینہ کے پندرہویں دن کو ہونا چاہیے تھا جو مہینہ کا بیچواں دن ہے۔“ مگر اس خیال میں سراسر ان لوگوں کی نا سمجھی ہے کیونکہ دنیا جب سے پیدا ہوئی ہے چاند گرہن کے لیے تین راتیں خدا تعالیٰ کے قانون قدرت میں مقرر ہیں یعنی تیرہویں چودھویں پندرہویں اور چاند گرہن کی پہلی رات جو خدا تعالیٰ کے قانون قدرت کے مطابق ہے، وہ قمری مہینے کی تیرہویں رات ہے اور سورج کے گرہن کے لیے تین دن خدا کے قانون قدرت میں مقرر ہیں یعنی قمری مہینے کا ستائیسواں اٹھائیسواں اور اسیسواں دن۔ اور سورج کے تین دن گرہن میں سے قمری مہینہ کے رو سے اٹھائیسواں دن بیچ کا دن ہے۔ سوائی تاریخوں میں عین حدیث کے منشا کے موافق سورج اور چاند کا رمضان میں گرہن ہوا۔ یعنی چاند گرہن رمضان کی تیرہویں رات میں ہوا اور سورج گرہن اسی رمضان کے اٹھائیسویں دن ہوا۔“

(حقیقۃ الوحی صفحہ 195 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 203 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 862 پر)

لیکن مرزا قادیانی کا یہ ڈھکوسلہ بھی ناقابل التفات ہے، کیونکہ روایت کے الفاظ اس کو رد کرتے ہیں۔ اول تو تین دنوں میں سے درمیان کے دن کو نصف نہیں کہتے، بلکہ وسط

کہتے ہیں اور روایت میں ہے کہ سورج گہن اس کے نصف میں ہوگا۔ دوسرے سورج گہن کے وقت کی تشریح فی النصف منہ میں موجود ہے، کیونکہ اگر نصف سے وسط مراد لے کر کہیں کہ سورج گہن اپنے معمولی ایام کے وسط میں ہوگا تو لفظ منہ کا مرجع کوئی نہ رہے گا اور منہ کی ضمیر کا مرجع بجز رمضان کے اور کسی طرف نہیں ہو سکتا۔ پس اس کے معنی لازمی طور پر یہی ہوں گے کہ وسط رمضان میں سورج گہن ہوگا۔

چونکہ رمضان کی پہلی رات خسوف اور نصف رمضان کو خسوف ہوگا اور یہ دونوں واقعات عادت مستمرہ کے خلاف ہوں گے اس لیے ان کو آئین یعنی دو نشانیاں بتایا گیا اور ظاہر ہے کہ یہ نشان منجمین کے حساب کے سراسر خلاف اور ایسے بدیع ہیں کہ جن کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی، اسی بنا پر روایت میں مذکور ہے لم تکنوا منذ خلق السموات والارض یعنی جب سے زمین آسمان بنائے گئے یہ بدیع نشان یعنی پہلی تاریخ کو خسوف اور پندرہویں کو خسوف کبھی ظاہر نہیں ہوئے، البتہ مہدی علیہ السلام کے زمانہ میں گہن کا قاعدہ مستمرہ ٹوٹ جائے گا، لیکن قادیاں کے مسیح موعود صاحب اس بدیہی چیز کے منکر ہیں اور اپنی عقل کے ناخن لینے کی بجائے مقتضائے طبیعت کی بنا پر الٹا علمائے امت کو گالیاں دیتے ہیں، چنانچہ ان کی مزید گوہر افشانی ملاحظہ ہو۔ ارشاد ہوتا ہے: ”انصاف کرنا چاہیے کہ کس قوت اور چمک سے خسوف اور خسوف کی پیش گوئی پوری ہوئی اور ہمارے دعوے پر آسمان نے گواہی دی، مگر اس زمانہ کے ظالم مولوی اس سے بھی منکر ہیں۔ خاص کر رئیس الدجالین عبدالحق غزنوی اور اس کا تمام گروہ علیہم نعال لعن اللہ الف الف مرة (خدا کی لعنت کے دس لاکھ جوتے علماء پر پڑیں) اپنے ناپاک اشتہار میں نہایت اصرار سے کہتا ہے کہ یہ پیش گوئی بھی پوری نہیں ہوئی۔ اے پلید دجال پیش گوئی تو پوری ہو گئی، لیکن تعصب کے غبار نے تجھ کو اندھا کر دیا۔“ (ضمیمہ انجام آتھم صفحہ 46) اگلے صفحہ پر یوں گوہر افشانی کرتا ہے: ”اور یہ خیال کہ اس حدیث میں جو یہ فقرہ ہے کہ لم تکنوا منذ خلق السموات والارض اس سے سمجھا جاتا ہے کہ یہ خسوف و خسوف بطور خارق ہوگا۔ نہ ایسا خسوف خسوف جو منجمین کے نزدیک معلوم و معروف ہے۔ یہ وہم بھی اس بات پر قطعی دلیل ہے کہ یہ لوگ (علمائے ملت) علم عربی اور عالمانہ تدبیر سے بالکل بے نصیب اور بے بہرہ ہیں۔ یہودیوں کے لیے خدا نے اس گدھے کی مثال لکھی ہے، جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں، مگر یہ (معاذ اللہ) خالی گدھے ہیں۔ یہ اس شرف سے بھی محروم ہیں



جوان پر کوئی کتاب ہو۔“

اور آگے چل کر لکھتا ہے کہ ”خدا نے قدیم سے چاند گرہن کے لیے 13-14-15 اور سورج گرہن کے لیے 27-28-29 تاریخیں مقرر کر رکھی ہیں۔ سو پیش گوئی کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ نظام اس روز ٹوٹ جائے گا۔ جو شخص ایسا سمجھتا ہے وہ گدھا ہے، نہ انسان“ (ضمیمہ انجام آتھم صفحہ 47) لیکن جس صورت میں کہ 13-14-15 کو خسوف اور 27-28-29 کو کسوف ہر زمانہ میں ہوتے رہتے ہیں، اگر مہدی علیہ السلام کے زمن سعادت میں بھی انہی تاریخوں میں ہوں تو وہ کسی طرح نشان نہیں بن سکتے، کیونکہ وہ سچے مہدی اور جھوٹے مہدی میں فارق اور ماہہ الامتیاز نہ بن سکیں گے اور قادیانی صاحب نے خود تسلیم کیا ہے کہ میرے زمانہ میں ماہتاب کو تیرہویں رات اور آفتاب کو اٹھائیسویں تاریخ کو گہن لگا تھا، جو ہمیشہ کا معمول اور مروج ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ قادیانی صاحب سچے مہدی نہ تھے، اگر سچے مہدی ہوتے تو ان کے لیے کوئی ایسا مخصوص نشان ظاہر ہوتا جو انہیں جھوٹے مہدیوں سے ممتاز کر دیتا۔ اب مرزائی صاحبان انصاف سے بتائیں کہ اس لقب (گدھے) کا حقیقی مستحق کون ہے، جوان کے مقتدانے علمائے اسلام کے لیے تجویز کیا ہے؟“

(ریجن قادیان از مولانا رفیق دلاوری صفحہ 636 تا 399)

مرزا قادیانی بڑے دعویٰ سے لکھتا ہے:

(339) ”دوسرا نشان مہدی موعود کا یہ ہے کہ اس کے وقت میں ماہ رمضان میں خسوف کسوف ہوگا اور پہلے اس سے جیسا کہ منطوق حدیث صاف بتلا رہا ہے کبھی کسی رسول پانہی یا محدث کے وقت میں خسوف کسوف کا اجتماع رمضان میں نہیں ہوا اور جب سے کہ دنیا پیدا ہوئی ہے، کسی مدعی رسالت یا نبوت یا محدثیہ کے وقت میں کبھی چاند گرہن اور سورج گرہن اکٹھے نہیں ہوئے اور اگر کوئی کہے کہ اکٹھے ہوئے ہیں تو باریبوت اس کے ذمہ ہے۔“

(انوار الاسلام صفحہ 47 مندرجہ روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 48 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 863 پر)

(340) ”یہ کبھی نہیں ہوا اور ہرگز نہیں ہوا کہ بجز ہمارے اس زمانہ کے دنیا کی ابتدا سے آج تک کبھی چاند گرہن اور سورج گرہن رمضان کے مہینہ میں ایسے طور سے اکٹھے ہو گئے ہوں کہ

اس وقت کوئی مدعی رسالت یا نبوت یا محدثیت بھی موجود ہو۔“

(انوار الاسلام صفحہ 48 مندرجہ روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 50 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 864 پر)

(341) ”کسی مدعی رسالت یا نبوت کے وقت میں کبھی یہ دونوں گراہن جمع نہیں ہوئے۔“  
(حقیقۃ الوحی صفحہ 196 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 203 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 865 پر)

(342) ”چونکہ اس گراہن کے وقت میں مہدی معبود ہونے کا مدعی کوئی زمین پر بجز میرے نہیں تھا اور نہ کسی نے میری طرح اس گراہن کو اپنی مہدویت کا نشان قرار دے کر صدہا اشتہار اور رسالے اردو اور فارسی اور عربی میں دنیا میں شائع کیے، اس لیے یہ نشان آسمانی میرے لیے متعین ہوا۔“  
(حقیقۃ الوحی صفحہ 195 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 202 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 866 پر)

(343) ”جب ہندوستان میں یہ نشان ظاہر ہوا تو مکہ معظمہ کی ہر ایک گلی اور کوچہ میں اس کا تذکرہ تھا کہ مہدی موعود پیدا ہو گیا..... وہ سب خوشی سے اچھلنے لگے کہ اب اسلام کی ترقی کا وقت آ گیا اور مہدی پیدا ہو گیا۔“  
(تحفہ گولڑویہ صفحہ 68 مندرجہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 154 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 867 پر)

(344) ”سو پیشگوئی کا بھی مفہوم یہی ہے کہ یہ نشان کسی دوسرے مدعی کو نہیں دیا گیا خواہ صادق ہو یا کاذب۔ صرف مہدی موعود کو دیا گیا ہے۔ اگر یہ ظالم مولوی اس قسم کا خسوف کسوف کسی اور مدعی کے زمانہ میں پیش کر سکتے ہیں تو پیش کریں۔ اس سے بیشک میں جھوٹا ہو جاؤں گا۔“  
(انجام آتھم صفحہ 48 مندرجہ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 332 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 868 پر)

مرزا قادیانی کی مندرجہ بالا تحریروں سے یہ نتائج اخذ ہوتے ہیں:-

1- کسی مدعی نبوت و رسالت یا محدثیت کے وقت میں کبھی چاند گرہن اور سورج گرہن اکٹھے نہیں ہوئے۔

2- اس گرہن کے وقت مہدی ہونے کا مدعی صرف مرزا قادیانی تھا۔ اس کے علاوہ اس روئے زمین پر اور کوئی دوسرا شخص نہ تھا جس نے اس گرہن کو اپنی مہدویت کا نشان قرار دیا ہو۔

3- گرہن کا نشان کسی دوسرے مہدی کو خواہ وہ صادق ہو یا کاذب، نہیں دیا گیا۔ اگر کوئی شخص یہ بات ثابت کر دے کہ ایسا نشان (چاند گرہن + سورج گرہن) کسی دوسرے مدعی مہدی کے زمانہ میں پیش آیا تو بے شک میں جھوٹا ہو جاؤں گا۔

1- اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل نکات نہایت قابل توجہ اور اہم ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں: قارئین کرام! ایک دفعہ پھر یاد رکھیں کہ دارقطنی کا یہ قول اسی صورت میں صحیح ہو سکتا ہے کہ جب اسے ظاہری الفاظ کے مطابق رکھا جائے یعنی اول ”لیلة“ سے یکم رمضان اور ”نصف منہ“ سے پندرہ رمضان مراد لی جائے، کیونکہ جب سے آسمان و زمین بنے ہیں ان تاریخوں میں چاند اور سورج کو گرہن نہیں لگا۔ تیرہ رمضان کو چاند گرہن اور اٹھائیس رمضان کو سورج گرہن مرزا قادیانی سے قبل ہزاروں مرتبہ لگ چکا ہے، مرزا قادیانی سے قبل 45 سال کے عرصہ میں تین مرتبہ رمضان کی انہی تاریخوں میں گرہن لگ چکا ہے۔

2- حضرت سید عبدالحفیظ شاہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں:

”ڈاکٹر ڈیوڈ مکناٹن شمالی افریقہ سے تعلق رکھنے والے ایک مشہور و معروف عیسائی منجم ہیں جو کہ حکومت دہلی کے موسمیات کے شعبے سے منسلک ہیں۔ رمضان میں خسوف و کسوف کے اجتماع کے موضوع پر انہوں نے ایک تحقیقی مقالہ لکھا ہے۔ ان کی تحقیقات کا خلاصہ درج ذیل ہے۔

چاند گرہن

یہ اس وقت ہوتا ہے جب زمین، چاند اور سورج کے بیچ میں حائل ہو جاتی ہے۔

چاند کو گرہن صرف پورے چاند پر ہی لگ سکتا ہے۔  
سورج گرہن

سورج کو گرہن اس وقت لگتا ہے جب چاند، زمین اور سورج کے درمیان آ جائے اور یہ صرف اور صرف نئے چاند پر ہی ہو سکتا ہے۔ ان دونوں قسم کے گرہنوں کے لیے ضروری ہے تینوں اجسام ایک ہی سیدھ میں ہوں۔ چاند کا زمین کے گرد اپنا مدار ہے۔ اسی طرح زمین کا سورج کے گرد اپنا ایک الگ مدار ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر قمری ماہ کی پہلی اور 15 کو تینوں اس طرح ایک لائن میں ہوں کہ سورج اور چاند گرہن ہوں۔ البتہ سال میں کم از کم دو گرہن کے موسم ہوتے ہیں جن میں یہ تینوں اجسام فلکی ایک لائن میں ہوتے ہیں۔ چنانچہ سورج اور چاند گرہن تقریباً ہر ساڑھے پانچ ماہ بعد لگ سکتا ہے۔

ڈاکٹر مکناٹن سے سوال کیا گیا کہ پچھلے 1400 سالوں میں رمضان میں چاند اور سورج گرہن کا اجتماع کتنی مرتبہ ہوا ہے؟  
ڈاکٹر ڈیوڈ مکناٹن کہتے ہیں:

□ ”اسٹرانامی کی مختلف کتب اور کمپیوٹر کے پروگراموں کی مدد سے میں نے جو تحقیق کی تو پتہ چلا کسی بھی خاص قمری مہینے میں سورج اور چاند گرہن ہر بائیس سال کے بعد گھوم کر انہی تاریخوں میں واقع ہوتا ہے۔ چنانچہ جب میں نے دنیا کے مختلف حصوں میں ہونے والے سورج اور چاند کے جزوی اور کامل گرہنوں کے رمضان میں اجتماع کے بارے میں تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ہر بائیس سال کے بعد باقاعدگی سے کم از کم ایک بار اور کبھی کبھی دو بار سورج اور چاند کے گرہنوں کا رمضان میں اجتماع ہونا چلا آیا ہے۔ البتہ رمضان کی پہلی تاریخ کو چاند گرہن اور درمیانی تاریخ کو سورج گرہن کا ہونا جیسا کہ آپ نے دارقطنی نامی کتاب کے حوالے سے تذکرہ کیا ہے، یہ سائنسی نقطہ نگاہ سے ناممکنات میں سے ہے۔ کائنات کی تخلیق سے لے کر آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا۔“ (امام بے لگام کے منہ میں لگام از سید عبدالحفیظ شاہ)

3- 1829ء میں ایک مشہور انگریز مسٹر کیتھ نے انگریزی زبان میں ایک کتاب لکھی جس کا نام ”ڈیویز آف دی گلوبس“ ہے۔ یہ کتاب لندن میں طبع ہوئی۔ مسٹر کیتھ نے اس کتاب میں 1801ء سے 1900ء تک کی پورے سو برس کے آئندہ گرہنوں

کی فہرست درج کی ہے۔ اس کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سو سال کے اندر پانچ مرتبہ خسوف و کسوف کا اجتماع رمضان المبارک میں ہوا ہے۔

4- دوسری کتاب 1256ھ میں ”حدائق النجوم“ فارسی زبان میں مطبع محمدی لکھنؤ میں چھپی۔ اس کتاب کی فہرست میں 63 برس کے اندر تین گرہنوں کا اجتماع رمضان المبارک میں لکھا ہے اور یہ تین اجتماع ایسے ہیں کہ مذکورہ دونوں کتابوں کے مصنف اس پر متفق ہیں۔

5- ”حدائق النجوم“ صفحہ 702 تا 707 اور ”یوز آف دی گلوبس“ صفحہ 272 تا 276 اور مسٹر نارمن لوکیٹر کی کتاب ”اسٹرونومی“ صفحہ 102 جدول خسوف و کسوف کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ گذشتہ تیرہ صدیوں میں 18ھ سے 1313ھ تک ساٹھ مرتبہ رمضان المبارک میں اجتماع خسوف و کسوف ہوا۔

6- انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کی 27 ویں جلد میں گرہن کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سات سو تریسٹھ برس پہلے سے 1901ء تک کا تجربہ لکھا ہے جس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ ہر ثابت شدہ یا مانا ہوا گہن 223 برس قبل اور بعد اس قسم کا گہن ہوتا ہے یعنی وہ مانا ہوا گہن جس وقت اور جس مہینہ میں جس طور کا ہوگا، 223 برس سے قبل اور بعد بھی ان ہی خصوصیات کے ساتھ ویسا ہی دوسرا گہن ہوگا۔ اب اس حساب کی روشنی میں آپ غور کریں! جب 1267ھ سے 1312ھ تک چھالیس برس میں تین مرتبہ گرہنوں کا اجتماع رمضان کی تیرہ اور اٹھائیس کو ہوا، اس قاعدے کو جاری کر کے دیکھا جائے کہ اس سے پہلے کس وقت میں گرہنوں کا اجتماع رمضان کی تیرہ اور اٹھائیس کو ہوا ہے۔

حضرت مولانا سید محمد علی مونگیریؒ اپنی کتاب ”شہادت آسمانی“ میں لکھتے ہیں:

”رمضان شریف کی 13 اور 28 کو گرہنوں کا اجتماع معمولی بات ہے۔ جس طرح کے گرہن مرزا قادیانی کے دعوے کے بعد ہوئے، اسی طرح ان کے دعوے کے قبل بھی ہوئے ہیں۔ جس طرح چاند گرہن کے لیے عادتہ اللہ یہ ہے کہ تاریخ 13-14-15 کو ہو اور سورج گرہن 27-28-29 کو ہو۔ اسی طرح یہ بھی عادتہ اللہ ہے کہ دورہ مقررہ اور اوقات معینہ کے بعد دونوں کا اجتماع ایک ماہ میں ہو۔ اب وہ مہینہ رمضان شریف کا ہو یا دوسرا مہینہ ہو۔ اگر علم

کے ساتھ طلب تحقیق اور دل میں حق پسندی ہے تو علم ہیئت و نجوم کی کتابوں کو دیکھیے۔ اگر آپ بہ نظر تحقیق دیکھیں گے تو بالیقین میرے بیان کی تصدیق کریں گے۔

یہ امر ظاہر ہے کہ جس طرح علم و رطل اور نجوم وغیرہ سے گذشتہ اور آئندہ کی خبریں معلوم ہوتی ہیں اور بہت رمال و نجومی وہ خبریں شائع کیا کرتے ہیں، اسی طرح علم ہیئت اور نجوم کے ماہر گذشتہ اور آئندہ کے گرہنوں کو بیان کرتے ہیں اور اپنی کتابوں میں لکھا کرتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس اس فن کی دو کتابیں موجود ہیں، مسٹر کیتھ کی کتاب یوز آف دی گلوبس اور حدائق النجوم۔ پہلی کتاب انگریزی میں ہے اور دوسری فارسی میں۔ ان دونوں کتابوں میں گرہنوں کی فہرست دی گئی ہے۔ مسٹر کیتھ نے پورے سو برس کی فہرست دی ہے یعنی 1801ء سے 1900ء تک کی۔ کیتھ کی فہرست سے معلوم ہوتا ہے کہ سو برس کے عرصہ میں پانچ مرتبہ سورج گرہن اور چاند گرہن کا اجتماع رمضان شریف میں لگا ہے۔ چونکہ یہ تین اجتماع ایسے ہیں کہ دونوں کتابوں کے مؤلف اس پر متفق ہیں اور ان تین گرہنوں کے دیکھنے والے بھی اس وقت تک موجود ہیں اور ان گرہنوں کا ظہور بھی بالاتفاق 13 رمضان شریف اور 28 رمضان شریف کو ہوا ہے۔ اس لیے میں صرف پینتالیس برس کے گرہنوں کی فہرست ان دونوں کتابوں سے نقل کرتا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس قلیل مدت میں تین مرتبہ ایسے گرہنوں کا اجتماع رمضان میں ہوا، پھر دنیا کی ابتدا سے اس کثرت مدت میں کس قدر ہوا ہوگا۔ ہر ایک ذی علم سمجھتا ہے کہ اگر اس اجتماع کو نشان قرار دیا جائے گا تو صرف ایک نشان ثابت ہوگا اور حدیث میں نہایت صاف طور پر دو نشانوں کی پیش گوئی کی ہے اور ہر ایک نشان کو بے نظیر کہا ہے۔ اس لیے اگر 13 تاریخ اور 28 رمضان کو گرہن ہونا نشان ہے تو روایت کے بموجب ہر ایک گرہن کو نشان ہونا چاہیے اور ہر ایک کو بے نظیر ہونا چاہیے مگر مذکورہ فہرست سے ظاہر ہے کہ نوے برس کے عرصے میں چاند گرہن رمضان کے 13 تاریخ کو پانچ مرتبہ ہوا یعنی 1263ھ اور 1267ھ اور 1291ھ اور 1310ھ، 1311ھ اور 1312ھ ہے اور سورج گرہن 28 رمضان کو 36 برس میں 6 مرتبہ ہوا اور دونوں کا اجتماع ان تاریخوں میں 3 مرتبہ ہوا۔ یعنی 46 برس میں 3 مرتبہ چاند گرہن اور سورج گرہن کا اجتماع رمضان المبارک کی 13 اور 28 تاریخ کو ہوا۔ پھر کیا ایسے ہی گرہن نشان و معجزہ ہو سکتے ہیں؟

## 45 سال میں چاند اور سورج گرہن کی فہرست ملاحظہ ہو

نمبر شمار	چاند گرہن یا سورج گرہن	کلی یا جزئی	سنہ عیسوی	سنہ ہجری	زمانہ اوسط چاند گرہن یا سورج گرہن	
					انگریزی مہینہ	عربی مہینہ
					تاریخ	تاریخ
					دوپہرون یا آدھی رات	دوپہرون یا آدھی رات
-1	چاند	جزئی	1851ء	1267ھ	جنوری	ربیع الاول
-2	چاند	جزئی	1851ء	1267ھ	جولائی	رمضان
-3	سورج		1851ء	1267ھ	جولائی	رمضان
-4	چاند	کلی	1852ء	1268ھ	جنوری	ربیع الاول
-5	چاند	کلی	1852ء	1268ھ	جولائی	رمضان
-6	سورج		1852ء	1269ھ	دسمبر	صفر
-7	چاند	جزئی	1852ء	1269ھ	دسمبر	ربیع الاول
-8	چاند	جزئی	1853ء	1269ھ	جون	رمضان
-9	چاند	جزئی	1854ء	1270ھ	مئی	شعبان
-10	چاند	جزئی	1854ء	1271ھ	نومبر	صفر
-11	چاند	کلی	1855ء	1271ھ	مئی	شعبان
-12	سورج		1855ء	1271ھ	مئی	شعبان
-13	چاند	کلی	1855ء	1272ھ	اکتوبر	صفر
-14	چاند	جزئی	1856ء	1272ھ	اپریل	شعبان

15-	سورج	1856ء	1273ھ	ستمبر	29	محرم	28	آدمی رات کے بعد
16-	چاند	1856ء	1273ھ	اکتوبر	13	صفر	13	دوپہر کے بعد
17-	سورج	1857ء	1274ھ	ستمبر	18	محرم	28	آدمی رات کے بعد
18-	چاند	1858ء	1274ھ	فروری	27	رجب	12	دوپہر کے بعد
19-	سورج	1858ء	1274ھ	مارچ	15	رجب	28	دوپہر کے بعد
20-	چاند	1858ء	1275ھ	اگست	24	محرم	14	دوپہر کے بعد
21-	چاند	1859ء	1275ھ	فروری	17	رجب	13	آدمی رات کے بعد
22-	سورج	1859ء	1275ھ	جولائی	29	ذی الحجہ	28	دوپہر کے بعد
23-	چاند	1859ء	1276ھ	اگست	13	محرم	13	دوپہر کے بعد
24-	چاند	1860ء	1276ھ	فروری	7	رجب	14	آدمی رات کے بعد
25-	سورج	1860ء	1276ھ	جولائی	18	ذی الحجہ	28	دوپہر کے بعد
26-	چاند	1860ء	1277ھ	اگست	1	محرم	13	دوپہر کے بعد
27-	سورج	1861ء	1277ھ	جنوری	11	جمادی الثانی	28	آدمی رات کے بعد
28-	سورج	1861ء	1277ھ	جولائی	8	ذی الحجہ	29	آدمی رات کے بعد
29-	چاند	1861ء	1278ھ	دسمبر	17	جمادی الثانی	14	آدمی رات کے بعد
30-	سورج	1861ء	1278ھ	دسمبر	31	جمادی الثانی	28	دوپہر کے بعد
31-	چاند	1862ء	1278ھ	جون	12	ذی الحجہ	13	آدمی رات کے بعد
32-	چاند	1862ء	1279ھ	دسمبر	6	جمادی الثانی	13	آدمی رات کے بعد
33-	سورج	1862ء	1279ھ	دسمبر	21	جمادی الثانی	28	آدمی رات کے بعد
34-	سورج	1863ء	1279ھ	مئی	17	ذیقعدہ	27	دوپہر کے بعد
35-	چاند	1863ء	1279ھ	جون	2	ذی الحجہ	13	آدمی رات کے بعد
36-	چاند	1863ء	1280ھ	نومبر	25	جمادی الثانی	13	آدمی رات کے بعد



37-	سورج	1864ء	1280ھ	مئی	6	ذیقعدہ	29	آدمی رات کے بعد
38-	چاند	1865ء	1281ھ	اپریل	11	ذیقعدہ	14	آدمی رات کے بعد
39-	چاند	1865ء	1282ھ	اکتوبر	4	جمادی الاول	13	دوپہر کے بعد
40-	سورج	1865ء	1282ھ	اکتوبر	19	جمادی الاول	28	دوپہر کے بعد
41-	سورج	1866ء	1282ھ	مارچ	16	شوال	28	دوپہر کے بعد
42-	چاند	1866ء	1282ھ	مارچ	31	ذیقعدہ	13	آدمی رات کے بعد
43-	چاند	1866ء	1283ھ	ستمبر	24	جمادی الاول	14	دوپہر کے بعد
44-	سورج	1867ء	1283ھ	مارچ	6	شوال	28	آدمی رات کے بعد
45-	چاند	1867ء	1283ھ	مارچ	20	ذیقعدہ	13	آدمی رات کے بعد
46-	چاند	1867ء	1284ھ	ستمبر	14	جمادی الاول	15	آدمی رات کے بعد
47-	سورج	1868ء	1284ھ	اگست	18	ربیع الثانی	28	آدمی رات کے بعد
48-	چاند	1869ء	1284ھ	جنوری	28	شوال	14	آدمی رات کے بعد
49-	چاند	1869ء	1286ھ	جولائی	23	ربیع الثانی	13	دوپہر کے بعد
50-	سورج	1869ء	1286ھ	اگست	7	ربیع الثانی	28	دوپہر کے بعد
51-	چاند	1870ء	1286ھ	جنوری	17	شوال	14	دوپہر کے بعد
52-	چاند	1870ء	1287ھ	جولائی	12	ربیع الثانی	12	دوپہر کے بعد
53-	سورج	1870ء	1287ھ	دسمبر	22	رمضان	28	دوپہر کے بعد
54-	چاند	1871ء	1287ھ	جنوری	6	شوال	14	دوپہر کے بعد
55-	سورج	1871ء	1288ھ	جون	18	ربیع الاول	28	آدمی رات کے بعد
56-	چاند	1871ء	1288ھ	جولائی	2	ربیع الثانی	13	دوپہر دن کے بعد
57-	سورج	1871ء	1288ھ	دسمبر	12	رمضان	28	آدمی رات کے بعد
58-	چاند	1872ء	1289ھ	مئی	22	ربیع الاول	13	دوپہر کے بعد

59-	سورج	1872ء	1289ھ	جون	6	ربیع الاول	28	آدمی رات کے بعد
60-	چاند	1872ء	1289ھ	نومبر	15	شعبان	13	آدمی رات کے بعد
61-	چاند	1873ء	1290ھ	مئی	12	ربیع الاول	14	آدمی رات کے بعد
62-	سورج	1873ء	1290ھ	مئی	26	ربیع الاول	28	آدمی رات کے بعد
63-	چاند	1873ء	1290ھ	نومبر	4	رمضان	12	دوپہرون کے بعد
64-	چاند	1874ء	1291ھ	مئی	1	ربیع الاول	14	دوپہرون کے بعد
65-	سورج	1874ء	1291ھ	اکتوبر	10	شعبان	28	آدمی رات کے بعد
66-	چاند	1874ء	1291ھ	اکتوبر	25	رمضان	13	آدمی رات کے بعد
67-	سورج	1875ء	1292ھ	اپریل	6	صفر	28	آدمی رات کے بعد
68-	سورج	1875ء	1292ھ	ستمبر	29	شعبان	28	دوپہرون کے بعد
69-	چاند	1876ء	1293ھ	مارچ	10	صفر	13	آدمی رات کے بعد
70-	چاند	1876ء	1293ھ	ستمبر	3	شعبان	14	دوپہرون کے بعد
71-	چاند	1877ء	1294ھ	فروری	27	صفر	13	آدمی رات کے بعد
72-	سورج	1877ء	1294ھ	مارچ	15	صفر	29	دوپہرون کے بعد
73-	سورج	1877ء	1294ھ	اگست	9	رجب	28	دوپہرون کے بعد
74-	چاند	1877ء	1294ھ	اگست	23	شعبان	13	آدمی رات کے بعد
75-	چاند	1878ء	1295ھ	فروری	17	صفر	14	آدمی رات کے بعد
76-	سورج	1878ء	1295ھ	جولائی	29	رجب	28	دوپہرون کے بعد
77-	چاند	1878ء	1295ھ	اگست	13	شعبان	13	آدمی رات کے بعد
78-	سورج	1879ء	1296ھ	جنوری	22	محرم	28	دوپہر کے بعد
79-	سورج	1879ء	1296ھ	جولائی	19	رجب	28	آدمی رات کے بعد
80-	چاند	1879ء	1297ھ	دسمبر	28	محرم	14	دوپہر کے بعد

دوپہر کے بعد	14	محرم	11	جنوری	1297ھ	1880ء		سورج	-81
دوپہر کے بعد	13	رجب	22	جون	1297ھ	1880ء	کلی	چاند	-82
دوپہر کے بعد	13	محرم	16	دسمبر	1298ھ	1880ء	کلی	چاند	-83
دوپہر کے بعد	28	محرم	31	دسمبر	1298ھ	1880ء		سورج	-84
آدھی رات کے بعد	29	جمادی الثانی	28	مئی	1298ھ	1881ء		سورج	-85
آدھی رات کے بعد	14	شعبان	13	جون	1298ھ	1881ء	کلی	چاند	-86
دوپہر کے بعد	12	محرم	5	دسمبر	1299ھ	1881ء	جزئی	چاند	-87
آدھی رات کے بعد	28	جمادی الثانی	17	مئی	1299ھ	1882ء		سورج	-88
آدھی رات کے بعد	29	ذی الحجہ	11	نومبر	1299ھ	1882ء		سورج	-89
دوپہر کے بعد	14	جمادی الثانی	22	اپریل	1300ھ	1883ء		چاند	-90
آدھی رات کے بعد	14	ذی الحجہ	16	اکتوبر	1300ھ	1883ء	جزئی	چاند	-91
آدھی رات کے بعد	29	ذی الحجہ	31	اکتوبر	1300ھ	1883ء		سورج	-92
آدھی رات کے بعد	28	جمادی الاول	27	مارچ	1301ھ	1884ء		سورج	-93
دوپہر کے بعد	13	جمادی الثانی	10	اپریل	1301ھ	1884ء	کلی	چاند	-94
دوپہر کے بعد	14	ذی الحجہ	4	اکتوبر	1301ھ	1884ء	کلی	چاند	-95
آدھی رات کے بعد	29	ذی الحجہ	19	اکتوبر	1301ھ	1884ء		سورج	-96
دوپہر کے بعد	12	جمادی الثانی	30	مارچ	1302ھ	1885ء	جزئی	چاند	-97
آدھی رات کے بعد	14	ذی الحجہ	24	ستمبر	1302ھ	1885ء	جزئی	چاند	-98
دوپہر کے بعد	8	ذیقعدہ	29	اگست	1303ھ	1886ء		سورج	-99
آدھی رات کے بعد	14	جمادی الاول	8	فروری	1304ھ	1887ء	جزئی	چاند	-100
دوپہر کے بعد	12	ذیقعدہ	2	اگست	1304ھ	1887ء	جزئی	چاند	-101
آدھی رات کے بعد	28	ذیقعدہ	19	اگست	1304ھ	1887ء		سورج	-102

دوپہر کے بعد	14	جمادی الاول	28	جنوری	1305ھ	1888ء	کلی	چاند	-103
آدھی رات کے بعد	13	ذیقعدہ	23	جولائی	1305ھ	1888ء	کلی	چاند	-104
آدھی رات کے بعد	14	جمادی الاول	17	جنوری	1306ھ	1889ء	جزئی	چاند	-105
دوپہر کے بعد	13	ذیقعدہ	12	جولائی	1306ھ	1889ء	جزئی	چاند	-106
دوپہر کے بعد	28	ربیع الثانی	22	دسمبر	1307ھ	1889ء		سورج	-107
آدھی رات کے بعد	14	شوال	3	جون	1307ھ	1890ء	جزئی	چاند	-108
آدھی رات کے بعد	28	شوال	17	جون	1307ھ	1890ء		سورج	-109
دوپہر کے بعد	13	جمادی الاول	26	نومبر	1308ھ	1890ء	جزئی	چاند	-110
دوپہر کے بعد	14	شوال	23	مئی	1308ھ	1891ء	کلی	چاند	-111
دوپہر کے بعد	28	شوال	6	جون	1308ھ	1891ء		سورج	-112
آدھی رات کے بعد	13	ربیع الثانی	16	نومبر	1309ھ	1891ء	کلی	چاند	-113
دوپہر کے بعد	13	شوال	11	مئی	1309ھ	1892ء	جزئی	چاند	-114
دوپہر کے بعد	13	ربیع الثانی	4	نومبر	1310ھ	1892ء	کلی	چاند	-115
دوپہر کے بعد	28	رمضان	16	اپریل	1310ھ	1893ء		سورج	-116
دوپہر کے بعد	12	رمضان	21	مارچ	1311ھ	1894ء	جزئی	چاند	-117
آدھی رات کے بعد	28	رمضان	6	اپریل	1311ھ	1894ء		سورج	-118
آدھی رات کے بعد	14	ربیع الاول	15	ستمبر	1312ھ	1894ء	جزئی	چاند	-119
آدھی رات کے بعد	28	ربیع الاول	29	ستمبر	1312ھ	1894ء		سورج	-120
آدھی رات کے بعد	13	رمضان	11	مارچ	1312ھ	1895ء	کلی	چاند	-121
آدھی رات کے بعد	28	رمضان	26	مارچ	1312ھ	1895ء		سورج	-122
دوپہر کے بعد	28	مصر	20	اگست	1313ھ	1895ء		سورج	-123
آدھی رات کے بعد	14	ربیع الاول	4	ستمبر	1313ھ	1895ء	کلی	چاند	-124

## گرہنوں کا پہلا اجتماع

چاند اور سورج گرہن کا پہلا اجتماع 1267ھ میں ہوا جو 1851ء کے مطابق ہے۔ یعنی پہلا چاند گرہن 13 رمضان 1267ھ مطابق 13 جولائی 1851ء اور سورج گرہن 28 جولائی 1851ء مطابق 28 رمضان 1267ھ کو لگا۔ اس گرہن کا ظہور ہندوستان میں ہوا اور اس کے دیکھنے والے اس وقت تک موجود ہیں۔ ان گرہنوں کی تاریخ وہی 13 اور 28 رمضان ہے جن تاریخوں کے گرہنوں کو مرزا قادیانی مہدی کا نشان کہتے ہیں۔ اس وقت مرزا قادیانی کی عمر گیارہ یا بارہ برس کی ہوگی کیونکہ اس نے کتاب البریہ صفحہ 159 خزائن جلد 13 صفحہ 177 میں اپنی پیدائش 1839ء یا 1840ء کی بتائی ہے غرضیکہ یہ گرہن اس کے دعوے سے بہت پہلے کا ہے۔ اس گرہن کا اجتماع رمضان کے 13-28 کو ایسا صحیح ہے کہ دو ماہر فن نجوم کے لکھنے کے علاوہ نہایت محترم اہل کمال اور بعض دیگر سن رسیدہ حضرات اپنا معائنہ و مشاہدہ بیان کرتے ہیں۔ بعض نادان مرزائیوں کو دیکھا کہ وہ اس گرہن کو بھی مرزا قادیانی ہی کا نشان سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک نشان دعوے سے قبل ہوا اور ایک بعد ہوا۔ مگر یہ کہتا خود مرزا قادیانی کے قول کے خلاف ہے۔ قادیانیوں کو چونکہ رات سے کچھ واسطہ نہیں ہے، اس لیے نادانوں کے روبرو جیسا موقع دیکھتے ہیں، ویسی بات بنا دیتے ہیں۔ اس کا جواب ملاحظہ ہو۔ ضمیر انجام آتقم کے صفحہ 46 روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 330 پر مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ وہ دونوں نشان مہدی کے وقت میں ہوں گے، 1267ھ کا گرہن مرزا قادیانی کے دعویٰ مہدی کے وقت میں نہیں ہے بلکہ اس وقت میں ہے کہ اس دعوے کا اُسے خیال بھی نہ ہوگا۔ پھر انجام آتقم صفحہ 50 مندرجہ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 334 میں لکھتا ہے کہ نشانوں کو ظاہر کرنے کے لیے سنت اللہ یہی ہے کہ وہ سچ مدعی کے دعویٰ کی تصدیق کے لیے ہوتے ہیں بلکہ ایسے وقت میں ہوتے ہیں، جب اس مدعی کی تکذیب سرگرمی سے کی جائے۔ اس کے بعد لکھتا ہے اس تحقیقات سے ثابت ہے کہ نشان کے لیے ضرور ہے کہ تکذیب کے بعد ظاہر ہو۔“ اس آخر کے قول نے نہایت ہی وضاحت سے ثابت کر دیا کہ 1267ھ کا گرہن مرزا قادیانی کے لیے نشان نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اس کے دعوے اور اس کی تکذیب سے بہت پہلے ہے۔ البتہ مرزا قادیانی کے خیال کے موافق اگر اسے علامت کہا جائے تو علی محمد باب کے لیے ہوگا کیونکہ اس

کے دعویٰ نبوت و مہدویت اور اس کی تکذیب کے بعد یہ گرہن ہوا ہے جس وقت اس کا خلیفہ اس کے دعوے کو روشن کر رہا تھا۔ یہ (بابی) فرقہ اب تک موجود ہے۔ چنانچہ لندن، فرانس، امریکہ، فلکنتہ اور ممبئی اور رنگون میں بھی اس کے پیرو ہیں اور اب چھپرے میں آگے ہیں اور ان کا سرگروہ عبدالبہا ہے۔ لندن کے معزز مہین اس کے مرید ہو گئے ہیں۔ اس فرقہ کو بہائیہ کہتے ہیں اور بابی بھی کہتے ہیں۔

### گرہنوں کا دوسرا اجتماع

گرہنوں کا دوسرا اجتماع 1311ھ کے رمضان میں ہوا جو 1894ء کے مطابق ہے۔ یعنی چاند گرہن 21 مارچ 1894ء مطابق 13 رمضان 1311ھ اور سورج گرہن 6 اپریل 1894ء مطابق 28 رمضان 1311ھ۔ اس گرہن کا ظہور ہندوستان میں نہیں ہوا بلکہ امریکہ میں ہوا جس وقت مسٹر ڈوئی مدعی مسیحیت وہاں موجود تھا۔ ہندوستانی جنتریوں میں اس چاند گرہن کی تاریخ 12 ہے 13 نہیں ہے۔ مرزا قادیانی نے ہندوستان میں رہ کر اس کی تاریخ بھی 13 بتائی ہے اور اپنی کتاب ”حقیقۃ الوحی“ میں اس گرہن کو بھی اپنا نشان بتایا ہے اور محض غلط حوالہ دے دیا ہے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مہدی کے وقت میں ایسے گرہن دو مرتبہ ہوں گے حالانکہ کسی حدیث میں یہ مضمون نہیں ہے۔ اس صریح جھوٹ کے علاوہ اس گرہن کا وجود ہندوستان میں نہیں ہوا جہاں مرزا قادیانی کا وجود ہے بلکہ اس ملک میں ہوا جہاں ان کی طرح ایک دوسرا مدعی رسالت موجود ہے۔ ان کی عقل پر افسوس ہے کہ جو چیز ایک جھوٹے مدعی کے ملک میں اس کے دعوے کے وقت میں پائی جائے، اسے مدعی صادق کی علامت کہتا ہے؟

### گرہنوں کا تیسرا اجتماع

گرہنوں کا تیسرا اجتماع 1312ھ کے رمضان شریف کی 13 اور 28 تاریخ کے مطابق 11 مارچ اور 26 مارچ کو ہوا۔ یعنی چاند گرہن 11 مارچ 1895ء مطابق 13 رمضان 1312ھ اور سورج گرہن 26 مارچ 1895ء مطابق 28 رمضان 1312ھ۔ یہ وہی گرہن ہے جسے مرزا قادیانی نے اپنے لیے آسمانی شہادت ٹھہرایا ہے اور دار قطنی کی روایت کا مصداق قرار

دیا ہے مگر یہاں غور کرنا چاہیے کہ چھیالیس برس کے گرہنوں میں یہ تیسری مرتبہ رمضان کی 13 اور 28 تاریخ کو دونوں گرہنوں کا اجتماع ہوا ہے پھر یہ گرہن اس روایت کا مصداق کس طرح ہو سکتا ہے۔ جس میں نہایت صاف طور سے یہ ارشاد ہے۔ لم تکونا مند خلق اللہ السموات والارض۔ (سنن الدارقطنی جلد 2 صفحہ 65) یہ جملہ روایت کے شروع میں بھی ہے اور آخر میں بھی ہے۔ آخر میں لم تکونا کی ضمیر یقینی طور سے چاند گرہن اور سورج گرہن کی طرف پھرتی ہے۔ کوئی دوسرا مرجع اس ضمیر کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس جملہ کے یہی معنی ہیں کہ جب سے آسمان و زمین اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اس وقت سے لے کر اس مہدی کے وقت تک ایسا چاند گرہن اور سورج گرہن کبھی نہ ہوا ہوگا یعنی وہ دونوں گرہن ایسے بے مثل اور بے نظیر ہوں گے کہ اس سے پہلے کسی وقت ان کی نظیر نہیں مل سکتی۔ اس پر خوب نظر رہے کہ روایت کے اس آخری جملہ میں خاص ان گرہنوں کو بے نظیر کہا ہے جن کا ذکر اس سے پہلے جملہ میں ہے اور اس سال کا گرہن تو ایسا ہے کہ جس کی ایک نظیر اس سے ایک سال پہلے یعنی 1311ھ میں موجود ہے پھر وہ بے نظیر کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور جب وہ بے نظیر نہیں ہے تو دارقطنی کی روایت کا مصداق نہیں ہو سکتا اور لطف یہ ہے کہ پہلی نظیر جس وقت اور جس ملک میں پائی گئی، اس وقت اس ملک میں ایک مدعی رسالت یعنی مسٹر ڈوئی موجود ہے۔ اگرچہ وہ جھوٹا ہے مگر جس گرہن کو مرزا قادیانی سچے رسول کی علامت بیان کرتے ہیں وہ علامت جھوٹے مدعی کے وقت اسی کے ملک میں پائی گئی۔ پھر یہ کیسے عقل پر پردے پڑے ہیں کہ وہ علامت جو نہایت صاف طور سے جھوٹے کے وقت اور اس کے ملک میں پائی جائے، اسے سچے رسول کی نشانی کہا جاتا ہے انفسوس! بلکہ واقعات کا معائنہ کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں گرہن یعنی 1311 اور 1312ھ کے جھوٹوں کی نشانی ہوئی۔ پہلے امریکہ میں مسٹر ڈوئی کی علامت ہوئی۔ اس کے ایک سال کے بعد ہندوستان میں مرزا قادیانی کی علامت کا ظہور ہوا۔ غرضیکہ دونوں جھوٹوں کے وقت میں یہ دونوں گرہن پائے گئے۔ جس سے اس طرف اشارہ ہوا کہ ان دونوں شخصوں سے ان ملکوں میں ایسی ہی تاریکی پھیل رہی ہے جیسے گرہن سے تاریکی ہو جاتی ہے مگر یہ گرہن صادق کی علامت کسی طرح نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا مصداق تو وہی گرہن ہو سکتا ہے جو بے نظیر ہو اور اس گرہن کی ایک نظیر ایک ہی برس پہلے موجود ہے اور دوسری نظیر پینتالیس برس پہلے گزر چکی ہے غرضیکہ دو نظیریں چھیالیس برس کے عرصہ میں

بالیقین موجود ہیں اور اگر نظر کو وسیع کر کے دیکھا جائے تو علم نجوم کے قاعدے کے رو سے 117ھ سے 1312ھ تک اٹھارہ مرتبہ رمضان شریف کے انہیں تاریخوں میں گرہنوں کا اجتماع ہوا ہے۔ انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا کی جلد 27 میں گرہن کی حالت بیان کر کے 763 برس قبل مسیح سے 1901ء تک کا تجربہ اس کے مطابق بیان کیا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ تحریر سابق سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر ثابت شدہ یا مانے ہوئے گرہن کو (223) برس قبل اور بعد اسی قسم کا گرہن ہوتا ہے۔ یعنی وہ مانا ہوا اور معینہ گرہن جس وقت اور جس مہینہ میں جس طور کا ہوگا، 223 برس کے قبل اور بعد بھی ان ہی خصوصیات کے ساتھ ویسا ہی دوسرا ہوگا۔

8- جن تاریخوں میں چاند گرہن اور سورج گرہن دونوں کا اکٹھا اجتماع ہوا، اس دوران کئی لوگوں نے اپنے مہدی اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور پھر اس نشان کی بدولت ایک عرصہ تک مخلوق خدا کو گمراہ کرتے رہے۔ مثلاً:-

### طریف

اس کے زمانہ میں رمضان المبارک 117ھ (736ء) میں چاند اور سورج گرہنوں کا اجتماع ہوا۔

### صالح بن طریف برغواطی

- صالح نے 127ھ میں نبوت اور مہدی اکبر ہونے کا دعویٰ کیا۔
- اس کے زمانہ میں 162ھ (779ء) میں رمضان المبارک میں خسوف و کسوف ہوا۔
- مدت دعوائے نبوت 27 برس۔
- اس کے خاندان 330 برس بادشاہت رہی۔

### ابو منصور عیسیٰ

- اس نے 341ھ میں دعوائے نبوت کیا۔
- رمضان المبارک 346ھ میں اس کے وقت میں خسوف و کسوف کا اجتماع ہوا۔
- مدت دعوائے نبوت 23 برس کے بعد 48ھ میں مارا گیا۔



## علی محمد باب

- علی محمد باب نے 1240ھ میں ایران میں مہدویت کا دعویٰ کیا۔
- اس کے زمانہ میں 1247ھ مطابق 1851ء رمضان میں خسوف و کسوف کا اجتماع ہوا۔

## مرزا قادیانی

مرزا قادیانی نے 1311ھ (1895ء) میں رمضان المبارک میں جس خسوف و کسوف کو اپنی صداقت کا نشان ظاہر کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 1311ھ کا خسوف و کسوف ہندوستان میں نہیں ہوا بلکہ امریکہ میں ہوا ہے۔ جہاں مسٹر ڈوئی نے مسیح موعود ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا ہوا تھا اور سوڈان میں انہی دنوں میں محمد احمد نے بھی مہدویت کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا۔ اگر 1311ھ کا خسوف و کسوف مرزا قادیانی کے لیے نشان بن سکتا ہے تو پھر محمد احمد سوڈانی اور مسٹر ڈوئی کے لیے اس کو نشان کیوں نہیں قرار دیا جاسکتا؟ تین دعوے داروں میں سے دو کو تو جھوٹا قرار دیا جائے اور تیسرے کے لیے اس کی صداقت کی دلیل ٹھہرائی جائے اور پھر صالح بن طریف، ابو منصور عیسیٰ اور علی محمد باب کے رمضان المبارک میں خسوف و کسوف کا یہ اجتماع نشان کیوں نہیں بن سکتا؟

9- چاند اور سورج کے گرہنوں کا اجتماع ایک مقررہ قاعدہ ہے۔ یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں اور مسلمانوں نے اپنی قدیم و جدید کتابوں میں گذشتہ اور آئندہ ہونے والے گرہنوں کی فہرستیں شائع کی ہوئی ہیں اور یہ ہر دور میں شائع ہوتی رہی ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسی ہی کوئی فہرست یا جنتری دیکھ کر اور دارقطنی کی روایت پڑھ کر اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دے اور اپنی مہدویت کے ثبوت میں اس نشان کو سچائی کے طور پر بطور معجزہ یا کرامت پیش کرے تو کیا ایسا شخص واقعی مہدی ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے، آنجہانی مرزا قادیانی نے بھی یہی طریقہ واردات اختیار کیا ہو اور پھر پوری دنیا میں اپنے مہدی ہونے کا شور و غوغا مچا دیا ہو۔ مرزا قادیانی کہتا تھا کہ مجھ سے پہلے کسی مدعی نبوت کے وقت میں اس قسم کا گرہن نہیں ہوا مگر صالح نے مرزا قادیانی کے اس دعویٰ کو غلط کر دیا کیونکہ اس کے وقت میں بھی اس قسم کا گرہن ہوا۔ اسی طرح اس کا یہ دعویٰ تھا کہ کوئی جھوٹا مدعی 20 برس کامیاب نہیں رہتا بلکہ ذلت سے مارا جاتا ہے۔ صالح باوجود

کاذب ہونے کے 47 برس خود بادشاہ رہا اور اس کی اولاد میں کئی سو برس تک سلطنت رہی۔  
 قادیانی جماعت کو ماننا پڑے گا کہ 1311ھ میں جو چاند گرہن اور سورج گرہن کا  
 اجتماع رمضان شریف میں ہوا ہے۔ یہ مرزا قادیانی یا کسی دوسرے مدعی مہدویت کی صداقت کا  
 نشان نہیں ہو سکتا۔ روایت کے وہ معنی نہیں ہیں جو مرزا قادیانی نے سمجھے ہیں۔ روایت میں جن  
 گرہنوں کے اجتماع کو مہدی کا نشان بتایا ہے، وہ ایسا ہونا چاہیے جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوا ہو  
 اور جو اجتماع حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے اس وقت تک سکڑوں مرتبہ ہوا ہو، وہ کسی  
 کے صدق یا کذب کا نشان نہیں ہو سکتا۔ مگر جس کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہو، وہ آفتاب کو نہیں  
 دیکھ سکتا جب تک پردہ آنکھوں سے نہ ہٹائے۔

10- مرزا قادیانی کی بدبختی اور ناپاک جسارت ملاحظہ فرمائیں کہ اس ملعون نے اس  
 نشان کو حضور نبی کریم ﷺ پر اپنی فضیلت قرار دیا اور کہا:

(345) "لہ خسف القمر المنیروان لی. غسا القمران المشرقان اتنکر."  
 (اعجاز احمدی صفحہ 71 مندرجہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 183 از مرزا قادیانی)  
 (عکس صفحہ نمبر 869 پر)

ترجمہ: "اس (حضور نبی کریم ﷺ) کے لیے چاند گرہن کا نشان ظاہر ہوا اور  
 میرے لیے چاند اور سورج دونوں کا نشان ہوا۔ اب کیا تو انکار کرے گا؟"  
 یعنی رسول اللہ ﷺ کے لیے تو صرف چاند گرہن ہوا تھا اور مرزا قادیانی کے لیے چاند  
 گرہن اور سورج گرہن دونوں ہوئے جو سچے مہدی کی نشانی ہے۔ یعنی اس نشان میں مرزا قادیانی  
 حضرت محمد رسول اللہ ﷺ سے بڑھ گیا اور اس طرح اس کی فضیلت ثابت ہوئی۔ (نعوذ باللہ)

## نویں پیش گوئی

### مولانا ثناء اللہ امرتسری کی موت

حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری کا شمار برصغیر پاک و ہند کے ان جید علمائے کرام

میں ہوتا ہے جنہوں نے زندگی بھر فقہ قادیانیت کی سرکوبی کے محاذ پر نمایاں کارنامے سرانجام دیے۔ وہ بیک وقت عیسائیوں، آریوں اور بالخصوص قادیانیوں سے مناظرے کرتے اور انہیں شکستِ فاش سے دوچار کرتے۔ انہوں نے قادیانیت کی تردید میں درجنوں کتب تحریر کیں جنہیں ہر مکتبہ فکر نے بے حد سراہا۔ اُن کا اپنا پرچہ ہفت روزہ ”اہل حدیث“ امرتسر سے نکلتا تھا جس کے ابتدائی صفحات قادیانیت کی تردید کے لیے وقف تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ملک بھر میں قادیانی کفریہ عقائد پر بے شمار تقریریں کیں اور مباحثے کیے۔ قادیانیوں سے ان کا ایک تاریخی مناظرہ جو موضع ”مُد“ ضلع امرتسر میں ہوا، بہت مشہور ہوا۔ اس سے پہلے مولانا ثناء اللہ امرتسری ”الہاماتِ مرزا“ کے نام سے ایک کتاب شائع کر چکے تھے جس میں انہوں نے مرزا قادیانی کے نام نہاد اور خود ساختہ الہامات کا زبردست پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ قادیانیوں کا ابھی یہ زخم ہرا ہی تھا کہ ان پر ایک اور بلائے ناگہانی آ پڑی جو خود ان کی اپنی لائی ہوئی تھی۔ موضع ”مُد“ ضلع امرتسر میں قادیانیوں نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت بڑے پیمانے پر اپنے جھوٹے مذہب کی تبلیغ و تشہیر کا کام شروع کیا تو وہاں کے باشندگان نے فوراً مولانا ثناء اللہ امرتسری کو تار دیے اور آدمی بھیجے کہ حضرت فوراً موضع ”مُد“ پہنچے ورنہ گاؤں کا گاؤں بلکہ اطراف کے لوگ بھی سب گمراہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ فوراً مولانا موضع ”مُد“ پہنچے۔ قادیانیوں سے مولانا کا یہ مناظرہ بڑے پیمانے اور دھوم دھام سے 29، 30 اکتوبر 1902ء کو منعقد ہوا۔ اس مناظرہ کے لیے آنجہانی مرزا قادیانی خود آنا چاہتا تھا مگر شکست سے ڈرتے ہوئے اپنے خاص مرید مولوی سرور شاہ اور مولوی عبداللہ کشمیری کو بھیجا اور انہیں مناظرہ کے سلسلہ میں ضروری ہدایات دیں۔ مناظرے کا موضوع تھا: ”صداقتِ حضرت مسیح موعود“ یعنی مرزا قادیانی اپنے الہامی دعوؤں میں سچے ہیں یا جھوٹے؟ مولانا امرتسری نے مرزا قادیانی کے مقرر کیے ہوئے معیار اور اصول کے مطابق اُسے قطعی طور پر جھوٹا اور فریب کار ثابت کیا، بالخصوص دلائل اور حوالہ جات سے ثابت کیا کہ مرزا قادیانی کی تمام پیش گوئیاں جھوٹی نکلیں۔ بیچارے سرور شاہ نے مرزا قادیانی کے جھوٹ بچانے کے لیے مولانا امرتسری کے دلائل توڑنے اور ان کی علمی گرفت سے جان چھڑانے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر

۔ کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے

آخر قادیانی مبلغین، مولانا امرتسری کے ہاتھوں شکست فاش کھا کر بڑی رسوائی اور ذلت کے

ساتھ اپنے رفقا سمیت میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مرزا قادیانی کے ان فرستادوں نے یکم نومبر 1902ء کو قادیان پہنچ کر مناظرہ کے المناک انجام کی داستان اور اپنی خواری و خجالت کے احوال مرزا قادیانی کے گوش گزار کیے تو وہ غصہ سے لال پیلا ہو گیا۔ سخت طیش کی حالت میں پہلے موضع ”مد“ کو بدوعائیں دیں اور کہا:

(346) ”اری ارض مد قد ارید تبارھا

وغادرهم ربی کفصن تجذر“

(ترجمہ از مرزا قادیانی) ”میں مد کی زمین دیکھتا ہوں کہ اس کی تباہی نزدیک آگئی اور میرے رب نے ان کو کٹی ٹہنی کی طرح کر دیا۔“

(اعجاز احمدی صفحہ 45 مندرجہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 156 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 870 پر)

پھر اسی قصیدہ میں مرزا قادیانی نے مولانا ثناء اللہ امرتسریؒ کو جوش غضب میں دل کھول کر گالیاں دیں۔ بطور نمونہ چند گالیاں ملاحظہ فرمائیں:

□ ”تباہ کن، گمراہ اور گمراہ کن، جھوٹا، مفسد، بھیڑیے کی طرح بھونکنے والا، کتے کی طرح بھونکنے والا، بھیڑیا، متکبر، جہنم کا راہنما، احمق، اجڈ، ہڈیان گو، فتنہ خیز، فساد انگیز، آتش فساد بھڑکانے والا، جاہل، بھوت، ابن الہوی، پھوؤں کی طرح ڈنک مارنے والا، بے روح جسم، ہانڈی کی طرح جوش مارنے والا، نا فہم، غدار الزماں، خاسر، فحش گو وغیرہ وغیرہ۔“

(اعجاز احمدی صفحہ 39 تا 87 مندرجہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 150 تا 201 از مرزا قادیانی)

مرزا قادیانی نے مولانا ثناء اللہ امرتسریؒ کو قادیان آ کر ان پیش گوئیوں کی تحقیق کی دعوت

دی اور اس کے غلط ہونے پر اپنی طرف سے انعام دینے کا وعدہ کر دیا۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے:

(347) ”ایسا ہی یہ لوگ عقل کے پورے میری بعض پیشگوئیوں کا جھوٹا ٹکنا اپنے ہی دل

سے فرض کر کے یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ جب بعض پیشگوئیاں جھوٹی ہیں یا اجتہادی غلطی ہے تو

پھر مسیحیت کے دعویٰ کا کیا اعتبار شاید وہ بھی غلط ہو۔ اس کا اول جواب تو یہی ہے کہ لعنة الله

عَلَى الْكَافِرِينَ اور مولوی ثناء اللہ نے موضع مذ میں بحث کے وقت یہی کہا تھا کہ سب پیشگوئیاں جھوٹی نکلیں، اس لیے ہم ان کو مدعو کرتے ہیں اور خدا کی قسم دیتے ہیں کہ وہ اس تحقیق کے لیے قادیان میں آویں اور تمام پیشگوئیوں کی پڑتال کریں اور ہم قسم کھا کر وعدہ کرتے ہیں کہ ہر ایک پیشگوئی کی نسبت جو منہاج نبوت کی رُو سے جھوٹی ثابت ہو، ایک ایک سو روپیہ ان کی نذر کریں گے۔ ورنہ ایک خاص تمغہ لعنت کا ان کے گلے میں رہے گا اور ہم آمد و رفت کا خرچ بھی دیں گے اور کل پیشگوئیوں کی پڑتال کرنی ہوگی، تا آئندہ کوئی جھگڑا باقی نہ رہ جاوے اور اسی شرط سے روپیہ ملے گا اور ثبوت ہمارے ذمہ ہوگا۔“

(اعجاز احمدی [ضمیمہ نزول اسحٰ] صفحہ 27، 28 مندرجہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 131، 132 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 871، 872 پر)

مرزا قادیانی نے مزید لکھا:

(348) ”یہ لوگ چوروں کی طرح دُور دُور سے اعتراض کرتے ہیں اور صاف باطن لوگوں

کی طرح بالقابل آ کر اعتراض نہیں کرتے اور نہ جواب سننا چاہتے ہیں۔“

(حقیقت المہدی صفحہ 15 مندرجہ روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 441 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 873 پر)

مرزا قادیانی کا کہنا تھا کہ ان کی پیش گوئیاں 150 کے قریب ہیں، اگر وہ سب کی

سب جھوٹی ثابت ہوں تو وہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کوئی پیش گوئی 100 روپے کے حساب سے

15 ہزار روپے دیں گے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے:

(349) ”یاد رہے کہ رسالہ نزول اسحٰ میں ڈیڑھ سو پیشگوئی میں نے لکھی ہے تو گویا جھوٹ

ہونے کی حالت میں پندرہ ہزار روپیہ مولوی ثناء اللہ صاحب لے جائیں گے اور در بدر گدائی

کرنے سے نجات ہوگی۔ بلکہ ہم اور پیشگوئیاں بھی معہ ثبوت ان کے سامنے پیش کر دیں گے

اور اسی وعدہ کے موافق فی پیشگوئی سو روپیہ دیتے جائیں گے۔ اس وقت ایک لاکھ سے زیادہ

میری جماعت ہے۔ پس اگر میں مولوی صاحب موصوف کے لیے ایک ایک روپیہ بھی اپنے

مریدوں سے لوں گا، تب بھی ایک لاکھ روپیہ ہو جائے گا، وہ سب ان کی نذر ہوگا جس حالت

میں دو دو آنہ کے لیے وہ در بدر خراب ہوتے پھرتے ہیں اور خدا کا قہر نازل ہے اور مردوں کے کفن یا وعظ کے پیسوں پر گزارہ ہے۔ ایک لاکھ روپیہ حاصل ہو جانا ان کے لیے ایک بہشت ہے لیکن اگر میرے اس بیان کی طرف توجہ نہ کریں اور اس تحقیق کے لیے پابندی شرائط مذکورہ جس میں بشرط ثبوت تصدیق ورنہ تکذیب دونوں شرط ہیں۔ قادیان میں نہ آئیں تو پھر لعنت ہے اس لاف و گداز پر جو انہوں نے موضع مذ میں مباحثہ کے وقت کی اور سخت بے حیائی سے جھوٹ بولا۔“

(اعجاز احمدی [نزول المسیح ضمیمہ 1 صفحہ 23 مندرجہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 132 از مرزا قادیانی] (عکس صفحہ نمبر 874 پر))

مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی پیشگوئیوں کی تفتیش کے لیے مولانا موصوف کو قادیان آنے کا چیلنج دیا اور اس پر انعام کا وعدہ کیا اور اپنے اس چیلنج کو بار بار دہرایا۔ مرزا قادیانی جانتا تھا کہ قادیان آ کر ڈیڑھ سو پیشگوئیوں کی تفتیش کرنا اور اتنا عرصہ قادیان میں رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور ایک مصروف تہدی کے لیے اتنا وقت نکالنا ایک مشکل ترین مسئلہ ہے۔ پھر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ایک ایک پیشگوئی کی تاویل اور اس کی تردید و تفتیش میں خاصا عرصہ لگ جائے گا، آخر کار مولانا موصوف قادیان چھوڑ جائیں گے اور پھر وہ اپنی فتح کا اعلان کر دے گا۔ اسی یقین کی وجہ سے مرزا قادیانی نے کہا کہ اسے خدا نے بتا دیا ہے:

(350) ”واضح رہے کہ مولوی ثناء اللہ کے ذریعہ سے عنقریب تین نشان میرے ظاہر ہوں گے۔ (1) وہ قادیان میں تمام پیشگوئیوں کی پڑتال کے لیے میرے پاس ہرگز نہیں آئیں گے اور سچی پیشگوئیوں کی اپنے قلم سے تصدیق کرنا ان کے لیے موت ہوگی۔ (2) اگر اس چیلنج پر وہ مستعد ہوئے کہ کاذب صادق کے پہلے مر جائے تو ضرور وہ پہلے مریں گے۔ (3) اور سب سے پہلے اس اردو مضمون اور عربی قصیدہ کے مقابلہ سے عاجز رہ کر جلد تران کی روسیاہی ثابت ہو جائے گی۔“

(اعجاز احمدی [ضمیمہ نزول المسیح 1 صفحہ 37 مندرجہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 148 از مرزا قادیانی] (عکس صفحہ نمبر 875 پر))

یاد رہے کہ مرزا قادیانی کی یہ کتاب ”اعجاز احمدی“ [ضمیمہ کتاب نزول المسیح] 15 نومبر 1902ء کو شائع ہوئی تھی۔ افسوس کہ مرزا قادیانی کے خدا کی یہ بات غلط نکلی اور مرزا قادیانی کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ مولانا ثناء اللہ صاحب قادیان آدھمکے ہیں تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ مرزا قادیانی تسلیم کرتا ہے کہ مولانا ثناء اللہ صاحب اس سلسلے میں قادیان آئے۔

(351) ”ترجمة ما كتبنا الى ثناء الله الامرتسرى اذ جاء قاديان وطلب رفع

الشبهات بعطش فریے وکان هذا عاشر شوال 1320ھ اذ جاء هذا الدجال.“

(مواہب الرحمن صفحہ 113 مندرجہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 329، از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 876 پر)

ترجمہ: خطے کہ سوئے ثناء اللہ امرتسری نوشتم وقتے کہ بہ قادیان آمد و بہ تشنگی دروغ

ازالہ شبہات خود بخواست و بود این تاریخ دہم شوال 1320ھ چوں این دجال بہ قادیان آمد۔

مرزا قادیانی کی یہ کتاب جس میں اس کا خط بھی شامل ہے جنوری 1903ء میں

شائع ہوئی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ مرزا قادیانی کی 15 نومبر کی یہ بات کہ وہ ہرگز

قادیان نہیں آئیں گے، جنوری 1903ء میں ہی غلط ثابت ہو گئی۔

مرزا قادیانی کے ڈیگیں ہانکنے کے باوجود مولانا کے قادیان پہنچ جانے اور مقابلہ پر

نہ آنے سے ان کا نام نہاد قصر نبوت پیشاب کی جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ ظاہر ہے مرزا قادیانی

ان معاملات کو منظر عام پر آنے سے روک نہ سکتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی خرافات نے ارتداد

کے لیے جو فضا ہموار کر رکھی تھی، وہ یکسر بدل گئی اور خود اس کے مریدوں کی بھی آنکھیں کھل

گئیں۔ چنانچہ جو طالب ہدایت تھے، وہ قادیانیت سے تائب ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو

گئے۔ قادیان سے واپس آ کر مولانا ثناء اللہ امرتسری نے اپنی مجاہدانہ سرگرمیوں، عالمانہ گرفتوں

اور فاضلانہ مواخذات کے ذریعے فتنہ قادیانیت کا قافیہ مزید تنگ کرنا شروع کر دیا جس پر مرزا

قادیانی اور ان کے پیروکار بے حد پریشان ہوئے اور عاجز آ گئے، چنانچہ وہ اپنا اور مولانا ثناء

اللہ امرتسری کا مقدمہ لے کر خود 15 اپریل 1907ء کو خدا کی عدالت میں جا پہنچا اور خدا تعالیٰ

نے ان کے استغاثہ کے ٹھیک ساڑھے تیرہ ماہ بعد ایسا فیصلہ کیا جسے اہل اسلام اور قادیانیوں کی

جنگ کی تاریخ کا یوم الفرقان کہنا صحیح ہوگا۔ یہ فیصلہ تاقیامت مرزا قادیانی کے صدق و کذب کا دو

ٹوک اور حتمی جواب ہے۔ ملاحظہ فرمائیں:

### (352) ”مولوی ثناء اللہ صاحب کا قادیان آنا۔“

10 جنوری 1903ء

عصر کے وقت خدا تعالیٰ کے برگزیدہ حضرت مسیح موعود کو یہ خبر ہوئی کہ مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری قادیان آئے ہوئے ہیں مگر آپ نے اس کے متعلق صرف یہی فرمایا کہ ہزاروں لوگ راہرو آتے ہیں، ہمیں اس سے کیا؟

مغرب کی نماز باجماعت ادا کر کے جب حضرت اقدس دولت سرا کو تشریف لے چلے تو ایک شخص نے ہاتھ میں قلم دوات لیے ہوئے حضرت اقدس کی خدمت میں کچھ کاغذات پیش کیے۔ اس قلم دوات سے اس کی یہ غرض تھی کہ حضرت سے رقعہ کی رسید لے مگر حضرت نے توجہ نہ کی اور اس کے وہ کاغذات لے کر تشریف لے گئے اور جب عشاء کی نماز کے واسطے تشریف لائے تو فرمایا کہ:

ایک ہی مضمون کے دو رقعے مولوی ثناء اللہ صاحب کی طرف سے پہنچے ہیں۔ نہ معلوم دو رقعوں کی کیا غرض تھی۔

اُس وقت یہ عقدہ حل ہوا کہ غالباً دوسرا رقعہ دستخط یعنی رسید رقعہ لینے کی غرض سے تھا مگر قاصد کو رسید مانگنے کی جرأت نہ ہوئی اور وہ رقعہ اس وقت سید سرور شاہ صاحب کے حوالہ کیا گیا کہ وہ اسے پڑھ کر اہل مجلس کو سنا دیوں۔ اس کے بعد حضرت اقدس نے فرمایا:

ہم تیار ہیں۔ وہ ہفتہ عشرہ آرام سے سب باتیں سنے اور اگر اس کا فضا مباحثہ کا ہو تو یہ اس کی غلطی ہے کیونکہ اب مدت ہوئی کہ ہم مباحثات کو بند کر چکے ہیں۔ اگر اس کو طلب حق کی ضرورت ہے تو وہ رفیق اور آہستگی سے اپنی غلطی دور کروائے۔ طالب حق کے لیے ہمارا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہاں جو شخص ایک منٹ رہ کر چلا جانا چاہتا ہے اور اسے فتح اور شکست اور ہار اور جیت کا خیال ہے وہ مستفید نہیں ہو سکتا، بجز ایسے شخص کے جو نیک نیت بن کر آوے۔ ہم تو دوسرے کے ساتھ کلام کرنا بھی تفضیح اوقات خیال کرتے ہیں۔ ہمیں تعجب ہے کہ وہ کیوں گھمار کے ہاں جا کر اترے۔ چاہیے تھا نہ تفتیدوں کی طرح آتا اور ہمارے مہمان خانہ میں اترتا۔ پھر فرمایا: ہم اس رقعہ کا صبح کو جواب دیں گے۔



اس کے بعد حضرت اقدس نماز سے فارغ ہو کر تشریف لے چلے تو ثناء اللہ صاحب کے قاصد نے آواز دی کہ حضرت جی! مولوی ثناء اللہ صاحب کے رقعہ کا کیا جواب ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ صبح کو دیا جائے گا۔

قاصد نے کہا کہ میں آ کر جواب لے جاؤں یا آپ بذریعہ ڈاک روانہ کریں گے؟ حضرت اقدس نے فرمایا: خواہ تم آ کر لے جاؤ، خواہ ثناء اللہ آ کر لے جاوے۔

پھر آپ نے قاصد کا نام پوچھا۔ اس نے کہا محمد صدیق۔“

(ملفوظات جلد دوم صفحہ 683، 684 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 877، 878 پر)

### (353) مولوی ثناء اللہ کے رقعہ کا جواب

”11 جنوری 1903ء بروز یکشنبہ

فجر کی نماز کو جب حضرت اقدس تشریف لائے تو قبل از نماز آپ نے وہ رقعہ جو

مولوی ثناء اللہ صاحب کے رقعہ کے جواب میں تحریر فرمایا تھا، احباب کو سنایا۔ وہ رقعہ یہ تھا:

از طرف غلام احمد۔

بخدمت مولوی ثناء اللہ صاحب

آپ کا رقعہ پہنچا۔ اگر آپ لوگوں کی صدق دل سے یہ نیت ہو کہ اپنے شکوک و شبہات پیشگوئیوں کی نسبت یا ان کے ساتھ اور امور کی نسبت بھی جو دعویٰ سے تعلق رکھتے ہوں، رفع کراویں تو یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہوگی۔ اور اگرچہ میں کئی سال ہوئے کہ اپنی کتاب انجام آتھم میں شائع کر چکا ہوں کہ میں اس گروہ مخالف سے ہرگز مباحثات نہ کروں گا کیونکہ اس کا نتیجہ بجز گندی گالیوں اور اوباشانہ کلمات سننے کے اور کچھ نہیں ہوا مگر میں ہمیشہ طالب حق کے شبہات دور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگرچہ آپ نے اس رقعہ میں دعویٰ تو کر دیا ہے کہ طالب حق ہوں مگر مجھے تامل ہے کہ اس دعویٰ پر آپ قائم رہ سکیں کیونکہ آپ لوگوں کی عادت ہے کہ ایک بات کو کشاں کشاں بے ہودہ اور مباحثات کی طرف لے آتے ہیں اور میں خدا تعالیٰ کے سامنے وعدہ کر چکا ہوں کہ ان لوگوں سے مباحثات ہرگز نہیں کروں گا۔ سو وہ طریق جو مباحثات سے بہت دور ہے کہ آپ اس مرحلہ کو صاف کرنے کے لیے اول یہ اقرار

کریں کہ آپ منہاج نبوت سے باہر نہیں جائیں گے اور وہی اعتراض کریں گے جو آنحضرت ﷺ پر یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یا حضرت یونس علیہ السلام پر عائد نہ ہوتا ہو اور حدیث اور قرآن شریف کی پیشگوئیوں پر زد نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہوگی کہ آپ زبانی بولنے کے مجاز نہ ہوں گے۔ صرف آپ مختصر ایک سطر یا دو سطر تحریر دے دیں کہ میرا یہ اعتراض ہے۔ پھر آپ کو عین مجلس میں مفصل جواب سنایا جائے گا۔ اعتراض کے لیے لمبا لکھنے کی ضرورت نہیں ایک سطر یا دو سطر کافی ہیں۔ تیسری یہ شرط ہوگی کہ ایک دن میں صرف ایک ہی آپ اعتراض پیش کریں گے کیونکہ آپ اطلاع دے کر نہیں آئے، چوروں کی طرح آگئے۔ اور ہم ان دنوں باعث کم فرصتی اور کام طبع کتاب کے تین گھنٹہ سے زیادہ صرف نہیں کر سکتے۔ یاد رہے کہ یہ ہرگز نہ ہوگا کہ عوام کا لانعام کے روبرو آپ واعظ کی طرح ہم سے گفتگو شروع کر دیں بلکہ آپ نے بالکل منہ بند رکھنا ہوگا۔ جیسے صم بکتم۔ یہ اس لیے کہ تا گفتگو مباحثہ کے رنگ میں نہ ہو جاوے اور صرف ایک پیشگوئی کی نسبت سوال کریں۔ میں تین گھنٹہ تک اس کا جواب دے سکتا ہوں اور ایک ایک گھنٹہ کے بعد آپ کو متنبہ کیا جاوے گا کہ اگر ابھی تسلی نہیں ہوئی تو اور لکھ کر پیش نہ کرو۔ آپ کا کام نہیں ہوگا کہ اس کو سناویں، ہم خود پڑھ لیں گے۔ مگر چاہیے کہ دو تین سطر سے زیادہ نہ ہو۔ اس طرز میں آپ کا کچھ ہرج نہیں ہے کیونکہ آپ تو شبہات دور کرانے آئے ہیں۔ یہ طریق شبہات دور کرانے کا بہت عمدہ ہے۔ میں باواز بلند لوگوں کو سنا دوں گا کہ اس پیشگوئی کی نسبت مولوی ثناء اللہ صاحب کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا ہے اور اس کا یہ جواب ہے۔ اس طرح تمام وساوس دور کر دیے جائیں گے۔ لیکن اگر چاہو کہ بحث کے رنگ میں آپ کو بات کا موقعہ دیا جاوے تو ہرگز نہ ہوگا۔ 14 جنوری 1903ء تک میں اس جگہ ہوں۔ بعد میں 15 جنوری کو ایک مقدمہ پر جہلم جاؤں گا۔ سو اگرچہ بہت کم فرصتی ہے۔ لیکن 14 جنوری تک آپ کے لیے تین گھنٹے تک خرچ کر سکتا ہوں۔ اگر آپ لوگ کچھ نیک نیتی سے کام لیں تو یہ ایسا طریق ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ ورنہ ہمارا اور آپ لوگوں کا آسمان پر مقدمہ ہے۔ خود خدا تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔ سوچ کر دیکھ لو کہ یہ بہتر ہوگا کہ آپ بذریعہ تحریر جو سطر دو سطر سے زیادہ نہ ہو ایک ایک گھنٹہ کے بعد اپنا شبہ پیش کرتے جاویں گے اور میں وہ وسوسہ دور کرتا جاؤں گا۔ ایسے ہی صدہا آدمی آتے ہیں اور وسوسہ دور کرا لیتے ہیں۔ ایک بھلا مانس شریف آدمی ضرور اس بات کو پسند

کرے گا۔ اس کو وساوس دور کرانے ہیں اور کچھ غرض نہیں۔ لیکن وہ لوگ جو خدا سے نہیں ڈرتے ان کی توہمتیں ہی اور ہوتی ہیں۔“

(ملفوظات جلد دوم طبع جدید صفحہ 684 تا 686 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 879 تا 881 پر)

(354) ”فجر کی نماز ہوئی تو حضرت اقدس نے قلم دوات طلب فرمائی اور فرمایا کہ تھوڑا سا اور اس رقعہ پر لکھنا ہے۔“

اتنے میں مولوی ثناء اللہ صاحب کے قاصد پھر آ موجود ہوئے اور جواب طلب کیا۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ ابھی لکھ کر دیا جاتا ہے۔

پھر بقیہ حصہ آپ نے لکھ کر اپنے خدام کے حوالہ کیا کہ اس کی نقل کر کے روانہ کر دو۔ وہ حصہ رقعہ کا یہ ہے:

بالآخر اس غرض کے لیے اب آپ اگر شرافت اور ایمان رکھتے ہیں تو قادیان سے بغیر تصفیہ کے خالی نہ جاویں۔

دو قسموں کا ذکر کرتا ہوں (1) اول چونکہ میں ”انجام آتھم“ میں خدا سے قطعی عہد کر چکا ہوں کہ ان لوگوں سے قطعی بحث نہیں کروں گا۔ اس وقت پھر اسی عہد کے مطابق قسم کھاتا ہوں کہ میں زبانی آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ صرف آپ کو یہ موقعہ دیا جاوے گا کہ آپ اول ایک اعتراض جو آپ کے نزدیک سب سے بڑا اعتراض کسی پیشگوئی پر ہو ایک سطر یا دو سطر یا حد تین سطر تک لکھ کر پیش کریں جس کا یہ مطلب ہو کہ یہ پیشگوئی پوری نہ ہوئی اور منہاج نبوت کی رُو سے قابل اعتراض ہے اور پھر چپ رہیں اور میں مجمع عام میں اس کا جواب دوں گا جیسا کہ مفصل لکھ چکا ہوں۔ پھر دوسرے دن دوسری پیشگوئی اسی طرح لکھ کر پیش کریں۔ یہ تو میری طرف سے خدا تعالیٰ کی قسم ہے کہ میں اس سے باہر نہیں جاؤں گا اور کوئی زبانی بات نہیں سنوں گا اور آپ کی مجال نہیں ہوگی کہ کوئی کلمہ بھی زبانی بول سکیں اور آپ کو بھی خدا تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ اگر آپ سچے دل سے آئے ہیں تو اس کے پابند ہو جاویں اور ناحق فتنہ و فساد میں عمر بسر نہ کریں۔ اب ہم دونوں میں سے ان دونوں قسموں سے جو شخص اعراض کرے گا، اس پر خدا کی لعنت ہو اور خدا کرے کہ وہ اس لعنت کا پھل بھی اپنی زندگی میں دیکھ لے۔ آمین! سو میں دیکھوں گا کہ آپ سنت نبویہ کے موافق اس قسم کو پورا کرتے ہیں یا قادیان سے نکلتے

ہوئے اس لعنت کو ساتھ لے جاتے ہیں؟ اور چاہیے کہ اول آپ اس عہد موکد قسم کے آج ہی ایک اعتراض دو تین سطر کا لکھ کر بھیج دیں اور پھر وقت مقرر کر کے مسجد میں مجمع کیا جائے گا اور آپ کو بتلایا جاوے گا اور عام مجمع میں آپ کے شیطانی وساوس دور کر دیے جاویں گے۔“

رقعہ دے کر آپ تشریف لے گئے اور اندر سے حضور نے کہلا بھیجا کہ رقعہ وہاں اُن کو جا کر سنا دیا جاوے اور پھر ان کے حوالہ کیا جاوے۔

چنانچہ یہ رقعہ مولوی ثناء اللہ صاحب کو پہنچا دیا گیا۔ تھوڑے عرصہ کے بعد پھر مولوی ثناء اللہ صاحب کی طرف سے جواب الجواب آیا۔

یہ نامعقول اور اصل بحث سے بالکل دور جواب سن کر حضرت اقدس کو بہت رنج ہوا اور آپ نے فرمایا کہ:

ہم نے جو اسے خدا کی قسم دی تھی، اس سے فائدہ اٹھاتا یہ نظر نہیں آتا۔ اب خدا کی لعنت لے کر واپس جانا چاہتا ہے۔ جس بات کو ہم بار بار لکھتے ہیں کہ ہم مباحثہ نہیں کرتے جیسا کہ ہم ”انجام آقہم“ میں اپنا عہد دنیا میں شائع کر چکے ہیں، تو اب اس کا منشا ہے کہ ہم خدا کے اس عہد کو توڑ دیں۔ یہ ہرگز نہ ہوگا اور پھر اس رقعہ میں کس قدر افترا سے کام لیا گیا ہے کیونکہ جب ہم اسے اجازت دیتے ہیں کہ ہر ایک گھنٹہ کے بعد وہ دو تین سطریں ہماری تقریر پر اپنے شبہات کی لکھ دیوے تو اس طرح سے خواہ اس کی دن میں تیس سطور ہو جاویں، ہم کب گریز کرتے ہیں اور خواہ ایک ہی پیشگوئی پر وہ ہم سے دس دن تک سنتا رہتا اور اپنے وساوس اس طرز سے پیش کرتا رہتا۔ اسے اختیار تھا۔ پھر ایک دوسرا جھوٹ یہ بولا ہے کہ لکھتا ہے کہ آپ مجمع پسند نہیں کرتے۔ بھلا ہم نے کب لکھا ہے کہ ہم مجمع پسند نہیں کرتے بلکہ ہم تو عام جلسہ چاہتے ہیں کہ تمام قادیان کے لوگ اور دوسرے بھی جس قدر ہوں جمع ہوں تاکہ ان لوگوں کی بے ایمانی کھلے کہ کس طرح یہ لوگوں کو فریب دے رہے ہیں۔ اگر اسے حق کی طلب ہوتی تو اسے ہمارے شرائط ماننے میں کیا عذر تھا مگر یہ بد نصیب واپس جانا نظر آتا ہے۔

پھر مولوی محمد احسن صاحب کو حضور انور نے فرمایا کہ آپ اس کا جواب لکھ دیں، مجھے فرصت نہیں۔ میں کتاب لکھ رہا ہوں۔

یہ کہہ کر حضور تشریف لے گئے اور مولوی محمد احسن صاحب نے رقعہ کا جواب تحریر فرمایا۔ اس کے بعد کوئی جواب مولوی ثناء اللہ صاحب کی طرف سے نہ آیا۔ اور وہ قادیان سے چلے گئے۔“

(ملفوظات جلد دوم صفحہ 686 تا 688 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 882 تا 884 پر)

مرزا قادیانی کا دعویٰ تھا:

(355) ”جو خدا کا ہے اسے لکارنا اچھا نہیں

ہاتھ شیروں پر نہ ڈال اے رُوبہ زار و نزار“

(برائین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 101 مندرجہ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 131 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 885 پر)

پھر مرزا قادیانی نے اپنا الہام اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے کہا ہے:

(356) ”وما كان الله ليتركك حتى يميز الخبيث من الطيب ط اور خدا ایسا

نہیں کہ تجھ کو چھوڑ دے جب تک کہ پاک اور پلید میں فرق کر کے نہ دکھلا دے۔“

(حقیقۃ الوحی صفحہ 76 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 179 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 886 پر)

مزید کہا:

(357) ”اگر میرے مقابل پر تمام دنیا کی قومیں جمع ہو جائیں اور اس بات کا بالمقابل امتحان

ہو کہ کس کو خدا غیب کی خبریں دیتا ہے اور کس کی دعائیں قبول کرتا ہے اور کس کی مدد کرتا ہے اور

کس کے لیے بڑے بڑے نشان دکھاتا ہے تو میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ہی غالب

رہوں گا۔ کیا کوئی ہے؟ کہ اس امتحان میں میرے مقابل پر آوے۔“

(حقیقۃ الوحی صفحہ 176 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 181، 182 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 887، 888 پر)

مرزا قادیانی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتا ہے:

(358) ”کوئی ایسا نشان دکھلا جو انسانی ہاتھوں سے بالاتر ہو جبکہ تُو نے مجھے مخاطب کر

کے کہا کہ میں تیری ہر ایک دعا کو قبول کروں گا مگر شرکاء کے بارے میں نہیں۔ تبھی سے میری

روح دعاؤں کی طرف دوڑتی ہے۔ اور میں نے اپنے لیے یہ قطعی فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر میری

یہ دعا قبول نہ ہو تو میں ایسا ہی مردود اور ملعون اور کافر اور بے دین اور خائن ہوں جیسا کہ مجھے سمجھا گیا ہے۔“

(تریاق القلوب صفحہ 384 مندرجہ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 512 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 889 پر)

مرزا قادیانی لکھتا ہے:

(359) ”میں نے سنا ہے بلکہ مولوی ثناء اللہ امرتسری کی دستخطی تحریر میں نے دیکھی ہے جس میں وہ یہ درخواست کرتا ہے کہ میں اس طور کے فیصلہ کے لیے بدل خواہشمند ہوں کہ فریقین یعنی میں اور وہ یہ دعا کریں کہ جو شخص ہم دونوں میں سے جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں ہی مر جائے۔“  
(اعجاز احمدی صفحہ 14 مندرجہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 121 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 890 پر)

مزید کہا:

(360) ”یہ تو انہوں نے اچھی تجویز نکالی۔ اب اس پر قائم رہیں تو بات ہے۔“

(اعجاز احمدی [ضمیمہ نزول اسحٰ] صفحہ 14 مندرجہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 122 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 891 پر)

مرزا قادیانی نے لکھا:

(361) ”ابو جہل نے جب بدر کی لڑائی میں یہ دعا کی تھی کہ اللہم من کان منا کاذبا فاحنه فی هذا الموطن۔ یعنی اے خدا ہم دونوں میں سے جو محمد مصطفیٰ ﷺ اور میں ہوں جو شخص تیری نظر میں جھوٹا ہے، اس کو اسی موقع قتال میں ہلاک کر۔ تو کیا اس دعا کے وقت اس کو گمان تھا کہ میں جھوٹا ہوں۔“

(تختہ گولڑویہ [ضمیمہ] صفحہ 10 مندرجہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 52 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 892 پر)

اس سے پہلے مرزا قادیانی مولانا امرتسری کے ساتھ ہونے والی ایک بحث میں لکھ چکا تھا۔  
 (362) ”مگر شرط یہ ہوگی کہ کوئی موت قتل کے رُود سے واقع نہ ہو بلکہ محض بیماری کے ذریعہ سے  
 ہو۔ مثلاً طاعون سے یا ہیضہ سے یا اور کسی بیماری سے تا ایسی کارروائی حکام کے لیے تشویش کا  
 موجب نہ ٹھہرے اور ہم یہ بھی دعا کرتے رہیں گے کہ ایسی موتوں سے فریقین محفوظ رہیں۔ صرف  
 وہ موت کاذب کو آوے جو بیماری کی موت ہوتی ہے اور یہی مسلک فریق ثانی کو اختیار کرنا ہوگا۔“  
 (اعجاز احمدی | ضمیر نزول اسحٰ | صفحہ 15 مندرجہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 122 از مرزا قادیانی)  
 (عکس صفحہ نمبر 893 پر)

مرزا قادیانی کا مندرجہ بالا اشتہار کسی حاشیہ یا شرح کا محتاج نہیں۔ اس اشتہار کے  
 شائع ہونے کے 4 دن بعد یعنی 19 اپریل 1907ء کو اسے دوبارہ شائع کر کے تقسیم کیا گیا۔  
 (مجموعہ اشتہارات جلد سوم صفحہ 580)  
 اس کے 6 دن بعد 25 اپریل 1907ء کو قادیانی اخبار بدر قادیان میں مرزا قادیانی  
 کا ایک اور بیان شائع ہوا جس میں مرزا قادیانی نے کہا:  
 (قارئین کرام سے گزارش ہے کہ وہ مرزا قادیانی کے اس اشتہار کو توجہ سے ملاحظہ  
 فرمائیں۔ شکریہ!)

(363) ”مولوی ثناء اللہ صاحب (امرتسری) کے ساتھ آخری فیصلہ

بخدمت مولوی ثناء اللہ صاحب السلام علی من اتبع الهدی۔ مدت سے آپ  
 کے پرچہ ”الحدیث“ میں میری تکذیب اور تفسیق کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمیشہ مجھے آپ اپنے  
 اس پرچہ میں مردود و کذاب و جال مفسد کے نام سے منسوب کرتے ہیں اور دنیا میں میری  
 نسبت شہرت دیتے ہیں کہ یہ شخص مفتری اور کذاب اور جال ہے اور اس شخص کا دعویٰ مسیح  
 موعود ہونے کا سراسر افترا ہے۔ میں نے آپ سے بہت دکھ اٹھایا اور صبر کرتا رہا۔ مگر چونکہ میں  
 دیکھتا ہوں کہ میں حق کے پھیلانے کے لیے مامور ہوں اور آپ بہت سے افترا میرے پر کر  
 کے دنیا کو میری طرف آنے سے روکتے ہیں اور مجھے ان گالیوں اور ان تہمتوں اور ان الفاظ  
 سے یاد کرتے ہیں کہ جن سے بڑھ کر کوئی لفظ سخت نہیں ہو سکتا۔ اگر میں ایسا ہی کذاب اور

مفتری ہوں جیسا کہ اکثر اوقات آپ اپنے ہر ایک پرچہ میں مجھے یاد کرتے ہیں تو میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسد اور کذاب کی بہت عمر نہیں ہوتی اور آخر وہ ذلت اور حسرت کے ساتھ اپنے اشد دشمنوں کی زندگی میں ہی ناکام ہلاک ہو جاتا ہے اور اس کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہوتا ہے تا خدا کے بندوں کو تباہ نہ کرے۔ اور اگر میں کذاب اور مفتری نہیں ہوں اور خدا کے مکالمہ اور مخاطبہ سے مشرف ہوں اور مسیح موعود ہوں تو میں خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ سنت اللہ کے موافق آپ مکذبین کی سزا سے نہیں بچیں گے۔ پس اگر وہ سزا جو انسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے ہے جیسے طاعون ہیضہ وغیرہ مہلک بیماریاں آپ پر میری زندگی میں ہی وارد نہ ہوئی تو میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں۔ یہ کسی الہام یا وحی کی بنا پر پیشگوئی نہیں، محض دعا کے طور پر میں نے خدا سے فیصلہ چاہا ہے۔ اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے مالک بصیر و قدیر جو عظیم و خیر ہے جو میرے دل کے حالات سے واقف ہے اگر یہ دعویٰ مسیح موعود ہونے کا محض میرے نفس کا افترا ہے اور میں تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں اور دن رات افترا کرنا میرا کام ہے تو اے میرے پیارے مالک میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کر اور میری موت سے ان کو اور ان کی جماعت کو خوش کر دے۔ آمین! مگر اے میرے کامل اور صادق خدا اگر مولوی ثناء اللہ ان تہمتوں میں جو مجھ پر لگاتا ہے حق پر نہیں تو میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں ہی ان کو نابود کر۔ مگر نہ انسانی ہاتھوں سے بلکہ طاعون و ہیضہ وغیرہ امراض مہلکہ سے بجز اس صورت کے کہ وہ کھلے کھلے طور پر میرے رو برو اور میری جماعت کے سامنے ان تمام گالیوں اور بدزبانیوں سے توبہ کرے جن کو وہ فرض منصبی سمجھ کر ہمیشہ مجھے دکھ دیتا ہے۔ آمین! یارب العالمین! میں ان کے ہاتھ سے بہت ستایا گیا اور صبر کرتا رہا۔ مگر اب میں دیکھتا ہوں کہ ان کی بدزبانی حد سے گزر گئی۔ وہ مجھے اُن چوروں اور ڈاکوؤں سے بھی بدتر جانتے ہیں جن کا وجود دنیا کے لیے سخت نقصان رساں ہوتا ہے اور انہوں نے ان تہمتوں اور بدزبانیوں میں آیت لائق مالیس لک بہ علم پر بھی عمل نہیں کیا اور تمام دنیا سے



مجھے بدتر سمجھ لیا اور دو دو در دو در ملکوں تک میری نسبت یہ پھیلا دیا کہ یہ شخص درحقیقت مفسد اور ٹھگ اور دوکاندار اور کذاب اور مفتری اور نہایت درجہ کا بد آدمی ہے۔ سوا گز ایسے کلمات حق کے طالبوں پر بد اثر نہ ڈالتے تو میں ان تہمتوں پر صبر کرتا۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ انھیں تہمتوں کے ذریعہ سے میرے سلسلہ کو نابود کرنا چاہتا ہے اور اس عمارت کو منہدم کرنا چاہتا ہے جو تو نے اے میرے آقا اور میرے پیچھے والے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔ اس لیے اب میں تیرے ہی تقدس اور رحمت کا دامن پکڑ کر تیری جناب میں ملتی ہوں کہ مجھ میں اور ثناء اللہ میں سچا فیصلہ فرما اور وہ جو تیری نگاہ میں درحقیقت مفسد اور کذاب ہے اس کو صادق کی زندگی میں ہی دنیا سے اٹھالے یا کسی اور نہایت سخت آفت میں جو موت کے برابر ہو جتلا کر۔ اے میرے پیارے مالک تو ایسا ہی کر۔ آمین ثم آمین!!

ربنا الفتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ آمین۔

بالآخر مولوی صاحب سے التماس ہے کہ وہ میرے اس تمام مضمون کو اپنے پرچہ میں چھاپ دین اور جو چاہیں اس کے نیچے لکھ دیں۔ اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔

الراحم

عبداللہ الصمد میرزا غلام احمد مسیح موعود عا قاہ اللہ وایتہ

مرقوم 15 اپریل 1907ء

(مجموعہ اشتہارات جلد دوم صفحہ 705، 706 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 894، 895 پر) اس اشتہار کے چند ماہ بعد 17 ستمبر 1907ء کو مرزا قادیانی کا نوجوان لڑکا مبارک احمد ایک پڑ اسرار بیماری سے ہلاک ہو گیا۔ حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری نے مرزا قادیانی پر اعتراض کیا کہ آپ نے اپنی دعا میں کہا تھا کہ جھوٹے کو موت آئے یا موت کے برابر کوئی تکلیف۔ لہذا جوان بیٹے کا مر جانا بھی آپ کی موت کے برابر ہے۔ مرزا قادیانی نے 5 نومبر 1907ء کو بذریعہ اشتہار یہ جواب دیا کہ ہمارا لڑکا اس مبادلہ میں شامل نہیں۔

مزید کہا:

(364) ”ثناء اللہ کے متعلق جو لکھا گیا ہے، یہ دراصل ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ

ہی کی طرف سے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔“

(ملفوظات جلد پنجم طبع جدید صفحہ 206 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 896 پر)

مرزا قادیانی کے مولانا ثناء اللہ امرتسری کے متعلق اشتہار اور بیانات سے مندرجہ

ذیل نتائج اخذ ہوتے ہیں:-

- 1- مرزا غلام احمد قادیانی اور مولانا ثناء اللہ امرتسری میں سے جو جھوٹا ہے، وہ سچے کی زندگی میں فوت ہو جائے گا۔
- 2- ان دونوں میں جسے بھی موت آئے، وہ قتل کی رو سے نہیں، بلکہ وہ کسی مہلک بیماری جیسے طاعون، ہیضہ وغیرہ میں ہلاک ہوگا۔
- 3- یہ دعا خدا کی تحریک پر کی گئی تھی اور اس کی مقبولیت کا مرزا قادیانی کو الہام بھی ہو گیا تھا۔

اب صرف یہ دیکھنا باقی ہے کہ:-

□ خدا نے کیا فیصلہ کیا؟

□ کے پہلے موت آئی؟

□ اور کس بیماری سے وہ ہلاک ہوا؟

مرزا قادیانی کی تاریخ وفات 26 مئی 1908ء ہے۔ یعنی مرزا قادیانی اپنی دعا کے تقریباً

13 ماہ اور بارہ دن بعد ہیضہ کی بیماری سے آنجہانی ہو گیا جبکہ مولانا ثناء اللہ امرتسری اس دعا کے

تقریباً چالیس سال بعد (پاکستان بننے کے بعد) 15 مارچ 1948ء میں اللہ کو پیارے ہوئے۔

کسی نے کیا خوب کہا تھا:

لکھا تھا کاذب مرے گا پشتر

کذب میں سچا تھا پہلے مر گیا

مرزا قادیانی نے جھوٹے کے لیے خود ہیضہ کی بیماری تجویز کی تھی۔ اس طرح اسے

منہ مانگی موت مل گئی۔ اس سلسلہ میں اگر ہم کچھ عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ بہتر ہے کہ گھر

کی شہادت پیش کی جائے تاکہ اعتراض و انکار کی کوئی گنجائش نہ رہے۔

مرزا قادیانی کہا کرتا تھا کہ مجھے الہام ہوا ہے۔

(365) ”انی احافظ کل من فی الدار“

(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات طبع چہارم صفحہ 552, 553 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 897, 898 پر)

(یعنی اے مرزا! تیرے گھر کے ہر فرد کی میں (خدا) حفاظت کروں گا) اس خدائی

الہام کے باوجود اپریل 1908ء میں مرزا قادیانی کو اپنے اہل و عیال سمیت بیماری کے سبب قادیان چھوڑ کر تبدیلی آب و ہوا کے لیے لاہور جانا پڑا۔ مگر جب لاہور وارد ہوا تو زندہ نہ پلٹ سکا۔ اس کی موت کیوں واقع ہوئی؟ اس کی تفصیلات اس طرح ہیں:

25 مئی 1908ء کو شام کھانے کے بعد مرزا قادیانی کی حالت اچانک بگڑنے لگی۔

اسے مسلسل اسہال شروع ہو گئے۔ ایک دو دفعہ رفع حاجت کے لیے لیٹرین گیا، بعد ازاں ضعف کی وجہ سے ٹڈھال ہو گیا۔ ان کے جسم کا پانی اور نمک ختم ہو گیا تھا۔ بلڈ پریشر کم ہونے سے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ آنکھیں اندر کو دھنس گئیں اور نبض اتنی کمزور ہو گئی کہ محسوس کرنا مشکل ہو گئی۔ پھر دست آیا تو چار پائی سے بڑی مشکل سے اٹھا تو گر گیا۔ ضعف اتنا تھا کہ وہ پشت کے بل چار پائی پر گر گیا اور ان کا سر چار پائی کی لکڑی سے ٹکرایا اور حالت دگرگوں ہو گئی۔ بعد ازاں ایک اور دست آیا تو بستر پر ہی نکل گیا۔ اس کے ساتھ ہی اسے قے ہونا شروع ہو گئیں۔

مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر احمد اپنی والدہ نصرت جہاں کے حوالہ سے لکھتا ہے:

(366) ”والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ حضرت مسیح موعود کو پہلا دست کھانا کھانے کے وقت آیا

تھا۔ مگر اس کے بعد تھوڑی دیر تک ہم لوگ آپ کے پاؤں دباتے رہے اور آپ آرام سے

لیٹ کر سو گئے اور میں بھی سو گئی۔ لیکن کچھ دیر کے بعد آپ کو پھر حاجت محسوس ہوئی اور غالباً

ایک یا دو دفعہ رفع حاجت کے لیے آپ پاخانہ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ نے زیادہ

ضعف محسوس کیا، تو اپنے ہاتھ سے مجھے جگایا۔ میں اٹھی تو آپ کو اتنا ضعف تھا کہ آپ میری

چار پائی پر ہی لیٹ گئے اور میں آپ کے پاؤں دبانے کے لیے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد

حضرت صاحب نے فرمایا۔ تم اب سو جاؤ۔ میں نے کہا۔ نہیں میں دباتی ہوں۔ اتنے میں آپ کو

ایک اور دست آیا۔ مگر اب اس قدر ضعف تھا کہ آپ پاخانہ نہ جاسکتے تھے۔ اس لیے میں نے

چار پائی کے پاس ہی انتظام کر دیا اور آپ وہیں بیٹھ کر فارغ ہوئے اور پھر اٹھ کر لیٹ گئے اور

میں پاؤں دباتی رہی۔ مگر ضعف بہت ہو گیا تھا اس کے بعد ایک اور دست آیا اور پھر آپ کو ایک تے آئی۔ جب آپ تے سے فارغ ہو کر لیٹنے لگے تو اتنا ضعف تھا کہ آپ لیٹتے لیٹتے پشت کے بل چارپائی پر گر گئے اور آپ کا سر چارپائی کی لکڑی سے ٹکرایا اور حالت دگرگون ہو گئی۔ اس پر میں نے گہرا کر کہا ”اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے!“ تو آپ نے فرمایا: ”یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا۔“

(سیرت الہدی جلد اول صفحہ 11، 12 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 900,899 پر)

گویا یضربون وجوہہم وادبارہم کا نقشہ تھا۔

مرزا قادیانی کے خسر میر ناصر نواب کا کہنا ہے:

(367) ”حضرت صاحب جس رات کو بیمار ہوئے، اس رات کو میں اپنے مقام پر جا کر سو چکا تھا۔ جب آپ کو بہت تکلیف ہوئی تو مجھے جگایا گیا تھا۔ جب میں حضرت صاحب کے پاس پہنچا اور آپ کا حال دیکھا تو آپ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا: میر صاحب! مجھے وہابی ہیضہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوئی ایسی صاف بات میرے خیال میں نہیں فرمائی۔ یہاں تک کہ دوسرے روز دس بجے کے بعد آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔“

(حیات ناصر صفحہ 14 از شیخ یعقوب علی عرفانی قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 901 پر)

مرزائیوں کی لاہوری پارٹی کے آرگن ”پیغام صلح“ نے 3 مارچ 1939ء کی

اشاعت میں لکھا ہے:

□ ”بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی موت کے وقت ان کے منہ سے پاخانہ نکل رہا تھا۔“

کیا اس سے زیادہ کسی اور شہادت کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ کیا گہروالوں کی یہ شہادت کافی نہیں کہ مرزا قادیانی نے جھوٹے کے لیے جس بیماری میں مرنے کی دعا کی تھی ویسی ہی موت مرزا قادیانی کو ملی۔ اور ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی کی یہ دعا قبول کی اور ان کی منہ مانگی مراد انہیں دے دی۔ فلاعتبروا یا اولی الابصار۔

کسی زندہ دل شاعر نے مرزا قادیانی آنجہانی کی تاریخ وفات لکھی ہے۔

یوں کہا کرتا تھا مر جائیں گے اور

اور تو زندہ ہیں خود ہی مر گیا

اس کے پیاروں کا ہو گا کیا علاج  
کارہ سے خود مسجا مر گیا

۱۔ کارہ (Cholera) سے مراد ہیضہ۔

ہمیں افسوس ہے کہ مرزا قادیانی کے جانشینوں نے مرزا قادیانی کی عبرتناک موت سے کچھ بھی سبق حاصل نہیں کیا۔ حق کے فیصلے کو سامنے دیکھتے ہوئے جھوٹ پر اڑنا اور عام لوگوں کو گمراہ کرنا بڑی بدبختی کی بات ہے۔ حالانکہ مرزا قادیانی یہ کہہ چکا ہے کہ اس کی عبرتناک ہلاکت کی صورت میں قادیانیوں کو چاہیے کہ وہ سچائی کا دامن تھام لیں اور غلط بات پر ہرگز نہ اڑیں۔

مرزا قادیانی مولانا ثناء اللہ صاحب مرحوم کے ساتھ ہونے والی بحث میں لکھتا ہے:

(368) ”میں اقرار کرتا ہوں کہ اگر میں اس مقابلہ میں مغلوب رہا تو میری جماعت کو چاہیے جو ایک لاکھ سے بھی اب زیادہ ہے کہ سب مجھ سے بیزار ہو کر الگ ہو جائیں کیونکہ جب خدا نے مجھے جھوٹا قرار دے کر ہلاک کیا تو میں جھوٹے ہونے کی حالت میں کسی پیشوائی اور امامت کو نہیں چاہتا بلکہ اس حالت میں ایک یہودی سے بھی بدتر ہوں گا اور ہر ایک کے لیے جائے عار و ننگ۔“

(اعجاز احمدی [ضمیمہ نزول المسیح] صفحہ 16 مندرجہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 124 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 902 پر)

ہم قادیانیوں سے درخواست کریں گے کہ وہ خود غور کریں اور دیکھیں کہ مرزا قادیانی، مولانا ثناء اللہ مرحوم کے مقابل غالب ہوا یا مغلوب؟ مرزا قادیانی کا مغلوب ہونا اور وہابی ہیضہ سے ہلاک ہونا کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، اس کے باوجود سرور دو عالم خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی غلامی میں نہ آنا بہت بڑی بد نصیبی اور شقاوت ہے۔

مرزا قادیانی خود لکھتا ہے:

(369) ”اب بتلاؤ کہ کیا مقبولان الہی کا یہی نشان ہے کہ جو دعا وہ نہایت تضرع و ابہتال سے

کریں، اس کا الٹا اثر ہو اور اثر بھی یہ کہ خود ہی ہلاک ہو کر اپنے کاذب ہونے پر مہر لگا جاویں۔“

(ملفوظات جلد پنجم صفحہ 200 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 903 پر)

مزید مرزا قادیانی کا یہ الہام بھی پورا نہ ہوا بلکہ الٹ ثابت ہوا۔

(370) ”انی مہین من ارادا ہانتک۔

جو تیری ذلت چاہے، میں اُسے ذلیل کروں گا۔“

(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات طبع چہارم صفحہ 158 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 904 پر)

مزید لکھتا ہے:

(371) ”قانونِ قدرت صاف گواہی دیتا ہے کہ خدا کا یہ فعل بھی دنیا میں پایا جاتا ہے کہ وہ

بعض اوقات بے حیا اور سخت دل مجرموں کی سزا ان کے ہاتھ سے دلواتا ہے۔ سو وہ لوگ اپنی

ذلت اور تباہی کے سامان اپنے ہاتھ سے جمع کر لیتے ہیں اور ان کی نظر سے وہ امور اس وقت

تک مخفی رکھے جاتے ہیں جب تک خدا تعالیٰ کی قضا و قدر نازل ہو جائے۔“

(استغناء صفحہ 8 مندرجہ روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 116 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 905 پر)

## دسویں پیش گوئی

### محمدی بیگم

تاریخ میں جھوٹے نبیوں کے حالات زندگی پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عیش و

عشرت اور غایت درجہ بے لگام نفسانی خواہشات کے غلام تھے۔ ان کی سب سے بڑی کمزوری

ان کی تعیش پسندی تھی۔ وہ اخلاقی قدروں کے سرے سے قائل نہ تھے۔ ان کے حلقہٴ ارادت

میں آنے والی خوبصورت اور نوجوان لڑکیاں ایک ایک کر کے ان کی شیطانی ہوس کے گھاٹ

اترتی رہیں، لیکن ان کے پیروکار یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی ان کی اندھی محبت اور عقیدت

میں ان کی مدح کے گیت لاپتے رہے۔

جھوٹا مدعی نبوت آنجہانی مرزا قادیانی بھی اپنے پیش روؤں کی طرح اسی کردار کا

مالک تھا۔ وہ دن کو غیر محرم عورتوں کے جھرمٹ میں بیٹھا خوشی سے پھولے نہ سماتا تو رات کو

خواب میں بھی ایسی ہی رنگینیوں اور سنگینیوں کا نظارہ کرتا۔ مرزا قادیانی کی پہلی شادی اس کے ماموں مرزا جمعیت بیگ کی لڑکی حرمت بی بی سے ہوئی جس سے دو لڑکے فضل احمد اور سلطان احمد پیدا ہوئے۔ بعد ازاں انگریزوں کی حمایت اور جہاد کی مخالفت کے عوض انگریز سرکار اس پر بہت مہربان ہو گئی۔ اس کے دن پھر گئے اور وہ لاکھوں میں کھیلنے لگا۔ دولت کی فراوانی نے اسے شراب و کباب کا رسیا بنا دیا جس سے اس کی صحت خراب رہنے لگی۔ لیکن اس کے باوجود اس نے دہلی کے ایک آزاد خیال گھرانے کی ایک 16 سالہ لہڑ خاتون نصرت جہاں سے شادی رچائی۔ حالانکہ بقول مرزا قادیانی ان دنوں اس کی حالت مردی کا عدم تھی۔ حکیم نور الدین کے کشتوں نے اسے ازسرنو عارضی طور پر جوان کر دیا۔ نصرت جہاں سے اس کے کئی بچے پیدا ہوئے۔ دوسری شادی کے تقریباً 2، 4 سال بعد اس کی نظر خاندان کی ایک نوخیز اور نہایت خوبصورت لڑکی ”محمدی بیگم“ پر پڑی تو وہ دل پر قابو نہ رکھ سکا۔ ان کی جنسی ہوس کی رال ٹپکنے لگی۔ وہ اپنے خوابوں اور خیالات میں محمدی بیگم کا تصور لا کر تنہائی میں نجانے کیا کیا احمقانہ حرکات کرتا۔ انہی دنوں مرزا قادیانی کو الہام ہوا:

(372) ”بستر عیش۔“

(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات طبع چہارم صفحہ 416 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 906 پر)

پھر اپنا ایک رنگین و سنگین خواب اس طرح بیان کرتا ہے:

(373) ”مطابق 30 ذی الحجہ روز شنبہ۔ آج میں نے بوقت صبح صادق چار بجے خواب میں دیکھا کہ ایک حویلی ہے۔ اس میں میری بیوی والدہ محمود اور ایک عورت بیٹھی ہے۔ تب میں نے ایک مشک سفید رنگ میں پانی بھرا ہے اور اس مشک کو اٹھا کر لایا ہوں اور وہ پانی لا کر ایک گھرے میں ڈال دیا ہے۔ میں پانی کو ڈال چکا تھا کہ وہ عورت جو بیٹھی ہوئی تھی، یکا یک سرخ اور خوش رنگ لباس پہنے ہوئے میرے پاس آ گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جوان عورت ہے، بیروں سے سر تک سرخ لباس پہنے ہوئے۔ شاید جالی کا کپڑا ہے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ وہی عورت ہے جس کے لیے اشتہار دیے تھے۔ لیکن اس کی صورت میری بیوی کی صورت معلوم ہوئی۔ گویا اس نے کہا، یا دل میں کہا کہ میں آ گئی ہوں۔ میں نے کہا یا اللہ آ جاوے۔ اور پھر وہ عورت مجھ سے بغلگیر ہوئی۔ اس کے بغلگیر ہوتے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ فالحمد

لله على ذالك۔“

(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات طبع چہارم صفحہ 159 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 907 پر)

ایک اور خواب بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے:

(374) ”رویا۔ دیکھا کہ پندرہ سولہ نوجوان عورتیں خوبصورت اور نہایت خوش لباس پہنے

ہوئے میرے سامنے آئی ہیں۔ میں نے اس خیال سے کہ یہ جوان عورتیں ہیں، منہ ان سے

پھیر لیا، اور ان سے پوچھا کہ تم کیسے آئی ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو آپ کے پاس ہی آئی ہیں۔

پھر انہوں نے وہیں ہلڑے ڈالان میں ڈیرے لگا دیے۔“

(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات طبع چہارم صفحہ 535 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 908 پر)

ایک خواب میں دیکھتا ہے:

(375) ”دیکھا کہ میں ایک بیڑی پر بیٹھا ہوں تو ایک عورت نوجوان عمدہ لباس پہنے ہوئے

تیس بتیس سال کی میرے سامنے آئی اور اس نے کہا کہ میرا ارادہ اب اس گھر سے چلا جانے

کا تھا۔ مگر تمہارے لیے رہ گئی ہوں۔“

(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات طبع چہارم صفحہ 535 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 909 پر)

پھر مرزا قادیانی محمدی بیگم کے عشق میں گرفتار ہو کر عشقیہ اشعار کہنے لگا۔ ملاحظہ فرمائیں:

(376) ”عشق کا روگ ہے کیا پوچھتے ہو اس کی دوا

ایسے بیمار کا مرنا ہی دوا ہوتا ہے

کچھ مزا پایا مرے دل! ابھی کچھ پاؤ گے

تم بھی کہتے تھے کہ اُلفت میں مزا ہوتا ہے

ہائے کیوں ہجر کے الم میں پڑے

مفت بیٹھے بٹھائے غم میں پڑے

اس کے جانے سے صبر دل سے گیا

ہوش بھی ورطہ عدم میں پڑے



سبب کوئی خداوند بنا دے  
 کسی صورت سے وہ صورت دکھا دے  
 کرم فرما کے آ او میرے جانی  
 بہت روئے ہیں اب ہم کو ہنسا دے  
 کبھی نکلے گا آخر تنگ ہو کر  
 ولا اک بار شور و غل مچا دے

(سیرت الہدی جلد اول صفحہ 232 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 910 پر)

اس کے بعد مرزا قادیانی نے محمدی بیگم کو ”پارسا طبع اور نیک سیرت الہیہ“ کا خطاب دے کر درج ذیل خدائی الہام بیان کیا۔ مزید کہا کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے ہاں طے ہو چکی ہے کہ محمدی بیگم میرے نکاح میں آئے گی۔ ملاحظہ فرمائیں:

(377) ”شاید چار ماہ کا عرصہ ہوا کہ اس عاجز پر ظاہر کیا گیا تھا کہ ایک فرزند قوی الطاقین، کامل الظاہر والباطن تم کو عطا کیا جائے گا۔ سو اس کا نام بشیر ہوگا۔ اب تک میرا قیاسی طور پر خیال تھا کہ شاید وہ فرزند مبارک اسی الہیہ سے ہوگا۔ اب زیادہ تر الہام اس بات میں ہو رہے ہیں کہ عنقریب ایک اور نکاح تمہیں کرنا پڑے گا اور جناب الہی میں یہ بات قرار پا چکی ہے کہ ایک پارسا طبع اور نیک سیرت الہیہ تمہیں عطا ہوگی۔ وہ صاحب اولاد ہوگی۔ اس میں تعجب کی بات یہ ہے کہ جب الہام ہوا تو ایک کشتی عالم میں چار پھل مجھ کو دیے گئے۔ تین ان میں سے تو آم کے تھے۔ مگر ایک پھل سبز رنگ بہت بڑا تھا۔ وہ اس جہان کے پھلوں سے مشابہ نہیں تھا۔ اگرچہ ابھی یہ الہامی بات نہیں۔ مگر میرے دل میں یہ پڑا ہے کہ وہ پھل جو اس جہان کے پھلوں میں سے نہیں ہے، وہی مبارک لڑکا ہے کیونکہ کچھ شک نہیں کہ پھلوں سے مراد اولاد ہے اور جبکہ ایک پارسا طبع الہیہ کی بشارت دی گئی اور ساتھ ہی کشتی طور پر چار پھل دیے گئے، جن میں سے ایک پھل الگ وضع کا ہے تو یہی سمجھا جاتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔“

(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات طبع چہارم صفحہ 112، 113 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 911، 912 پر)

قارئین کرام! آگے بڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ یہ معلوم کر لیا جائے کہ محمدی

بیگم اور اس کے خاندان کی مرزا غلام احمد قادیانی سے کیا رشتے داری تھی؟

- 1- محمدی بیگم کا والد مرزا احمد بیگ، مرزا قادیانی کا ماموں زاد بھائی تھا۔  
(قارئین خود غور فرمائیں کہ ماموں زاد بھائی کی بیٹی رشتے میں مرزا قادیانی کی کیا لگتی تھی؟)
- 2- محمدی بیگم کی والدہ عمر النساء، مرزا قادیانی کی چچا زاد بہن اور مرزا امام الدین کی حقیقی ہم شیرہ تھی۔
- 3- محمدی بیگم، مرزا قادیانی کی پہلی بیوی حرمت بی بی (بھجے دی ماں) کے چچا زاد بھائی کی بیٹی تھی۔
- 4- محمدی بیگم، مرزا قادیانی کے لڑکے فضل احمد کی بیوی کی ماموں زاد بہن تھی۔
- 5- مرزا امام الدین، مرزا قادیانی کا چچا زاد بھائی اور محمدی بیگم کا حقیقی ماموں تھا۔
- 6- سلطان احمد اور فضل احمد، مرزا قادیانی کی پہلی بیوی حرمت بی بی کے بطن سے تھے۔
- 7- عزت بی بی، مرزا قادیانی کے بیٹے فضل احمد کی اہلیہ اور مرزا احمد بیگ کی سگی بھانجی تھی۔

8- مرزا علی شیر بیگ، عزت بی بی کے والد اور مرزا قادیانی کا سمدھی تھا۔

9- عزت بی بی کی والدہ، مرزا احمد بیگ کی ہم شیرہ اور مرزا غلام احمد کی سمدھن تھی۔

10- عزت بی بی کی والدہ یعنی فضل احمد کی ساس، محمدی بیگم کی پھوپھی تھی۔

معروف عالم دین حضرت مولانا حافظ محمد اقبال رنگونی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں:

”کسی آدمی کا شادی کے لیے کسی لڑکی کا انتخاب کرنا اور اس کے لیے پیغام دینا

کوئی بُری بات نہیں ہے۔ لیکن ایک پچاس سالہ بوڑھے کا ایک کم سن بچی پر نظر رکھنا اور اس کی

طلب و ہوس میں دن رات تڑپنا اس کے شریف ہونے کا پتہ نہیں دیتا۔ پھر یہ مسئلہ اس وقت

اور بھی شدید ہو جاتا ہے جب اس لڑکی کا والد اپنی کسی اور مجبوری میں اس شخص کے پاس آئے

اور وہ اس شخص کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس لڑکی کو حاصل کرنے کی کوشش کرے اور طرح

طرح کے لالچ اور انعام کے وعدے کرے اور پھر موت کی دھمکیوں پر اتر آئے۔ یہ پرلے

درجے کی بد اخلاقی اور غنڈہ گردی ہے اور معاشرہ ایسے شخص کو بے حیا اور بد معاش کہتا ہے۔ پھر

یہ بات اس وقت اور بھی سنگین ہو جاتی ہے جب اس قسم کی اوجھی حرکتیں کرنے والا شخص مامور

من اللہ ہونے کا مدعی ہو اور اس لڑکی کو پانے کی خدا کے نام سے خبر دے۔

خدا تعالیٰ کے محبوبین اور مقبولین، اخلاق و کردار کی اُس بلند دیوار پر کھڑے ہوتے ہیں جس پر خدا کے معصوم فرشتوں کو بھی رشک آتا ہے۔ مخالفین ان کے دعویٰ کی تکذیب تو کرتے ہیں لیکن کبھی ان کے اخلاق زیر بحث نہیں لاتے۔ شدید ترین مخالفین بھی اللہ کے ان محبوبین کے اعلیٰ اخلاق و کردار کو تسلیم کرتے ہیں اور انہیں امین و صادق اور عقیف مانے بغیر انہیں چارہ نہیں ہوتا۔ اس کے مقابل جو لوگ خدا کے نام پر جھوٹی آواز لگاتے ہیں، وہ افتراء علی اللہ اور افتراء علی الرسول کے مجرم ہوتے ہیں۔ وہ اخلاق و کردار کے اعتبار سے اس قدر گرے ہوتے ہیں کہ کوئی مہذب معاشرہ ایسے آدمیوں کو شریف کہنا گوارا نہیں کرتا۔ وہ اول مرحلے پر ہی اپنے آپ کو اس قدر ننگا کر دیتے ہیں کہ ذرا سی سمجھ رکھنے والا انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جو شخص اس قدر بداخلاق اور بدکردار ہے، وہ مامور من اللہ تو کجا ایک شریف انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں۔ جب ایک دھوکہ باز آدمی کو کوئی شخص صالح اور پرہیزگار نہیں کہہ سکتا تو ایسے بدکردار آدمی کو مامور من اللہ کیسے تسلیم کیا جاسکتا ہے؟ مولانا روم نے ایسے ہی فراڈی قسم کے لوگوں کے بارے میں یہ کہا تھا۔

کار شیطان سے کند نامش ولی

گر ولی این است لعنت بر این ولی

قادیانی، مرزا غلام احمد کو خدا کا نبی اور اس کا مامور مانتے ہیں اور مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ اس پر ایمان لاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے اور اسے نہ ماننے والا حرام زادہ ہے۔ اہل اسلام تو سرے سے ہی اسے پرلے درجے کا جھوٹا سمجھتے ہیں اور اس کے دعویٰ کی بنا پر اسے اسلام سے باہر جانتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اُسے مانتے ہیں انہیں غور کرنا چاہیے کہ انہوں نے کس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہے؟

ایک مرتبہ مرزا غلام احمد کی نظر ایک کسن لڑکی پر پڑی جو اس کے دل کو بھاگئی۔ یہ اس کے اپنے ایک قریبی رشتہ دار کی بیٹی تھی۔ کچھ عرصہ بعد اس بیٹی کے والد کو اپنی زمین کے بہہ نامہ کے سلسلہ میں مرزا غلام احمد کے پاس آنا پڑا۔ مرزا غلام احمد نے مختلف بہانوں کے ذریعہ اسے ٹالنے کا کھیل کھیلا مگر جب وہ کسی طرح بھی نہ ٹلا تو مرزا قادیانی نے کہا کہ میں ایک شرط پر تمہارا یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھ کو یہ الہام ہوا کہ تمہارا

یہ کام اس شرط پر ہو سکتا ہے کہ تم اپنی لڑکی کا نکاح مجھ سے کرو۔ یہ شخص احمد بیگ تھا اور یہ بیٹی محمدی بیگم تھی۔ احمد بیگ نے جب مرزا غلام احمد کی یہ بات سنی تو اس کے ہوش اڑ گئے کہ ایک ایسا شخص جو مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس عمر میں ایک کام کے لیے میری کم سن بیٹی مانگ رہا ہے۔ چنانچہ اس نے مرزا غلام احمد کی یہ شرط ماننے سے انکار کر دیا اور بغیر کام کرائے واپس چلا آیا۔ مرزا غلام احمد نے احمد بیگ کو مختلف ذرائع سے سمجھانے اور منانے کی کوشش کی مگر غیرت مند باپ کسی طرح بھی اپنی بیٹی کا نکاح مرزا قادیانی سے کرنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ مرزا قادیانی نے اس بیٹی کو پانے کے لیے خدا کی وحی آنے کی خبر دی اور احمد بیگ کے خاندان کو رختیوں اور برکتوں کے ملنے کی خوشخبری دی۔

(اہم پیشگوئیاں اور ان کا جائزہ از حافظ محمد اقبال رگونی)

مرزا قادیانی لکھتا ہے: (خارن کرام سے گزارش ہے کہ وہ مرزا قادیانی کی یہ عبارت توجہ سے پڑھیں، شکر یہ!)

(378) ”یہ لوگ جو مجھ کو پیرنے دعویٰ الہام میں مکار اور دروغ گو خیال کرتے تھے اور اسلام اور قرآن شریف پر طرح طرح کے اعتراض کرتے تھے اور مجھ سے کوئی نشان آسانی مانگتے تھے تو اس وجہ سے کئی دفعہ ان کے لیے دعا بھی کی گئی تھی۔ سو وہ دعا قبول ہو کر خدا تعالیٰ نے یہ تقریب قائم کی کہ والد اس دختر کا ایک اپنے ضروری کام کے لیے ہماری طرف بھی ہوا۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ نامبروہ (احمد بیگ) کی ایک ہمشرہ ہمارے ایک چچا زاد بھائی غلام حسین نام کو بیابھی گئی تھی۔ غلام حسین عرصہ پچیس سال سے کہیں چلا گیا ہے اور مفقود لاشعیر ہے۔ اس کی زمین ملکیت جنین کا ہمیں حق پہنچتا ہے، نامبروہ (احمد بیگ) کی ہمشرہ کے نام کا عذات سرکاری میں درج کراوی گئی تھی۔ اب حال کے بندوبست میں جو ضلع گورداسپور میں جازبی ہے، نامبروہ یعنی ہمارے خط کے مکتوب الیہ (احمد بیگ) نے اپنی ہمشرہ کی اجازت سے یہ چاہا کہ وہ زمین جو چار ہزار نیا پانچ ہزار روپیہ کی قیمت کی ہے، اپنے بیٹے محمد بیگ کے نام بطور ہبہ منتقل کرا دیں چنانچہ ان کی ہمشرہ کی طرف سے یہ ہبہ نامہ لکھا گیا۔ چونکہ وہ ہبہ نامہ بجز ہماری رضامندی کے بیکار تھا، اس لیے مکتوب الیہ (احمد بیگ) نے ہما متر عجز و انکسار ہماری طرف رجوع کیا، تاہم اس ہبہ پر راضی ہو کر اس ہبہ نامہ پر دستخط کر دیں۔ اور قریب تھا کہ

دستخط کر دیتے لیکن یہ خیال آیا کہ جیسا کہ ایک مدت سے بڑے بڑے کاموں میں ہماری عادت ہے جناب الہی میں استخارہ کر لینا چاہیے۔ سو یہی جواب مکتوب الیہ کو دیا گیا۔ پھر مکتوب الیہ کے متواتر اصرار سے استخارہ کیا گیا۔ وہ استخارہ کیا تھا گویا آسمانی نشان کی درخواست کا وقت آ پہنچا تھا جس کو خدائے تعالیٰ نے اس پیرایہ میں ظاہر کر دیا۔

اس خدائے قادر حکیم مطلق نے مجھے فرمایا کہ اس شخص (احمد بیگ) کی دختر کلاں (محمدی بیگم) کے نکاح کے لیے سلسلہ جنبانی کر اور ان کو کہہ دے کہ تمام سلوک اور مزوت تم سے اسی شرط سے کیا جائے گا اور یہ نکاح تمہارے لیے موجب برکت اور ایک رحمت کا نشان ہوگا اور ان تمام برکتوں اور رحمتوں سے حصہ پاؤ گے جو ایشہوار 20 فروری 1888ء میں درج ہیں لیکن اگر نکاح سے انحراف کیا تو اس لڑکی کا انجام نہایت ہی برا ہوگا اور جس کسی دوسرے شخص سے بیاہی جائے گی، وہ روز نکاح سے اڑھائی سال تک اور ایسا ہی والد اس دختر کا تین سال تک فوت ہو جائے گا اور ان کے گھر پر تفرقہ اور تنگی اور مصیبت پڑے گی اور درمیانی زمانہ میں بھی اس دختر کے لیے کئی کراہت اور غم کے امر پیش آئیں گے۔

پھر ان دنوں میں جو زیادہ تصریح اور تفصیل کے لیے بار بار توجہ کی گئی تو معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ نے یہ مقرر کر رکھا ہے کہ وہ مکتوب الیہ کی دختر کلاں (محمدی بیگم) کو جس کی نسبت درخواست کی گئی تھی ہر ایک روک دوز کرنے کے بعد انجام کار اسی عاجز کے نکاح میں لاوے گا اور بے دینوں کو مسلمان بناوے گا اور گمراہوں میں ہدایت پھیلا دے گا۔ چنانچہ عربی الہام اس بارے میں یہ ہے: کذبوا بائتنا وکانوا بہا يستهزؤن فسيفكفیکهم اللہ ویردھا الیک لا تبدیل لکلمات اللہ ان ربک فعال لما یرید. انت معی وانا معک عسی ان یرعک ربک مقاما محمودا. یعنی انہوں نے ہمارے نشانوں کو جھٹلایا اور وہ پہلے سے ہنسی کر رہے تھے سو خدا تعالیٰ ان سب کے تدارک کے لیے جو اس کام کو روک رہے ہیں، تمہارا مددگار ہوگا اور انجام کار اس کی اس لڑکی کو تمہاری طرف واپس لائے گا۔ کوئی نہیں جو خدا کی باتوں کو ٹال سکے۔ میرا رب وہ قادر ہے کہ جو کچھ چاہے وہی ہو جاتا ہے۔ تو میرے ساتھ اور میں تیرے ساتھ ہوں اور عنقریب وہ مقام تجھے ملے گا جس میں تیری تعریف کی جائے گی یعنی گواہوں میں احمق اور نادان لوگ بد باطنی اور بد ظنی کی راہ سے بدگوئی کرتے ہیں اور نالائق باتیں منہ پر لاتے ہیں لیکن آخر خدا تعالیٰ کی مدد کو دیکھ کر شرمندہ ہوں گے اور سچائی

کے کھلنے سے چاروں طرف سے تعریف ہوگی۔“

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ 285 تا 287 مندرجہ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 285 تا 287 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 913، 914، 915 پر)

مگر کسی قدر افسوسناک بات ہے کہ مرزا قادیانی کے ”خدا“ نے اسے لکھ سے ہولا کر دیا۔ ایک رشتہ دار عورت سے نکاح ایسی ناممکن بات نہیں ہوتی مگر ہر طرح کے پاڑ بیلنے کے باوجود مرزا قادیانی، محمدی بیگم کو حبلہ عقد میں لانے سے قاصر رہا۔ جس ”خدا“ نے مرزا قادیانی کی ایسی جگہ ہنسائی کرائی، اس پر بھروسہ کرنا پرلے درجے کی نادانی ہے یا نہیں؟ اے کاش! مرزا قادیانی کا بچے خدا سے زندہ تعلق ہوتا تو وہ یوں عالم میں رسوا نہ ہوتا۔

مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر احمد ایم اے اپنے والد کے موقف کی تصدیق کرتے

ہوئے لکھتا ہے:

(379) ”خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت مسیح کی حقیقی ہمیشہ مراد بی بی، مرزا محمد بیگ ہوشیار پوری کے ساتھ بیاہی گئی تھیں۔ مگر مرزا محمد بیگ جلد فوت ہو گئے اور ہماری پھوپھی کو باقی ایام زندگی بیوگی کی حالت میں گزارنے پڑے۔ ہماری پھوپھی صاحب رو یا و کشف تھیں۔ مرزا محمد بیگ مذکور کے چھوٹے بھائی مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری کے ساتھ حضرت مسیح موعود کے چچیرے بھائیوں یعنی مرزا نظام الدین وغیرہ کی حقیقی بہن عمر النساء بیاہی گئی تھیں، ان کے بطن سے محمدی بیگم پیدا ہوئی۔ مرزا نظام الدین و مرزا امام الدین وغیرہ پرلے درجہ کے بے دین اور دہریہ طبع لوگ تھے اور مرزا احمد بیگ مذکور ان کے سخت زیر اثر تھا اور انھیں کے رنگ میں رنگین رہتا۔ یہ لوگ ایک عرصہ سے حضرت مسیح موعود سے نشان آسانی کے طالب رہتے تھے کیونکہ اسلامی طریق سے انحراف اور عناد رکھتے تھے اور والد محمدی بیگم یعنی مرزا احمد بیگ ان کے اشارہ پر چلتا تھا۔ اب واقعہ یوں ہوا کہ حضرت مسیح موعود کا ایک اور چچا زاد بھائی مرزا غلام حسین تھا جو عرصہ سے مفقود الخیر ہو چکا تھا، اور اس کی جائداد اس کی بیوی امام بی بی کے نام ہو چکی تھی۔ یہ امام بی بی مرزا احمد بیگ مذکور کی بہن تھی۔ اب مرزا احمد بیگ کو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ مسماں امام بی بی اپنی جائداد اس کے لڑکے مرزا محمد بیگ برادر کلاں محمدی بیگم کے نام ہیہ کر دے۔ لیکن قانوناً امام بی بی اس جائداد کا ہیہ بنام محمد بیگ مذکور بلا رضا مندی حضرت مسیح موعود نہ کر

سکتی تھی۔ اس لیے مرزا احمد بیگ، تمام عجز و انکساری حضرت مسیح موعود کی طرف ملتجی ہوا کہ آپ بہ نامہ پر دستخط کر دیں۔ چنانچہ حضرت صاحب قریباً تیار ہو گئے۔ لیکن پھر اس خیال سے رک گئے کہ دریں بارہ مسنون استخارہ کر لینا ضروری ہے۔ چنانچہ آپ نے مرزا احمد بیگ کو یہی جواب دیا کہ میں استخارہ کرنے کے بعد، دستخط کرنے ہوں گے تو کر دوں گا۔ چنانچہ اس کے بعد مرزا احمد بیگ کے متواتر اصرار سے استخارہ کیا گیا۔ وہ استخارہ کیا تھا، گویا آسمانی نشان کے دکھانے کا وقت آن پہنچا تھا جس کو خدا تعالیٰ نے اس پیرایہ میں ظاہر کر دیا۔ چنانچہ استخارہ کے جواب میں خداوند تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود سے یہ فرمایا کہ ”اس شخص کی دختر کلاں کے نکاح کے لیے سلسلہ جنبانی کر اور ان کو کہہ دے کہ تمام سلوک اور مروت تم سے اسی شرط سے کیا جائے گا اور یہ نکاح تمہارے لیے موجب برکت اور ایک رحمت کا نشان ہوگا، اور ان تمام برکتوں اور رحمتوں سے حصہ پاؤ گے جو اشتہار 20 فروری 1886ء میں درج ہیں۔ لیکن اگر نکاح سے انحراف کیا تو اس لڑکی کا انجام نہایت ہی برا ہوگا اور جس کسی دوسرے شخص سے بیاہی جائے گی وہ روز نکاح سے اڑھائی سال تک اور ایسا ہی والد اس دختر کا تین سال تک فوت ہو جائے گا، اور ان کے گھر پر تفرقہ اور تنگی اور مصیبت پڑے گی، اور درمیانی زمانہ میں بھی اس دختر کے لیے کئی کراہت اور غم کے امر پیش آئیں گے۔“ اس وحی الہامی کے ساتھ حضرت مسیح موعود نے نوٹ دیا کہ ”تین سال تک فوت ہونا روز نکاح کے حساب سے ہے مگر یہ ضروری نہیں کہ کوئی واقعہ اور حادثہ اس سے پہلے نہ آئے بلکہ مکاشفات کے رُو سے مکتوب الیہ (یعنی مرزا احمد بیگ) کا زمانہ حوادث جن کا انجام معلوم نہیں، نزدیک پایا جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔“ جب استخارہ کے جواب میں یہ وحی ہوئی تو حضرت مسیح موعود نے اسے شائع نہیں فرمایا بلکہ صرف ایک پرائیویٹ خط کے ذریعہ سے والد محمدی بیگم کو اس سے اطلاع دے دی کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ وہ اس کی اشاعت سے رنجیدہ ہوگا۔ لہذا آپ نے اشاعت کے لیے مصلحتاً دوسرے وقت کی انتظار کی۔ لیکن جلد ہی خود لڑکی کے ماموں مرزا نظام الدین نے شدتِ غضب میں آ کر اس مضمون کو آپ ہی شائع کر دیا اور علاوہ زبانی اشاعت کے اخباروں میں بھی اس خط کی خوب اشاعت کی۔ تب پھر حضرت مسیح موعود کو بھی اظہار کا عمدہ موقع مل گیا۔“

(سیرت الہدی جلد اول صفحہ 114، 115 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 916، 917 پر)

مرزا قادیانی نے محمدی بیگم سے نکاح کے سلسلہ میں ”اللہ تعالیٰ سے بشارت پا کر“ اپنے ایک اشتہار میں لکھا:

(380) ”پھر خدائے کریم جل شانہ نے مجھے بشارت دے کر کہا کہ تیرا گھر برکت سے بھرے گا۔ اور میں اپنی نعمتیں تجھ پر پوری کروں گا اور خواتین تمبار کہ سے جن میں سے تو بعض کو اس کے بعد پائے گا، تیری نسل بہت ہوگی اور میں تیری ذریت کو بہت بڑھاؤں گا اور برکت دوں گا مگر بعض ان میں سے کم عمری میں فوت بھی ہوں گے اور حیرت نسل کثرت سے ملکوں میں پھیل جائے گی اور ہر ایک شاخ تیرے جدی بھائیوں کی کاٹی جائے گی اور وہ جلد لا ولد رہ کر ختم ہو جائے گی۔ اگر وہ توبہ نہ کریں گے تو خدا ان پر بلا پر بلا نازل کرے گا۔ یہاں تک کہ وہ نابود ہو جائیں گے۔ ان کے گھر بیواؤں سے بھر جائیں گے اور ان کی دیواروں پر غضب نازل ہوگا۔ لیکن اگر وہ رجوع کریں گے تو خدا رحم کے ساتھ رجوع کرے گا۔ خدا تیری برکتیں ارد گرد پھیلانے گا اور ایک اُجڑا ہوا گھر تجھ سے آباد کرے گا۔ [حاشیہ] یہ ایک پیشگوئی کی طرف اشارہ ہے جو دہم جولائی 1888ء کے اشتہار میں شائع ہو چکی، جس کا حاصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس عاجز کے مخالف اور منکر رشتہ داروں کے حق میں نشان کے طور پر یہ پیشگوئی ظاہر کی ہے کہ ان میں سے جو ایک شخص احمد بیگ نام ہے، اگر وہ اپنی بڑی لڑکی اس عاجز کو نہیں دے گا تو تین برس کے عرصہ تک بلکہ اس سے قریب فوت ہو جائے گا اور وہ جو نکاح کرے گا وہ روز نکاح سے اڑھائی برس کے عرصہ میں فوت ہوگا۔ اور آخر وہ عورت اس عاجز کی بیویوں میں داخل ہوگی۔ سو اس جگہ اجڑے ہوئے گھر سے وہ اُجڑا ہوا گھر مراد ہے۔“

(مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 96 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 918 پر)

اس اشتہار پر تبصرہ مرزا قادیانی کی زبانی ملاحظہ فرمائیں:

(381) ”عاجز نے 20 فروری 1886ء کے اشتہار میں یہ پیشگوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے بیان کی تھی کہ اس نے مجھے بشارت دی ہے کہ بعض نابزکت عورتیں اس اشتہار کے بعد بھی تیرے نکاح میں آئیں گی اور ان سے اولاد پیدا ہوگی۔ اس پیشگوئی پر منشی صاحب فرماتے ہیں



کہ الہام کئی قسم کا ہوتا ہے نیکوں کو نیک باتوں کا اور زانیوں کو عورتوں کا۔“  
(مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 113 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 919 پر)

مرزا قادیانی اپنی اور محمدی بیگم کی عمر کے بارے میں لکھتا ہے:

(382) ”کانت بنته هذه المخطوبة جارية حديثة السن عذراء و كنت حينئذ  
جاوزت الخمسين. (ترجمہ) محمدی بیگم ابھی نوخیز لڑکی ہے اور میری عمر پچاس سال سے  
زائد ہے۔“

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ 574 مندرجہ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 574 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 920 پر)

قادیانیوں کو مرزا قادیانی کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تذبذب کا شکار تھے کہ  
کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی کو محمدی بیگم سے نکاح کے سلسلہ میں یقین دہانیاں کرائی  
ہیں۔ اس پر مرزا قادیانی نے کہا:

(383) ”یہ بھی الہام (ہوا) ہے ویستلونک احق هو قل ای وربی انه لحق وما  
انتم بمعجزین. زوجنا کھا لا مبدل لکلماتی. وان یروا ایتة یعرضوا و یقولوا  
منحر مستمر. اور (لوگ) تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا (محمدی بیگم سے نکاح والی) یہ بات سچ  
ہے؟ کہہ ہاں! مجھے اپنے رب کی قسم ہے کہ یہ سچ ہے اور تم اس بات کو وقوع میں آنے سے  
روک نہیں سکتے۔ ہم نے خود اس (محمدی بیگم) سے تیرا عقد نکاح باندھ دیا ہے۔ میری  
باتوں کو کوئی بدلا نہیں سکتا اور نشان دیکھ کر منہ پھیر لیں گے اور قبول نہیں کریں گے اور کہیں گے  
کہ یہ کوئی پکا فریب یا پکا جادو ہے۔“

(آسانی فیصلہ صفحہ 40 مندرجہ روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 350 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 921 پر)

مرزا قادیانی نے مزید کہا:

(384) ”خدائے تعالیٰ نے پیشگوئی کے طور پر اس عاجز پر ظاہر فرمایا کہ مرزا احمد بیگ ولد

مرزا گاماں بیگ ہوشیار پوری کی دختر کلاں انجام کار تمہارے نکاح میں آئے گی اور وہ لوگ بہت عداوت کریں گے اور بہت مانع آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو لیکن آخر کار ایسا ہی ہوگا۔ اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ ہر طرح سے اس کو تمہاری طرف لائے گا باکرہ ہونے کی حالت میں یا بیوہ کر کے اور ہر ایک روک کو درمیان سے اٹھاوے گا اور اس کام کو ضرور پورا کرے گا۔ کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔“

(ازالہ اوہام صفحہ 305 مندرجہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 305 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 922 پر)

نکاح آسمانی ہو مگر بیوی نہ ہاتھ آئے  
رہے گی حسرت دیدار تا روز جزا باقی

مرزا قادیانی اپنے الہام کے حوالہ سے مزید لکھتا ہے:

(385) ”اس جگہ مطلب یہ ہے کہ جب یہ پیشگوئی معلوم ہوئی اور ابھی پوری نہیں ہوئی تھی (جیسا کہ اب تک بھی جو 16 اپریل 1891ء ہے، پوری نہیں ہوئی) تو اس کے بعد اس عاجز کو ایک سخت بیماری آئی یہاں تک کہ قریب موت کے نوبت پہنچ گئی بلکہ موت کو سامنے دیکھ کر وصیت بھی کر دی گئی۔ اس وقت گویا پیشگوئی آنکھوں کے سامنے آ گئی اور یہ معلوم ہو رہا تھا کہ اب آخری دم ہے اور کل جنازہ نکلنے والا ہے۔ تب میں نے اس پیشگوئی کی نسبت خیال کیا کہ شاید اس کے اور معنی ہوں گے جو میں سمجھ نہیں سکا۔ تب اسی حالت قریب الموت میں مجھے الہام ہوا الحق من ربک فلا تکنون من الممترین یعنی یہ بات تیرے رب کی طرف سے سچ ہے تو کیوں شک کرتا ہے۔“

(ازالہ اوہام صفحہ 306 مندرجہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 306 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 923 پر)

اپنے نفس کو ”خدا“ بنا لیا جائے تو وہ اسی طرح فریب دیا کرتا ہے۔

(386) مرزا قادیانی محمدی بیگم سے نکاح کے سلسلہ میں اپنی وحی بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے:

”فأوحى الله الى ان اخطب صبية الكبيرة لنفسك. وقل له ليصاهرک

اولاً ثم ليقتبس من قبسك. وقل اني امرت لاهبك ما طلبت من الارض وارضا  
 اخرى معها واحسن اليك باحسانات اخرى على ان تنكحني احدى بناتك التي  
 هي كيرتها و ذلك بيني وبينك فان قبلت فستجدني من المتقبلين. وان لم تقبل  
 فاعلم ان الله قد اخبرني ان انكاحها رجلا اخر لا يبارك لها ولا لك فان لم تزوج  
 فيصب عليك مصائب و آخر المصائب موتك فتموت بعد النكاح الى ثلث  
 سنين. بل موتك قريب و يرد عليك و انت من الغافلين. وكذلك يموت بعلمها  
 الذي يصير زوجها الى حولين و ستة اشهر. قضاء من الله فاصنع ما انت صانعه و اني  
 لك لمن الناصحين. فعبس وتولني و كان من المعرضين. ثم كتبت اليه مكتوباً  
 بايماء مناني. و اشارة رحمانى. و نمقت فيه.“

(ترجمہ) ”اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی کہ اس شخص (احمد بیگ) کی بڑی لڑکی  
 کے نکاح کے لیے درخواست کر اور اس سے کہہ دے کہ پہلے وہ تمہیں دامادی میں قبول کرے  
 اور پھر تمہارے نور سے روشنی حاصل کرے اور کہہ دے کہ مجھے اس زمین کے ہبہ کرنے کا حکم  
 مل گیا ہے، جس کے تم خواہش مند ہو بلکہ اس کے ساتھ اور زمین بھی دی جائے گی اور دیگر  
 مزید احسانات تم پر کیے جائیں گے۔ بشرطیکہ تم اپنی بڑی لڑکی کا مجھ سے نکاح کر دو۔ میرے  
 اور تمہارے درمیان یہی عہد ہے۔ تم مان لو گے تو میں بھی تسلیم کر لوں گا۔ اگر تم قبول نہ کرو گے  
 تو خبردار رہو۔ مجھے خدا نے یہ بتلایا ہے کہ اگر کسی اور شخص سے اس لڑکی کا نکاح ہوگا تو نہ اس  
 لڑکی کے لیے یہ نکاح مبارک ہوگا اور نہ تمہارے لیے۔ ایسی صورت میں تم پر مصائب نازل  
 ہوں گے، جن کا نتیجہ موت ہوگا۔“

پس تم نکاح کے بعد تین سال کے اندر مر جاؤ گے بلکہ تمہاری موت قریب ہے اور  
 ایسا اس لڑکی کا شوہر بھی اڑھائی سال کے اندر مر جائے گا۔ یہ حکم اللہ ہے۔ پس جو کرنا ہے کر  
 لو۔ میں نے تم کو نصیحت کر دی ہے۔ پس وہ (مرزا احمد بیگ) تیوری چڑھا کر چلا گیا۔“

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ 572، 573 روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 572، 573 از مرزا قادیانی)  
 (عکس صفحہ نمبر 924، 925 پر)

مرزا احمد بیگ کا بڑا لڑکا محمد بیگ (محمدی بیگم کا حقیقی بھائی) حکیم نور الدین کے پاس

ایک بیماری کے سلسلہ میں زیر علاج تھا۔ اس لڑکے نے مرزا قادیانی کو کئی خطوط لکھے کہ آپ حکیم نور الدین کو میری سفارش کر دیں کہ وہ مجھے محکمہ پولیس میں نوکر کروادیں۔ اس پر مرزا قادیانی نے حکیم نور الدین کو حسب ذیل خط لکھا:

□ ”مخدومی مکرئی اخویم مولوی حکیم نور دین صاحب!

السلام علیکم! محمد بیگ لڑکا جو آپ کے پاس ہے۔ آنمکرم کو معلوم ہوگا کہ اس کا والد مرزا احمد بیگ بوجہ اپنی بے سمجھی اور حجاب کے اس عاجز سے سخت عداوت و کینہ رکھتا ہے اور ایسا ہی اس کی والدہ بھی، چونکہ خدا تعالیٰ نے بوجہ اپنے بعض مصالح کے اس لڑکے کی ہمشیرہ کی نسبت وہ الہام ظاہر فرمایا تھا کہ جو بذریعہ اشتہارات شائع ہو چکا ہے، اس وجہ سے ان لوگوں کے دلوں میں حد سے زیادہ جوش مخالفت ہے اور مجھے معلوم نہیں کہ وہ امر جس کی نسبت مجھے اس شخص کی ہمشیرہ کی نسبت اطلاع دی گئی ہے، کیونکر اور کس راہ سے وقوع میں آئے گا اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نرمی کارگر نہ ہوگی، يفعل اللہ ما یشاء کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، لیکن تاہم کچھ مضائقہ نہیں کہ ان لوگوں کی سختی کے عوض میں نرمی اختیار کر کے ادفع بالتی ہی احسن کا ثواب حاصل کیا جائے اس لڑکے محمد بیگ کے کتنے خطوط اس مضمون کے پہنچے کہ مولوی صاحب پولیس کے محکمہ میں مجھ کو نوکر کرادیں۔

آپ براہ مہربانی اس کو بلا کر نرمی سے سمجھائیں کہ تیری نسبت انہوں (غلام احمد قادیانی) نے بہت سفارش لکھی ہے اور تیرے لیے جہاں تک گنجائش اور مناسب وقت ہو، کچھ فرق نہ ہوگا۔ (یہاں حکیم نور دین کو جھوٹ بولنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ مرتب) غرض آنمکرم میری طرف سے اس کے ذہن نشین کر دیں کہ وہ تیری نسبت بہت تاکید کرتے ہیں، اگر محمد بیگ آپ کے ساتھ آنا چاہے تو ساتھ لے آویں..... زیادہ خیریت ہے۔“

والسلام۔ خاکسار غلام احمد، لدھیانہ محلہ اقبال گنج 21 مارچ 1891ء

اس خط سے مرزا قادیانی کی ذہنیت کا اندازہ خود بخود ہو جاتا ہے کہ وہ کس طرح محمدی بیگم کے بھائی کو ملازمت کا لالچ دے کر اس کی برین واشنگ کر رہا ہے کہ مناسب وقت یعنی محمدی بیگم کا مرزا قادیانی سے پہلے نکاح ہو جائے، پھر ملازمت کی کوشش کی جائے گی لہذا پہلے تم مرزا قادیانی کے نکاح کے سلسلہ میں کوشش کرو۔

مرزا قادیانی نے محمدی بیگم سے شادی کے سلسلہ میں اپنے رشتہ داروں کو بھی خطوط

لکھے اور انھیں مجبور کیا کہ لڑکی کے والد احمد بیگ کو اس نکاح کے لیے تیار کیا جائے اور خود احمد بیگ کو 20 فروری 1888ء کو ایک لالچ بھرا خط لکھا کہ اگر تم نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا تو میں نہ صرف ان کاغذات پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہوں بلکہ تمہیں جائیداد بھی ملے گی اور تمہارے لڑکے کو پولیس کی ملازمت بھی دلا دوں گا۔ مرزا قادیانی کا خط ملاحظہ فرمائیے:

□ ”مکرمی مخدومی اخویم مرزا احمد بیگ! السلام علیکم!

ابھی ابھی مراقبہ سے فارغ ہی ہوا تھا تو کچھ غنودگی سی ہوئی اور خدا کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ احمد بیگ کو مطلع کر دے کہ وہ بڑی لڑکی کا رشتہ منظور کرے، یہ اس کے حق میں ہماری جانب سے خیر و برکت ہوگا اور ہمارے انعام و اکرام بارش کی طرح اس پر نازل ہوں گے اور تنگی اور سختی اس سے دور کر دی جائے گی اور اگر انحراف کیا تو مورد عتاب ہوگا اور ہمارے قہر سے نہ بچ سکے گا۔ اور میں نے اس کا حکم پہنچا دیا تاکہ اس کے رحم و کرم سے حصہ پاؤں اور اس کی بے بہا نعمتوں کے خزانے تم پر کھولے جائیں اور میں اپنی طرف سے تو صرف یہی عرض کرتا ہوں کہ میں آپ کا ہمیشہ ادب و لحاظ ہی ملحوظ رکھتا ہوں اور آپ کو ایک دین دار اور ایمان دار بزرگ تصور کرتا ہوں اور آپ کے حکم کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں اور ہبہ نامہ جب لکھو، حاضر ہو کر دستخط کر جاؤں اور اس کے علاوہ میری املاک خدا کی اور آپ کی ہے، اور میں نے عزیز محمد بیگ کے لیے پولیس میں بھرتی کرانے کی اور عہدہ دلانے کی خاص کوشش و سفارش کر لی ہے تاکہ وہ کام میں لگ جاوے اور اس کا رشتہ میں نے ایک بہت امیر آدمی جو میرے عقیدت مندوں میں سے تقریباً کر دیا ہے اور اللہ کا فضل آپ کے شامل حال ہو! فقط

خاکسار غلام احمد عفی عنہ لدھیانہ اقبال گنج

20 فروری 1888ء

مذکورہ بالا خط کا جواب نہ ملنے پر مرزا قادیانی نے درج ذیل دوسرا خط روانہ کیا۔ یاد رہے کہ بقول مرزا قادیانی انہوں نے یہ خط بھی اللہ تعالیٰ کے ایما اور اشارہ سے احمد بیگ کو لکھا:

(387) ”بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فاسمع ایہا العزیز ما لک اتخذت جدی عبثاً۔ و حسبت تبری خبثاً۔ و واللہ ما ارید ان اشق علیک و

ستجدنى انشاء الله من المحسنين. وهانا اكتب بعهد موثق فانك ان قبلت  
قولى على رغم انف قبيلتى فافرض لك حصّة فى ارضى و خميلتى و يرتفع  
الخلاف والنزاع بهذه الوصلة من بيتنا و يصلح الله قلوب شعبى و عشيرتى.  
وفى كل منيتك اقضى صفوك و ازيل قشك فتكون من الفائزين. لامن الفائزين.  
والحق والحق اقول انى اكتب هذا المكتوب بخلوص قلبى و جنانى.  
فان قبلت قولى و بيانى. فقد صنعت لطفاً الى. وكان لك احساناً على. و  
معروفاً لى. فاشكرک و ادعو زيادة عمرک من ارحم الراحمين. وانى اقيم  
معك عهدى. انى اعطى بنتک ثلثا من ارضى و من كل ما ملكته يدى. ولا  
تسئلى خطة الا اعطيك اياها وانى من الصادقين. ولن تجد مثلى فى رعاية  
الصلة و مودة الاقارب و حقوق الوصلة و تجدنى ناصر نوائبك و حامل  
اثقالک فلا تضع وقتک فى الالباء ولا تستكرجک ولا تكونن من  
الممترين. وها انا كتبت مكتوبى هذا من امر ربى لاعلن امرى فاحفظ مكتوبى  
هذا فى صندوقك فانه من صدوق عامين والله يعلم انى فيه صادق و كل ما  
عدت فهو من الله تعالى وما قلت اذ قلت ولكن انطقنى الله تعالى بالهامه.  
وكانت هذه وصية من ربى فقضيتها ما كان لى حاجة اليک و الى بنتک وما  
ضيق الله على والنساء سواها كثيرة والله يتولى الصالحين. فلا تنظر الى  
مكتوبى بعين الارتياب. فانه كتبه بامحاض النصح والتزام الصدق  
والصواب. ودع الجدال وانتظر الاجال. فان مضى الاجل وما حصص  
الصدق فاجعل حبلاً فى جىدى و سلاسل فى ارجلى و عذبني بعذاب لم يعذب  
به احد من العالمين. كنتم قد طلبتم آية من ربى فهذه آية لكم انه ياخذ  
المنكرين من مكان قريب و يختار ما كان اقرب التعذيبات فى حقهم و ادنى من  
افهامهم و اشد الرأ فى اعراضهم. و اجسامهم ليرى المحتالين ضعفهم و يكسر  
كبر الضائمين. هذا ما كتبت الى احمد بيك فى سنة ٥١٣٠٢.

(ترجمہ) بسم الله الرحمن الرحيم۔ اے عزیز سنیے! آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ میری

سچی بات کو تو سمجھتے ہیں اور میرے کمرے کو کھوٹا خیال کرتے ہیں۔ بخدا میرا یہ ارادہ نہیں کہ

میں آپ کو تکلیف دوں۔ انشاء اللہ آپ مجھے احسان کرنے والوں میں سے پائیں گے اور میں یہ عہد استوار کے ساتھ لکھ رہا ہوں کہ اگر آپ نے میرے خاندان کے خلاف مرضی میری بات کو مان لیا تو میں اپنی زمین اور باغ میں آپ کو حصہ دوں گا اور اس رشتہ کی وجہ سے آپس کی نزاع اور اختلاف رفع ہو جائے گا اور خدا میرے کنبہ اور خاندان کے قلوب کی اصلاح کر دے گا..... اگر آپ نے میرا قول اور بیان مان لیا تو مجھ پر مہربانی اور احسان اور میرے ساتھ نیکی ہوگی۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کی درازی عمر کے لیے ارحم الراحمین کے جناب میں دعا کروں گا اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی لڑکی کو اپنی زمین اور مملو کات کا ایک تہائی حصہ دوں گا اور میں سچ کہتا ہوں کہ اس میں سے جو کچھ مانگیں گے، میں آپ کو دوں گا۔ صلہ رحم عزیزوں سے محبت اور رشتہ کے حقوق کے بارے میں آپ کو مجھ جیسا کوئی شخص نہیں ملے گا۔ آپ مجھے مصیبتوں میں اپنا دستگیر اور بار اٹھانے والا پائیں گے۔ اس لیے انکار میں اپنا وقت ضائع نہ کیجیے اور شک و شبہ میں نہ پڑیے۔

میں اپنا یہ خط اپنے پروردگار کے حکم سے لکھ رہا ہوں۔ اپنی رائے سے نہیں۔ آپ میرے اس خط کو اپنے صندوق میں محفوظ رکھیے۔ یہ خط بڑے سچے اور امین کی جانب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس میں سچا ہوں اور جو کچھ میں نے وعدہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور میں نے جو کہا ہے وہ میں نے نہیں کہا بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اپنے الہام سے کہلوایا ہے اور یہ مجھے میرے پروردگار کی وصیت تھی۔ اس لیے میں نے اسے پورا کیا۔ ورنہ مجھے آپ کی یا آپ کی لڑکی کی کچھ حاجت نہیں تھی..... اگر میعاد گزر جائے اور سچائی ظاہر نہ ہو تو میرے گلے میں رسی اور پاؤں میں زنجیر ڈالنا اور مجھے ایسی سزا دینا کہ تمام دنیا میں کسی کو نہ دی گئی ہو۔ یہ خط میں نے احمد بیگ کو 1304ھ میں لکھا تھا۔“

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ 573، 574 روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 573، 574 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 926، 927 پر)

مرزا قادیانی کی ان تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ محمدی بیگم سے شادی کے سلسلہ میں کس قدر بے تاب تھا۔ وہ لڑکی کے باپ کو ہر قسم کا لالچ اور دھمکی بھی دے رہا ہے کہ آپ کو اپنی زمین اور باغ میں سے حصہ دوں گا۔ آپ کی لڑکی کو جائیداد میں سے حصہ ملے گا۔

آپ کے لیے لمبی عمر کی دعا کروں گا۔ اگر یہ سچ نہ ہوا تو میرے گلے میں رسی ڈال کر ایسی سزا دینا جو کسی کو نہ دی گئی ہو۔ بس تم جلدی محمدی بیگم کا نکاح مجھ سے کر دو۔ اگر ایسا نہ کیا تو لڑکی کا باپ مر جائے گا، لڑکی کا شوہر مر جائے گا۔ قارئین کرام! آپ خود بتائیں کیا یہ باتیں نبی تو کجا کسی شریف آدمی کو جس کے دل میں ذرا بھی شرم و حیا ہو، زیب دیتی ہیں؟

اس کے بعد مرزا قادیانی نے اپنے سدھی مرزا علی شیر بیگ کو خط لکھا جو مرزا فضل احمد کی بیوی عزت بی بی کا والد تھا۔ اس خط میں بھی مرزا قادیانی نے رشتہ کے سلسلہ میں بے حد منت سماجتیں کی ہیں اور خود کو ذلت کی حد تک پستی میں گرایا۔ آئیے! مرزا قادیانی کا خط پڑھیے اور ان کی بے بسی کا اندازہ لگائیے!

### مشفق مرزا علی شیر بیگ صاحب

□ السلام علیکم! اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ مجھ کو آپ سے کسی طرح سے فرق نہ تھا اور میں آپ کو ایک غریب طبع اور نیک خیال آدمی اور اسلام پر قائم سمجھتا ہوں۔ لیکن اب جو آپ کو ایک خبر سنانا ہوں آپ کو اس سے بہت رنج گزرے گا۔ مگر میں محض ان لوگوں سے تعلق چھوڑنا چاہتا ہوں جو مجھے ناجیز بتاتے ہیں اور دین کی پرواہ نہیں رکھتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مرزا احمد بیگ کی لڑکی کے بارے میں ان لوگوں کے ساتھ کس قدر میری عداوت ہو رہی ہے۔ اب میں نے سنا ہے کہ عید کے دوسری یا تیسری تاریخ کو اس لڑکی کا نکاح ہونے والا ہے اور آپ کے گھر کے لوگ اس مشورہ میں ساتھ ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس نکاح کے شریک میرے سخت دشمن ہیں۔ بلکہ میرے کیا دین اسلام کے سخت دشمن ہیں۔ عیسائیوں کو ہنسنا چاہتے ہیں۔ ہندوؤں کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور اللہ رسول کے دین کی کچھ بھی پرواہ نہیں رکھتے، اور اپنی طرف سے میری نسبت ان لوگوں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ اس کو خوار کیا جائے، ذلیل کیا جائے، رُوسیاہ کیا جائے۔ یہ اپنی طرف سے ایک تلوار چلانے لگے ہیں، اب مجھ کو بچالینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اگر میں اس کا ہوں گا تو ضرور مجھے بچائے گا۔ اگر آپ کے گھر کے لوگ سخت مقابلہ کر کے اپنے بھائی کو سمجھاتے تو کیوں نہ سمجھ سکتا۔ کیا میں چوہڑا یا چمار تھا، جو مجھ کو لڑکی دینا عاری یا تنگ تھی بلکہ وہ تو اب تک ہاں سے ہاں ملاتے رہے اور اپنے بھائی کے لیے مجھے چھوڑ دیا اور اب اس لڑکی کے نکاح کے لیے سب ایک ہو گئے۔



یوں تو مجھے کسی کی لڑکی سے کیا غرض، کہیں جائے، مگر یہ تو آزما یا گیا کہ جن کو میں خویش سمجھتا تھا اور جن کی لڑکی کے لیے چاہتا تھا کہ اس کی اولاد ہو، وہ میری وارث ہو۔ وہی میرے خون کے پیاسے، وہی میری عزت کے پیاسے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خوار ہو اور اس کا روسیہ ہو۔ خدا بے نیاز ہے جس کو چاہے روسیہ کرے مگر اب وہ مجھے آگ میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ میں نے خط لکھے کہ پرانا رشتہ مت توڑو۔ خدا تعالیٰ سے خوف کرو۔ کسی نے جواب نہ دیا بلکہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی بیوی نے جوش میں آ کر کہا کہ ہمارا کیا رشتہ ہے، صرف عزت بی بی نام کے لیے فضل احمد کے گھر میں ہے۔ بیشک وہ طلاق دے دے، ہم راضی ہیں۔ اور ہم نہیں جانتے کہ یہ شخص کیا بلا ہے۔ ہم اپنے بھائی کے خلاف مرضی نہیں کریں گے۔ یہ شخص کہیں مرتا بھی نہیں۔ پھر میں نے رجسٹری کرا کر آپ کی بیوی صاحب کے نام خط بھیجا۔ مگر کوئی جواب نہ آیا اور بار بار کہا کہ اس سے کیا ہمارا رشتہ باقی رہ گیا ہے، جو چاہے کرے۔ ہم اس کے لیے اپنے خویشوں سے اپنے بھائیوں سے جدا نہیں ہو سکتے۔ مرتا مرتا رہ گیا ابھی مرا بھی ہوتا۔ یہ باتیں آپ کی بیوی صاحب کی مجھے پہنچی ہیں۔ بے شک میں ناچیز ہوں، ذلیل ہوں اور خوار ہوں۔ مگر خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں میری عزت ہے۔ جو چاہتا ہے، کرتا ہے۔ اب جب میں ایسا ذلیل ہوں تو میرے بیٹے سے تعلق رکھنے کی کیا حاجت ہے۔ لہذا میں نے ان کی خدمت میں خط لکھ دیا ہے کہ اگر آپ اپنے ارادہ سے باز نہ آویں اور اپنے بھائی کو اس نکاح سے روک نہ دیں۔ پھر جیسا کہ آپ کی خود منشا ہے، میرا بیٹا فضل احمد بھی آپ کی لڑکی کو اپنے نکاح میں رکھ نہیں سکتا بلکہ ایک طرف جب محمدی کا کسی شخص سے نکاح ہوگا تو دوسری طرف فضل احمد آپ کی لڑکی کو طلاق دے دے گا۔ اگر نہیں دے گا تو میں اس کو عاق اور لاوارث کروں گا اور اگر میرے لیے احمد بیگ سے مقابلہ کرو گے اور یہ ارادہ اس کا بند کرادو گے تو میں بدل و جان حاضر ہوں اور فضل احمد کو جو اب میرے قبضہ میں ہے، ہر طرح سے درست کر کے آپ کی لڑکی کی آبادی کے لیے کوشش کروں گا اور میرا مال ان کا مال ہوگا۔ لہذا آپ کو بھی لکھتا ہوں کہ آپ اس وقت کو سنبھال لیں۔

اور احمد بیگ کو پورے زور سے خط لکھیں کہ باز آ جائیں اور اپنے گھر کے لوگوں کو تاکید کریں کہ وہ بھائی کو لڑائی کر کے روک دیوے۔ ورنہ مجھے خدا تعالیٰ کی قسم ہے کہ اب ہمیشہ کے لیے یہ تمام رشتے ناٹے توڑ دوں گا۔ اگر فضل احمد میرا فرزند اور وارث بننا چاہتا ہے تو اسی

حالت میں آپ کی لڑکی کو گھر میں رکھے گا اور جب آپ کی بیوی کی خوشی ثابت ہو۔  
ورنہ جہاں میں رخصت ہوا۔ ایسا ہی سب ناطے رشتے بھی ٹوٹ گئے۔ یہ باتیں

خطوں کی معرفت مجھے معلوم ہوئی ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ کہاں تک درست ہیں۔

راقم خاکسار غلام احمد۔ از لودھیانہ اقبال گنج 4 مئی 1891ء

اس خط کا جواب علی شیر بیگ صاحب نے دو روز بعد یوں لکھا اور اس میں جو

ادبیت اور نہایت لطیف طنز ہے، وہ قابل ستائش ہے،

اخویم مرزا غلام احمد!

السلام علیکم! گرامی نامہ پہنچا غریب طبع یا نیک جو کچھ بھی آپ تصور کریں آپ کی

مہربانی ہے۔ ہاں مسلمان ضرور ہوں، مگر آپ کی خود ساختہ نبوت کا قائل نہیں ہوں اور

خدا سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے سلف صالحین کے طریقے پر ہی رکھے اور اسی پر میرا

خاتمہ بالخیر کرے..... باقی رہا تعلق چھوڑنے کا مسئلہ تو بہترین تعلق خدا کا ہے، وہ نہ چھوٹے

اور باقی اس عاجز مخلوق کا ہوا تو پھر کیا، نہ ہوا تو پھر کیا اور احمد بیگ کے متعلق میں کر ہی کیا سکتا

ہوں، وہ ایک سیدھا سادہ مسلمان آدمی ہے جو کچھ ہوا، آپ کی طرف ہی سے ہوا، نہ آپ

فضول ایمان کو گنواتے اور الہام بانی کرتے اور نہ مرنے کی دھمکیاں دیتے اور نہ وہ کنارہ کش

ہوتا..... یہ ٹھیک ہے کہ خویش ہونے کی حیثیت سے آپ نے رشتہ طلب کیا مگر آپ خیال

فرمائیں کہ اگر آپ کی جگہ احمد بیگ ہو اور احمد بیگ کی جگہ آپ ہوں، تو خدا لگتی کہنا کہ تم

کن کن باتوں کا خیال کر کے رشتہ دو گے؟ اگر احمد بیگ سوال کرتا اور وہ مجمع

المرائض ہونے کے علاوہ پچاس سال سے زیادہ عمر کا ہوتا اور اس پر وہ مسیلمہ

کذاب کے کان بھی کتر چکا ہوتا تو آپ رشتہ دیتے؟ آپ کو خط لکھتے وقت یوں آپے

سے باہر نہیں ہونا چاہیے، لڑکیاں سبھی کے گھروں میں ہیں اور نظام عالم انہی باتوں سے قائم

ہے، کچھ حرج نہیں اگر آپ طلاق دلوائیں گے تو یہ بھی ایک پیغمبری کی نئی سنت دنیا پر قائم

کر کے بدنامی کا سپاہ داغ مول لیں گے۔ باقی رونی تو خدا اس کو بھی کہیں سے

دے ہی دے گا تر نہ سہی خشک، مگر خشک بہتر ہے جو پسینہ کی کمائی سے پیدا کی جاتی

ہے۔ میں بھائی احمد بیگ کو لکھ رہا ہوں بلکہ آپ کا خط بھی اس کے ساتھ شامل کر دیا گیا ہے،

مگر میں ان کی موجودگی میں کچھ نہیں کر سکتا اور بیوی کا کیا حق ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے بھائی

کی لڑکی کو ایک دائم المریض آدمی کو جو مراق سے خدائی تک پہنچ چکا ہو کس طرح لڑے..... ہاں اگر وہ خود مان لیں تو میں اور میری بیوی خارج نہ ہوں گے، آپ خود ان کو لکھیں مگر درشت اور سخت الفاظ آپ کا قلم گرانے کا عادی ہو چکا ہے، اس سے جہاں تک ہو سکے احتراز کریں اور منہ سماجت سے کام لیں۔

خاکسار علی شیر بیگ از قادیان 4 مئی 1891ء۔

مرزا علی شیر کے اس خط میں مرزا قادیانی کے کردار کی صحیح تصویر کھینچی گئی ہے۔ اسے کہتے ہیں گھر کا بھیدی لٹکا ڈھائے۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ مرزا قادیانی کی نبوت خود ساختہ ہے اور وہ اپنے دعویٰ میں مسلمانہ کذاب سے بڑھ کر ہے۔ بلیک میلنگ میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں۔ وہ جسمانی بیماریوں کا مجموعہ اور مراتی ہے۔

جس روز علی شیر بیگ، مرزا قادیانی کو مذکورہ بالا خط لکھ رہے تھے، ٹھیک اسی دن مرزا

قادیانی نے علی شیر بیگ کی اہلیہ کو درج ذیل خط تحریر کیا:

بسم اللہ الرحمن الرحیم

□ والدہ عزت بی بی کو معلوم ہو کہ مجھ کو خبر پہنچی ہے کہ چند روز تک محمدی بیگم مرزا احمد بیگ کی لڑکی کا نکاح ہونے والا ہے۔ اور میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا چکا ہوں کہ اس نکاح سے سارے رشتے ناطے توڑ دوں گا اور کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اس لیے نصیحت کی راہ سے لکھتا ہوں کہ اپنے بھائی مرزا احمد بیگ کو سمجھا کر یہ ارادہ موقوف کراؤ اور جس طرح تم سمجھا سکتے ہو، اس کو سمجھا دو۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو آج میں نے مولوی نور دین صاحب اور فضل احمد کو خط لکھ دیا ہے کہ اگر تم اس ارادہ سے باز نہ آؤ تو فضل احمد، عزت بی بی کے لیے طلاق نامہ لکھ کر بھیج دے۔ اور اگر فضل احمد طلاق نامہ لکھنے میں عذر کرے تو اس کو عاق کیا جائے اور اپنے بعد اس کو وارث نہ سمجھا جائے اور ایک پیسہ وراثت کا اس کو نہ ملے۔ سو امید رکھتا ہوں کہ شرطی طور پر اس کی طرف سے طلاق نامہ لکھا آ جائے گا جس کا یہ مضمون ہوگا کہ اگر مرزا احمد بیگ محمدی بیگم کے غیر کے ساتھ نکاح کرنے سے باز نہ آدے تو پھر اسی روز سے جو محمدی کا کسی اور سے نکاح ہو جائے عزت بی بی کو تین طلاق ہیں۔ سو اس طرح پر لکھنے سے اس طرف تو محمدی بیگم کا کسی دوسرے سے نکاح ہوگا اور اس طرف عزت بی بی پر فضل احمد کی طلاق پڑ جائے گی۔ سو یہ شرطی طلاق ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم ہے کہ اب بجز قبول کرنے کے کوئی راہ نہیں اور اگر میں احمد

نے نہ مانا تو میں فی الفور اس کو عاق کر دوں گا اور پھر وہ میرے وراثت سے ایک دانہ نہیں پا سکتا اور اگر آپ اس وقت اپنے بھائی کو سمجھا لو تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے عزت بی بی کی بہتری کے لیے ہر طرح سے کوشش کرنا چاہا تھا اور میری کوشش سے سب نیک بات ہو جاتی مگر آدمی پر تقدیر غالب ہے۔ یاد رہے کہ میں نے کوئی کچی بات نہیں لکھی۔ مجھے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ اور خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ جس دن نکاح ہوگا، اس دن عزت بی بی کا نکاح باقی نہیں رہے گا۔

راقم مرزا غلام احمد از لودھیانہ اقبال گنج 4 مئی 1891ء۔“

(کلمہ فضل رحمانی صفحہ 123 تا 128 مصنفہ جناب قاضی فضل احمد گورداسپوری)

مرزا امام الدین، مرزا قادیانی کا چچا زاد بھائی اور محمدی بیگم کا ماموں تھا۔ مرزا بشیر احمد ایم اے کی ایک روایت کے مطابق احمد بیگم اس کے تابع تھا اور بالکل اس کے زیر اثر ہو کر اس کے اشارے پر چلتا تھا۔ مرزا قادیانی نے محمدی بیگم سے شادی کے بارے میں اس سے خط کتابت کی اور اسے لالچ دیا کہ اگر تم میرا یہ رشتہ کروادو گے تو میں تمہیں دولت کی شکل میں انعام دوں گا۔ اس سلسلہ میں مرزا بشیر احمد ایم اے لکھتا ہے:

(388) ”بیان کیا مجھ سے میاں عبداللہ سنوری نے کہ ایک دفعہ حضرت صاحب جالندھر جا کر قریباً ایک ماہ ٹھہرے تھے اور ان دنوں میں محمدی بیگم کے ایک حقیقی ماموں نے محمدی بیگم کا حضرت صاحب سے رشتہ کرادینے کی کوشش کی تھی مگر کامیاب نہیں ہوا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب محمدی بیگم کا والد مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری زندہ تھا، اور ابھی محمدی بیگم کا مرزا سلطان محمد سے رشتہ نہیں ہوا تھا۔ محمدی بیگم کا یہ ماموں جالندھر اور ہوشیار پور کے درمیان یکے میں آیا جایا کرتا تھا اور وہ حضرت صاحب سے کچھ انعام کا بھی خواہاں تھا۔ اور چونکہ محمدی بیگم کے نکاح کا عقدہ زیادہ تر اسی شخص کے ہاتھ میں تھا، اس لیے حضرت صاحب نے اس سے کچھ انعام کا وعدہ بھی کر لیا تھا۔“

(سیرت الہدی جلد اول صفحہ 192، 193 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 928، 929 پر)

یہ گھر کی شہادت با آواز بلند اعلان کر رہی ہے کہ محمدی بیگم کے ساتھ نکاح کرانے کے لیے مرزا قادیانی، محمدی بیگم کے ماموں کو انعام یا رشوت دینے کے لیے تیار تھا۔ مرزا بیو!

خدا کے لیے غور کرو کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے نام سے محمدی بیگم کے نکاح کی پیشگوئی شائع کرنا، پھر انعام، رشوت اور روپے کے لالچ سے نکاح کی کوشش کرنا کسی راستہ باز انسان کا کام ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں جیسا کہ خود مرزا قادیانی نے لکھا ہے۔ ”ہم ایسے مرشد کو اور ساتھ ہی ایسے مرید کو کتوں سے بدتر اور نہایت ناپاک زندگی والا خیال کرتے ہیں کہ جو اپنے گھر سے پیشگوئیاں بنا کر پھر اپنے ہاتھ سے، اپنے گھر سے، اپنے فریب سے ان کے پوری ہونے کے لیے کوشش کرے اور کرائے۔“ (سراج منیر صفحہ 25 مندرجہ روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 27 از مرزا قادیانی)

### خانہ بربادی

مرزا قادیانی کو شک تھا کہ ان کی پہلی بیوی کے دونوں بیٹے سلطان احمد اور فضل احمد محمدی بیگم سے نکاح کے بارے میں اپنے والد کی حمایت کرنے کے بجائے دوسرے فریق کا ساتھ دے رہے ہیں۔ لہذا مرزا قادیانی نے 2 مئی 1891ء کو ایک خاص اشتہار کے ذریعے انہیں دھمکی دی کہ اگر محمدی بیگم کا نکاح کسی اور جگہ ہو گیا تو نہ صرف وہ ہر قسم کی جائیداد وغیرہ سے عاق ہوں گے بلکہ ان کی والدہ کو بھی طلاق ہو جائے گی۔ ملاحظہ فرمائیں:

(389) ”ناظرین کو یاد ہوگا کہ اس عاجز نے ایک دینی خصومت کے پیش آ جانے کی وجہ سے ایک نشان کے مطالبہ کے وقت اپنے ایک قریبی مرزا احمد بیگ ولد مرزا گاماں بیگ ہوشیار پوری کی دختر کلاں کی نسبت بحکم والہام الہی یہ اشتہار دیا تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہی مقدر اور قرار یافتہ ہے کہ وہ لڑکی اس عاجز کے نکاح میں آئے گی۔ خواہ پہلے ہی باکرہ ہونے کی حالت میں آ جائے اور یا خدا تعالیٰ بیوہ کر کے اس کو میری طرف لے آوے۔ چنانچہ تفصیل ان نکل امور مذکورہ بالا کی اس اشتہار میں درج ہے۔ اب باعث تحریر اشتہار ہذا یہ ہے کہ میرا بیٹا سلطان احمد نام جو نائب تحصیلدار لاہور میں ہے اور اس کی تائی صاحبہ جنہوں نے اس کو بیٹا بنایا ہوا ہے، وہی اس مخالفت پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ اور یہ سارا کام اپنے ہاتھ میں لے کر اس تجویز میں ہیں کہ عید کے دن یا اس کے بعد اس لڑکی کا کسی سے نکاح کیا جائے۔ اگر یہ اوروں کی طرف سے مخالفت کارروائی ہوتی تو ہمیں درمیان میں دخل دینے کی کیا ضرورت اور کیا غرض تھی۔ امر ربی تھا اور وہی اس کو اپنے فضل و کرم سے ظہور میں لاتا۔ مگر اس کام کے مدار الہام وہ لوگ ہو گئے جن پر اس عاجز کی اطاعت فرض تھی اور ہر چند سلطان احمد کو سمجھایا اور

بہت تاکیدی خط لکھے کہ تو اور تیری والدہ اس کام سے الگ ہو جائیں، ورنہ میں تم سے جدا ہو جاؤں گا اور تمہارا کوئی حق نہیں رہے گا۔ مگر انہوں نے میرے خط کا جواب تک نہ دیا اور بلکی مجھ سے بیزاری ظاہر کی۔ اگر ان کی طرف سے ایک تیز تلوار کا بھی مجھے زخم پہنچتا تو بخدا میں اس پر صبر کرتا۔ لیکن انہوں نے دینی مخالفت کر کے اور دینی مقابلہ سے آزار دے کر مجھے بہت ستایا اور اس حد تک میرے دل کو توڑ دیا کہ میں بیان نہیں کر سکتا اور عمداً چاہا کہ میں سخت ذلیل کیا جاؤں۔ سلطان احمد ان دو بڑے گناہوں کا مرتکب ہوا۔ اول یہ کہ اس نے رسول اللہ ﷺ کے دین کی مخالفت کرنی چاہی، اور یہ چاہا کہ دین اسلام پر تمام مخالفوں کا حملہ ہو اور یہ اپنی طرف سے اس نے ایک بنیاد رکھی ہے اس امید پر کہ یہ جھوٹے ہو جائیں گے اور دین کی ہتک ہوگی اور مخالفوں کی فتح۔ اس نے اپنی طرف سے مخالفانہ تلوار چلانے میں کچھ فرق نہیں کیا اور اس نادان نے نہ سمجھا کہ خداوند قدیر و غیور اس دین کا حامی ہے اور اس عاجز کا بھی حامی۔ وہ اپنے بندہ کو کبھی ضائع نہ کرے گا۔ اگر سارا جہان مجھے برباد کرنا چاہے تو وہ اپنی رحمت کے ہاتھ سے مجھ کو تھام لے گا، کیونکہ میں اس کا ہوں اور وہ میرا۔ دوم سلطان احمد نے مجھے جو میں اس کا باپ ہوں سخت ناچیز قرار دیا اور میری مخالفت پر کمر باندھی اور قوی اور فعلی طور پر اس مخالفت کو کمال تک پہنچایا اور میرے دینی مخالفوں کو مدد دی اور اسلام کی ہتک بدل و جان منظور رکھی۔ سو چونکہ اس نے دونوں طور کے گناہوں کو اپنے اندر جمع کیا۔ اپنے خدا کا تعلق بھی توڑ دیا اور اپنے باپ کا بھی۔ اور ایسا ہی اس کی دونوں والدہ نے کیا۔ سو جبکہ انہوں نے کوئی تعلق مجھ سے باقی نہ رکھا، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اب ان کا کسی قسم کا تعلق مجھ سے باقی رہے اور ڈرتا ہوں کہ ایسے دینی دشمنوں سے پیوند رکھنے میں معصیت نہ ہو۔ لہذا میں آج کی تاریخ کہ دوسری مئی 91ء ہے، عوام اور خواص پر بذریعہ اشتہار ہذا ظاہر کرتا ہوں کہ اگر یہ لوگ اس ارادہ سے باز نہ آئے اور وہ تجویز جو اس لڑکی کے ناطہ اور نکاح کرنے کی اپنے ہاتھ سے یہ لوگ کر رہے ہیں اس کو موقوف نہ کر دیا اور جس شخص کو انہوں نے نکاح کے لیے تجویز کیا ہے اس کو رو نہ کیا بلکہ اسی شخص کے ساتھ نکاح ہو گیا تو اسی نکاح کے دن سے سلطان احمد عاق اور محروم الارث ہوگا اور اسی روز سے اس کی والدہ پر میری طرف سے طلاق ہے۔ اور اگر اس کا بھائی فضل احمد جس کے گھر میں مرزا احمد بیگ والد لڑکی کی بھانجی ہے اپنی اس بیوی کو اسی دن جو اس کو نکاح کی خبر ہو اور طلاق نہ دیوے تو پھر وہ بھی عاق اور محروم الارث ہوگا۔ اور آئندہ ان سب کا کوئی حق

میرے پر نہیں رہے گا اور اس نکاح کے بعد تمام تعلقات خویشی و قرابت و ہمدردی دور ہو جائے گی۔ اور کسی نیکی، بدی، رنج، راحت شادی اور ماتم میں ان سے شراکت نہیں رہے گی کیونکہ انہوں نے آپ تعلق توڑ دیے اور توڑنے پر راضی ہو گئے۔ سو اب ان سے کچھ تعلق رکھنا قطعاً حرام اور ایمانی غیوری کے برخلاف اور ایک دیوثی کا کام ہے۔ مومن دیوث نہیں ہوتا۔

چوں نہ بود خویش را دیانت و تقویٰ

قطع رحم بہ از مودت قربانی

والسلام علی من اتبع الهدی.

المشتہر

مرزا غلام احمد لودیانہ

2 مئی 1891ء

(مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 186، 187 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 930، 931 پر)

اس ضمن میں مرزا بشیر احمد ایم اے اپنی والدہ کے حوالہ سے لکھتا ہے:

(390) ”بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ جب محمدی بیگم کی شادی دوسری جگہ ہو گئی اور قادیان کے تمام رشتہ داروں نے حضرت صاحب کی سخت مخالفت کی اور خلاف کوشش کرتے رہے اور سب نے احمد بیگ والد محمدی بیگم کا ساتھ دیا اور خود کوشش کر کے لڑکی کی شادی دوسری جگہ کرا دی تو حضرت صاحب نے مرزا سلطان احمد اور مرزا فضل احمد دونوں کو الگ الگ خط لکھا کہ ان سب لوگوں نے میری سخت مخالفت کی ہے۔ اب ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا اور ان کے ساتھ اب ہماری قبریں بھی اکٹھی نہیں ہو سکتیں۔ لہذا اب تم اپنا آخری فیصلہ کرو۔ اگر تم نے میرے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو پھر ان سے قطع تعلق کرنا ہوگا اور اگر ان سے تعلق رکھنا ہے تو پھر میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں رہ سکتا۔ میں اس صورت میں تم کو عاق کرتا ہوں۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ مرزا سلطان احمد کا جواب آیا کہ مجھ پر تائی صاحبہ کے احسانات ہیں۔ ان سے قطع تعلق نہیں کر سکتا۔ مگر مرزا فضل احمد نے لکھا کہ میرا تو آپ کے ساتھ ہی تعلق ہے، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حضرت صاحب نے مرزا فضل احمد کو جواب دیا کہ اگر یہ درست ہے تو اپنی بیوی بنت مرزا علی شیر کو (جو سخت مخالف تھی اور مرزا احمد بیگ کی

بھانجی تھی) طلاق دے دو۔ مرزا فضل احمد نے فوراً طلاق نامہ لکھ کر حضرت صاحب کے پاس روانہ کر دیا۔ والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ پھر فضل احمد باہر سے آ کر ہمارے پاس ہی ٹھہرتا تھا مگر اپنی دوسری بیوی کی فتنہ پر دازی سے آخر پھر آہستہ آہستہ ادھر جا ملا۔“  
(سیرت المہدی جلد اول صفحہ 28، 29 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 932، 933 پر)

مرزا بشیر احمد ایم اے مزید لکھتا ہے:

(391) ”بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح موعود کو اوائل سے ہی مرزا فضل احمد کی والدہ سے جن کو لوگ عام طور پر ”بھجے دی ماں“ کہا کرتے تھے، بے تعلقی سی تھی جس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت صاحب کے رشتہ داروں کو دین سے سخت بے رغبتی تھی اور ان کا ان کی طرف میلان تھا اور وہ اسی رنگ میں رنگیں تھیں۔ اس لیے حضرت مسیح موعود نے ان سے مباشرت ترک کر دی تھی، ہاں آپ اخراجات وغیرہ باقاعدہ دیا کرتے تھے۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ میری شادی کے بعد حضرت صاحب نے انہیں کہلا بھیجا کہ آج تک تو جس طرح ہوتا رہا ہوتا رہا، اب میں نے دوسری شادی کر لی ہے، اس لیے اب اگر دونوں بیویوں میں برابری نہیں رکھوں گا تو میں گنہگار ہوں گا۔ اس لیے اب دو باتیں ہیں یا تو تم مجھ سے طلاق لے لو اور یا مجھے اپنے حقوق چھوڑ دو۔ میں تم کو خرچ دیے جاؤں گا۔ انہوں نے کہلا بھیجا کہ اب میں بڑھاپے میں کیا طلاق لوں گی۔ بس مجھے خرچ ملتا رہے۔ میں اپنے باقی حقوق چھوڑتی ہوں۔ والدہ صاحبہ فرماتی ہیں۔ چنانچہ پھر ایسا ہی ہوتا رہا۔ حتیٰ کہ محمدی بیگم کا سوال اٹھا اور آپ کے رشتہ داروں نے مخالفت کر کے محمدی بیگم کا نکاح دوسری جگہ کر دیا اور فضل احمد کی والدہ نے ان سے قطع تعلق نہ کیا بلکہ ان کے ساتھ رہیں۔ تب حضرت صاحب نے ان کو طلاق دے دی۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت صاحب کا یہ طلاق دینا آپ کے اس اشتہار کے مطابق تھا جو آپ نے 2 مئی 1891ء کو شائع کیا تھا اور جس کی سرخی تھی ”اشتہار نصرت دین و قطع تعلق از اقارب مخالف دین۔“

(سیرت المہدی جلد اول صفحہ 33، 34 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 934، 935 پر)



مرزا قادیانی نے اپنے مخالفوں کو ”کجریوں کی اولاد“ کہا ہے:

(392) ”تلك كتب ينظر اليها كل مسلم بعين المحبة والمودة و ينتفع من معارفها و يقبلنى و يصدق دعوتى. الا ذرية البغايا الذين ختم الله على قلوبهم فهم لا يقبلون.“

ترجمہ ”میری ان کتابوں کو ہر مسلمان محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اس کے معارف سے فائدہ اٹھاتا ہے اور میری دعوت کی تصدیق کرتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے مگر کجریوں (بدکار عورتوں) کی اولاد نے میری تصدیق نہیں کی۔“

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ 547، 548 مندرجہ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 547، 548 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 936، 937 پر)

مذکورہ بالا عبارات سے پتہ چلتا ہے کہ مرزا قادیانی کے بیٹوں مرزا سلطان احمد اور مرزا فضل احمد نے نہ صرف مرزا قادیانی کی مخالفت کی بلکہ اس کے مخالفین کی بھرپور حمایت کی۔ قادیانیوں سے سوال ہے کہ کیا مذکورہ بالا عبارت کی موجودگی میں مرزا قادیانی کے بیٹوں کا شمار کجریوں کی اولاد میں ہوتا ہے؟

مرزا قادیانی لکھتا ہے:

(393) ”14 اگست 1892ء مطابق 20 محرم 1309ھ ”آج خواب میں میں نے دیکھا کہ محمدی (بیگم) جس کی نسبت پیشگوئی ہے باہر کسی تکیہ میں معہ چند گس کے بیٹھی ہوئی ہے اور سر اس کا شاید منڈا ہوا ہے اور بدن سے ننگی ہے اور نہایت مکروہ شکل ہے۔ میں نے اس کو تین مرتبہ کہا ہے کہ تیرے سر منڈی ہونے کی یہ تعبیر ہے کہ تیرا خاوند مر جائے گا اور میں نے دونوں ہاتھ اس کے سر پر اتارے ہیں اور پھر خواب میں، میں نے یہی تعبیر کی ہے اور اسی رات والدہ محمود نے خواب میں دیکھا کہ محمدی (بیگم) سے میرا نکاح ہو گیا ہے اور ایک کاغذ مہراں کے ہاتھ میں ہے جس پر ہزار روپیہ مہر لکھا ہے اور شیرینی منگوائی گئی ہے۔ اور پھر میرے پاس وہ خواب میں کھڑی ہے۔“

(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات طبع چہارم صفحہ 160 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 938 پر) یہ خواب تو مرزا قادیانی نے سخت رد عمل میں جان بوجھ کر دیکھا ہے۔

مرزا قادیانی محمدی بیگم کے خاوند کی موت کی پیش گوئی کرتے ہوئے لکھتا ہے:  
 (394) ”مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری کے داماد کی موت کی نسبت پیشگوئی جو پٹی ضلع لاہور کا  
 باشندہ ہے جس کی میعاد آج کی تاریخ سے جو 21 ستمبر 1893ء ہے، قریباً گیارہ مہینے باقی رہ  
 گئی ہے۔ یہ تمام امور جو انسانی طاقتوں سے بالکل بالاتر ہیں ایک صادق یا کاذب کی شناخت  
 کے لیے کافی ہیں۔“

(شہادۃ القرآن صفحہ 79 مندرجہ روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 375 از مرزا قادیانی)  
 (عکس صفحہ نمبر 939 پر)

مرزا قادیانی کی تمام تر کوششوں، دھمکیوں، ترغیبات، تحریصات اور جھوٹے  
 الہامات کے باوجود احمد بیگ نے اپنی بیٹی محمدی بیگم کا نکاح مسیحی سلطان محمد سے 7 اپریل  
 1892ء کو بڑی دھوم دھام سے کر دیا۔ ادھر شہنائی بج رہی تھی، ادھر مرزا قادیانی کے گھر میں  
 ماتم برپا تھا۔ مرزا قادیانی کے قریبی دوست تو بخوبی جانتے تھے کہ مرزا قادیانی نے خدا کے نام  
 پر جتنی باتیں کہی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، یہ سب مرزا قادیانی کی اپنی اختراع ہے جو وہ  
 خدا کے نام پر پیش کر رہا ہے لیکن نادان قادیانیوں کو کس طرح سمجھایا جائے کہ ان کے نبی کی  
 آسمانی منکوحہ کسی اور کے نکاح میں دی جا چکی ہے اور ”خدا“ کے فیصلے پر انسانی فیصلے غالب آ  
 چکے ہیں۔ مرزا قادیانی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اپنی آسمانی منکوحہ کو سلطان محمد سے چھین سکے  
 اور نہ اس کے کسی مرید میں یہ جرأت تھی کہ وہ اپنے نبی کی آسمانی بیوی کو کسی غیر کی منکوحہ ہونے  
 سے روک سکے۔ مرزا قادیانی ذلت و حسرت کی تصویر بنا اپنی آسمانی منکوحہ کی رخصتی پر آنسو  
 بہاتا رہا اور دانت پیتا رہا اور اس کے مریدوں کے منہ پر اس کی بے بسی اور شرمندگی کی گہری  
 چھاپ صاف دکھائی دے رہی تھی۔

مرزا قادیانی نے اس نازک صورت حال کو دیکھتے ہوئے اعلان کیا کہ اسے خدا نے  
 وحی کی ہے کہ اس بارے میں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ خدا نے اس کا  
 نکاح آسمان پر تمہارے ساتھ ہی پڑھایا ہے۔ وہ تمہاری ہی منکوحہ ہے۔ اب اس دنیا میں اگر  
 کوئی اسے اپنی منکوحہ بنا چکا ہے تو یہ اس کی عارضی منکوحہ ہوگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا سے  
 مرزا قادیانی کی منکوحہ بنائے اور کوئی دوسرا اسے لے اڑے۔ سو وقت آئے گا کہ اس آسمانی

منکوہہ کا عارضی شوہر مرے گا اور خدا پھر اسے تمہارے پاس ہی لے آئے گا۔ مرزا قادیانی نے پوری ڈھٹائی کے ساتھ یہ اعلان کیا اور اشتہاروں پر اشتہار لکھے تاکہ اس کی جماعت سے نکلنے والے قادیانی واپس آ جائیں اور اسے اپنی آمدنی سے حصہ دیتے رہیں۔ مرزا قادیانی نے خدا کے نام سے یہ اعلان کیا:

(395) ”دختر احمد بیگ مسی سلطان محمد سے بیاہی گئی۔ اس کا والد اور اس کے اقارب اور عزیز بہت بے دین تھے اور تکذیب حق میں حد سے بڑھے ہوئے تھے..... اس لیے خدا تعالیٰ نے چاہا کہ ان کو وہ نشان دکھلاوے جس سے وہ ذلیل ہوں۔ پس اس نے اس تمام طحہ گروہ کے حق میں مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ کذبوا بایاتنا وکانوا بہا يستهزون فسيفکفیکهم اللہ۔ ویردھا الیک لا تبدیل لکلمات اللہ ان ربک فعال لما یوید۔ یعنی ان لوگوں نے ہمارے نشانوں کی تکذیب کی اور ان سے ٹھٹھا کیا۔ سو خدا ان کے شر دور کرنے کے لیے تیرے لیے کافی ہوگا اور انھیں یہ نشان دکھلائے گا کہ احمد بیگ کی بڑی لڑکی ایک جگہ بیاہی جائے گی اور خدا اس کو پھر تیری طرف واپس لائے گا، یعنی آخر وہ تیرے نکاح میں آئے گی۔ اور خدا سب روکیں درمیان سے اٹھا دے گا۔ خدا کی باتیں ٹل نہیں سکتیں۔ تیرا رب ایسا قادر ہے کہ جس کام کا وہ ارادہ کرے اس کام کو وہ اپنے منشا کے موافق ضرور پورا کرتا ہے۔“

(مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 397، 398 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 940، 941 پر)

مرزا قادیانی نے پھر خدا کے نام پر اعلان کیا:

(396) ”نفس پیشگوئی یعنی اُس عورت کا اس عاجز کے نکاح میں آنا یہ تقدیر مبرم ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتی کیونکہ اس کے لیے الہام الہی میں یہ فقرہ موجود ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ یعنی میری یہ بات ہرگز نہیں ٹلے گی پس اگر ٹل جائے تو خدا تعالیٰ کا کلام باطل ہوتا ہے..... اس نے فرمایا کہ میں اس عورت کو اس کے نکاح کے بعد واپس لاؤں گا اور تجھے دوں گا اور میری تقدیر کبھی نہیں بدلے گی اور میرے آگے کوئی بات انہونی نہیں اور میں سب روکوں کو اٹھا دوں گا جو اس حکم کے نفاذ سے مانع ہوں۔“

(مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 399 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 942 پر)

ناظرین! اس سے بڑھ کر بھی کوئی صاف گوئی ہوگی جو مرزا قادیانی نے اس عبارت میں کی ہے؟ بات بھی صحیح ہے کہ خدا جس امر کی بابت خبر دے، پھر اس کی تاکید کے لیے ”لا تبدیل“ فرمائے؟ پھر وہ تبدیل ہو جائے تو خدائی کلام کے جھوٹ ہونے میں کچھ شک رہتا ہے؟ اب سوال یہ ہے کیا یہ نکاح مرزا قادیانی سے ہو گیا؟ آہ! اس کا جواب بڑی حسرت اور افسوس کے ساتھ نفی میں دیا جاتا ہے کہ تاحیات مرزا قادیانی کا نکاح نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ 26 مئی 1908ء کے دن بے چارہ اس حسرت کو اپنے ساتھ قبر میں لے گیا۔

لے گئے خاک میں ہم داغ تمنائے نشاط

تو ہو اور آپ یہ صد رنگ گلستاں ہونا

(عالم)

اب مرزا قادیانی نے محمدی بیگم اور اس کے خاندان کے لیے بددعا میں کرنا شروع کر دیں۔ اس نے خدا کے نام پر کہا:

(397) ”فدعوت ربی بالتضرع والابتھال و مددت الیہ ایدی السوال فالہمنی ربی وقال ساریہم ایۃ من انفسہم واخبرنی وقال اننی ساجعل بنتاً من بناتہم ایۃ لہم۔ فسماہا وقال انہا سیجعل ثیبة ویموت بعلمہا و ابوہا الی ثلث سنة من یوم النکاح ثم نردہا الیک بعد موتہما ولا یکون احدہما من العاصمین وقال انارادوہا الیک لا تبدیل نکلمات اللہ۔“

(ترجمہ) میں نے بڑی عاجزی سے خدا سے دعا کی تو اس نے مجھے الہام کیا کہ میں ان (تیرے خاندان کے) لوگوں کو ان میں سے ایک نشانی دکھاؤں گا۔ خدا تعالیٰ نے ایک لڑکی (محمدی بیگم) کا نام لے کر فرمایا کہ وہ بیوہ کی جاوے گی اور اس کا خاوند اور باپ یوم نکاح سے تین سال تک فوت ہو جائیں گے اور پھر ہم اس لڑکی کو تیری طرف لائیں گے اور کوئی اس کو روک نہ سکے گا۔“

(مرزا قادیانی کا الہام، مندرجہ تالیف ”کرامات الصادقین“ سرورق آخر نمبر 1، مندرجہ روحانی خزائن جلد 7 صفحہ 162) (عکس صفحہ نمبر 943 پر)

مرزا قادیانی نے مزید پیش گوئیاں کرتے ہوئے کہا:

(398) ”میں اشتہار 10 جولائی 1888ء میں شائع کر چکا ہوں جن کا مضمون یہی ہے کہ خدا تعالیٰ اس عورت کو بیوہ کر کے میری طرف رو کرے گا۔ اب انصاف سے دیکھیں کہ نہ کوئی انسان اپنی حیات پر اعتماد کر سکتا ہے اور نہ کسی دوسرے کی نسبت دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ فلاں وقت تک زندہ رہے گا۔ یا فلاں وقت تک مر جائے گا۔ مگر میری اس پیشگوئی میں نہ ایک بلکہ چھ دعویٰ ہیں۔ اول نکاح کے وقت تک میرا زندہ رہنا۔ دوم نکاح کے وقت تک اس لڑکی کے باپ کا یقیناً زندہ رہنا۔ سوم پھر نکاح کے بعد اس لڑکی کے باپ کا جلدی سے مرنا جو تین برس تک نہیں پہنچے گا۔ چہارم اس کے خاوند کا اڑھائی برس کے عرصہ تک مر جانا۔ پنجم اس وقت تک کہ میں اس سے نکاح کروں اس لڑکی کا زندہ رہنا۔ ششم پھر آخر یہ بیوہ ہونے کی تمام رسموں کو توڑ کر باوجود سخت مخالفت اس کے اقارب کے میرے نکاح میں آ جانا۔ اب آپ ایماناً کہیں کہ کیا یہ باتیں انسان کے اختیار میں ہیں اور ذرا اپنے دل کو تھام کر سوچ لیں کہ کیا ایسی پیشگوئی سچے ہو جانے کی حالت میں انسان کا فعل ہو سکتی ہے؟“

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ 324، 325 مندرجہ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 324، 325 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 944، 945 پر)

مرزا قادیانی اپنا ایک الہام بیان کرتے ہوئے کہتا ہے:

(399) ”اس زمانہ کے قریب ہی یہ بھی الہام ہوا تھا۔ بکو و ٹیب یعنی ایک کنواری اور ایک بیوہ تمہارے نکاح میں آئے گی۔“

(تریاق القلوب صفحہ 159 مندرجہ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 287 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 946 پر)

جناب حافظ محمد اقبال رنگونی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں:

”مرزا قادیانی کی مذکورہ تصریحات اور پھر اس کی تشریحات سے یہ بات واضح ہے کہ محترمہ محمدی بیگم کی شادی ہو جانے کے باوجود مرزا قادیانی نے اس خاتون کی آبرو کا کوئی خیال نہیں کیا اور سالہا سال تک ایک غیر محرم خاتون کی عزت کو اچھالنے کا مشغلہ جاری رکھا۔“

آپ ہی بتائیں کہ کیا مرزا قادیانی کو اس کی اجازت تھی کہ وہ کسی دوسرے کی منکوحہ کے بارے میں بار بار یہ اشتہار شائع کرے کہ وہ میری بیوی بنے گی، میرے گھر آئے گی، اس کا شوہر مرے گا، وہ میری ہی منکوحہ ہے، کچھ ہی ہو جائے، اسے میرے ہی پاس آنا ہے۔ ہر شریف آدمی اس قسم کی باتیں کرنے والے شخص کو بڑا بے شرم آدمی کہتا ہے مگر افسوس کہ قادیانیوں نے اسے خدا کے نبی کا درجہ دے رکھا ہے۔ چہ نسبت ناپاک رابعالم پاک!

مرزا قادیانی کو اس بات کا تو حق تھا کہ وہ محمدی بیگم کے شوہر کے انتقال کر جانے کے بعد پھر سے اپنے رشتہ کی بات چلاتا اور وہ بھی عدت گزرنے کے بعد اور پھر اسے لالچ اور دھمکیوں کے ذریعے اپنی منکوحہ بناتا مگر اسے یہ حق ہرگز نہ تھا کہ وہ ایک شخص کی منکوحہ کے بارے میں مسلسل یہ دعویٰ کرے کہ یہ اسی کی بیوی ہے، اور اس کا شوہر مر جائے گا، یہ واپس میرے پاس آ جائے گی۔ یہ انداز گفتگو اور اشتہارات اس بات کے شاہد ہیں کہ مرزا قادیانی کو شریف آدمی کہنا بھی شرافت کے خلاف ہے۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ قادیانیوں کے ہاں شرافت کا معیار مرزا قادیانی کا گھناؤنا کردار ہے، اور ایسے ہی لوگ ان کے ہاں سب سے بڑے شریف سمجھے جاتے ہیں۔ اسلام میں تو خالند کے فوت ہونے کے بعد بھی عدت گزرنے سے پہلے بیوہ کو نکاح کا پیغام نہیں دیا جاسکتا چہ جائیکہ خالند زندہ ہو، مرا بھی نہ ہو اور یہاں اس کے نکاح ثانی کے پیغام دیے جا رہے ہوں۔

ان دنوں محمد بخش جعفرزئی نے اپنے رسالہ میں یہ اعلان شائع کیا کہ وہ عنقریب نصرت جہاں بیگم (مرزا قادیانی کی بیوی) سے بیاہ رچانے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مرزا قادیانی کی موت کے بعد نصرت جہاں میرے نکاح میں آئے گی۔ پھر اس نے اپنے اعلان کی تائید میں چند خواب بھی سنائے اور بشارتیں بھی نقل کیں۔ مرزا قادیانی نے جب یہ اعلان پڑھا تو مارے غم کے سرخ ہو گیا اور اس نے لکھا:

□ ”میری بیوی کی نسبت شیخ محمد حسین کے دوست جعفرزئی نے محض شرارت سے گندی خوابیں بنا کر سراسر بے حیائی کی راہ سے شائع کیں اور میری دشمنی سے اس میں وہ لحاظ و ادب بھی نہ رہا جو اہل بیت رسول کی پاک دامن خواتین سے رکھنا چاہیے۔ مولوی کہلانا اور یہ بے حیائی کی حرکات افسوس ہزار افسوس!! (تحفہ گولڑویہ صفحہ 56 حاشیہ جلد 17 صفحہ 199)

اگر جعفرزئی اس لیے بے حیا ہے کہ وہ مرزا قادیانی کی بیوی کے بارے میں خواب

سناتا ہے اور کسی وقت اس کے نکاح میں آنے کی خبر دیتا ہے تو مرزا قادیانی اس سے زیادہ بے حیا ہے کہ وہ مدعی نبوت ہو کر سلطان محمد کی بیوی محترمہ محمدی بیگم کے بارے میں الہامات سناتا ہے اور کسی دوسرے کی بیوی کو اپنے نکاح میں لانے کے بارے میں اشتہار شائع کرتا ہے۔ اگر جعفر زٹلی اس وجہ سے لائق نفرت ہیں تو مرزا قادیانی اس سے بدرجہ اولیٰ لائق نفرین ٹھہرے۔ ہے کوئی قادیانی جو انصاف کا دامن تھامے اور مرزا قادیانی کو برسرعام بے حیا مانے؟ مرزا قادیانی نے جب خدا کے نام سے احمد بیگ کو اپنی لڑکی کا رشتہ دینے کے لیے کہا تو اسے یقین تھا کہ احمد بیگ اپنی مجبوری کے پیش نظر اس کی بات مان لے گا لیکن احمد بیگ نے غیرت کا مظاہرہ کیا۔ مرزا قادیانی نے دیگر ذرائع سے لالچ اور دھمکیاں دیں۔ وہ بھی بے اثر ثابت ہوئیں اب جبکہ لڑکی کا نکاح کسی اور جگہ ہو چکا اور وہ لڑکی کسی کی بیوی بن چکی، پھر بھی بار بار یہ بات دہرانا کہ اس کا شوہر مر جائے گا، ہمیں کسی اور بات کی خبر دیتا ہے۔ مرزا قادیانی کے خیال میں محمدی بیگم کس طرح بیوہ ہو سکتی تھی، اس وقت ہم اس پر بحث نہیں کر رہے، ہم صرف مرزا قادیانی کی غیر شریفانہ ذہنیت کی نشاندہی کر رہے ہیں تاکہ قادیانی عوام اس سے عبرت حاصل کریں اور وہ جان پائیں کہ مرزا قادیانی بد اخلاقی کی کس سطح تک گر چکا تھا۔

مرزا قادیانی نے محمدی بیگم کے ساتھ نکاح کو نہ صرف خدائی پیغام بتایا بلکہ اسے اپنے صدق و کذب کا اہم عنوان بھی بنا دیا۔ اپنے اس عنوان صدق کی لالچ رکھنے اور اپنے عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے کہ یہ خدائی معاملہ ہے، مرزا قادیانی نے اوجھی حرکتوں کے اختیار تک سے اجتناب نہ کیا۔ ایک ظالم اور لالچی شخص کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے جتنا کچھ کر سکتا ہے، مرزا قادیانی نے وہ سب راہ عمل اپنائے تاکہ وہ کسی طرح یہ کہنے میں کامیاب ہو جائے کہ یہ خدائی معاملہ ہے اور وہ اپنے دعویٰ میں سچا ہے۔ مرزا قادیانی نے اس رشتہ کو جو اہمیت دی ہے، اسے مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر احمد نے اس طرح بیان کیا ہے:

□ ”اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ الہامات (جن کا تعلق محمدی بیگم سے ہے) پیشگوئی کا بنیادی پتھر ہیں۔“ (سیرت المہدی جلد اول صفحہ 195)

آئیے دیکھیں کہ یہ بنیادی پتھر کس طرح ٹوٹتا ہے۔ اس کی بنیادیں کس طرح ہلتی ہیں اور مرزا قادیانی کس طرح اپنی بات میں جھوٹا نظر آتا ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنے صدق و کذب کا معیار محمدی بیگم کے ساتھ نکاح کو ٹھہرایا اور کھلے طور پر اعلان کیا کہ اگر یہ پیش گوئی پوری ہو جائے تو وہ اپنے دعویٰ نبوت میں سچا ثابت ہوگا اور اگر محمدی بیگم اس کے نکاح میں نہ

آئے تو وہ جھوٹا ہے اور اس کے گلے اور پاؤں میں رسی ڈال کر اسے ذلیل کیا جائے۔“  
(اہم پیش گوئیاں اور ان کا جائزہ از حافظ محمد اقبال رنگونی)

مرزا قادیانی نے ایک پیش گوئی مسلمانوں کے لیے خاص کی جس کے کئی ایک حصے ہیں۔ مرزا قادیانی نے لکھا:

(400) ”(1) کہ مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری تین سال کی میعاد کے اندر فوت ہو۔ (2) اور پھر داماد اُس کا جو اُس کی دختر کلاں کا شوہر ہے، اڑھائی سال کے اندر فوت ہو۔ (3) اور پھر یہ کہ مرزا احمد بیگ تاروز شادی دختر کلاں فوت نہ ہو۔ (4) اور پھر یہ کہ وہ دختر بھی تانکاج اور تا ایام بیوہ ہونے اور نکاح ثانی کے فوت نہ ہو۔ (5) اور پھر یہ کہ یہ عاجز بھی ان تمام واقعات کے پورے ہونے تک فوت نہ ہو۔ (6) اور پھر یہ کہ اس عاجز سے نکاح ہو جاوے۔“

(شہادت القرآن صفحہ 81 مندرجہ روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 376 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 947 پر)

یعنی داماد مرزا احمد بیگ کی موت کے متعلق اسی حوالہ میں کہا ہے کہ اس کی میعاد 21 ستمبر 1893ء سے قریباً گیارہ مہینہ باقی رہ گئی ہے۔ (شہادت القرآن صفحہ 79 مندرجہ روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 375)

یہ میعاد اگست 1894ء کو ختم ہوتی ہے یعنی مرزا قادیانی کے الہام کے مطابق مرزا سلطان محمد داماد مرزا احمد بیگ اگست 1894ء کے بعد بقید حیات نہیں رہ سکتا تھا۔ جب وہ اس مدت کے بعد بھی زندہ رہا تو مرزا قادیانی نے آخری اقرار نامہ ان لفظوں میں شائع کیا۔

(401) ”میں بار بار کہتا ہوں کہ نفس پیشگوئی داماد احمد بیگ کی تقدیر مبرم ہے۔ اس کی انتظار کرو اور اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیشگوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آ جائے گی۔ اور اگر میں سچا ہوں تو خدا تعالیٰ ضرور اس کو بھی ایسے ہی پوری کر دے گا۔“

(انجام آتھم صفحہ 31 مندرجہ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 31 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 948 پر)

یہ عبارت بآواز بلند کہہ رہی ہے کہ مرزا سلطان محمد یعنی اس لڑکی کا خاوند جس سے



مرزا قادیانی نے الہامی نکاح کا دعویٰ کیا تھا، وہ اگر مرزا قادیانی کی زندگی میں نہ مرے تو مرزا قادیانی کے دعویٰ الہام و رسالت وغیرہ بقول ان کے جھوٹے ہوں گے۔ اس کا نام مرزا قادیانی نے تقدیر مبرم رکھا ہے یعنی اٹل فیصلہ الہی، (حوالہ انجام آتھم صفحہ 31) اسی کتاب کے ضمیمہ انجام آتھم صفحہ 54 پر اس دعویٰ کو دوسرے لفظوں میں یوں شائع کیا:

(402) ”یاد رکھو کہ اس پیشگوئی کی دوسری جز پوری نہ ہوئی تو میں ہر ایک بد سے بدتر ٹھہروں گا۔ اے احمق! یہ انسان کا افترا نہیں۔ یہ کسی خبیث مفتری کا کاروبار نہیں۔ یقیناً سمجھو کہ یہ خدا کا سچا وعدہ ہے، وہی خدا جس کی باتیں نہیں ٹلتیں۔ وہی رب ذوالجلال جس کے ارادوں کو کوئی روک نہیں سکتا۔“

(انجام آتھم [ضمیمہ] صفحہ 54 مندرجہ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 338 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 949 پر)

مزید کہا:

(403) ”جب تقدیر مبرم آ جاتی ہے تو ٹل نہیں سکتی۔“

(انوار الاسلام صفحہ 10 مندرجہ روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 80 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 950 پر)

سلطان محمد مذکورہ اگست 1894ء تک نہ مرا بلکہ وہ مرزا قادیانی کی موت کے بعد 40 سال تک زندہ رہا۔ حالانکہ اس اثنا میں وہ جنگ عظیم کے دوران فرانس بھی گیا جہاں اس کی گدی میں گولی لگ کر سر سے نکل گئی مگر زندہ رہا اور اس کی اولاد بھی بہ کثرت آج تک خدا کے فضل سے موجود ہے۔ شریعت اسلامیہ کی تعلیم کا مفہوم ہے۔ یوخل المرء باقرارہ۔ یعنی انسان اپنے اقرار پر ماخوذ ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی نے نہ صرف اقرار کیا بلکہ شائع کیا کہ مرزا سلطان محمد کا مرنا میری زندگی میں اٹل فیصلہ الہی ہے۔ یہ بھی کہا اگر وہ میری زندگی میں نہ مرے تو میں جھوٹا۔ بلکہ یہ بھی صاف اقرار کیا کہ میں اس صورت میں یعنی مرزا سلطان محمد کے نہ مرنے کی صورت میں ہر بد سے بدتر ٹھہروں گا۔ جس صورت میں مرزا قادیانی کا یہ اقرار ہے اور الہامی اعلان ہے۔ اب پبلک فیصلہ کر سکتی ہے کہ وہ اپنے دعوے میں کہاں تک سچا تھا؟

ملاحظہ فرمائیں، مرزا قادیانی کا اقرار

(404) ”اگر ہم سچے ہیں تو خدا تعالیٰ ان پیشگوئیوں کو پورا کر دے گا۔ اور اگر یہ باتیں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہیں تو ہمارا انجام نہایت بد ہوگا، اور ہرگز یہ پیشگوئیاں پوری نہیں ہوں گی۔ ربنا الفتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اور میں بالآخر دعا کرتا ہوں کہ اے خدائے قادر و علیم! اگر آتھم کا عذاب مہلک میں گرفتار ہونا اور احمد بیگ کی دختر کلاں کا آخر اس عاجز کے نکاح میں آنا یہ پیشگوئیاں تیری طرف سے ہیں تو ان کو ایسے طور سے ظاہر فرما جو خلق اللہ پر حجت ہو اور کور باطن حاسدوں کا منہ بند ہو جائے۔ اور اگر اے خداوند! یہ پیشگوئیاں تیری طرف سے نہیں ہیں تو مجھے نامرادی اور ذلت کے ساتھ ہلاک کر، اگر میں تیری نظر میں مردود اور ملعون اور دجال ہی ہوں جیسا کہ مخالفوں نے سمجھا ہے۔“

(مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 452 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 951 پر)

مرزا قادیانی نے محمدی بیگم سے اپنے نکاح کے بارے میں اپنی پیش گوئی کو نہایت جرأت کے ساتھ حضور نبی کریم ﷺ کی ایک حدیث کے ساتھ منسلک کرنے کی ناپاک جسارت کی۔

(405) ”اس پیشگوئی کی تصدیق کے لیے جناب رسول اللہ ﷺ نے بھی پہلے سے ایک پیشگوئی فرمائی ہے کہ یتزوج ویولد له یعنی وہ مسیح موعود بیوی کرے گا اور نیز وہ صاحب اولاد ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ تزوج اور اولاد کا ذکر کرنا عام طور پر مقصود نہیں کیونکہ عام طور پر ہر ایک شادی کرتا ہے اور اولاد بھی ہوتی ہے۔ اس میں کچھ خوبی نہیں بلکہ تزوج سے مراد وہ خاص تزوج ہے جو بطور نشان ہوگا اور اولاد سے مراد وہ خاص اولاد ہے جس کی نسبت اس عاجز کی پیشگوئی موجود ہے۔ گویا اس جگہ رسول اللہ ﷺ ان سیہ دل منکروں کو ان کے شبہات کا جواب دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ باتیں ضرور پوری ہوں گی۔“

(انجام آتھم صفحہ 337 مندرجہ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 337 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 952 پر)

اس تناظر میں ضروری تھا کہ ”مسیح موعود“ کی اس مطلوبہ یعنی محمدی بیگم ہی سے اولاد ہوتی، جب اس سے شادی ہی نہیں ہوئی تو اولاد کہاں سے ہوتی؟ لہذا ثابت ہو گیا کہ مرزا

قادیاںی حضور نبی کریم ﷺ کی پیش گوئی کے مصداق بہر حال نہیں تھا۔

(406) ”براہین احمدیہ میں بھی اس وقت سے سترہ برس پہلے اس پیشگوئی کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ جو اس وقت میرے پر کھولا گیا ہے اور وہ یہ الہام ہے جو براہین کے صفحہ 496 میں مذکور ہے۔ یا ادم اسکن انت و زوجک الجنة۔ یا مریم اسکن انت و زوجک الجنة۔ یا احمد اسکن انت و زوجک الجنة۔ اس جگہ تین جگہ زوج کا لفظ آیا اور تین نام اس عاجز کے رکھے گئے۔ پہلا نام آدم۔ یہ وہ ابتدائی نام ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے اس عاجز کو روحانی وجود بخشا۔ اس وقت پہلی زوجہ کا ذکر فرمایا۔ پھر دوسری زوجہ کے وقت میں مریم نام رکھا کیونکہ اس وقت مبارک اولاد دی گئی جس کو مسیح سے مشابہت ملی اور نیز اس وقت مریم کی طرح کئی ابتلا پیش آئے جیسا کہ مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت یہودیوں کی بدظنیوں کا ابتلا پیش آیا اور تیسری زوجہ جس کی انتظار ہے۔ اُس کے ساتھ احمد کا لفظ شامل کیا گیا اور یہ لفظ احمد اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت حمد اور تعریف ہوگی۔ یہ ایک چھپی ہوئی پیشگوئی ہے۔ جس کا سر اس وقت خدا تعالیٰ نے مجھ پر کھول دیا۔“

(انجام آتھم صفحہ 54 مندرجہ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 338 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 953 پر)

مرزا قادیانی نے اس پیش گوئی کے پورا ہونے کی صورت میں اپنے مخالفین کے لیے کیا منصوبہ طے کیا تھا، ملاحظہ فرمائیں:

(407) ”سو چاہیے تھا کہ ہمارے نادان مخالف انجام کے منتظر رہتے اور پہلے ہی سے اپنی بدگوہری ظاہر نہ کرتے۔ بھلا جس وقت یہ سب باتیں پوری ہو جائیں گی، تو کیا اس دن یہ احمق مخالف جیتے ہی رہیں گے اور کیا اس دن یہ تمام لڑنے والے سچائی کی تلوار سے نکلڑے نکلڑے نہیں ہو جائیں گے۔ ان بیوقوفوں کو کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں رہے گی اور نہایت صفائی سے ناک کٹ جائے گی۔ اور ذلت کے سیاہ داغ ان کے منحوس چہروں کو بندروں اور سوروں کی طرح کر دیں گے۔“

(انجام آتھم صفحہ 337 مندرجہ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 337 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 954 پر)

مزید گوہر افشانی کرتے ہوئے کہتا ہے:

(408) ”اب بہترے جاہل اس میعاد گزرنے کے بعد ہنسی کریں گے اور اپنی بد نصیبی سے صادق کا نام کاذب رکھیں گے۔ لیکن وہ دن جلد آتے جاتے ہیں کہ جب یہ لوگ شرمندہ ہوں گے اور حق ظاہر ہوگا اور سچائی کا نور چمکے گا اور خدا تعالیٰ کے غیر متبدل وعدے پورے ہو جائیں گے۔ کیا کوئی زمین پر ہے جو ان کو روک سکے؟ بد بخت انسان بد نظمی کی طرف جلدی کرتا ہے، اور حلیم طبیعت اور عمیق فکر کے ساتھ نہیں سوچتا۔

اے بد فطرتو! اپنی فطرتیں دکھلاؤ۔ لعنتیں بھیجو، ٹھٹھے کرو اور صادقوں کا نام کاذب اور دروغ گورکھو۔ لیکن عنقریب دیکھو گے کہ کیا ہوتا ہے۔“

(مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 399 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 955 پر)

مرزا قادیانی نے مزید لکھا:

(409) ”اور میرے رب نے مجھے مبارک دی اور فرمایا: ہم اس کے خاوند کو (بھی) ہلاک کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے اس کے باپ کو ہلاک کیا اور اس (لڑکی) کو تیری طرف لوٹائیں گے۔ تیرے رب کی طرف سے (یہ) سچ ہے۔ پس ٹوٹک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ اور ہم اسے صرف گنتی کی مدت کے لیے تاخیر کریں گے۔ کہہ اس عرصہ کی انتظار کرو۔ اور میں (بھی) تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور جب خدا کا وعدہ آئے گا (تب کہا جائے گا) کیا یہ وہی ہے، جس کو تم نے جھٹلایا تھا، یا تم اندھے تھے۔“

(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات طبع چہارم صفحہ 181 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 956 پر)

(410) ”فَبَشِّرْهُ لَكَ فِي النِّكَاحِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ إِنَّا زَوْجُنَا كَهَا. لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَإِنَّا رَادُّوْهَا إِلَيْكَ. .

(ترجمہ) پس تجھے نکاح کے متعلق بشارت ہو۔ یہ بات تیرے رب کی طرف سے حق ہے۔ پس ٹوٹک کرنے والوں میں سے مت ہو۔ ہم نے اس کو تیرے ساتھ ملا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتیں ٹل نہیں سکتیں۔ اور ہم اسے تیری طرف واپس لائیں گے۔“

(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات طبع چہارم صفحہ 198 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 957 پر)

مرزا قادیانی کی اس وحی میں کسی قسم کی کوئی شرط یہ نہیں لگائی بلکہ صاف صاف کہا گیا ہے کہ اے مرزا! ہم نے محمدی بیگم کو تیری زوجہ بنا دیا ہے۔  
مرزا قادیانی نے مزید کہا:

(411) ”اگر ہم سچے ہیں تو خدا تعالیٰ ان پیشگوئیوں کو پورا کر دے گا اور اگر یہ باتیں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہیں تو ہمارا انجام نہایت بد ہوگا اور ہرگز یہ پیشگوئیاں پوری نہیں ہوں گی۔ ربنا الفتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اور میں بالآخر دعا کرتا ہوں کہ اے خدائے قادر و عظیم! اگر آتھم کا عذاب مہلک میں گرفتار ہونا اور احمد بیگ کی دختر کلاں کا آخر اس عاجز کے نکاح میں آنا، یہ پیشگوئیاں تیری طرف سے ہیں تو ان کو ایسے طور پر ظاہر فرما جو خلق اللہ پر حجت ہو اور کور باطن حاسدوں کا منہ بند ہو جائے اور اگر اے خداوند! یہ پیشگوئیاں تیری طرف سے نہیں ہیں تو مجھے نامرادی اور ذلت کے ساتھ ہلاک کر۔ اگر میں تیری نظر میں مردود اور ملعون اور دجال ہی ہوں جیسا کہ مخالفوں نے سمجھا ہے اور تیری وہ رحمت میرے ساتھ نہیں جو تیرے بندہ ابراہیم کے ساتھ اور اسحاق کے ساتھ اور اسمعیل کے ساتھ اور یعقوب کے ساتھ اور موسیٰ کے ساتھ اور داؤد کے ساتھ اور مسیح ابن مریم کے ساتھ اور خیر الانبیا محمد صلعم کے ساتھ اور اس امت کے اولیائے کرام کے ساتھ تھی، تو مجھے فنا کر ڈال اور ذلتوں کے ساتھ مجھے ہلاک کر دے اور ہمیشہ کی لعنتوں کا نشانہ بنا اور تمام دشمنوں کو خوش کر اور ان کی دعائیں قبول فرما لیکن اگر تیری رحمت میرے ساتھ ہے اور تو ہی ہے جس نے مجھ کو مخاطب کر کے کہا۔ انت وجہ فی حضرتی اخترتک لنفسی اور تو ہی ہے جس نے مجھ کو مخاطب کر کے کہا۔ یحمدک اللہ من عرشہ اور تو ہی ہے جس نے مجھ کو مخاطب کر کے کہا یا عیسیٰ الذی لا یضاع وقته اور تو ہی ہے جس نے مجھ کو مخاطب کر کے کہا الیس اللہ بکاف عبدہ اور تو ہی ہے جس نے مجھ کو مخاطب کر کے کہا۔ قل انی امرت و انا اول المؤمنین اور تو ہی ہے جو غالباً مجھے ہر روز کہتا رہتا ہے۔ انت معی وانا معک تو میری مدد کر اور میری حمایت کے لیے کھڑا ہو جا۔ وانی مغلوب فانتصر۔“

(انوار الاسلام صفحہ 28، 29 مندرجہ روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 124، 125 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 958، 959 پر)

مرزا قادیانی ایک عدالت میں بیان دیتے ہوئے کہتا ہے:

(412) ”احمد بیگ کی دختر کی نسبت جو پیشگوئی ہے وہ اشتہار میں درج ہے اور ایک مشہور امر ہے۔ وہ مرزا امام الدین کی ہمیشہ زادی ہے جو خط بنام مرزا احمد بیگ کلمہ فضل رحمانی میں ہے، وہ میرا ہے، اور سچ ہے۔ وہ عورت میرے ساتھ بیاہی نہیں گئی۔ مگر میرے ساتھ اس کا بیاہ ضرور ہوگا، جیسا کہ پیشگوئی میں درج ہے۔ وہ سلطان محمد سے بیاہی گئی، جیسا کہ پیشگوئی میں تھا۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اسی عدالت میں جہاں ان باتوں پر جو میری طرف سے نہیں ہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہیں ہنسی کی گئی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ عجیب اثر پڑے گا اور سب کے ندامت سے سر نیچے ہوں گے۔ پیشگوئی کے الفاظ سے صاف معلوم ہوتا ہے اور یہی پیشگوئی تھی کہ وہ دوسرے کے ساتھ بیاہی جائے گی۔ اس لڑکی کے باپ کے مرنے اور خاوند کے مرنے کی پیشگوئی شرطی تھی اور شرط توبہ اور رجوع الی اللہ کی تھی۔ لڑکی کے باپ نے توبہ نہ کی۔ اس لیے وہ بیاہ کے بعد چند مہینوں کے اندر مر گیا اور پیشگوئی کی دوسری جز پوری ہو گئی۔ اس کا خوف اس کے خاندان پر پڑا اور خصوصاً شوہر پر پڑا، جو پیشگوئی کا ایک جز تھا۔ انہوں نے توبہ کی۔ چنانچہ اس کے رشتہ داروں اور عزیزوں کے خط بھی آئے۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے اس کو مہلت دی۔ عورت اب تک زندہ ہے۔ میرے نکاح میں وہ عورت ضرور آئے گی۔ امید کیسی یقین کامل ہے۔ یہ خدا کی باتیں ہیں۔ ٹلتی نہیں، ہو کر رہیں گی..... مندرجہ بالا بیان دے چکنے کے بعد جب آپ کمرۂ عدالت سے باہر تشریف لائے تو فرمایا۔ ”معلوم ہوتا ہے کہ اس پیشگوئی کے پورا ہونے کا زمانہ آ گیا۔ اگر ہم ہزار روپیہ بھی خرچ کرتے اور آرزو رکھتے کہ یہ عدالت کے کاغذات میں درج ہو جاوے اور اس طرح پر تین ڈپٹی گواہ ہو جائیں تو کبھی بھی نہ ہوتا۔ یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے اور اس کی باتیں عجیب ہوتی ہیں۔ اب عدالت کے کاغذات سے کون اس کو مٹا سکے گا۔ جب یہ پیشگوئی پوری ہوگی۔ کیا ان ڈپٹیوں پر اس کا اثر نہ پڑے گا۔ ضرور ہی پڑے گا۔ جیسے لیکھرام کی پیشگوئی کی بہت شہرت ہو گئی تھی۔ اسی طرح اس کی شہرت ہو گئی ہے اور یہ بہت ہی اچھا ہوا کہ عدالت کے کاغذات میں درج ہو گئی۔“

(اخبار الحکم قادیان 10 اگست 1901ء صفحہ 14 کالم 3، کتاب منکورا الہی صفحہ 244 تا 246 از

محمد منکورا الہی قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 960 تا 963 پر)

مرزا قادیانی نے فروری 1888ء میں محمدی بیگم سے اپنے نکاح کی پیش گوئی کی تھی جبکہ احمد بیگ نے اپنی بیٹی محمدی بیگم کا نکاح سلطان محمد سے 7 اپریل 1892ء کو کر دیا۔ (آئینہ کمالات اسلام صفحہ 280 مندرجہ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 280 از مرزا قادیانی) اس حساب سے 6 اکتوبر 1894ء کا دن مرزا سلطان محمد کی زندگی کا آخری روز ہوتا مگر وہ زندہ رہا اور 1948ء میں فوت ہوا۔ حالانکہ اس عرصہ میں وہ فرانس کی جنگ عظیم میں شریک ہوا جس میں اس کے سر میں گولی بھی لگی مگر وہ زندہ رہا۔ اس طرح مرزا قادیانی اپنی اس پیش گوئی میں دوسری پیش گوئیوں کی طرح جھوٹا نکلا۔ محمدی بیگم سے نکاح کی پیش گوئی جسے مرزا قادیانی نے اپنی صداقت کا نشان ٹھہرایا تھا، مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کا واضح اور کھلا نشان ثابت ہوا۔ اس پیش گوئی کے معاملے میں ایک اور حربہ جو مرزا قادیانی نے استعمال کیا، وہ یہ تھا کہ وہ ایک ایسے جھگڑے کو جس کا تعلق ذاتی خواہشات سے تھا، ایسے رنگ میں پیش کیا جیسے یہ ایک بڑا اہم دینی معاملہ ہے اور اصل مقابلہ مرزا قادیانی اور احمد بیگ میں نہیں بلکہ اسلام اور عیسائیت کے درمیان ہے۔ مرزا قادیانی اور اس کے پیروکار اس پیش گوئی کے پورا نہ ہونے پر بے حد ذلیل و رسوا ہوئے، اور پریشانی کے عالم میں اس کی مختلف تادیلات کرتے رہے۔ اس پیش گوئی کے بارے میں مرزا قادیانی کا ایک بھی دعویٰ سچا ثابت نہ ہوا۔ مرزا سلطان محمد جس کو پیش گوئی کے مطابق اڑھائی سال کے اندر اندر مرنا تھا، وہ نکاح کے بعد 56 سال تک زندہ رہا اور 1948ء میں فوت ہوا اور محمدی بیگم جو مرزا قادیانی کے کذب کا کھلا نشان تھی، 19 نومبر 1966ء کو بحالت اسلام لاہور میں فوت ہوئیں۔ ان کی مرقد لاہور کے معروف اور تاریخی قبرستان میانی صاحب میں ہے۔ مرزا قادیانی کو خوش گمانی تھی کہ محمدی بیگم بیوہ ہو کر ان کے نکاح میں آجائے گی مگر اس کی یہ حسرت بھی پوری نہ ہو سکی۔ مرزا قادیانی 26 مئی 1908ء کو ہیضہ کے مرض سے آنجمانی ہوا جبکہ محمدی بیگم مرزا قادیانی کے مرنے کے چالیس سال بعد تک سلطان محمد کے نکاح میں رہی۔ اس پیش گوئی کے بارے میں مرزا قادیانی نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی مجھے یہ خبر دی کہ اگر محمدی بیگم کا نکاح میرے ساتھ نہ ہوا تو اس گھر میں تفرقہ اور مصیبتیں آئیں گی جبکہ محمدی بیگم کا نکاح سلطان محمد سے ہوا۔ اب دیکھتے ہیں کہ تفرقہ اور مصیبتیں کس گھر میں آئیں؟

1- مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا فضل احمد کا گھر برباد ہوا۔ یہاں تفرقہ پڑا۔ اس نے

اپنے باپ کے کہنے پر مجبوراً اپنی بیوی کو طلاق دی۔

2- مرزا قادیانی نے اپنے بیٹے سلطان احمد کو محروم الارث کیا اور اسے عاق کیا۔

3- مرزا قادیانی نے فضل احمد اور سلطان احمد کی والدہ کو طلاق دی حالانکہ وہ پہلے سے

ہی بے گھر بیٹھی ہوئی تھی اور جس کے کوئی حقوق پورے نہ ہو رہے تھے۔ یہ وہی

خاتون ہے جسے مرزا بشیر احمد ایم اے ”بچے دی ماں“ کہہ کر طر کے تیر چلاتا ہے

اور اس طرح اپنی سوتیلی والدہ کی توہین کرتا ہے۔

4- فضل احمد کی وقاداری مرزا قادیانی کی نگاہ میں مشکوک رہی۔ انھیں ہمیشہ یہ شک رہا

کہ فضل احمد کا تعلق مرزا احمد بیگ کے خاندان سے قائم ہے۔ اس ناراضی کی بنا پر

مرزا قادیانی نے فضل احمد کو مرنے کے بعد بھی معاف نہ کیا بلکہ اس کی نماز جنازہ

میں بھی شریک نہ ہوا۔

مذکورہ بالا تفصیلات سے پتہ چلتا ہے کہ مرزا قادیانی نے ایک کم سن بچی (محمدی

بیگم) سے بیاہ رچانے کے لیے خدا پر افترا کیا اور گھر میں بیٹھے بیٹھے پیش گوئیاں بنا تارہا، اور

اسے پورا کرنے کے لیے طرح طرح کے مکر اور فریب کے جال بنا تارہا۔ یہاں تک کہ وہ اپنے

ہی جال میں پھنستا چلا گیا۔ اگر یہ پیش گوئیاں خدا کی طرف سے ہوتیں تو ضرور اس کا اثر ہوتا

اور محمدی بیگم آخر کار اس کے نکاح میں آتی۔ اب جو لوگ گھر بیٹھے اس قسم کی پیش گوئیاں کرتے

جائیں، دوسروں کو ان کے بارے میں کیا سمجھنا چاہیے۔ اس باب میں ہم کچھ نہیں کہتے، مرزا

قادیانی کی ہی ایک تحریر پیش کرتے ہیں تاکہ ہر قادیانی اپنے نبی کو اس کی اپنی تحریر میں باسانی

دیکھ سکے۔ مرزا قادیانی کا فیصلہ دیکھیے:

(413) ”ہم ایسے مرشد کو اور ساتھ ہی ایسے مرید کو کتوں سے بدتر اور نہایت ناپاک زندگی

والا خیال کرتے ہیں کہ جو اپنے گھر سے پیش گوئیاں بنا کر پھر اپنے ہاتھ سے، اپنے مکر سے،

اپنے فریب سے ان کے پوری ہونے کے لیے کوشش کرے اور کراوے۔“

(سراج منیر صفحہ 25 مندرجہ روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 27 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 964 پر)

اب اس تحریر کی روشنی میں اگر کوئی شخص مرزا قادیانی اور اس کے مریدوں کو ایسا ہی



سمجھے تو اس پر قادیانیوں کو ناراض نہ ہونا چاہیے۔ واقعات خود اس کے اپنے تیار کردہ ہیں اور فیصلہ بھی اس کا اپنا ہے۔

قادیانی کہتے ہیں کہ محمدی بیگم کے خاوند سلطان محمد نے توبہ کر لی تھی۔ ہم انھیں مرزا قادیانی ہی کے الفاظ میں دکھاتے ہیں کہ توبہ کسے کہتے ہیں؟ مرزا قادیانی کا کہنا ہے: ”مثنیٰ اگر کافر ہے تو سچا مسلمان ہو جائے اور اگر ایک جرم کا مرتکب ہے تو سچ سچ اس جرم سے دست بردار ہو جائے۔“ (اشتہار 6 ستمبر 1894ء، مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 401 از مرزا قادیانی)

اس کی رو سے سلطان محمد کی توبہ یہ تھی کہ نکاح کرنے کے بعد اور اپنے خسر کی موت سے متاثر ہو کر محمدی بیگم کو طلاق دے دیتا لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ نکاح سے پہلے نہ ڈرنا تو مرزا قادیانی کی تحریر مذکورہ بالا سے بھی ثابت ہے اور نکاح سے بعد نہ ڈرنا محتاج دلیل نہیں۔ یوم نکاح 7 اپریل 1892ء سے 1948ء تک تقریباً 60 سال وہ اس عورت پر قابض و متصرف رہا اور خدانے اسے اسی محمدی بیگم کے بطن سے مرزا قادیانی کی تحریر کے خلاف ایک درجن کے قریب اولاد بھی بخشی۔ حالانکہ مرزا قادیانی نے لکھا تھا کہ اس سے دوسرے شخص کا نکاح کرنا اس لڑکی کے لیے بابرکت نہ ہوگا۔ پس پیش گوئی کا یہ جزو بھی جھوٹا نکلا۔

محمدی بیگم کا خاوند ایک مرزا الحال رئیس تھا۔ معقول پنشن لیتا تھا۔ اسے مرزا قادیانی کے خداوندان نعمت سے، باوجود ان کے رقیب ہونے کے، مرے بھی عطا ہوئے۔ بعض فرزند بھی معقول روزگار پر تھے۔ غرض یہ نکاح اس کے لیے بہت بابرکت ہوا ہے اور مرزا سلطان محمد، مرزا قادیانی کے الہام ”بستر عیش“ کو غلط ثابت کر رہا تھا۔ لیکن قادیانی نہایت بھولے بن کر یاد دنیا بھر کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اور ان کو بے عقل جان کر یہی ہانکے جا رہے ہیں کہ مرزا سلطان محمد تائب ہو گیا۔ اس لیے وہ بچ گیا۔ جناب! اس کا گناہ کیا تھا اور اس کی توبہ کیا چاہیے تھی؟ کیا اس نے اس گناہ سے توبہ کی؟ اس کا قصور یہی تھا کہ وہ مرزا قادیانی کے ”بستر عیش“ کی خواہش و تمنا کے پورا ہونے میں حائل تھا۔ اگر مرزا قادیانی کی غایت تمنا نکاح نہ تھی تو الہام ”بستر عیش“ کے کیا معنی اور اس کا شان نزول اور محل وقوع بتایا جائے کہ کیا ہے؟

مرزا قادیانی کو 1888ء سے محمدی بیگم کی چاہت پیدا ہوئی اور اس نے اس قدر تکلیف و محنت، رنج و غم اور صدے اٹھائے جن کا سلسلہ 19 برس تک چلتا رہا۔ انھک کوششیں

اور لاتعداد الہامات، پیشگوئیاں، اشتہارات، خطوط، قاصد، ناصح، دھمکیاں، عنایات، ترغیبات، تحریصات، نوازشات، روانہ کرنے میں پیہم سعی کی اور چونکہ دل میں تسلی تھی اور اوائل میں یہ وہم و خیال بھی کبھی نہ گزرا تھا کہ یوں ناکامی ہوگی۔ اس لیے وہ قوت مردی کے لیے بیش قیمت مرکبات بھی نوش کرتا رہا جس کے نتیجہ میں اس کی طاقت پورے پچاس مردوں سے بھی بڑھ گئی۔ مگر افسوس! جس کے ارمان میں مرا تھا، وہ محبوب ہاتھ نہ آیا اور قسمت میں بات تک کرنا بھی نصیب نہ ہوا۔ دل کی امنگ کہ ظالم موت نے آدبوچا اور آنکھیں دیدار کو ترستی ہوئی کھلی کی کھلی رہ گئیں اور وہ راہی ملک عدم ہوا۔

آنکھیں کھلی ہوئی ہیں پس مرگ اس لیے

جانے کوئی کہ طالب دیدار مر گیا

مرزا قادیانی کے دیرینہ ساتھی اور لاہوری قادیانی جماعت کا امیر مولوی محمد علی

لاہوری اس پیشگوئی کی نسبت جو رائے رکھتا ہے، وہ قابل دید و شنید ہے۔ وہ لکھتا ہے:

”یہ سچ ہے کہ مرزا صاحب نے کہا تھا کہ نکاح ہوگا اور یہ بھی سچ ہے کہ نہیں ہوا۔“ □

(اخبار پیغام صلح لاہور 21 جنوری 1912 صفحہ 5 کالم 3)

کوئی بھی بات مسیحا تیری پوری نہ ہوئی

نامرادی میں ہوا تیرا آنا جانا



ثبوت حاضر ہیں!

قادیانیوں سے

30

انعامی سوالات



جھوٹے مدعی نبوت آنجہانی مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ اس کی تمام وحیوں، الہامات، پیش گوئیوں، خوابوں، بشارتوں، کشفوں اور تحریروں کو تائید الہی حاصل ہے۔ وہ ان کی صداقت پر مسلسل اصرار کرتا اور مخالفین کو متواتر علی الاعلان چیلنج کرتا رہا کہ اگر وہ اس کی کسی ایک بات کو بھی غلط ثابت کر دیں تو انہیں بھاری انعام دیا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم مرزا قادیانی کی عبارتوں کو حق کے ترازو میں تولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مرزا قادیانی کی تمام وحیاں، الہامات، پیش گوئیاں، خواب اور تصنیفات سفید اور کالے جھوٹوں کا پلندہ ہیں۔ میں نے مختصر وقت میں مرزا قادیانی کی تحریروں سے صرف 30 انعامی سوالات تیار کیے ہیں۔ ہر سوال کے صحیح جواب پر مبلغ ایک ہزار روپے نقد انعام دیا جائے گا۔ قادیانی، رہتی دنیا تک ان سوالات کے جوابات نہ دے سکیں گے۔ (ان شاء اللہ)!

پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر

مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر

اللہ رب العزت نے توفیق اور ہمت دی تو اس طرز پر قادیانیوں سے 500 سوالات پر مشتمل ایک منفرد کتاب تیار کرنے کا پروگرام ہے جس کے مطالعہ سے تحفظ ختم نبوت کے محاذ پر کام کرنے والے کارکنان، کسی بھی قادیانی مبلغ سے مناظرہ میں اس کی بولتی بند کر دیں گے۔ (ان شاء اللہ)! قارئین کرام سے درخواست ہے کہ اس سلسلہ میں احقر کے لیے خصوصی دعا کریں! شکر یہ

(1) پہلا سوال

جھوٹا کون؟؟؟

انبیائے کرام کو سب سے پہلے اپنی وحی پر ایمان ہوتا ہے۔ وہ اس بات کے پابند

ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی وحی بلا کم و کاست لوگوں تک پہنچا دیں خواہ انہیں اس ”جرم“ کی پاداش میں بھڑکتی ہوئی آگ یا تختہ دار سے ہمکنار ہونا پڑے۔ مرزا قادیانی کا دعویٰ تھا کہ میں مامور اور مرسل من اللہ ہوں۔ مرزا قادیانی کا کہنا ہے:

(414) ”ہم خدا کے مرسلین اور مامورین کبھی بزول نہیں ہوا کرتے بلکہ سچے مومن بھی بزول نہیں ہوتے۔ بزولی ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔“

(ملفوظات جلد چہارم صفحہ 286 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 965 پر)

مرزا قادیانی کا یہ بیان سو فیصد درست ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے گئے انبیائے کرام و مرسلین کو ہمہ وقت خدا کی نصرت و تائید ملتی رہتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا دنیا کی کسی طاقت سے کبھی مرعوب نہیں ہوتے اور ہمیشہ باطل قوتوں کے سامنے کلمہ حق بلند کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جھوٹے مدعی نبوت مرزا قادیانی کی زندگی کے حالات و واقعات پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک بے حد موقع پرست ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ڈرپوک، بزول اور پست ہمت انسان تھا۔ کلمہ حق کہتا تو بڑی دور کی بات تھی، وہ تو اپنی کہی بات پر بھی قائم نہ رہتا تھا۔ استقامت سے تو گویا مرزا قادیانی کو عداوت تھی۔

مرزا قادیانی کی مجلس میں اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑایا جاتا۔ نبی کریم ﷺ کی شان اقدس میں نازیبا کلمات کہے جاتے، دیگر مقدس شخصیات کے خلاف ہرزہ سرائی کی جاتی، بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہا السلام کے بارے میں بازاری زبان استعمال کی جاتی۔ علمائے حق کی غیبت اور عیب جوئی کا ناپاک مشغلہ جاری رہتا۔ یہ ساری باتیں ”ملفوظات“ کے نام سے جو 5 جلدوں پر مشتمل ہے، موجود ہیں۔

مرزا قادیانی کی محفل میں انگریز کی وفاداری کا راگ بھی الاپا جاتا۔ مگر ایک دفعہ 1898ء کے زمانہ میں نہایت رازداری کی خاص نشست میں مرزا قادیانی نے اپنے خاص چیلوں سے گفتگو کرتے ہوئے بڑھانگی کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ سلطنت برطانیہ سات آٹھ سال تک کمزور ہو جائے گی۔ اس کے کل پرزے بگڑ جائیں گے اور ضعف و اختلال رونما ہوگا۔ قادیانی الہام کے اصل الفاظ یہ تھے:

(415) "سلطنتِ برطانیہ تاہشت سال۔ بعد ازاں ایامِ ضعف و اختلال۔"  
(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات طبع چہارم صفحہ 650 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 966 پر)

مرزا قادیانی نے چوروں کی طرح اپنے اس الہام کو ہر ممکن طریقے سے چھپا کر رکھا اور دوسرے الہاموں کی طرح اسے شائع کرنے کی جرأت نہ کر سکا۔ اتفاق سے ایک دفعہ اس کا مرید خاص حافظ حامد علی کسی مسئلہ میں مولوی محمد حسین بٹالوی سے مناظرانہ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا کہ دوران گفتگو اس الہام کا بھی تذکرہ کر بیٹھا، حالانکہ یہ ایک سر بستہ راز تھا اور مرزا قادیانی نہیں چاہتا تھا کہ اس الہام کی بھنک غیروں کے کان میں پڑے۔ بعد ازاں مولوی محمد حسین بٹالوی نے اس الہامی قادیانی پیش گوئی کا قصہ اپنی ایک مجلس میں چھیڑ دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس الہام کا چرچا ہر جگہ ہونے لگا۔ مرزا قادیانی کو اس بات کا علم ہوا تو بہت پریشان ہوا۔ مارے خوف کے بدن پر لرزہ طاری ہونے لگا۔ آنکھوں میں اندھیرا نظر آنے لگا اور فرط غم میں حواس کھونے لگا۔ چونکہ یہ الہام کسی مطبوعہ تحریر میں نہ آیا تھا، اس لیے مرزا قادیانی نے فیصلہ کیا کہ میں اس الہام سے صاف مکر جاؤں گا، خواہ مجھے ہر طرح کا حلف ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ اتنے میں مرزا قادیانی کے کسی مرید نے اسے بتایا کہ مولوی محمد حسین بٹالوی نے اپنے اخبار "اشاعت السنہ" میں اس الہام کو شائع کر دیا ہے۔ بس پھر کیا تھا مرزا قادیانی کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ عالم اضطراب میں تلالی و معانی کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگا کہ کہیں انگریز بہادر ناراض ہو کر اس "خود کاشتہ پودا" کی جڑیں نہ اکھاڑ دے۔ لہذا فوری طور پر ایک رسالہ "کشف الغطاء" لکھ مارا جس کے ٹائٹل پیج پر موٹے قلم سے لکھا:

## باادب گذارش!

(416) "اے قادر خدا!

اس گورنمنٹ عالیہ انگلشیہ کو ہماری طرف سے نیک جزا دے اور اس سے نیکی کر جیسا کہ اس نے ہم سے نیکی کی۔ آمین!

کشف الغطاء یعنی ایک اسلامی فرقہ کے پیشوا مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف سے  
بمخبر گورنمنٹ عالیہ اس فرقہ کے حالات اور خیالات کے بارے میں اطلاع اور

نیز اپنے خاندان کا کچھ ذکر اور اپنے مشن کے اصولوں اور ہدایتوں اور تعلیموں کا بیان اور نیز ان لوگوں کی خلاف واقعہ باتوں کا رد جو اس فرقہ کی نسبت غلط خیالات پھیلاتا چاہتے ہیں اور یہ مؤلف تاج عزت جناب ملکہ معظزہ قیسرہ ہندو ام اقبالہا کا واسطہ ڈال کر بخدمت گورنمنٹ عالیہ انگلشیہ کے اعلیٰ افسروں اور معزز حکام کے باادب گزارش کرتا ہے کہ براہِ غریب پروری و کرم گستری اس رسالہ کو اول سے آخر تک پڑھا جائے یا سن لیا جائے۔“

(کشف الغطاء ٹائٹل پیج مندرجہ روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 177 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 967 پر)

اس کے بعد نہایت عاجزی اور انکساری بلکہ اپنے پسندیدہ الفاظ ”فروتنی اور تذلل“ سے اپنے الہام کا انکار کرتے ہوئے لکھا:

”ضمیمہ رسالہ ہذا

(417)

### قابل توجہ گورنمنٹ

مجھے اس رسالہ کے لکھنے کے بعد محمد حسین بٹالوی صاحب ”اشاعت السنہ“ کا انگریزی میں ایک رسالہ ملا جس کو اس نے مطبع و کٹوریہ پریس لاہور میں چھاپ کر بمابہ 14 اکتوبر 1898ء میں شائع کیا ہے۔ اس رسالہ کے دیکھنے سے مجھے بہت افسوس ہوا کیونکہ اس نے اس میں میری نسبت اور نیز اپنے اعتقاد مہدی کے آنے کی نسبت نہایت قابل شرم جھوٹ سے کام لیا ہے اور سراسر افترا سے کوشش کی ہے کہ مجھے گورنمنٹ عالیہ کی نظر میں باغی ٹھیرا دے۔ لیکن اس صحیح اور سچے مقولہ کے زور سے کہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں جو آخر ظاہر نہ ہو۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ ہماری زیرک اور روشن دماغ گورنمنٹ جلد معلوم کر لے گی کہ اصل حقیقت کیا ہے۔

اول امر جو محمد حسین نے خلاف واقعہ اپنے اس رسالہ میں میری نسبت گورنمنٹ میں پیش کیا ہے، یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ عالیہ کو اطلاع دیتا ہے کہ یہ شخص گورنمنٹ عالیہ کے لیے خطرناک ہے یعنی بغاوت کے خیالات دل میں رکھتا ہے۔ لیکن میں زور سے کہتا ہوں کہ اگر میں ایسا ہی ہوں تو اس نمک حرامی اور بغاوت کی زندگی سے اپنے لیے موت کو ترجیح دیتا ہوں۔



میں ادب سے توجہ دلانا ہوں کہ گورنمنٹ عالیہ میری نسبت اور میری تعلیم کی نسبت جہاں تک ممکن ہو کامل تحقیقات کرے اور میری جماعت کے ان معزز عہدہ داروں اور ویسی افسروں اور رئیسوں اور دوسرے معزز اور تعلیم یافتہ لوگوں سے جن کی کئی سو تک تعداد ہے حلقاً دریافت کرے کہ میں نے اس محسن گورنمنٹ کی نسبت کیا کیا ہدایتیں ان کو دی ہیں اور کس کس تاکید سے اس گورنمنٹ کی اطاعت کے لیے وصیتیں کی ہیں اور نیز گورنمنٹ اس مولوی یعنی محمد حسین کی اس شہادت کو غور سے دیکھے جو اس نے اپنی ”اشاعت السنہ“ میں جس کا ذکر اس رسالہ میں ہو چکا ہے، میری کتاب ”براہین احمدیہ“ کے ریویو کی تقریب پر میرے خیالات اور میرے والد صاحب مرزا غلام مرتضیٰ کے خیالات کی نسبت جو گورنمنٹ انگریزی کے متعلق ہیں، اپنے ہاتھ سے لکھی ہے۔ اور نیز میری ان تحریروں کو جو برابر انیس سال سے گورنمنٹ عالیہ کی تائید میں شائع ہو رہی ہیں غور سے ملاحظہ فرماوے اور ہر ایک پہلو سے میری نسبت تحقیقات کرے۔ پھر اگر میرے حالات گورنمنٹ کی نظر میں مشتبہ ہوں تو میں بدل چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ سخت سے سخت سزا مجھ کو دے دے لیکن اگر میرے اصل حالات کے برخلاف یہ تمام رپورٹیں گورنمنٹ میں محمد حسین مذکور نے پہنچائی ہیں تو میں ایک وفادار اور خیر خواہ جاں نثار رعیت ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ عالیہ میں ہمترا ادب دادخواہ ہوں کہ محمد حسین سے مطالبہ ہو کہ کیوں اس نے ان صحیح واقعات کے برخلاف گورنمنٹ کو خبر دی، جن کو وہ اپنے ریویو براہین احمدیہ میں تسلیم کر چکا ہے۔ یہاں تک کہ اس نے بارہ سال تک برابر اس پہلی رائے کے برخلاف کوئی رائے ظاہر نہ کی اور اب دشمنی کے ایام میں مجھے باغی قرار دیتا ہے حالانکہ میں نے اس محسن گورنمنٹ کی خیر خواہی میں انیس سال تک اپنے قلم سے وہ کام لیا ہے اور ایسے طور سے ممالک دور دراز تک گورنمنٹ کی انصاف نشی کی تعریفوں کو پہنچایا ہے کہ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ اس کارروائی کی نظیر دوسروں کے کارناموں میں ہرگز نہیں ملے گی۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں جن سے میں اپنی عاجزانہ عرض گورنمنٹ پر ظاہر کروں کہ مجھے اس شخص کے ان خلاف واقعہ کلمات سے کس قدر صدمہ پہنچا ہے اور کیسے درد رسان زخم لگے ہیں۔ افسوس کہ اس شخص نے عمداً اور دانستہ گورنمنٹ کی خدمت میں میری نسبت نہایت ظلم سے بھرا ہوا جھوٹ بولا ہے۔ اور میری تمام خدمات کو برباد کرنا چاہا ہے۔ اس دعوے کی میرے پاس پختہ وجوہات اور کامل شہادتیں اور گواہ موجود ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ بوجہ اس کے کہ میں ایک وفادار خاندان میں سے ہوں،

جنہوں نے اپنے مال سے اور جان سے گورنمنٹ پر اپنی اطاعت ثابت کی ہے۔ میری اس دردناک فریاد کو یہ محسن گورنمنٹ غور سے توجہ فرمائے گی اور جھوٹ بولنے والے کو تنبیہ کرے گی۔ دوسرا امر جو اسی رسالہ میں محمد حسین نے لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ گویا میں نے کوئی الہام اس مضمون کا شائع کیا ہے کہ گورنمنٹ عالیہ کی سلطنت آٹھ سال کے عرصہ میں تباہ ہو جائے گی۔ میں اس بہتان کا جواب بجز اس کے کیا لکھوں کہ خدا جھوٹے کو تباہ کرے۔ میں نے ایسا الہام ہرگز شائع نہیں کیا۔ میری تمام کتابیں گورنمنٹ کے سامنے موجود ہیں۔ میں بادل گذارش کرتا ہوں کہ گورنمنٹ اس شخص سے مطالبہ کرے کہ کس کتاب یا خط یا اشتہار میں میں نے ایسا الہام شائع کیا ہے؟ اور میں امید رکھتا ہوں کہ گورنمنٹ عالیہ اس کے اس فریب سے خبردار رہے گی کہ یہ شخص اپنے اس جھوٹے بیان کی تائید کے لیے یہ تدبیر نہ کرے کہ اپنی جماعت اور اپنے گروہ میں سے ہی جو مجھ سے اختلاف مذہب کی وجہ سے دلی عناد رکھتے ہیں جھوٹے بیان بطور شہادت گورنمنٹ تک پہنچا دے۔ اس شخص اور اس کے ہم خیال لوگوں کی میرے ساتھ کچھ آمد و رفت اور ملاقات نہیں تائیں نے ان کو کچھ زبانی کہا ہو۔ میں جو کچھ کہتا چاہتا ہوں، اپنی کتابوں میں اور اشتہاروں میں شائع کرتا ہوں اور میرے خیالات اور میرے الہامات معلوم کرنے کے لیے میری کتابیں اور اشتہارات متکفل ہیں اور میری جماعت کے معززین گواہ ہیں۔ غرض میں بادل التماس کرتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ عالیہ اس خلاف واقعہ مخبری کا اس شخص سے مطالبہ کرے۔ کپتان ڈگلس صاحب سابق ڈپٹی کمشنر ضلع گورداسپور مقدمہ ڈاکٹر کلارک میں جو میرے پر دائر ہوا تھا لکھ چکے ہیں کہ یہ شخص مجھ سے عداوت رکھتا ہے اسی لیے جھوٹ بولنے سے کچھ بھی پرہیز نہیں کرتا۔“

(کشف الغطاء صفحہ 38 تا 40 مندرجہ روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 214 تا 216 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 968 تا 970 پر)

۔ ہائے اُس زود پشیمان کا پشیمان ہونا

محترم قارئین! آپ نے ملاحظہ کیا کہ مرزا قادیانی نے کس طرح حقیقت حال پر پردہ ڈال کر سچ کو جھوٹ بنانے کی کوشش کی۔ کیا کوئی نیک آدمی اس طرح حق پوشی کا ارتکاب کر سکتا ہے؟ چہ جائیکہ ایسا شخص جو مجدد وقت اور مسیح موعود کا دعویٰ دار ہو۔ مذکورہ بالا عبارت

میں مرزا قادیانی نے اپنے ”ہشت سالہ الہام“ سے نہ صرف انکار کیا بلکہ اس کے تاقل کو دروغ گو قرار دیا۔ حالانکہ مرزا قادیانی نے اپنی خاص مجلس میں اس الہام کا ذکر کیا تھا۔ مولوی محمد حسین بٹالوی کے پاس کوئی تحریری شہادت موجود نہ تھی، اس لیے وہ بھی خاموش ہو گئے۔ شیطان کے کان کاٹنے والے مرزا قادیانی نے انگریز بہادر کے سامنے اپنے کان پکڑے اور یقین دلایا کہ وہ ایسا کہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ دشمنوں نے مجھ پر انترا پردازی کی ہے۔ اس پر حکومت نے مرزا قادیانی کے بیان پر یقین کر لیا اور عام لوگوں کو محمد حسین بٹالوی کی غلط بیانی کا یقین ہو گیا۔

مرزا قادیانی کے اس تاریخی جھوٹ پر عرصہ 25 سال تک پردہ پڑا رہا۔ مگر صاحبان علم و دانش کا کہنا ہے کہ ”کمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے کہے ہوئے الفاظ واپس نہیں ہوتے۔“ محفل میں کہی ہوئی بات کو چھپانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مذکورہ الہام کے سلسلہ میں بھی ایسا ہی ہوا کہ مرزا قادیانی نے اس سے انکار کر دیا اور دعا کی کہ جھوٹے کو خدا تباہ کرے۔ مگر مرزا قادیانی کی موت کے بعد اس کے منجھلے بیٹے مرزا بشیر احمد ایم اے نے تسلیم کیا کہ ”حضرت صاحب“ کو واقعی یہ الہام ہوا تھا۔ مرزا بشیر احمد لکھتا ہے:

(418) ”بیان کیا ہم سے حاجی عبدالجید صاحب نے کہ ایک دفعہ جب ”ازالہ اوہام“ شائع ہوئی ہے، حضرت صاحب لدھیانہ میں باہر چہل قدمی کے لیے تشریف لے گئے۔ میں اور حافظ حامد علی ساتھ تھے۔ راستہ میں حافظ حامد علی نے مجھ سے کہا کہ آج رات یا کہا ان دنوں میں حضرت صاحب کو الہام ہوا ہے کہ ”سلطنت برطانیہ تاہشت سال۔ بعد ازاں ایام ضعف و اختلال۔“ خاکسار عرض کرتا ہے کہ اس مجلس میں جس میں حاجی عبدالجید صاحب نے یہ روایت بیان کی میاں عبداللہ صاحب سنوری نے بیان کیا کہ میرے خیال میں یہ الہام اس زمانہ سے بھی پرانا ہے۔ حضرت صاحب نے خود مجھے اور حافظ حامد علی کو یہ الہام سنایا تھا اور مجھے الہام اس طرح پر یاد ہے۔ ”سلطنت برطانیہ تاہفت سال۔ بعد ازاں باشد خلاف و اختلال۔“ میاں عبداللہ صاحب بیان کرتے تھے کہ دوسرا مصرع تو مجھے پتھر کی لکیر کی طرح یاد ہے کہ یہی تھا اور ہفت کا لفظ بھی یاد ہے۔ جب یہ الہام ہمیں حضرت صاحب نے

سنایا تو اس وقت مولوی محمد حسین پٹالوی مخالف نہیں تھا۔ شیخ حامد علی نے اسے بھی جاسنایا۔ پھر جب وہ مخالف ہوا تو اس نے حضرت صاحب کے خلاف گورنمنٹ کو بدظن کرنے کے لیے اپنے رسالہ میں شائع کیا کہ مرزا صاحب نے یہ الہام شائع کیا ہے۔

خاکسار عرض کرتا ہے کہ میاں عبداللہ صاحب اور حاجی عبدالجید صاحب کی روایت میں جو اختلاف ہے، وہ اگر کسی صاحب کے ضعف حافظہ پر مبنی نہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ الہام حضور کو دو وقتوں میں دو مختلف قراتوں پر ہوا ہو۔ واللہ اعلم! نیز خاکسار عرض کرتا ہے کہ اس الہام کے مختلف معنی کیے گئے ہیں۔ بعضوں نے تاریخ الہام سے میعاد شمار کی ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ ملکہ وکٹوریہ کی وفات کے بعد سے اس کی میعاد شمار ہوتی ہے کیونکہ ملکہ کے لیے حضور نے بہت دعائیں کی تھیں..... خاکسار عرض کرتا ہے کہ میرے نزدیک یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ حضرت صاحب کی وفات سے اس کی میعاد شمار کی جاوے۔ کیونکہ حضرت صاحب نے اپنی ذات کو گورنمنٹ برطانیہ کے لیے بطور حرز کے بیان کیا ہے۔ پس حرز کی موجودگی میں میعاد کا شمار کرنا میرے خیال میں درست نہیں۔ اس طرح جنگ عظیم کی ابتدا اور ہفت یا ہشت سالہ میعاد کا اختتام آپس میں مل جاتے ہیں۔ واللہ اعلم! خاکسار عرض کرتا ہے کہ گورنمنٹ برطانیہ کے ہم لوگوں پر بڑے احسانات ہیں۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے فتنوں سے محفوظ رکھے۔“

(سیرت الہدی جلد اول صفحہ 75، 76 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 971، 972 پر)

مرزا بشیر احمد کے علاوہ قادیانیوں کے دوسرے خلیفہ مرزا محمود نے بھی گواہی دی کہ اس کے باپ مرزا قادیانی کو سلطنت برطانیہ والا الہام ہوا تھا۔ ملاحظہ فرمائیں:

□ خلیفہ المسیح الثانی نے خطبہ جمعہ میں فرمایا: ”ملکہ وکٹوریہ کے زمانہ میں خدا تعالیٰ نے خبر دی:

”سلطنت برطانیہ تاہشت سال..... بعد ازاں ضعف و فساد و اختلال“

اور یہ آٹھ سال جا کر ملکہ وکٹوریہ کی وفات پر پورے ہو گئے۔“

(الفضل جلد 16 نمبر 78 مورخہ 5 اپریل 1929ء صفحہ 5)

(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات صفحہ 650 طبع چہارم، از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 975 پر)

(419) حافظ حامد علی صاحب نے مجھ سے کہا کہ..... ان دنوں میں حضرت صاحب کو الہام ہوا ہے:  
 ”سلطنتِ برطانیہ تاہشت سال..... بعد ازاں ایامِ ضعف و اختلال“  
 (سیرت المہدی جلد اول صفحہ 75 از مرزا بشیر احمد) (عکس صفحہ نمبر 973 پر)

میاں عبداللہ صاحب سنوری نے بیان کیا کہ:

(420) ”مجھے (یہ) الہام اس طرح پر یاد ہے:  
 ”سلطنتِ برطانیہ تاہفت سال..... بعد ازاں باشد خلاف و اختلال“  
 (سیرت المہدی جلد اول صفحہ 75 از مرزا بشیر احمد) (عکس صفحہ نمبر 974 پر)

صاحبزادہ پیر سراج الحق صاحب نعمانی نے بیان کیا:

(421) ”میں نے حضرت سے یہ الہام اس طرح پر سنا ہے:  
 ”قوتِ برطانیہ تاہشت سال..... بعد ازاں ایامِ ضعف و اختلال“  
 (سیرت المہدی جلد دوم صفحہ 9 روایت نمبر 314)  
 (تذکرہ مجموعہ وحی والہامات طبع چہارم صفحہ 651 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ  
 نمبر 975, 976 پر)

مرزا قادیانی نے رسالہ ”کشف الغطاء“ میں مولوی محمد حسین بیٹالوی کی نسبت یہ بھی  
 لکھا تھا:

(422) ”ایسے منافق پر کیوں اعتبار کیا جاتا ہے کہ جو گورنمنٹ کو کچھ کہتا ہے اور مسلمانوں  
 کے کانوں میں کچھ پھونکتا ہے۔“

(کشف الغطاء صفحہ 49 مندرجہ روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 225 از مرزا قادیانی)  
 (عکس صفحہ نمبر 977 پر)

مزید لکھا:

(423) ”جبکہ یہ فاش جھوٹ اس نے اختیار کیا ہے تو کیونکر اطمینان ہو کہ جو دوسری باتیں

گورنمنٹ تک پہنچاتا ہے، اس میں سچ بولتا ہے۔“

(کشف الغطاء صفحہ 45 مندرجہ روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 221 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 978 پر)

## اپنی وحی پر یقین

(424) ”ہم کو تو خدا تعالیٰ کے اس کلام پر جو ہم پر وحی کے ذریعہ نازل ہوتا ہے۔ اس قدر یقین اور علی وجہ البصیرۃ یقین ہے کہ بیت اللہ میں کھڑا کر کے جس قسم کی چاہو قسم دیدو بلکہ میرا تو یقین یہاں تک ہے کہ اگر میں اس بات کا انکار کروں۔ یا وہم بھی کروں کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں تو معاً کافر ہو جاؤں۔“

(ملفوظات جلد اول صفحہ 400 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 979 پر)

قارئین کرام! اب میرا قادیانیوں سے سوال ہے کہ وہ بتائیں کہ اس تحریر کی رو سے منافق اور جھوٹا مرزا قادیانی ہے یا مولانا محمد حسین بٹالوی؟؟؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ باپ اپنے الہام سے منکر ہے اور اس کا بیٹا کہتا ہے کہ الہام واقعی ہوا تھا۔ ذرا سوچ کر بتائیے کہ جھوٹا کون ہے؟ باپ یا بیٹا؟؟؟

## (2) دوسرا سوال

### قرآن نے میرا نام ابن مریم رکھا

مرزا قادیانی اپنی کتاب میں لکھتا ہے:

(425) ”اگر میں صاحب معجزہ نہیں تو جھوٹا ہوں۔ اگر قرآن سے ابن مریم کی وفات ثابت نہیں تو میں جھوٹا ہوں۔ اگر حدیث معراج نے ابن مریم کو مردہ روحوں میں نہیں بٹھا دیا تو میں جھوٹا ہوں۔ اگر قرآن نے سورہ نور میں نہیں کہا کہ اس امت کے خلیفے اسی امت میں سے ہوں گے تو میں جھوٹا ہوں۔ اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں۔“

(تحفہ الندوہ صفحہ 5 مندرجہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 97، 98 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 980، 981 پر)

مرزا قادیانی کے حالات زندگی پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی والدہ کا نام مریم نہیں بلکہ چراغ بی بی تھا۔ قادیانیوں سے سوال ہے کہ وہ قرآن مجید کی اس آیت کی نشاندہی کریں جس میں اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی کو ابن مریم کہا ہو؟؟؟

مرزا قادیانی کا جھوٹ کے بارے میں کہتا ہے:

(426) ”جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا۔“

(چشمہ معرفت صفحہ 222 مندرجہ روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 231 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 982 پر)

(427) ”جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں۔“

(تختہ گولڑویہ ضمیمہ صفحہ 20 مندرجہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 56 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 983 پر)

(428) ”وہ کتھر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں، وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرما تے ہیں۔“

(شخصہ حق صفحہ 60 مندرجہ روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 386 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 984 پر)

(429) ”جھوٹ بولنا اور گوہ کھانا ایک برابر ہے۔“

(حقیقۃ الوحی صفحہ 206 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 215 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 985 پر)

## (3) تیسرا سوال

## جہاد، خدا کے حکم سے بند

جہاد کی ممانعت کے بارے مرزا قادیانی نے کہا:

(430) ”آج سے انسانی جہاد جو کلوار سے کیا جاتا تھا، خدا کے حکم کے ساتھ بند کیا گیا۔“

(مجموعہ اشتہارات جلد دوم صفحہ 408 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 986 پر)

قادیانیوں سے سوال ہے کہ وہ خدا کے اس حکم کی نشاندہی فرمادیں کہ جس سے وہ

انسانی جہاد جو کلوار سے کیا جاتا تھا، خدا کے حکم سے بند ہو گیا؟؟؟

محکوم کے الہام سے اللہ بچائے

غارت گر اقوام ہے وہ صورت چنگیز

## (4) چوتھا سوال

## بیوہ کا نام

مرزا قادیانی اپنی کتاب میں لکھتا ہے:

(431) ”تخمیناً اٹھارہ برس کے قریب عرصہ گذرا ہے کہ مجھے کسی تقریب سے مولوی محمد

حسین بٹالوی ایڈیٹر رسالہ ”اشاعت السنہ“ کے مکان پر جانے کا اتفاق ہوا۔ اس نے مجھ سے

دریافت کیا کہ آج کل کوئی الہام ہوا ہے؟ میں نے اس کو یہ الہام سنایا جس کو میں کئی دفعہ اپنے

مخلصوں کو سنا چکا تھا اور وہ یہ ہے کہ ہکرو ٹیب جس کے یہ معنی ان کے آگے اور نیز ہر ایک

کے آگے میں نے ظاہر کیے کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ وہ دو عورتیں میرے نکاح میں لائے گا۔

ایک بکر ہوگی اور دوسری بیوہ۔ چنانچہ یہ الہام جو بکر کے متعلق تھا پورا ہو گیا۔ اور اس وقت بفضلہ

تعالیٰ چار پسر اس بیوی سے موجود ہیں اور بیوہ کے الہام کی انتظار ہے۔“

(تریاق القلوب صفحہ 73 مندرجہ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 201 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 987 پر)

پیش گوئی بتا رہی ہے کہ مرزا قادیانی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی اور



اس سے وعدہ کیا گیا کہ ”اللہ تعالیٰ دو عورتیں تیرے نکاح میں لائے گا، ایک کنواری اور دوسری بیوہ۔“ بقول مرزا قادیانی کنواری کا الہام نصرت جہاں بیگم سے پورا ہو گیا۔ بیوہ کے نکاح کا انتظار ہے۔“ لیکن مرزا قادیانی کا تا عمر کسی بیوہ سے نکاح نہیں ہوا اور وہ اس کی حسرت لیے دنیا سے کوچ کر گیا۔

قادیانیوں سے سوال ہے کہ وہ اس بیوہ کا نام بتائیں جو مرزا قادیانی کے نکاح میں آئی؟؟؟

## (5) پانچواں سوال

### پچاس الماریاں

مرزا قادیانی کا کہنا ہے:

(432) ”میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنتِ انگریزی کی تائید اور حمایت میں گزرا ہے اور میں نے ممانعتِ جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہار شائع کیے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکٹھی کی جائیں تو پچاس الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔ میں نے ایسی کتابوں کو تمام ممالکِ عرب اور مصر اور شام اور کابل اور روم تک پہنچا دیا ہے۔ میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سچے خیر خواہ ہو جائیں اور مہدیِ خونی اور مسیحِ خونی کی بے اصل روایتیں اور جہاد کے جوش دلانے والے مسائل جو احمقوں کے دلوں کو خراب کرتے ہیں، ان کے دلوں سے معدوم ہو جائیں۔“

(تریاق القلوب صفحہ 27، 28 مندرجہ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 155، 156 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 988، 989 پر)

(433) ”میں نے چالیس کتابیں تالیف کی ہیں اور ساٹھ ہزار کے قریب اپنے دعویٰ کے ثبوت کے متعلق اشتہارات شائع کیے ہیں، وہ سب میری طرف سے بطور چھوٹے چھوٹے رسالوں کے ہیں۔“

(از بعین 3 صفحہ 35 صفحہ مندرجہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 418 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 990 پر)

مرزا قادیانی کی 100 کے قریب کتب ہیں۔ جس میں اس نے اپنی ذات اور اپنے آباؤ اجداد کی تعریف میں کم و بیش نصف سے زیادہ صفحات سیاہ کر دیے ہیں اور بقیہ حصہ میں گورنمنٹ برطانیہ کی تعریف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بازاری جملے، توہین انبیائے کرام، دجال کے من گھڑت قصے، بزرگان دین کے اقوال میں تحریف، مخالفین کو گالیاں، غیر مذاہب پر اوباشانہ حملے اور اپنی نام نہاد وحی و الہامات پر خرچ کیے۔ مرزا قادیانی کی ان تمام تصانیف کے لیے ایک عام الماری کا 1/4 حصہ کافی ہے۔ مگر ”سلطان القلم“ کا دعویٰ ہے کہ اس نے انگریز کی اطاعت اور ممانعت جہاد کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں کہ اس سے 50 الماریاں بھر سکتی ہیں۔ ہمارا دنیا کے تمام قادیانیوں کو چیلنج ہے کہ وہ ہمیں مرزا قادیانی کی پچاس الماریوں پر مشتمل کتابوں کی فہرست فراہم کریں، ہم انہیں منہ بولا انعام دیں گے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ قیامت تک کوئی قادیانی ہمارا یہ چیلنج قبول کرنے کی جرأت نہ کر سکے گا۔ مرزا قادیانی کے اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنا کسی قادیانی کے بس میں نہیں۔ قادیانیوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے!

### (6) چھٹا سوال

## قرآن شریف میں قادیان کا ذکر

مرزا قادیانی بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہے:

(434) ”اس روز کشفی طور پر میں نے دیکھا کہ میرے بھائی صاحب مرحوم مرزا غلام قادر میرے قریب بیٹھ کر باآواز بلند قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے ان فقرات کو پڑھا کہ انا انزلہ قریباً من القادیان تو میں نے سن کر بہت تعجب کیا کہ کیا قادیان کا نام بھی قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے؟ تب انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو، لکھا ہوا ہے۔ تب میں نے نظر ڈال کر جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ فی الحقیقت قرآن شریف کے دائیں صفحہ پر شاید قریب نصف کے موقع پر یہی الہامی عبارت لکھی ہوئی موجود ہے۔ تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ ہاں واقعی طور پر قادیان کا نام قرآن شریف میں درج ہے اور میں نے کہا کہ تین شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے۔ مکہ اور مدینہ اور قادیان۔“

(ازالہ اوہام [حاشیہ] حصہ اول صفحہ 40 مندرجہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 140 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 991 پر)

قادیانیوں سے سوال ہے کہ مرزا قادیانی کی مذکورہ بالا تحریر سے قرآن مجید میں اس آیت کی نشاندہی کریں جس میں قادیان کا لفظ آیا ہے؟؟؟

## (7) ساتواں سوال

### مسلمانوں کی جاسوسی

1857ء کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں میں یہ بحث چھڑ گئی چونکہ مسلمانوں کی اسلامی حکومت ختم ہو گئی ہے اور ہندوستان پر انگریز قابض ہو گیا ہے، اب شرعی لحاظ سے ہندوستان کی حیثیت کیا ہے؟ دارالہرب یا دارالسلام۔ اگر دارالہرب ہے تو اب مسلمانوں پر (شرائط نماز جمعہ پوری نہ ہونے کی وجہ سے) نماز جمعہ فرض نہ رہا اور اگر دارالسلام ہے تو نماز جمعہ کی فرضیت بدستور قائم ہے۔ یہ بحث کچھ عرصہ چلتی رہی۔ بعد ازاں یہ قرار پایا کہ نماز جمعہ بھی ادا کیا جائے اور نماز ظہر بھی پوری پڑھی جائے۔ بعض لوگوں نے جمعہ کے روز نماز ظہر کو ترک کر دیا تھا اور بعض لوگ صرف نماز ظہر پڑھتے تھے۔ جن لوگوں کی یہ رائے تھی کہ ہندوستان کے دارالہرب ہونے کی وجہ سے نماز جمعہ اب فرض نہیں رہی اور صرف نماز ظہر ہی پڑھنی چاہیے، انگریز بہادر کے نزدیک ایسے تمام مسلمان حکومت کے باغی تھے۔ انگریز کے محکمہ جاسوسی کا فرض تھا کہ ایسے لوگوں پر گہری نظر رکھے تاکہ مستقبل میں وہ اکٹھے اور منظم ہو کر حکومت کے لیے کوئی مشکلات پیدا نہ کریں۔ حکومت کے ایسے باغیوں کی نشاندہی کے لیے مرزا قادیانی نے یہ ڈیوٹی اپنے ذمہ لی۔ اس سلسلہ میں اس نے ایک اشتہار شائع کیا جس میں گورنمنٹ برطانیہ کو اس امر کی طرف توجہ دلائی کہ مسلمان حکومت کے ساتھ باغیانہ رویہ رکھتے ہیں۔ اس کی شناخت یہ ہے کہ جو لوگ نماز جمعہ نہیں پڑھتے، وہ سرکاری باغی اور ”وہشت گرد“ سمجھے جائیں۔ اس ”نیک“ کام کے لیے مرزا قادیانی نے باقاعدہ ایک گوشوارہ تیار کر کے ہندوستان بھر میں اپنے تمام مریدوں میں تقسیم کیا اور حکم دیا کہ وہ اس گوشوارہ میں ایسے تمام مسلمانوں کے کوائف درج کر کے قادیان بھجوائیں جو اپنے اپنے علاقوں میں نماز جمعہ کے لیے مسجد نہیں آتے تاکہ باغیوں کے یہ نام انگریز بہادر کی خدمت میں پیش کر کے وہ اس کی بارگاہ

میں سرخرو ہو سکے۔ اب آپ اس اشتہار کی عبارت ملاحظہ فرمائیں جو مسلمانوں کی جاسوسی کی غرض سے مرزا قادیانی نے شائع کر کے اپنے مریدوں میں تقسیم کیا۔

(435) ”قابل توجہ گورنمنٹ از طرف مہتمم کاروبار تجویز تعطیل جمعہ

میرزا غلام احمد از قادیان ضلع گورداسپور پنجاب

چونکہ قرین مصلحت ہے کہ سرکار انگریزی کی خیر خواہی کے لیے ایسے نا فہم مسلمانوں کے نام بھی نقشہ جات میں درج کیے جائیں جو درپردہ اپنے دلوں میں برٹش انڈیا کو دارالحرب قرار دیتے ہیں اور ایک چھپی ہوئی بغاوت کو اپنے دلوں میں رکھ کر اسی اندرونی بیماری کی وجہ سے فرضیت جمعہ سے منکر ہو کر اس کی تعطیل سے گریز کرتے ہیں۔ لہذا یہ نقشہ اسی غرض کے لیے تجویز کیا گیا کہ تا اس میں اُن ناحق شناس لوگوں کے نام محفوظ رہیں کہ جو ایسے باغیانہ سرشت کے آدمی ہیں۔ اگرچہ گورنمنٹ کی خوش قسمتی سے برٹش انڈیا میں مسلمانوں میں ایسے آدمی بہت ہی تھوڑے ہیں جو ایسے مفسدانہ عقیدہ کو اپنے دل میں پوشیدہ رکھتے ہوں۔ لیکن چونکہ اس امتحان کے وقت بڑی آسانی سے ایسے لوگ معلوم ہو سکتے ہیں، جن کے نہایت مخفی ارادے گورنمنٹ کے برخلاف ہیں۔ اس لیے ہم نے اپنی محسن گورنمنٹ کی پولیٹیکل خیر خواہی کی نیت سے اس مبارک تقریب پر یہ چاہا کہ جہاں تک ممکن ہو ان شریر لوگوں کے نام ضبط کیے جائیں جو اپنے عقیدہ سے اپنی مفسدانہ حالت کو ثابت کرتے ہیں کیونکہ جمعہ کی تعطیل کی تقریر پر ان لوگوں کا شناخت کرنا ایسا آسان ہے کہ اس کی مانند ہمارے ہاتھ میں کوئی بھی ذریعہ نہیں۔ وجہ یہ کہ جو ایک ایسا شخص ہو جو اپنی نادانی اور جہالت سے برٹش انڈیا کو دارالحرب قرار دیتا ہے، وہ جمعہ کی فرضیت سے ضرور منکر ہوگا اور اسی علامت سے شناخت کیا جائے گا کہ وہ درحقیقت اس عقیدہ کا آدمی ہے۔ لیکن ہم گورنمنٹ میں باادب اطلاع کرتے ہیں کہ ایسے نقشے ایک پولیٹیکل راز کی طرح اُس وقت تک ہمارے پاس محفوظ رہیں گے جب تک گورنمنٹ ہم سے طلب کرے۔ اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ حکیم مزاج بھی ان نقشوں کو ایک ملکی راز کی طرح اپنے کسی دفتر میں محفوظ رکھے گی اور بالفضل یہ نقشے جن میں ایسے

لوگوں کے نام مندرج ہیں گورنمنٹ میں نہیں بھیجے جائیں گے۔ صرف اطلاع وہی کے طور پر ان میں سے ایک سادہ نقشہ چھپا ہوا جس پر کوئی نام درج نہیں فقط یہی مضمون درج ہے ہمراہ درخواست بھیجا جاتا ہے اور ایسے لوگوں کے نام معہ پتہ و نشان یہ ہیں:

نمبر شمار	نام معہ لقب و عہدہ	سکونت	ضلع	کیفیت

(مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 555 تا 557 طبع جدید از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 992 تا 994 پر)

آنجنابی مرزا قادیانی مسلمانوں کے خلاف انگریزوں کے لیے جاسوسی کا کام ”مفت“ نہیں کرتا تھا بلکہ وہ ان خدمات کے لیے بھاری معاوضہ حاصل کرتا تھا۔ اس سلسلہ میں مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر احمد ایم اے اپنی کتاب ”سیرۃ الہدی“ میں لکھتا ہے:

## پہ اسرار منی آرڈر

(436) ”مرزا دین محمد صاحب ساکن لنگر وال ضلع گورداسپور نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مجھے صبح کے قریب جگایا اور فرمایا کہ مجھے ایک خواب آیا ہے۔ میں نے پوچھا کیا خواب ہے؟ فرمایا: میں نے دیکھا ہے کہ میرے تخت پوش کے چاروں طرف نمک چٹا ہوا ہے۔ میں نے تعبیر پوچھی تو کتاب دیکھ کر فرمایا کہ کہیں سے بہت سا روپیہ آئے گا۔ اس کے بعد میں چار دن یہاں رہا۔ میرے سامنے ایک منی آرڈر آیا، جس میں ہزار سے زائد روپیہ تھا۔ مجھے اصل رقم یاد نہیں۔ جب مجھے خواب سنائی تو ملاوا مل اور شرن پت کو بھی بلا کر سنائی۔ جب منی آرڈر آیا تو ملاوا مل و شرن پت کو بلایا اور فرمایا کہ لو بھئی یہ منی آرڈر آیا ہے، جا کر ڈاکخانہ سے لے آؤ۔ ہم نے دیکھا تو منی آرڈر بھیجنے والا کا پتہ اس پر درج نہیں تھا۔ حضرت صاحب کو بھی پتہ نہیں لگا کہ کس نے بھیجا ہے۔“

(سیرت المہدی جلد سوم صفحہ 102, 101 از مرزا بشیر احمد ابن مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 995, 996 پر)

مرزا بشیر احمد کی مذکورہ روایت کے مطابق مرزا قادیانی کو ایک ہزار روپے سے زائد کا منی آرڈر موصول ہوا۔ اگر اسے ہزار روپے بھی سمجھ لیا جائے تو آج کے تقریباً 64 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ میں نے یہ حساب اس طرح لگایا ہے کہ مرزا بشیر احمد ایم اے کے مطابق اس زمانے میں ایک روپیہ کا سولہ کلو گوشت آتا تھا۔ (سیرت المہدی جلد اول صفحہ 182 از مرزا بشیر احمد ایم اے) آج کل گوشت 400 روپے فی کلو ہے۔ اس حساب سے سولہ کلو گوشت 6 ہزار 4 سو روپے مالیت کا بنتا ہے اور 6 ہزار 4 سو کو ایک ہزار سے ضرب دی جائے تو 64 لاکھ بنتا ہے۔ اس دور میں انگریز کے علاوہ ایسا کون سخی تھا جو مرزا قادیانی کو اس کی ”خصوصی خدمات“ کے عوض 64 لاکھ روپے دے اور اپنا نام بھی پوشیدہ رکھے؟

قادیانیوں سے سوال ہے کہ وہ بتائیں کہ رقم بھیجنے والا کون تھا اور اس نے یہ رقم

کس مقصد کے لیے بھیجی؟؟؟

## (8) آٹھواں سوال

## بخاری شریف میں

مرزا قادیانی اپنی کتاب میں لکھتا ہے:

(437) ”صحیح بخاری کی وہ حدیثیں جن میں آخری زمانہ میں بعض خلیفوں کی نسبت خبر دی گئی ہے، خاص کر وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے اس کی نسبت آواز آئے گی کہ هذا خلیفة الله المهدی اب سوچو کہ یہ حدیث کس پایہ اور مرتبہ کی ہے جو ایسی کتاب میں درج ہے جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔“

(شہادت القرآن صفحہ 41 مندرجہ روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 337 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 997 پر)

قادیانیوں سے سوال ہے کہ وہ بتائیں کہ مذکورہ بالا حدیث بخاری شریف کی کونسی

جلد کے کس صفحہ پر درج ہے؟؟؟

## (9) نواں سوال

## کنجریوں کی اولاد

مرزا قادیانی اپنی کتاب میں لکھتا ہے:

(438) ”کُلُّک کتب ینظر الیہا کل مسلم بعین المحبة والمودة و ینتفع من معارفہا و یقبلنی و یصدق دعوتی. الا ذریة البغایا الذین ختم اللہ علی قلوبہم فہم لا یقبلون.“

ترجمہ ”میری ان کتابوں کو ہر مسلمان محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اس کے معارف سے فائدہ اٹھاتا ہے اور میری دعوت کی تصدیق کرتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے مگر کنجریوں (بدکار عورتوں) کی اولاد نے میری تصدیق نہیں کی۔“

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ 547، 548 مندرجہ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 547، 548 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 998، 999 پر)

مرزا قادیانی کے پہلے دونوں بیٹوں مرزا فضل احمد اور مرزا سلطان احمد نے ہمیشہ اپنے باپ کی مخالفت کی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا باپ جعلی نبوت کا دھندا کرتا ہے اور نبوت کا دعویٰ کرنے کے باوجود اپنی پہلی بیوی حرمت بی بی کے شرعی حقوق پورے نہیں کرتا۔ مرزا قادیانی اور ان کے بیٹوں کی مخالفت کے بارے میں مرزا بشیر احمد ایم اے اپنی والدہ کے حوالہ سے لکھتا ہے:

(439) ”بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ جب محمدی بیگم کی شادی دوسری جگہ ہوگئی اور قادیان کے تمام رشتہ داروں نے حضرت صاحب کی سخت مخالفت کی اور خلاف کوشش کرتے رہے اور سب نے احمد بیگ والد محمدی بیگم کا ساتھ دیا اور خود کوشش کر کے لڑکی کی شادی دوسری جگہ کرا دی تو حضرت صاحب نے مرزا سلطان احمد اور مرزا فضل احمد دونوں کو الگ الگ خط لکھا کہ ان سب لوگوں نے میری سخت مخالفت کی ہے۔ اب ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا۔ اور ان کے ساتھ اب ہماری قبریں بھی اکٹھی نہیں ہو سکتیں لہذا اب تم اپنا آخری فیصلہ کرو۔ اگر تم نے میرے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو پھر ان سے قطع تعلق کرنا ہوگا اور اگر ان سے تعلق رکھنا ہے تو پھر میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں رہ سکتا۔ میں اس صورت میں تم کو عاق کرتا ہوں۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ مرزا سلطان احمد کا جواب آیا کہ مجھ پر تائی صاحبہ کے احسانات ہیں۔ ان سے قطع تعلق نہیں کر سکتا۔ مگر مرزا فضل احمد نے لکھا کہ میرا تو آپ کے ساتھ ہی تعلق ہے، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حضرت صاحب نے مرزا فضل احمد کو جواب دیا کہ اگر یہ درست ہے تو اپنی بیوی بنت مرزا علی شیر کو (جو سخت مخالف تھی اور مرزا احمد بیگ کی بھانجی تھی) طلاق دے دو۔ مرزا فضل احمد نے فوراً طلاق نامہ لکھ کر حضرت صاحب کے پاس روانہ کر دیا۔ والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ پھر فضل احمد باہر سے آ کر ہمارے پاس ہی ٹھہرتا تھا مگر اپنی دوسری بیوی کی فتنہ پردازی سے آخر پھر آہستہ آہستہ ادھر جا ملا۔“

(سیرت المہدی جلد اول صفحہ 28، 29 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 1000، 1001 پر)

اب مرزا قادیانی کا اپنے پہلے دونوں بیٹوں کے بارے میں اشتہار ملاحظہ فرمائیں:



## (440) ”اشتہار نصرتِ دین و قطع تعلق

### از اقارب مخالفِ دین

چوں بدندان تو کرے اوفتاد، آن نہ دندانِ بکن ای اوستاد

ناظرین کو یاد ہوگا کہ اس عاجز نے ایک دینی خصومت کے پیش آ جانے کی وجہ سے ایک نشان کے مطالبہ کے وقت اپنے ایک قریبی مرزا احمد بیگ ولد مرزا گاماں بیگ ہوشیار پوری کی دختر کلاں کی نسبت بحکم والہام الہی یہ اشتہار دیا تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہی مقدر اور قرار یافتہ ہے کہ وہ لڑکی اس عاجز کے نکاح میں آئے گی۔ خواہ پہلے ہی باکرہ ہونے کی حالت میں آ جائے اور یا خدا تعالیٰ بیوہ کر کے اس کو میری طرف لے آوے۔ چنانچہ تفصیل ان کل امور مذکورہ بالا کی اس اشتہار میں درج ہے۔ اب باعث تحریر اشتہار ہذا یہ ہے کہ میرا بیٹا سلطان احمد نام جو نائب تحصیلدار لاہور میں ہے، اور اس کی تائی صاحبہ جنھوں نے اس کو بیٹا بنایا ہوا ہے، وہی اس مخالفت پر آمادہ ہو گئے ہیں، اور یہ سارا کام اپنے ہاتھ میں لے کر اس تجویز میں ہیں کہ عید کے دن یا اس کے بعد اس لڑکی کا کسی سے نکاح کیا جائے۔ اگر یہ اوروں کی طرف سے مخالفانہ کارروائی ہوتی تو ہمیں درمیان میں دخل دینے کی کیا ضرورت اور کیا غرض تھی۔ امر ربی تھا اور وہی اس کو اپنے فضل و کرم سے ظہور میں لاتا۔ مگر اس کام کے مدار الہام وہ لوگ ہو گئے جن پر اس عاجز کی اطاعت فرض تھی اور ہر چند سلطان احمد کو سمجھایا اور بہت تاکید خط لکھے کہ ٹو اور تیری والدہ اس کام سے الگ ہو جائیں ورنہ میں تم سے جدا ہو جاؤں گا، اور تمہارا کوئی حق نہیں رہے گا۔ مگر انھوں نے میرے خط کا جواب تک نہ دیا اور بکلی مجھ سے بیزاری ظاہر کی۔ اگر ان کی طرف سے ایک تیز تلوار کا بھی مجھے زخم پہنچتا تو بخدا میں اس پر صبر کرتا۔ لیکن انھوں نے دینی مخالفت کر کے اور دینی مقابلہ سے آزار دے کر مجھے بہت ستایا، اور اس حد تک میرے دل کو توڑ دیا کہ میں بیان نہیں کر سکتا، اور عدا چاہا کہ میں سخت ذلیل کیا جاؤں۔ سلطان احمد ان دو بڑے گناہوں کا مرتکب ہوا۔ اول یہ کہ اس نے رسول اللہ ﷺ کے دین کی مخالفت کرنی چاہی۔ اور یہ چاہا کہ دین اسلام پر تمام مخالفوں کا حملہ ہو اور یہ اپنی طرف سے اس نے ایک بنیاد رکھی ہے اس امید پر کہ یہ جھوٹے ہو جائیں گے اور دین کی

ہتک ہوگی اور مخالفوں کی فتح۔ اس نے اپنی طرف سے مخالفانہ تلواریں چلانے میں کچھ فرق نہیں کیا اور اس نادان نے نہ سمجھا کہ خداوند قدیر و غیور اس دین کا حامی ہے اور اس عاجز کا بھی حامی۔ وہ اپنے بندہ کو کبھی ضائع نہ کرے گا۔ اگر سارا جہان مجھے برباد کرنا چاہے تو وہ اپنی رحمت کے ہاتھ سے مجھ کو تھام لے گا، کیونکہ میں اس کا ہوں اور وہ میرا۔ دوم سلطان احمد نے مجھے جو میں اس کا باپ ہوں سخت ناچیز قرار دیا اور میری مخالفت پر کمر باندھی، اور قوی اور فعلی طور پر اس مخالفت کو کمال تک پہنچایا۔ اور میرے دینی مخالفوں کو مدد دی اور اسلام کی ہتک بدل و جان منظور رکھی۔ سو چونکہ اس نے دونوں طور کے گناہوں کو اپنے اندر جمع کیا۔ اپنے خدا کا تعلق بھی توڑ دیا اور اپنے باپ کا بھی۔ اور ایسا ہی اس کی دونوں والدہ نے کیا۔ سو جبکہ انہوں نے کوئی تعلق مجھ سے باقی نہ رکھا۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اب ان کا کسی قسم کا تعلق مجھ سے باقی رہے۔ اور ڈرتا ہوں کہ ایسے دینی دشمنوں سے پیوند رکھنے میں مصیبت نہ ہو۔ لہذا میں آج کی تاریخ کہ دوسری مئی 1891ء ہے۔ عوام اور خواص پر بذریعہ اشتہار ہذا ظاہر کرتا ہوں کہ اگر یہ لوگ اس ارادہ سے باز نہ آئے۔ اور وہ تجویز جو اس لڑکی کے ناطہ اور نکاح کرنے کی اپنے ہاتھ سے یہ لوگ کر رہے ہیں اس کو موقوف نہ کر دیا اور جس شخص کو انہوں نے نکاح کے لیے تجویز کیا ہے اس کو رد نہ کیا بلکہ اسی شخص کے ساتھ نکاح ہو گیا تو اسی نکاح کے دن سے سلطان احمد عاق اور محروم الارث ہوگا اور اسی روز سے اس کی والدہ پر میری طرف سے طلاق ہے۔ اور اگر اس کا بھائی فضل احمد جس کے گھر میں مرزا احمد بیگ والد لڑکی کی بھانجی ہے اپنی اس بیوی کو اسی دن جو اس کو نکاح کی خبر ہو اور طلاق نہ دیوے تو پھر وہ بھی عاق اور محروم الارث ہوگا۔ اور آئندہ ان سب کا کوئی حق میرے پر نہیں رہے گا اور اس نکاح کے بعد تمام تعلقات خویشی و قرابت و ہمدردی دور ہو جائے گی اور کسی نیکی، بدی، رنج، راحت، شادی اور ماتم میں ان سے شراکت نہیں رہے گی کیونکہ انہوں نے آپ تعلق توڑ دیے اور توڑنے پر راضی ہو گئے۔ سو اب ان سے کچھ تعلق رکھنا قطعاً حرام اور ایمانی غیوری کے برخلاف اور ایک دیوثی کا کام ہے۔ مومن دیوث نہیں ہوتا۔

مستشرق مرزا غلام احمد لودیانہ۔ 2 مئی 1891ء۔“

(مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 186، 187 طبع جدید از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 1002، 1003 پر)

قادیانیت کے معروف تجزیہ نگار جناب ابن فیض لکھتے ہیں:  
 ”اس اشتہار سے یہ باتیں اخذ ہوتی ہیں کہ مرزا سلطان احمد نے:-  
 مرزا قادیانی کی مخالفت کی۔

- (1) مرزا قادیانی کی مخالفت کی۔
- (2) بلکہ اس نکاح کے مدارالمہام بنے۔
- (3) سمجھانے اور تاکید کی خطوط کی پروا نہیں کی۔
- (4) مرزا قادیانی کی ذات سے بیزاری ظاہر کی۔
- (5) عدا چاہا کہ مرزا قادیانی کی ذلت ہو۔
- (6) مرزا قادیانی کو سخت ناچیز قرار دیا۔
- (7) مرزا قادیانی نے ان کے ساتھ پیوند کو معصیت قرار دیا۔
- (8) مرزا قادیانی نے عاق اور محروم الارث کر دیا۔
- (9) مرزا قادیانی نے ہر قسم کے تعلقات ختم، نیکی، بدی، شادی، ماتم میں شراکت ختم کر دی۔
- (10) مرزا قادیانی نے آخر میں کہا کہ ”سواب ان سے کچھ تعلق رکھنا قطعاً حرام اور ایمانی غیوری کے برخلاف اور ایک دیوثی کا کام ہے۔ مومن دیوث نہیں ہوتا۔“

اب آپ سوچئے کہ ایک عام آدمی بھی اگر اس قسم کا اعلان کرتا ہے تو اس کے بیٹے، اس کی موت کے بعد بھی اس اعلان کا احترام کرتے ہیں، اور جب ایک نبی نے اپنی زندگی میں ایک انتہائی دکھے ہوئے دل کے ساتھ اس قسم کا اعلان کیا ہے تو کیا اس نبی کے ماننے والوں پر اس اعلان کی حرمت قائم رکھنا فرض نہیں؟؟؟ اور اس شخص پر تو اس اعلان کی پاسداری، عمل اور حفاظت کی بے انتہا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جو نہ صرف بیٹا ہے بلکہ اس نبی کے خلیفہ ہونے کا دعویدار بھی ہے اور ایسا خلیفہ جو کہ اسی نبی کی پیشگوئی کے تحت مصلح موعود ہونے کا دعویدار بھی ہے۔

میرے سوال یہ ہیں کہ مرزا محمود احمد نے مرزا سلطان احمد سے تعلق قائم کر کے:-

- (1) کیا مرزا قادیانی کی مخالفت نہیں کی؟
- (2) کیا اس طرح مرزا قادیانی کی ذات سے بیزاری ظاہر نہیں کی؟
- (3) کیا ایسا کر کے عدا نہیں چاہا کہ مرزا قادیانی کی ذلت ہو؟

- (4) کیا اس طرح مرزا قادیانی کو سخت ناجیز نہیں قرار دیا؟
- (5) کیا معصیت کا ارتکاب نہیں کیا؟
- (6) کیا عاق اور محروم الارث ہونے والا کام نہیں کیا؟
- (7) مرزا قادیانی نے جو پابندیاں اور قطع تعلق مرنے تک قائم رکھا اور واپس نہیں لیا اور نہ اس تعلق کو موت کے بعد بھی جوڑنے ہی کی کسی قسم کی خواہش کی، کیا ان کو پس پشت نہیں ڈال دیا؟
- (8) کیا اس طرح مرزا محمود احمد نے بقول مرزا قادیانی کے قطعاً حرام اور ایمانی غیوری کے برخلاف کام نہیں کیا؟
- (9) بقول مرزا قادیانی کیا دیوثی کا کام نہیں کیا؟
- (10) کیا وہ خلیفہ تو درکنار ایک عام مومن بھی رہ گیا ہے؟ کہ مرزا قادیانی کا قول ہے ”مومن دیوث نہیں ہوتا۔“
- قادیانیوں سے سوال ہے کہ بیٹائیں، مذکورہ بالا معاملہ میں وہ کس کو صحیح سمجھتے ہیں؟  
مرزا قادیانی یا مرزا محمود کو؟؟؟

### (10) دسواں سوال

### کئی لاکھ پیش گوئیاں

مرزا قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا:

- (441) ”مثلاً کوئی شریر النفس ان تین ہزار معجزات کا کبھی ذکر نہ کرے جو ہمارے نبی ﷺ سے ظہور میں آئے اور حدیبیہ کی پیش گوئی کو بار بار ذکر کرے کہ وہ وقت اندازہ کردہ پر پوری نہیں ہوئی۔“

(تحفہ گولڑویہ صفحہ 67، مندرجہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 153 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 1004 پر)

- (442) ”ان چند سطروں میں جو پیش گوئیاں ہیں، وہ اس قدر نشانوں پر مشتمل ہیں

جو دس لاکھ سے زیادہ ہوں گے اور نشان بھی ایسے کھلے کھلے ہیں جو اول درجہ پر خارق عادت ہیں۔“

(براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 72، مندرجہ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 72 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 1005 پر)

مرزا قادیانی نے مزید لکھا:

(443) ”یاد رہے کہ ہم نے محض نمونے کے طور پر چند پیشگوئیاں اس کتاب میں لکھی ہیں مگر دراصل وہ کئی لاکھ پیشگوئی ہے جن کا سلسلہ ابھی تک ختم نہیں ہوا۔“

(حقیقۃ الوحی صفحہ 407 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 407 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 1006 پر)

### نشان اور معجزہ ایک ہی ہے

(444) ”امتیازی نشان جس سے وہ شناخت کیا جاتا ہے پس یقیناً سمجھو کہ سچا مذہب اور حقیقی راست باز ضرور اپنے ساتھ امتیازی نشان رکھتا ہے اور اسی کا نام دوسرے لفظوں میں معجزہ و کرامت اور خارق عادت امر ہے۔“

(براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 63، مندرجہ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 63 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 1007 پر)

قادیانیوں سے سوال ہے کہ وہ مرزا قادیانی کی ”کئی لاکھ پیش گوئیاں“ اور ”دس لاکھ معجزات“ پر مشتمل کوئی کتاب یا فہرست دکھائیں؟؟؟

جَاءَ الْحَقُّ وَ ذَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا  
كَفَرَ الْمُسْلِمُ هَرَبَ الْمِيرَا إِنَّ الْمِرَا كَانَ كَذُوبًا

## (11) گیارہواں سوال

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہودی استاد

مرزا قادیانی اپنی کتاب میں لکھتا ہے:

(445) ”یہ ثابت شدہ امر ہے کہ حضرت مسیح نے ایک یہودی استاد سے ”سبقاً“ توریت پڑھی تھی اور طالمود کو بھی پڑھا تھا۔“

(نزول اسحٰص ص 60 مندرجہ روحانی خزائن ج 18 ص 438 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 1008 پر)

مزید لکھا:

(446) ”اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا استاد ایک یہودی تھا جس سے انہوں نے ساری بائبل پڑھی اور لکھنا بھی سیکھا۔“

(اربعین نمبر 2 ص 19 مندرجہ روحانی خزائن ج 17 ص 358 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 1009 پر)

قرآن مجید کی آیات مبارکہ اور احادیث صحیحہ نبویہ میں یہ کہیں نہیں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک یہودی استاد سے توریت پڑھنا اور لکھنا سیکھا تھا۔  
قادیانیوں سے سوال ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت یا کسی صحیح حدیث نبویہ سے ثابت کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توریت ایک یہودی استاد سے پڑھی تھی یا کسی سے لکھنا سیکھا تھا؟؟؟

مشہور قادیانی مبلغ اللہ دتہ جالندھری نے اپنی کتاب (تفہیمات ربانیہ، ص 671) پر لکھا ہے کہ یہودی تاریخی روایت ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک استاد سے سبقاً توریت پڑھی تھی۔  
جبکہ مرزا قادیانی کا کہنا ہے:

”جو بات دشمن کے منہ سے نکلے، وہ قابل اعتبار نہیں۔“

(اعجاز احمدی ص 25، مندرجہ روحانی خزائن، ج 19 ص 134 از مرزا قادیانی)

(12) بارہواں سوال

## شوخی و شنگ لڑکا

مئی 1904ء میں مرزا قادیانی کی بیوی حاملہ تھی تو اس نے یہ پیشگوئی شائع کی:

(447) ”شوخی و شنگ لڑکا پیدا ہوگا۔“

(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات طبع چہارم صفحہ 430 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 1010 پر)

اس الہام کے ایک ماہ بعد 25 جون 1904ء کو لڑکی پیدا ہوئی۔ جس کا نام اُمّہ الحفیظ رکھا۔ (حقیقت الوحی صفحہ 218 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 228 از مرزا قادیانی) مگر وہ شوخی و شنگ لڑکا نہ اس حمل سے اور نہ اس کے بعد پیدا ہوا۔ کیا قادیانی حضرات بتلا سکتے ہیں کہ وہ ”شوخی و شنگ“ لڑکا کہاں گیا؟

(13) تیرھواں سوال

## گستاخِ رسولِ حرامی ہے

آنجنابی مرزا قادیانی نے حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی شان میں

توہین کرتے ہوئے اپنی کتاب میں خود کو ”محمد رسول اللہ“ کہا۔ ملاحظہ فرمائیں:-

(448) ”پھر اسی کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی یہ وحی اللہ ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔“ (نعوذ باللہ)!

(ایک غلطی کا ازالہ صفحہ 4، مندرجہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 207 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 1011 پر)

شان رسالت ﷺ میں مزید ہرزہ سرائی کرتے ہوئے لکھا:

(449) ”آنحضرت ﷺ اور آپ کے اصحاب..... عیسائیوں کے ہاتھ کا پنیر کھا لیتے تھے

حالانکہ مشہور یہ تھا کہ سور کی چربی اس میں پڑتی ہے۔“ (نعوذ باللہ)!

(مرزا قادیانی کا مکتوب، اخبار الفضل قادیان 22 فروری 1924ء) (عکس صفحہ نمبر 1012 پر)

مرزا قادیانی کے بیٹے اور قادیانی جماعت کے پہلے خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود نے شان رسالت ﷺ میں توہین کرتے ہوئے لکھا:

(450) ”یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پاسکتا ہے حتیٰ کہ محمد رسول اللہ ﷺ سے بھی بڑھ سکتا ہے۔“ (نعوذ باللہ)!

(مرزا بشیر الدین محمود کی ڈائری، اخبار الفضل قادیان نمبر 5، جلد 10، 17 جولائی 1922ء)  
(عکس صفحہ نمبر 1013 پر)

مرزا قادیانی کے دوسرے بیٹے مرزا بشیر احمد ایم اے نے توہین رسالت ﷺ کا ارتکاب کرتے ہوئے لکھا:

(451) ”پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ﷺ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، اس لیے ہم کو کسی نئے کلمہ کی ضرورت نہیں، ہاں اگر محمد رسول اللہ ﷺ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی۔“ (نعوذ باللہ)!

(کلمہ الفصل صفحہ 158 از مرزا بشیر احمد ایم اے ابن مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 1014 پر)

مرزا قادیانی کے ایک خاص مرید ملعون قاضی اکمل نے بھری محفل میں مرزا قادیانی کی موجودگی میں اُس کی شان میں ایک نظم پڑھی جس پر مرزا قادیانی سمیت تمام قادیانیوں نے اُسے داد دی اور پھر یہ نظم مرزا قادیانی اپنے ساتھ گمراہے گیا اور بعد ازاں قادیانی اخبار الفضل میں شائع ہوئی۔ اس نظم کے صرف دو اشعار ملاحظہ فرمائیں:

(452) ”محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں

اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شاں میں

محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل

غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں“

(روزنامہ بدر قادیان 25 اکتوبر 1906ء) (عکس صفحہ نمبر 1015 پر)

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان تحریروں سے شان رسالت ﷺ میں توہین کا



ارتکاب ہوتا ہے یا نہیں؟؟؟ اگر ہوتا ہے تو گستاخ رسول ﷺ کی حیثیت کے بارے میں خود مرزا قادیانی کا اعترافی بیان ملاحظہ فرمائیں:-

(453) ”اس کے مقابلہ میں آنحضرت ﷺ کو دیکھو۔ آپ کا دعویٰ کل جہان کے لیے اور سخت سے سخت دکھ اور تکالیف آپ کو پہنچے۔ جنگیں بھی آپ نے کیں۔ ایک لاکھ سے زیادہ صحابہؓ آپ کی زندگی میں موجود تھے۔ پھر ان باتوں کے ہوتے ہوئے جو شخص آنحضرت ﷺ کی شان میں کوئی ایسا کلمہ زبان پر لائے گا۔ جس سے آپ کی ہتک ہو وہ حرامی نہیں تو اور کیا ہے؟“  
(ملفوظات جلد سوم صفحہ 208 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 1016 پر)  
قادیانی بتائیں کہ مرزا قادیانی کی اس مذکورہ بالا تحریر کی روشنی میں خود مرزا قادیانی، اُس کے بیٹے اور اُس کے چیلے حرامی ہیں یا نہیں؟ خدا را انصاف کیجیے گا!

#### (14) چودھواں سوال

### مرزا قادیانی کی تاریخ پیدائش

آنجمانی مرزا قادیانی پنجاب میں ضلع گورداسپور کے ایک قصبے ”قادیان“ میں پیدا ہوا۔ یہ قصبہ امرتسر سے شمال مشرق کی طرف ریلوے لائن پر ایک قدیم شہر بٹالہ سے گیارہ میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ مرزا قادیانی کی تاریخ پیدائش کا تذکرہ کئی قادیانی کتابوں سے ملتا ہے، لیکن اُس کی تاریخ پیدائش کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مرزا قادیانی اپنی پیدائش کے بارے میں لکھتا ہے:

(454) ”میری پیدائش 1839ء یا 1840ء میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی ہے اور میں 1857ء میں سولہ برس کا یا سترہویں برس میں تھا اور ابھی ریش و برووت کا آغاز نہیں تھا۔“  
(”کتاب البریہ“ (حاشیہ) صفحہ 159 مندرجہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 177 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 1017 پر)

(455) ”لیکن بعد میں اُس کے خاندان کے افراد میں اس کے سال ولادت کے بارے

میں اختلاف پیدا ہو گیا، اس کے بیٹے مرزا بشیر احمد، جو اس کا سوانح نگار اور ”سیرت المہدی“ کا مصنف ہے، کے پہلے نظریے کے مطابق سال ولادت 1836 یا 1837ء ہو سکتا ہے۔“  
(سیرت المہدی، جلد دوم صفحہ 150 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 1018 پر)

(456) ”پس 13 فروری 1835ء عیسوی بمطابق 14 شوال 1250 ہجری بروز جمعہ والی تاریخ صحیح قرار پاتی ہے۔“

(سیرت المہدی، جلد سوم صفحہ 76 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 1019 پر)

(457) ”ایک تخمینہ کے مطابق سال ولادت 1831ء ہو سکتا ہے۔“

(سیرت المہدی، جلد سوم صفحہ 74 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 1020 پر)

(458) ”معراج حوین نے تاریخ ولادت 17 فروری 1832ء مقرر کی ہے۔“

(سیرت المہدی، جلد سوم صفحہ 302 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 1021 پر)

(459) ”جبکہ دیگر 1833ء یا 1834ء کو سال ولادت قرار دیتے ہیں۔“

(سیرت المہدی، جلد سوم صفحہ 194 از مرزا بشیر احمد ایم اے) (عکس صفحہ نمبر 1022 پر)

(460) ”حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی سنہ ولادت کے متعلق کوئی تحریری یادداشت تو

ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ اس لیے اس امر میں اختلاف ہونا لازمی امر تھا۔ مگر تحقیقات سے سنہ

ولادت 1835ء صحیح معلوم ہوتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ آپ نے کتاب البریہ میں اپنی پیدائش کا سنہ

1839ء یا 1840ء لکھا ہے لیکن ظاہر ہے کہ آپ نے یہ کسی تحریری یادداشت کی بنا پر نہیں لکھا،

محض تخمینہ یا اندازہ سے قیاس کر کے ایسا لکھ دیا۔ اسی لیے کوئی سنہ متعین نہیں کیا۔“

(مجدد اعظم جلد اول صفحہ 16 از ڈاکٹر بشارت احمد لاہوری قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 1023 پر)

قادیانی بتائیں کہ مرزا قادیانی کی اصل تاریخ پیدائش کے حوالہ سے یہ گورکھ دھندہ کیا ہے؟؟

(15) پندرہواں سوال

## مرزا قادیانی کی ایک فحش اور شرمناک تحریر

(461) ”ایک معزز آریہ کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی، دوسری شادی کر نہیں سکتا کہ وید کی رو سے حرام ہے، آخر نیوگ کی ٹھہرتی ہے، یار دوست مشورہ دیتے ہیں کہ لالہ صاحب نیوگ کرایئے، اولاد بہت ہو جائے گی۔ ایک بول اٹھتا ہے کہ مہر سنگھ جو اسی محلہ میں رہتا ہے، اس کام کے بہت لائق ہے۔ لالہ بہاری لال نے اس سے نیوگ کرایا تھا، لڑکا پیدا ہو گیا۔ یہ لالہ لڑکا پیدا ہونے کا نام سن کر باغ باغ ہو گیا۔ بولا مہاراج آپ ہی نے سب کام کرنے ہیں، میں تو مہر سنگھ کا واقف بھی نہیں۔ مہاراج شریر النفس بولے کہ ہاں ہم سمجھا دیں گے، رات کو آجائے گا۔ مہر سنگھ کو خبر دی گئی، وہ محلہ میں ایک مشہور قمار باز، اول نمبر کا بدمعاش اور حرام کار تھا۔ سنتے ہی بہت خوش ہو گیا اور انہیں کاموں کو وہ چاہتا تھا پھر اس سے زیادہ اس کو کیا چاہیے تھا۔ ایک نوجوان عورت اور پھر خوبصورت، شام ہوتے ہی آ موجود ہوا۔ لالہ صاحب نے پہلے ہی دلالہ عورتوں کی طرح ایک کوٹھری میں نرم بستر بچھوا رکھا تھا اور کچھ دودھ اور حلوا بھی دو برتنوں میں سرہانے کی طاق میں رکھوا دیا تھا تا اگر بیرج داتا کو ضعف ہو تو کھاپی لیں۔ پھر کیا تھا آتے ہی بیرج داتا نے لالہ دیوٹ کے نام و ناموس کا شیشہ توڑ دیا اور وہ بد بخت عورت تمام رات اس سے منہ کالا کراتی رہی اور اس پلید نے جو شہوت کا مارا تھا، نہایت قابل شرم اس عورت سے حرکتیں کیں اور لالہ باہر کے دالان میں سوئے اور تمام رات اپنے کانوں سے بے حیائی کی باتیں سنتے رہے بلکہ تختوں کی دراڑوں سے مشاہدہ بھی کرتے رہے۔ صبح وہ خبیث اچھی طرح لالہ کی ناک کاٹ کوٹھری سے باہر نکلا۔ لالہ تو منتظر ہی تھے، دیکھ کر اس کی طرف دوڑے اور بڑے ادب سے اس پلید بدمعاش کو کہا سردار صاحب رات کیا کیفیت گذری؟ اس نے مسکرا کر مبارک باد دی اور اشاروں میں جتا دیا کہ حمل ٹھہر گیا۔ لالہ دیوٹ سن کر بہت خوش ہوئے اور کہا کہ مجھے تو اسی دن سے آپ پر یقین ہو گیا تھا جبکہ میں نے بہاری لالہ کے گھر کی کیفیت سنی تھی اور پھر کہا وید حقیقت میں دویا سے بھرا ہوا ہے۔ کیا عمدہ تدبیر لکھی ہے جو خطانہ گئی۔ مہر سنگھ نے کہا کہ ہاں لالہ صاحب، سب سچ ہے کیا وید کی آگیا کبھی خطا بھی ہو جاتی ہے

میں تو انہی باتوں کے خیال سے وید کوست و دیواؤں کا پستک ماننا ہوں۔ اور دراصل مہر سنگھ ایک شہوت پرست آدمی تھا۔ اس کو کسی وید شاستر اور شرتی شلوک کی پروا نہ تھی اور نہ ان پر کچھ اعتقاد رکھتا تھا۔ اس نے صرف لالہ دیوٹ کی حماقت کی باتیں سن کر اس کے خوش کرنے کے لیے ہاں میں ہاں ملا دی۔ مگر اپنے دل میں بہت ہنسا کہ اس دیوٹ کی پتر لینے کے لیے کہاں تک نوبت پہنچ گئی۔ پھر اس کے بعد مہر سنگھ تو رخصت ہوا اور لالہ گھر کی طرف خوش خوش آیا اور اسے یقین تھا کہ اس کی استری رام دئی بہت ہی خوشی کی حالت میں ہوگی کیونکہ مراد پوری ہوئی۔ لیکن اس نے اپنے گمان کے برخلاف اپنی عورت کر روتے پایا اور اس کو دیکھ کر تو وہ بہت ہی روئی، یہاں تک کہ چیخیں نکل گئیں، اور ہنکی آنی شروع ہوئی۔ لالہ نے حیران سا ہو کر عورت کو کہا کہ ”ہے بھاگو ان آج تو خوشی کا دن ہے کہ دل کی مرادیں پوری ہوئیں اور بیچ ٹھہر گیا پھر تو روتی کیوں ہے؟ وہ بولی میں کیوں نہ روؤں، تو نے سارے کنبے میں میری مٹی پلید کی اور اپنی ناک کاٹ ڈالی اور ساتھ ہی میری بھی۔ اس سے بہتر تھا کہ میں پہلے ہی مر جاتی۔ لالہ دیوٹ بولا کہ یہ سب کچھ ہوا مگر اب بچہ ہونے کی بھی کس قدر خوشی ہوگی، وہ خوشیاں بھی تو تو ہی کرے گی مگر رام دئی شاید کوئی نیک عمل کی تھی۔ اس نے تر ت جاب دیا کہ حرام کے بچہ پر کوئی حرام کا ہی ہو تو خوشی منائے۔ لالہ تیز ہو کر بولا کہ ہے ہے کیا کہہ دیا۔ یہ تو وید آ گیا ہے۔ عورت کو یہ بات سن کر آگ لگ گئی، بولی میں نہیں سمجھ سکتی کہ یہ کیسا وید ہے جو بد کاری سکھلاتا اور زنا کاری کی تعلیم دیتا ہے۔ یوں تو دنیا کے مذاہب ہزاروں باتوں میں اختلاف رکھتے ہیں مگر یہ کبھی نہیں سنا کہ کسی مذہب نے وید کے سوا یہ تعلیم بھی دی ہو کہ اپنی پاک دامن عورتوں کو دوسروں سے ہم بستر کراؤ۔ آخر مذہب پاکیزگی سکھلانے کے لیے ہوتا ہے نہ بد کاری اور حرام کاری میں ترقی دینے کے لیے۔ جب رام دئی سب باتیں کہہ چکی تو لالہ نے کہا کہ چپ رہو، اب جو ہوا سو ہوا۔ ایسا نہ ہو کہ شریک سنیں اور میرا ناک کاٹیں۔ رام دئی نے کہا کہ اے بے حیا کیا ابھی تک تیرا ناک تیرے منہ پر باقی ہے۔ ساری رات میرے شریک نے جو تیرا ہمسایہ اور تیرا پکا دشمن ہے، تیری سہروں کی بیاہتا اور عزت کے خاندان والی سے تیرے ہی بستر پر چڑھ کر تیرے ہی گھر میں خرابی کی اور ہر ایک ناپاک حرکت کے وقت جتا بھی دیا کہ میں نے خوب بدلا لیا۔ سو کیا اس بے غیرتی کے بعد تو جیتا ہے۔ کاش تو اس سے پہلے ہی مرا ہوتا۔ اب وہ شریک اور پھر دشمن باتیں بنانے اور ٹھٹھا کرنے سے کب باز رہے گا بلکہ وہ تو کہہ گیا ہے کہ

میں اس فتحِ عظیم کو چھپا نہیں سکتا کہ جو آج وسواوئل کے مقابل پر مجھے حاصل ہوئی۔ میں ضرور رام دائی کا سارا نقشہ محلہ کے لوگوں پر ظاہر کروں گا، سو یاد رکھ کہ وہ ہر ایک مجلس میں تیرا ناک کاٹے گا اور ہر ایک لڑائی میں یہ قصہ تجھے بتائے گا اور اس سے کچھ تعجب نہیں کہ وہ دعویٰ کر دے کہ رام دائی میری ہی عورت ہے کیونکہ وہ اشارہ سے یہ بھی کہہ گیا ہے کہ آئندہ بھی میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ لالہ دیوٹ نے کہا کہ نکاح کا دعویٰ ثابت ہونا تو مشکل ہے البتہ یارانہ کا اظہار کرے تو کرے تا ہماری اور بھی رسوائی ہو، بہتر تو یہ ہے کہ ہم دلش ہی چھوڑ دیں۔ بیٹا ہونے کا خیال تھا، وہ تو ایشر نے دے ہی دیا۔ بیٹے کا نام سن کر عورت زہر خندہ بنی اور کہا کہ تجھے کس طرح اور کیونکر یقین ہوا کہ ضرور بیٹا ہوگا، اول تو پیٹ ہونے میں ہی شک ہے اور پھر اگر ہو بھی تو اس بات پر کوئی دلیل نہیں کہ لڑکا ہی ہوگا، کیا بیٹا ہونا کسی کے اختیار میں رکھا ہے۔ کیا ممکن نہیں کہ حمل ہی خطا جائے یا لڑکی پیدا ہو۔ لالہ دیوٹ بولے کہ اگر حمل خطا گیا تو میں کھڑک سنگھ کو جو اسی محلہ میں رہتا ہے، نیوگ کے لیے بلا لاؤں گا۔ عورت نہایت غصہ سے بولی کہ اگر کھڑک سنگھ بھی کچھ نہ کر سکا تو پھر کیا کرے گا؟ لالہ بولا کہ تو جانتی ہے کہ زائن سنگھ بھی ان دونوں سے کم نہیں، اس کو بلا لاؤں گا۔ پھر اگر ضرورت پڑی تو جیمیل سنگھ، لہنا سنگھ، بوڑ سنگھ، جیون سنگھ، صوباسنگھ، خزان سنگھ، ارجن سنگھ، رام سنگھ، کشن سنگھ، دیال سنگھ سب اس محلہ میں رہتے ہیں اور زور اور قوت میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، میرے کہنے پر سب حاضر ہو سکتے ہیں۔ عورت بولی کہ میں اس سے بہتر تجھے صلاح دیتی ہوں کہ مجھے بازار میں ہی بٹھا دے، تب دس بیس کیا ہزاروں لاکھوں آسکتے ہیں، منہ کالا جو ہونا تھا، وہ تو ہو چکا مگر یاد رکھ کہ بیٹا ہونا پھر بھی اپنے بس میں نہیں اور اگر ہوا بھی تو تجھے اس سے کیا جس کا وہ نطفہ ہے آخر وہ اسی کا ہوگا اور اسی کی خوبی، لائے گا کیونکہ درحقیقت وہ اسی کا بیٹا ہے، اس کے بعد رام دائی نے کچھ سوچ کر پھر رونا شروع کیا اور دور دور تک آواز گئی اور آواز سن کر ایک پنڈت نہال چند نام دوڑا آیا اور آتے ہی کہا کہ لالہ سکھ تو ہے، یہ کیسی رونے کی آواز آئی۔ لالہ ناک کٹا چاہتا تو نہیں تھا کہ نہال چند کے آگے قصہ بیان کرے مگر اس خوف سے کہ رام دائی اس وقت غصہ میں ہے، اگر میں بیان نہ کروں تو وہ ضرور بیان کر دے گی۔ کچھ کھسیانا بھابھا ہو کر زبان دبا کر کہنے لگا کہ مہاراج آپ جانتے ہیں کہ وید میں وقت ضرورت نیوگ کے لیے آگیا ہے۔ سو میں نے بہت دنوں سوچ کر رات کو نیوگ کرایا تھا، مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے نیوگ کے لیے مہر

سنگھ کو بلا لیا، پیچھے معلوم ہوا کہ وہ میرے دشمن کرم سنگھ کا بیٹا اور نہایت شریر آدمی ہے، وہ مجھے اور میری استری کو ضرور خراب کرے گا اور وہ وعدہ کر گیا ہے کہ میں یہ ساری کیفیت خوب شائع کروں گا۔ نہال چند بولا کہ درحقیقت بڑی غلطی ہوئی اور پھر بولا کہ وساواں تیری سمجھ پر نہایت ہی افسوس ہے۔ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ نیوگ کے لیے پہلا حق برہمنوں کا ہے اور غالباً یہ بھی تجھ پر پوشیدہ نہیں ہوگا کہ اس محلہ کی تمام کھترانی عورتیں مجھ سے ہی نیوگ کراتی ہیں اور میں دن رات اسی سیوا میں لگا ہوا ہوں پھر اگر تجھے نیوگ کی ضرورت تھی تو مجھے بلا لیا ہوتا۔ سب کام سدھ ہو جاتا اور کوئی بات نہ نکلتی۔ اس محلہ میں اب تک تین ہزار کے قریب ہندو عورتوں نے نیوگ کرایا ہے مگر کیا کبھی تم نے اس کا ذکر بھی سنا، یہ پردہ کی باتیں ہیں، سب کچھ ہوتا ہے پھر ذکر نہیں کیا جاتا لیکن مہر سنگھ تو ایسا نہیں کرے گا۔ ذرہ دو چار گھنٹوں تک دیکھنا کہ سارے شہر میں رام دئی کے نیوگ کا شور و غوغا ہوگا۔ لالہ دیوٹ بولا کہ درحقیقت مجھ سے سخت غلطی ہوئی۔ اب کیا کروں؟ اس وقت شریر پنڈت نے جو باعث نہ ہونے رسم پردہ کے رام دئی کو دیکھ چکا تھا کہ جوان اور خوش شکل ہے، نہایت بے حیائی کا جواب دیا کہ اگر اسی وقت رام دئی مجھ سے نیوگ کرے تو میں ذمہ دار ہوتا ہوں کہ مہر سنگھ کے فتنہ کو میں سنبھال لوں گا اور پہلا حمل ایک شکی بات ہے۔ اب بہر حال یقینی ہو جائے گا۔ تب وساواں دیوٹ تو اس بات پر بھی راضی ہو گیا مگر رام دئی نے سن کر سخت گالیاں اس کو نکالیں۔ تب وساواں نے پنڈت کو کہا کہ مہاراج اس کا یہی حال ہے، ہرگز نیوگ کرنا نہیں چاہتی۔ پہلے بھی مشکل سے کرایا تھا جس کو یاد کر کے اب تک رو رہی ہے کہ میرا منہ کالا کیا۔ اسی سے تو اس نے چنیں ماری تھی جن کو آپ سن کر دوڑے آئے۔ تب وہ شہوت پرست پنڈت وساواں کی یہ بات سن کر رام دئی کی طرف متوجہ ہوا اور کہا نہیں بھاگو ان نیوگ کو برا نہیں ماننا چاہیے۔ یہ وید آگیا ہے مسلمان بھی تو عورتوں کو طلاق دیتے ہیں اور وہ عورتیں کسی دوسرے سے نکاح کر لیتی ہیں۔ سو جیسے طلاق جیسے نیوگ۔ بات ایک ہی ہے۔“

(آریہ دھرم صفحہ 31 تا 34 مندرجہ ذیل روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 31 تا 34 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 1024, 1025, 1026, 1027 پر)

کہتے ہیں کہ جو کچھ برتن کے اندر ہوتا ہے، وہی باہر نکلتا ہے۔ قادیانی جماعت کا

بانی آنجہانی مرزا قادیانی جس طرح ظاہری طور پر بد صورت تھا، اسی طرح باطنی طور پر بھی بد سیرت تھا۔ قادیانی امت اسے ”سلطان القلم“ کہتی ہے۔ اس پنجابی نبی کی تحریرات کو ملاحظہ کیا جائے تو جا بجا بدکلامی و بدگوئی کی نجاست و غلاظت بکھری ہوئی نظر آئے گی۔ اوپر غلاظت کے ڈھیر میں نمونہ کے طور پر ”سلطان القلم“ کی تحریروں میں سے صرف ایک اقتباس نقل کیا گیا ہے، وگرنہ مرزا قادیانی کی ساری کتابیں ایسی ہی تحریروں سے بھری ہوئی ہیں۔ اس فحش، مخرب اخلاق، حیا سوز، گندی اور بازاری تحریر سے باسانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ یہ کسی شریف انسان کی تحریر نہیں ہو سکتی۔

ہے کوئی قادیانی جو اپنے ”نبی“ کی اس تحریر کو اپنی جوان بیٹیوں اور بہنوں کے سامنے باواز بلند پڑھ سکے؟

جبکہ مرزا قادیانی کا کہنا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا بلکہ وہی کچھ کہتا ہے جو اے اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے۔ اس سلسلہ میں مرزا قادیانی کی نام نہاد وحی ملاحظہ فرمائیں:

(462) ”وما ينطق عن الهوى. ان هو الا وحى يوحى“

(تذکرہ مجموعہ وحی الہامات طبع چہارم، صفحہ 309 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 1028 پر)

**میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا**

مرزا قادیانی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مجھ سے وعدہ کیا:

(463) ”واوحى الى ربي ووعدنى انه سينصرنى حتى يبلغ امرى مشارق

الارض ومغاربها. وتتموج بحورالحق حتى يعجب الناس حباب غواربها.“

ترجمہ: ”میرے رب نے میری طرف وحی بھیجی اور وعدہ فرمایا کہ وہ مجھے مدد دے گا یہاں

تک کہ میرا کلام مشرق و مغرب میں پہنچ جائے گا اور راستی کے دریا موج میں آئیں گے یہاں

تک کہ اس کی موجوں کے حباب لوگوں کو تعجب میں ڈالیں گے۔“

”میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا“

(تذکرہ مجموعہ وحی والہامات صفحہ 260، طبع چہارم، از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 1029 پر)

## (16) سولہواں سوال

## آخری مجدد کون؟

مرزا قادیانی اپنی کتاب میں ایک حدیث نقل کرتا ہے:

(464) ”قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يبعث لهذه الامة على

راس كل مائة سنة من يجدد لها دينها. (رواه ابوداؤد) یعنی خدا ہر ایک صدی کے سر پر

اس امت کے لیے ایک شخص مبعوث فرمائے گا جو اس کے لیے دین کو تازہ کرے گا۔“

(حقیقۃ الوحی صفحہ 193 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 200 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 1030 پر)

مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ تھا کہ میں چودھویں صدی کا مجدد ہوں اور چونکہ

آخری زمانہ جس میں آخری مجدد کو آنا تھا، یہی صدی ہے، اس لیے میں مسیح موعود بھی ہوں۔

لیکن اب چودھویں صدی ختم ہو کر پندرہویں صدی شروع ہو گئی ہے۔ اس لیے ارشاد

نبوی ﷺ کے مطابق اس صدی میں بھی کسی مجدد کا آنا ضروری ہے اور مرزا قادیانی کا یہ دعویٰ

چونکہ وہ چودھویں صدی کا مجدد ہے، اس لیے مسیح موعود بھی ہے، غلط ثابت ہوتا ہے کیونکہ مسیح

موعود تو آخری مجدد ہوگا جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔

اس سلسلہ میں مرزا قادیانی نے مزید لکھا:

(465) ”یہ بھی اہل سنت میں متفق علیہ امر ہے کہ آخری مجدد اس امت کا مسیح موعود ہے جو

آخری زمانہ میں ظاہر ہوگا۔“

(حقیقۃ الوحی صفحہ 193 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 201 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 1031 پر)

وہ تمام قادیانی جنہوں نے غلط فہمی سے مرزا قادیانی کو مسیح موعود مان لیا ہے، وہ

آنحضرت ﷺ کے مندرجہ بالا ارشاد کی روشنی میں بتائیں:

(1) آیا نئی صدی کے لیے کوئی مجدد آئے گا یا نہیں؟

(2) اگر آئے گا اور ضرور آئے گا تو مرزا قادیانی آخری مجدد نہ ہوا؟



اور جب زمانے نے ثابت کر دیا کہ وہ آخری مجدد نہیں تو مسیح موعود بھی نہ ہوا۔  
کیا قادیانیوں میں عقل سلیم کا حامل کوئی ایسا شخص ہے جو آنحضرت ﷺ کے اس  
فرمان پر غور کر کے اپنے عقیدے کی اصلاح کے لیے تیار ہو؟

### (17) سترھواں سوال

#### خدا تعالیٰ کا الہام

مرزا قادیانی نے اپنی کتاب میں انگریزوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے لکھا:  
(466) ”میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ میں تمام مسلمانوں میں سے اول درجہ کا خیر خواہ  
گورنمنٹ انگریزی کا ہوں کیونکہ مجھے تین باتوں نے خیر خواہی میں اول درجہ پر بنا دیا ہے۔ (1)  
اول والد مرحوم کے اثر نے (2) دوم اس گورنمنٹ عالیہ کے احسانوں نے (3) تیسرے خدا  
تعالیٰ کے الہام نے۔“

(مجموعہ اشتہارات جلد دوم صفحہ 357 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 1032 پر)  
قادیانیوں سے سوال ہے کہ خدا تعالیٰ کا وہ الہام بتائیں جس میں مرزا قادیانی کو  
گورنمنٹ انگریزی کا خیر خواہ بننے کے لیے کہا گیا ہو؟

### (18) اٹھارھواں سوال

#### کینے آدمی کی عادت

مرزا قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا:

(467) ”واللہ قد کنت اعلم من ایام مدیدة انی جعلت المسیح ابن مریم  
وانی نازل فی منزله ولكن اخفیتہ نظراً الی تاویلہ. بل ما بدلت عقیدتی و کنت  
علیہا من المستمسکین وتوقفت فی الاظهار عشر سنین.“

ترجمہ: خدا کی قسم! میں بہت دنوں سے جانتا تھا کہ میں مسیح ابن مریم بنایا گیا ہوں  
اور میں ہی مسیح کی بجائے نازل ہونے والا شخص ہوں۔ لیکن میں نے اس کو چھپائے رکھا، اس

کی تاویل کر کے، بلکہ میں نے اپنا عقیدہ بھی نہیں بدلا۔ میں اس پر مضبوطی سے قائم رہا ہوں اور میں نے اس کے ظاہر کرنے میں دس (10) سال توقف کیا ہے۔“

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ 551 مندرجہ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 551 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 1033 پر)

بقول مرزا قادیانی اللہ تعالیٰ نے اُسے ”صبح ابن مریم“ کا منصب عطا کیا۔ مگر مرزا قادیانی نے اُسے 10 سال تک چھپائے رکھا۔ اب قادیانی بتائیں کہ اللہ کے حکم کو چھپانے والا کون ہوتا ہے؟ خائن..... جھوٹا..... کمینہ..... یا صبح موعود؟؟؟  
جبکہ مرزا قادیانی کا کہنا ہے:

(468) ترجمہ: ”اخفا کرنا میرے نزدیک گناہ ہے اور کمینے آدمی کی عادت ہے۔“

(ترجمہ: الاستثناء صفحہ 36 ملحقہ حقیقۃ الوحی ص 657 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 ص 657 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 1034 پر)

## (19) ایشیواں سوال

### تھیٹر

آنجنابی مرزا قادیانی کا خاص مرید مفتی محمد صادق اپنی کتاب ”ذکر حبیب“ میں مرزا قادیانی کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے:

(469) ”حضرت صبح موعود (مرزا قادیانی) کے امر ترس جانے کی خبر سے بعض اور احباب بھی مختلف شہروں سے وہاں آ گئے۔ چنانچہ کپور تھلہ سے محمد خاں صاحب اور منشی ظفر احمد صاحب بہت دنوں وہاں ٹھہرے رہے۔ گرمی کا موسم تھا۔ اور منشی صاحب اور میں ہر دو نحیف البدن اور چھوٹے قد کے آدمی ہونے کے سبب ایک ہی چار پائی پردوں لپیٹ جاتے تھے۔ ایک شب دس بجے کے قریب میں تھیٹر میں چلا گیا، جو مکان کے قریب ہی تھا۔ اور تماشہ ختم ہونے پر دو بجے رات کو واپس آیا۔ صبح منشی ظفر احمد صاحب نے میری عدم موجودگی میں حضرت صاحب کے پاس میری شکایت کی کہ مفتی صاحب رات تھیٹر چلے گئے تھے۔ حضرت صاحب نے فرمایا۔ ایک دفعہ ہم بھی گئے تھے تاکہ معلوم ہو کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ اس کے سوا

اور کچھ نہیں فرمایا۔ منشی ظفر احمد صاحب نے خود ہی مجھ سے ذکر کیا کہ میں تو حضرت صاحب کے پاس آپ کی شکایت لے کر گیا تھا اور میرا خیال تھا کہ حضرت صاحب آپ کو بلا کر تنبیہ کریں گے مگر حضور نے تو صرف یہی فرمایا کہ ایک دفعہ ہم بھی گئے تھے۔“

(ذکر حبیب صفحہ 18 از مفتی محمد صادق قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 1035 پر)

تھیٹر اور سینما گھر ایک ہی برائی کے دو نام ہیں۔ سینما گھر میں پہلے سے تیار شدہ فلم دکھائی جاتی ہے جبکہ تھیٹر میں مختلف کردار شیخ پر براہ راست اپنی پر فارمنس ادا کرتے ہیں۔ تھیٹر میں جو خرافات، فحاشی، لچر پن، بے ہودہ باتیں اور ناچ وغیرہ ہوتا ہے، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ قدرت کی طرف سے ساری دنیا کو حکم ہے کہ وہ برائی کے پاس نہ جائے جبکہ برائی کو یہ حکم ہے کہ وہ نبی یا رسول کے پاس نہ جائے کیونکہ وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ مرزا قادیانی کا یہ اعتراف کہ ایک دفعہ وہ بھی تھیٹر دیکھنے گیا تھا، ان لوگوں کے منہ پر طمانچہ اور لمحہ فکریہ ہے جو اسے نبی، رسول، مسیح موعود، مہدی یا مجدد وغیرہ مانتے ہیں۔ قادیانی بتائیں کہ نبوت و رسالت کے دعویدار مرزا قادیانی کا تھیٹر دیکھنا ایک قبیح حرکت ہے یا نہیں؟

## (20) بیسواں سوال

### پانچ اور پچاس کا قادیانی فرق

مرزا قادیانی نے شروع شروع میں ایک عالم کا روپ دھارا اور اعلان کیا کہ وہ عیسائیت، ہندومت اور آریہ سماج کے عقائد کے خلاف کتاب لکھے گا جس میں ان مذکورہ مذاہب کا ابطال اور صداقت اسلام پر 300 مضبوط اور محکم عقلی دلائل ہوں گے۔ (مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 38 از مرزا قادیانی) اور یہ کتاب پچاس جلدوں پر مشتمل ہوگی جس کے تقریباً 4800 صفحات ہوں گے۔ (برکات الدعا صفحہ 41 مندرجہ روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 41 از مرزا قادیانی) مرزا قادیانی نے اعلان کیا کہ تمام مسلمان مخیر حضرات اس کی طباعت وغیرہ کے لیے پیشگی رقوم ارسال کریں۔ مرزا قادیانی نے کہا کہ اس کتاب کی فی جلد پر 25 روپے خرچ آیا ہے لیکن مسلمانوں میں یہ کتاب پھیلانے کے لیے اس کی رعایتی قیمت صرف 5 روپے رکھی ہے۔ (براہین احمدیہ حصہ اول صفحہ 2 از مرزا قادیانی) بعد ازاں اس نے فی جلد 5 روپے کے بجائے 10 روپے رکھ دی۔ (مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 19، طبع جدید از مرزا قادیانی) یاد رہے

کہ ان دنوں ایک روپے کا سولہ کلو گوشت ملتا تھا۔ (سیرت المہدی جلد اول صفحہ 182 از مرزا بشیر احمد ایم اے ابن مرزا قادیانی) آج کل گوشت کی قیمت 400 روپے ہے۔ اس طرح اس دور کے 10 روپے آج کے 64,000 روپے کے برابر ہیں۔ مرزا قادیانی کے مسلسل اور بھرپور پروپیگنڈے کے نتیجے میں مخیر حضرات جن میں نواب شاہ جہاں بیگم والی ریاست بھوپال اور خلیفہ سید محمد حسن خاں بہادر وزیراعظم و دستور معظم ریاست پٹیالہ وغیرہ شامل ہیں، نے اس دور میں اسلام کی خاطر ہزاروں روپے کی اعانت کی جس کی موجودہ قیمت کروڑوں روپے میں بنتی ہے۔

مرزا قادیانی کے بیان کے مطابق لوگوں نے پچاس جلدوں کی اشاعت کی رقم پیشگی بھجوادی۔ مرزا قادیانی نے ”براہین احمدیہ“ کے نام سے اس کتاب کو لکھا۔ 5 جلدیں (1101 صفحات) مکمل ہونے پر اعلان کر دیا کہ چونکہ 5 اور 50 میں صرف صفر کا فرق ہے، اس لیے پانچویں جلد کے ساتھ ہی ان کا پچاس جلدیں لکھنے کا وعدہ پورا ہو گیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے مرزا قادیانی کی مضحکہ خیز دلیل!

(470) ”پہلے پچاس حصے لکھنے کا ارادہ تھا مگر پچاس سے پانچ پر اکتفا کیا گیا اور چونکہ پچاس اور پانچ کے عدد میں صرف ایک نقطہ کا فرق ہے، اس لیے پانچ حصوں سے وہ وعدہ پورا ہو گیا۔“  
(براہین احمدیہ حصہ پنجم دیباچہ صفحہ 7 مندرجہ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 9 از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 1036 پر)

عجیب بات ہے کہ:

1- جس کتاب میں حقیقت اسلام ثابت کرنے کے لیے 300 دلائل ہونا تھے، اس میں صرف ایک ہی دلیل بیان ہوئی، اور وہ بھی ناکمل (سیرت المہدی جلد اول صفحہ 111، 112 از مرزا بشیر احمد ایم اے)

2- پچاس جلدیں لکھنے کا وعدہ کیا گیا تھا مگر صرف 5 جلدیں تحریر کیں۔

3- 4800 صفحات لکھنے کا وعدہ کیا گیا تھا مگر صرف 1101 صفحات تحریر کیے۔

4- بعض قادیانی اس فراڈ کی توجیہ اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی

کریم ﷺ سے فرمایا تھا کہ میں آپ کی امت کو 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر دوں گا۔ لہذا یہ اللہ کی سنت ہے۔ قادیانیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 کے بدلے 50 کا ثواب دینے کا وعدہ کیا لیکن مرزا قادیانی نے 50 جلدوں کی جگہ 5 دیں۔ اگر 5 جلدوں کی قیمت لے کر 50 جلدیں دی ہوتیں تو بات بھی بنتی یہاں تو اس نے صریح دھوکا کیا ہے۔ مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر احمد ایم اے لکھتا ہے کہ باقی جلدوں کی اشاعت خدا تعالیٰ کے حکم سے رک گئی۔ (سیرت المہدی جلد اول صفحہ 111، 112 از مرزا قادیانی) سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکم لوگوں سے مال بٹورنے سے پہلے آنا چاہیے تھا، بعد میں کیوں آیا؟ قادیانی بتائیں کیا یہ فراڈ نہیں ہے؟ کیا یہ کاروبار اخلاقیات کے عین مطابق ہے؟ اگر یہ نوسر بازی نہیں ہے تو کیا وہ یہ پسند کریں گے کہ وہ کسی کو 50 روپے دیں اور انھیں واپسی صرف 5 روپے کی ہو؟ اور جواباً کہا جائے کہ 5 اور 50 میں کوئی فرق نہیں۔

## (21) اکیسواں سوال

### نماز میں فارسی نظم

مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر احمد ایم اے اپنی کتاب سیرت المہدی میں لکھتا ہے:

(471) ”ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ گرمیوں میں مسجد مبارک میں مغرب کی نماز پیر سراج الحق صاحب نے پڑھائی۔ حضور (مرزا قادیانی) بھی اس نماز میں شامل تھے۔ تیسری رکعت میں رکوع کے بعد انہوں نے بجائے مشہور دعاؤں کے حضور کی ایک فارسی نظم پڑھی، جس کا یہ مصرعہ ہے:

”اے خدا اے چارہ آزار ما“

خاکسار عرض کرتا ہے کہ یہ فارسی نظم نہایت اعلیٰ درجہ کی مناجات ہے جو روحانیت

سے ہے۔“

(سیرت المہدی، جلد سوم صفحہ 138 از مرزا بشیر احمد ایم اے ابن مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 1037 پر)

نماز اسلام کی اہم ترین عبادت ہے۔ اس میں پڑھی جانے والی دعائیں وغیرہ قرآن و سنت سے ثابت شدہ ہیں اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ قادیانی اپنی نمازوں میں مرزا قادیانی کی نظمیں بڑے شوق سے پڑھتے ہیں۔  
 قادیانی بتائیں کہ کیا نمازوں میں فارسی نظمیں پڑھنا قرآن و سنت سے ثابت ہے اور کیا اس سے نماز فاسد ہوتی ہے یا نہیں؟؟

## (22) بائیسواں سوال

### بلا عنوان

آنجنہانی مرزا غلام احمد قادیانی کا اپنی ذات کے متعلق ایک شعر ہے۔

”کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں (472)

ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار“

(براہین احمدیہ، حصہ پنجم، صفحہ 97، مندرجہ روحانی خزائن جلد 21، صفحہ 127، از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 1038 پر)

مرزا قادیانی کا کہنا ہے کہ وہ خاک کا کثیرا لکھڑا ہے۔ وہ کسی انسان کی اولاد نہیں بلکہ وہ آدمی کی باعث شرم اور نفرت والی جگہ ہے۔ انسان کی جائے نفرت دو تین قسم کی ہوتی ہیں، نجانے مرزا قادیانی کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟؟؟ ہمیں تو اس شعر کی تشریح کرتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے۔ قادیانیوں کا کہنا ہے کہ اس شعر میں مرزا قادیانی نے اپنے عجز و انکسار کا اظہار کیا ہے۔ بھلا یہ کہاں کا عجز و انکسار ہے کہ ایک شخص اپنے انسان ہونے سے ہی انکار کر دے اور انسان کی قابل نفرت جگہ ہونے کا اقرار کرے۔ قادیانیوں سے سوال ہے کہ کیا وہ اپنے مکانوں، دکانوں اور عبادت گاہوں پر یہ شعر جلی حروف میں لکھوا سکتے ہیں تاکہ ان کا عجز و انکسار بلکہ ان کا باطنی تذلل دوسروں پر واضح ہو جائے؟

## (23) تیسواں سوال

### مسیح موعود اور اس کی توہین

(473) ”لیکن ضرور تھا کہ قرآن شریف اور احادیث کی وہ پیشگوئیاں پوری ہوتیں جن میں

لکھا تھا کہ مسیح موعود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علما کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا۔ وہ اس کو کافر قرار دیں گے اور اس کے قتل کے لیے فتوے دیے جائیں گے اور اس کی سخت توہین کی جائے گی اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا۔“

(اربعین صفحہ 18 مندرجہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 404 از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 1039 پر) قرآن و حدیث میں ایسا کوئی ذکر نہیں۔ یہ خالص جھوٹ ہے۔ ہے کوئی قادیانی جو ہمیں یہ بتا سکے کہ یہ پیشگوئیاں قرآن کریم کے کون سے پارہ، کون سی سورت اور کون سے رکوع میں لکھی ہیں یا حدیث کی کون سی کتاب کے کون سے باب میں درج ہیں؟؟

## (24) چوبیسواں سوال

### ادھر ادھر

(474) ”بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ ایک دفعہ اپنی جوانی کے زمانہ میں حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) تمہارے دادا کی پنشن وصول کرنے گئے تو پیچھے پیچھے مرزا امام الدین بھی چلا گیا۔ جب آپ نے پنشن وصول کر لی تو وہ آپ کو پھسلا کر اور دھوکہ دے کر بجائے قادیان لانے کے، باہر لے گیا اور ادھر ادھر پھراتا رہا۔ پھر جب اس نے سارا روپیہ اڑا کر ختم کر دیا تو آپ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا۔ حضرت مسیح موعود اس شرم سے واپس گھر نہیں آئے (بے شرمی کا کام نہ کرتے!) اور چونکہ تمہارے دادا کا منشا رہتا تھا کہ آپ کہیں ملازم ہو جائیں، اس لیے آپ سیالکوٹ شہر میں ڈپٹی کمشنر کی کچھری میں قلیل تنخواہ پر ملازم ہو گئے۔“

..... ”والدہ صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ ہمیں چھوڑ کر پھر مرزا امام الدین ادھر ادھر پھرتا رہا۔ آخر اس نے چائے کے ایک قافلہ پر ڈاکہ مارا اور پکڑا گیا مگر مقدمہ میں رہا ہو گیا۔ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ معلوم ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری (”خدمت خاص“ کی) وجہ سے ہی اسے قید سے بچا لیا ورنہ خواہ وہ خود کیسا ہی آدمی تھا، ہمارے مخالف یہی کہتے کہ ان کا ایک چچا زاد بھائی جیل خانہ میں رہ چکا ہے۔“

(سیرت الہدی، جلد اول صفحہ 43، 44 از مرزا بشیر احمد ایم اے ابن مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 1040، 1041 پر)

یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ مرزا قادیانی کا چچا زاد بھائی امام الدین نہ صرف بے دین اور دہریہ طبع بلکہ بھنگی چڑی تھا۔ مرزا قادیانی ادھر ادھر اس کے ساتھ پھرتا رہا تو اس سفر کی روشنی میں مرزا قادیانی کا کردار بھی واضح ہو گیا ہے۔

کندہم جنس باہم جنس پرواز..... کیوتربا کیوترباز باباز

اس وقت مرزا قادیانی کی عمر 24، 25 سال تھی۔ پنشن کی رقم معمولی رقم نہ تھی بلکہ 700 روپے تھی۔ (سیرت المہدی جلد اول صفحہ 131) ان دنوں ایک آنہ کا ایک کلو گوشت ملتا تھا۔ (سیرت المہدی جلد اول صفحہ 182) آج کل گوشت 400 روپے کلو ہے۔ گویا اس دور کا ایک روپیہ (6400=16×400) آج کے 6 ہزار 4 سو روپے کے برابر ہے۔ سات سو روپے پنشن آج کل کی 44 لاکھ 40 ہزار روپے کی خطیر رقم بنتی ہے۔ قادیانیوں سے سوال ہے کہ مرزا قادیانی کی عمر اور پنشن کی رقم ذہن میں رکھ کر بتائیں:

1- اتنی خطیر رقم کہاں خرچ ہوئی؟

2- ادھر ادھر پھرانے کا کیا مطلب ہے؟

3- مرزا قادیانی نے کون سا بے شرمی کام کیا تھا کہ شرمندگی کا مارا گھرواپس نہ آیا؟

4- کیا اتنی بھاری رقم صرف کھانے پینے میں صرف ہو سکتی ہے؟

## (25) پچیسواں سوال

### ٹپھی ٹپھی

(475) ”5 مارچ 1905ء کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص جو فرشتہ معلوم ہوتا تھا، میرے سامنے آیا اور اس نے بہت سا روپیہ میرے دامن میں ڈال دیا۔ (بلی کو خواب چھپڑوں کے) میں نے اس کا نام پوچھا اس نے کہا، نام کچھ نہیں، میں نے کہا آخر کچھ تو نام ہوگا۔ اس نے کہا میرا نام ہے ٹپھی۔ ٹپھی پنجابی زبان میں وقت مقررہ کو کہتے ہیں یعنی عین ضرورت کے وقت پر آنے والا۔ تب میری آنکھ کھل گئی۔“

(حقیقۃ الوحی صفحہ 332، مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 346 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 1042 پر)



مرزا قادیانی کے فرشتے کا نام ٹیچی ٹیچی ہے۔ جب قادیانیوں سے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ ”ٹیچ“ سے بنا ہے جس کا مطلب تیز رفتار ہے۔ یہ فرشتہ ٹیچ کر کے مرزا قادیانی کا پیغام اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاتا ہے اور ٹیچ کر کے واپس آتا ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان کسی قادیانی کو ازراہ مذاق ”ٹیچی ٹیچی“ کہتا ہے تو وہ غصہ سے آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ کئی قادیانی اساتذہ نے طلبہ کی طرف سے بلیک بورڈ پر ”ٹیچی ٹیچی“ لکھنے یا کورس کے انداز میں با آواز بلند ٹیچی ٹیچی کہنے پر اپنے تباد لے کر والیے ہیں۔ (آزمائش شرط ہے!) جس کی وجہ بظاہر ہمیں نظر نہیں آتی۔ حالانکہ انہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ مسلمان ان کے فرشتے کا نام لے رہے ہیں۔

مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ فرشتے کبھی جھوٹ نہیں بولتے جبکہ مرزا قادیانی کا فرشتہ ٹیچی ٹیچی جھوٹ بولتا ہے۔ پہلے اس نے کہا کہ میرا نام کچھ نہیں پھر کہا کہ میرا نام ٹیچی ہے۔ قادیانیوں سے سوال ہے کہ کیا وہ مرزا قادیانی کے فرشتے ٹیچی ٹیچی پر ایمان رکھتے ہیں؟ اگر وہ ایمان رکھتے ہیں تو پھر مسلمانوں کے ٹیچی ٹیچی کہنے پر وہ کیوں چڑتے ہیں؟؟

سچ کہا ہے کسی نے: جیسی روح ویسے فرشتے!

## (26) چھبیسواں سوال

### اسلام میں نیچی قومیں

مرزا قادیانی اپنی کتاب میں لکھتا ہے:

(476) ”ایک وہ جو دوسروں کی اصلاح کے لیے مامور نہیں ہوتے بلکہ ان کا کاروبار اپنے نفس تک ہی محدود ہوتا ہے اور ان کا کام صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر دم اپنے نفس کو ہی زہد اور تقویٰ اور اخلاص کا صیقل دیتے رہتے ہیں اور حتی الوسع خدا تعالیٰ کی ادق سے ادق رضامندی کی راہوں پر چلتے اور اُس کے باریک وصایا کے پابند رہتے ہیں اور ان کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کسی ایسے عالی خاندان اور عالی قوم میں سے ہوں جو علونسب اور شرافت اور نجابت اور امارت اور ریاست کا خاندان ہو بلکہ حسب آیتہ کریمہ ان اکرمکم عند اللہ اتقکم صرف ان کی تقویٰ دیکھی جاتی ہے گو وہ دراصل چوہڑوں میں سے ہوں یا چماروں میں سے۔“

یا مثلاً کوئی ان میں سے ذات کا کنجر ہو جس نے اپنے پیشہ سے توبہ کر لی ہو یا ان قوموں میں سے ہو جو اسلام میں دوسری قوموں کے خادم اور نیچی قومیں سمجھی جاتی ہیں۔ جیسے حجام، موچی، تلی، ڈوم، میراسی، سقے، قصائی، جولاہے، کنجری، تنبولی، دھوبی، مچھوے، بھڑ بھونجے، نانباکی وغیرہ یا مثلاً ایسا شخص ہو کہ اس کی ولادت میں ہی شک ہو کہ آیا حلال کا ہے یا حرام کا؟ یہ تمام لوگ توبہ نصوح سے اولیاء اللہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔“

(تریاق القلوب صفحہ 149 مندرجہ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 277 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 1043 پر)

اسلام اخوت اور مساوات کا دین ہے۔ حضور خاتم النبیین ﷺ نے اپنے آخری خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، سوائے تقویٰ کے۔ آنجہانی مرزا قادیانی کا کہنا ہے کہ اسلام میں بعض قومیں نیچی سمجھی جاتی ہیں جو قطعاً جھوٹ اور بہتان ہے۔ قادیانیوں سے سوال ہے کہ قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ اسلام میں بعض قومیں نیچی سمجھی جاتی ہیں؟؟

## (27) ستائیسواں سوال

### حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور صلیب

(477) ”حضرت مسیح علیہ السلام وہ انسان تھے جو مخلوق کی بھلائی کے لیے صلیب پر چڑھے۔ گو خدا کے رحم نے ان کو بچا لیا اور مرہم عیسیٰ نے ان کے زخموں کو اچھا کر کے آخر کشمیر جنت نظیر میں ان کو پہنچا دیا۔ سوانہوں نے سچائی کے لیے صلیب سے پیار کیا اور اس طرح اُس پر چڑھ گئے جیسا کہ ایک بہادر سوار خوش عنان گھوڑے پر چڑھتا ہے۔ سو ایسا ہی میں بھی مخلوق کی بھلائی کے لیے صلیب سے پیار کرتا ہوں۔“

(تریاق القلوب صفحہ 370، 371 مندرجہ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 498، 499 از مرزا قادیانی)

(عکس صفحہ نمبر 1044، 1045 پر)

یہودیوں اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھے جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-


وما قتلوه وما صلبوه (النساء: 157)

یعنی نہ انھیں (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) قتل کیا گیا اور نہ انھیں صلیب دیا گیا۔  
اس کے برعکس آنجہانی مرزا قادیانی کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر  
چڑھے۔ قادیانی بتائیں کہ کیا مرزا قادیانی کا مذکورہ بالا عقیدہ قرآن مجید کے خلاف ہے یا نہیں؟؟

(28) اٹھائیسواں سوال

قادیانی کلمہ کی حقیقت

یہ تصویر نائیجیریا (افریقہ) میں قادیانیوں کی بڑی عبادت گاہ ”احمدیہ سنٹرل ماسک“  
کی ہے، جو قادیانی جماعت کے تیسرے خلیفہ مرزا ناصر احمد کے دورہ افریقہ پر تصویری کتاب



”AFRICA SPEAKS“ سے لی گئی ہے۔ قادیانیوں کی اس عبادت گاہ پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بجائے لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، جس کا ترجمہ ہے ”اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، احمد (مرزا غلام احمد قادیانی) اللہ کے رسول ہیں۔“ قادیانی کلمہ کی مزید وضاحت مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود کے مندرجہ ذیل اقتباس سے ہو جاتی ہے۔

### احمد سے مراد مرزا قادیانی

(478) ”اور اس آنے والے (مرزا قادیانی) کا نام جو احمد رکھا گیا ہے، وہ بھی اس کے مثل ہونے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ محمد جلالی نام ہے اور احمد جمالی۔ اور احمد اور عیسیٰ اپنے جمالی معنوں کے رُو سے ایک ہی ہیں۔ اسی کی طرف یہ اشارہ ہے و مبشراً برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد مگر ہمارے نبی ﷺ فقط احمد ہی نہیں بلکہ محمد بھی ہیں یعنی جامع جلال و جمال ہیں لیکن آخری زمانہ میں بر طبق پیش گوئی مجرد احمد جو اپنے اندر حقیقت عیسویت رکھتا ہے، بھیجا گیا۔“ (ازالہ اوہام صفحہ 673 مندرجہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 463 از مرزا قادیانی)

اس عبارت سے ظاہر ہے کہ آپ (مرزا قادیانی) اس آیت کا مصداق اپنے آپ کو ہی قرار دیتے ہیں کیونکہ آپ نے اس میں دلیل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ اگر رسول کریم ﷺ اس جگہ مراد ہوتے تو محمد و احمد کی پیش گوئی ہوتی۔ لیکن یہاں صرف احمد کی پیش گوئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی اور شخص ہے جو مجرد احمد ہے۔ پس یہ حوالہ صاف طور پر ثابت کر رہا ہے کہ آپ (مرزا قادیانی) احمد تھے بلکہ یہ کہ اس پیش گوئی کے آپ ہی مصداق ہیں۔“ (انوار خلافت صفحہ 37 مرزا بشیر الدین محمود ابن مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 1046 پر)

قادیانیوں سے سوال ہے کہ کیا انہوں نے کلمہ طیبہ تبدیل کر لیا ہے؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو بتائیں کہ وہ اپنی دوسری عبادت گاہوں پر ایسا کلمہ تحریر کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر جواب نہیں میں ہے تو بتائیں کہ انہوں نے افریقہ کی عبادت گاہ پر ایسا کلمہ تحریر کیوں کیا؟


## (29) اثیسواں سوال

## اکھنڈ بھارت

یہ تصویر پاکستان میں قادیانیوں کے مرکز ربوہ ضلع جھنگ کے قادیانی قبرستان میں نصرت جہاں بیگم (مرزا قادیانی کی بیوی) اور مرزا بشیر الدین محمود کی بیوی کی قبروں کی ہے جن پر مرزا بشیر الدین محمود کے حسب ذیل فرمودات کا بورڈ آویزاں ہے۔

”ارشاد حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ“

□ ”جماعت کو نصیحت ہے کہ جب بھی ان کو توفیق ملے، حضرت ام المومنین (مرزا قادیانی کی بیوی) اور دوسرے اہل بیت (مرزا قادیانی کے گھر والے) کی نعشوں کو مقبرہ بہشتی قادیان میں لے کر جا کر دفن کریں، چونکہ مقبرہ بہشتی کا قیام اللہ تعالیٰ کے الہام سے ہوا ہے، اس میں حضرت ام المومنین اور خاندان حضرت مسیح موعود کے دفن کرنے کی پیشگوئی ہے، اس لیے یہ بات فرض کے طور پر ہے، جماعت کو اسے کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔“



ایک اور موقع پر مرزا بشیر الدین محمود نے کہا تھا:

(479) ”ہندوستان جیسی مضبوط بیس جس قوم کو مل جائے، اس کی کامیابی میں کوئی شک نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کی اس مشیت سے کہ اس نے احمدیت کے لیے اتنی وسیع بیس مہیا کی ہے پتہ لگتا ہے کہ وہ سارے ہندوستان کو ایک سٹیج پر جمع کرنا چاہتا ہے اور سب کے گلے میں احمدیت کا جوا ڈالنا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہندو مسلم سوال اٹھ جائے اور ساری قومیں شکر ہو کر رہیں تا ملک کے حصے بخرے نہ ہوں بے شک یہ کام بہت مشکل ہے۔ مگر اس کے نتائج بھی بہت شاندار ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ساری قومیں متحد ہوں تا احمدیت اس وسیع بیس پر ترقی کرے چنانچہ اس رویا میں اسی طرف اشارہ ہے، ممکن ہے عارضی طور پر افتراق پیدا ہو، اور کچھ وقت کے لیے دونوں قومیں جدا جدا رہیں مگر یہ حالت عارضی ہوگی اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جلد دور ہو جائے۔“

(قادیانی خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود کی تقریر، روزنامہ الفضل قادیان 5 اپریل 1947ء صفحہ 3)  
(عکس صفحہ نمبر 1049, 1050 پر)

(480) ”میں قبل ازیں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہندوستان کو اکٹھا رکھنا چاہتی ہے، لیکن اگر قوموں کی غیر معمولی منافرت کی وجہ سے عارضی طور پر الگ بھی کرنا پڑے تو یہ اور بات ہے، بسا اوقات عضو ماؤف کو ڈاکٹر کاٹ دینے کا بھی مشورہ دیتے ہیں لیکن یہ خوشی سے نہیں ہوتا بلکہ مجبوری اور معذوری کے عالم میں اور صرف اسی وقت جب اس کے بغیر چارہ نہ ہو۔ اور اگر پھر یہ معلوم ہو جائے کہ اس ماؤف عضو کی جگہ نیا لگ سکتا ہے تو کون جامل انسان اس کے لیے کوشش نہیں کرے گا۔ اس طرح ہندوستان کی تقسیم پر اگر ہم رضامند ہو سکتے ہیں تو خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری سے، اور پھر یہ کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح جلد متحد ہو جائے۔“

(قادیانی خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود کی تقریر، روزنامہ الفضل قادیان 16 مئی 1947ء صفحہ 2)  
(عکس صفحہ نمبر 1047, 1048 پر)

یہ ایک حقیقت ہے کہ قادیانی آزادی سے پہلے پاکستان کے کھلے دشمن تھے اور

پاکستان بننے کے بعد بھی وہ اس کو نقصان پہنچانے سے باز نہیں آتے۔ مذکورہ بالا اقتباسات پاکستان کے خلاف قادیانیوں کی بھیانک سازشوں کے بین ثبوت ہیں۔ اس سے بڑی غداری اور بغاوت اور کیا ہو سکتی ہے۔ انھیں پڑھنے کے بعد ہر محبت وطن پاکستانی کی آنکھیں کھل جانی چاہئیں۔ ہر قادیانی سب سے پہلے اپنی جماعت اور خلیفہ کا وفادار ہے، بعد میں کسی اور کا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے خلیفہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پاکستان کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا کر اپنا فرض پورا کر رہے ہیں تاکہ یہ جلد ختم ہو کر اکھنڈ بھارت بن جائے یوں ان کے خلیفہ کا خواب پورا ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کا دیرینہ مطالبہ ہے پاک فوج کو قادیانیوں سے پاک کیا جائے کیونکہ وہ جہاد کے منکر ہیں جبکہ جہاد ہماری فوج کا موٹو ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھارت کے خلاف جنگ میں پاک فوج میں شامل قادیانی کیا کردار ادا کریں گے؟ اپنے کمانڈر کا حکم مانیں گے یا اپنے خلیفہ کا؟ قادیانی بتائیں کہ کیا مذکورہ بالا اقتباسات پاکستان سے غداری ہے یا حب الوطنی؟؟

### (30) تیسواں سوال

### مرزا قادیانی کی تصویر

یہ مرزا قادیانی کی تصویر ہے جس کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی اور رسول ہے، تمام انبیاء کرام کا مجموعہ ہے، بلکہ خود محمد رسول اللہ ہے (نعوذ باللہ)! اللہ کا نبی اپنے دور میں تمام انسانوں سے زیادہ خوبصورت اور

حسین و جمیل ہوتا ہے۔ وہ اپنے حسن کی زکوٰۃ تقسیم کرے تو پوری کائنات صاحبِ حیثیت ہو جائے۔



قادیانی بتائیں کہ کیا نبی اس شکل کے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود مبعوث کیا ہو اور ان کی موت بیت الخلا میں ہوئی ہو۔ (نعوذ باللہ)۔ ہمیں تو یہ رنجیت سنگھ کی تصویر لگتی ہے۔؟؟ (مہاراجا رنجیت سنگھ سے معذرت کے ساتھ)!





قیامت حاضر ہیں!

عکسی شہادتیں



## مجھے ضرور پڑھیے!!!

### مناظرہ کی کتاب

(481) ”اس پراگندہ وقت میں وہی مناظرہ کی کتاب روحانی جمعیت بخش سکتی ہے کہ جو بذریعہ تحقیق عمیق کے اصل ماہیت کے باریک دقیقہ کی تہہ کو کھولتی ہو اور اس حقیقت کے اصل قرار گاہ تک پہنچاتی ہو کہ جس کے جاننے پر دلوں کی تشفی موقوف ہے۔“  
(مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 56 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 1051 پر)

### زبانی تبلیغ نہیں بلکہ تحریر پیش کرنی چاہیے

(482) ”وہ لوگ جو اشاعت اور تبلیغ کے واسطے باہر جاویں۔ وہ ایسے نہ ہوں کہ الٹ پلٹ کر ہماری باتوں کو کچھ اور کا اور ہی بناتے رہیں اور بات تو کچھ اور ہو سمجھانے کچھ اور لگ جاویں۔ دوسروں کو تو ہمارے دعویٰ سے آگاہ کریں اور خود ہماری کتابوں کو کبھی پڑھا بھی نہ ہو۔ اس طرح سے ہی تحریف ہوا کرتی ہے۔ ایسے وقتوں میں صرف زبانی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ تحریر پیش کرنی چاہیے۔“

(ملفوظات جلد پنجم صفحہ 328 طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 1052 پر)

### غور و فکر کرنے کی نصیحت

(483) ”اصل بات یہ ہے کہ جب تک انسان کسی بات کو خالی الذہن ہو کر نہیں سوچتا اور تمام پہلوؤں پر توجہ نہیں کرتا اور غور سے نہیں سنتا، اس وقت تک پرانے خیالات نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے جب آدمی کسی نئی بات کو سنے تو اسے یہ نہیں چاہیے کہ سنتے ہی اس کی مخالفت کے لیے

تیار ہو جائے بلکہ اس کا فرض ہے کہ اُس کے سارے پہلوؤں پر پورا فکر کرے اور انصاف اور دیانت اور سب سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کے خوف کو مد نظر رکھ کر تنہائی میں اس پر سوچے۔“  
(ملفوظات جلد دوم صفحہ 355 طبع جدید، از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ نمبر 1053 پر)

## مسخ شدہ لوگوں کی علامت

(484) ”یہودی لوگ جو مورد لعنت ہو کر بندر اور سور ہو گئے تھے۔ ان کی نسبت بھی تو بعض تفسیروں میں یہی لکھا ہے کہ بظاہر وہ انسان ہی تھے لیکن ان کی باطنی حالت بندروں اور سوروں کی طرح ہو گئی تھی اور حق کے قبول کرنے کی توفیق بکلی اُن سے سلب ہو گئی تھی اور مسخ شدہ لوگوں کی یہی تو علامت ہے کہ اگر حق کھل بھی جائے تو اس کو قبول نہیں کر سکتے۔“  
(مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 325، طبع جدید از مرزا قادیانی) (عکس صفحہ 1054 پر)

## تعصب

(485) ”تعصب ایک ایسی بلا ہے جو غور کرنے نہیں دیتا“  
(چشمہ معرفت ص 68 مندرجہ روحانی خزائن ج 23 ص 436، از مرزا قادیانی)  
(عکس صفحہ نمبر 1055 پر)

وہ شرم ہے، کہ ان کو ہے آئینے سے نفرت  
خود دیکھنا اپنا بھی گوارا نہیں کرتے



# سُنَنُ الدَّارِقُطِيِّ

تأليف

شيخ الإسلام حافظ عصره . الفذني علم الحديث ومعرفة علماء ورجال

الإمام الكبير علي بن عمر الدارقطني

المولود سنة ٢٠٦ والمتوفى سنة ٢٨٥ هـ

وبذيله

التعليق لمغني عن الدارقطني

تأليف

المحدث العلامة

أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

الجزء الأول

عند المكتبة

بيروت

الطبعة الرابعة  
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

بيروت - المزرعة بمنطقة الامان - المطابع الاول - ص.ب. ٨٧٢٣  
للسون : ٣٠٦٦٦٦ - ٣١٥١٤٢ - ٣١٢٨٥٩ - برقية : ناهيلكمي - لفس : ٣٣٩٠



# تذکرہ

مجموعہ

الہامات، کشوف و رویا

حضرت مرزا غلام احمد قادیانی

مسیح موعود و مہدی مہرود علیہ السلام

# مکتوبات احمد

حضرت مرزا غلام احمد قادیانی  
 مسیح موعود و مہدی معہود علیہ الصلوٰۃ والسلام

کے

خطوط اور مکاتیب

جلد اول

# ملفوظات

حضرت مزارعہ علامہ احمد قادیانی

سیح مورود و مہدی مہود

بانی جماعت احمدیہ



# ملفوظات

حضرت مرزا غلام احمد قادیانی

سیخ مودود مہدی مہود

بانی جماعت احمدیہ

جلد دوم

# ملفوظات

حضرت مرزا غلام احمد قادیانی

سیح موعود و مہدی مہود

بانی جماعت احمدیہ

جلد سوم

# ملفوظات

حضرت مرزا غلام احمد قادیانی

سیح موعود و مہدی مہود

بانی جماعت احمدیہ

آغاز معی ۱۹۰۳ء تا اواخر ۱۹۰۵ء

جلد چہارم

# ملفوظات

حضرت مرزا غلام احمد قادیانی

سیخ مولود و مہدی مہود

بانی جماعت احمدیہ

جنوری ۱۹۰۶ء تا مئی ۱۹۰۸ء

جلد پنجم

مجموعہ

# اشتیارات

حضرت مرزا غلام احمد قادیانی

مسیح موعود و مہدی مہرود علیہ السلام

جلد اول

مجموعه

# اشتہارات

حضرت مرزا غلام احمد قادیانی

مسیح موعود و مہدی مہربود علیہ السلام

جلد دوم

بنی الحکیم



بنی السالک

وَلَقَدْ لَبِثْتُ يَوْمًا مَبِينًا مِّنَ اللَّيْلِ وَنَهَارًا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



مترجمہ

حضرت صاحبزادہ میرزا بشیر احمد صاحب ایم اے بٹلہ لہور

فروغیہ

مولانا محمد معتمد علی صاحب لکھنؤ صاحب لکھنؤ صاحب لکھنؤ صاحب لکھنؤ

محمد محمد الدین (مدنی) مستم احمد صاحب لکھنؤ صاحب لکھنؤ

چشمہ سنی پبلسٹری

پست خانہ جیلوہ

۱۹۳۵ء

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اِلٰهَ فَاَتَّبِعُوْنِيْ يَحْبِبْكُمْ اللهُ

# شیر المہدی

دھتہ دوم

تالیف لطیف حضرت صاحبزادہ میرا شیر احمد صاحب ایم

جے

مینجر ہیک ڈپو تالیف اشاعت دیان درالان

نے

ماہ دسمبر ۱۹۲۷ء میں شائع کیا ہے

سیرت پروردگار ص ۱۰۰ تا ۱۰۱



وَقَالَ بَيْنَهُمَا طَائِفَةٌ

# شیر المہدی

حصہ سوم

«مترقباً فرمود»

حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کمالی

جسہ


خا

مترقباً فرمود مولوی فضل منشی فضل نے مولانا

شائع کیا

اپریشن کل صفر ۱۳۵۸ھ پہلی ۱۹۳۹ء

آؤ لو گو کہ ہیں نورِ خدا پاؤ گے ۛ لو تمہیں طورِ تسلی کا بتایا ہم نے



یعنی

دن کے اندازہ پر

نمبر ۳۰

پابت ماہ مارچ و اپریل ۱۹۱۵ء

جلد ۱۴

نظایق جمادی الاول و جمادی الثانی ۱۳۳۳ھ

مجموعہ نظایق

فہرست مضامین

۱۳۳۳ھ

۱۸۴ - ۹۱

کتابت فیصل

مائیل پریج باراقل

إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَعْوَجًا

جَارِ الْمَحْيِ وَزَعَمَ الْكِبَالَةَ

بفضلہ تعالیٰ

یہ رسائل اللجوجین کے نام پر تفصیل دیں ہیں

# انجامِ اہم

خدائی فیصلہ - دعوتِ قوم

مکتوبِ عربی بنام علماء

مطبع ضیاء الاسلام میں طبع ہو کر عام فائدہ  
کے لئے شائع کئے گئے

کادیاں

قیمت فی جلد چھ

بمقام

ماثل طبع اول

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُودًا وَإِن مِّنْ آيَةٍ إِلَّا نُحَدِّثُكَ بِهَا مِثْلَ مَا كُنْتَ تَقُولُ  
 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُودًا وَإِن مِّنْ آيَةٍ إِلَّا نُحَدِّثُكَ بِهَا مِثْلَ مَا كُنْتَ تَقُولُ  
 قُلْ كَفَرْنَا بِمَا كُنَّا يُكْفَرُونَ بِهِ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكُم مَّا بَدَّلْنَاكُمْ بِهِ آيَاتِنَا إِنَّ كُفْرَكُمْ كَبِيرٌ  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ  
 كَرِيمِ رَسَالَةِ جِسْرِ كَاتَمِ

# ضرورت الامام

سین ڈیڑھ دن میں طبع ہوا ہو کر

مطبع

ضیاء الاسلام قادیان میں

قیمت ہر محصول علاوہ جلد ۰۰ ۰۰ -

بیتنا حکیم فضل الدین صاحب ہاروی تالیف و تصنیف

لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا  
قرآن شریف مجزوم مجیم

یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ کافر مومنوں کو ملزم کرنے کے لئے راہ پاسکیں۔

کتاب لاجواب

## شخصہ لاحق

جن کا دو سوا نام یہ ہے

آریوں کی کسی قدر خدمت

اور

ان کے ویدیوں اور نکتہ چینیوں کی کچھ ماہریت

یہ رسالہ جو تالیفات مرزا غلام احمد صفا مؤلف براہین احمدیہ میں سے ہے  
اس پر اتر رسالہ کا جواب ہے جو چند قادیان کے ہندوؤں کی طرف سے بامداد و آفتاب  
لیکھ رام پشاور کی چشمہ نور پبلسر میں چھپا تھا عام فائدہ کے لئے مرزا صاحب

موصوف کی طرف سے

مطبع میرٹھ ہند امرتسر میں باہتمام شیخ نور احمد مالک مطبع طبع ہو کر شائع ہوا

طائیل طبع اول

ان کا اصل حقیقی  
ان کا اصل حقیقی  
ان کا اصل حقیقی

هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ يَسْتَعْجِلُونَ  
یہ وہی ہے جس کے لئے تم جلدی کرتے تھے

ان کا اصل حقیقی  
ان کا اصل حقیقی  
ان کا اصل حقیقی

میاں نذیر حسین صاحب دہلوی اور ان کے شاگرد ٹالوی کو جو لوگ رسالہ مذہب صاحب کتاب  
ازالہ اور عام و کورس مرام کو کافر اور دجال اور کذاب اور طغور اور بے ایمان اور ملعون  
اور دہرا زحمت و محنت ٹھہراتے ہیں اور ایسا ہی ان کے تمام بھتیگوں  
مولویوں، صوفیوں، پیرناہوں، فقیروں، سجادہ نشینوں کو  
آسمانی فیصلہ کی طرف دعوت اور نیز ان کے  
گذشتہ معاشات کی کیفیت  
والحمد للہ والمنة  
کہ یہ رسالہ موسوم ہے

# اسما فیصلہ

مطبع ریاض ہند امرتسر میں چھپا

ایک ہزار چالیس سبیل اللہ تقسیم کی گئی ہے

ان کا اصل حقیقی  
ان کا اصل حقیقی  
ان کا اصل حقیقی

دہلی میں طبع اول، حصہ اول

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا  
بفضلِ عظیمِ حضرتِ بادیِ عالمِ عالمینِ ورحمتِ عظیمِ رہنما مخلصانِ کتابِ الجوابِ موسومہ

# بِزَاهِدِ مُحَمَّدِيَّة

ملقب بہ

البراهین الاحمدیہ علی حقیقتِ کتابِ التمددِ القرآنِ والنبوةِ المحمدیہ

جس کو خزاہلِ اسلامِ پنجاب جناب میرزا غلام احمد صاحبِ عظمیٰ قادیان  
منلع گورداسپور پنجاب دامِ اقبالہ نے کمالِ تحقیق اور ترقیق سے تالیف کی ہے  
شکرینِ اسلامِ پنجاب پر لپڑی کرنے کیلئے بوعبدالغلام اوس ہزار روپیہ شائع کیا

امرسر پنجاب

سفیر ہند پریس میں دہلی ۱۸۸۰ء طبع ہوئی

امیر علی دولہ پرنٹر

پیش از اہل

ولین انتہا بعد ظلمتوں کے باطن میں ہیں  
جو شخص مظلوم ہو گئے ہوں گے اس پر کوئی الزام نہیں

سید حسین

ایہ ہم

مطبع فیضانِ اسلام آباد، پاکستان  
مطبع فیضانِ اسلام آباد، پاکستان

کی امتداد ہے چھپے

پیش از اہل

پیش از اہل



ما مثل طبع قول

هَذَا كِتَابُ الْقِتَّةِ مِنْ تَأْيِيدِ رَبِّي الْمَقَانِ  
وَدَاللَّهِ إِنَّهُ مِنْ قُوَّةِ رَبِّي لَا مِنْ قُوَّةِ الْإِنْسَانِ  
وَإِنَّهُ لَأَيَّةٌ عَظِيمَةٌ لِمَنْ فَكَّرَ وَخَافَ الدِّيَانَ -  
وَإِنِّي سَمَّيْتُهُ

# مَوْاهِبُ الْمَعْنَى

وَإِنَّا عَجَّدْنَا لِلَّهِ الْأَحَدِ غُلَامٌ أَحْمَدُ عَافَا اللَّهُ  
وَإَيْدٍ وَجِبِلَّ قَرِيبِي هَذِهِ قَلْدِيَانِ  
فَارَا الْإِسْلَامَ وَمَهْبِطِ الْمَلَكَةِ  
الْحِكْمَامِ  
رَأْسِيَانِ

قد طبع في مطبع ضياء الاسلام قاديان باهتمام  
الحكيم فضل الدين البهيري كلوربة عشر خلون  
من شوال سنة ١٣٢٠ هـ مطابقاً لاربعه عشر خلون من  
شهر جنوري سنة ١٩٠٢ ع

التعداد ٢٠٠٠

## نقل یا نقل یا نقل

## حصہ اول

## ازالہ اوہام

قید باس شد پند و منافع لبتاس

الحمد والثناء کہ عملہ مبارک ذی الحجہ ۱۳۰۸ کتاب

جامع معارف قرآنی و شراح اسرار کلام ربانی از

تالیفات مرسل یزدانی و مامور رحمانی

جناب میرزا غلام احمد صاحب قادیانی

مطبعہ نیشنل پبلسنگ ہاؤس، لاہور، پاکستان  
 قیمت فی جلد ۲۰۰

پہلے ہی بار اول

بہر انہما میں یہ لہذا  
میں ہرگز نہیں ہو سکتا  
عقبتہ العالک باعیننا اور جو  
گشتہ بنانوں کے جوہر سے ہے خدا سے بیعت کی تہہ میں خدا سے بیعت کی تہہ میں خدا سے بیعت کی تہہ میں  
پیام خدا کے بارے میں اپنی جماعت کیلئے تیار کیا گیا ہے



اور جو سنانا  
**دَعْوَةُ الْإِيمَانِ**

دَعْوَةُ الْإِيمَانِ

بہر انہما میں یہ لہذا  
میں ہرگز نہیں ہو سکتا  
عقبتہ العالک باعیننا اور جو  
گشتہ بنانوں کے جوہر سے ہے خدا سے بیعت کی تہہ میں خدا سے بیعت کی تہہ میں خدا سے بیعت کی تہہ میں

دَعْوَةُ الْإِيمَانِ  
دَعْوَةُ الْإِيمَانِ

بہر انہما میں یہ لہذا  
میں ہرگز نہیں ہو سکتا  
عقبتہ العالک باعیننا اور جو  
گشتہ بنانوں کے جوہر سے ہے خدا سے بیعت کی تہہ میں خدا سے بیعت کی تہہ میں خدا سے بیعت کی تہہ میں

۵ اکتوبر ۱۹۰۲ء

تعداد جلد: ۵۰۰  
تعداد جلد: ۵۰۰

الحمد لله والمنة

کہ تمام مخالفوں پر الہی حجت پوری کر دی گئی

یہ رسالہ

جس کا نام ہے

## البعین

لامتمام الحجج علی مخالفین

بمقام قادیان مطبع ضیاء الاسلام میں باہتمام حکیم فضل الدین صاحب

مالک مطبع چمک

شائع ہوا

قیمت ۵۰

جلد ۰۰

۱۵- دسمبر ۱۹۰۰ء

جاء الحق وحق الباطل ان الباطل كان زهوقاً

آنانکہ برد علویٰ با حملہ ہاکنند	وزراہ چہل عربہ ہا برہاکنند
گریک نظر کنند دین نسخہ نکتب	ہست این نفس کہ تکھا دوا باکنند
باور نمی کنتم کہ نیایند عذر خواہ	وین امر دیگر است کہ ترک حیاکنند


# برائین احمدیہ

حصہ پنجم (۵)  
ملقب

بکبرایین الاحمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب القرآن والنبوة المحمدیہ  
مؤلف

حضرت آقاسی مرزا اعظم احمدی صاحب مدنی

تسبیل سعادت



السلامة

در سطح منیہ الامتداد و قلوبان با تمام حکم فضل الدین صاحب

تعداد ۱۰۰

مدخل پنج بار اول

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# انوار السلام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تعداد اشاعت (۳۰۰۰)

ٹائٹل طبع اول

سُبْحَانَكَ أَيُّهَا الْمَلِكُ الْأَعْلَى سُبْحَانَكَ أَيُّهَا الْمَلِكُ الْأَعْلَى

خدا کے تعالیٰ کے بے انتہا احسانوں میں سے یہ بھی ایک عظیم الشان فضل و احسان ہے۔  
کہ کتاب مستطاب منبع القان و عمران مسسٹی بہ

مسعودی پری پری برنٹے من پکشدہ اند

صا و قمر و ظرف مولیٰ پکشدہ اند

تذکرہ السیاح

ابن و شہد پری پری تصدیق من استادہ اند

فی آخر الزمان

اسان بار و شان الوقت یویندین

خود سیح موجود علیہ السلام کے قلم سے نکلی ہوئی جس کا نزول جمالی اور جلالی  
رنگوں میں حضرت ختم الرسل صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی پیشگوئیوں کے  
مطابق وہ آخری زمانہ کے متعلق تھیں، اس وقت کے اولوالالباب اولوالابھاء  
نے برائی العین مشاہد کیا

طبع ضیاء الاسلام قادیان میں چھپ کر کمترین جہدی حسین مہتمم کتب خانہ حضرت سیح موجود  
علیہ السلام کے زیر نگرانی شائع ہوئی، ٹائٹل پریچ مطبع سیکڑین قادیان میں چھپ کر طیارہ ہوا۔

بار اول تصادفات ۲۹۰۰

شعبان ۱۳۲۵ھ

۱۹۰۹ء

قیمت ۲۰۰



ماثل ریح بار اول

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ

الحمد لله الموفق انى كتبت هذه الرسالة والصيغة الجميلة لعلاج مرض  
المتنصرين الذى امتد منذ اذ وعرقتهم عند اذ واكثرهم فارا انكار الفرقان. والعول  
عن كتاب الله القرآن. فآرده ان نجيم من مخب الحرام. وزيهه سوداء هم ونهذيم  
الى دواء السقام. فالفتا هذا الكتاب مع انعام كثير من اجاب. وهو خمسة  
الاف من الدرهم لكل من ان مثله وارى العجائب. وهو فضل الله حسن  
وطيب والطف وادق. وسميته الحصة الاولى من

# ذوالحج

"عسى ربكم ان يرحمكم  
وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم  
للكافرين حصيرا ان هذا القرآن  
يهدى للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين  
الذين يعملون الصالحات ان لهم  
اجرا كبيرا"

قد طبع في المطبع المصطفائى پريس في لاهور سنة ١٣١١ هجرى

بار اول جلد ١٣٠٠

نقل ٹاپل صبح اولیٰ  
 + بغیر دستخط ہر قسم کتب خانہ کے کتاب سرورق سمجھی جاویں گی +

قد فرغنا من الرد علی قوم یسمون آریہ فالصمد یدلہ رب العالمین  
 انا اذا نزلنا بساخۃ قوم نساء صباخ المنذین

ہم آریوں کا رد لکھنے سے فراغت کر چکے سو اس خدا کو سب تعریف ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے  
 ہم جب ایک قوم پر چڑھائی کرتے ہیں اور ان کے صحن میں اترتے ہیں تو وہ صبح ان کی ایک ٹہنی  
 صبح ہوتی ہے جو تباہی کی خبر دیتی ہے

صباح

یہ کتب قدیمہ صاحبوں کے اس مضمون کے جواب میں لکھی گئی ہیں اپنے مذہبی جلسہ میں دسمبر ۱۹۰۷ء میں  
 ہوا جب چار سو معزز ہزاری جماعت کے مسلمانوں کے خدا کو اپنے گھر میں جا کر ستایا تھا جو پہلے سید مولانا  
 نبی علیہ السلام کی توہین اور دشنام دہی سے پُر تھا جس میں دین اسلام پر جا بجا توہین اور  
 ہنسی اور تشعشع کیا گیا تھا اور نہایت شوخی سے گندی گالیاں دے کر اور بے جا پختہ ہمارے  
 مقدس ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا کر صدمہ مسلمانوں کو خود مرعوب کر کے نہایت دکھ  
 دیا تھا اور اس کتب کا نام



از مولفات حضرت مرزا غلام احمد صاحب صبح موجود

جو ۱۵ مئی ۱۹۰۸ء کو

مطبع انوار احمدیہ پریس قادیان ضلع گورداسپور میں طبع ہوئی

باہتمام شیخ یعقوب علی قراب منیر

اور قیمت مجلہ میں روپے

دو ہزار چار گنت فی جلد

ڈائیل ریج بار اول  
 قادر کے کاروبار نمودار ہو گئے۔ کافر جو کہتے تھے وہ گرفتار ہو گئے

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اِذْ هُمُ الْمُنصَرِفُونَ  
 ذُرِّيَّتًا اِنَّا جُنْدٌ نَّالَهُمُ الْغَالِبُونَ (سورة صافات) ﴿٣٧﴾  
 وَكَفَلْنِي مِمَّا اَوْحَىٰ اِلَيَّ هَذَا الْوَحْيِ الْمُبَشِّرِ  
 فَالذِّكْرُ اِنَّهُ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا يَرِيضُكَ وَيُؤْتِيكَ الْاَبْرَارَ رَبِّكَ  
 مَا اَرْسَلَ نَبِيًّا اِلَّا خَرِيًّا بِرِضْوَانِنَا وَمَا لَوْ نَشَاءُ اَنْ نَّاتَّخِذَ مِنْكَ  
 وَالَّذِينَ هُمْ عَصِيْبُونَ. وَيَشْرِي الَّذِينَ اٰمَنُوا بِاَنْ لَّهُمُ الْقَوْمُ. وَاللَّهُ مَعِ  
 نُورًا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٣٨﴾ اَعْلِيْنَ الْمُرْسَلِيْنَ لَا تَخَفْ اِنَّهَا  
 —————  
 رَدِّ لَدَيْ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣٩﴾

## حقیقۃ الوحی

تبار تعالیٰ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ یہ کتاب جامع حسینہ ہر ایک قسم کے  
 حقائق اور معارف اور ہر ایک آسمانی نشان و برج میں محض اسی کے  
 فضل اور کرم اور خاص اُسکی توفیق اور تائید سے مرتب و تالیف ہو کر

مطبع میگزین قادیان میں باہتمام مینجور مطبع کے چھپی

تعداد ایک ہزار چھ  
 تاریخ اشاعت ۱۵ مارچ ۱۹۱۹ء

ڈائیل طبع اول

المحدث والمنقذ کہ بتائید و توفیق کن نعم المولیٰ و نعم النصیر و عنایات  
آن ذات جلیل و عظیم و کبیر حضرت اولیٰ کتاب الجواب موسوم بہ

# ایٹلا مکالات

جس کا رد و سرانام داخلہ لاساوی بھی ہے

بمآہ فروری سنہ ۱۸۹۳ء

مطبع ریاض ہند قادیان میں باہتمام شیخ نورا احمد مہتمم

و مالک مطبع طبع ہو کر شائع ہوا

ماہی بار ازل

الْبِسْرَانُ يَكْفِي عِبْدَهُ الْبِسْرَانُ يَكْفِي عِبْدَهُ الْبِسْرَانُ يَكْفِي عِبْدَهُ

الحمد لله والمنة كضميمة زول المسيح حبيبة سائقة

دس ہزار روپیہ کا اشتہار ہے

حسب استدعا مولوی شہزاد صاحب امرت سہری کے

محض پانچ دن میں ابتداء ۸ نومبر ۱۹۰۲ء سے

طیار ہو کر اس کا نام

انجمن

رکھا گیا

اور اس رسالہ میں پیر مہر علی شاہ ضا و مولوی اصغر علی صاحب

و مولوی علی حائری صاحب شیعہ وغیرہ بھی مخاطب ہیں جن کا نام

رسالہ میں مفصل درج ہے (تاریخ طبع ۱۵ نومبر ۱۹۰۲ء)

بتفاقاً قایمان باہتمام حکم فضل اذین صاحب مطبعہ ضیاء الاسلام طبع ہوا

الْبِسْرَانُ يَكْفِي عِبْدَهُ الْبِسْرَانُ يَكْفِي عِبْدَهُ الْبِسْرَانُ يَكْفِي عِبْدَهُ

تہ امانت ۲۵۰۰

بائشلیجی پراول

حُجَّةَ اللّٰهِ تَعَالَى


مطبعو عتبہ مطبع ضیاء الاسلام

قادیان دارالامن والامان

۲۲ رومی الحجۃ

۱۳۱۴ھ

نورۃ الیقین پار اول



خدا کے کریم کا شکر ہے کہ

یہ لڑکا وہاں کے من آریوں کو اپنی نگاہ

گیا ہے جنہوں نے بہت سی ترہیں لہو و زہری لکھیں اپنی شمار

میں میرے نشانوں کا شمار کیا ہے جس کو وہ نہ قطعاً ہی بگاڑ سکتا ہے

دنیا ان کو دیکھ چکی ہے اور اس رسالہ کا نام ہے

# قادیان کے آریہ اور

اور پیر

بہت نام نخب صاحب میگزین پر ہیں

قادیان میں طبع ہو کر شائع ہوئے

۱۹۲۰ء کی شائع

تعداد ایک سو چار جلد  
قیمت ہر جلد ۲۰

القمر والشمس في رمضان. ليكون آيتين لي من ربي الرحمن ثم انزل الطلوع  
 لعل الناس يتفكرون. فما لكم لا تنظرون الى اى الله اوتعانت عيونكم ما  
 تنظرون. ايها الناس عندي شهادات من الله فهل انتم تؤمنون.  
 ايها الناس عندي شهادات من الله فهل انتم تسلمون. وان تعدوا  
 شهادات ربي لا تحصوها فاتقوا الله ايها المستعجلون. افكلما جاءكم  
 رسول بما لا تهوى انفسكم ففرقوا كاذبتم وفرقا تقتلون انا نصرنا من ربي  
 ولا تنصرون من الله ايها الخاشعون. اقتلتموني بقتاوى القتل او دعوى  
 زعموها الى الحكام ثم لا تستدمون كتب الله لاغلبين انا ورسلي ولن تجزوا  
 الله ايها المهاربون. ووالله انى صادق ولست من الذين يختلون. انكروا  
 وقد تمت عليكم الحجة الا تردون الى الله او انتم كسيحكم خلدون. الا  
 تتدبرون سورة النور والقمر يبر والفاحة او تكفهون قراءتها او  
 على انفسكم تحرمون. وهذه رسالة منى اهديت لكم يا اهل الندوة  
 لعلكم تفتحون عيونكم او تتم عليكم حجة الله فلا تعتذرون بعدها ولا  
 تختصمون واني سميتها

## حُفَّةُ النَّدْوَةِ

واني اُرسل اليكم رسلي وانظر كيف يرجون  
 واني ادعو الله ان يجعلها مباركة لقوم لا يستكبرون. رب اشهد انى بلغت  
 ما امرت فاكتبني في الذين يبلغون رسالاتك ولا يخافون. آمين ثم آمين.



# الْهُدَى

## وَالْتَبَيُّرَةُ لِمَنْ يَسِرُّ

۱۲-جون سنہ ۱۹۰۲ء

۶

وی پی  
۱

محصولہ ڈاک  
۱۱

الثمن فی جلد  
۱۲

طبع فی دار الامان قادیان المطبع ضیاء الاسلام

بإهتمام الحکیم فضل بن الجمیل

تعداد اشاعت ...

تأیید بر اول

هذا هو الكتاب الذي الهمت بحصته منه من رب العباد - في يومئذ من الاعباد - لقرآنه على الخافين -  
 بانطلاق الروح الامين - من غير مدد التوفيق والله دين - فلا شك انه آية من الآيات - وما كان لبشر ان  
 ينطق كشفاً مرتجلاً مستجوراً في مثل هذه العبارات - وكان الناس يرقبون طبعه رقبة يوم الابد  
 ويستطلعون بصيرون المشتاق المريد - فانجد الله الذي ارادهم مقصودهم بعد الانتظار -  
 ورجعوا مطلوبهم كستان مذللة اغصانه من الثمار - وانه صنيعه احسن  
 الحفرة - وسطيحة تليغ الناس الى السعادة وانه فيث من الله بعد ما  
 امتحنت البلاد وعم الفساد - ولن يجد هذه المعارف في الاثر المتقا  
 المدونة من الثقات - بل هي حقائق ادخيت الى من ربت  
 الكائنات - وانه اظهار تام - وهل بعد المسيبواكم - وهل  
 بعد غائتم الخلق على السرور ختم - وليس من العجب  
 ان تسمع من غاتم الائمة - نكاتا ما سمعت من  
 قبل من علماء الامة - بل العجب كل العجب ان  
 يأتي المهدي بالموعد والامام المنتظر وحكم  
 الناس وغائتم الخلق - ثم لا يأتي بعزة  
 جديدة من حقنوا كبرياء - وتكلم  
 ككلم العامة من الظهور ولا  
 يفرق فرقا بين الظلمة  
 والضياء - وان سميت  
 هذه الرسالة

# خُطْبَةُ الْإِهَامِيَّةِ

وَإِنِّي عَلِمْتُهَا الْإِهَامًا مَرِيئًا وَكَانَتْ آيَةً

تجملها شاعرة  
٢١٠٠

وانها طبع في مطبع ضياء الاسلام قادياباهام الحكيم فضل الدين  
 البهيروى في سنة ١٣١٩ من الهجرة المقدسة

# وَمَا نِي خِرَان

تصنیفات

حضرت میرزا غلام احمد قادیانی

مسیح موعود و مہدی معہود علیہ السلام

جلد ۱۸

اعجاز ایس۔ ایک غلطی کا ازالہ۔ الہدیٰ والتبصر لمن یرى  
دافع البلاء و نزول ایس

(پیش طبع اول)

الحمد لله والمنة

کہ یہ رسالہ مبارکہ میں اتھوئزادہ سرآمد علماء  
کابل اور شیخ اجل افغانستان اور رئیس اعظم بیت  
مولوی محمد عبداللطیف صاحب مرحوم کی شہادت کا  
ذکر ہے اور نیز ان کے شاگرد رشید میاں عبدالرحمن کے  
شہید ہونے کے حالات مذکور ہیں تالیف ہو کر  
نام اس کا مندرجہ ذیل رکھا گیا یعنی

مذکرۃ الشہادۃ

مع رسالہ عربی و علامات المقرین

اور یہ رسالہ مطبع ضیاء الاسلام قادیان میں باہتمام  
حکیم مولوی فضل الدین صاحب مالک مطبع  
اکتوبر کے مہینہ میں چھاپ کر شائع کیا گیا۔

حَامَتَنَا تَطِيرُ بِرِيَشِ شَوْقٍ      وَفِي مَنَاقِرِهَا تَحْتِ الْمَسْلَمِ  
إِلَى وَطَنِ النَّبِيِّ حَبِيبِي      وَسَيِّدِ رَسَلِهِ خَيْرِ الْإِنَامِ

### الرسالة

اللطيفة المشتملة على معارف القرآن ودقائقه المسماة

# حَامَةٌ الْبَشَرِ

إِلَى  
أَهْلِ مَكَّةَ وَصَلِّ عَلَى أُمَّ الْقُرَى

لِحَضْرَةِ أَحْمَدَ الْمَسِيحِ الْمَوْعُودِ وَالْمَهْدِيِّ الْمَعْهُودِ

عَلَيْهِ وَعَلَىٰ مُطَاعِهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

الطبعة الأولى في رجب السنة الهجرية

نایس بار اول

As the Muslims of India entertain different beliefs with regard to "the coming Mehdi" and especially the nature of his appearance among the Muslims, according to some Muslims he will be a reformer and engenderer of new life, like a true lover of peace and tranquility and a person poor in heart, — the Muslims of his party considering his appearance as merely spiritual, while other Muslims, such as Maulvi Mohammad Husain of Batala, editor of *Isha-at-Muhammad* and leader and advocate of Ahl-i-hadis or Wahabis of his class, believe that the "coming Mehdi" will be Ghazi, general slaughterer and upsetter of the empires of the nations other than Muslims, especially the bitter opponent of the British Empire and speak of the terrible consequences resulting from the bloody deeds of this Mehdi, I have written this pamphlet to show which of these two Muslim parties is right in its beliefs with regard to "the coming Mehdi".

It will be better that our bonign Government will get this pamphlet translated into English and hence make itself acquainted with these differences concerning "the coming Mehdi".

Haqiqat-ul-Mehdi

حقیقت المہدی

The true nature of Al-mehdi

تاریخ ۲۰ فروری ۱۹۱۰ء مطبع ضیاء اسلام کراچی۔ باہتمام مولانا فضل الرحمن بیرونی بیروت ۱۹۱۰ء

مکتبہ پبلسنگ

الحمد لله والمنة

کہ یہ رسالہ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی لوران کے مریدوں  
اور سخیوں لوگوں پر تمام حجت کے لئے معض نصیحتاً شائع کیا  
گیا ہے اور بغرض اس کے کہ عام لوگوں پر حق واضح ہو جائے  
اس رسالہ کے ساتھ پچاس روپیہ کے انعام کا اشتہار بھی  
دیا گیا ہے جو اسی ٹائٹل پرچ کے دوسرے صفحہ پر مندرج ہے اور  
یہ رسالہ موسم بہ

شکر و ادب

مطبع ضیاء الاسلام قادیان ضلع گورداسپور میں باہتمام  
حکیم حافظ فضل الدین صاحب بیسوی مالک مطبع حکیم ستمبر ۱۹۰۲ء  
کو شائع ہوا

قیمت ۱۰۰ روپے

دکھار

دکھار

## هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ط

رسیدہ شدہ ذہنیم کہ میں ہمالا مردم  
 منم سیرج بیانگ بلند سے گویم  
 چنیں زمانہ چنیں دور میں چنیں برکا  
 تو بے نصیب رویہ چہ ہیں شقا باشد  
 سیاہ باد درخ بخت من اگر بہ دلم  
 دگر غرض بجز از یار آشنا باشد

خدا کے رسول

حسرت سیرج موعود و مہدی معبود

عالیجناب میرزا غلام احمد صاحب قادیانی

کالیچر بوسہ

اسلام

جو ۲ نومبر ۱۹۰۴ء کو بمقام سیالکوٹ ایک عظیم الشان جلسہ میں پڑھا گیا

جسکو

چوہدری مولانا بخش صاحب احمدی بھی نامی حافظ دفتر ضلع سیالکوٹ نے  
 مفید ملاحظہ فرمائیں سیالکوٹ میں چھپوا کر شائع کیا



تائیل پیر اول

الحمد لله  
الذی هدانا لهذا  
الذی کنا علی الضلال

کہ رسالہ شافیہ کافیر جو مخالفوں پر حجت بنا لیا اور موافقوں کو کیے موجب دایمان و عرفان  
موسوم بہ

نشان آسمانی

چسکا دوسرا نام

شہادت المسلمین

بھی ہے

ایست نشان آسمانی و شش نبی اگر توانی

یا صوفی خویشاں بر سر آں آیت تو یہ کہن بہ گمانی

از تالیفات مہدی زمان وسیح دوران مجید الوقت حضرت میرزا غلام احمد صاحب قادیان

جون ۱۸۹۲ء میں

بزرگوارانی خاکسار غلام محمد کاتب

ریاض ہند آئینہ میں چھپا

ماہی بارادول

الحمد لله والمنة کہ یہ رسالہ

موسومہ

# ایمانِ اصلاح

تقریرات

پہلی جلد

مطبع ضیاء الاسلام قادیان میں باہتمام حکیم حافظ فضل الدین صاحب

بھیروی ملک مطبع کے مطبوع ہوا

یکم جنوری ۱۸۹۹ء

(مائل بیچ طبع بر شانی)

الحمد لله والمنةت که رساله طیبہ مبارکہ

المسماة به

شہادۃ القرآن

نزول المسیح الموعود فی آخر الزمان

مطبع پنجاب پریس سیالکوٹ میں

باہتمام

منشی غلام قادر صاحب

فصیح کے حصیا

پیشانی غلام صلح

رقم نمبر ۱۰۰۰

حضرت اقدس میرزا غلام احمد مسیح موعود علیہ السلام

دائماً طبع آدل

هذه رسالة مباركة المسماة

# كرامات الصائدين

ولمن يأت برسالة مثلها فله انعام  
الف من الورق غير مقلد  
كان او من المقلدين  
وانها

قد طبعت بقضيل الله ورحمته في فنجاب فرانس سيالكوت

باهتمام

المنشغل غلام قادر اريت الفصيح مالك المطبع فالحمد لله رب العالمين.

طائفتل طبع اول

مطبوعه ضياء الاسلام

۱۳۱۲ھ  
سراج منیر

مشتمل بر نشانہائے ربیدر

قادیان دارالامن والامان

مئی ۱۸۹۷ء

سے قادر خدا:

ہیں گورنمنٹ عالیہ انگلشیہ کو ہماری طرف سے نیک جزا دے اور  
ہیں سے نیکی کر جیسا کہ اس نے ہم سے نیکی کی۔  
آمین۔

# کَشْفُ الْغَطَاءِ

یعنی

ایک اسلامی فرقہ کے پیشوا سرزا غلام احمد قادیانی کی طرف سے  
بھنڈو گورنمنٹ عالیہ اس فرقہ کے حالات اور خیالات کے بارے میں اطلاع اور  
نیز اپنے خاندان کا کچھ ذکر اور اپنے مشن کے اصولوں اور ہدایتوں اور تعلیموں کا بیانی اور  
نیز ان لوگوں کی خلاف واقعہ باتوں کا رد جو اس فرقہ کی نسبت غلط خیالات پھیلاتے  
چاہتے ہیں

اور یہ مولف

تلج عزت جناب ملک معظمہ قصیرہ ہند دام اقبالہا کا واسطہ ڈال کر  
بخدمت گورنمنٹ عالیہ انگلشیہ کے اعلیٰ افسروں اور معزز حکام کے یاد بگداشت  
کتاب ہے کہ براہ غیب پروری و کرم گستری اس رسالہ کو اول سے آخر تک پڑھا جائے یا جائے۔

یہ رسالہ تالیف ہو کر ۲۴ دسمبر ۱۸۹۸ء کو مطبع ضیاء اسلام قادیان میں باہتمام حکیم فضل الدین صاحب  
ملک مطبع کے مطبوعہ ہوا۔

ان هذا الكتاب يدفع وساوس الخناس - وفيه  
شفاء للناس - وهو يهب السكينة  
ويجلب الكروب - وسميته -

# ترياق القلوب

تصنيف

امام رباني حضرت ميرزا غلام احمد صاحب قادياني  
مسبح موعود و مہدی مسعود علیہ الصلوٰۃ والسلام



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# الْبَلَاغُ

چس کا دو ستر نام ہے

## فزیادورد

تصنیف منیف حضرت مرزا غلام احمد مسیح موعود علیہ السلام

باجازت حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ

منیجر کتب پبلیکیشن اشاعت قادیان نے شائع کیا

۲۹ جون ۱۹۲۲ء تعداد ۱۰۰۰ ۱۳۴۰ھ

معاہدہ کے تحت... (Vertical text on the right margin)

... (Vertical text on the left margin)

**کتاب البریة**  
**مع آیات البریة**  
 معنیہ الاسلام تاویلیہ  
 تعداد جلد ۱۰۰

جمادی الثانی ۱۳۹۸ھ  
 ۱۹۷۸ء

... (Footnote text at the bottom)

کچھ شعر و شاعری سے اپنا نہیں تعلق اس ڈبکے کوئی کبھی نہیں سمجھتا ہے

”ورکلام تو چیز بہت کہ شعراء رادر آں و نخلے نیست“

# درمکشین

منظوم اردو کلام بیچ موعود علیہ السلام

مرتبہ

شیخ محمد سعید پانی پتی

ڈیٹیل طبع اہل

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ  
الْفَاتِحِينَ

الحمد للہ کہ زمانہ کی ضرورت کے موافق بہتوں کو طاعون سے نجات  
دینے کے لئے یہ رسالہ تالیف کیا گیا اور اس کا نام

←

دَافِعُ الْبَلَاءِ وَمُعَيَّرُ أَهْلِ الْأَضْيَاقِ

بمقام

قلویان ڈارالامان

باہتمام حکیم فضل دین صاحب مطبع ضیاء الاسلام

میں چھپا

اپریل ۱۹۰۲ء

تعداد جلد ۵۰۰

تامل چھ جلدوں

یہ کتاب  
شیخ محمد حسین  
بطالوی اور  
دوسرے علماء  
کفرین کے  
الزام اور  
تمام اور انکی  
مولویت کی  
حقیقت کو  
کے لئے بوجہ  
انعام تائیس  
روپیہ شائع  
ہوئی ہے۔  
ستائیس روپیہ  
بانتابلہ سال  
نانے کیلئے  
مہلت دی گئی ہے  
اور یہ تائیس  
روپیہ شائع  
ہوئے۔

اس کو قبول نہ کیا لیکن خدا کے قبول کر لیا اور یہ زور اور حملوں کی پالیسی کا ایک اور نام ہے۔  
ہذا کتاب محکم بین الشیعة و اهل السنة و بہدی  
الی الحق فی امر الخلافة و انه یقطع معاذیر المخالفین  
و یدبر ذقاریر المقاتلین و لا یستنکرہ الا من لبس  
الصفاة و خلع الصدق و الصداقة و اتبع الکاذبین

کتاب عزیز محکم یفحم العدا  
فتمحمد بارعنا علی ما اسعدنا


# الخلافة وسمیتہ

بما جاء فی تلك المقاصد ارشداً

هذا کتاب سر الخلافة لمن یبغی سبل الثقافة

وقد طبع فی المطبع بریاض الہند احمرتس  
فی الشهر المبارک محرم سن۱۳۱۵ھ

ماہی مثل بیچ طبع اول



# ایک غلطی کا ازالہ

از

حضرت شیخ مومن علیہ السلام

رسالة

## تحفة بغداد

ولا تقولوا لمن اتى اليكم السلام اناست مؤمنا -  
وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي  
من رسله من يشاء فامنوا بالله ورسله وان تؤمنوا  
وتتقوا فلكم اجر عظيم -

: : : :

في شهر المحرم الحرام سنة ١٣١٤ هجرى  
طبع في مطبع پنجاب پريس سيالكوٹ  
باہتمام المنشى غلام قادر الفصیح

مالك المطبع

:



# استغناء

لَا تَكْفُرُوا بِاللَّهِ

وَمَنْ يُكْفُرْ بِهَا فَإِنَّهُ أَسْرَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا


تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

گواہی کو مت چھپاؤ۔ اور جو شخص گواہی کو چھپائے اس کا دل گنہگار ہے

اور خدا جو کام تم کرتے ہو جانتا ہے

مَطْبَعُ ضِيَاءِ الْإِسْلَامِ قَادِيَانِ دَارِ الْإِيمَانِ فِيں چھپا

۱۴ مئی ۱۸۹۶ء



# جنگِ مقدس

یعنی

تحقیقِ حق کی واسطے اہل اسلام اور عیسائیوں امرتسر میں بمقام امرت سر

مباحثہ

۲۲ مئی ۱۸۹۳ء سے شروع ہو کر ۵ جون ۱۸۹۳ء کو

ختم ہوا

اہل اسلام کی طرف سے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی بحث کیلئے  
قادیان کے امرتسر تشریف لائے اور عیسائی صاحبان کی طرف سے ڈپٹی عبد اللہ اکرم  
صاحب نیشنل انتخاب ہو کر جلسہ مباحثہ میں پیش ہوئے۔ راقم کو مصدقہ تحریریں  
چھاپکر منتشر کرنے کی جلسہ بحث میں ہر دو جانب سے اجازت دی گئی۔

جو

حرف بحرف مطابق روزانہ مصدقہ بحث ہر دو جانب چھپکر شائع ہوا کی اور وہ سب  
کاپیاں فروخت ہو گئیں۔ اب بار دوم اسی حیثیت سے شایعین کیلئے چھاپی گئیں۔

راقم

شیخ نور احمد مالک مہتمم ریاض ہند پریس امرتسر (پنجاب)

مطبوعہ ریاض ہند پریس امرتسر

نائل بارات

الحمد لله والمنة

کہ

یہ رسالہ مبارکہ جس میں حضرت ملکہ معظمہ قیسرہ و ام اقبالہا  
کی برکات کا ذکر ہے اور یہ بیان ہے کہ جناب ملکہ مدوہ کے  
عہد عدالتِ عہد میں اور ان کے نہایت روشن ستارہ کی  
تاثیر سے انواع اقسام کی زمینی اور آسمانی برکتیں ظہور میں  
آئی ہیں منطبع ہو کر انہی وجوہ کی مناسبت سے نام اس کا

# ستارہ قیسرہ

رکھا گیا

اور یہ رسالہ مطبع ضیاء الاسلام قادیان میں باہتمام حکیم فضل الدین  
صاحب مالک مطبع کے چھپ کر ۲۴ اگست ۱۸۹۹ء کو  
شائع ہوا

# انوارِ خلافت

(مجموعہ تقاریر جلسہ سالانہ ۱۹۱۵ء)

از

سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد

خلیفۃ المسیح الثانی

وَأَنْ مِّنْ شَيْءٍ أَلَّخِذْنَا بِهِ آيَةً وَمَا كَانَ لِأَهْلِ الْبَيْتِ أَنْ يُقَدَّرُوا بِمِثْلِ الْمَلَائِكَةِ (س: ٥٢)

# تفسیر کبیر

مُصَنَّفٌ

حضرت میرزا بشیر الدین محمود احمد

خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعود

بنی اللہ غنم

جلد ہفتم

سورتہائے شمس، ایل، الصفا، الم نشرح، التین، العلق، القدر

ایئسہ، الزلزال، العاویات، القارعة، التکاثر، العصر، الہمزہ

◆◆◆

نظارت نشر و اشاعت قادیان

إِنَّ مِنْ شَيْءٍ بِالْأَعْيُنِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ وَإِنَّا نَنْزِلُ الْبُرْجَانَ بِمَا نَعْلَمُ

# تفسیر غیر

قرآن مجید

کا

اردو با محاورہ ترجمہ مع مختصر تفسیر

انحاج حضرت مزار بشیر الدین محمود احمد صفا خلیفہ امیر المساجد الشافعی رضی اللہ عنہما

ناشر

ادارۃ المصنفین ربوہ ضلع جھنگ

# حقیقۃ النبوة

(مسئلہ نبوت پر میر حاصل بحث)

از

سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد

خليفة المسيح الثاني



(بدر حقون محفوظات)

وَلَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيكُمْ مُّذُنِ قَلِيلٍ فَلَا تَتَعَلَمُونَ

الحمد لله رب العالمين  
Tajul Uloom  
Tahassul Kundim  
Faqir Wali Bahawalpur

# حیات

حضرت سید محمد علی ترمذی کے سوانح حیات  
جلد دوم و مبرا اول

حضرت سید محمد علی ترمذی نے اپنے سوانح حیات میں جو کچھ لکھا ہے اس میں ان کی زندگی کے تمام اہم واقعات اور ان کی علمی و روحانی زندگی کے تفصیلی بیان ہے۔ یہ کتاب ان کی شخصیت اور ان کی خدمات کو بخوبی سمجھنے کے لیے ایک قیمتی ماخذ ہے۔

حضرت سید محمد علی ترمذی نے اپنے سوانح حیات میں جو کچھ لکھا ہے اس میں ان کی زندگی کے تمام اہم واقعات اور ان کی علمی و روحانی زندگی کے تفصیلی بیان ہے۔ یہ کتاب ان کی شخصیت اور ان کی خدمات کو بخوبی سمجھنے کے لیے ایک قیمتی ماخذ ہے۔

وہابی پبلسنگھ کا ہوت

حضرت شیخ مودود کے اصحاب کی سوانح حیات و سیرۃ کا سلسلہ

(نمبر اول)

پانچویں قسط کا نام نکلتا ہے تاہم تمام نیکت برکت برکت پر

# سوانح ناصر

یعنی

حضرت میر ناصر نوآباد صاحب زینہ حضرت خواجہ میر درد

رضی اللہ عنہما کے سوانح حیات و سیرۃ  
جسکو

حضرت علامہ صاحب قلم شیخ یعقوب علی غازی ایڈیٹر اخبار حکم و تادیب کے مرتب کیا

اور

الواحد محمد و احمد (مجاہد مصری) ناظم اوزار احمدیہ بک ڈپو نے تعالیٰ پریشانی

میں چھپوا کر قراب منزل دارالامان قادیان شائع کیا۔

۱۹۲۶ء

تعداد اول ۵۰۰ - قیمت فجلہ ملاؤ محمول ۱۰/-

بار اول

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 بِرَأْسِ آفِئْتِ اللَّهِ الْخَوْفِ وَالْهَيْبَةِ وَالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ  
 بِرَأْسِ آفِئْتِ اللَّهِ الْخَوْفِ وَالْهَيْبَةِ وَالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

# عظّم مجدداً

یعنی

سوانح عمری حضرت مرزا غلام احمد صفا قادیانی رحمۃ اللہ علیہ

مسح کوٹو دو مہدی معہ معجزہ صد چہار دم

## حصہ اول

از ابتدا تا جون سنہ ۱۹۰۰ء

مؤلفہ

جناب ڈاکٹر بشارت احمد صاحب

بماہ ذیقعد ۱۳۵۸ھ مطابق دسمبر ۱۹۳۹ء

احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور نے

شائع کیا

قیمت جلد نمبر ۱۰ روپے

بار اول

تعداد اشاعت ۱۰۰۰

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا اللّٰهَ الَّذِیْ جَعَلَ لَکُمُ الدِّیْنَ  
 یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا اللّٰهَ الَّذِیْ جَعَلَ لَکُمُ الدِّیْنَ

# مَنْظُورِ اَبی

سیدنا و مرشدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی  
 شیخ مولانا مہدی محمود مجدد صدی چہار دہم علیہ الصلوٰۃ والسلام  
 کے ملفوظات پر ترتیب تاریخ  
 مرتبہ و شائع کردہ

خاکسار محمد منظور اَبی میر احمدیہ انجمن اشاعت اسلام

احمدیہ پبلشرز لاہور  
 ۱۳۲۲ھ

مطبوعہ مقبذہ عام پرنسپل لاہور پبلیشرز لاہور

# AFRICA SPEAKS

*Published by:*  
Majlis Nusrat Jahan Tahrik-i-Jadid,  
Rabwah — West Pakistan

ہم محسنون۔ قالوا ان هذا الاختلاق۔ قل ان افتريت ففعلی اجرام شدت۔ انك الیوم

اور ان کے ساتھ ہے جو ٹیکو کار ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ تمام افترا ہے کہا گیا ہے تو یہ محنت گناہ میری گونہ ہو

لديننا مكين آمنين۔ وان عليك رحمتی في الدنيا والدين۔ وانك

آج تو ہمارے نزدیک بلکہ اور امین ہے۔ اور تیرے پر دین اور دنیا میں میری رحمت ہے۔ اور تو

من المتصورين۔ يحدك الله من عرشه۔ يحدك الله ويمشي

مدیا گیا ہے۔ خدا عرش پر سے تیری تعریف کرتا ہے۔ خدا تیری تعریف کرتا ہے۔ اور تیری

الیک۔ الا ان نصر الله قریب۔ كمشك دُر لا يصناع۔ بشری لك

میں چھوٹا آتا ہے۔ خبروار خدا کی مدد قریب ہے۔ تیرے جیسا موتی صنایع نہیں کیا جاتا۔ تجھے

یا احمدی۔ انت مرادى ومعى۔ انا ناصرک۔ انا حافظک

تو ٹھہری ہوئے میرے احمد تو میری مراد ہے اور میرا ساتھ ہے۔ میں تیرا مددگار ہوں۔ میں تیرا حافظ ہوں

انى جاعلك للناس اماماً۔ اكان للناس حججاً۔ قل هو الله

میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا۔ کیا لوگوں کو تعجب ہوا۔ کہہ وہ خدا عجیب ہے

عجيبٌ يحببى من يشاء من عبادہ۔ لا يسئل عما يفعل وهم

جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے جن لیتا ہے۔ وہ اپنے کاموں میں پوچھا نہیں جاتا

يسئلون۔ وتلك الايام نناد اولها بين الناس۔ وقالوا ان هذا

اور وہ سزا پچھے جاتے ہیں۔ اور یہ دن ہم لوگوں میں پھیرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو

الاختلاق۔ اذا نصر الله المؤمن جعل له الحاسدين فى الامرض

ضرور افترا ہے۔ خدا جب مومن کو مدد دیتا ہے تو زمین پر اس کے کئی حاسد بنا دیتا ہے

قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون۔ لا تحاط اسرار الاولياء

کہہ خدا ہے جس نے یہ ابھام کیا پھر ان کو چھوڑ دے تا اپنی کج فکریوں میں بائزى کریں۔ اولیاء کے اسرار پر

تلطفت بالناس وترحم عليهم۔ انت فيهم بمنزلة موسى۔ واصبر

کوئی اہل نہیں کر سکتا۔ لوگوں سے لطف کے ساتھ پیش آ اور ان پر رحم کر۔ تو ان میں بمنزلہ موسیٰ کے ہے اور ان کی

على ما يقولون۔ وذرنى والمكذبين اولى النعمة۔ انت من مائتنا

باتوں پر صبر کر اور منعم کلموں کی سزا مجھ پر چھوڑ دے تو ہمارے ہائی میں سے ہے

نظر الله عليك معطلاً - وَقَالُوا اتَّجَعَلُ فِيهَا مَنْ يَفْسِدُ فِيهَا قَالَ

خدا نے تیرے پر خوشبودار نظر کی اور لوگوں نے دوسرے کہا کہسے خدا کیا تو ایسے خدا کہ اپنا خلیفہ بنائے گا

إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ - وَقَالُوا كِتَابٌ مِّمْتَلَىٰ عُمَلًا مِّنَ الْكُفْرِ وَ

خدا نے کہا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تمہیں معلوم نہیں۔ اور لوگوں نے کہا کہ یہ کتاب کفر اور کذب سے بھری ہوئی

الْكَذِبِ - قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ آبَاءَنَا وَإِبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَ

ہے ان کو کہہ دے کہ اؤ ہم اور تم اپنے بیٹوں اور عورتوں اور عزیزوں میرے ایک جگہ اکٹھے

الْفُسَّانَا وَالْفُسَّكُمْ ثُمَّ نَبْتَهَلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ -

ہوں پھر سب اہل کریں اور جھوٹوں پر لعنت بھیجیں

سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ صَاحِبِنَا وَنَحْيَيْنَا مِنَ الْغَيْمِ - تَفَرَّخْنَا بِذَلِكَ

ابراہیم یعنی اس عاجز پر سلام ہم نے اس کی دلی دوستی کی اور تم سے نجات دی۔ یہ ہمارا ہی کام تھا جو ہم نے

يَادَاؤُا عَامِلًا بِالنَّاسِ رِفْقًا وَاحْسَانًا - تَمُوتُ وَإِنَّا رَاضٍ بِمَنكَ

کیا۔ اے داؤد لوگوں سے نرمی اور احسان کے ساتھ معاملہ کر تو اس حالت میں مر گیا۔ کہ میں تجھ سے

وَاللَّهُ يَعصَمُكَ مِنَ النَّاسِ - كَذِبًا بِلَايَاتِي وَكَانُوا بِهَا يُسْتَهزِئُونَ -

راہی ہو گیا۔ اور خدا تجھ کو لوگوں کے شر سے پہنچا۔ انہوں نے میرے نشانوں کی تکذیب کی اور ٹھٹھا کیا

فَسِيكَفِيكُمْ اللَّهُ وَيَرُدُّهُمَا إِلَيْكَ وَأَمْرٌ مِنَّا إِنَّا نَحْنُ فَاعِلِينَ -

سو خدا ان کیلئے تجھے کفایت کرے گا۔ اور اس عجز کو تیری طرف واپس لے گا۔ یہ امر ہماری طرف سے ہے اور ہم ہی کرنے والے ہیں۔

ذَوِّجْ شُكْرَهَا - الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ - لَا تَبْدِيلَ

بصوابی کے بہتے تلخ کر دیا۔ تیرے سب کی طرف سے سچ ہے پس تو شک کرنے والوں سے مت بوجہ خدا کے

حاشیہ: شیخ محمد بن سہیل کی یہ اعتراض ہے کہ الہام کا یہ فقرہ کہ میں جہاں الیک سکون بخاوردہ ہے۔ کیونکہ رد

کا لفظ اس صورت میں آتا ہے کہ ایک چیز اپنے پاس ہو۔ پھر چلی جائے اور پھر واپس آوے۔ لیکن افسوس کہ اس کو بات

کی کیفیت ظہران کے معلوم نہیں کہ یہ لفظ اسے تعلق کے ساتھ بھی استعمال ہوجاتا ہے۔ اس کی کلام عرب میں بزرگوں میں

ہیں جن کے کھلے کا اس مقام میں متوجہ نہیں ہو کر اس جگہ قرابت قویہ تھی اور نزدیک کے رشتہ کے تعلقات نے اپنے پاس کے

حکم میں اس کو کیا ہوا تھا اس خدا تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا جو ان چیزوں کیلئے استعمال ہوتا ہے جو اپنے پاس سے چلی جائیں اور

پھر واپس آویں۔ ان میں جگہ یہ نہایت لطیف اشارہ تھا۔ کہ خدا نے میں جہاں کا لفظ استعمال کیا۔ معلوم ہو کہ اصل اس کا اپنے پاس

سے تعلق لوگوں میں پہلے بجا ضروری ہے پھر واپس آنا تقدیر میں ہے فقط۔ منہ

کہ خود بالذات آپ اخلاق فاضلہ سے بے بہرہ تھے۔ کیونکہ وہ تو خود اخلاق سکھلاتے اور نرمی کی تاکید کرتے ہیں۔ بلکہ یہ لفظ جو اکثر آپ کے منہ پر جاری رہتے تھے یہ غصہ کے جوش اور مجنونانہ طیش سے نہیں نکلتے تھے بلکہ نہایت آرام اور ٹھنڈے دل سے اپنے محل پر یہ الفاظ چسپاں کئے جاتے تھے۔ غرض اخلاقی حالت میں کمال رکھنا اماموں کیلئے لازمی ہے۔ اور اگر کوئی سخت لفظ سوتے مزاجی اور مجنونانہ طیش سے نہ ہو۔ اور عین محل پر چسپاں اور عند الضرورت ہو۔ تو وہ اخلاقی حالت کے منافی نہیں ہے اور یہ بات بیان کر دینے کے لائق ہے کہ جن کو خدا تعالیٰ کا ہاتھ امام بنا تا ہے۔ ان کی فطرت میں ہی امامت کی قوت رکھی جاتی ہے۔ اور جس طرح الہی فطرت نے بموجب آیت کہ  
 اعطی کل شیء خلقاً ہر ایک پر نداد پرند میں پہلے سے وہ قوت رکھ دی ہے جسکے بلکے میں خدا تعالیٰ کے علم میں یہ تھا کہ اس قوت سے اسکو کام لینا پڑیگا۔ اسی طرح ان نفوس میں جن کی نسبت خدا تعالیٰ کے ازل علم میں یہ ہے کہ ان سے امامت کا کام لیا جاوے گا منصب امامت کے مناسب حال کی روحانی ملکہ پہلے سے رکھے جاتے ہیں اور جن لیاقتوں کی آئندہ ضرورت پڑے گی۔ ان تمام لیاقتوں کا بیج ان کی پاک سرشت میں بویا ہوتا ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ اماموں میں بنی نوع کے قائد سے اور فیض رسانی کے لئے مندرجہ ذیل قوتوں کا ہونا ضروری ہے۔

اول۔ قوت اخلاق۔ چونکہ اماموں کو طرح طرح کے اوباشوں اور سفیلوں اور بڑبان لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اسلئے ان میں اعلیٰ درجہ کی اخلاقی قوت کا ہونا ضروری ہے تا ان میں طیش نفس اور مجنونانہ جوش پیدا نہ ہو اور لوگ انکے فیض سے محروم نہ رہیں۔ یہ نہایت قابل شرم بات ہے کہ ایک شخص خدا کا دوست کہلا کر پھر اخلاق رزیلہ میں گرفتار ہو اور درشت بات کا ذرہ بھی متحمل نہ ہو سکے۔ ماد جو امام زمان کہلا کر ایسی کچی طبیعت کا آدمی ہو کہ اپنی اپنی بات میں منہ میں جھانک آتا ہے۔ آنکھیں نیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ کسی طرح امام زمان نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس پر آیت اِنَّكَ لَعَلَّ خَلْقٍ عَظِيمٍ کرانہ سے طور پر صادق آجانا ضروری ہے۔

دوم۔ قوت امامت ہے جس کی وجہ سے اس کا نام امام رکھا گیا ہے۔ یعنی نیک باتوں

لہ طہ: ۵۱ تہ القلم: ۵



امور ملکی مدنی و منزلی اور خود فرد فرد کے ذاتی ہیں۔ ان میں سے کسی میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ ہر وقت اور ہر جگہ ان کے رازوں کا افشا کرنا مصلحت ہو یا عدم افشا کا نام مکر اور فریب رکھا جائے۔ خدا تعالیٰ نے دل و زبان و خیر و قوی انسان کو عطا فرمایا ان کے مناسب استعمال کے لئے اسے فرما دیا ہے اور ہر ایک بات کی عمدگی اور خوبی دکھانے کے لئے جدا جدا مواقع اور محل اور وقت اس بات کے مقرر کئے ہیں کوئی خلق خواہ کیسا ہی عمدہ ہو مگر جب وہ بے عمل اور بے وقت ہمارے ہوگا تو ساری خوبی اور خوبصورتی اس کی خاک میں مل جائے گی اور کوئی مفید چیز اپنے نواید ہرگز ظاہر نہیں کرسے گی جب تک وہ ٹھیک ٹھیک اپنے وقت پر استعمال میں نہ لائی جائے۔ خدا تعالیٰ کی سچی اطاعت اور نوع انسان کی حقیقی بھلائی وہی شخص بجالا سکتا ہے جو وقت شناس ہو ورنہ نہیں۔ مثلاً ایک شخص گورا ست گوبے مگر اپنی راستی کو حکمت کے ساتھ لاکر استعمال نہیں کرتا بلکہ لامٹی کی طرح مارتا ہے اور بے تمیزی سے ایک شریف خلت کو بے عمل کام میں لاتا ہے تو وہ ایک حکیم منش کے نزدیک ہرگز قابل تعریف نہیں ٹھہرتا۔ ایسے کو جابل نیک بخت کہیں گے۔ نہ دانایک بخت اگر کوئی اندھے کو اندھا اندھا کر کے پکارے اور پھر کسی کے منع کرنے پر یہ کہے کہ میاں کیا میں جھوٹ بولتا ہوں تو اسے یہی کہا جائے گا کہ بے شک تو راست گوبے مگر احمق یا شریر کہ جس راستی کے اظہار کی تجھے ضرورت ہی نہیں اس کو واجب الاظہار سمجھتا ہے اور اپنے بھائی کے دل کو دکھاتا ہے۔ اسی طرح اخلاق امور کا تمام عقد جو ابہر اسی ایک ہی رشتہ سے

کے ملنگنے میں کچھ قصور نہیں ہے بلکہ حسب آیت تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ان کی طبیعت ہی ان بد بخت کفار کے مشابہ واقع ہوئی ہے جو خدا تعالیٰ کے نشانیوں کو قبول نہیں کرتے تھے اور اپنی طرف سے اختراع کر کے درخواستیں کرتے تھے کہ ایسے ایسے نشان دکھاؤ۔ لیکن اگر افسوس ہے تو صرف یہ ہے کہ ان لوگوں نے مولوی کہلا کر منسی ٹھٹھا اپنا شیوہ بنا لیا ہے۔ جو شخص عبدالحق کے اشتہار کو فورے پڑھے گا اس کو قبول کرنا پڑے گا کہ انہوں نے انوریم مولوی عبدالکریم صاحب کا شرارت اور بے ادبی سے ذکر کر کے ان کی ٹانگ کی درستی یا آنکھ کی نظر کی نسبت جو نشان مانگا ہے یہ ایک ادب اذعانہ طریق پر ٹھٹھا کیا ہے جو کسی پرہیزگار احسن نیک بخت کا کام نہیں ہے۔ پلید دل سے پلید باتیں نکلتی ہیں اور پاک دل سے پاک باتیں۔ انہماں اپنی باتوں سے ایسا ہی پہچانا جاتا ہے جیسا کہ درخت اپنے پھلوں سے۔ جس حالت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں صاف فرمایا کہ لا تَنَابُزُوا بِالْأَلْقَابِ یعنی لوگوں کے ایسے نام مت رکھو جو ان کو بُرے معلوم ہوں تو پھر برخلاف اس آیت کے کرنا کن لوگوں کا کام ہے۔ لیکن اب تو نہ ہم عبدالحق پر افسوس کرتے ہیں نہ اس کے دوسرے رفیقوں پر کیونکہ ان لوگوں کا ظلم اور نا انصافی اور دروغ گوئی اور فساد سے گزر گیا ہے اسی اشتہار کو پڑھ کر دیکھ لو کہ کس قدر جھوٹ سے کام لیا ہے کیا کسی جگہ بھی خدا تعالیٰ سے حیا کی ہے چنانچہ ہم بطور نمونہ بطرز قولہ واقوال اس ظالم شخص کے جھوٹوں کا ذخیرہ ذیل میں لکھ دیتے ہیں جو اسی اشتہار میں اس کے استعمال کئے ہیں اور وہ یہ ہیں۔

قولہ میرزا باریا متفرق مواضع کے مباحثات میں شرمندہ اور لاجواب ہوا اور ہر جمع میں خائب اور خاسر اور نامراد رہا۔

کرائی بھی اور بٹالوی کی کوئی بدگوئی میاں صاحب کو مکروہ معلوم نہ ہوئی اور میاں صاحب کے مکان میں بیٹھ کر ایک اور اشتہار تکبر کا بھرا ہوا بٹالوی نے لکھا جس میں اس عاجز کی نسبت یہ فقرہ مندرج تھا کہ یہ میرا شکار ہے کہ بد قسمتی سے پھر دہلی میں میرے قبضہ میں آ گیا اور میں خوش قسمت ہوں کہ بھاگا ہوا شکار پھر مجھے مل گیا۔ ناظرین!! انصافاً کہو کہ کیسے سفلہ پن کی باتیں ہیں۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اس زمانہ کے مہذب ڈوم اور نقال بھی تھوڑا بہت حیا کو کام میں لاتے ہیں اور پشتوں کے سفلے بھی ایسا کینگی اور شیخی سے بھرا ہوا تکبر اپنے حقیقت شناس کے سامنے زبان پر نہیں لاتے۔ اگر میں بٹالوی صاحب کا شکار ہوتا تو اسکے استاد کو دہلی میں کیوں جا پکڑتا۔ کیا شاگرد استاد سے بڑا ہے۔ جب استاد ہی چڑیا کی طرح میرے پنجہ میں گرفتار ہو گیا تو پھر ناظرین سمجھ لیں کہ کیا میں بٹالوی کا شکار ہوا یا بٹالوی میرے شکار کا شکار۔ بٹالوی کی شوخیاں انتہا کو پہنچ گئی ہیں اور اسکی کھوپڑی میں ایک کیرا ہے جسکو ضرور ایک دن خدائے تعالیٰ نکال دیگا افسوس کہ آجکل ہمارے مخالفوں کا جھوٹ اور بہتانوں پر ہی گزارہ ہے اور فرعونی رنگ کے تکبر سے اپنی عزت بتانی چاہتے ہیں۔ فرعون اس روز تک جو معدہ اپنی لشکر کے غرق ہو گیا یہی سمجھتا رہا کہ موسیٰ اس کا شکار ہے آخر رود نیل نے دکھا دیا کہ واقعی طور پر کون شکار تھا۔ میں نادم ہوں کہ نا اہل حریف کے مقابلہ نے کسی قدر مجھے درشت انفاظ پر مجبور کیا ورنہ میری فطرت اس سو دور سے کہ کوئی تلخ بات منہ پر لاؤں۔ میں کچھ بھی بولنا نہیں چاہتا تھا مگر بٹالوی اور اسکے استاد نے مجھے بلایا۔ اب بھی بٹالوی کیلئے بہتر ہے کہ اپنی پالیسی بدل لیوے اور منہ کو لگام دیوے ورنہ بلان و نول کو رو رو کے یاد کرے گا۔ بادر و کشاں ہر کہ در افتاد در افتاد و ما علینا الا البلاغ المبین

سے گندم از گندم بروید جو ز جو از مکاناتِ عملِ غافل مشو

جو لوگ ان جھوٹے اشتہارات پر خوش ہوئے ہیں جنہیں میاں نذیر حسین کی مصنوعی فتح کا ذکر ہے میں خالصاً اللہ کی نصیحت کرتا ہوں کہ اس دروغگوئی میں ناحق کا گناہ اپنے ذمہ نہ لیں۔ میں ۲۳ اکتوبر ۱۹۸۹ء کے اشتہار میں مفصل بیان کر چکا ہوں کہ میاں صاحب ہی بحث کرنے سے گریز کر گئے یہ کیا شہادت اور بے حیائی کا بہتان ہے کہ میری نسبت اڑایا گیا ہے کہ گویا میں میاں نذیر حسین سے ڈر گیا لہذا اللہ میں ہرگز ان سے نہیں ڈرا اور کیونکر ڈرتا میں اس بصیرت کے

۹۰

پس بخوبی یاد خاطر رہے کہ جو صاحب بضرغ اثبات حقیقت اپنی کتاب اور اپنے اصول کے کوئی ایسا دعویٰ یا دلیل پیش کریں گے کہ جس کو ان کی الہامی کتاب نے پیش نہیں کیا تو یہ فعل ان کا اس امر پر شہادتِ قاطعہ ہوگا جو کتاب مقبولہ ان کی کہ جس کو وہ الہامی خیال کر رہے ہیں۔ ایفاء مضمون اس شرط سے قاصر ہوگا۔

چھارم۔ بخدمت جملہ صاحبان یہ بھی عرض ہے کہ یہ کتاب کمالی تہذیب اور رعایتِ آداب سے تصنیف کی گئی ہے اور اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں کہ جس میں کسی بزرگ یا پیشوا کسی فرقہ کی کسر شان لازم آوے۔ اور خود ہم ایسے الفاظ کو صراحتاً یا کتایتاً اختیار

کا دروازہ نہیں کھولتی۔ اور نہ اس کو عقل اور علم میں ترقی بخشتی ہے۔ بلکہ ترقیات سے روکتی ہے۔ اور مردے کی طرح صرف تقلید کے گڑھے میں ڈالنا چاہتی ہے کہ جس میں وہ نہ دیکھے نہ سنے نہ سمجھے اور جو شخص ایسی کتابوں کا پیرو ہوتا ہے وہ عقل اور قیاس اور نظر اور فکر سے بچھڑکا ہوا نہیں رکھتا۔ بلکہ محض قصوں اور کہانیوں پر بھروسہ کر بیٹھتا ہے اور عقائد امور کی تہہ کو نہیں پہنچتا اور تہہ اور تفکر کی قوت کو بالکل بے کار چھوڑ کر اور ان تمام استعدادوں کو جو اس کے نفس میں مخزول اور مودع ہیں دانستہ تلف کر کے رفتہ رفتہ حیوانات کا عقل سے بھی پرلے پار ہو جاتا ہے اور بالآخر طریقہ عقل اور قیاس احد فکر اور ادراک سے کہ جس سے انسان کی تمام انسانیت وابستہ ہے۔ بالکل بیگانہ اور نا آشنا ہو کر ایک ایسا مسلوب الحواس بن جاتا ہے کہ پھر اس کو الٰہی ہی نہیں رہتا کہ اس کو انسان کہا جائے۔ اور اس میں یہ قابلیت ہی نہیں رہتی جو عقلی طور پر حق اور باطل میں تمیز کر سکے۔ اور اس پر وہ تشیل خوب صادق آتی ہے جو فرقان مجید میں مذکور ہے۔ لَہُمْ قُلُوبٌ لَا یَفْقہُونَ بِہَا وَ لَہُمْ اَعۡیُنٌ لَا یُبصِرُونَ بِہَا وَ لَہُمْ اَازَانٌ لَا یَسْمَعُونَ بِہَا اُولٰٓئِکَ کَالاَنعَامِ بَلْ ہُمْ اَضَلّ۔ (سورۃ اعراف سورہ ۹) یعنی وہ لوگ جو صرف باپ دادے کی تقلید پر چلنے والے ہیں۔ وہ ذہل اور کھٹے ہیں پھر ذہل سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے۔ اور ان کی آنکھیں بھی ہیں پھر

لہ اعراف: ۱۸۰

براہین احمدیہ صفحہ 101، 102 مندرجہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 90، 91 از مرزا قادیانی یہ حوالہ صفحہ 58 پر درج ہے

گونا گوت عظیم سمجھتے ہیں اور مرتکب ایسے امر کو پر لے درجہ کا شر بہ النفس خیال کرتے ہیں۔ سو اسی طرح ہر ایک اپنے شریف مخاطب کو اس طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ ان کی کوششیں بھی اس بارے میں مصروف رہنی چاہئیں کہ تمام تحریر ان کی بشرطیکہ کچھ تحریر کریں جیسا کہ مہذب اشخاص کے لائق ہے۔ سرالسر تہذیب پر مبنی ہو۔ اور او باشارہ کلام اور ہجو اور ہنگ متدسین اور رسولوں اور نبیوں سے بگلی پاک ہو۔ یہ منصب بالیفات مذہبی کا بڑا نازک منصب ہے۔ اور اس میں عثمان حکومت صرف ایک ہی شخص کے ہاتھ میں نہیں ہوتی بلکہ ہر ایک شخص اور قبیح میں فرقی کرنے والے اور منصف اور متعصب اور مفسد اور حق گو کو

آنکھوں کو دیکھنے سے معطل چھوڑا ہوا ہے اور کان بھی مکتے میں یہ وہ بھی بیکار پڑے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ چار پایوں کی طرح ہیں۔ بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ غرض کلام الہی کا یہ نہایت عمدہ کام ہے کہ جو جو طاقتیں اور قوتیں انسان کی فطرت میں ڈالی گئی ہیں کہ ان کو بطور صلح اور انس کے استعمال میں لانے کی تاکید کرے تاکہ قوت اور طاقت جو عین حکمت اور مصلحت سے انسان کو عطا کی گئی تھی۔ ضائع نہ ہو جائے یا بطور افراط یا تفریط کے استعمال میں نہ لائی جائے اور منجملہ ان سب طاقتوں کے ایک عقل بھی طاقت ہے کہ جس کی تکمیل میں شرف انسان کا ہے۔ اور جس کے ٹھیک ٹھیک استعمال میں لانے سے انسان حقیقی طور پر انسان بنتا ہے۔ اور اپنے کمال مطلوب کو پہنچتا ہے۔ اور وہ ہی ایک آلہ انسان کے ہاتھ میں ہے۔ جو بے انتہا ترقیات کے حاصل کرنے کے لئے عام طور پر اس کو دیا گیا ہے۔ پس ظاہر ہے کہ اگر الہامی کتاب اس آلہ کی مدد اور معاون اور محافظ نہ ہو۔ بلکہ یہ تسلیم دے جو اس آلہ کو بالکل معطل چھوڑ دینا چاہیے۔ تو ایسی کتاب بجائے اس کے جو انسان کو فطرتی طاقتوں کو وضع استقامت پر چلاوے۔ خود ان طاقتوں کو وضع استقامت پر چلنے سے روکے گی اور بجائے اس کے جو کچھ یاری اور مدد گاہی کرے۔ خود رہزن اور مفسد بن جائے گی اور جو کچھ اس کے ذریعہ سے سیکھا اور سمجھا جائے گا۔ وہ ایسی شے نہ ہوگی کہ جس کو علم اور حکمت کہا جاوے۔ بلکہ صرف خام طمع اور غیر معقول اعتقادوں اور بے جا ہوسوں

بیزار نہ ہو جاتے تو کوئی بھی پنڈت اُن کو بُرا نہ کہتا۔ اب تو باوا صاحب ان پنڈتوں کی نظر میں کچھ بھی نہیں دیکھ کے مکذب جو ہوئے۔

قولہ - یہ کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے دیدوں کو نہ سُنا نہ دیکھا۔ کیا کریں جو سنے اور دیکھنے میں آسے تو بُدھ مان لوگ جو کہ ہٹی درہ گہے نہیں وے سب سمجھو ای والے بیدمت میں آجاتے ہیں۔ یعنی نانک وغیرہ اس کے سکھوں نے نہ دیدوں کو سُنا نہ دیکھا کیا کریں جو سُنے یا دیکھنے میں آویں تو جو عقلمند متعصب نہیں وہ فوراً اپنی ٹھگ بدیا چھوڑ کر وید کی ہدایت میں آجاتے ہیں۔ اقول اس تمام تقریر سے پنڈت صاحب کا مطلب صرف اتنا ہے کہ باوا نانک صاحب اور اُن کے پیرو ٹھگ ہیں انہوں نے دنیا کے لئے دین کو بیچ دیا۔ مگر چند یہ تو سچ ہے کہ باوا نانک صاحب نے وید کو چھوڑ دیا اور اس کو گمراہ کرنے والا طومار سمجھا لیکن پنڈت صاحب پر لازم تھا کہ یوں ہی باوا صاحب کے گرد نہ ہو جاتے اور ٹھگ اور مکار اُن کا نام نہ رکھتے بلکہ اُن کے وہ تمام عقیدے جو گرنہ میں درج ہیں اور مخالف وید ہیں اپنی کتاب کے کسی صفحہ کے ایک کالم میں لکھ کر دوسرے کالم میں اس کے مقابل پر وید کی تعلیمیں درج کرتے ماعلمند خود مقابلہ کے دیکھ لیتے کہ ان دو تعلیموں سے سچی تعلیم کونسی معلوم ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ صرف گالیاں دینے سے کام نہیں نکلتا۔ ہر ایک حقیقت مقابلہ کے وقت معلوم ہوتی ہے اور ناحق گالیاں دینا سفلوں اور کمینوں کا کام ہے۔

قولہ - نانک جی بڑے دھنڈا اور رئیس بھی نہ تھے۔ پرنٹو اُن کے چیلوں نے نانک چند دوسے اور جنم ساکھی وغیرہ میں بڑے بڑے اور بڑے ایشرج والے لکھے ہیں۔ نانک جی برہما دی سے ملے بڑی بات چیت کی سب نے ان کا مان کیا۔ نانک جی کے دواہ میں گھومتے۔ رتھ ہاتھی سونا چاندی موتی پناادی رتنوں سے جڑے ہوئے پار اور تمبا لکھا ہے۔ بھلا یہ کیوڑے نہیں تو کیا ہے۔ یعنی نانک جی کہیں کے مالدار اور رئیس نہیں تھے۔ مگر اُن کے چیلوں نے پوتھی نانک چند دوی اور جنم ساکھی وغیرہ میں بڑے دولت مند اور بھگت کہہ کے لکھا ہے

آخر من کتب اولی۔ اتکفیک هذه الشواهد اوانتیک بامثال آخری۔  
 در کتاب آئے نخستیں برآء ایک کفایت اند ترا این گواہان یا دیگر امثالاً بیاریم  
 قلن فکریت فیما تلوت علیک من الامثال ذکرنا۔ نستعلم انک قد بلغت منی  
 پس اگر فکر کنی در آنچه بر تو خواندم از امثال برائے یا وہاں نیدی پس عقوبت برائی کہ از ما عذر کامل  
 عذرا۔ هذا و ما کشف علیک امر المر تستطع علیه صبارا۔  
 شنیدی ہی است بطور مختصر و عنقریب مفصل بیوں میں امر می گوئیم کہ برو صبر نہ کر دی۔

البیان الشافی فی هذا الباب تفصیل الجانی

بیان شافی دریں باب و تفصیل آن امر کہ چرا برائے

إلى ترك التطعيم والتوكل على رب الأرباب

توکل خال زدن مضطر گردیدیم و بیان توکل بر خدائے خداوندان۔

اعلم ان موضوع امرنا هذا هو الدعوى الذى عرضت على الناس قلت انى

بدینکہ موضوع این امر آن دعویٰ است کہ بر مردم پیشتر مردم و گفتیم کہ من

انا انسى الموعد والامام المنتظر المعهود۔ حکمتی اللہ لرفع اختلاف الامة

سیح ہو جو ہستم و امام منتظر معهود ہستم نظام حکم مقرر کردہ امت برائے دفع اختلاف امت

وعلمنى من لدنه لادعوا الناس على البصيرة۔ فا كان جوابهم الا السب و

و نیز جناب خدا مرا تطہیر کرد کہ مردم را بوجہ بصیرت بخوانم پس جواب ایشان بجزو این بیجا نبود کہ دشنام

الشتيم والفحشاء والتكفير والتكذيب والابذاء۔ وقد سبقنى بكل سب

ہاوند و فحشیا گفتند و کافر گفتی و دروغ گو تو بودی و ستم کردی و مراد پر گزشتہ سب و شتم بود کہ در

فأرددت عليهم جوابهم و ما عبات بمقالهم وخطابهم۔ ولم يزل

پس جوابی گفتن و شتمها نمودم و پروردائے حق لشکر و خطاب ایشان نامحترم و دشنام دہی

حصہ اول

۱۰۹

ازالہ اوہام

وہ الفاظ بیان نہیں فرمائے جو اس عاجز نے بزعم ان کے اپنی تالیفات میں استعمال کئے ہیں اور درحقیقت سب و شتم میں داخل ہیں۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے میں نے ایک لفظ بھی ایسا استعمال نہیں کیا جس کو دشنام دہی کہا جائے۔ بڑے دھوکہ کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ دشنام دہی اور بیان واقعہ کو ایک ہی صورت میں سمجھ لیتے ہیں اور ان دونوں مختلف مفہوموں میں فرق کرنا نہیں جانتے۔ بلکہ ایسی ہر ایک بات کو جو دراصل ایک واقعی امر کا اظہار ہے اور اپنے محل پر چسپاں ہو محض اس کی کسی قدر مرارت کی وجہ سے جو حق گوئی کے لازم حال ہو اکتی ہے۔ دشنام ہی تصور کر لیتے ہیں حالانکہ دشنام اور سب اور شتم فقط اس مفہوم کا نام ہے جو خلاف واقعہ اور دروغ کے طور پر محض آزار رسانی کی غرض سے استعمال کیا جائے۔ اور اگر ہر ایک سخت اور آزار دہ تقریر کو محض بد جہ اس کے کہ مرارت اور تلخی اور ایذا رسانی کے دشنام کے مفہوم میں داخل کر سکتے ہیں تو پھر اقرار کرنا پڑے گا کہ سارا قرآن شریف گالیوں سے پر ہے کیونکہ جو کچھ تمہاری ذلت اور بت پرستیوں کی حقارت اور انکے بارے میں لعنت و لعنت کے سخت الفاظ قرآن شریف میں استعمال کئے گئے ہیں یہ ہرگز ایسے نہیں ہیں جن کے سننے سے بت پرستوں کے دل طوش ہوئے ہوں بلکہ بلاشبہ ای الفاظ نے ان کے غصہ کی حالت کی بہت تحریک کی ہوگی۔ کیا خدائے تعالیٰ کا کفار کو مخاطب کر کے یہ فرمانا کہ انکم و ما تعبدون من دون اللہ حسب جہتم یہ معترض کے من گھڑت قاعدہ کے موافق گالی میں داخل نہیں ہے کیا خدائے تعالیٰ کا قرآن شریف میں کفار کو شر البریہ قرار دینا اور تمام رذیل اور پلید مخلوقات سے انہیں بدتر ظاہر کرنا یہ معترض کے خیالی کے روم سے نشانہ کوئی میں داخل نہیں ہوگا؟ کیا خدائے تعالیٰ نے قرآن شریف میں واغلق علیہم نہیں فرمایا کیا مومنوں کی علامات میں اشد اوعلی الکفار نہیں رکھا گیا۔ کیا حضرت مسیح کو ہودیوں کے معزز و فقیہوں اور فریسیوں کو سور اور گتے کے نام سے پکارنا اور گلیل کے عالی مرتبہ فرمانروا امیر و دیس کالونیٹری نام رکھنا اور معزز سردار کاہنوں اور فقیہوں کو

۱۰۹ ازالہ اوہام: ۹۹، التوبہ: ۳۳، آلہ الفتح: ۳۰، ۹

یہ حوالہ صفحہ 59 پر درج ہے

ازالہ اوہام صفحہ 9 مندرجہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 109 از مرزا قادیانی



کشتی نوح

۱۱

تقویۃ الایمان

چڑھنے اور مرنے سوچا کہ وہ ایسا ہو کہ باوجود قور ہونے کے نزدیک ہے اور باوجود نزدیک ہونے کے وہ  
 قور ہو۔ اور باوجود ایک ہونے کے اسکی تجلیات الگ الگ ہیں۔ انسان کی طرف سے جب ایک نئے رنگ  
 کی تبدیلی ظہور میں آئے تو اسکے لئے وہ ایک نیا خط بنجاتا ہو۔ اور ایک نئی تجلی کے ساتھ اس کے ساتھ  
 کرتا ہو۔ اور انسان بقدر اپنی تبدیلی کے خدا میں بھی تبدیلی دیکھتا ہو۔ مگر یہ نہیں کہ خدا میں کچھ تغیر آجاتا  
 ہے بلکہ وہ ازل سے غیر متغیر اور کمال تامہ کھتا ہو۔ لیکن انسانی تغیر اسکے وقت جب زندگی کی طرف  
 انسان کے تغیر ہوتے ہیں۔ اور اسکی نئی تجلی سوا سیر ظاہر ہوتا ہو۔ اور ہر ایک ترقی یافتہ حالت  
 کے وقت جو انسان کو ظہور میں آتی ہے خدا تعالیٰ کی قادرانہ تجلی بھی ایک ترقی کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے  
 وہ خلاق عادت قدرت اسی جگہ دکھلاتا ہے جہاں خارق عادت تبدیلی ظاہر ہوتی ہے۔ خوارق اور  
 معجزات کی یہی جڑ ہے۔ یہ خدا ہے جو ہر لمحے سلسلہ کی شرط ہے۔ اس پر ایمان لائے اور اپنے نفس پر  
 اور اپنے اعمال پر اور اپنے کل تعلقات پر اسکو مقدم رکھو۔ اور عملی طور پر بہادری کے ساتھ اس کی  
 راہ میں صدق و وفادار کھلاؤ۔ دنیا اپنے اسباب اور اپنے عزیزوں پر اسکو مقدم نہیں رکھتی مگر تم اسکو  
 مقدم رکھو تا تم آسمان پر اسکی جماعت لکھے جاؤ۔ رحمت کے نشان دکھلانا قدیم سو خدا کی عادت ہے۔  
 مگر تم اس حالت میں اس عادت کو حصہ لے سکتے ہو کہ تم میں اور اس میں کچھ جدائی نہ ہے اور تمہاری مرضی  
 اسکی مرضی اور تمہاری خواہشیں اسکی خواہشیں ہو جائیں۔ اور تمہارا سر ہر ایک وقت اور ہر ایک حالت  
 مراد یابی اور نامرادی میں اس کے آستانہ پر چڑا ہے تا جو چاہے سو کرے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم میں  
 وہ خدا ظاہر ہوگا جس نے مدت کو اپنا چہرہ چھپا لیا ہے۔ کیا کوئی تم میں ہے جو اس پر عمل کرے اور اسکی  
 رضا کا طالب ہو جائے اور اسکی تضاد و قنڈ پر ناراض نہ ہو۔ سو تم صیبت کو دیکھ کر اور بھی قدم اس کے دیکھو  
 کہ یہ تمہاری ترقی کا ذریعہ ہے اور اسکی توجید زمین پر پھیلائے کے لئے اپنی تمام طاقت سے کوشش کرو  
 اور اس کے بندوں پر رحم کرو اور ان پر زبان یا ہاتھ یا کسی تدبیر سے ظلم نہ کرو اور مخلوق کی بھلائی کے لئے  
 کوشش کرتے رہو اور کسی پر تکبر نہ کرو اور اپنا ماتحت ہو۔ اور کسی کو گالی مت دو کہ وہ گالی دیتا ہے غریب  
 اور غلام اور نیکویت اور مخلوق کے ہمہ تن نجات و تامل کے جلاؤ۔ بہت میں جو ظلم ظاہر کرتے ہیں مگر وہ اندھے

۱۲

یہ حوالہ صفحہ 59 پر درج ہے

کشتی نوح صفحہ 12 مندرجہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 11 از مرزا قادیانی

۲۲۶

اربعین نمبر ۳

ممن افترونی علی اللہ کذبا - تنزیل من اللہ العزیز الرحیم - لتتذروا قوماً  
 ما اتذروا اباؤهم ولتتذروا قوماً اخرین - عسی اللہ ان یجعل  
 بینکم و بین الذین عادیتکم مودۃً - ینحزرون علی الادلان معجداً ربنا  
 اغفر لنا انا کنا خاطئین - لا تقرب علیکم الیوم یخطر اللہ لکم - و  
 هو ارحم الراحمین - انی انا اللہ فاعبدنی ولا تشکونی واجتهد ان  
 تصلنی وامسئل ربک وکن مستولاً - اللہ ولی منان - علم القرآن - نبی  
 حدیث بعدہ تمکمون - نزلنا علی هذا العبد رحمةً - و ما  
 ینطق عن الہوی - ان هو الا دعی یوحی - دنی فتدی نکات قاب  
 قوسین او ادنی - ذہنی والمکذبین لنی مع الرسول اقوم - ان یوحی  
 لفصل عظیم - وانک علی صراط مستقیم - وانا نوبتک بعض الذی  
 نعد ہمراہ او نتوفینک - وانی رافعت الی - ویاتیک نصرتی - انی  
 انا اللہ ذو السلطان - ترجمہ :- اور کہتے ہیں کہ یہ بناوٹ ہے اور یہ شخص  
 دین کی بیخ کنی کرتا ہے - کہہ حق آیا اور باطل بھاگ گیا - کہ اگر یہ امر خدا کی طرف  
 سے نہ ہوتا تو تم اس میں بہت سا اختلاف پاتے یعنی خدا تعالیٰ کی کلام سے اس  
 کے لئے کوئی تائید نہ ملتی اور قرآن جو راہ بیان فرماتا ہے یہ راہ اس کے مخالف ہوتی  
 اور قرآن سے اس کی تصدیق نہ ملتی اور دلائل حقہ میں سے کوئی دلیل اس پر قائم نہ  
 ہو سکتی اور اس میں ایک نظام اور ترتیب اور علمی سلسلہ اور دلائل کا ذخیرہ جو  
 پایا جاتا ہے یہ ہرگز نہ ہوتا اور آسمان اور زمین میں سے جو کچھ اس کے ساتھ  
 نشان جمع ہو رہے ہیں ان میں سے کچھ بھی نہ ہوتا - اور پھر فرمایا خدا وہ خدا  
 ہے جس نے اپنے رسول کو یعنی اس عاجز کو ہدایت اور دین حق ..... اور  
 تہذیب اخلاق کے ساتھ بھیجا - ان کو کہہ دے کہ اگر میں نے افترا کیا ہے تو

۸۴

اربعین نمبر 3 صفحہ 84 مندرجہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 426 از مرزا قادیانی یہ حوالہ صفحہ 59 پر درج ہے

دوران سر اور کئی خواب اور تشنج دل کی بیماری دورہ کے ساتھ آتی ہے۔ اور دوسری چلو جو میرے نیچے کے حصہ بدن میں ہے وہ بیماری ذیابٹس ہے کہ ایک مدت سے دانگیر ہے اور بسا اوقات تھوڑا دفعہ رات کو یادن کو پیشاب آتا ہے اور اس قدر کثرت پیشاب سے جس قدر عوارض منعت وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب میرے مثال حال رہتے ہیں۔ بسا اوقات میرا یہ حال ہوتا ہے کہ نماز کے لئے جب زمین چڑھ کر اُپر جاتا ہوں تو مجھے اپنے ظاہر حالت پر امید نہیں ہوتی کہ زمین کی ایک سیرٹھی سے دوسری سیرٹھی پر پاؤں رکھتے تک میں زندہ رہوں گا۔ اب میں شخص کی زندگی کا یہ حال ہے کہ ہر مذمت کا سامنا اس کے لئے موجود ہوتا ہے اور ایسے مریضوں کے انجام کی نظریں بھی موجود ہیں تو وہ ایسی خطرناک حالت کے ساتھ کیونکہ اکثر اہر جرات کر سکتا ہے اور وہ کس صحت کے بھروسے پر کہتا ہے کہ میری اتنی برس کی عمر ہوگی۔ حالانکہ ڈاکٹری تجارب تو اس کو موت کے پنجہ میں ہر وقت پھنسا ہوا خیال کرتے ہیں۔ ایسی مریضوں والے مدقوق کی طرح گداز ہو کر جلد مر جاتے ہیں یا کابینکل یعنی سرطان سے اُن کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر جس زور سے میں ایسی حالت پر غطریں تبلیغ میں مشغول ہوں کیا کسی مفتری کا کام ہے۔ جب میں بدن کے اوپر کے حصہ میں ایک بیماری۔ اور بدن کے نیچے کے حصہ میں ایک دوسری بیماری دکھتا ہوں تو میرا دل محسوس کرتا ہے کہ یہ وہی دو چادریں ہیں جن کی خبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔

میں محض نصیحتاً اللہ مخالف علماء اور ان کے ہم خیال لوگوں کو کہتا ہوں کہ گایاں دینا اور بد زبانی کرنا طریقی شرافت نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کی یہی طہیت ہے تو خیر آپ کی مرضی۔ لیکن اگر مجھے آپ لوگ کاذب سمجھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی تو اختیار ہے کہ مساجد میں اکٹھے ہو کر یا الگ الگ میرے پر بد دعائیں کریں

برایں احمدیہ حصہ پنجم

۱۴۴

میرے آنے سے ہوا کابل بھبلہ برگ و باد  
 زیور دین کو بنانا ہے وہ اب مثل سُناور  
 دین تو خود کھینچے ہے دل مثل بُت میں عذار  
 ناٹھا ہے دین کی راہ جو اٹھا تھا اب غبار  
 جن سے ہوں شرمندہ جو اسلام پر کرتے ہیں وار  
 وحشیوں میں دین کو پھیلا نامہ کیا شکل تھا کلاہ  
 معنی راز نبوت ہے ساری سے آشکار  
 قوم وحشی میں اگر پیدا ہوئے کیا جائے عار  
 اگر نکلے دم کی سرحد یا از زنگبار  
 وہ اگر پھیلا میں بدبو تم بنو مشک تثار  
 چمکے چمکے کرتا ہے پیدا وہ سامان و مار  
 چیز کیا ہیں اس کے آگے رستم و اسفندیار  
 کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انگسار  
 چھوڑ دو ان کو کہ پھو ایش وہ ایسے اشتہار  
 دم نہ مارو گروہ مایں اور کر دین حلال زار  
 شدت گرمی کا ہے محتاج بار این بہار  
 یہ خیال اظہر اکو کس قدر ہے نابکار  
 جنگ بھی تھی صلح کی نیت کہیں سے فرار  
 اب تو آئیں بند میں دیکھینگے پھر انجا مکار

مدفند آدم کہ تھا وہ نامکمل اب تک  
 وہ خدا جس نے نبی کو تھا زیر خاص دیا  
 وہ دکھا ہے کہ دین میں کچھ نہیں لکراہ و خیر  
 پس یہی ہے رمز جو اس نے کیا منج از جہاد  
 تا دکھائے منکوں کو دین کی ذاتی خوبیاں  
 کہتے ہیں یورپ کے نادان یہ نبی کمال نہیں  
 پر بنانا آدمی وحشی کو ہے ہک معجزہ  
 نورانی آسماں سے خود بھی وہ اک نور تھے  
 لذت میں ہیر باباں کی بھلا کیا فرق ہو  
 اے مرے پیار و شکیب و صبر کی عادت کرو  
 نفس کو مارو کہ اس جیسا کوئی دشمن نہیں  
 جس نے نفس میں کو ہمت کر کے زیر پا کیا  
 گالیاں سن کر نہ مارو ہلکے دکھ آرام دو  
 تم نہ گھبراؤ اگر وہ گالیاں دین ہر گھڑی  
 چمپ ہو تم دیکھ کر ان کے رسالوں میں رستم  
 دیکھ کر لوگوں کا بوسش و عین امت کچھ غم کرو  
 ان سرائوں کی نگاہوں میں ہمارا کام ہے  
 خیر خواہی میں جہاں کی غول کیا ہم نے جگر  
 پاک لہر دگمانی ہے یہ شقوت کا نشان

۱۵ جنوری سنہ ۱۹۰۲ء

**مخالفانہ تحریروں کا جواب**  
 مخالفت جو گامیاں دیتے ہیں اور گندے اور ناپاک اشتہار شائع کرتے ہیں۔ ہم کو ان کا جواب گامیوں سے کسی دنیا نہیں چاہیے۔ ہم کو سخت زبانی کی ضرورت نہیں، کیونکہ سخت زبانی سے برکت جاتی رہتی ہے، اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ اپنی برکت کو کم کریں۔ ان کو تو مخاطب کرنے کی ہی ضرورت نہیں۔ یہ لوگ بچائے خود واجب الرحم ہیں۔ ان فضول باتوں کو نکال کر اگر کسی مقول یا اعتراض کا جواب عوام کو دھوکہ سے بچانے کے لیے دیا جاوے تو نامناسب نہیں۔ اگر ہم ان کے مطالب پر سخت زبانی کا استعمال کریں تو اپنے مرتبہ کا بھی تذلل ہے۔ مگر کسی کوئی سخت لفظ استعمال کیا گیا ہے تو وہ حق کی لازمی مراد ہے جو خدا کے طور پر ہے جس کی نظیر انجیل اور نبیوں کے کلام میں پائی جاتی ہے۔ یہیں اور عقیدہ کرتا ابیاد کا کام نہیں۔ نام تو وہی ہوتا ہے جو آسمان پر دکھا جاتا ہے کسی کے ظالم کارکنے سے کیا جاتا ہے زمین تا آسمان کا آخر خاتمہ جو جاتا ہے اور آسمانی نام ہی وہ جانتے ہیں پس دنیا کے گمراہوں کے ہاں کیا پورا اس نام کی قدر کو جو آسمان پر نیک دکھا جاوے۔

**سبح کے دو زرد چادروں میں نزول**  
 نذر چادروں سے فرود آگئی جو جو ہارے مخالف بیان کرتے ہیں تو پھر عام بندو جو گویں اور سبح میں ایسا امتیاز کیا ہوگا۔ اس میں خدا کی چادر اپنے الگ معنی رکھتی ہے اور وہ وہی ہیں جو خدا تعالیٰ نے مجھ پر کھوئے ہوئے ہیں کہ نذر چادروں سے فرود آؤ بیادیاں ہیں جو بچے لاجتی حال ہیں۔

**اداسیہ تبلیغ**  
 دنیا میں تین قسم کے آدمی ہوتے ہیں۔ عوام۔ متوسطے کے۔ اہل علم و عوام۔ کم فہم ہوتے ہیں۔ ان کی سمجھ سوئی ہوتی ہے۔ اس لیے ان کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اہل علم کے لیے سمجھنا بھی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ تانگ مزاج ہوتے ہیں اور جلد گھبرا جاتے ہیں اور انکا عقیدہ عقل اور عقلی مستنبط ہوتی ہے۔ اس لیے ان کے ساتھ گفتگو کرنے والے کو چاہیے کہ وہ ان کے طرز کے موافق ان سے کلام کرنے یعنی مختصر طور پر سے مطلب کو ادا کر لے اور ال تقریر ہو۔ عقل و عقلی مگر عوام کو تبلیغ کرنے کے لیے تقریر بیعت ہی صاف اور عام فہم ہونی چاہیے۔ رہے اور سلفہ جس کے لوگ زیادہ تر یہ گندہ اس قابل ہوتا ہے کہ ان کو تبلیغ کی جاوے۔ وہ بات کہہ سکتے ہیں اور ان کے مزاج میں وہ عقل اور بکتر اور نزاکت بھی نہیں

۳۲۶

کہتی تھی کہ ان لوگوں کو احمد بیگ کی وفات کے بعد اپنے عزیز دانا کی موت کا فکر کھانے لگتا اور اس طرح  
 ہلساں ہو کر حرم الی الملحق کرتے۔ کیا انسان میں یہ خاصیت نہیں کہ چشم دید تجربہ اس پر سخت اثر ڈالتا  
 ہے سو درحقیقت ایسا ہی ہوا۔ احمد بیگ کی موت نے اس کے وارثوں کو خاک میں ملا دیا۔ اور ایسے غم میں  
 ڈالا کہ گویا وہ مر گئے اور سخت غمت میں پڑ گئے اور دعا میں اور تضرع میں لگ گئے۔ سو ضرور تھا کہ خدا  
 تعالیٰ اس جگہ بھی تاخیر ڈالتا۔ جیسا کہ آئتم کے متعلق کی پیشگوئی میں تاخیر ڈالی۔ ہم عربی مکتوب میں لکھ  
 چکے ہیں کہ یہ پیشگوئی بھی مشروطہ بہ شرط تھی اور ہم یہ بھی یاد ہاں بیان کر چکے ہیں کہ وہ عید کی پیشگوئی بغیر  
 شرط کے بھی مختلف پذیر ہو سکتی ہے جیسا کہ روس کی پیشگوئی میں ہوا۔

سو چاہیے تھا کہ ہمارے نادان مخالف انجام کے منتظر رہتے اور پہلے ہی سے اپنی بدگہری  
 ظاہر کرتے۔ بھلا جس وقت یہ سب باتیں پوری ہو جائیں گی۔ تو کیا اس دن یہ اہم مخالف جیتتے ہی  
 رہیں گے اور کیا اس دن یہ تمام لڑنے والے سہانی کی تلواریں سے جھکے نہیں ہو جائیں گے ان پر تو  
 کو کوئی بھانگنے کی جگہ نہیں رہے گی۔ اور نہایت عصفائی سے ناک کٹ جائے گی۔ اور ذات  
 کے سیاہ رخ ان کے منوں چہروں کو بندروں اور سوندوں کی طرح کر دیں گے۔ سنو! اور یاد رکھو کہ میری  
 پیشگوئیوں میں کوئی ایسی بات نہیں کہ جو خدا کے نبیوں اور رسولوں کی پیشگوئیوں میں ان کا نمونہ نہ ہو۔ بیشک  
 یہ لوگ میری تکذیب کریں۔ بیشک لیاں دیں۔ لیکن اگر میری پیشگوئیاں نبیوں اور رسولوں کی پیشگوئیوں  
 کے نمونہ پر ہیں تو ان کی تکذیب انہیں پرانت ہے۔ چاہیے کہ اپنی جانوں پر دم کریں اور دوسرا ہی کے  
 ساتھ نہ مریں کیا ورنہ کافرا نہیں یاد نہیں کہ کیوں کر وہ عذاب مل گیا جس میں کوئی ششما بھی نہ تھی۔  
 اور اس جگہ تو شرطیں موجود ہیں۔ اور احمد بیگ کے اہل حادث جن کی تہیہ کے لئے یہ نشان تھا اس کے  
 مرنے کے بعد پیشگوئی سے ایسے متاثر ہوئے تھے کہ اس پیشگوئی کا ہم نے لیکر دتے تھے اور پیشگوئی کی اہمیت  
 دیکھ کر اس گٹوں کے تمام مروجہت کا نپ اٹھتے تھے اور عورتیں جنہیں یاد کر سکتی تھیں کہ ان کے وہ باتیں  
 سنا چکیں چنانچہ وہ لوگ اس دن تک غم اور خوف میں تھے جب تک ان کے دادا سلطان کی میعاد گند گئی  
 پس اس تاخیر کا یہی سبب تھا جو خدا کی قدیم سنت کے موافق ظہور میں آیا۔ خدا کے اہم میں ہوا تو ہی

اس پیشگوئی کی تصدیق کے بعد پہلے ملنے والی مشعلی مشعلی ہے کہ یہ لکھی فرمائی ہے کہ یہ تکرار و تکرار ہے۔ یعنی یہ ہے  
 ہری کریج اور نیزہ صاحب اور بگ بگ ہر جگہ تکرار اور تکرار کہ نام طرہ مقصود نہیں کہ یہ عام طور پر ہر ایک ہی کو کہ ہے اور اور

یہ حوالہ صفحہ 61 پر درج ہے

انجام آتم صفحہ 53 مندرجہ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 337 از مرزا قادیانی

مباہلہ کے بعد میری بددعا کے اثر سے ایک بھی خالی رہا تو میں اقرار کروں گا۔ کہ میں بھونٹا ہوں

واقعی ذلت نہ پہنچی یا ہمیں کوئی واقعی عزت حاصل نہ ہوئی جیسا کہ میں آگے چل کر بیان کروں گا۔  
 سو اس کے وہ مباہلہ درحقیقت میری درخواست سے نہیں تھا اور نہ میرا اس میں یہ مدعا تھا کہ عین  
 پردہ عاکروں اور نہ میں نے بغیر مذکورہ کچھوں اس بات کی طرف توجہ کی۔ اس بات کو اشد تعلق نہیں ہے  
 کہ میں نے کبھی عیدالضحیٰ پر بددعا نہیں کی۔ اور اپنے دل کے جوش کو برگزہاں میں توجہ نہیں دیا۔ لیکن  
 اس بات میں مولویوں کا ظلم اتنا ہرگز نہیں گیا۔ اس لئے اب میں آسمانی فیصلہ کے لئے خود ہر ایک  
 سکتے سے مباہلہ کی درخواست کرتا ہوں۔ اور اس لئے کہ بعد میں شبہات پیدا نہ ہوں میں  
 نے یہ لازمی شرط شہر دی ہے کہ جو لوگ مباہلہ کے لئے جوئے گئے ہیں کم سے کم ہندوستان  
 میں سے مباہلہ کی درخواست کریں تاخدا کی مدد صفائی سے ثابت ہو۔ اور کسی تاویل کی گنجائش نہیں  
 ہے اس کا کوئی بعد میں ہے نہ کہہ کہ مقابل پر سوت ایک آدمی تھا۔ سو اتفاقاً اس پر کوئی مصیبت آگئی۔

بعض غیرت طبع مولوی جو بیہودیت کا خمیر اپنے منہ دیکھتے ہیں۔ سچائی پر پردہ ڈالنے کے لئے یہ بھی کہا  
 کرتے ہیں کہ گزشتہ مباہلہ میں عیدالضحیٰ کو فتح ہوئی۔ کیونکہ آتم کے متعلق جو پیشگوئی کی تھی اس  
 میں آتم نہیں مرا۔ مگر یہ دل کے بجز دم اور اسلام کے دشمن یہ نہیں سمجھتے کہ کب اور کس  
 وقت یہ مہم اٹھا کر کیا گیا تھا کہ آتم ضرور معاد کے اندر رہے گا اور کس اشتہار یا کتاب  
 میں ہم نے لکھا تھا کہ اس عرصہ میں بغیر کسی شرط کے آتم کی نسبت موت کا حکم ہے دنیا میں  
 جانکھوں سے نیا پیدا اور کرامت کے لائق خنزیر ہے مگر خنزیر سے زیادہ پلیدہ لوگ ہیں جو  
 اپنے نفسانی جوش کے لئے حق اور دیانت کی گواہی کو چھپاتے ہیں۔ اسے بڑا بڑا بولویو۔ اور

گنہگار۔ ہم پر ہوس کر تم نے میری صداقت کے لئے اسلام کی بچی گواہی کو چھپایا۔ اسے  
 اندھیرے کے کیڑے پھیلنے کی تیر شعلوں کو کیڑے نگر چھپا سکتے ہو۔ کیا ضرورہ تھا کہ خدا اس  
 پیشگوئی میں اپنی شرمناک نکتہ سے ایمان اور انصاف سے ڈر رہا گئے والو تیجہ کو کہ کیا اس  
 پیشگوئی میں کوئی ایسی شرط تھی جس پر دم نہ لگتا آتم کا اس کی موت میں تاخیر ڈال سکتا تھا۔  
 سو تم جو صفت مت لو اور خدا کی نجات نکھاؤ جو عیسائیوں نے نکھائی۔

ایک کھول کر دیکھو کہ یہ پیشگوئی اپنی تمام جگہوں کے ساتھ پوری ہو گئی۔ اب اس  
 پیشگوئی کو ایک پیشگوئی نہ سمجھو بلکہ دو پیشگوئیاں ہیں جو اپنے وقت پر چھو ہیں انہیں۔

(۱) اہل پیشگوئی جو براہین احمدیہ کے سطور ۲۴۱ میں صراحت ہے۔ جس نے آج سے ہندو برس

کہتے ہیں کہ مہر علیشاہ صاحب لاہور میں آئے ان سے مقابلہ نہ کیا۔ جن دلوں پر خدا لعنت کرے میں توں کا کیا علاج کروں۔ میرا دل فیصلہ کے لئے درد مند ہے۔ ایک زمانہ گزر گیا میری یہ خواہش اب تک پوری نہیں ہوئی کہ ان لوگوں میں سے کوئی راستی اور ایمانداری اور نیک نیتی سے فیصلہ کرنا چاہے مگر افسوس کہ یہ لوگ صدق دل سے میدان میں نہیں آتے۔ خدا فیصلہ کے لئے تیار ہے اور اس ادنیٰ کی طرح جو بچہ جننے کے لئے دم اٹھاتی ہے زمانہ خود فیصلہ کا تقاضا کر رہا ہے۔ کاش ان میں سے کوئی فیصلہ کا طالب ہو۔ کاش ان میں سے کوئی رشید ہو میں بعیرت سے دعوت کرتا ہوں اور یہ لوگ ظن پر بھروسہ کر کے میرا انکار کر رہے ہیں ان کی نکتہ چینیاں بھی غرض سے میں کہ کسی جگہ ہاتھ پڑ جائے۔ نے نادان قوم! یہ سلسلہ آسمانی سے قائم ہوا ہے۔ تم خدا سے مت لڑو۔ تم اس کو نابود نہیں کر سکتے۔ اس کا ہمیشہ بول بالا ہے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے بجز ان چند حدیثوں کے جو تہتر فرقوں نے بوٹی بوٹی کر کے باہم تقسیم کر رکھی ہیں عدیت حق اور یقین کہاں ہے؟ اور ایک دوسرے کے کذب ہو۔ کیا ضرورہ تھا کہ خدا کا حکم یعنی فیصلہ کو فواتم میں نازل ہو کر تمہاری حدیثوں کے انبار میں سے کچھ لیتا اور کچھ رد کر دیتا۔ سو یہی اس وقت ہوا۔ وہ ظلی حکم کس بات کا ہے جو تمہاری سب باتیں ماننا جملہ کوئی بات نہ کہے پنے نفسوں پر ظلم مت کرو اور اس سلسلہ کو بے قدری سے نہ دیکھو جو خدا کی طرف تمہاری موج کیلئے پیدا ہوا اور یقیناً سمجھو کہ اگر یہ کاروبار انسان کا ہوتا اور کوئی پوشیدہ ہاتھ اس کے ساتھ نہ ہوتا تو یہ سلسلہ کب کا تباہ ہو جاتا اور ایسا مفتری ایسی جلدی ہاک ہو جاتا کہ اب اسکی ہڈیوں کا بھی پتہ نہ ملتا۔ ہوا اپنی مخالفت کے کاروبار میں نظر ثانی کرو کم سے کم یہ تو سوچو کہ شاید ظلی ہو گئی ہو اور شاید یہ لڑائی تمہاری خدا سے ہو۔ اور کیوں مجھ پر یہ الزام لگاتے ہو کہ برائین اصحاب کا رویہ کھا گیا ہے۔ اگر میرے پر تمہارا کچھ حق ہے

۴۵۶ منشی الہی بخش صاحب نے جوئے الزاموں اور بہتان اور خلاف واقعہ کی نجات



اربعین نمبر ۴

۲۵۷

۱۲

جس کا ایماناً تم مواخذہ کر سکتے ہو یا اب تک میں نے تمہارا کوئی ترغذ ادا نہیں کیا۔ یا تم نے اپنا حق مانگا اور میری طرف سے انکار ہوا تو ثبوت پیش کر کے وہ مطالبہ مجھے کرو۔ مثلاً اگر میں نے براہین احمدیہ کی قیمت کا دوپہ تم سے

اپنی کتاب معائے مومنی کو ایسا بھر دیا ہے جیسا کہ ایک نانی اور ہمدرد گڈے کچرے بھری جاتی ہے یا جیسا کہ سنڈاس پاخانہ ہے۔ اور خدا سے بے خوف ہو کر میری عزت پر افتراء کے طور پر سخت دشمنوں کی طرح حملہ کیا ہے وہ یقیناً سمجھ لیں کہ یہ کام انہوں نے اچھا نہیں کیا۔ اور جو کچھ انہوں نے لکھا ہے ان گالیوں سے زیادہ نہیں جو حضرت مومنی کو دی گئیں اور حضرت مسیح کو دی گئیں۔ اور ہمارے سید علیہ السلام کو دی گئیں۔ انہوں نے آیت ویل لکل ہمزة لمزقة کے ویل کے وعید سے کچھ بھی اندیشہ نہیں کیا۔ اور نہ انہوں نے آیت لا تقف ما لیس لک بہ علم کبھی کچھ بھی پروا کی۔ وہ بار بار میری نسبت لکھتے ہیں کہ میں نے ان کو تسلی دینی کہ میں آپ کے افتراء کی وجہ سے کسی انسانی عدالت میں آپ پر نانش نہیں کرونگا۔ مومنی کہتا ہوں کہ میں نہ صرف انسانی عدالت میں نانش کرونگا بلکہ میں خدا کی عدالت میں بھی نانش نہیں کرتا۔ لیکن چونکہ آپ نے محض جھوٹے وعدے قابل شرم الزام میرے پر لگائے ہیں اور مجھے ناکرہ گناہ دکھ دیا ہے اس لئے میں ہرگز یقین نہیں رکھتا کہ میں اس وقت سے پہلے مردوں جب تک کہ میرا قادر خدا ان جھوٹے الزاموں سے مجھے بری کر کے آپ کا کاذب ہونا ثابت نہ کرے۔ الا ان لعنة الله علی الکاذبین۔ اسی کے متعلق قطعی اور یقینی طور پر مجھ کو ۹ دسمبر ۱۹۸۱ء روز پنجشنبہ کو یہ ایہام ہوا کہ میرا مقام فلک شدہ یارب۔ اگر امید ہے ہم مدار عجب۔ بعد اللات، اللہ تعالیٰ میں نہیں جانتا کہ گیارہ دن ہیں یا گیارہ ہفتہ یا گیارہ مہینے یا گیارہ سال مگر بہر حال ایک نشان میری برکت کے لئے اس مدت میں ظاہر ہو گا جو آپ کو سخت شرمندہ

اب دیکھو تین سو تیرہ شخص ہوں کتاب میں صریح میں یہی پیشگوئی کا مصداق ہے جو حدیث مسند احمد علی  
علیہ السلام میں پائی جاتی ہے۔ پیشگوئی میں کہ وہ کاغذ بھی ہے جو صحیح قادیان کے نام کو تیار ہے پس  
تمام مضمون اس حدیث کا یہ ہے کہ وہ ہمدی ہو گا قادیان میں پیدا ہو گا اور اس کے پاس ایک کتاب  
بھی ہوئی ہوگی جس میں تین سو تیرہ اس کے دکھوں کے نام درج ہونگے۔ سو ہر ایک شخص جو کتاب کے کور  
بات سیر اختیار میں تو نہیں تھی کہ میں ان کتابوں میں جو اس زمانہ سے بزرگ ہیں پہلے دنیا میں لکھی ہو چکی ہیں اپنے  
کاغذ کا بیان کا نام لکھ دیتا اور نہ میں نے چھاپہ کی گل نکالی ہے تاہم خیال کیا جائے کہ میں نے اس غرض سے  
مطبع کو اس زمانہ میں ایجاد کیا ہے اور نہ تین سو تیرہ شخص صاحب کسبیدار نامیرے اختیار میں تھا بلکہ یہ تمام  
اسباب خود خدا تعالیٰ نے پیدا کئے ہیں۔ تاہم اپنے رسل کریم کی پیشگوئی کو پورا کرے۔

گر اس زمانہ کے مولویوں کی حالت پر سخت غصوں ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی پیشگوئی  
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہو۔ آتم کی نسبت کیسی صفائی سے پیشگوئی پوری ہوئی خدا تعالیٰ کی  
ابھاری شرط کے موافق نکل آتم سو دایوں کی طرح ڈھاپا۔ جو باوجود شدت خوف شرط سے قائم اٹھتا ہوا  
کی حالت میں خدا تعالیٰ کے قلعی الہام کے موافق داخل جہنم ہوا۔ اور یہی پیشگوئی تھی جس کی پوری ہو کر سنہ  
۱۸۵۷ء میں سب سے پہلے خبر دی گئی تھی۔ سو جیسا کہ اس پیشگوئی کی تکذیب میں پادریوں نے جھوٹ کی خبر  
کھائی، عبدالحق اور عبدالحق فرمایاں، فریو مخالف مولویوں نے بھی وہ نجاست کھائی اور جیسا کہ عیسائیوں نے اسلام  
پر حملہ کیا انہوں نے بھی اسلام پر حملہ کیا کیونکہ یہ نشان اسلام کی تائید میں تھا۔ سو ان لوگوں نے اسلام کی کچھ پر  
تذکی اور کچھ بھی حیا اور شرم اور تقویٰ سے کام نہ لیا۔ اسی لئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا نام  
یہودی رکھا۔ اگر یہ لوگ آتم کے بارے میں کوئی بھی شک پڑتی کہ تے تو ہمیں کچھ غصوں نہ تھا۔ مگر ان لوگوں نے  
سچائی پر شکوہ اور آتم کی طرح چمکے ہی تھی عبدالحق فرمادی بار بار لکھتا ہے کہ پادریوں کی فتح ہوئی ہم اس کے  
جلب میں بجز اس کے کیا کریں اور کیا لکھیں کہ اے بدعت یہودی صفت پادریوں کا اس میں شہنشاہ۔ اور  
ساتھی تیری اور پادریوں پر ایک آسمانی لعنت پڑی اور ساتھی وہ لعنت تجھ کو بھی کھا گئی مگر تو سچا ہے  
تو بے ہمیں دکھلا کہ آتم کہاں ہے۔ لے غیث کب تک تو بے لگا کیا تیرے لئے ایک دن موت کا مقرر نہیں۔

ایسا ہی ذرہ انصاف کرنا چاہیے کہ کس قوت اور چمک سے کسوت اور خسوت کی پیشگوئی پوری ہوئی۔ اور ہمارے مولیٰ پر آسمان نے گواہی دی۔ مگر اس زمانہ کے ظالم مولوی اس سے بھی منکر ہیں۔ خاص کر رئیس القباہین عبدالحق طرزی اور اس کا تمام گروہ علیہم نعال لعن اللہ العت مستحق۔ اپنے ہڈیاں کھینچ کر نہایت اصرار سے کہتا ہے کہ یہ پیشگوئی بھی پوری نہیں ہوئی۔ اسے پیدا جلال! پیشگوئی تو پوری ہو گئی۔ لیکن تعصب کے غبار نے تجھ کو اندھا کر دیا۔ پیشگوئی کے اصل لفظ جو امام محمد باقر سے واقفانی میں مروی میں یہ ہیں: "ان لہدینا ایتان نہ تکتونامنہ خلق التھوی والارضین کسفت القمر لاول لیلہ من رمضان و تکسفت الشمس فی النصف منہ الہ۔ یعنی ہمارے بہدی کی تائید اور تصدیق کے لئے دو نشان مقرر ہیں۔ اور جب کہ زمین و آسمان پیدا کئے گئے وہ دو نشان کسی سگی کے وقت ظہور میں نہیں آئے۔ اور وہ یہ ہیں کہ بہدی کے اذکار کے وقت میں چاند کو اس پہلی رات میں گرہن ہو گا جو اس کسوت کی تین راتوں میں پہلی رات یعنی تیرھویں رات۔ اور سورج کو اس کے گرہن کے دنوں میں سے اس دن گرہن ہو گا جو دریا کا دن ہے یعنی اٹھائیس تاریخ کو۔ اور جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے کسی سگی کے لئے یہ اتفاق نہیں ہوا کہ اس کے مولیٰ کی قوت میں خسوت کسوت و رمضان میں ان تاریخوں میں جو ابو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمایا اس غرض سے نہیں تھا کہ وہ خسوت کسوت قانون قدرت کے برخلاف ظہور میں آئے گا اور یہ حدیث میں کوئی ایسا لفظ ہے۔ بلکہ صرف یہ مطلب تھا کہ اس بہدی سے پہلے کسی مدعی صادق یا کاذب کو یہ اتفاق نہیں ہوا ہو گا کہ اس نے بہدیت یا رسالت کا دعویٰ کیا ہو۔ اور اس کے وقت میں ان تاریخوں میں رمضان میں خسوت کسوت ہوا ہو۔ پس ان مولویوں کو چاہیے تھا۔ کہ اگر اس پیشگوئی کی صحت میں شک تھا تو ایسی کوئی نظیر سابق زمانہ میں سے بجا کہ کسی کتاب کے پیش کرتے۔ جس میں لکھا ہوتا کہ پہلے ایسا دعویٰ ہو چکا ہے۔ اور اس کے وقت میں ایسا خسوت کسوت بھی ہو چکا ہے مگر اس طرف تو انہوں نے رخ بھی نہیں کیا۔ اور یہ اہمقانہ عند پیش کر دیا ہے کہ اس پیشگوئی کے یہ معنی ہیں کہ چاند کو رمضان کی پہلی رات میں گرہن لگے گا۔ اور پندرہ تاریخ کو سورج گرہن ہو گا۔ لا حول ولا قوت۔ ان محققین یعنی کس لفظ سے کچھ لٹے لٹے نادانوں کو انھوں نے اندھا مولویت کو بدنام کرنے والا ذرہ سوچا۔

۵۳

کے لئے حکم کیا۔ اور جو چاہا کیا۔ اور  
وہ احکم الحاکمین ہے۔

۵

ہمارا ایک دوست، اور ہم اس کی محبت سے پر ہیں  
اور رتبہ اور منزل سے ہیں بے فتنہ اور نفرت ہے۔  
تس دیکھتا ہوں کہ دنیا اور اس کے طالبوں کی ذہنی قوت نہ  
ہو گئی ہے یعنی جلدی تباہ ہو جائیگی اور ہماری محبت کی ذہنی قوت  
نہیں رہے گی۔ مگر ہم اس منہ کی طرف  
جھک گئے ہیں جو خوشی پہنچانے والا اور طرب انگیز ہے۔  
ہم اپنے پیار کے دامن سے کوئی تہہ نہیں ایسے کہ جو ساتھ  
شفاق نہیں ہو سکتا وہ بھی ہمارے لئے مؤثر ہو گیا  
دشمن ہمارا یا بالوں کے خنجر ہو گئے۔ اور ان کی  
عودتیں کتیلوں سے بڑھ گئی ہیں۔

اقوم لدعوة الانام - وفعل ما شاء و  
هو احکم الحاکمین - والله یعلم ما فی قلبی  
ولا یعلم احد من العالمین ۵

حُبُّ لَنَا نِعْمَةٌ نَقْتَتِبُ

وَعَنِ الْمَنَازِلِ وَالْمَرَاتِبِ نَرْغَبُ

اَللّٰهُ اَرِىْ لِدُنْيَا دِبْلَةً اَهْلَهَا

جَدِيَّتٍ وَّارِثٍ دَعَادًا فَالْتَجِدُ

يَتَمَّيَلُونَ عَلٰى النِّعَمِ وَاِقْتِنَا

مَلْنَا اِلٰى وَجْهِ سِرٍّ وَّنَظَرِيَّةٍ

اِنَّا قَلَقْنَا بِذُنُوبِ حَبِيْبِنَا ۵

حَتّٰى اسْتَنَارَ لَنَا الَّذِي لَا يَخْشَى

اِنَّ الْعَصَا صَارَ وَاخْتَارَ زِيْرَ الْعُقَلَا

وَنَسَاوَهُمْ مِنْ دُونِهَا الْاَكْلَبُ

آنچه را خواست کر که او احکم الحاکمین است و غلامی داند آنچه در دل من است و غیر او از من آگاه نہ

### اشعار

ما را محبوبی است کہ از حُبِّ او ہر می باشیم۔ و از مراتب و مناصب بکلی فراخ داریم۔

میں ہمیں دنیا و زمین طالبانش را قطب برآں چیرہ شدہ۔ و لے زمین و کستی ما ہوں سر بہر خواہ بود۔

مہم بر نعمتہائے دنیا سر فرود آورده اند۔ لیکن مایل سوئے روئے آورده ایم کہ شادی و خور می بخشد۔

ما دوست بدان دوست خود ندہ ایم از ہمیں سبب است کہ آنچه ما یو نشن و شارب بود حبت ما در دشت گردیدہ است۔

دشمن ما خنجر را سے بیان شدہ اند و دشمنان آنها سگ ماہوہ را در پس انداختہ اند۔

بلکہ ہر سخت دل اور دشمن اسلام را اور مسیح کہ ہر اور خدا ہی کہتا رہا۔ پھر اگر ہم اسی وقت بلا توقف عدو ہزار  
اور بی ہونے کو ہم پر لعنت اور ہم جھوٹے اور ہمارا الہام جھوٹا اور ہر جہد اشداً تم قسم نہ کھائے یا تم کی سزا  
کے اندر کیسے کہ ہم سچے اور ہمارا الہام سچا۔ پھر بھی اگر کوئی حکم سے ہمارے تکذیب کرے اور اس میں  
کی طرف متوجہ نہ ہو اور ناسی سچائی پر وہ طعن چاہے تو بے شک وہ ولد الحلال اور نیک ذات  
نہیں ہو گا کہ خواہ خواہ حتیٰ سے روگردان ہونا ہے اور اپنی شیطنیت سے کوشش کرتا ہے  
کہ سچے جھوٹے ہو جائیں۔

اب اس سے زیادہ صاف اور کون فیصلہ ہو گا کہ ہم دو گلوں کے مول میں خود اصراف سر میں  
جا کر دو نذر اور پیدا دیتے ہیں۔ مسٹر عیسا اشداً تم اگر وہ حقیقت مجھے کا ذہب سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ  
وہ ذرہ بھی اس نے اسلامی عظمت کی طرف رجوع نہیں کیا تو وہ ضرور بلا توقف جہدت مذکورہ بالا کے موافق  
اقرار کرے گا کہ گمراہی اور اپنے تجربہ سے جان چکا کہ میں جھوٹا ہوں اور مسیح کی حفاظت کو اس نے مشاہدہ  
کر لیا پھر اس مقابلہ سے اس کو کیا خوف ہے کیا پہلے پندرہ سینچول میں مسیح زندہ تھا اور مسٹر عیسا اشداً  
ہتم کی حفاظت کر سکتا تھا اور اب مر گیا ہے اس نے نہیں کر سکتا جبکہ عیسائیوں نے اپنے اہتیار میں  
یکہ کے اعلان دیا ہے کہ خداوند مسیح نے مسٹر عیسا اشداً تم کی جان بچائی تو پھر وہ بھی خداوند مسیح جان  
بچائے گا کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ اب مسیح کے خداوند قادر ہونے کی نسبت مسٹر عیسا اشداً تم کو کچھ شک  
اور تردید پیدا ہو جائے۔ یہ پہلوہ شک نہ ہو بلکہ اب تو بہت یقین چاہیے کہ اس کی خداوندی اور  
عظمت کا تجربہ ہو چکا اور نیز ہمارے مسٹر عیسا اشداً تم کا تجربہ۔ لیکن یاد رکھو کہ مسٹر عیسا اشداً تم اپنے دل میں  
لوب ہانک ہے کہ وہ سب باتیں جھوٹ ہیں کہیں کو مسیح نے بچایا جو خود مر چکا وہ کس کو بچا سکتا ہے اور جو  
مر گیا وہ قادر کہ اور خداوند مر گیا بلکہ کچھ تو یہ ہے کہ سچے اور کامل خدا کے خوف نے اس کو بچایا اگر اب  
۱۵۴ عیسائیوں کی تحریک سے چپکے ہو جائے گا۔ تو پھر اس کامل خدا کی طرف سے عیسا کی کا منہ چکے  
گنہگار سب ہم نے فیصلہ کی صاف صحت راہ بتا دی اور جھوٹے سچے کے ٹھیک میاوش کر دیا۔  
اب جو شخص اس صحت فیصلہ کے برخلاف غمراہت اور خدا کی راہ سے گمراہی کرے گا اور اپنی غمراہت  
سے اور بارے گا کہ عیسائیوں کی فتح ہوگی اور کچھ شرم اور حیا کو کام نہیں لائے گا اور بغیر اس کے جو ہمارے  
اس فیصلہ کا اصراف کی رو سے وہ سچے ہوئے کے انکار اور زبان ڈراڑھی سے بازنہیں آئے گا  
اور ہمدی فتح کا قائل نہیں ہو گا تو صحت بجا ہوتی ہے کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے  
اور حال زندہ نہیں پس حلال زندہ بننے کے لئے واجب یہ تھا کہ اگر وہ مجھے جھوٹا جانتا ہے اور

۳۸۲

نزول اسح

جس زمانہ میں ان مولویوں اور ان کے چیلوں نے میرے پر تکذیب اور بد زبانی کے حملے شروع کئے اُس زمانہ میں ہمیری بیعت میں ایک آدمی بھی نہیں تھا۔ گو چند دوست جو اگیوں پر شمار ہو سکتے تھے میرے ساتھ تھے۔ اور اس وقت خدا تعالیٰ کے فضل سے ستر ہزار کے

بقیہ ستر ہزار اسی پندرہ دنوں سلسلوں کا تقابل پورا کرنے کے لئے یہ ضروری تھا کہ موسیٰ مسیح کے مقابل پر محمدی مسیح بھی شان نبوت کے ساتھ آئے تا اس نبوت عالیہ کی کشتیاں نہ جو اس لئے خدا تعالیٰ نے میرے وجود کو ایک کامل ظہیرت کے ساتھ پیدا کیا اور ظلی طور پر نبوت محمدی اس میں دکھ دی تا ایک معنی سے مجھ پر نبی اللہ کا لفظ صادق آئے اور

دوسرے معنوں سے ختم نبوت محفوظ رہے۔  
اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ خدا نے حکیم حکیم نے وضع دنیا دہری رکھی ہے یعنی بعض نفوس بعض کے مشابہ ہوتے ہیں نیگ نیگوں کے مشابہ اور بد بدوں کے مشابہ مگر ہاں ہمہ یہ امر غفی ہو گا ہے اور ذور شعور سے ظاہر نہیں ہوتا لیکن آخری زمانہ کے لئے خدا نے مقرر کیا جو ا تھا کہ وہ ایک عام رجعت کا زمانہ ہو گا تا یہ اُمت مرحومہ وہ سری اُمتوں سے کسی بات میں کم نہ ہو۔ پس اُس نے مجھے پیدا کر کے ہر ایک گذشتہ نبی سے مجھے اُس نے تشبیہ دی کہ وہی میرا نام رکھ دیا۔ چنانچہ آدم ابراہیم نوح موسیٰ داؤد سلیمان یوسف عیسیٰ وغیرہ یہ تمام نام بر اہین احمد یاکہ میں میرے مکے گئے اور اس صورت میں گویا تمام انبیاء گذشتہ اس اُمت میں دوبارہ پیدا ہو گئے یہاں تک کہ سب کے آخر مسیح پیدا ہو گیا اور جو میرے مخالف تھے ان کا نام عیسائی اور یہودی اور مشرک رکھا گیا چنانچہ قرآن شریف میں احیٰ کی طرف اشارہ کرتا ہوا فرماتا ہے  
اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین  
پس یہ آیت صاف کہہ رہی ہے کہ اس اُمت کے بعض افراد کو گذشتہ نبیوں کا کمال دیا جائے گا اور نیز یہ کہ گذشتہ کفار کی عادات بھی بعض منکر دل کو دی جائیں گی اور بڑھی شد و مد سے

لہ الفاتحہ: ۶۰

ہلقتل ایک جگہ یہ کہ زبان عربی میں میرے مقابل میں سات آیت قرآنی کی تفسیر لکھیں اور یا ایک سال تک

ان تمام واقعات سے اطلاع پادے تا اس کی بے خبری اس کی شفیق نہ ہو۔ پھر بعد اس کے قسم کھا دے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں اور جھوٹی ہے۔ پھر اگر دو ایک سال تک اس قسم کے دیال سے تباہ نہ ہو جائے اور کئی ذوق العلوت مصیبت اس پر نہ پڑے تو دیکھو کہ میں سب کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ اس صورت میں میں اقرار کروں گا کہ ہاں میں جھوٹا ہوں۔ اگر عبدالحق اس بات پر اصرار کرتے تو وہی قسم کھا دے اور اگر محمد حسین بٹالوی اس خیال پر زور دے رہا ہے تو وہی میدان میں آوے۔ اور اگر مولوی احمد ابٹو امرتسری یا شامی امرتسری ایسا ہی کچھ رہا ہے تو انہیں پر فرض ہے کہ قسم کھانے سے اپنا تقویٰ دکھادیں اور یقیناً یاد رکھو کہ اگر ان میں سے کسی نے قسم کھائی کہ اہم کی نسبت بیشکوٹی پوری نہیں ہوئی اور عیسائیوں کی فتح ہوئی۔ تو خدا اس کو ذلیل کرے گا۔ رُوسیاہ کرے گا۔ اور لعنت کی موت سے اس کو پاک کرے گا کیونکہ اس نے سچائی کو چھپانا چاہا۔ جو وہ اس قسم کے لئے خدا کے حکم اور ارادہ سے زمین پر ظاہر ہوئی۔

مگر کیا یہ لوگ قسم کھالیں گے؟ ہرگز نہیں۔ کیونکہ یہ جھوٹے ہیں۔ اور کتلی کی طرح جھوٹ کا مردار کھا رہے ہیں۔

ابہر گز کوئی یہ سوال کرے کہ اگرچہ عبدالحق کے مباہلہ میں اس طرف سے کسی بددعا کا اعلان نہ کیا گیا۔ مگر جو صفاق کے سامنے مباہلہ کے لئے آیا ہو۔ کسی قدر تو بعد مباہلہ ایسے امور کا پایا جانا چاہیے جن پر غور کرنے سے اس کی ذلت اور سزوی پائی جائے اور اپنی عزت دکھائی دے۔ سو جانا چاہیے کہ وہ امور یہ تفصیل میں ہیں جو بحکم العاقبۃ للمتقین ہماری عزت کے موجب ہوئے۔ اول۔ اہم کی نسبت بیشکوٹی کی گئی تھی۔ وہ اپنے واقعی معنوں کے نو سے پندی ہو گئی۔ اس دن وہ بیشکوٹی بھی پوری ہوئی۔ جو ہندو برس پہلے براہمن احمدیہ کے صفحہ ۳۱۱ میں لکھی گئی تھی۔ اہم اہل منشا راہبام کے مطابق ہو گیا۔ اور تمام مخالفوں کا منہ کالا ہوا۔ اور ان کی تمام جھوٹی توشیہیں خاک میں مل گئیں۔ اس بیشکوٹی کے واقعات پر اطلاع پاکر صد اولوں کا کفر ٹوٹا اور ہزاروں خطا اس کی تصدیق کے لئے پہنچے اور جنہوں اور کتبوں پر وہ لعنت پڑی جو ان دنوں نہیں ہو سکتے۔ جو مسلمان اور جو مباہلہ کے بعد میری عزت کا موجب ہوا وہ ان عربی رسالوں کا مجموعہ ہے جو مخالفوں نے اور ہادیوں کے ذلیل کرنے کے لئے لکھا

۱۶۳

وَأَشْهَدُ بِالْأَحْرَارِ وَالْأَسَارِيِّ أَنِّي أَضْعَعُ الْمَبْرُكَةَ وَاللَّعْنَةَ أَمَامَ النَّصَارِيِّ  
 اور میں آزادوں اور قیدیوں کو گواہ کرتا ہوں کہ میں آج بركت اور لعنت نصاریٰ کے آگے رکھتا ہوں  
 أَمَّا الْمَبْرُكَةُ فَيُنَالُهَا بِرُكَّةِ الدُّنْيَا عِنْدَ مَقَابِلَةِ الْكِتَابِ وَيُنَالُونَ أَنْعَامًا كَثِيرًا  
 بركت سے مراد دنیا کی بركت ہے کہ مقابلہ کے وقت ان کو حاصل ہوگی اور وہ بہت سا انعام  
 مَعَ الْفَقْرِ وَالْغَلَابِ أَوْ يُنَالُهَا بِرُكَّةِ الْآخِرَةِ عِنْدَ التَّوْبَةِ وَتَرْكِ تَوْهِيْنِ  
 مع فتح اور غلبہ کے پائیں گے یا بركت سے مراد آخرت کی بركت ہے کہ توبہ اور ترک توفہ میں قرآن  
 الْقُرْآنِ وَتَرْكِ صِفَةِ السَّرْحَانِ وَأَمَّا اللَّعْنَةُ فَلَا يَرُدُّ عَلَيْهِمْ إِلَّا عِنْدَ  
 ہے ان کو طے کی گئے لعنت ان پر صرف اس حالت میں وارد ہوگی کہ جب بالمقابل رسالہ نہ بنا سکیں  
 أَعْرَاضَهُمْ عَنِ الْجَوَابِ وَمَعَ ذَلِكَ عَدَمِ امْتِنَانِهِمْ عَنِ الشُّمِّ وَالسَّبِّ  
 اور باوجود اس کے

وَالْقُدْحِ فِي كِتَابِ رَبِّ الْآرِبَابِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

قرآن شریف کی توہین اور تحقیر سے بھی باز نہ آویں۔

وَأَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ مَنْ هُوَ مِنْ ذُرِّيَةِ الْحَلَالِ وَلَيْسَ مِنْ ذُرِّيَةِ الْبَغْيِ

یہ جانتنا چاہیے کہ ہر ایک شخص جو ذرہ الحلال ہے اور خراب عورتوں

وَنَسْلِ الدَّجَالِ فَيَفْعَلُ أَمْرًا مِنْ أَمْرِي أَمَا كَفَّ اللِّسَانَ بَعْدَ تَرْكِ  
 اور دجال کی نسل میں سے نہیں ہووے دو باتوں میں سے ایک بات ضرور اختیار کرے گا یا توبہ کے دروغ کوئی  
 الْإِفْتِرَاءِ وَالْمِينِ وَأَمَّا تَأْيِيفُ الرِّسَالَةِ كَرِسَالَتِنَا وَتَرْصِيعِ الْمَقَالَةِ لِمَقَالَتِنَا  
 اور افتراء سے باز آجئے گا یا ہمارے اس رسالہ جیسا رسالہ بنا کر پیش کرے گا

وَلَكِنَّ الَّذِي مَأْرَدُ جَرْمِ الْقُدْحِ فِي بِلَاغَةِ الْقُرْآنِ وَمَا امْتَنَعَ مِنَ الْإِنْكَارِ  
 مگر وہ شخص کہ جس نے نہ تو ہمارے رسالہ جیسا رسالہ بنایا اور نہ قرآن کریم کی جرح و قدح سے باز آیا  
 مِنْ فَصَاحَةِ الْفِرْقَانِ فَعَلِيهِ كَمَا قُلْنَا وَكَتَبْنَا فِي هَذَا الْقُرْطَانِ عَلَيْهِ  
 اور نہ فصاحت قرآنی پر حملہ بجا کرنے سے اپنے تمہیں روکا پس اس پر وہ سب باتیں وارد ہوئی جو ہم اس رسالہ



تو مناسب تھا کہ وہ اس بحث میں اپنے تئیں نہ ڈالتے اور چُپ ہی رہتے اور خواہ مخواہ اپنے موجودہ وید کی پر وہ درمی نہ کراتے۔ جو کچھ وید نے اپنا فلسفہ اور علم طبعی ظاہر کیا ہے وہ یہی ہے کہ ہندوؤں کے پریشد کو ایک انسان کا فرزند قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اندر آریوں کا پریشد کشتیا کا بیٹا ہے۔

اور نیز یہ کہ عناصر اور اجرام سماویہ سب پریشد ہی ہیں اور نیز وہ تعلیم دیتے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے مرادیں مانگی جائیں اور نیز یہ تعلیم جو نہایت گندی اور قابل شرم تعلیم ہے یعنی یہ کہ پریشد نافر سے دس انگلی نیچے ہے (سمجھنے والے سمجھ لیں)

ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی پہلے زمانہ میں یہی وید تھا۔ بلکہ ہماری رائے یہ ہے کہ یہ ایک محرف متبدل کتاب ہے کچھ تو باعتبار الفاظ کے اور کچھ باعتبار معنوں کے۔ اور ہمارے نزدیک ممکن اور اغلب ہے کہ کوئی اصل کتاب خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوگی پھر کچھ کم کی گئی ہے اور کچھ زیادہ کی گئی۔ اور صورت بدلائی گئی ہے اور موجودہ وید بلاشبہ ایک گمراہ کر نیوالی کتاب ہے۔

جس میں پریشد کا بھی پتہ نہیں ملتا اور اس قدر مخلوق چیزوں کی اس میں پریشد کی تعلیم ہے کہ گویا وہ مخلوق پرستی کی ایک دوکان ہے جس جگہ ہم وید پر کوئی حملہ کرتے ہیں یا اسکی تکذیب کے فائل پیش کرتے ہیں اس جگہ ہی موجودہ وید مراد ہے جو سراسر محرف متبدل ہے نہ وہ اصل وید جو کسی زمانہ میں خدا کی طرف سے آیا تھا اور ہم خدا کی تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور ایسا ہی اس وید پر جو کسی زمانہ میں ملک ہند کے کسی نبی پر نازل ہوا ہوگا مگر موجودہ وید کی نسبت ہم اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جس قدر گندے فرتے مخلوق پرستوں کے اس ملک میں پھیلے ہوئے ہیں یہ سب وید کی ہی مہربانی ہے اور انسانی پاکیزگی کی نسبت جو کچھ وید نے سکھایا ہے اس کا عمدہ نمونہ نیوگ ہے۔ یہ نیوگ کہ ہی پاک کارروائیوں میں سے ہے کہ آریہ قوم میں اس بات کا ثبوت طنا مشکل ہے کہ کون آریہ صاحب اصل باپ کے لطف میں سے ہے۔ اور کون آریہ

ایک برس تک انتظار کریں۔ اور یا مباہلہ کر لیں۔ ششم۔ اور اگر ان باتوں میں سے کوئی بھی نہیں تو عہد سے

کیا تم میں ایک بھی سوچنے والا نہیں جو اس بات کو سوچے۔ کیا تم میں ایک بھی دل نہیں جو اس بات کو سمجھے۔ زمین نے عزت دی۔ آسمان نے عزت دی اور قبولیت پھیل گئی۔

**پانچواں** وہ امر جو مباہلہ کے بعد میرے لئے عزت کا موجب ہوا۔ علم قرآن میں اتنا حجت ہے۔ میں نے یہ علم پا کر تمام مخالفوں کو کیا عبدالحق کا گروہ اور کیا بطالوی کا گروہ۔ غرض سب کو بند آواتے اس بات کے لئے مدعو کیا کہ مجھے علم حقائق اور معارف قرآن دیا گیا ہے۔ تم لوگوں میں سے کسی کی مجال نہیں کہ میرے مقابل پر قرآن شریعت کے حقائق و معارف بیان کر سکے۔ سو اس اعلان کے بعد میرے مقابل ان میں سے کوئی بھی نہ آیا۔ اور اپنی جہالت پر جو تمام ذلتوں کی جڑ ہے انہوں نے ٹہر لگا دی۔ سو یہ سب کچھ مباہلہ کے بعد ہوا۔ اور اسی زمانہ میں کتاب کرامات الصادقین لکھی گئی۔ اس کرامت کے مقابل پر کوئی شخص ایک حرف بھی نہ لکھ سکا۔ تو کیا اب تک عبدالحق اور اس کی جماعت ذلیل نہ ہوئی۔ اور کیا اب تک یہ ثابت نہ ہوا۔ کہ مباہلہ کے بعد یہ عزت خدا نے مجھے دی۔

**چھٹا** امر جو مباہلہ کے بعد میری عزت اور عبدالحق کی ذلت کا موجب ہوا۔ یہ ہے کہ عبدالحق نے مباہلہ کے بعد اشتہار دیا تھا کہ ایک فرزند اس کے گھر میں پیدا ہوگا۔ اور میں نے بھی خدا تعالیٰ سے الہام پا کر یہ اشتہار انوار اسلام میں شائع کیا تھا کہ خدا تعالیٰ مجھے لڑکا عطا کرے گا۔ سو خدا تعالیٰ کے فضل اور کرم سے میرے گھر میں تو لڑکا پیدا ہو گیا۔ جس کا نام شریعت احمد ہے اور قریباً پونے دو برس کی عمر رکھتا ہے۔ اب عبدالحق کو ضرور پوچھنا چاہیے۔ کہ اس کا وہ مباہلہ کی برکت کا لڑکا کہاں گیا۔ کیا اندر ہی اندر پیٹ میں چھپیں پا گیا یا پھر رحمت قہقری کے نطفہ بن گیا۔ کیا اس کے سوا کسی اور چیز کا نام ذلت ہے کہ جو کچھ اس نے کہا وہ پورا نہ ہوا۔ اور جو کچھ میں نے خدا کے الہام سے کہا خدا نے اس کو پورا کر دیا۔ چنانچہ ضیاء الحق میں بھی اسی لڑکے کا ذکر لکھا گیا ہے۔

**ساتواں** امر جو مباہلہ کے بعد میری عزت اور قبولیت کا باعث بن گیا خدا کے راست باز بندوں کا وہ مخلصانہ بخشش ہے جو انہوں نے میری خدمت کے لئے دکھلایا۔ مجھے کبھی یہ طاقت نہ ہوگی کہ میں خدا کے ان احسانات کا شکر ادا کر سکوں۔ جو روحانی اور جسمانی طور پر مباہلہ کے بعد میرے وارثان ہو گئے۔ روحانی انعامات کا نمونہ میں لکھ چکا

بہارِ شریف

یعنی خدا تعالیٰ میرے ہاتھ سے وہ نشان ظاہر نہ کرے جن سے اسلام کا بول بالا ہو اور جس سے

کہ جہالتی نے مبارک کے بعد کسی حرمت دنیا میں پائی۔ کونسی قبولیت اس کی لوگوں میں پھیلی۔ کونسا مالی  
تعمیرات کے درون سے اس پر کھلے۔ کونسی علمی فضیلت کی بگڑی اس کو پہنائی گئی۔ عرف و فنون کوئی کے  
طرح سے ایک پڑھانے کا دعویٰ کیا تھا کہ تا یہی مبارک کا اثر سمجھا جائے۔ مگر اس کی بدبختی سے وہ دعویٰ  
بھی باطل نکلا۔ اور اب تک اس کی صورت کے پیٹ میں سے ایک چوہا بھی پیدا نہ ہوا۔ مگر اس کے مقابل پر  
خدا تعالیٰ نے میرے اہلہ کو پورا کر کے مجھے لڑا رکھا کیا ؟

یہ دستکش برکتیں مبارک کی ہیں جو میں نے لکھی ہیں۔ پھر کیسے خبیث وہ لوگ ہیں جو اس  
مبارک کو بے اثر سمجھتے ہیں۔ فعلیہ ہم ان پر تداویروں اور نیفکوں اورانی حدیث العشرۃ الکاملہ۔

بلاترہیب و بادہ ہر ایک مخالف مکتف کذب پر نظر کرتے ہیں کہ وہ مبارک کے میدان میں آویں اور  
یقیناً سمجھیں کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے جہالتی کے مبارک کے بعد یہ دس قسم کا ہر پر العالم و اکرام کیا۔ اس  
کو ذلیل کیا۔ اور اس کا بیٹے کا دعویٰ بھی بھوٹا نکلا۔ اور کوئی حرمت اس کو حاصل نہ ہوئی۔ اور خدا تعالیٰ نے  
اس کے تمام دعویٰ کو رد کیا۔ اس سے بڑھ کر جس مبارک میں ہوگا۔ میں نے اس روز بددعا  
نہیں کی۔ کیونکہ وہ فنا سمجھ اور ذمی تھا۔ اور اس کی جسالت اس کو قابل رحم ٹھہراتی تھی مگر اب  
میں بددعا کروں گا۔ سچا بیٹے کہ ہر ایک مبارک کی درخواست کرنے والا اپنی طرف سے چھپا  
ہوا اشتہار شائع کرے۔ اور ضروری ہوگا کہ مبارک کرنے والا صرف ایک نہ ہو۔ بلکہ کہتے کم  
دس ہوں۔ اور چونکہ مبارک کے لئے ہر ایک شخص جو آیا گیا ہے خواہ پنجاب کا ہو یا ہندوستان کا۔ یا  
باد عرب کا یا بلاد فارس کا۔ اس لئے یہ مشقت مخالفانہ پر جائز نہیں رکھی گئی کہ وہ دوسرا سفر  
کر کے نہیں بلکہ حسب منطوق و ما جمل علیکم فی الدین من حج۔ یہیہد اللہ بکم الیس  
ولایرید بکم العسر۔ یہ تجویز قرار پائی ہے کہ ہر ایک شخص اشتہارات کے ذریعہ  
سے مبارک حاصل کرے۔ مگر شرط ضروری ہے کہ جو اہامات میں نے رسالہ انجام اتہم میں  
صفحہ ۱۶ سے صفحہ ۲۲ تک لکھے ہیں۔ وہ کل اہامات اپنے اشتہاد مبارک میں لکھے۔ اور بعض حوالہ  
نہ دے بلکہ کل اہامات صفحات مذکورہ کے اشتہاد میں درج کرے۔ اور پھر بعد اس کے عبارت ذیل  
کی دُعا اس اشتہاد میں لکھے۔ اور وہ یہ ہے

دُعا

اے خداوندِ عظیم وغیر میں جو ظالمین میں توں ساکن قصبہ فلاں ہوں اس شخص کو

بہارِ شریف

جہالتی نے ہر شے کو اس اہت کی میں کو دیکھتے ہوں کہ نہ پریم گئی ہے وکشتہا دیا ہے اس شہد کو ہوں میں غیر  
بنی اور پریم ہے مگر وہاں قبل دریں ملک کے ہوں میں ساکن لکھے اپنے میں تین تین کر کے ہے بہت خوب یہی نشان دیکھے



باری، دشمن نہیں، اللہ کی مخلوق کو توڑ کر لے گی۔ اگر  
 وہ یہ کہتے ہیں تو انہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں اللہ کی توہین  
 سے بڑھ کر اور بھی کچھ نہیں کہتا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو  
 اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں۔ ان سے جو کچھ کہتا ہوں وہ  
 اللہ کے حکم ہے۔ ان سے جو کچھ کہتا ہوں وہ اللہ کے  
 حکم ہے۔ ان سے جو کچھ کہتا ہوں وہ اللہ کے حکم ہے۔

**حضرت علیؓ کے والدین کے کلام کا منتخب**

اللہ کی حمد و ثناء میں ہمیں حصہ دے۔ اللہ کی حمد و ثناء  
 میں ہمیں حصہ دے۔ اللہ کی حمد و ثناء میں ہمیں حصہ  
 دے۔ اللہ کی حمد و ثناء میں ہمیں حصہ دے۔ اللہ کی  
 حمد و ثناء میں ہمیں حصہ دے۔ اللہ کی حمد و ثناء  
 میں ہمیں حصہ دے۔ اللہ کی حمد و ثناء میں ہمیں  
 حصہ دے۔ اللہ کی حمد و ثناء میں ہمیں حصہ دے۔

اللہ کی حمد و ثناء میں ہمیں حصہ دے۔ اللہ کی حمد و ثناء  
 میں ہمیں حصہ دے۔ اللہ کی حمد و ثناء میں ہمیں حصہ  
 دے۔ اللہ کی حمد و ثناء میں ہمیں حصہ دے۔ اللہ کی  
 حمد و ثناء میں ہمیں حصہ دے۔ اللہ کی حمد و ثناء  
 میں ہمیں حصہ دے۔ اللہ کی حمد و ثناء میں ہمیں  
 حصہ دے۔ اللہ کی حمد و ثناء میں ہمیں حصہ دے۔

**حضرت علیؓ کے والدین کے کلام کا منتخب**

اللہ کی حمد و ثناء میں ہمیں حصہ دے۔ اللہ کی حمد و ثناء  
 میں ہمیں حصہ دے۔ اللہ کی حمد و ثناء میں ہمیں حصہ  
 دے۔ اللہ کی حمد و ثناء میں ہمیں حصہ دے۔ اللہ کی  
 حمد و ثناء میں ہمیں حصہ دے۔ اللہ کی حمد و ثناء  
 میں ہمیں حصہ دے۔ اللہ کی حمد و ثناء میں ہمیں  
 حصہ دے۔ اللہ کی حمد و ثناء میں ہمیں حصہ دے۔

اللہ کی حمد و ثناء میں ہمیں حصہ دے۔ اللہ کی حمد و ثناء  
 میں ہمیں حصہ دے۔ اللہ کی حمد و ثناء میں ہمیں حصہ  
 دے۔ اللہ کی حمد و ثناء میں ہمیں حصہ دے۔ اللہ کی  
 حمد و ثناء میں ہمیں حصہ دے۔ اللہ کی حمد و ثناء  
 میں ہمیں حصہ دے۔ اللہ کی حمد و ثناء میں ہمیں  
 حصہ دے۔ اللہ کی حمد و ثناء میں ہمیں حصہ دے۔

**حضرت علیؓ کے والدین کے کلام کا منتخب**

اللہ کی حمد و ثناء میں ہمیں حصہ دے۔ اللہ کی حمد و ثناء  
 میں ہمیں حصہ دے۔ اللہ کی حمد و ثناء میں ہمیں حصہ  
 دے۔ اللہ کی حمد و ثناء میں ہمیں حصہ دے۔ اللہ کی  
 حمد و ثناء میں ہمیں حصہ دے۔ اللہ کی حمد و ثناء  
 میں ہمیں حصہ دے۔ اللہ کی حمد و ثناء میں ہمیں  
 حصہ دے۔ اللہ کی حمد و ثناء میں ہمیں حصہ دے۔

اللہ کی حمد و ثناء میں ہمیں حصہ دے۔ اللہ کی حمد و ثناء  
 میں ہمیں حصہ دے۔ اللہ کی حمد و ثناء میں ہمیں حصہ  
 دے۔ اللہ کی حمد و ثناء میں ہمیں حصہ دے۔ اللہ کی  
 حمد و ثناء میں ہمیں حصہ دے۔ اللہ کی حمد و ثناء  
 میں ہمیں حصہ دے۔ اللہ کی حمد و ثناء میں ہمیں  
 حصہ دے۔ اللہ کی حمد و ثناء میں ہمیں حصہ دے۔

کہے گا۔ وہ خود لاکھوں کروڑ کا مال ہے۔ کہہ جائیں گے۔ کہ جھوٹا ہے۔ کون نصف اس مال کو بخش سکتا ہے۔ کہ ایک دلی  
کتاب ہے کہ تھا اور دنیا قص ہے۔ تم یہ احکام دیدے خالد اگر ناقص نہیں تم یہ جو بوجھ دیتے ہو اس وقت نہیں۔ وید  
ہاں موجود نہیں۔ بیوہ کیا جو بچہ ہے اس جواب سے آتم جوٹے پھرتے ہو۔ جس حالت میں ہم پانسو روپیہ نقد دینا  
کرتے ہیں۔ ٹونوں لکھ دیتے ہیں۔ رجسٹری کر دیتے ہیں۔ تو پھر اگر تھا اور دید بھی کچھ چیز ہے۔ تو کس دن  
کے واسطے رکھا ہوا ہے۔ وہ میں روز کی ہم سے نسبت لے لو۔ پڑتو داتا تک اپنا مدھار بنا لو ہم کو وہ احکام خالد  
جو ہم نیچے فرقان مید سے نکال لکھیں گے۔ یا یہ قرار کر دو کہ یہ احکام ہمارے نزدیک ناجائز ہیں۔ تب پھر انکے ناجائز  
ہو چکا تھا اور وید سے والہ وہ۔ غرض تم ہمارے ہاتھ سے کہاں بھاگ سکتے ہو۔ اور یہ جو تم غرض شرف سے  
بارہ تو ہیں حضرت مائیکہ فیہا کی نسبت بد زبانی کرتے ہو۔ غرض تھا ہی باصالی ہے۔ اپنے پرہیز میں ہی تم نے  
اسے ایسی انتہا تک پہنچا کر کہ نسبت لکھی ہے۔

ہم کو خدا نے یہ شرف بخشا ہے کہ ہم سید پیغمبروں کی تعظیم کرتے ہیں  
اور جیسا کہ خدا نے ہم کو دیا ہے۔ نجات سب مخلوقات کی اسلام میں سمجھتے ہیں۔ تم اگر حضرت مائیکہ انبیاء  
پر کچھ اعتراض ہے۔ تو زبان تہذیب سے وہ اعتراض جو سب سے بھاری ہو تحریر کر کے پیش کرو۔  
ہم تحریر کر دیتے ہیں۔ کنگرہ اعتراض تھا مائیکہ مائیکہ ہوا۔ کہ ہزار روپیہ (تین سو) ہم تم کو دیں گے۔ اور تم ایک ٹونوں لکھ دو کہ اگر  
وہ اعتراض جو تھا نکلا۔ تو سو روپیہ بلور جہانہ تم کو دو گے۔ اسباب اگر ہماری ہو تحریر کر چپ ہو جاؤ۔ اس شرط پر بحث  
شروع نہ کرو۔ تو ہر ایک منصف کچھ جائیگا۔ کہ وہ سب زمین تم نے بے ایمانی سے کی تھی۔ اکثر لوگوں کا اکثر کا وہ ہے کہ انکے  
پر توکتے ہیں۔ اور بچا ہوا پرانے لے بیٹھے ہو۔ دنیا کو بڑی چیز سمجھتا ہے۔ کہ روت سے ڈرتے نہیں۔ اور نہ ایسے  
آفتاب کی توہین کرنا جو لہ دنیا کا ہے۔ نہی حرمزدگی ہے۔ جو لے آدمی کو یہ نشان ہے۔ کہ ہاتھوں کے دور  
اہمیت کو تگرات مارتے ہیں۔ عجیب کوئی دامن بچا کر چے کہ دنیا خیرت دیکر جاؤ تو ہمارے سے نکلے تھے۔ وہیں داخل  
ہو جاتے ہیں۔ اب ہم نیچے وہ احکام فرقان مجید کے لکھے ہیں۔ کہ بن میں ہاویہ دعوتی ہے۔ کہ وید میں یہ تمام احکام  
مزدور ہرگز موجود نہیں۔ اسلئے وید ناقص تعلیم ہے۔ چاہو تم کہتے ہو کہ میں اور ہم کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں  
اور نسبت اس شخص پر کہ جھوٹا ہے۔

اول۔ خدا تعالیٰ کی نسبت جو احکام فرقان مید کے ہیں۔ خلاصہ آیات کا نیچے لکھتا ہوں۔

(۱) تم خدا کو اپنے جہوں اور روحوں کا رب سمجھو۔ جس نے تمہارے جہوں کو بنایا۔ اسی نے تمہاری روحوں کو پیدا کیا۔  
وہا تم سب کا خالق ہے۔ اس بن کو کئی چیز موجود نہیں ہوگی۔

(۲) آسمان اور زمین اور سہارا اور جتنی نعمتیں زمین آسمان میں نظر آتی ہیں۔ یہ کسی عمل کنندہ کے عمل کی پاداش

۵۴۷

ومنح بی من النعم الظاهرة والباطنة وجعلني من المجدوبين. وكنت شاباً  
وقد شغيت وما استفتحت باباً الا فتحت. وما سألت من نعمة الا اعطيت  
وما استكشفت من امر الا كشفت. وما ابتهلت في دعاء الا اجيبت.  
وكل ذاك من حبى بالقرآن وحب سيدى وامامى سيد المرسلين. اللهم  
صل وسلم عليه بعدد نجوم السموات وذرات الارضين ومن اجل هذا الحب  
الذى كان في فطرتى كان الله معى من اول امرى حين ولدت وحين كنت  
ضرباً عند ظمى وحين كنت اقرئ في المتعلمين. وقد حبب الى منذ نوت  
العشرين ان انصر الدين. واجادل البراهمة والقسيسين. وقد الفت  
في هذه المناظرات مصنفات عديدة. ومؤلفات مفيدة منها كتابى  
**البراهين**. كتاب نادر مانج على منواله في ايام خالية فليقرء من كان  
من امرتايين. قد سللت فيه صوارم الحجج القطعية على اقوال الملحدين.  
ورميت بشبهها الشياطين المبطلين. قد خفض هام كل معاند بذالك  
السيف المسلول. وتبينت فضيحتهم بين ارباب المنقول والمعقول. وبين  
المصنفين. فيه دقائق العلوم وشواردها والالهامات الطيبة الصريحة و  
الكشوف الجليلة ومواردها. ومن كل ما يجلى ذرر معارف الدين المثين ولى  
كتب اخرى تشابهه في الكمال. منها الكحل والتوضيح والازالة وفتح الاسلام  
وكتاب آخر سبق كلها الفته في هذه الايام اسمه دافع الوسوس هو نافع جداً  
للذين يريدون ان يروا حسن الاسلام ويكفون افواه المخالفين. تلك كتب  
ينظر اليها كل مسلم بعين المحبة والمودة وينتفع من معارفها ويقبلها ويصدق

۵۲۸

دعوتی۔ الاذریۃ البغایا الذین ختم اللہ علی قلوبہم فہم لا یقبلون۔ ولما  
 بلغت اشد عمری وبلغت اربعین سنۃ جاء تنی نسیم الوحی بریا عنایات  
 ربی لیزید معی فتی و یقینی و یرتفع حجبی و اکون من المستیقنین فاؤل ما  
 فتح علی بابہ هو المرؤیا الصالحۃ فکنت لا اری رؤیا الا جاءت مثل مثل فلنق  
 الصبح وانی رايت فی تلك الايام رؤیا صالحۃ صادقة قریباً من القین او  
 اکثر من ذالک۔ منها محفوظۃ فی حافظتی وکثیر منها نسیتها۔ وعل  
 اللہ یکررها فی وقت اخر ونحن من الآملین۔ ورايت فی غلواء شبابی  
 وعند رواعی التصابی کافی دخلت فی مکان وفيه حفدی وخدمی نقلت  
 طہروا فرأشی فان وقتی قد جاء ثم استیقظت و خشیت علی نفسی  
 وذهب وھلی الی اننی من المائتین۔ ورايت ذات لیلۃ وانا غلام  
 حدیث السن کافی فی بیت لطیف نظیف یذکر فیہا رسول اللہ صلی اللہ  
 علیہ وسلم فقلت ایہا الناس این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاشاروا  
 الی حجرۃ فدخلت مع الداخلین۔ فبش بی حین واقیتہ۔ وھیانی باحسن  
 ما حییتہ و بما انسی حسنہ وجمالہ وملاحتہ و تحننہ الی یومی هذا۔ شغفنی  
 حباً وجد بنی بوجہ حسین قال ما هذا بیمنک یا احمد فنظرت فاذا  
 کتاب بیدی الیمنی وخطر بقلبی انه من مصنفاتی قلت یا رسول اللہ  
 کتاب من مصنفاتی قال ما اسم کتابک فنظرت الی الکتاب مرة اخرى  
 وانا کالمتحیرین۔ فوجدتہ يشابه کتاباً کان فی دار کتبی واسمہ  
 قطبی قلت یا رسول اللہ اسمہ قطبی قال ارنی کتابک القطبی فلما



کہ میں بیان نہیں کر سکتا اور عداوت چاہا کہ میں سخت ذلیل کیا جاؤں۔ سلطان احمد ان دو بڑے گناہوں کا مرتکب ہوا  
 اول یہ کہ اُس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مخالفت کرنی چاہی۔ اور یہ چاہا کہ دین اسلام پر  
 تمام مخالفتوں کا حملہ ہو۔ اور یہ اپنی طرف سے اس نے ایک بنیاد رکھی ہے اس امید پر کہ یہ جموٹے ہو جائیں گے  
 اور دین کی ہتک ہوگی۔ اور مخالفتوں کی فتح۔ اس نے اپنی طرف سے مخالفت تلواریں چلانے میں کچھ فرق نہیں  
 کیا اور اس نادان نے نہ سمجھا کہ خداوند قدیر و خیر اور دین کا حامی ہے اور اس عاجز کا بھی حامی۔ وہ اپنے بندہ  
 کو کبھی ضایع نہ کریگا۔ اگر سانا جان بچے برباد کرنا چاہے تو وہ اپنی رحمت کے ہاتھ سے مجھ کو تھا مہلے گا۔  
 کیونکہ میں اس کا ہوں اور وہ میرا۔ دوم سلطان احمد نے مجھے جو میں اس کا باپ ہوں سخت ناچیز قرار دیا اور  
 میری مخالفت پر کرباندمی اور قوی اور فعلی طور پر اس مخالفت کو کمال تک پہنچایا۔ اور میرے دینی مخالفتوں کو  
 مدد دی اور اسلام کی ہتک بدل و جان منظور رکھی۔ سو چونکہ اس نے دونوں طور کے گناہوں کو اپنے اندر جمع  
 کیا۔ اپنے خدا کا تعلق بھی توڑ دیا اور اپنے باپ کا بھی۔ اور ایسا ہی اس کی دونوں والدہ نے کیا۔ سو جبکہ انہوں  
 نے کوئی تعلق مجھ سے باقی نہ رکھا۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اب ان کا کسی قسم کا تعلق مجھ سے باقی رہے اور داتا  
 ہوں کہ ایسے دینی دشمنوں سے بیوند رکھنے میں معصیت نہ ہو۔ لہذا میں آج کی تاریخ کو دوسری مئی سنہ ۱۹۰۷ء  
 حوام اور خواہم پر بندہ اشتہار ہذا ظاہر کرتا ہوں کہ اگر یہ لوگ اس الزام سے باز نہ آئے۔ اور وہ تجویز جو اس برائی کے  
 ناطق اور نکاح کرنے کی اپنے ہاتھ سے یہ لوگ کر رہے ہیں اس کو موقوف نہ کر دیا۔ اور جس شخص کو انہوں نے نکاح  
 کے لیے تجویز کیا ہے اس کو رد نہ کیا بلکہ اسی شخص کے ساتھ نکاح ہو گیا تو اسی نکاح کے دن سے سلطان احمد عاق  
 اور محروم اللہ ہو گا اور اسی روز سے اس کی والدہ پر میری طرف سے طلاق ہے۔ اور اگر اس کا بھائی فضل احمد  
 جس کے گھر میں مرزا احمد بیگ والدہ کی کنبھانجی ہے اپنی اس بیوی کو اسی دن جو اس کو نکاح کی خبر ہو اور طلاق نہ  
 دیوے تو پھر وہ بھی عاق اور محروم اللہ ہو گا۔ اور آئندہ ان سب کا کوئی حق میرے پر نہیں رہے گا۔ اور اسی نکاح کے  
 بعد تمام تعلقات خویشی و قرابت و ہمدردی دور ہو جائے گی۔ اور کسی نیکی۔ بری۔ رنج۔ راحت، شادی اور ماتم میں ان  
 سے شراکت نہیں رہے گی۔ کیونکہ انہوں نے آپ تعلق توڑ دیتے اور توڑنے پر راضی ہو گئے۔ سو اب ان سے کچھ تعلق  
 رکھنا قطعاً حرام اور ایمانی غیوری کے برخلاف اور ایک دہشتی کا کام ہے۔ مومن و یقوت نہیں ہوتا۔

پہوں نہ بود خویش را ریانت و تقوئے ۱۰ قطع رحم بہ از مودت قربے

واستقامت علی من اتبع الهدی

الشیخ

مرزا غلام احمد لویان  
 حقایق پریس لویان

<p>وقد تمت الاخبار والاعمال تبهر  <small>یہ تم محض بخدا کے لئے اور تمہیں کے لئے ہو تمہاری بادشاہ کی طرف سے آیا وہ غمیریں پوری ہو گئیں انہیں انشان چکے گئے</small></p> <p>وذلك في القرآن تبا مكررا  <small>اور یہ غمیر تو قرآن میں کئی مرتبہ آچکی ہے۔</small></p>	<p>اتصون بغيا من اتى من بليكم  <small>یہ تم محض بخدا کے لئے اور تمہیں کے لئے ہو تمہاری بادشاہ کی طرف سے آیا وہ غمیریں پوری ہو گئیں انہیں انشان چکے گئے</small></p> <p>وقد قيل منكم يا تين امانكم  <small>اور تم سس کے جو کہ تمہارا الام تم میں سے ہی آئے گا</small></p>
<p>كتاب خبيث كالعقارب يا بس  <small>وہ خبیث کتب اور بچوں کی طرح نیشوں زہ۔</small></p> <p>لعنت بلعون فانبت ثمر  <small>تو غمیر کے سبب لہوں پر گئی ہیں تو قیامت کے دن ان میں سے ہر ایک</small></p> <p>وكل امرء عند القصاص يسأل  <small>اور ہر ایک آدمی خود کے وقت آئے آیا ہوتا ہے۔</small></p>	<p>اتاني كتاب من كذوب يزور  <small>مجھے ایک کتاب کذاب کی طرف سے پہنچی ہے۔</small></p> <p>فقلت لك الويلات يا ارض جولد  <small>پس میں نے کہا کہ اے گولڈہ کی زمین تجھ پر لعنت</small></p> <p>تكلّم هذا النكس كالزعم شاتما  <small>اس فرودا یہ نے کچھ لوگوں کی طرح گال کے ساتھ بات کی</small></p>
<p>تقولت فاعلم ان ذلي مظهر  <small>بنایا ہو پس جوں کہ میرا دامن جھوٹ ہے پک ہے۔</small></p> <p>سبيدي لك الرحمن ما انت تنكر  <small>خدا حقیر بہتیرے پر ظاہر کرے گا جس میں کافر نے انکار کیا ہے۔</small></p> <p>فماضت جموع العير القلب بغير  <small>تو ان کے سوا ان سو جا رہی ہوئے اور دل بے قرار تھا۔</small></p>	<p>اتزعم يا شيخ الضلالة اني  <small>کیا تو اے گراہیں کے شیخ یہ کہیں کہتا ہو کہ میں نے جھوٹ</small></p> <p>اقتكر حقا جاء من خالق السما  <small>کیا تو اس حق سے انکار کرتا ہے جو آسمان سے آیا۔</small></p> <p>اذ اما رأينا ان قلبك قد غسا  <small>جب ہم نے دیکھا کہ تیرا دل سیاہ ہو گیا۔</small></p>
<p>اهذا هو الاسلام يا متكبر  <small>کہا یہہ اسلام ہے اے متکبر۔</small></p> <p>ففر الي ورجا نبوا البغوا حذوا  <small>پس میری طرف بھاگ اور نافرمانی چھوڑ دو اور ڈرو</small></p> <p>وما كان ان بطوني ويلغي ويحجر  <small>نہ نہ یہ غمیر تو کئی بار باطل کو اپنے اعداؤں کو بھگا۔</small></p>	<p>اخذتم طريق الشرك مركزا دينكم  <small>تم نے شرک کے طریق کو اپنے دین کا مرکز بنا لیا۔</small></p> <p>وما انا الا نائب الله والوري  <small>نہ میں مخلوق کے لئے خدا کا نائب ہوں۔</small></p> <p>وان قضاه الله ياتي من السما  <small>اور خدا کی تقدیر آسمان سے آئے گی۔</small></p>

وان كان عيسى او من المرسل اخر  
 خواہ عیسیٰ ہو یا کوئی اور نبی ہو  
 وما كان شريك الناس شيئا يغير  
 اور شریک کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو بدلا یا بدلے  
 الامم كفتيان الوغى تنمزر  
 کب تک مردان جنگ کی طرح پلنگ دکھائیے  
 وذلك رأي لا يراه المفكر  
 یہ تو کس عقلمند کی رائے نہ ہوگی۔  
 وان خلتها تخفى على الناس تظهر  
 اور اگر تو خیال کیے کہ وہ شیدائی کا تودہ ہرگز پوشیدہ نہ رہے گا  
 ومن لا يوقر صادقاً لا يوقر  
 اور جو شخص صادق کی بے عزتی کرے وہ خود بی عزت ہو جائے گا  
 رأيتم فاعرضتم وقلتم تسرؤن  
 تمہارے وہ نشان دیکھے اور انکار کیا اور کہا کہ مجھ کو بولتے ہو  
 لنكتب اشعاراً بما لا يشعرون  
 تاہم یہ چند شعر لکھیں ہیں جو تمہیں یہ نشان معلوم ہو جائیں  
 وهذا هو الافحام متى ففكر وا  
 اور یہی میری طرف سے اتمام حجت ہے۔

على مثلها لم نطلع في مكم  
 ان تمام مصیبتوں کیلئے دو ستر تین میں نظیر نہیں پائی جاتی۔  
 ففكر اهدا كله كان باطلا  
 پس سوچ کر کیا یہ تمام کارروائی باطل تھی۔  
 الا لاسمى عار النساء ابا الوفا  
 اسے عورتوں کے عار شفاء اللہ  
 اردت الهوى من بعد ستين حجة  
 کیا میں نے ساتھ برس کی عمر کے بعد ہوا پرستی کو اختیار کیا  
 اريناك آيات فلا عذر بعد ها  
 ہم تجھے ایک نشان دکھائے ہیں اور اس کے بعد کوئی عذر باقی نہ رہے گا  
 اردت بعد ذلتي فرأيتها  
 تو نے مقام قدم میں میری ذلت کو پایا پس خود ذلت اٹھائی۔  
 وكأين من الآيات قد مر ذكرها  
 اور بہت سے نشان ہیں جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔  
 فعن لنا بعد التجارب حيلة  
 پس ہمارے لئے بہت تجارب کے بعد ایک حیلہ ظاہر ہوا۔  
 فهذا هو التبيكيت من فاطر السما  
 پس اس کا ذریعہ ہے تمہارا منہ خدا بند کرنا چاہتا ہے۔

لے یہی کاتب سے کئی کالفاظ چھوٹ گیا ہے۔ اصل ترجمہ یوں ہو گا۔ "ہم تجھے کئی ایک نشان  
 دکھاتے ہیں۔" (تشریح)

يُتعمَل لفظ كَأَيْنَ كَمَا يُتعمَل كَاتِبِينَ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ - مَنَلَا

۲۴۱

ومن المعترضين المذكورين - شيخ ضل بطلوى - وجار غوى - يقال له  
 ويكي في اعتراض كتدگان شيخ گراه ساکن بلاد است که همسایه گراه است - اورا  
 محمد حسنین - وقد سبق الكل في الكذب والمين - وانه ابي  
 محمد حسين مے گویند - واز ہمہ در دودغ و تالاستی سبقت برہ است - و او انکار کرد  
 واستکبر - و اشاع الکبر و اظہر - حتی قبل انه امام المستکبرين - و سرٹیس  
 و کبر نمود - و کبر و اشاع کرد و ظاہر ساحت تا آنکہ کلمتہ شد کہ او امام حکیمین است - و رئیس  
 للعتدین - و رأس الغاوین - هو الذی کفر فی قبل ان یکفر الآخر - و اعترض  
 تجوز کتدگان - و سر گرا ان است - او یہاں شخص است کہ پیش از ہمہ مرا کا فر گفت - و یہ کتابائے  
 علی کتبی و اظہر جملہ المکنون - فقال ان تلك الكتب مشحونة من الاعطال  
 من اعتراض کرد - و جمل خود ظاہر نمود - پس گفت کہ این کتابها از ظلمی پُر بستند و در کل  
 و ساقطہ فی وحل الاعطال - وليست كما معين - وان هذا الرجل من  
 اعطال فواقانہ اند - و یہو آب صافی نیست - و این شخص از جاہلان است  
 للجاهلین - و کما يوجد في كتبه من جملها و قيا فيها - فليس قرينه حجر  
 و ہرچہ از کلمات تمکین و قافیہ ہا در کلام او یافتہ مے شود - پس آن طبعزاد او  
 اثابها بل تلك کلمہ خرجت من اقلام الآخرين -  
 و تلك بیعت او نیست بلکہ این کلمات از علمائے دیگران برآمده اند -  
 فقلت يا شيخ النوكي - وعدد العقل والنهي - ان كتي منزوة متا  
 پس گفتم کہ ای شیخ النوکي و دشمن عقل و دانش - بہ تحقیق کتاب اسے من آنچه گمان کردہ  
 زعمت - و منزوة عما ظننت - الا سهوا الكاتبين - او زیغ القلم بتغافل منی لا  
 بری بستند - واذ آنچه زعمت منزوہ بستند - مگر یہو کاتب یا کجی قلم از تغافل من نہ مثل جمل جاہلان

من سهوا الكاتب والصواب متزهة - فسر

یہ حوالہ صفحہ 69 پر درج ہے

انجام آٹھم صفحہ 241, 242 مندرجہ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 241, 242 از مرزا قادیانی

۲۴۲

كجھل الجاهلین۔ فان قلت استثبت فيها عثارا فخذ مني حذام كل لفظ غلط

ہیں اگر تو میدانی کہ دران کن بہ الغرض ثابت کنی پس از من بمقابلہ ہر لفظ غلط دینا سے بگیر

دینا۔ واجمع صریفاً ونضاراً۔ وكن من المتمولين۔ وهذا صلة تلامم هواك۔ و

وسيم ونذر اجمع كن۔ واز اللادان بشو۔ وایں آن انعام است کہ مناسب بل خوبش

تقریبہ عیناک۔ وتستريح به رجلاک۔ فتنبو من السفر الدائم۔ ولا حقیقہ کالتفحیذ

کستہ وبدو چشم کو خشک ہوا ہر شد۔ ویرودہے تو از ان آرام خواہند گرفت پس از سفر کج نجات خوبی یافت

الهام۔ وتقل كالمتمولين۔ وتغويك عن جعلك احرى۔ ومكانك شتى۔ واساعة

وہجہ سرگردان اولیہ خوبی گوید۔ مثل متغایں خوبی نشست۔ ودریں مال از مرقعی بود وگردد فریب آگواگون

عدو السنة۔ ووعظ الدجل والفریة۔ وتعيش كالمستريحين۔

وإشاعة السنة کہ در مال عدو السنة است واز دجل و نریب بے نیاز خوبی شد و بجز آرام یا بان زندگی خوبی گذرانید۔

بيداني اريد ان اري قبلك راي اصحابك وانشاهد راي بلاغتك۔ وافهم

مگر این است کہ می خواہم کہ قبل ازین امر خوشبوئے فصاحت ترا بینم و بوسے بلاغت تو مشاہدہ کنم۔

انك من علماء هذه الصناعة۔ ومن اهل تلك الصولة۔ ولست

تا بہ بینم کہ تو از علمائے این صنعت هستی۔ و از آہان ہستی کہ اہل این عملہ ہستند۔ واز

من الجاهلین المحجوبین العمین۔

بایمان و محجوبان و نابینایان ہستی۔

فاتق لو شل حظه المنحوس۔ ونكد طالعه المنحوس۔ انه ما قبل

پس بپاشت کہ نفسی و بدبختی طالع منحوس او این اتفاق افتاد کہ او این انعام را قبول نکرد

هذه الصلة۔ وما سئى نفسه لي قبل هذا الشريطة۔ وخشى الذلة

و نخواستن را بر بندهی آمادگی نیارود تا شرط ما را قبول کند۔ واز ذلت و رسوائی

۲۵۱

ثم اعلم ايها الشيخ الضال - والدجال البطل - ان الثمانية الذين هم

بذلك ان هشت که

باز اے شیخ گمراہ و دجال بطل

ثار عودك - ووقود ووقودك - الذين ادخلوا في التسعة المخاطبين فمنهم

یہ وہ اے شاخ کو - ویزم آتش افزہ تو ہستند - آنانکہ در نہ مخاطبین داخل اند - میں بھی آڑ آئنا

شيخك الضال الكاذب نذير المبشرين ثم الدهلوي عند الحق

شیخ گمراہ و دہلوئی است کہ نذیر حسین است کہ بشارت یافتگان را می ترسانند - باز عبد الحق دہلوی کہ

رئيس المتصليين ثم عبد الله التونكي ثم احمد علي السهارنفور من المعتدين

رئيس ہف زہن است - باز عبد اللہ تونکی - بادوہی احمد علی سہارنپوری از معتدان

ثم سلطان المتكبرين - الذي اضاع دينه بالكبر والتوهين - ثم الحسن

باز مولوی سلطان الدین جلیوی است کہ از تکبر و توهین دین خود را ضائع کرد - باز محمد حسن

الامرودي الذي اقبل على اقبال من لبس الصفاقة - ونظم الصداقة

امرودی کہ سوئے من بچو بے حیایان توجہ شد - والا راستی خود را دور انگذد -

في الحاشية - هذا الرجل لا يحسب العربية المباركة ام الالسنه - بل هي

نہ شخص عربی مبارک را ام اولسنہ نمی پندارد - بلکہ عربی

عندنا مستخرجة من العبرية - التي هي لها كالفصلة - ويستيقن ان اثبات

نزدیک او از عبرانی خارج کردہ شدہ است - حالانکہ عبرانی عربی داخل فصلات است - و این شخص یقینی کہ

هذا الخطا عقدا مستصعبا للافتتاح - او کہ زندگی مستعسر الاحتجاج - معلما

کہ عربی را ام الالسنہ قرار داون کاسے شکل است کہ نتواند شد - یا حل سگہ است کہ از ان آتش بر و تراز شد

فروغا من فتح هذا الميدان - في كتابنا من الرحمن - وسوف

حال آنکہ ما از فتح این میدان فراغت یافتیم - و این فراغت بہ کتاب

واعلمت الظفارة بعرضي كالذياب . ومغليه بثولي كالكلاب . ونطق بكلم

واضح باسمه كقولهم باهرون من تحت . ونحوه كقولهم باهرون من تحت . ومغليه بثولي كالكلاب . ونطق بكلم

لا ينطق بمثلها الا الشيطان امين . وانعزم الشيطان الاعمي . والقول الاغوي .

تورد كقولهم الشيطان امين يحس بلان كونه تكلم تكلم . واليه آخره شيطان كذا است ودلو كراه .

يقال له رشيد الجنجوي . وهو شقي كالامروهي . ومن الملعونين .

كقوله رشيد محمد مكي في كونه . وادعوه كقولهم رشيد امروهي بدعت است ويزيد تحت فدا اعلی است .

فقولوا تسعة رطل كفرنا وسبونا وكانوا مفسدين . ونذكر معهم الشينيين

من المذنبين انهم كذا كذا كذا . وادعوه كقولهم رشيد امروهي بدعت است ويزيد تحت فدا اعلی است .

للمشهورين . يعني الشينيين الى بخش التونسوي والشيخ فلام نظام الدين

بنو كرمي تميم . يعني شيخ بخش تونسوي . وشيخ فلام نظام الدين بنو كرمي

يشاع في الديار والبلدان . فيومئذ تسود وجوه المنكرين . وانا فاعونا في افكارنا .

من المذنبين انهم كذا كذا كذا . وادعوه كقولهم رشيد امروهي بدعت است ويزيد تحت فدا اعلی است .

وايدنا في انظارنا . يعني الله رب العالمين . ودستافيه كل دوس . الذين يقولون

نوادير كرمي . وادعوه كقولهم رشيد امروهي بدعت است ويزيد تحت فدا اعلی است .

ان العربيه ما سبق غيره بطوس . بل هي كاللباس المستبدال او الوعاء

من حوس خود بر غير خود بوقت نبره است . بله ان مثل لباس كاه آهه يعني كهنه ولفظ مستعمل يعني

المستعمل وكشي وهو سقط صلفه غير معين .

يكار است دل جزيره يعني به سود است كه بهج نفع نه بخش مساكن كتاب بخوبي پامل كرديم .

وانا اثبتنا دعونا حق الاثبات . وارينا الامم كالهديايات . معيدين غير مستطيين .

وادعوه كقولهم رشيد امروهي بدعت است ويزيد تحت فدا اعلی است .

حقیقۃ الوحی

۴۴۵

تتر

ویسا ہی یہ پیشگوئی بھی ظہور میں آگئی جو خدا تعالیٰ نے میرے ذریعے سے ظاہر فرمائی کیونکہ جیسا کہ  
میں بیان کر چکا ہوں اسی روز سے جبکہ خدا تعالیٰ نے اسکی نسبت مجھے یہ خبر دی کہ اتنا شاندار  
ہو الّا بتو جس کو آج تک بارہ برس گزر گئے اسی وقت سے اولاد کا دروازہ سعادت پر بند کیا گیا  
اور اُس کی بددعاؤں کو اسی کے منہ پر مار کر خدا تعالیٰ نے تین لڑکے بعد اس الہام کے  
مجھ کو دیئے اور کروڑ ہا انسانوں میں مجھے عزت کے ساتھ شہرت دی اور اس قدر مالی فتوحات  
اور آمدنی نقد اور جنس اور طرح طرح کے تحائف مجھ کو دیئے گئے کہ اگر وہ سب جمع کئے جاتے تو کئی  
کوٹھے اُن سے بھر سکتے تھے۔ سعادت چاہتا تھا کہ میں اکیلا رہ جاؤں کوئی میرے ساتھ نہ ہو۔ پس  
خدا تعالیٰ نے اس آرزو میں اُسکو نامراد رکھ کر کئی لاکھ انسان میرے ساتھ کر دیا اور وہ چاہتا تھا  
کہ لوگ میری مدد نہ کریں مگر خدا تعالیٰ نے اُسکی زندگی میں ہی اُسکو دکھلا دیا کہ ایک جہان میری مدد کیلئے  
میری طرف متوجہ ہو گیا اور خدا تعالیٰ نے وہ میری مالی مدد کی کہ صد ہا برس میں کسی کی ایسی مدد نہیں  
ہوتی۔ اور وہ چاہتا تھا کہ مجھ کو کوئی عزت نہ ملے مگر خدا نے ہر ایک طبقہ کے ہزار ہا انسانوں کی  
گردنیں میری طرف جھکا دیں اور وہ چاہتا تھا کہ میں اُسکی زندگی میں ہی مر جاؤں اور میری  
اولاد بھی مر جائے مگر خدا تعالیٰ نے میری زندگی میں اُسکو ہلاک کیا اور الہام کے دن کے بعد  
تین لڑکے اور مجھ کو عطا کئے۔ پس یہ موت اُسکی بڑی نامرادی اور ذلت کے ساتھ ہوئی۔ اور  
یہی پیشگوئی میں نے کی تھی جو خدا تعالیٰ کے فضل سے پوری ہو گئی۔  
اور وہ پیشگوئی جس میں میں نے لکھا تھا کہ نامرادی اور ذلت کے ساتھ میرے روبرو  
وہ مرے گا۔ وہ انجام آتمم میں عربی شعروں میں ہے اور وہ یہ ہے۔

غَوْلًا لَعِينًا نَظْفَةَ السُّفْهَاءِ

کہ ایک شیطان ملعون ہے سفیہوں کا نظفہ

مَنْحَسٌ نَسِيْتِ السُّعْدِ فِي الْجَهْلَانِ

منحس ہے جس کا نام جاہلوں نے سعادت رکھا ہے

وَمِنَ اللّٰمِ اَرِي رُجِيْلًا قَاسِقًا

اور لامیوں میں سے ایک قاسم آدمی کو دیکھتا ہوں

شَكْسٌ خَبِيْثٌ مُّفْسِدٌ وَمُزَوَّرٌ

بگڑا اور خبیث اور مفسد اور مجبوس کو ملیج کر کے دکھانے والا

جہ میں لکھ چکا ہوں کہ یہ چند شعرا وقتِ موتِ نبوت سے کہے گئے جبکہ بہ نسبت سعادت کی جذباتی حد سے زیادہ گزری تھی۔ منہ

یہ حوالہ صفحہ 70 پر درج ہے

حقیقۃ الوحی تتر صفحہ 14 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 445 از مرزا قادیانی



دکھ درد کے ہیں جھگڑے سب ماجرا یہی ہے  
 دیوانہ ملت کہو تم عقل رسا یہی ہے  
 رت کہہ کہ نئی تڑائی تجھ سے لجا یہی ہے  
 عاشق جہاں پہ مرتے وہ کر بلا یہی ہے  
 طاعت بھی ہے ادھوری ہم پر بلا یہی ہے  
 ہم جاڑے کنارے جائے بکا یہی ہے  
 پر تو ہے فضل حال ہم پر کھلا یہی ہے  
 کہتے ہیں جس کو مدخ نہ جاں گزرا یہی ہے  
 سینہ پر دشمنوں کے پتھر پڑا یہی ہے  
 ظالم جو حق کا دشمن وہ سوچتا یہی ہے  
 جو مہستی ہے دل کو وہ آسیا یہی ہے  
 سب خشک ہو گئے ہیں پھولا پھلا یہی ہے  
 نرمد سے معرفت کے ایک مہر رسا یہی ہے  
 سب جو بہوں کو دکھا دل میں چچا یہی ہے  
 بنتا ہے جس سے سونا وہ کیمیا یہی ہے  
 وہ گالیوں پہ اترے دل میں پڑا یہی ہے  
 جس دل میں ہے نجاست بیت النخلا یہی ہے

اس راہ میں اپنے قصے تم کو میں کیا سناؤں  
 دل کر کے پارہ پارہ جاہوں میں اک نظارہ  
 لے میرے یاد جانی کر خود ہی ہنس رہا  
 فرقت بھی کیا بنی ہے ہر دم میں جاگنی ہے  
 تیری رونا ہے پوری ہم میں ہے عیب دوری  
 تجھ میں رونا ہے سیکہ سیکہ ہیں عہد سلائے  
 ہم نے نہ عہد پانا یاری میں رخصت ڈالا  
 لے میرے دل کے صاں پھراں میرا سوزاں  
 اک دین کی آفتیں کا غم کھا گیا ہے مجھ کو  
 کیونکر تیرے وہ ہودے کیونکر فنا وہ ہودے  
 ایسا زمانہ آیا جس نے غضب کے ڈھایا  
 شادی و طلاق اس دین کی کیا کہوں میں  
 آنکھیں ہر ایک دین کی بے نور ہم نے پائیں  
 لعل بین بھی دیکھے دیر عین بھی دیکھے  
 نکلا کر کے اس سے پھتاؤ گے بہت تم  
 پر آریوں کی آنکھیں باز بھی ہوئیں میں ایسی  
 بدتر ہر ایک بد سے وہ ہے جو بد زبان ہے

اور کچھ نصائح (جو اللہ تعالیٰ سمجھائے) کروں۔ لیکن آخر کار میری توجہ اس طرف پھری کہ جہاں نصیحتوں اور دیگر باتوں کی ضرورت ہے۔ وہاں یہ بھی ضرورت ہے کہ احباب کو ان مسائل سے بھی واقف کیا جائے جن سے انہیں روزمرہ واسطہ پڑتا ہے۔ اس لئے میں نے چاہا کہ ان کو بھی مختصراً بیان کر دوں۔

اس وقت جماعت احمدیہ میں اختلاف کی وجہ سے بہت جھگڑا پیدا ہو گیا پیغامیوں کی بدذہابی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ فریق ثانی نے تہذیب اور شرافت کو بالکل ترک کر دیا ہے اور ہمیں اس قدر گالیاں دی ہیں کہ غیر احمدی اخباروں نے بھی آج تک نہیں دی تھیں۔ میری نسبت اس وقت تک جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ تو ایک بہت بڑی فہرست ہے جس کا اس مختصر وقت میں بیان کرنا مشکل ہے لیکن اس میں سے کسی قدر میں بتاتا ہوں۔ وہ عام طور پر اور کثرت سے مجھے نوح کا بیٹا کہتے ہیں یعنی وہ جو حضرت نوح کے کشتی پر سوار ہونے کے وقت باوجود حضرت نوح کے بلانے کے ان کے پاس نہ آیا اور ان کو اس نے قبول نہ کیا اور طوفان میں غرق ہو گیا اور وہ جو کافروں میں سے تھا بلکہ کفار کا سردار تھا اور جو شرارت میں اس قدر بڑھا ہوا تھا کہ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اپنے قول کی وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نام چونکہ خدا تعالیٰ نے نوح رکھا ہے اور تم ان کے بیٹے ہو پس تم نوح کے بیٹے ہو۔ ہم کہتے ہیں حضرت مسیح موعود کو تو ابراہیم بھی کہا گیا ہے جن کا بیٹا اسماعیل تھا تو اگر تمہاری ہی دلیل درست ہے تو پھر مجھے اسماعیل کیوں نہیں کہتے پھر وہ میری نسبت کہتے ہیں کہ یہ دجال ہے، کذاب ہے، مفتری ہے، خائن ہے لوگوں کے مال کھا جاتا ہے، خدا سے دور ہے، پوپ ہے وغیرہ وغیرہ۔ غرض یہ اور اسی قسم کے اور بہت سے الفاظ ہیں جو میری نسبت وہ استعمال کرتے ہیں لیکن مجھے ان کے اس طرح کہنے سے کچھ گھبراہٹ نہیں اور میرا دل ذرا بھی ان کی باتوں سے متاثر نہیں ہوتا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جب انسان دلائل سے شکست کھاتا اور ہار جاتا ہے تو گالیاں دینی شروع کر دیتا ہے اور جس قدر کوئی زیادہ گالیاں دیتا ہے اسی قدر اپنی شکست کو ثابت کرتا ہے۔ آپ لوگوں نے کئی دفعہ دیکھا ہو گا کہ ایک کمزور شخص مار تو کھاتا جاتا ہے لیکن گالیاں بھی دے رہا ہوتا ہے تو اب چونکہ ہم ان کو شکست پر شکست دے رہے ہیں اور وہ ہار پر ہار کھاتے چلے جا رہے ہیں اس لئے وہ گالیوں پر اتر آئے ہیں ان کے آدمی ہم میں آکر مل رہے ہیں اور وہ دن بدن کم ہو رہے ہیں۔ ان کے

یاد رہے کہ امام الزمان کے لفظ میں نبی، رسول، محدث، مجدد و سب داخل ہیں۔ مگر جو لوگ ارشاد اور ہدایت خلق اللہ کیلئے مامور نہیں ہوئے اور نہ وہ کمالات اُن کو دیتے گئے۔ وہ گویا ہوں یا اعمال ہوں۔ امام الزمان نہیں کہلا سکتے۔

اب بالآخر یہ سوال باقی رہا کہ اس زمانہ میں امام الزمان کون ہے جس کی پیروی تمام عام مسلمانوں اور زاہدوں اور خواب بینوں اور طبہوں کو کرنی خدا تعالیٰ کی طرف سے فرض قرار دیا گیا ہے۔ سو میں اس وقت بے دھڑک کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے فضل اور عنایت سے وہ

## امام الزمان میں ہوں

اور مجھ میں خدا تعالیٰ نے وہ تمام علامتیں اور تمام شرطیں جمع کی ہیں اور اس صدی کے سر پر مجھے مبعوث فرمایا ہے۔ جس میں سے پندرہ برس گزر بھی گئے۔ اور ایسے وقت میں میں ظاہر ہوا ہوں کہ جب کہ اسلامی عقیدے اختلافات سے بھر گئے تھے اور کوئی عقیدہ اختلاف سے خالی نہ تھا۔ ایسا ہی مسیح کے نزول کے بارے میں نہایت غلط خیال پھیل گئے تھے اور اس عقیدے میں بھی اختلاف کا یہ حال تھا کہ کوئی حضرت عیسیٰ کی حیات کا قائل تھا اور کوئی موت کا۔ اور کوئی جسمانی نزول مانتا تھا اور کوئی بروزی نزول کا معتقد تھا۔ اور کوئی دمشق میں انگوٹا اور ہاتھ تھا اور کوئی مکہ میں۔ اور کوئی بیت المقدس میں اور کوئی اسلامی لشکر میں اور کوئی خیال کرتا تھا کہ ہندوستان میں آئیں گے۔ پس یہ تمام مختلف رائیں اور مختلف قول ایک فیصلہ کرنے والے حکم کو چاہتے تھے۔ سو وہ حکم میں ہوں۔ میں روحانی طور پر کسبِ علیہ کے لئے اور نسیب اختلافات کے دور کرنے کیلئے بھیجا گیا ہوں۔ ان ہی دونوں امور نے تقاضا کیا کہ میں بھیجا ہوں میرے لئے ضروری نہیں تھا کہ میں اپنی حقیقت کی کوئی اور دلیل پیش کروں کیونکہ ضرورت خود دلیل ہے۔ لیکن پھر بھی میری تائید میں خدا تعالیٰ نے کسی نشانی ظاہر کئے ہیں۔ اور میں جیسا کہ اوپر اختلافات میں فیصلہ کرنے کے لئے حکم ہوں۔ ایسا ہی وفات حیات کے جھگڑے میں بھی حکم ہوں۔

انزالہ اولیٰ

۲۵۶

مقدم

اب تم خود سمجھ سکتے ہو کہ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جب جہل کو بے ایمانی اور ضلالت جو سب سے بدترین میں دستان کے ساتھ تعبیر کی گئی ہے دنیا میں پھیل جاتے گی اور زمین میں حقیقی ایمان ندری ایسی کم ہو جائے گی کہ گویا وہ آسمان پر اٹھ گئی ہوگی اور قرآن کریم ایسا متروک ہو جائے گا کہ گویا وہ خدا تعالیٰ کی طرف اٹھایا گیا ہوگا۔ تب ضرور ہے کہ فارس کی اصل سے ایک شخص پیدا ہو اور ایمان کو دنیا سے لے کر پھر زمین پر تامل ہو۔ سو قیامت آئے گا کہ تامل ہونے والا لکن مریم بھی ہے جس نے عیسیٰ بن مریم کی طرح اپنے زمانہ میں کسی ایسے شیخ و والد روحانی کو نہ پایا جو اس کی روحانی پیدائش کا موجب ٹھہرے تب خدا تعالیٰ خود اس کا متولی ہوا۔ اور تربیت کی کنارس میں لیا اور اس اپنے بچے کا نام لکن مریم رکھا۔ کیونکہ اس نے مخلوق میں سے اپنی روحانی والدہ کا تو منسوخ کیا جس کے ذریعہ سے اس نے قابل سلام کرایا لیکن حقیقت اسلام کی اس کو خیر انسانوں کے ذریعہ کے حاصل ہوئی تب وہ وجود روحانی پا کر خدا تعالیٰ کی طرف اٹھایا گیا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے اپنے ماسوا سے اس کو موت دے کر اپنی طرف اٹھایا اور پھر ایمان اور عرفان کے ذخیرہ کے ساتھ خلق اللہ کی طرف تامل کیا۔ سو وہ رسول اور عرفان کا ثمر سے دنیا میں نفع دیا اور زمین جو شمسوں پٹی تھی اور تاریک تھی اس کے روشن اور آباد کرنے کے فکر میں لگ گیا۔ یہی مثالی صورت کے طور پر یہی عیسیٰ بن مریم ہے جو بغیر آپ کے پیدا ہونا کیا تم ثابت کر سکتے ہو کہ اس کا کوئی والد روحانی ہے۔ کیا تم ثبوت دے سکتے ہو کہ تمہارے سلسلہ اربعہ میں کوئی سلسلہ میں پیدا ہوا ہے پھر اگر یہ آئن مریم نہیں تو کون ہے؟

اور اگر اب یہی نہیں شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ مسلمانوں کے ساتھ ہجرتی اختلافات کی وجہ سے لعنت ہادی صدیقوں کا کام نہیں۔ مومن لیجان نہیں ہوتا۔ لیکن ایک طریق بہت آسان ہے اور وہ حقیقت قائم مقام مہابہ ہی ہے جس سے کاؤب اور صادق اور قبول اور وہی کی تفریق ہو سکتی ہے۔ اور وہ یہ ہے جو ذیل میں مولیٰ قلم سے لکھتا ہوں۔

درج کراؤں گا۔ اور جیسا کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ میں قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ یہی میرا دعویٰ ہے کہ میں بدل و جان اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پیاری کتاب قرآن کریم پر ایمان رکھتا ہوں۔ اب اس نشانی سے آزما یا جائے گا کہ اپنے دعویٰ میں سچا کون ہے۔ اور جھوٹا کون ہے۔ اگر میں اس علامت کی رو سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم نے قرار دی ہے، مغلوب رہا تو پھر آپ سچے رہیں گے اور میں بقول آپ کے کافر، دجال، بے ایمان، شیطان اور کذاب اور مفتری ٹھہروں گا اور اس صورت میں آپ کے وہ تمام طنزوں، فاسدہ درست اور برحق ہوں گے کہ گویا میں نے ”براہین احمدیہ“ میں فریب کیا اور لوگوں کا روپیہ کھایا اور دُعا کی قبولیت کے وعدہ پر لوگوں کا مال خورد برد کیا اور حرام خوری میں زندگی بسر کی۔ اگر خدا تعالیٰ کی اس عنایت نے، جو مومنوں اور صادقوں اور راستبازوں کے شامل حال ہوتی ہے، مجھ کو سچا کر دیا تو پھر آپ فرمادیں کہ یہ نام اس وقت آپ کی مولویانہ شان کے سزاوار ٹھہریں گے یا اس وقت بھی کوئی کنارہ کشی کا راہ آپ کے لئے باقی رہے گا؟ آپ نے مجھ کو بہت دکھ دیا اور ستایا۔ میں صبر کرتا گیا مگر آپ نے ذرہ اس ذات قدیر کا خوف نہ کیا جو آپ کی تمہ سے واقف ہے۔ اس نے مجھے بطور پیٹھکٹی آپ کے حق میں اور پھر آپ کے ہم خیال لوگوں کے حق میں خبر دی کہ اِنْسِيْ مُهِنًا مِّنْ اِذَا اِهْتَكَّتْ ۱ یعنی میں اس کو خوار کروں گا جو تیرے خوار کرنے کی فکر میں ہے۔

سو یقیناً سمجھو کہ اب وہ وقت نزدیک ہے جو خدا تعالیٰ ان تمام بہتانات میں آپ کا درونگو ہونا ثابت کر دے گا اور جو بہتان تراش اور مفتری لوگوں کو ذلتیں اور ندامتیں پیش آتی ہیں ان تمام ذلتوں کی مار آپ پر ڈالے گا۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ میں قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ پس اگر آپ اس قول میں سچے ہیں تو آزمائش کے لئے میدان میں آویں تا خدا تعالیٰ ہمارا اور تمہارا خود فیصلہ کرے اور جو کاذب اور دجال ہے رُوسیاہ ہو جائے۔ اور میرے دل سے اس وقت حق کی تائید کے لئے ایک بات نکلتی ہے اور میں اس کو روک نہیں سکتا کیونکہ وہ میرے نفس سے نہیں بلکہ القایہ ربّنی ہے جو بڑے زور سے جوش مار رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب کہ آپ نے مجھے کافر ٹھہرایا اور جھوٹ بولنا میری سرشت کا خاصہ قرار دیا تو اب آپ کو اللہ جل شانہ کی قسم ہے کہ حسب طریق

۱۔ تذکرہ ایڈیشن چہارم صفحہ ۲

مذکورہ بالا میرے مقابلہ پر فی الفور آ جاؤ، تاویکھا جائے کہ قرآن کریم اور فرمودہ نبی علیہ السلام کی زد سے کون کاذب اور دجال اور کافر ثابت ہوتا ہے۔ اور اگر اس تبلیغ کے بعد ہم دونوں میں سے کوئی شخص مُسَخِّف ربا اور باوجود اشد غلو اور تکفیر اور تکذیب اور تفسیق کے میدان میں نہ آیا اور شغال کی طرح دم دبا کر بھاگ گیا تو وہ مندرجہ ذیل انعام کا مستحق ہوگا۔

- |     |         |      |         |
|-----|---------|------|---------|
| (۱) | لَعْنَت | (۲)  | لَعْنَت |
| (۲) | لَعْنَت | (۴)  | لَعْنَت |
| (۳) | لَعْنَت | (۸)  | لَعْنَت |
| (۴) | لَعْنَت | (۹)  | لَعْنَت |
| (۵) | لَعْنَت | (۱۰) | لَعْنَت |

تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ

یہ وہ فعلہ ہے جو خدا تعالیٰ آپ کر دھے گا کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ مومن بہر حال غالب رہے گا چنانچہ وہ خود فرماتا ہے۔ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا یعنی ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ کافر مومن پر راہ پاوے اور نیز فرماتا ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَشَاءُوا اللَّهُ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا یعنی اے مومنو! اگر تم متقی بن جاؤ تو تم میں اور تمہارے غیر میں خدا تعالیٰ ایک فرق رکھ دے گا۔ وہ فرق کیا ہے کہ تمہیں ایک نور عطا کیا جائے گا جو تمہارے غیر میں ہرگز نہیں پایا جائے گا۔ یعنی نور البہام اور نور الجاہل ذنا اور نور کرامات اصطفا۔

اب ظاہر ہے کہ جس نے جھوٹ کو بھی ترک نہیں کیا وہ کیونکر خدا تعالیٰ کے آئے متقی ٹھہر سکتا ہے اور کیونکر اس (سے) کرامات صادر ہو سکتی ہیں۔ غرض اس طریق سے ہم دونوں کی حقیقت مخفی کھل جائے گی اور لوگ دیکھ لیں گے کہ کون میدان میں آتا ہے اور کون بموجب آیت کریمہ لَقَدْ أَنبَأْنَا بَشَرًا مِّنْ قَبْلِكَ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لَقَدْ أَنبَأْنَا بَشَرًا مِّنْ قَبْلِكَ اور حدیث نبوی اَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا کے صادق ثابت ہوتا ہے۔ مع ہذا ایک اور بات بھی ذرا بعد آزمائش صادق ہو جاتی ہے جس کو خدا تعالیٰ آپ ہی پیدا کرتا ہے اور وہ یہ

۱۔ النساء: ۱۳۳ ۲۔ الانفال: ۳۰ ۳۔ یونس: ۶۵

۴۔ مسلم کتاب الروایات فی کون الروایات من اللہ وانہا جزء من السیوف حدیث نمبر ۵۹۰۵

اقول: اے حضرت! آپ کو آنے سے کس نے منع کیا تھا؟ یا میری ڈیوڑھی پر دربان تھے جنہوں نے اندر آنے سے روک دیا؟ کیا پہلے اس سے آپ پوچھ پوچھ کر آیا کرتے تھے؟ آپ کے تو والد صاحب بھی بیماری اور تپ کی حالت میں بھی بنا۔۔۔ سے اٹھاں خیزاں میرے پاس آ جاتے تھے پھر آپ کوئی روک کوئی پیش آ گئی تھی؟ اور جب کہ آپ اپنے ذاتی بخل اور ذاتی حسد اور شیخ نجدی کے خصائل اور کبر اور نخوت کو کسی حالت میں چھوڑنے والے نہیں تھے تو میں آپ کو اپنے مکان پر بلا کر کیا ہمدردی اور رحمت کرتا؟ ہاں! میں نے آپ کے مکان پر بھی جانا خلاف مصلحت سمجھا کیونکہ میں نے آپ کے مزاج میں کبر اور نخوت کا مادہ معلوم کر لیا تھا اور میرے نزدیک یہ قرین مصلحت تھا کہ آپ کو ایک مسہل دیا جائے اور جہاں تک ہو سکے وہ مادہ آپ کے اندر سے باسٹینا نکال دیا جائے۔ سواب تک تو کچھ تخفیف معلوم نہیں ہوتی۔ خدا جانے کس غضب کا مادہ آپ کے پیٹ میں بھرا ہوا ہے۔ اور اللہ جل شانہ جانتا ہے کہ میں نے آپ کی بدزبانی پر بہت صبر کیا۔ بہت ستایا گیا اور آپ کو روکے گیا اور اب بھی آپ کی بدگوئی اور تکفیر اور تفسیق پر بہر حال صبر کر سکتا ہوں لیکن بعض اوقات محض اس نیت سے پیرایہ درشتی آپ کی بدگوئی کے مقابلہ میں اختیار کرتا ہوں کہ تا وہ مادہ خبث کہ جو ولویت کے باطل تصور سے آپ کے دل میں جما ہوا ہے اور جن کی طرح آپ کو چمٹا ہوا ہے۔ وہ بگلی نکل جائے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں اور خدائے تعالیٰ جانتا ہے کہ میں علی وجہ البصیرت یقین رکھتا ہوں کہ آپ صرف استخوان فروش ہیں اور علم اور روایت اور تہذیب سے سخت بے بہرہ اور ایک غبی اور بلیڈ آدی ہیں جن کو حقائق اور معارف کے کوچہ کی طرف ذرہ بھی گزر نہیں اور ساتھ اس کے یہ بلا لگی ہوئی ہے کہ ناحق کے کبر اور نخوت نے آپ کو ہلاک ہی کر دیا ہے۔ جب تک آپ کو اپنی اس جہالت پر اطلاع نہ ہو اور دماغ سے غرور کا کیزا نہ لکے تب تک آپ نہ کوئی دنیا کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں نہ دین کی۔ آپ کا بڑا دوست وہ ہوگا جو اس کوشش میں لگا رہے جو آپ کی جہالتیں اور نخوتیں آپ پر ثابت کرے۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کو کس بات پر ناز ہے۔

شرمناک فطرت کے ساتھ اور اس موٹی سمجھ اور ٹھکی خیال پر یہ تمہارا اور یہ: زنعوذ باللہ من هذه الجهالة والحمق و ترک الحياء والسخافة والضلالة۔

اور آپ کا یہ خیال کہ میں نے اب فساد کیلئے خط بھیجا ہے تاکہ بنا لے مسمونوں میں پھوٹ پڑے۔ عزیز من! یہ آپ کے فطرتی توہمات ہیں۔ میں نے پھوٹ کیسے نہیں بنا۔ آپ کی حالت زار پر

رحم کر کے خط بھیجا تھا تا آپ تحت العری میں نہ گر جائیں اور قبل از موت حق کو سمجھ لیں۔ مسلمانوں میں تفرقہ اور ضد ڈالنا تو آپ ہی کا شیوہ ہے۔ یہی تو آپ کا مذہب اور طریق ہے۔ جس کی وجہ سے آپ نے ایک مسلمان کو کافر اور بے ایمان اور دجال قرار دیا اور علماء کو دھوکے دے کر تکفیر کے فتوے لکھوائے اور اپنے استاد نذیر حسین پر موت کے دنوں کے قریب یہ احسان کیا کہ اس کے مونہہ سے کلمہ تکفیر کہلوا یا اور اس کی پیرانہ سالی کے تقویٰ پر خاک ڈالی۔ آفرین باد بریں ہمت مردانہ تو! نذیر حسین تو آرزوئی عمر میں جنگلا اور بچوں کی طرح ہوش و حواس سے فارغ تھا۔ یہ آپ ہی نے شاگردی کا حق ادا کیا کہ اس کے اخیر وقت اور لب بام ہونے کی حالت میں ایسی مکروہ سیاهی اس کے مونہہ پر مل دی کہ اب غالباً وہ گور میں ہی اسی سیاهی کو لے جائے گا۔ خدا تعالیٰ کی درگاہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے۔ جو شخص مسلمان کو کافر کہتا ہے اس کو وہی نتائج پہنکتے پڑیں گے جن کا ناحق کے ملکرین کیلئے اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ دے رکھا ہے۔ جو ایسا عدل دوست تھا جس نے ایک چور کی سفارش کے وقت سخت ناراض ہو کر فرمایا تھا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر قاطعہ بنت محمد چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔

قولہ: (اس صورت میں قادیان پہنچ سکتا ہوں) کہ مسلمانوں پر آپ کا جھوٹ اور فریب کھولوں لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ آپ میری جان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔

اقول: اب آپ کسی حیلہ و بہانہ سے گریز نہیں کر سکتے۔ اب تو دس لعنتیں آپ کی خدمت میں نذر کر دی ہیں اور اللہ جل شانہ کی قسم بھی دی ہے کہ آپ آسمانی طریق سے میرے ساتھ صدق اور کذب کا فیصلہ کر لیں۔ اگر آپ مجھ کو جھوٹا سمجھنے میں سچے ہیں تو میری اس بات کو سنتے ہی مقابلہ کیلئے کھڑے ہو جائیں گے ورنہ ان تمام لعنتوں کو ہضم کر جائیں گے اور کچے اور بیہودہ عذرات سے ٹال دیں گے۔ اور میں آپ کو ہلاک کرنا نہیں چاہتا۔ ایک ہی ہے جو آپ کو در حالت نہ باز آنے کے ہلاک کرے گا اور اپنے دین کو آپ کے اس فتنہ سے نجات دے گا اور آپ کے قادیان آنے کی کچھ ضرورت نہیں۔ اگر آپ اللہ اور رسول کے نشان کے موافق آزمائش کیلئے مستعد ہوں تو میں خود بمالہ اور امر تہر اور لاہور میں آ سکتا ہوں۔ تا سیاہ روئے شود ہر کہ دروغش باشد۔

۱۔ آئینہ کمالات اسلام، روحانی خزائن جلد ۵ صفحہ ۳۰۴ تا ۳۱۰



المهلة متاثلثة اشهر للمعارضين فان لم يبارزوا ولن يبارزوا فاعلموا  
 تین مہینہ مہلت ہے اور اگر مقابل پر نہ آویں اور ہرگز نہ آویں گے پس یقیناً جازم  
 انہم كانوا من الكاذبين۔  
 کہ وہ جھوٹے ہیں۔

واعلموا ان هذا الانعام في صورة اذا اتوا برسالة كمثل رسالتنا وجمالة  
 اور یاد رکھنا چاہیے کہ یہ انعام اس صورت میں ہے کہ جب بالمقابل رسالہ بینہ ہمارے اس رسالہ کے  
 كمثل عجاتنا واثبتوا انفسهم كما تلبين ومثابهن۔ واما اذا ابوا وولوا  
 مشابہ ہو اور ماثلت اور مشابہت کو ثابت کریں۔ لیکن اگر بنانے سے انکار کریں  
 المدير كالتعالف ما استطاعوا على هذه المطالب وما تركوا إعادة توهين القرآن  
 اور انہوں نے ان کی طرح پیشیں دکھلا دیں اور ان مطالب پر قدرت نہ پاسکیں اور نہ توہین قرآن شریف کی  
 وما امتنعوا من قبح كتاب الله الفرقان وما تابوا من ان يسموا انفسهم موليين  
 عادت کو چھوڑی اور کتاب اللہ کی جرح و تخرج سے باز نہ آویں

وما ازدجروا من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وما ازدجروا  
 اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشنام دہی سے رکیں اور نہ اس سے پہلے گئے تھے  
 من تولهم ان القرآن ليس بفصيم وما تركوا سبيل التحقير والتوهين فعليهم  
 وہ کہیں کہ قرآن فصیح نہیں ہے اور نہ توہین اور تحقیر کے طریق کو چھوڑیں پس ان پر خدا تعالیٰ  
 من الله الف لعنة فليقل القوم كلهم اولين۔  
 کہ ان سے ہزار لعنت ہے پس پہلے کہ تمام قوم کہے کہ آمین۔

۱ لعنت ۲ لعنت ۳ لعنت ۴ لعنت ۵ لعنت ۶ لعنت  
 ۷ لعنت ۸ لعنت ۹ لعنت ۱۰ لعنت ۱۱ لعنت ۱۲ لعنت  
 ۱۳ لعنت ۱۴ لعنت ۱۵ لعنت ۱۶ لعنت ۱۷ لعنت ۱۸ لعنت  
 ۱۹ لعنت ۲۰ لعنت ۲۱ لعنت ۲۲ لعنت ۲۳ لعنت ۲۴ لعنت

۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱	۳۲
۳۳	۳۴	۳۵	۳۶	۳۷	۳۸	۳۹	۴۰
۴۱	۴۲	۴۳	۴۴	۴۵	۴۶	۴۷	۴۸
۴۹	۵۰	۵۱	۵۲	۵۳	۵۴	۵۵	۵۶
۵۷	۵۸	۵۹	۶۰	۶۱	۶۲	۶۳	۶۴
۶۵	۶۶	۶۷	۶۸	۶۹	۷۰	۷۱	۷۲
۷۳	۷۴	۷۵	۷۶	۷۷	۷۸	۷۹	۸۰
۸۱	۸۲	۸۳	۸۴	۸۵	۸۶	۸۷	۸۸
۸۹	۹۰	۹۱	۹۲	۹۳	۹۴	۹۵	۹۶
۹۷	۹۸	۹۹	۱۰۰	۱۰۱	۱۰۲	۱۰۳	۱۰۴
۱۰۵	۱۰۶	۱۰۷	۱۰۸	۱۰۹	۱۱۰	۱۱۱	۱۱۲
۱۱۳	۱۱۴	۱۱۵	۱۱۶	۱۱۷	۱۱۸	۱۱۹	۱۲۰
۱۲۱	۱۲۲	۱۲۳	۱۲۴	۱۲۵	۱۲۶	۱۲۷	۱۲۸
۱۲۹	۱۳۰	۱۳۱	۱۳۲	۱۳۳	۱۳۴	۱۳۵	۱۳۶
۱۳۷	۱۳۸	۱۳۹	۱۴۰	۱۴۱	۱۴۲	۱۴۳	۱۴۴
۱۴۵	۱۴۶	۱۴۷	۱۴۸	۱۴۹	۱۵۰	۱۵۱	۱۵۲
۱۵۳	۱۵۴	۱۵۵	۱۵۶	۱۵۷	۱۵۸	۱۵۹	۱۶۰
۱۶۱	۱۶۲	۱۶۳	۱۶۴	۱۶۵	۱۶۶	۱۶۷	۱۶۸
۱۶۹	۱۷۰	۱۷۱	۱۷۲	۱۷۳	۱۷۴	۱۷۵	۱۷۶
۱۷۷	۱۷۸	۱۷۹	۱۸۰	۱۸۱	۱۸۲	۱۸۳	۱۸۴
۱۸۵	۱۸۶	۱۸۷	۱۸۸	۱۸۹	۱۹۰	۱۹۱	۱۹۲
۱۹۳	۱۹۴	۱۹۵	۱۹۶	۱۹۷	۱۹۸	۱۹۹	۲۰۰
۲۰۱	۲۰۲	۲۰۳	۲۰۴	۲۰۵	۲۰۶	۲۰۷	۲۰۸
۲۰۹	۲۱۰	۲۱۱	۲۱۲	۲۱۳	۲۱۴	۲۱۵	۲۱۶
۲۱۷	۲۱۸	۲۱۹	۲۲۰	۲۲۱	۲۲۲	۲۲۳	۲۲۴
۲۲۵	۲۲۶	۲۲۷	۲۲۸	۲۲۹	۲۳۰	۲۳۱	۲۳۲
۲۳۳	۲۳۴	۲۳۵	۲۳۶	۲۳۷	۲۳۸	۲۳۹	۲۴۰
۲۴۱	۲۴۲	۲۴۳	۲۴۴	۲۴۵	۲۴۶	۲۴۷	۲۴۸
۲۴۹	۲۵۰	۲۵۱	۲۵۲	۲۵۳	۲۵۴	۲۵۵	۲۵۶
۲۵۷	۲۵۸	۲۵۹	۲۶۰	۲۶۱	۲۶۲	۲۶۳	۲۶۴

۲۹۳ لعنت لعنت ۲۹۳ لعنت ۲۹۵ لعنت ۲۹۹ لعنت ۲۹۹ لعنت ۲۹۸ لعنت  
 ۲۹۰ لعنت ۲۹۱ لعنت ۲۹۲ لعنت ۲۹۲ لعنت ۲۹۳ لعنت ۲۹۳ لعنت ۲۹۳ لعنت  
 ۲۸۷ لعنت ۲۸۸ لعنت ۲۸۹ لعنت ۲۸۰ لعنت ۲۸۱ لعنت ۲۸۲ لعنت ۲۸۳ لعنت  
 ۲۸۴ لعنت ۲۸۵ لعنت ۲۸۶ لعنت ۲۸۷ لعنت ۲۸۸ لعنت ۲۸۹ لعنت ۲۹۰ لعنت  
 ۲۹۱ لعنت ۲۹۲ لعنت ۲۹۳ لعنت ۲۹۳ لعنت ۲۹۴ لعنت ۲۹۴ لعنت ۲۹۴ لعنت  
 ۲۹۸ لعنت ۲۹۹ لعنت ۳۰۰ لعنت ۳۰۱ لعنت ۳۰۲ لعنت ۳۰۲ لعنت ۳۰۲ لعنت  
 ۳۰۵ اللعنة ۳۰۶ اللعنة ۳۰۷ اللعنة ۳۰۸ اللعنة ۳۰۹ اللعنة ۳۱۰ اللعنة ۳۱۱ اللعنة  
 ۳۱۲ اللعنة ۳۱۳ اللعنة ۳۱۴ اللعنة ۳۱۵ اللعنة ۳۱۶ اللعنة ۳۱۷ اللعنة ۳۱۸ اللعنة  
 ۳۱۹ اللعنة ۳۲۰ اللعنة ۳۲۱ اللعنة ۳۲۲ اللعنة ۳۲۳ اللعنة ۳۲۴ اللعنة ۳۲۵ اللعنة  
 ۳۲۶ اللعنة ۳۲۷ اللعنة ۳۲۸ اللعنة ۳۲۹ اللعنة ۳۳۰ اللعنة ۳۳۱ اللعنة ۳۳۲ اللعنة  
 ۳۳۳ اللعنة ۳۳۴ اللعنة ۳۳۵ اللعنة ۳۳۶ اللعنة ۳۳۷ اللعنة ۳۳۸ اللعنة ۳۳۹ اللعنة  
 ۳۴۰ اللعنة ۳۴۱ اللعنة ۳۴۲ اللعنة ۳۴۳ اللعنة ۳۴۴ اللعنة ۳۴۵ اللعنة ۳۴۶ اللعنة  
 ۳۴۷ اللعنة ۳۴۸ اللعنة ۳۴۹ اللعنة ۳۵۰ اللعنة ۳۵۱ اللعنة ۳۵۲ اللعنة ۳۵۳ اللعنة  
 ۳۵۴ اللعنة ۳۵۵ اللعنة ۳۵۶ اللعنة ۳۵۷ اللعنة ۳۵۸ اللعنة ۳۵۹ اللعنة ۳۶۰ اللعنة  
 ۳۶۱ اللعنة ۳۶۲ اللعنة ۳۶۳ اللعنة ۳۶۴ اللعنة ۳۶۵ اللعنة ۳۶۶ اللعنة ۳۶۷ اللعنة  
 ۳۶۸ اللعنة ۳۶۹ اللعنة ۳۷۰ اللعنة ۳۷۱ اللعنة ۳۷۲ اللعنة ۳۷۳ اللعنة ۳۷۴ اللعنة  
 ۳۷۵ اللعنة ۳۷۶ اللعنة ۳۷۷ اللعنة ۳۷۸ اللعنة ۳۷۹ اللعنة ۳۸۰ اللعنة ۳۸۱ اللعنة  
 ۳۸۲ اللعنة ۳۸۳ اللعنة ۳۸۴ اللعنة ۳۸۵ اللعنة ۳۸۶ اللعنة ۳۸۷ اللعنة ۳۸۸ اللعنة  
 ۳۸۹ اللعنة ۳۹۰ اللعنة ۳۹۱ اللعنة ۳۹۲ اللعنة ۳۹۳ اللعنة ۳۹۴ اللعنة ۳۹۵ اللعنة  
 ۳۹۶ اللعنة ۳۹۷ اللعنة ۳۹۸ اللعنة ۳۹۹ اللعنة ۴۰۰ اللعنة

نورالحق صفحہ 118 تا 122 مندرجہ روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 158 تا 162 از مرزا قادیانی  
 یہ حوالہ صفحہ 85 پر درج ہے



۴۳۹:۴۳۸:۴۳۷:۴۳۶:۴۳۵:۴۳۴:۴۳۳:۴۳۲:۴۳۱:۴۳۰:۴۲۹:۴۲۸:۴۲۷:۴۲۶:۴۲۵:۴۲۴:۴۲۳:۴۲۲:۴۲۱:۴۲۰:۴۱۹:۴۱۸:۴۱۷:۴۱۶:۴۱۵:۴۱۴:۴۱۳:۴۱۲:۴۱۱:۴۱۰:۴۰۹:۴۰۸:۴۰۷:۴۰۶:۴۰۵:۴۰۴:۴۰۳:۴۰۲:۴۰۱:۴۰۰:۳۹۹:۳۹۸:۳۹۷:۳۹۶:۳۹۵:۳۹۴:۳۹۳:۳۹۲:۳۹۱:۳۹۰:۳۸۹:۳۸۸:۳۸۷:۳۸۶:۳۸۵:۳۸۴:۳۸۳:۳۸۲:۳۸۱:۳۸۰:۳۷۹:۳۷۸:۳۷۷:۳۷۶:۳۷۵:۳۷۴:۳۷۳:۳۷۲:۳۷۱:۳۷۰:۳۶۹:۳۶۸:۳۶۷:۳۶۶:۳۶۵:۳۶۴:۳۶۳:۳۶۲:۳۶۱:۳۶۰:۳۵۹:۳۵۸:۳۵۷:۳۵۶:۳۵۵:۳۵۴:۳۵۳:۳۵۲:۳۵۱:۳۵۰:۳۴۹:۳۴۸:۳۴۷:۳۴۶:۳۴۵:۳۴۴:۳۴۳:۳۴۲:۳۴۱:۳۴۰:۳۳۹:۳۳۸:۳۳۷:۳۳۶:۳۳۵:۳۳۴:۳۳۳:۳۳۲:۳۳۱:۳۳۰:۳۲۹:۳۲۸:۳۲۷:۳۲۶:۳۲۵:۳۲۴:۳۲۳:۳۲۲:۳۲۱:۳۲۰:۳۱۹:۳۱۸:۳۱۷:۳۱۶:۳۱۵:۳۱۴:۳۱۳:۳۱۲:۳۱۱:۳۱۰:۳۰۹:۳۰۸:۳۰۷:۳۰۶:۳۰۵:۳۰۴:۳۰۳:۳۰۲:۳۰۱:۳۰۰:۲۹۹:۲۹۸:۲۹۷:۲۹۶:۲۹۵:۲۹۴:۲۹۳:۲۹۲:۲۹۱:۲۹۰:۲۸۹:۲۸۸:۲۸۷:۲۸۶:۲۸۵:۲۸۴:۲۸۳:۲۸۲:۲۸۱:۲۸۰:۲۷۹:۲۷۸:۲۷۷:۲۷۶:۲۷۵:۲۷۴:۲۷۳:۲۷۲:۲۷۱:۲۷۰:۲۶۹:۲۶۸:۲۶۷:۲۶۶:۲۶۵:۲۶۴:۲۶۳:۲۶۲:۲۶۱:۲۶۰:۲۵۹:۲۵۸:۲۵۷:۲۵۶:۲۵۵:۲۵۴:۲۵۳:۲۵۲:۲۵۱:۲۵۰:۲۴۹:۲۴۸:۲۴۷:۲۴۶:۲۴۵:۲۴۴:۲۴۳:۲۴۲:۲۴۱:۲۴۰:۲۳۹:۲۳۸:۲۳۷:۲۳۶:۲۳۵:۲۳۴:۲۳۳:۲۳۲:۲۳۱:۲۳۰:۲۲۹:۲۲۸:۲۲۷:۲۲۶:۲۲۵:۲۲۴:۲۲۳:۲۲۲:۲۲۱:۲۲۰:۲۱۹:۲۱۸:۲۱۷:۲۱۶:۲۱۵:۲۱۴:۲۱۳:۲۱۲:۲۱۱:۲۱۰:۲۰۹:۲۰۸:۲۰۷:۲۰۶:۲۰۵:۲۰۴:۲۰۳:۲۰۲:۲۰۱:۲۰۰:۱۹۹:۱۹۸:۱۹۷:۱۹۶:۱۹۵:۱۹۴:۱۹۳:۱۹۲:۱۹۱:۱۹۰:۱۸۹:۱۸۸:۱۸۷:۱۸۶:۱۸۵:۱۸۴:۱۸۳:۱۸۲:۱۸۱:۱۸۰:۱۷۹:۱۷۸:۱۷۷:۱۷۶:۱۷۵:۱۷۴:۱۷۳:۱۷۲:۱۷۱:۱۷۰:۱۶۹:۱۶۸:۱۶۷:۱۶۶:۱۶۵:۱۶۴:۱۶۳:۱۶۲:۱۶۱:۱۶۰:۱۵۹:۱۵۸:۱۵۷:۱۵۶:۱۵۵:۱۵۴:۱۵۳:۱۵۲:۱۵۱:۱۵۰:۱۴۹:۱۴۸:۱۴۷:۱۴۶:۱۴۵:۱۴۴:۱۴۳:۱۴۲:۱۴۱:۱۴۰:۱۳۹:۱۳۸:۱۳۷:۱۳۶:۱۳۵:۱۳۴:۱۳۳:۱۳۲:۱۳۱:۱۳۰:۱۲۹:۱۲۸:۱۲۷:۱۲۶:۱۲۵:۱۲۴:۱۲۳:۱۲۲:۱۲۱:۱۲۰:۱۱۹:۱۱۸:۱۱۷:۱۱۶:۱۱۵:۱۱۴:۱۱۳:۱۱۲:۱۱۱:۱۱۰:۱۰۹:۱۰۸:۱۰۷:۱۰۶:۱۰۵:۱۰۴:۱۰۳:۱۰۲:۱۰۱:۱۰۰:۹۹:۹۸:۹۷:۹۶:۹۵:۹۴:۹۳:۹۲:۹۱:۹۰:۸۹:۸۸:۸۷:۸۶:۸۵:۸۴:۸۳:۸۲:۸۱:۸۰:۷۹:۷۸:۷۷:۷۶:۷۵:۷۴:۷۳:۷۲:۷۱:۷۰:۶۹:۶۸:۶۷:۶۶:۶۵:۶۴:۶۳:۶۲:۶۱:۶۰:۵۹:۵۸:۵۷:۵۶:۵۵:۵۴:۵۳:۵۲:۵۱:۵۰:۴۹:۴۸:۴۷:۴۶:۴۵:۴۴:۴۳:۴۲:۴۱:۴۰:۳۹:۳۸:۳۷:۳۶:۳۵:۳۴:۳۳:۳۲:۳۱:۳۰:۲۹:۲۸:۲۷:۲۶:۲۵:۲۴:۲۳:۲۲:۲۱:۲۰:۱۹:۱۸:۱۷:۱۶:۱۵:۱۴:۱۳:۱۲:۱۱:۱۰:۹:۸:۷:۶:۵:۴:۳:۲:۱:۰

نورالحق صفحہ 118 تا 122 مندرجہ ذیل خزانہ جلد 8 صفحہ 158 تا 162 از مرزا قادیانی یہ حوالہ صفحہ 85 پر درج ہے

اب دیکھو یہ تین سو تیرہ مخلص جو اس کتاب میں درج ہیں یہ اسی پیشگوئی کا مصداق ہے جو حدیث رسول ﷺ میں  
 علیہ وسلم میں پائی جاتی ہے۔ پیشگوئی میں کہ عہد کا لفظ بھی ہے جو صریح قادیان کے نام کو متلاسا ہے پس  
 تمام مضمون اس حدیث کا یہ ہے کہ وہ مہدی مولود قادیان میں پیدا ہو گا۔ اور اس کے پاس ایک کتاب  
 چھپی ہوئی ہوگی جس میں تین سو تیرہ اس کے دوستوں کے نام درج ہونگے۔ سو ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ  
 بات میرے اختیار میں تو نہیں تھی کہ میں ان کتابوں میں جو اس زمانہ سے ہزار برس پہلے دنیا میں شائع ہو چکی ہیں اپنے  
 گاؤں قادیان کا نام لکھ دیتا۔ اور نہ میں نے چھاپہ کی کل نکالی ہے تاہم خیال کیا جائے کہ میں نے اس غرض سے  
 مطبع کو اس زمانہ میں ایجاد کیا ہے۔ اور نہ تین سو تیرہ مخلص اصحاب کا پیدا کرنا میرے اختیار میں تھا بلکہ یہ تمام  
 اسباب خود خدا تعالیٰ نے پیدا کئے ہیں۔ نادہ اپنے رسول کریم کی پیشگوئی کو پورا کرے۔

مگر اس زمانہ کے مولویوں کی حالت پر سخت افسوس ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی پیشگوئی  
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہو۔ آتمم کی نسبت کیسی صفائی سے پیشگوئی پوری ہوئی خدا تعالیٰ کی  
 الہامی شرط کے موافق اول آتمم سو داؤوں کی طرح ڈلتا پھرا۔ اور باعزت شدت خوف شرط سے قائم اٹھایا۔ انہوں نے  
 کی حالت میں خدا تعالیٰ کے قطعی الہام کے موافق داخل جہنم ہوا۔ اور یہی پیشگوئی تھی جس کی برہین لکھیے صفحہ  
 میں بھی ہے۔ سو اس پہلے خبر دی گئی تھی۔ سو جیسا کہ اس پیشگوئی کی تکذیب میں پادریوں نے جھوٹ کی سخت  
 کھائی۔ عبدالحق اور عبدالحبار غزنویان وغیرہ مخالف مولویوں نے بھی وہ نجاست کھائی اور جیسا کہ عیسائیوں نے اسلام  
 پر حملہ کیا انہوں نے بھی اسلام پر حملہ کیا۔ کیونکہ یہ نشان اسلام کی تائید میں تھا۔ سو ان لوگوں نے اسلام کی کچھ پروا  
 نہ کی اور کچھ بھی حیا اور شرم اور تقویٰ سے کام نہ لیا۔ اسی لئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا نام  
 یہودی رکھا۔ اگر یہ لوگ آتمم کے بارے میں کوئی سچی حکمت چینی کرتے تو ہمیں کچھ افسوس نہ تھا۔ مگر ان لوگوں نے تمام  
 سچائی پر حقو کا جو آتمم کی طرح چمک رہی تھی۔ عبدالحق غزنوی بار بار لکھتا ہے کہ پادریوں کی فتح ہوئی ہم اس کے  
 جواب میں بجز اس کے کیا کہیں اور کیا کہیں کہ اے بد ذات یہودی صفت پادریوں کا اس میں منہ کالا ہوا۔ اور  
 ساتھ ہی تیر بھی۔ اور پادریوں پر ایک آسمانی لعنت پڑی اور ساتھ ہی وہ لعنت تجھ کو بھی کھا گئی مگر تو سچا ہے  
 تو اب ہمیں دکھلا کہ آتمم کہاں ہے۔ اے خبیث کب تک تو جے گا۔ کیا تیرے لئے ایک دن موت کا مقرر نہیں۔

ایسا ہی ذرہ انصاف کرنا چاہیے کہ کس وقت اور چمک سے کس وقت اور خسوں کی پیشگوئی پوری ہوئی۔ اور ہمارے دعویٰ پر آسمان نے گواہی دی۔ مگر اس زمانہ کے ظالم مولوی اس سے بھی منکر ہیں۔ خاص کر رئیس القباہین عبدالحق غزنوی اور اس کا تمام گروہ۔ علیہم منعال لعن اللہ الف الف مرتباً۔ اپنے تپاک اشتہار میں نہایت اصرار سے کہتا ہے کہ یہ پیشگوئی بھی پوری نہیں ہوئی اس لیے پلیدہ مجال، پیشگوئی تو پوری ہو گئی۔ لیکن تعصب کے غبار نے تجھ کو اندھا کر دیا۔ پیشگوئی کے اصل لفظ جو امام محمد باقر سے واقفین میں مروی ہیں۔ ان لمہدینا ایتمون لہم تکون امتنا خلق السموات والارضین ینکسف القمر لاول ایلہ من رمضان ینکسف الشمس فی التصف منہ الخ۔ یعنی ہمارے مہدی کی تائید اور تصدیق کے لئے دو نشان مقرر ہیں۔ اور جب کہ زمین و آسمان پیدا کئے گئے وہ دو نشان کسی مدعی کے وقت ظہور میں نہیں آئے۔ اور وہ یہ ہیں کہ مہدی کے اذکار کے وقت میں چاند کو اس پہلی رات میں گرہن ہوگا جو اس خسوں کی تین راتوں میں پہلی رات یعنی تیرہویں رات۔ اور سورج کو اس کے گرہن کے دنوں میں سے اس دن گرہن ہوگا جو درمیان کا دن ہے یعنی اٹھائیس تاریخ کو اور جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے کسی مدعی کے لئے یہ اتفاق نہیں ہوا کہ اس کے دعویٰ کی وقت میں خسوں کسوت رمضان میں ان تاریخوں میں ہوا جو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا اس شخص سے نہیں تھا کہ وہ خسوں کسوت قانون قدرت کے برخلاف ظہور میں آئے گا اور یہ حدیث میں کوئی ایسا لفظ ہے۔ بلکہ صرف یہ مطلب تھا کہ اس مہدی سے پہلے کسی مدعی صادق یا کاذب کو یہ اتفاق نہیں ہوا ہوگا کہ اس نے مہدویت یا رسالت کا دعویٰ کیا ہو۔ اور اس کے وقت میں ان تاریخوں میں رمضان میں خسوں کسوت ہوا ہو۔ پس ان مولویوں کو چاہیے تھا۔ کہ اگر اس پیشگوئی کی صحبت میں شک تھا تو ایسی کوئی نظیر سابق زمانہ میں سے جو الہ کسی کتاب کے پیش کرتے جس میں لکھا ہوتا کہ پہلے ایسا دعویٰ ہو چکا ہے۔ اور اس کے وقت میں ایسا خسوں کسوت بھی ہو چکا ہے مگر اس طرف تو انہوں نے رخ بھی نہیں کیا۔ اور یہ احمقانہ عند پیش کر دیا ہے کہ اس پیشگوئی کے یہ معنی ہیں کہ چاند کو رمضان کی پہلی رات میں گرہن لگیگا۔ اور پندرہ تاریخ کو سورج گرہن ہوگا۔ لاجول لاقوۃ۔ ان محمول یہ معنی کس لفظ سے کھلے لے لے سنا دلوراکھوں انصوا مولیت کو بدنام کرنے والو! ذرہ سوچو!

خشک کر دیتا ہے اور کاٹ دیتا ہے اور اس کی جگہ اور ٹہنیاں پھلوں اور پھولوں سے  
لدی ہوئی پیدا کر دیتا ہے۔ بٹالوی صاحب یاد رکھیں کہ اگر اس جماعت سے ایک نکل جائیگا  
تو خدا سے تعالیٰ اس کی جگہ بیس لائیگا۔ اور اس آیت پر غور کریں فَسَوْفَ يَأْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ  
يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَہٗ اٰذِکَہٗ عَلَی الْمُؤْمِنِیْنَ اَعِزَّةٌ عَلَی الْکٰفِرِیْنَ ۝۶

بالآخر ہم ناظرین پر ظاہر کرتے ہیں کہ میر صاحب نے ۱۲ دسمبر ۱۸۹۱ء  
میں مخالفانہ طور پر ایک اشتہار بھی شائع کیا ہے جو ترک ادب اور تحقیر کے الفاظ سے  
بھرا ہوا ہے سو ان الفاظ سے تو ہمیں کچھ غرض نہیں جب دل بگڑتا ہے تو زبان ساتھ  
ہی بگڑ جاتی ہے لیکن اس اشتہار کی تین باتوں کا جواب دینا ضروری ہے :-  
اول یہ کہ میر صاحب کے دل میں وہی کے مباحثات کا حال خلاف واقعہ جم گیا ہے۔  
سو اس دوسرے کے دور کرنے کے لئے میر صاحبی اشتہار کافی ہے بشرطیکہ میر صاحب اس  
کو غور سے پڑھیں ۶

دوم یہ کہ میر صاحب کے دل میں سراسر فاش غلطی سے یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ  
گویا میں ایک نیچری آدمی ہوں معجزات کا منکر اور نبیۃ القدر سے انکاری اور نبوت کا  
مدعی اور انبیاء علیہم السلام کی اہانت کرنے والا اور عقاید اسلام سے منہ پھیرنے والا۔ سو  
ان اوہام کے دور کرنے کیلئے میں وعدہ کر چکا ہوں کہ عنقریب میری طرف سے اس بارہ میں  
رسالہ مستقلہ شائع ہوگا۔ اگر میر صاحب تو مجھ سے اس رسالہ کو دیکھیں گے تو بشرط توفیق  
ازل اپنی بے بنیاد اور بے اصل بدظنیوں سے سخت ندامت اٹھائیں گے ۶  
سوم یہ کہ میر صاحب نے اپنے اس اشتہار میں اپنے کمالات ظاہر فرما کر تحریر فرمایا ہے کہ  
گویا انکو رسول نمائی کی طاقت ہے۔ چنانچہ وہ اس اشتہار میں اس عاجز کی نسبت لکھتے ہیں کہ  
اس بارہ میں میرا مقابلہ نہیں کیا۔ میں نے کہا تھا کہ ہم دونوں کسی ایک مسجد میں بیٹھ جائیں  
اور پھر یا تو مجھ کو رسول کہیم کی زیارت کرا کر اپنے دعاوی کی تصدیق کرا دیجائے اور یا میں  
زیارت کرا کر اس بارہ میں فیصلہ کرا دوں گا۔ میر صاحب کی اس تحریر نے نہ صرف مجھے  
ہی تعجب میں ڈالا بلکہ ہر ایک واقعہ حال سخت متعجب ہو رہا ہے کہ اگر میر صاحب میں



خیال کرتا ہوں۔ کیونکہ یہ امر لا یمسئہ الا المظہرون پر موقوف ہے۔ پھر میں من حکم ہونا کس وجہ سے منظور کروں۔ ہاں اگر چند منتخب مولوی ان میں سے بطور طالب حق قادیان میں آجائیں تو میں زبانی انکو تبلیغ کر سکتا ہوں۔ ورنہ خدا کا کام چل رہا ہے کوئی مخالف اسکو روک نہیں سکتا۔ مخالف سے فتویٰ لینا کیا معنی رکھتا ہے۔ ہاں البتہ ہم حافظ صاحب کے اس اشتہار سے ندوہ کیلئے ایک موقع تبلیغ کا نکالتے ہیں۔ حافظ صاحب یاد رکھیں کہ جو کچھ رسالہ قطع المؤمنین میں جھوٹے مدعیان نبوت کی نسبت بے سرو پا حکایتیں لکھی گئی ہیں وہ حکایتیں اسوقت تک ایک ذرہ قابل اعتبار نہیں جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ مفسری لوگوں نے اپنے اس دعوے پر اصرار کیا اور توبہ نہ کی۔ اور یہ اصرار کیونکر ثابت ہو سکتا ہے جب تک اسی زمانہ کی کسی تحریر کے ذریعے سے یہ امر ثابت نہ ہو کہ وہ لوگ اسی افسر اور جھوٹے دعویٰ نبوت پر مرے اور ان کا کسی اسوقت کے مولوی نے جنازہ نہ پڑھا۔ اور نہ وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کئے گئے۔ اور ایسا ہی یہ حکایتیں ہرگز ثابت نہیں ہو سکتیں جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ انکی تمام عمر کے مضامین جنکو انہوں نے بطور افسر اخذ کا کلام قرار دیا تھا وہ اب کہاں ہیں اور ایسی کتاب انکی وحی کی کس کس پاس پڑتا اس کتاب کو دیکھا جائے کہ کیا کبھی انہوں نے کسی قطعی یقینی وحی کا دعویٰ کیا اور اس بنا پر اپنے تئیں ظلی طور پر یا اصلی طور پر نبی اشد ٹھہرایا ہے اور اپنی وحی کو دوسرے انبیاء علیہم السلام کی وحی کے مقابل پر منہاں اشد ہونے میں برابر سمجھا ہوتا تعقل کے معنی اسپر صادق آویں۔ حافظ صاحب کو معلوم نہیں کہ تعقل کا حکم قطع اور یقین کے متعلق ہے۔ پس جیسا کہ میں نے بار بار بیان کر دیا ہے کہ یہ کلام جو میں سناتا ہوں یہ قطعی اور یقینی طور پر خدا کا کلام ہے جیسا کہ قرآن اور تورات خدا کا کلام ہے اور میں خدا کا ظلی اور بروزی طور پر نبی ہوں اور ہر ایک مسلمان کو دینی امور میں میری اطاعت واجب ہے اور میری دعوت ماننا واجب ہے۔ اور ہر ایک جس کو میری تبلیغ پہنچ گئی ہے گو وہ مسلمان ہو مگر مجھے اپنا حکم نہیں ٹھہراتا اور مجھے مسیح موعود مانتا ہے اور نہ میری وحی کو خدا کی طرف سے جانتا ہے وہ آسمان پر قابل مواخذہ ہے کیونکہ جس امر کو اس نے اپنے وقت پر قبول کرنا تھا اس کو رد کر دیا میں صرف

لیکن یہ بات صحیح بخاری سے بھی معلوم ہو چکی ہے کہ مسیح ابن مریم فوت شدہ جماعت میں داخل ہے اور یحییٰ بن زکریا کے ساتھ دوسرے آسمان میں موجود ہے۔ اور خدا تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ کوئی شخص میری طرف بغیر مرنے کے آ نہیں سکتا۔ لیکن کچھ شک نہیں کہ مسیح اس کی طرف اٹھایا گیا سو وہ ضرور مر گیا۔ خدا تعالیٰ نے اپنی پاک کلام میں اس کو اتنی متوقیہت و افعال اتی سے پکارا ہے۔ سو لفظ متوقی جن عام معنوں سے تمام قرآن اور حدیثوں میں مستعمل ہے وہ یہی ہے کہ روح کو قبض کرنا اور جسم کو محض چھوڑ دینا۔ یہ بڑے تعصب کی بات ہے کہ تمام بہان کے لئے توفیق کے یہی معنی روح قبض کرنے کے ہوں۔ لیکن مسیح ابن مریم کے لئے جسم قبض کرنے کے معنی لئے جاویں۔ کیا ہم خاص عیسیٰ کے لئے کوئی نئی لغت بنا سکتے ہیں جو کبھی اشد اور رسول کے کلام میں مستعمل نہیں ہوئی اور نہ عرب کے شعراء اور زبان دان کبھی اس کو استعمال میں لائے۔ پھر جس حالت میں توفیق کے یہی شائع متعارف معنی ہیں کہ روح قبض کی جائے خواہ بطور ناقص یا بطور تام۔ تو پھر رفع سے رفع جسم کیوں مراد لیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس چیز پر قبضہ کیا جائے گا رفع بھی اسی کا ہو گا۔ نیز یہ کہ قبض تو روح کا ہو اور جسم کا رفع کیا جائے۔ غرض برخلاف اس متبادر اور مسلسل معنوں کے جو قرآن شریف سے توفیق کے لفظ کی نسبت اول سے آخر تک سمجھے جاتے ہیں ایک نئے معنی اپنی طرف سے گھڑنا ہی تو الحاد اور تحریف ہے۔ خدا تعالیٰ مسلمانوں کو اس سے بچا دے اگر یہ کہا جائے کہ توفیق کے معنی تفسیروں میں کوئی طور سے کئے گئے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ وہ مختلف اور متضاد اقوال ہی صلے اللہ علیہ وسلم کے بیان سے نہیں لئے گئے ورنہ ممکن نہ تھا کہ وہ بیان جو چشموحی سے نکلا ہے اس میں اختلاف اور تناقض باہ پاسکتا بلکہ وہ مفسرین کے صرف اپنے اپنے بیانات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ کبھی ان کا کسی خاص معنی پر اجماع نہیں ہوا۔ اگر ان میں سے کسی کو وہ بصیرت دی جاتی جو اس

اب دیکھو یہ تین سو تیرہ نخلوں جو اس کتاب میں درج ہیں یہ اسی پیشگوئی کا مصداق ہے جو احادیث رسول ﷺ کی علیہ وسلم میں پائی جاتی ہے۔ پیشگوئی میں کہ عہد کا لفظ بھی ہے جو صریح قادیان کے نام کو متلارہا ہے پس تمام مضمون اس حدیث کا یہ ہے کہ وہ مہدی موعود قادیان میں پیدا ہو گا اور اس کے پاس ایک کتاب چھپی ہوئی ہوگی جس میں تین سو تیرہ اس کے دوستوں کے نام درج ہونگے۔ سو ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ بات حیرت انگیز ہے تو نہیں تھی کہ میں ان کتابوں میں جو اس زمانہ سے ہزار برس پہلے دنیا میں شائع ہو چکی ہیں اپنے گاؤں قادیان کا نام لکھ دیتا اور نہ میں نے چھاپہ کی کل نکالی ہے تا یہ خیال کیا جائے کہ میں نے اس غرض سے مطبع کو اس نرگس میں ایجاد کیا ہے۔ اور نہ تین سو تیرہ نخلوں کا پیدا کرنا میرے اختیار میں تھا بلکہ یہ تمام اسباب خود خدا تعالیٰ نے پیدا کئے ہیں۔ تا وہ اپنے رسول کریم کی پیشگوئی کو پورا کرے۔

مگر اس زمانہ کے مولویوں کی حالت پر سخت افسوس ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی پیشگوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہو۔ اہم کی نسبت کیسی صفائی سے پیشگوئی پوری ہوئی بخدا تعالیٰ کی ہامی شرط کے موافق اول اہم سو دایوں کی طرح ڈنٹا پھرا۔ اور باعث شدت خوف شرط سے قائم اٹھایا۔ آخر یہاں کی حالت میں خدا تعالیٰ کے قطعی الہام کے موافق داخل جہنم ہوا۔ اور یہی پیشگوئی تھی جس کی براین لقمہ کے صفحہ ۳۲۱ میں بھی ہے۔ شورس پہلے خبر دی گئی تھی۔ سو جیسا کہ اس پیشگوئی کی تکذیب میں پادریوں نے جھوٹ کی نجات کھائی۔ عبدالحق اور عبدالجبار غزنویان وغیرہ مخالف مولویوں نے بھی وہ نجاست کھائی اور جیسا کہ عیسائیوں نے اسلام پر حملہ کیا انہوں نے بھی اسلام پر حملہ کیا۔ کیونکہ یہ نشان اسلام کی تائید میں تھا۔ سو ان لوگوں نے اسلام کی کچھ پرغا نہ کی اور کچھ بھی بیا اور شرم اور تقویٰ سے کام نہ لیا۔ اسی لئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا نام یہودی رکھا۔ اگر یہ لوگ آتم کے بارے میں کوئی سچی کتبہ چینی کرتے تو ہمیں کچھ افسوس نہ تھا مگر ان لوگوں نے کتا سچائی پر شہو کا جو آتم کی طرح چمکے ہی تھی۔ عبدالحق غزنوی بار بار لکھتا ہے کہ پادریوں کی فتح ہوئی ہم اس کے جہل میں بجز اس کے کیا کریں اور کیا لکھیں کہ اے بد ذات یہودی صفت پادریوں کا اس میں منہ کالا ہوا۔ اور ساتھ ہی تیر بھی۔ اور پادریوں پر ایک آسمانی لعنت پڑی اور ساتھ ہی وہ لعنت تجھ کو بھی کھا گئی ساگر تو سچا ہے تو اب ہمیں دکھلا کہ آتم کہاں ہے۔ لے غیث کب تک تو جئے گا۔ کیا تیرے لئے ایک دن موت کا مقرر نہیں۔

۶۳۹

۶ جنوری ۱۸۹۱ء (الف) "خواب میں دیکھا کہ میرے پاس مرزا غلام قادر میرے بھائی کھڑے ہیں اور میں یہ آیت شہر آن شریف کی پڑھتا ہوں غَلَبَتِ انْدُرُؤْمُ فِيْ اَذْنِ الْاَرْضِ وَهَضَمَتْ اَبْعَدِ غَلَبِهْمُ سَيَغْلِبُوْنَ اور کتا ہوں کما اَذْنِ الْاَرْضِ سے قاریان مراد ہے اور میں کتا ہوں کہ قرآن شریف میں قادیان کا نام درج ہے۔"

مکتوب پیرسراج الحق صاحب نعمانی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دست مبارک کے ٹکے ہونے میں سے)

(ب) "ایک دفعہ میں یہ الہام ہوا کہ :-

"غَلَبَتِ انْدُرُؤْمُ فِيْ اَذْنِ الْاَرْضِ وَهَضَمَتْ اَبْعَدِ غَلَبِهْمُ سَيَغْلِبُوْنَ اور مجھے دکھایا گیا کہ اس وعدہ کی آخری آیت تک جس قدر حروف ہیں ان میں اکمل اور اخلص موانعین کے نام بھی مخفی ہیں اور جو اشد انکار و عناد و مخالفت میں اپنی قوم میں سے ہیں ان کے نام بھی اس میں پوشیدہ ہیں۔"

پھر سب بایا "اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے اَذْنِ الْاَرْضِ پر قرآن شریف میں ہاتھ رکھا ہوا ہے اور کتا ہے کہ یہ قادیان کا نام ہے۔"

تذکرہ الہدی صفحہ دوم صفحہ ۴۴ و مکتوب پیرسراج الحق صاحب نعمانی ۱۹

۲۷ فروری ۱۸۹۱ء "فِيْ حَقِّ سِرِّ الْكِتَابِ فَهْرِمُوْا" مکتوب پیرسراج الحق صاحب نعمانی ۱۹ و البشری صفحہ ۱۵۵

۶ ۱۸۹۱ء خواب حسن نظامی صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک خط شائع کیا ہے جس کا اقتباس درج ذیل ہے۔

"ہم نے آپ کی صحت کے لئے خدا سے دعا مانگی اور ہم کو الہام ہوا کہ خواب حسن نظامی ابھی بہت دن زندہ رہیں گے اور مسلمانوں کے بڑے بڑے کام کریں گے۔"

(الفضل جلد ۲۴ نمبر ۲۳۸ مورخہ ۱۱ اکتوبر ۱۹۵۲ء صفحہ ۶ بحوالہ اخبار منادی دہلی بابت ماہ ستمبر ۱۹۵۲ء صفحہ ۲۵)

۱۰ (ترجمہ از مرتب) پھر کتاب لائی گئی تب انہیں شکست ہوئی۔ (نوٹ: ایہ صاحب لکھتے ہیں۔ یہ الہام حضرت اقدس علیہ السلام کے دست مبارک کے لکھے ہوئے سے نقل کئے گئے۔

۱۱ البشری مجموعہ العلامات حضرت مسیح موعود علیہ السلام غیر مطبوعہ ترجمہ پیرسراج الحق صاحب نعمانی ۱۹ (ترجمہ)

یہ حوالہ صفحہ 92 پر درج ہے

تذکرہ مجموعہ وحی والہامات صفحہ 649 طبع چہارم از مرزا قادیانی

نکارہ جب تک میں زندہ ہوں، جہاں تک میری طاقت ہے میں تیرا ساتھ دوں گا۔

(ازالہ اوہام صفحہ ۱۶-۱۸۔ روحانی خزائن جلد ۲ صفحہ ۱۱۰، ۱۱۱)

”یہ سب مضمون ابوطالب کے قصہ کا اگرچہ کتابوں میں درج ہے مگر یہ تمام عبارت الہامی ہے جو خدائے تعالیٰ نے اس عاجز کے دل پر نازل کی۔ صرف کوئی کوئی فقرہ تشریح کے لئے اس عاجز کی طرف سے

ہے۔“ (ازالہ اوہام صفحہ ۱۸، ۱۹ حاشیہ۔ روحانی خزائن جلد ۲ صفحہ ۱۱۰، ۱۱۱ حاشیہ)

۱۸۹۱ع

”صحیح مسلم میں یہ جو کھلبے کہ حضرت مسیح و مشق کے منارہ سفید شرتی کے پاس آتے گئے.... مشق کے لفظ کی تعبیر میں میرے پر جناب اللہ نے ظاہر کیا گیا ہے کہ اس جگہ ایسے قصہ کا نام مشق رکھا گیا ہے جس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو یزیدی الطبع اور یزید پطید کی عادات اور خیالات کے پیرو ہیں.... مجھ پر یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ مشق کے لفظ سے دراصل وہ مقام مراد ہے جس میں یہ مشق والی مشہور خاصیت پائی جاتی ہے اور خدائے تعالیٰ نے مسیح کے آنے کی جگہ جو مشق کو بیان کیا تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مسیح سے مراد وہ اصلی مسیح نہیں ہے جس پر انجیل نازل ہوئی تھی بلکہ مسلمانوں میں سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو اپنی روحانی حالت کی رُو سے مسیح سے اور نیز امام حسین سے بھی مشابہت رکھتا ہے کیونکہ مشق پائے تخت یزید ہو چکا ہے اور یزیدیوں کا منصوبہ گاہ جس سے ہزار باطرح کے ظالمانہ احکام نافذ ہوئے وہ مشق ہی ہے.... سو خدائے تعالیٰ نے اس مشق کو جس سے ایسے ظلم احکام نکلتے تھے او جس میں ایسے سنگ دل اور سیاہ دلوں لوگ پیدا ہو گئے تھے اس غرض سے نشانہ بنا کر لکھا کہ اب مشیل مشق بدل او ایمان پھیلانے کا ہیڈ کوآرڈر ہو گا کیونکہ اکثر نبی ظالموں کی بستی میں ہی آتے رہے ہیں اور خدائے تعالیٰ لعنت کی جگہوں کو برکت کے مکانات بناتا رہا ہے۔“ (ازالہ اوہام صفحہ ۶۲ تا ۶۴ حاشیہ۔ روحانی خزائن جلد ۲ صفحہ ۱۳۳-۱۳۶ حاشیہ)

۱۸۹۱ع

”قادیان کی نسبت مجھے یہ بھی الام ہو اکر

أَخِيْرَجِيْنَهُ الْيَزِيْدِيُوْنَ

یعنی اس میں یزیدی لوگ پیدا کئے گئے ہیں۔“ (ازالہ اوہام صفحہ ۲۴ حاشیہ۔ روحانی خزائن جلد ۲ صفحہ ۱۳۸ حاشیہ)

۱۸۹۱ع

(او) ”ایک صاف اور صریح کشف میں مجھ پر ظاہر کیا گیا کہ ایک شخص عارث نام یعنی خراث آنے والا جو

لے عارث کے معنی زمیندار کے ہیں اور خراث سے مراد بڑا زمیندار ہے اور یہ بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں

پائی جاتی ہے۔ (مترجم)

يُغَيِّرُهَا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ۚ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُبْطِلْ مَالَكَ لِلرِّجَالِ عِشْرِئِ أَيْدِيكَ لِتُلَاقِيَ عَذَابَ اللَّهِ الَّذِي أَنْتَ بِهٖ مُّسْتَمِرٌّ ۖ وَقَالَ الْوَالِدَاتُ جِئْنَ مَنَايِسَ ۚ فَمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِلَيْكَ عَلَيْهِمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِن حَوْلِكَ ۚ وَكَوْنَنَّ قُرْآنًا سَيِّئًا بِهِ الْبِطَالُ ۚ

کیا کہتے ہیں کہ ہم ایک قومی جماعت ہیں جو جو اب دینے پر قادر ہیں۔ عنقریب یہ ساری جماعت بھاگ جائیگی اور پیٹھے پھیر لیں گے۔ اور جب یہ لوگ کوئی نشان دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ایک معمولی اور قدیمی سحر ہے حالانکہ آنکھوں کے ذریعے ان نشانوں پر یقین کہئے ہیں اور دونوں میں انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ اب گریز کی جگہ نہیں۔ اور یہ خدا کی رحمت ہے کہ تو ان پر نرم ہوا اور اگر تو سخت دل ہوتا تو یہ لوگ تیرے نزدیک نہ آتے اور تجھ سے الگ ہو جاتے۔ اگرچہ مشرکانی معجزات ایسے دیکھتے جن سے سارا عجبش میں آجاتے۔

یہ آیات ان بعض لوگوں کے حق میں بطور انعام القا ہوئیں جن کا ایسا ہی خیال اور حال تھا اور شاید ایسے ہی اور لوگ بھی نکل آویں جو اس قسم کی باتیں کریں اور بدرجہ یقین کامل پہنچ کر پھر شکر رہیں۔  
(برایں اہمیر حصہ چہارم صفحہ ۷۹، ۸۰، ۸۱ حاشیہ در حاشیہ۔ روحانی خزائن جلد ۲ صفحہ ۵۹۲-۵۹۳)

۱۸۸۳ء۔  
پھر بعد اس کے فرمایا:

إِنَّمَا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا مِّنَ الْقَادِمِينَ ۚ وَيَا لِحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ ۚ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَكَانَ أَمْرًا لِلَّهِ مَفْعُولًا ۚ

یعنی ہم نے ان نشانوں اور عجائبات کو اور نیز اس امام پر از سعادت و سخاوت کو قادیان کے قریب آمارا ہے۔ اور ضرورتِ حقہ کے ساتھ آمارا ہے اور بصورتِ حقہ آمارا ہے۔ خدا اور اس کے رسول نے خبر دی تھی کہ جو اپنے وقت پر پوری ہوئی اور جو کچھ خدا کے چاہا تھا وہ ہونا ہی تھا۔  
یہ آخری فقرات اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس شخص کے ظہور کے لئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی

لے (ترجمہ از مرتب) اس سے یہ عراض کہتے۔ اور

۱۲۔ اس امام پر نظر غور کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ قادیان میں خدا نے تعالیٰ کی طرف سے اس عاجز کا ظاہر ہونا الہامی نشانیوں میں بطور پیشگوئی کے پہلے سے کھائی تھا۔۔۔۔۔ اب جو ایک نئے امام سے یہ بات پیدا ہوئی ہے تو یہی گئی کہ قادیان کو خدا نے تعالیٰ کے نزدیک و مشق سے مشابہت ہے تو اس پہلے امام کے معنی میں اس سے عمل گئے۔۔۔۔۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ ایسا آنکارا مگر بیا مین و مشق بطورین شرفی بند المنارۃ المبتدآ۔

کیونکہ اس عاجز کی سکونت جگہ قادیان کے شرقی کنارہ پر ہے (ازالہ اوہام صفحہ ۷۳-۷۴ حاشیہ۔ روحانی خزائن جلد ۲ صفحہ ۱۳۸، ۱۳۹)۔  
۱۳۔ ازالہ اوہام میں یہ فقرہ لیا ہے وَكَانَ وَهَذَا لِلَّهِ مَفْعُولًا۔ (ازالہ اوہام صفحہ ۷۴)

یعنی طاعون پڑیگی اور بعد اس کے دوسرے عذاب بھی نازل ہونگے اس لئے ضروری تھا کہ مسیح  
اسلامی کی تائید میں بھی یہ باتیں ظہور میں آئیں۔ اور بھی دلائل اس بات پر بہت ہیں کہ یہی  
دابتہ الارض جس کا قرآن شریف میں ذکر ہے طاعون ہے اور بلاشبہ یہ زمینی بیماری ہے اور زمین میں سے ہی  
نکلتی ہے اس سے محفوظ رہنے کیلئے بعد اسکے جو ایک شخص اس جماعت میں داخل ہوا اور تقویٰ اختیار  
کئے تکرار سورۃ فاتحہ کا حضور دل سے اور اسکے معنوں پر قائم ہونے سے بہت موثر ہے جو شخص طلوع  
کی ناگہانی آفت سے بچنا چاہتا ہو اسکے لئے اس سے بہتر اور کوئی ذریعہ نہیں جو خدائے قادر  
ذوالجلال پر سچا ایمان لائے اور اپنے تمام اعضاء کو معاصی سے بچائے اور دین کو اور دینی خدمات  
کو دنیا پر مقدم رکھے اور اس سلسلہ حقہ میں صدق اور اخلاص کے ساتھ داخل ہو جائے اور دلی جوش  
کے ساتھ دعائیں لگائے اور اپنی عورتوں کو جن کے شرکے بد اثر میں وہ بھی شریک ہو سکتا ہے  
خانلانہ زندگی سے بچاؤ سے اور کوشش کرے کہ اسکے گھر میں ذکر الہی ہو پھر اسکے ساتھ قرآن شریف  
کے جمیع احکام کا پابند ہو کر ظاہری پلیدیوں اور ناپاکیوں سے بھی اپنے گھر کو صاف رکھے جو شخص ظاہری  
پلیدیوں سے نفرت نہیں رکھتا اور اس کا گھر اور اس کے گھر کا محسن ناپاک رہتے ہیں وہ اندرونی پاکیزگی  
میں بھی شست ہو سکتا ہے سو تم کوشش کرو کہ تمہارے گھر کا کوئی بھی حصہ ناپاک نہ ہو اور نہ ناپاک پانی اور  
کپڑے بد روئوں میں کھڑے اور نہ کیڑے میلے کھیلے رہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے جو قرآن شریف میں  
اچکا ہے۔ ایسے احکام جو خدا تعالیٰ کی کتاب میں آئے ہیں وہ اسلئے آئے ہیں تا تم سمجھو کہ جہان سلسلہ

ذکر باب ۱۴ میں مذکور ہے کہ آخری زمانہ میں مسیح موعود کے عہد میں سخت طاعون پڑیگی۔ اس زمانہ میں تمام فرقے دنیا کے  
متفق ہونگے کہ یرشلیم کو تباہ کر دیں۔ تب انہی دنوں میں طاعون پھوٹے گی اور اس دن یوں ہوگا کہ جیسا پانی  
یرشلیم سے جاری ہوگا یعنی خدا کا مسیح ظاہر ہو جائے گا۔ اور اس جگہ یرشلیم سے مراد بیت المقدس نہیں ہے  
بلکہ وہ مقام ہے جس سے دین کے زندہ کرنے کے لئے الہی تعلیم کا چشمہ جوش مارے گا اور وہ قادیان ہے۔ جو  
خدا تعالیٰ کی نظر میں دارالامان ہے۔ خدا تعالیٰ نے جیسا کہ اس امت کے خاتم الخلفاء کا نام مسیح رکھا ایسا ہی  
اسکے خروج کی جگہ کا نام یرشلیم رکھ دیا اور اس کے مخالفوں کا نام یہود رکھ دیا۔ ص ۱۱۰

۳۲۱

من الضربة - فلا تهنوا ولا تحزنوا وان الله معكم وان كنتم معه بالصدق والطاعة - ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة - والان اعيد اليكم البدر في المرة الثانية - وان الفتح قريب ولكن لا بالسيف والمجبة بل بالنصر عا وعقد الهمة والادعية - فلا تظنوا ظن السوء واسعوا الي كالصحابة ولا تموتوا الا وانتم مسلمون وصلوا على محمد خيرا البرية - وان هذه مائة كليلة البدر عدة - وكليلة القدر مرتبة فابشروا ببدركم وانتظروا ايام النصر -

## في ذكر اهل الجرائد والخبائر

لعلك تقول بعد ذلك ان اهل الجرائد والخبائر يستحقون ان يصلحوا مفسد البلدان والديار - فاقول رحمك الله انه خطأ في الافكار - اتبزع من هؤلاء امراض النفوس - ووساوس القسوس - نعم لا شك ان هذه الصناعات تفيد قومنا لورعوه حق المراعات - و تكون كهتاد الى مجاهل - وتقود الى مناهل - وتكون كتناصر للدينيات - وان الجرائد تشرى الغائب كالمشهود - والغائب كالموجود - وتكون الوصلة الى بعض الخفايا - بل قد تعين على فصل القضايا - وتشرى

في الخاشية - اول بلدة بأرض الناس فيها اسمها يدعيانه - وهي اول امراض قامت الاشرار فيها للأمانه - فلما كانت بيعة الخالصين - حرية لقتل الدجال اللعين - باشاعة الحق المبين - اشرفني الحديث ان المسيح يقتل الدجال على باب اللد بالضربة الواحدة - فاللد ملحق من لفظ لدهيانه كما لا يخفى على ذوي النظر



(۶) دجال جب گب سے پروار ہوگا تو گدھا جس جلدی سے چلیگا اس کی یہ مثال ہے کہ جیسے بافل اس حالت میں چلتا ہے جب کہ پیچھے اس کے ہوا ہو۔ یہ ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دجال گادھا کوئی جاندار مخلوق نہیں ہوگا بلکہ وہ کسی ہوائی مادہ کے زور سے چلے گا۔

(۷) زمین اور آسمان دونوں دجال کے فرمانبردار ہوں گے یعنی خدا تعالیٰ اس تدریس کے ساتھ تقدیر موافق کر دے گا اور اس کے اختیار زمین کو اس کی مرضی کے موافق آباد کرے گا۔

(۸) دجال مشرق کی طرف سے خروج کرے گا یعنی ملک ہند سے کیونکہ یہ ملک زمین حجاز سے مشرق کی طرف ہے۔ متفق علیہ۔

(۹) دجال جس ویرانہ پر گدرے گا اُسے کہیں گا تو اپنے خزانے باہر نکال۔ سو وہ تمام خزانے باہر نکل آئیں گے اور دجال کے پیچھے پیچھے جائیں گے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دجال زمین سے بہت فائدہ اٹھائے گا۔ اور اپنی تیسروں سے زمین کو آباد کرے گا اور ویرانے کو خزانے کے دکھائے گا پھر آخر بلب لہ قتل کیا جائیگا لہذا لوگوں کو کہتے ہیں جو بے جا جھگڑنے والے ہوں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے

بسر کرنا انہوں نے کہاں سے سیکھ لیا ہے۔ کتاب الہی کی غلط تفسیروں نے انہیں بہت فریب کیا ہوگا ان کے دل اور دماغی قوتی پر بہت برا اثران سے پڑا ہے۔ اس زمانہ میں جو مشبہ کتاب الہی کے لئے ضروری ہے کہ اس کی ایک نئی اور صحیح تفسیر کی جائے کہ جو حال میں جن تفسیروں کی تعلیم دی جاتی ہے وہ نہ اخلاقی حالت کو درست کر سکتی ہیں اور نہ ایمانی حالت پر نیک اثر ڈالتی ہیں بلکہ فطرتی معاصبات اور نیک روشنی کی مزاحم ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دراصل اپنے اکثر فائدہ کی وجہ سے قرآن کریم کی تفسیر نہیں ہے قرآنی تفسیر ایسے لوگوں کے دلوں سے مٹ گئی ہے کہ گویا قرآن آسمان پر اٹھایا گیا ہے۔ وہ ایمان جو قرآن نے سکھایا تھا اس سے لگ بے خبر ہیں وہ عرفان جو قرآن نے بخشا تھا اس سے لگ فافل ہو گئے ہیں۔ ہاں یہ سچ ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن ان کے ملق سے پیچھے نہیں آتا۔ انہیں معصوموں سے

خطبہ الہامیہ

۲۱

لاقصی الذی بارکنا حوالہ۔ اور جس کے منلوہ کا ذکر حدیث میں بھی ہے کہ مسیح کا نزول منارہ کے پاس ہوگا۔ دمشق کا ذکر اس حدیث میں جو مسلم نے بیان کی ہے اس غرض سے ہے کہ تین خدا بنانے کی تخریزی اول دمشق سے شروع ہوئی ہے اور مسیح موعود کا نزول اس

قرآن شریف کی یہ آیت کہ سبحان الذی اسوی بعبدا لیلا من المسجد الحرام لی المسجد الاقصی الذی بارکنا حوالہ معراج مکانی اہ زانی دونوں پر مشتمل ہے اور بغیر اس کے معراج ناقص رہتا ہے پس جیسا کہ میر مکانی کے لحاظ سے خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے بیت المقدس تک پہنچا دیا تھا۔ ایسا ہی میر زانی کے لحاظ سے آنجناب کو شوکت اسلام کے زمانہ سے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا برکات اسلامی کے زمانہ تک جو مسیح موعود کا زمانہ ہے پہنچا دیا۔ پس اس پہلو کے رو سے جو اسلام کے انتہا زمانہ تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا میر کشنی ہے۔ مسجد اقصیٰ سے مراد مسیح موعود کی مسجد ہے جو قادیان میں واقع ہے۔ جس کی نسبت براہین احمدیہ میں خدا کا کلام یہ ہے۔ مبارک و مبارک و کل امر مبارک یجعل فیہ۔ اور یہ مبارک کا لفظ جو بصیغہ مفعول اللہ قائل واقع ہوا قرآن شریف کی آیت بارکنا حوالہ کے مطابق ہے۔ پس کچھ شک نہیں جو قرآن شریف میں قادیان کا ذکر ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ سبحان الذی اسوی بعبدا لیلا من المسجد الحرام لی المسجد الاقصی الذی بارکنا حوالہ۔ اس آیت کے ایک توحید معنی ہیں جو علماء میں مشہور ہیں۔ یعنی یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانی معراج کا یہ بیان ہے۔ مگر

شوکت اسلامی کا زمانہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا اس کا اثر غالب یہ تھا کہ حضرت موسیٰ کی طرح مومنین کو کفار کے حملہ سے نجات دی۔ اس لئے بیت اللہ کا نام بھی بیت امن رکھا گیا۔ لیکن زمانہ برکات کا جو مسیح موعود کا زمانہ ہے اس کا یہ اثر ہے کہ ہر قسم کے آدم زہین میں پیدا ہو جائیں اور نہ صرف امن بلکہ پیش رفت بھی حاصل ہو۔ منہ

سہ بنی اسرائیل: ۲

یہ حوالہ صفحہ 95 پر درج ہے

خطبہ الہامیہ صفحہ 21 مندرجہ روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 21 از مرزا قادیانی

پر جس نے میرا گناہ کیا ہے میں اُسکو گھسیٹوں گا اور اُس کو دوزخ دکھلاؤں گا۔ میرے نشان روشن ہو جائیں گے۔ میرا دشمن ہلاک ہو گیا۔ یعنی ہلاک ہو جائے گا۔ ہُن اُس دا لیکھا خدا نال جا پیا ہے۔

خدا نے اس جگہ میرا نام موسیٰ رکھا جیسا کہ آج سے چھبیس برس پہلے براہین احمدیہ کے کئی مقامات میں میرا نام موسیٰ رکھا گیا۔ خلاصہ الہام یہ ہے کہ اس زمانہ میں موسیٰ ایک ہی ہے دو نہیں ہیں۔ اور وہ جو دوسرا موسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ کاذب ہے اور پھر فرمایا کہ وہ جو میری طرف سے موسیٰ ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ میں اُسکو ظاہر کروں اور لوگوں میں اُس کو عزت دوں۔ پر جس نے میرا گناہ کیا ہے یعنی محض دروغ گوئی کے طور پر موسیٰ بنا ہے میں اُس کو گھسیٹوں گا۔ یعنی ذلت دکھلاؤں گا اور ذلت کی موت دوں گا۔ اور اُس کو دوزخ دکھلاؤں گا۔ یعنی وہ طاعون میں مبتلا ہو کر مرے گا۔

یہ پیش گوئی پوری تصریح کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف سے تھی کیونکہ اُس زمانہ میں میرے مقابل پر موسیٰ ہونے کا دعویٰ کرنا لامصروف باب الہی بخش تھا جس کو خدا نے طاعون سے ہلاک کیا اور ان کی بیماری اور موت سے پہلے عام طور پر اخبار بدر اور المحکم کے ذریعہ ہزاروں انسانوں میں یہ الہام الہی شائع کیا گیا۔ آخر ایسا ہی ظہور میں آیا۔ یاد رہے کہ میرے تمام الہامات میں جہنم سے مراد طاعون ہے۔ پس یہ عظیم الشان پیش گوئی تھی جس میں پیش از وقت بتلایا گیا تھا کہ بابو الہی بخش صاحب طاعون سے فوت ہوں گے۔ نمونہ کے طور پر ذکر کرتا ہوں کہ جہنم سے مراد میرے الہامات میں طاعون ہے جیسا کہ ایک مدت گزری کہ ایک الہام مجھے ہو چکا ہے اور وہ مع تشریح بدر اور المحکم میں شائع ہو چکا ہے اور وہ یہ ہے۔

یاتی علیٰ جہنم زمان لیس فیہا احد اسکی تشریح یہ کی گئی ہے کہ ایک زمانہ طاعون پر ایسا آئے گا کہ اس ملک میں ایک بھی نہ ہوگا کہ اس میں داخل ہو۔ یعنی عام طور پر خدا لوگوں کو اس بلا سے نجات دیدے گا۔ اور پھر ایک اور الہام ہے جس میں آگ سے مراد طاعون

اے نادان! میری مراد نبوت سے یہ نہیں کہ میں نعوذ باللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر کھڑا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں۔ یا کوئی نئی شریعت لایا ہوں۔ صرت مراد میری نبوت سے کثرت مکالمات و مخاطبت الہیہ ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہے۔ سو مکالمہ و مخاطبہ کے آپ لوگ بھی قائل ہیں۔ پس یہ صرت لفظی نزاع ہوئی۔ یعنی آپ لوگ جس امر کا نام مکالمہ و مخاطبہ رکھتے ہیں میں اسکی کثرت کا نام حکیم الہی نبوت رکھتا ہوں۔ دیکھ ان یصطلاح۔ اور میں اس خدا کی قسم لگا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام ہی رکھا ہے۔ اور اسی نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے۔

(تمہ حقیقۃ الوحی ص ۲۵)

پس آپ کے دعویٰ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اور نہ ہی آپ کا کوئی الہام یا آپ کی کوئی تقریر منسوخ ہوئی۔ بلکہ نبوت کی مسلمانوں میں شگ تصدیق کے پیش نظر ۱۹۰۱ء سے پہلے آپ نبی کے نفاذ کو ظاہر سے پھیر کر یعنی محدث بتاتے تھے لیکن ۱۹۰۲ء کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو نبوت کی حقیقت کا انکشاف کیا اسی پہلی پیز کا ہم حکیم الہی نبوت رکھا اور اس نئی تعریف کے ماتحت اپنے آپ کو نبی قرار دیا۔

### دافع البلاء ومعیار اهل الاصطفا

یہ رسالہ آپ نے اپریل ۱۹۰۲ء میں شائع فرمایا۔ جب کہ پنجاب میں طاعون کا بہت زور تھا اس رسالہ میں طاعون سے متعلق آپ نے ان الہامات کا ذکر فرمایا ہے جن میں طاعون کی وباع کے پھیلنے کے متعلق پیشگوئی تھی۔ اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ طاعون دنیا میں اس لئے آئی ہے کہ خدا کے مسیح کا نہ صرت انکار کیا گیا بلکہ اس کو ڈکھ دیا گیا۔ اس کے قتل کرنے کے منصوبے کئے گئے۔ اس کا نام کا فر اور دھل رکھا گیا۔ اور پہلی کتابوں میں پیشگوئی پائی جاتی تھی کہ مسیح موعود کے ظہور کے وقت سخت طاعون پڑے گی۔ اور فرمایا کہ اس کا یقینی علاج تو یہی ہے کہ اس مسیح کو بچے دل اور اخلاص سے قبول کیا جائے اور اپنی زندگیوں میں ایک روحانی تبدیلی پیدا کی جائے۔ نیز وحی الہی

کیونکہ احمد نبی ہے۔ نبوت اس سے منفک نہیں ہو سکتی۔ اور ایک دفعہ یہ ذکر کیا کہ احادیث میں ہے کہ مسیح موعودؑ  
 زرد رنگ چادروں میں اتر گیا۔ ایک چادر بدن کے اوپر کے حصہ میں ہوگی اور دوسری چادر بدن کے نیچے کے  
 حصہ میں۔ سو میں نے کہا کہ یہ اس طرف اشارہ تھا کہ مسیح موعودؑ بیماریوں کے ساتھ ظاہر ہوگا کیونکہ تعبیر کے  
 علم میں زرد کپڑے سے مراد بیماری ہے۔ اور وہ دونوں بیماریاں مجھ میں ہیں یعنی ایک سر کی بیماری اور  
 دوسری کثرتِ پیشاب اور دستوں کی بیماری۔ ابھی وہ اسی جگہ تھے کہ بہت سے یقین اور بیماری تبدیل کی  
 وجہ سے ان پر الہام اور وحی کا دروازہ کھولا گیا اور خدا تعالیٰ کی طرف سے کھلے لفظوں میں میری تصدیق کے  
 بارے میں انہوں نے شہادتیں پائیں جنکی وجہ سے آخر کار انہوں نے اس شہادت کا شریعت اپنے لئے  
 منظور کیا جسکے مفصل لکھنے کیلئے اب وقت آگیا ہے۔ یقیناً یاد رکھو کہ جس طرز سے انہوں نے میری تصدیق  
 کی راہ میں مرنا قبول کیا۔ اس قسم کی موت اسلام کے تیرہ سو برس کے سلسلہ میں بجز نمونہ صیبا یعنی اشد عہد کے  
 اور کسی جگہ نہیں پاؤ گے۔ پس بلاشبہ اس طرح انکا مرنا اور میری تصدیق میں تقدیر جلیل خدا تعالیٰ کے حوالہ کرنا  
 یہ میری سچائی پر ایک عظیم الشان نشان ہے۔ مگر ان کیلئے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ انسان شکی شبہ کی حالت میں کب  
 چاہتا ہے کہ اپنی جان دے۔ اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو تباہی میں ڈالے۔ پھر عجب تو یہ کہ یہ بزرگ معمولی  
 انسان نہیں تھا۔ بلکہ ریاست کابل میں کسی لاکھ کی انکی اپنی جاگیر تھی اور انگریزی عملداری میں بھی بہت سی  
 زمین تھی۔ اور طاقت علمی اس وجہ تک تھی کہ ریاست کے تمام مولویوں کا انکو سردار قرار دیا تھا۔ وہ سب  
 زیادہ عالم علم قرآن اور حدیث اور فقہ میں سمجھے جاتے تھے اور نئے امیر کی دستار بندی کی رسم بھی انہیں کے  
 ہاتھ سے ہوتی تھی۔ اور اگر امیر فوت ہو جائے تو اسکے جنازہ پڑھنے کیلئے بھی وہی مقرر تھے۔ یہ وہ باتیں ہیں  
 جو ہمیں معتبر ذریعہ سے پہنچی ہیں۔ اور انکی خاص زبان سے میں نے سنا تھا کہ ریاست کابل میں بچپاس ہزار کے  
 قریب انکے معتقد اور ادا کنندہ ہیں جن میں سے بعض ارکان ریاست بھی تھے۔ غرض یہ بزرگ ملک کابل میں  
 ایک فرد تھا۔ اور کیا علم کے لحاظ سے اور کیا تقویٰ کے لحاظ سے اور کیا جاہ اور ترب کے لحاظ سے اور کیا  
 خاندانی کے لحاظ سے اس ملک میں اپنی نظیر نہیں لکھتا تھا۔ اور علاوہ مولوی کے خطاب کے صاحبزادہ اور  
 انوانی اور شاہزادہ کے لقب سے اس ملک میں مشہور تھے۔ اور شہید مرحوم ایک بڑا کتب خانہ حدیث اور

کے لئے ضروری ہے پورے طور پر میسر آگیا۔ ہاں دو مرض میرے لاسحق حال ہیں۔ ایک بدن کے اوپر کے حصہ میں۔ اور دوسری بدن کے نیچے کے حصہ میں۔ اوپر کے حصہ میں دورانِ سر ہے اور نیچے کے حصہ میں کثرتِ پیشاب ہے اور دونوں مرضیں اسی زمانہ سے ہیں جس زمانہ سے میں نے اپنا دعویٰ مامورینِ اشد ہونے کا شائع کیا ہے۔ میں نے ان کے لئے دعائیں بھی کیں مگر منع میں جواب پایا اور میرے دل میں القاء کیا گیا کہ ابتداء سے مسیح موعود کیلئے یہ نشان مقرر ہے کہ وہ دوزر دچادروں کے ساتھ دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اترے گا۔ سو یہ وہی دوزر دچادریں ہیں جو سیری جسمانی حالت کے ساتھ شامل کی گئیں۔ انبیاء علیہم السلام کے اتفاق سے زرد چادر کی تعبیر بیماری ہے اور دوزر دچادریں دو بیماریاں ہیں جو دو حصہ بدن پر مشتمل ہیں اور میرے پر بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے یہی کھولا گیا ہے کہ دوزر دچادروں کو مراد دو بیماریاں ہیں اور ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ کافر بودہ پورا ہوتا۔

یاد رہے کہ مسیح موعود کی خاص علامتوں میں سے یہ لکھا ہے کہ (۱) وہ دوزر دچادروں کے ساتھ اترے گا (۲) اور نیز یہ کہ دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اترے گا (۳) اور نیز یہ کہ کافر کے دم سے مرے گا (۴) اور نیز یہ کہ وہ ایسی حالت میں دکھائی دے گا کہ گویا غسل کر کے حمام میں سے نکلا ہے اور پانی کے قطرے اس کے سر سے موتیوں کے دانوں کی طرح ٹپکتے نظر آئیں گے (۵) اور نیز یہ کہ وہ دجال کے مقابل پر خانہ کعبہ کا طواف کرے گا (۶) اور نیز یہ کہ وہ صلیب کو توڑے گا (۷) اور نیز یہ کہ وہ خنزیر کو قتل کرے گا (۸) اور نیز یہ کہ وہ بیوی کرے گا اور اسکی اولاد ہوگی (۹) اور نیز یہ کہ وہی ہے جو دجال کا قاتل ہوگا (۱۰) اور نیز یہ کہ مسیح موعود قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ فوت ہوگا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں داخل کیا جائے گا۔ و تلامک عشقہ کاملہ۔ پس دوزر دچادروں کی نسبت ہم بیان کر چکے ہیں کہ وہ دو بیماریاں ہیں جو بطور

دشمن ہو گئے مگر ہر ایک خدا کا فرستادہ جو بھیجا جاتا ہے ضرور ایک ابتلا ساکتھ لاتا ہے۔ حضرت یسے جب آئے تو بد قسمت یہودیوں کو یہ ابتلا پیش آیا کہ ایلیا دوبارہ آسمان سے نازل نہیں ہوا۔ اور ضرور تھا کہ پہلے ایلیا آسمان سے نازل ہوتا تب مسیح آتا۔ جیسا کہ ملاکی نبی کی کتاب میں لکھا ہے۔ اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اہل کتاب کو یہ ابتلا پیش آیا کہ یہ نبی بنی اسرائیل میں نہیں آیا۔ اب کیا ضرور نہ تھا کہ مسیح موعود کے ظہور کے وقت بھی کوئی ابتلا ہو۔ لہذا اگر مسیح موعود تمام باتیں اسلام کے بہتر فرقہ کی مان لیتا تو پھر کتنی معنوں سے اس کا نام حکم رکھا جاتا۔ کیا وہ باتوں کو ماننے آیا تھا یا منوانے آیا تھا؟ تو اس صورت میں اسکا آنا بھی بے بود تھا۔ سوائے قوم! تم ضد نہ کرو۔ ہزاروں باتیں ہوتی ہیں جو قبل از وقت سمجھ نہیں آتیں۔ ایلیا کے دوبارہ آنے کی اصل حقیقت حضرت مسیح سے پہلے کوئی نبی سمجھا نہ سکا تاہو حضرت مسیح کے ماننے کے لئے تیار ہو جاتے۔ جیسا ہی اسرائیلی خاندان میں سے خاتم الانبیاء آنے کا خیال جو یہود کے دل میں مرکوز تھا اس خیال کو بھی کوئی نبی پہلے نبیوں میں سے صفائی کے ساتھ دور نہ کر سکا۔ اسی طرح مسیح موعود کا مسئلہ بھی مخفی چلا آیا تا منت اللہ کے موافق اس میں بھی ابتلا ہو۔ بہتر تھا کہ میرے مخالف اگر ان کو ماننے کی توفیق نہیں دی گئی تھی تو بارے کچھ مدت زبان بند رکھ کر اور کھن لسان اختیار کر کے میرے انجام کو دیکھتے اب جس قدر عوام نے بھی گالیاں دیں یہ سب گناہ مولویوں کی گردن پر ہے! نسویں یہ لوگ فراست سے بھی کام نہیں لیتے۔ میں ایک دائم المرض آدمی ہوں اور وہ دند چادریں جن کے بارے میں حدیثوں میں ذکر ہے کہ ان دو چادروں میں مسیح نازل ہوگا وہ دند چادریں میرے مثال حال ہیں جن کی تعبیر علم تعبیر الریاء کے دند دو بیماریاں ہیں۔ سوا ایک چادر میرے اوپر کے حصہ میں ہے کہ ہمیشہ سرزد اور

اربعین نمبر ۲

۲۷۱

دوران سر اور کئی خواب اور تشنج دل کی بیماری دورہ کے ساتھ آتی ہے۔ اور دوسری چلوار جو میرے نیچے کے حصہ بدن میں ہے وہ بیماری ذیابیطس ہے کہ ایک مدت سے دامگیر ہے اور بسا اوقات تو تو دفعہ رات کو یا دن کو پیشاب آتا ہے اور اس قدر کثرت پیشاب سے جس قدر عوارض منعفت وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب میرے مثال حال رہتے ہیں۔ بسا اوقات میرا یہ حال ہوتا ہے کہ نماز کے لئے جب زینہ چڑھ کر اُپر جاتا ہوں تو مجھے اپنے ظاہر حالت پر امید نہیں ہوتی کہ زینہ کی ایک سیرٹھی سے دوسری سیرٹھی پر پاؤں رکھتے تک میں زندہ رہوں گا۔ اب میں شخص کی زندگی کا یہ حال ہے کہ ہر روز موت کا سامنا اس کے لئے موجود ہوتا ہے اور ایسے مریضوں کے انجام کی نظریں بھی موجود ہیں تو وہ ایسی خطرناک حالت کے ساتھ کیونکر اُتر اُپر جرات کر سکتا ہے اور وہ کس صحبت کے بھروسے پر کہتا ہے کہ میری اتنی بڑی عمر ہوگی۔ حالانکہ ڈاکٹری تجارب تو اس گو موت کے پنجہ میں ہر وقت پھنسا ہوا خیال کرتے ہیں۔ ایسی مریضوں والے مدقوق کی طرح گداز ہو کر جلد مر جاتے ہیں یا کاربیکل یعنی سرطان سے اُن کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر جس درد سے میں ایسی حالت پر خطر میں تبلیغ میں مشغول ہوں کیا کسی مفتری کا کام ہے۔ جب میں بدن کے اُپر کے حصہ میں ایک بیماری۔ اور بدن کے نیچے کے حصہ میں ایک دوسری بیماری دکھاتا ہوں تو میرا دل محسوس کرتا ہے کہ یہ وہی دو چادریں ہیں جن کی خبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔

میں محض نصیحتاً اللہ مخالف علماء اور ان کے ہمنیال لوگوں کو کہتا ہوں کہ گالیاں دینا اور بد زبانی کرنا طریق شرافت نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کی یہی طینت ہے تو خیر آپ کی مرضی۔ لیکن اگر مجھے آپ لوگ کاذب سمجھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی تو اختیار ہے کہ مساجد میں اکٹھے ہو کر یا الگ الگ میرے پر بد دعائیں کریں



اسلاماً علیکم۔ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ نہ مکالمہ میں فیصلت نہیں۔ بلکہ اعمالِ صالحہ میں فیصلت ہے۔ اور اس میں کہ خدا تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ سونیک کاوں میں گردش چاہیے تاکہ موجب نجات ہو۔ والسلام۔  
مرزا غلام احمد

مسیح موعود کے لیے نمازیں جمع کی جائیں گی چونکہ کچھ مدت سے حضرت کی طبیعت دن کے دوسرے حصہ میں اکثر خراب ہوتی ہے۔ اس لیے نماز مغرب اور عشاء گھر میں باجماعت پڑھ لیتے ہیں۔ باہر تشریف نہیں لاسکتے۔ ایک دن نماز مغرب کے بعد چند عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا جو سننے کے قابل ہے (ایڈیٹر ترمذی) فرمایا

کوئی یہ نہ دل میں گمان کر لے کہ یہ روزِ عمر میں جمع کر کے نماز پڑھا دیتے ہیں اور باہر نہیں جاتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کی کہ آئندہ شخص نماز جمع کی کرے گا۔ سوچھ بیٹے تک تو باہر جمع کروانا باہر آنا اب میں نے کہا کہ عورتوں میں بھی اس پیشگوئی کو پورا کر دینا چاہیے۔ چونکہ بغیر ضرورت کے نماز جمع کرنا ناجائز ہے اس لیے خدا تعالیٰ نے مجھ کو بیمار کر دیا اور اس فخر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کو پورا کر دیا۔ ہر ایک مسلمان کا فرض ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو پورا کرے۔ کیونکہ وہ پورا نہ ہو تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہونے سے شہرت ہے۔ اس لیے ہر ایک کو وہ بات جو اس کے اختیار میں ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے موافق پوری کر دینی چاہیے اور خدا تعالیٰ خود بھی سامانِ امتیاز دیتا ہے جیسا کہ مجھ کو بیمار کر دیا تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو پورا کر دے۔ جیسا کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ تیرا اس وقت کیا حال ہو گا جبکہ تیرے ہاتھ میں کسری کے سولے کے کرے پھانٹے جائیں گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب کسری کا ملک فتح ہوا۔ تو حضرت عمر نے اس کو سولے کے کرے جوڑا میں آئے تھے، پھانٹے۔ حالانکہ سولے کے کرے یا کوئی اور چیز سولے کی مردوں کے لیے ایسی ہی حرام ہے جیسا کہ اور حرام چیزیں۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ بات نکل گئی اس لیے پوری کی گئی۔ اسی طرح ہر ایک دوسرے انسان کو بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو پورا کرنے کی گردش کرنی چاہیے۔

فرمایا کہ ا  
دو زور چادرول سے مراد  
دیکھو میری بیماری کی نسبت ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

پیشگوئی کی تھی جیسا کہ طرح وقوع میں آئی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مسیح آسمان پر سے اترے گا تو دو زرد چادریں اس نے پہنی ہوئی ہوں گی تو اسی طرح مجھ کو دو بیماریاں ہیں ایک اُدپر کے دھڑکی اور ایک نیچے کے دھڑکی۔ یہ سنی مراقب اور کثرت بول۔ ہمارے مخالف مولوی اس کے معنی یہ کرتے ہیں کہ وہ پرچہ جو گویوں کی طرح دو چادریں اُدھے ہوئے آسمان نیچے اتریں گے۔ لیکن یہ غلط ہے۔ چونکہ معجزوں نے ہمیشہ زرد چادریں کے معنی بیماری کے ہی رکھے ہیں۔ ہر ایک شخص جو اُدپر چادر دیکھے یا کوئی اور زندہ چیز تو اس کے معنی بیماری کے ہی ہوں گے اور ہر ایک شخص جو ایسا دیکھے آزما سکتا ہے کہ اس کے معنی یہی ہیں۔

صلح پسندی کے ساتھ دو صورتوں کے جھگڑے پر فرمایا کہ :

قرآن شریف میں آیا ہے وَالصَّنْعُ خَيْرٌ (النساء: ۱۰۹)  
 اس لیے اگر آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو صلح کریں  
 چاہیے کیونکہ اس میں خیر اور برکت ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ غیر مذاہب کے ساتھ بھی یہ بات رکھی  
 جائے بلکہ ان کے ساتھ سخت مذہبی عداوت رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ مذہب کی غیرت نہ ہو انسان کا مذہب  
 ٹھیک نہیں ہوتا۔ اب یہ جو ہندو عیسائی ہمارے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالتے ہیں تو کیا ہم  
 ان کے ساتھ صلح رکھ سکتے ہیں بلکہ ان کی ٹھنوں میں بیٹھنا اور ان کے ساتھ دوستی کرنا اور ان کے گھروں  
 میں جانا تو عصیت میں داخل ہے

ان آپس میں جو ایک طرفہ میں ہوں تو لڑائی جھگڑا کی  
 زیادہ تر بنیاد بدظنی ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ دوزخ  
 میں دو تہائی آدمی بدظنی کی وجہ سے داخل ہوں گے۔ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ قیامت کے  
 دن میں لوگوں سے پڑھوں گا کہ اگر تم مجھ پر بدظنی نہ کرتے تو یہ کیوں ہوتا۔ حقیقت میں اگر لوگ خدا تعالیٰ پر  
 بدظنی نہ کرتے تو یہ کیوں ہوتا۔ حقیقت میں اگر لوگ خدا تعالیٰ پر بدظنی نہ کرتے تو اس کے احکام پر کیوں نہ پلتے۔  
 انہوں نے خدا تعالیٰ پر بدظنی کی اور کفر اختیار کیا۔ اور بعض تو خدا کے وجود تک کے منکر ہو گئے۔ تمام فساد  
 اور لڑائیوں کی وجہ یہی بدظنی ہے۔

زلزلہ کی نسبت باتوں میں فرمایا کہ :  
 قرآن شریف میں زلزلہ آنے کی خبر دی گئی ہے کہ  
 پیشگوئیوں کے مطابق زلزلوں کا وقوع  
 مسیح کے وقت ایسے زلزلے آئیں گے کہ شدت میں نہایت ہی سخت ہوں گے۔ ہنگ ان مولیوں نے

تعلق کامل رکھتا ہے..... پس جاننا چاہیے کہ اس جگہ ایک ہی دل میں ایک حالت اور نیت کے ساتھ دو قسم کا رجوع پایا گیا ایک خدائے تعالیٰ کی طرف جو وجود قدیم ہے اور ایک اُس کے بندوں کی طرف جو وجود مُحدث ہے اور دونوں قسم کا وجود یعنی قدیم اور حادث ایک دائرہ کی طرح ہے جس کی طرف اعلیٰ بوجب اور طرف اسفل امکان ہے۔ اب اُس دائرہ کے درمیان میں انسان کامل بوجہ ذنوب اور تعلق کے دونوں طرف سے اتصال قائم کر کے یوں مثل فیض پر صورت پیدا کر لیتا ہے جیسے ایک وتر دائرہ کے دو قوسوں میں ہوتا ہے یعنی حتیٰ اور خلق میں واسطہ ٹھہر جاتا ہے پہلے اس کو ذنوب اور قریب انہی کی خلعت خاص عطا کی جاتی ہے اور قریب کے اعلیٰ مقام تک صعود کرتا ہے اور پھر خلعت کی طرف اُس کو لایا جاتا ہے۔ پس اس کا وہ صعود اور نزول دو قوس کی صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے اور نفس ہائے متعلقین انسان کامل اُن دونوں قوسوں میں قریب قوس میں کی طرح ہوتا ہے اور قریب قوس کے محاورہ میں کان کے چلنے پر اخلاق پاتا ہے۔

پس آیت کے بطور تحت اللفظ یہ معنی ہوئے کہ نزدیک ہو یعنی خدا سے پھر اُتر یعنی خلعت پر۔ پس اپنے اس صعود اور نزول کی وجہ سے دو قوسوں کے لئے ایک ہی وتر ہو گیا۔

اور چونکہ اُس کا رُوح مخلوق ہونا چاہئے صافیہ تخلق باخلاق اللہ سے ہے اس لئے اُس کی توجہ بملوق توجہ بخالق کے عین ہے یا یوں سمجھو کہ چونکہ ناک حقیقی پس غایت شفقت علی العباد کی وجہ سے اس قدر بندوں کی طرف رجوع رکھتا ہے کہ گویا وہ بندوں کے پاس ہی خیمہ زین ہے پس جبکہ مالک میرالی اللہ کرتا کرتا اپنی کمال سیر کو پہنچ گیا تو جہاں خدا تھا وہیں اُس کو ٹھکانا پڑا۔ پس اس وجہ سے کمال ذنوب یعنی قریب نام اُس کی تعلق یعنی بیسوط کا موجب ہو گیا۔

دراہین احمدیہ حصہ چہارم صفحہ ۲۹۲ تا ۲۹۴ ماشیہ درعاشیہ ۲

روحانی خزائن بندہ صفحہ ۵۸۶ تا ۵۹۰ ماشیہ درعاشیہ نمبر ۲

۱۸۸۳ء

يُحْيِي الْيَتِيمَ وَيُقِيمُ الشَّرِيعَةَ

زندہ کرے یتیم کو اور قائم کرے شریعت کو

يَا اَدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. يَا مَرْيَمُ اسْكُنِي اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. يَا اَحْمَدُ

اسْكُنِي اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. نَفَخْتُ فِيكَ مِنْ لَدُنِّي رُوْحًا اِنصَدِقْ.

اے آدم۔ اے مریم۔ اے احمد تو اور جو شخص تیرا تابع اور رفیق ہے جنت میں یعنی نجات حقیقی کے وسائل میں داخل

ہو جاؤ۔ میں نے اپنی طرف سے سچائی کی رُوح تجھ میں پھونک دی ہے۔

اے حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان انامات کی تشریح فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ "میرے مریم اُمّی سے مراد نہیں اور نہ آدم سے

آدم بلکہ بشر مراد ہے اور نہ احمد سے بلکہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں اور اب ہی ان انامات کے تمام مقامات

یہ حوالہ صفحہ 98 پر درج ہے

تذکرہ مجموعہ وحی والہامات صفحہ 55، 56 طبع چہارم از مرزا قادیانی

اس آیت میں بھی روحانی آدم کا وہ تسمیہ بیان کیا گیا یعنی جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بلا توسط اسباب ہے ایسا ہی روحانی آدم میں بلا توسط اسباب ظاہر ہے نفع نوح ہوتا ہے۔

اور یہ نفع روح حقیقی طور پر انبیاء علیہم السلام سے خاص ہے اور پھر بطور تعمیم اور وراثت کے بعض افراد خاصہ اُمت محمدیہ کو یہ نعمت عطا کی جاتی ہے۔

برایں اجمیر صفحہ چہارم صفحہ ۲۹۹، ۲۹۷، ۲۹۸ حاشیہ در حاشیہ ص ۲۔ روحانی خزائن جلد ۱۹ صفحہ ۱۵۹، ۱۵۹

۱۸۸۳ء (الف) فَاجْتَاها الْمَخاضُ اِنِ جَذَعُ النَّخْلَةَ۔ قَالَتْ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ مَنِّتَ قَبْلَ هَذَا

وَكَانَتْ نَسِيًا قَنَسِيًا۔ (کشتی نوح صفحہ ۲۷۔ روحانی خزائن جلد ۱۹ صفحہ ۱۵۱)

(ب) "میری دعوت کی مشکلات میں سے ایک رسالت اور وہی اٹھی اور سچ موجود ہوئے گا دعویٰ تھا۔ اسی کی نسبت میری گھبراہٹ ظاہر کرنے کے لئے یہ الہام ہوا تھا۔

بقیہ حاشیہ ص ۱۸۸۳

میں کہ جو کوئی اور عیسیٰ اور داؤد وغیرہ نام بیان کئے گئے ہیں ان تینوں سے بھی وہ انبیاء مراد نہیں ہے بلکہ ہر ایک جگہ یہی عاجز مراد ہے اب جبکہ اس جگہ مریم کے لفظ سے کوئی ثبوت مراد نہیں ہے بلکہ ذکر فرم ہے تو قانع یعنی ہے کہ اس کے لئے سینہ نہ کھلیا جائے۔ یعنی یا متزینہ! اسٹن کہا جائے۔ اور نوح کے لفظ سے رنقاء اور قراد مراد ہیں نوح مراد نہیں ہے اور نعت میں یہ لفظ دونوں طور پر اطلاق پاتا ہے اور نعت کا لفظ اس عاجز کے انعامات میں بھی اسی حجت پر بولا جاتا ہے کہ جو آخرت سے تعلق رکھتا ہے اور کسی دنیا کی خوشی اور فحیانی اور سرور اور آرام پر بولا جاتا ہے۔

مکتوبات صحیحہ جلد اول صفحہ ۱۸۲، ۱۸۳ مکتوب مورخہ ۱۴ فروری ۱۹۷۲ء بمقام میر عباس علی شاہ صاحب

۱۹۷۲ء کی تصنیف ہے حضرت اقدس تحریر فرماتے ہیں: "اس جگہ ایک اور الہام کا بھی ذکر کرتا ہوں اور مجھے یاد نہیں کرتیں نہ وہ الہام اپنے کسی رسالہ یا اشتہار میں شائع کیا ہے یا نہیں لیکن یہ بار ہے کہ وہ بالکل انہی نے سنایا تھا اور میری وراثت کے انعامات میں موجود ہے اور وہ اس نمانہ کا ہے جبکہ خدا نے مجھے پہلے مریم کا خطاب دیا اور پھر نوح کے لفظ کا الہام کیا پھر بعد اس کے یہ الہام ہوا تھا فَاجْتَاها الْمَخاضُ اِنِ جَذَعُ النَّخْلَةَ۔ قَالَتْ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ مَنِّتَ قَبْلَ هَذَا وَكَانَتْ نَسِيًا قَنَسِيًا یعنی مریم کو جبراً اس عاجز سے ہے و بیوزہ تنہا گور کی طرف لے آئی یعنی عوسم اقصیٰ اور باطن اور بے بک عطاء سے واسطہ پڑا جس کے پاس ایمان کا پھل نہ تھا۔ جنہوں نے تکفیر و توبہ کی اور گایاں دیں اور ایک طوفان برپا کیا۔ تب مریم نے کہا کہ کاش میں اس سے پہلے مرعانی اور میرا نام و نشان باقی نہ رہتا۔ یہ اس شور کی طرف اشارہ ہے جو ابتداء میں مولویوں کی طرف سے برپا ہوا جو کبھی پڑا اور وہ ان دعوے کو برداشت نہ کر سکے اور مجھے ہر ایک جگہ سے انہوں نے ناک اپاہا قباس وقت جو کرب اور تعلق نا بھوں کا شور و غوغا دیکھ کر میرے دل پر گزرا اس کا اس جگہ خدا تعالیٰ نے نقشہ کھینچ دیا ہے۔"

(کشتی نوح صفحہ ۲۷، ۲۸۔ روحانی خزائن جلد ۱۹ صفحہ ۱۵۱)

حساؤل

۱۷۰

ازالہ اوہام

دعوئی کیا ہے کہ اس سے بڑھ کر اور معنی نہیں ہو سکتے بلکہ وہ تو مسنونہ تھا۔  
کو سوال بخدا کرتے رہے ہیں۔

مگر یہ بھی ہم بخوں ظاہر کر چکے ہیں کہ اس پر فکونی کو صرف غلبہ ہی انفاق تک محدود  
رکنے میں بڑی بڑی مشکلات ہیں قبل اس کے بوجہ آسمان سے اترے صدرا اعتراض پہلے  
ہاں سے اتر رہے ہیں ان مشکلات میں بڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے اور وہیں اس بات کی  
کیا حاجت؟ کہ ابن مریم کو آسمان سے اتارا جائے اور ان کا بوجھ ٹھک ہونا بخیر کیا جائے  
اور ان کی اس تسبیح پر حقیر کی ہلنے لگے کسی شخص یا امت کہے اور وہ پیچھے مقتدی نہیں اور  
اور وہ کسی شخص ان کے زور و لوگوں سے بعت امامت و خلافت لے اور وہ ہمدرد حسرت  
دیکھتے رہیں اور خدا مسلمین ہی کہ اپنی نبوت کا دم نہ مار سکیں اور ہم اس قریب بالشک بلکہ  
سراسر شرک سے بھرے ہوئے گلے کو کیوں متنہ سے بولیں کہ وہ حال کا چشم خدا نے تعالیٰ  
کی طرح اپنے امتداد سے مردوں کو زندہ کرے گا اور صریح صریح خدائی کی علامتیں دکھلاوگا  
اور کوئی بات سے یہ نہیں کہیں گے کہ اسے یک چشم خدا پہلے تو اپنی آنکھ درست کر لیا اور تو عیب جو  
اسلام نے ہمیں سکھائی ہے وہی قدر میں کسی مخلوق میں رفا رکھتی ہے کیا اسلام نے ان ایات  
باتوں کو اپنے پیغمبروں کے پیچھے کھیل نہیں دیا؟ عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک  
خود قبائل بھی گویا ایک حصہ خدائی کا رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس خرا کا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ ہی  
ہے۔ پھر جب کہ وہ قبائل محیی و محیت اور خالق ہی ہے تو اس کے خدا ہونے میں کس کیا گئی؟  
اور اس گدھے کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ وہ مشرق و مغرب میں ایک روز میں سیر کر سکے گا مگر  
ہمارے نزدیک ممکن ہے کہ وہ قبائل سے مراد یا قبائل تو ہیں ہوں اور گدھان کا یہی ریل ہو  
جو مشرق اور مغرب کے ملکوں میں ہزار ہا کوسوں تک چلتے دیکھتے ہو پھر کس کے بارہ میں  
یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا طبی اور فلسفی لوگ اس خیال پر نہیں منسین گئے کہ جبکہ تیس یا چالیس  
فٹ تک زمین سے اوپر کی طرف جانا موت کا موجب ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جسم منسری کے ساتھ

۲۲۰

من عندہ یعضمک اللہ من عندہ وإن لم یعضمک الناس۔ واذ یمکربک الذی کفر۔ او قد ان یناھامان۔ لعنی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ من الکاذبین تبیت ید ابی لہب وتب ما کان لہ ان یدخل فیہا الاخانفا۔ وما اصابک من اللہ الفتنۃ لہنا فاصبر کما صبر اولوالعزم۔ الا انہا فتنۃ من اللہ لیحب حباً جماً حباً من اللہ العزیز الاکرم۔ عطلاً غیر عجز ووذ۔ شاتان تذبحان۔ وکل من علیہا فان۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا۔ انہ تعلم ان اللہ علی کل شیء قذیر۔ اذ افتحنک فتحا ثم یبئنا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ الیسواللہ بکافی عبداً۔ فبیراہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہاً۔

ترجمہ یعنی خدا تجھے بچائے گا، اگرچہ لوگ نہ بچائیں۔ میں پھر کہتا ہوں کہ خدا تجھے بچائے گا۔ اگرچہ لوگ نہ بچائیں وہ نہایت یاد کر کہ جب ایک شخص تجھ سے مکر کرے گا۔ اور اپنے رفیق یا مان کو کہے گا کہ فتنہ انگیزی کی آگ بھڑک۔ اس جگہ فرعون سے مراد شیخ محمد حسین بظالوی ہے اور یامان سے مراد نو مسلم سعد اللہ ہے اور پھر فرمایا کہ وہ کہے گا کہ میں اس کے خدا کی حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہوں اور میں اس کو بھولنا سمجھتا ہوں یعنی با خدا ہونے کا دعویٰ سراسر کذب ہے کوئی تعلق خدا تعالیٰ سے نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ فرعون ہلاک ہو گیا۔ اور دونوں ہاتھ اُس کے ہلاک ہو گئے یعنی یہ شخص دلیس کیا جائیگا اور ساتھ جو کسب معاش کا ذریعہ ہیں سب کچھ ہوجائیں گے

حاشیہ۔ محمد حسین بظالوی کی ذلت کا یہ بھی موجب ہے کہ اس نے ایک شیطانی پیشگوئی کی تھی کہ میں اس شخص کو یعنی اس عاجز کو ذلیل کر دوں گا۔ اور لوگوں کو رجوع سے بند کر دوں گا۔ مگر اُس کے برعکس ظہور میں آیا۔ اُس کی پیشگوئی کے وقت شاید سر کے قریب ہی ہماری جماعت نہیں تھی۔ اب خدا تعالیٰ کے فضل سے آٹھ ہزار کے قریب میں۔ ابھی قریب ۶۰۰ میں الہ آباد میں ایک بھاری جماعت پیدا ہو گئی ہے۔ جن کو ہاں سے دلی دوست میرزا غلام بخش صاحب کے قیام الہ آباد سے بہت مدد ملی ہے۔ میرزا صاحب موصوف نے اس قدر اس مسئلہ کو اُس وقت چھینا بہت کہ گویا قیام مخالفین کی ناک کاٹ کر آئے ہیں۔ اس خوشی کے وقت میں اُن کی وہ سوز و گداز کی مدد بھی قابل قدر ہے جو انہوں نے صفحہ ایک دفعہ اور صفحہ رویہ اب قادیان میں آکر اس سلسلہ کی تائید کے لئے دیے ہیں۔ جزا ہم مستغیر الجوار۔ منہ ہ

۵۶

۱۸ اکتوبر ۱۸۹۹ء "بالفعل خدا تعالیٰ نے میرے دل میں یہی ڈالا ہے کہ بیعت کرنے والے دو قسم میں رکھے جائیں گے، ایک جو اعلیٰ اور عارف تر زندگی کے خواہشمند اور خدا تعالیٰ کے منشاد کی اطاعت کے لئے حاضر ہیں اور ایک وہ جو کسی قدر کمزور ہیں۔" (اقتباس مکتوب نمبر ۴۴ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مورخہ ۱۸ اکتوبر ۱۸۹۹ء مندرجہ تشیخ الاذہان جلد ۶، نمبر ۶، جون ۱۹۱۲ء صفحہ ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲)

۱۸۹۹ء "حضرت اقدس کو روایا ہوئی کہ عابد علی اگر کتا ہے کہ باہر ایک ہندو کھڑا ہے اور دعا کے لئے درخواست کرتا ہے حضور اقدس اسے کہتے ہیں کہ بے نذر لئے ہم دعا کرنے کے نہیں۔ پھر عابد علی دوبارہ واپس آتا ہے تو ایک چھوٹا بچہ اور دو چادریں ہیں ان میں روپیہ بھر کر لاتا ہے۔ لرایا ہندو سے مراد ایسا شخص ہوا کرتا ہے جو دنیا کے غم ہم میں مبتلا ہو اور چاہے کہ کسی طرح دنیاوی، بتلاؤں سے نجات ہو۔" (مکتوب مولوی عبدالکریم صاحب مندرجہ تشیخ الاذہان جلد ۶، نمبر ۶، جون ۱۹۱۲ء صفحہ ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲)

۵ جنوری ۱۹۰۰ء الف ۱۰ جنوری ۱۹۰۰ء کو صبح کی نماز کے وقت حضرت اقدس نے فرمایا کہ پرسوں کی نماز میں جب میں التحیات کے لئے بیٹھا تو بجائے التحیات کے یہ دعا پڑھنے لگ گیا صَلِّ اللهُ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْكَ وَبِرَّةٍ دُعَاءُ آعَدَ آدِرَكَ عَلَيْهِمْ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ میں نے خیال کیا کہ یہ کیا پڑھ رہا ہوں تو معلوم ہوا کہ اللہ نام ہے۔ (روایت منشی محمد زید صاحب واصل باقی نویں۔ رجسٹر روایات صحابہ جلد ۱۱ صفحہ ۱۰۳ د رجسٹر روایات صحابہ جلد ۱۲ صفحہ ۱۰۳)

(ب) صاحبزادہ پیر سراج الحق صاحب جانی نعمانی نے بیان کیا کہ :-

"ایک روز مغرب کی نماز پڑھیں گئی اور میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس کھڑا تھا جب نماز کا سلام پیرا گیا تو آپ نے بایاں ہاتھ میری دائیں ران پر رکھ کر فرمایا کہ صاحبزادہ صاحب! اس وقت میں التحیات پڑھا تھا لہذا میری زبان پر جاری ہوا کہ :-

صَلِّ اللهُ عَلَيْكَ وَعَلَى مُحَمَّدٍ

(الحکم جلد ۲۶ نمبر ۱۹ مورخہ ۲۷ مئی ۱۹۲۳ء صفحہ ۵)

۱۰ نوٹ از مرتب، یہ مکتوب حضرت مولانا نے افریقہ کے ایک شخص کو لکھا۔ اور اس میں یہ بھی لکھا کہ "آپ کا وعدہ ۱۰ سال روپیہ آنے سے ایک ہفتہ قبل حضور اقدس کو روایا ہوئی..... پھر جب نام تمام شریعت چند پر مشتمل خط آیا تو، وہی تصدیق واضح ہو گئی۔" (مکتوب مذکور)

۱۱ (ترجمہ از مرتب) اللہ تعالیٰ محمد پر صلوٰۃ بھیجے اور تجھ پر بھی اور تیرے دشمنوں کی بددعاؤں پر کوٹا دی جائے گی۔

۵۰۳

۱۳ جنوری ۱۹۰۶ء (۱) لَا يُقْبَلُ عَمَلٌ مَثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ غَيْرِ التَّقْوَى (۲) زَلْزَلَةٌ  
التَّاعَةِ وَنَهْدٌ مَا يَحْمُرُونَ (۳) عَفَّتِ الدِّيَارُ كَيْدَ كَرِيهِ (۴) قُلْ مَا يَعْتَبُوا بِكُمْ فِي  
تَوَلَّاهُمْ فَأُولَئِكَ - (کاپی الہامات حضرت مسیح موعود علیہ السلام صفحہ ۵۴)

۱۳ جنوری ۱۹۰۶ء (۱) "كَلَّمَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي (۲) سَلَامٌ قَوْلًا قَسِين  
رَبِّتِ رَحِيمٌ (۳) ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں۔ (کاپی الہامات حضرت مسیح موعود علیہ السلام صفحہ ۵۵)  
(ترجمہ) خدا نے ابتداء سے مقدر کر چھوڑا ہے کہ وہ اور اس کے رسول غالب رہیں گے (۲) خدا نے رحیم  
کتا ہے کہ سلامتی ہے یعنی خائب و خاسر کی طرح تیری موت نہیں ہے۔ اور یہ کلمہ کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ  
میں اس کے یہی معنی ہیں کہ قبل از موت مکی فتح نصیب ہوگی۔ جیسا کہ وہاں دشمنوں کو قمر کے ساتھ مغلوب کیا گیا  
تھا اسی طرح یہاں بھی دشمن قمری نشانوں سے مغلوب کئے جائیں گے۔ دوسرے یہ معنی ہیں کہ قبل از موت مدنی فتح  
نصیب ہوگی۔ خود بخود لوگوں کے دل ہماری طرف مائل ہو جائیں گے۔ فقرہ کَلَّمَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي  
مکی طرف مثلاً کہ تمہارے داد فقرو مثلاً قَوْلًا قَسِين رَبِّتِ رَحِيمٌ مدینہ کی طرف۔"  
(بدجلد ۲ نمبر ۲ مورخہ ۱۹ جنوری ۱۹۰۶ء صفحہ ۲۔ الحکم جلد ۱۰ نمبر ۲ مورخہ ۱۹ جنوری ۱۹۰۶ء صفحہ ۳)

۱۵ جنوری ۱۹۰۶ء "تزلزل در ایوان کسری فتاد"  
(بدجلد ۲ نمبر ۲ مورخہ ۱۹ جنوری ۱۹۰۶ء صفحہ ۲۔ الحکم جلد ۱۰ نمبر ۲ مورخہ ۲۳ جنوری ۱۹۰۶ء صفحہ ۱)

۱۵ (ترجمہ از مرتب) (۱) کوئی عمل تقویٰ کے بغیر ذرہ بھر قبول نہیں کیا جائے گا (۲) قیامت والا زلزلہ۔ اور جو لوگ اس وقت  
جائیں گے ہم ان کو گراتے جائیں گے (۳) گھر مٹ جائیں گے جیسا کہ میں بنا چکا ہوں (۴) کہ دے کہ میرے رب کو تمہاری  
پر وہی کیا ہے۔ اگر تم دعائیں کرو گے۔

۱۵ (ترجمہ از مرتب) شاہ ایران کے محل میں تزلزل پڑ گیا۔

(نوٹ از مرتب) چنانچہ اس امام کے بعد بالکل خلافت توفیق ایران میں جلد ہی شور و بغاوت برپا ہوئی اور مرزا محمد علی شاہ  
ایران نے مجبوراً بتاريخ ۱۵ جولائی ۱۹۰۹ء روس کے سفارت خانہ میں پناہ لی۔ آخر وہ تخت سے معزول کیا گیا اور پارلیمنٹ  
بنائی گئی۔ منقول دیکھئے "دعوت الامیر" تصنیف حضرت سیدنا امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح الثانی ایڈہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز  
ایڈیشن نمبر ۹ صفحہ ۲۰۴، ۲۰۵۔ فارسی ایڈیشن صفحہ ۲۲۹ تا ۲۲۹ میں دوسری پیش گوئی۔

یہ حوالہ صفحہ 100 پر درج ہے

تذکرہ مجموعہ وحی والہامات صفحہ 503 طبع چہارم از مرزا قادیانی



نہایت نجیب اور شریف اور عالی نسب ..... بزرگوار خاندان سادات سے یہ تعلق قرابت اس عجز کو پیدا ہوا اور اس نکاح کے ترم مزوری مصارت تیاری مکان وغیرہ تک ایسی آسانی سے خدا تعالیٰ نے بہم پہنچائے کہ ایک ذرہ بھی فکر کرنا نہ پڑا اور اب تک اسی اپنے وعدہ کو پورے کئے چلا جاتا ہے۔ (شخصی صفحہ ۲۳، ۲۴۔ روحانی خزائن جلد ۱ صفحہ ۲۸۳-۲۸۶)

**۱۸۸۱ء (قریباً)** "میں پیشگوئی کو دوسرے الامات میں آور بھی تصریح سے بیان کیا گیا ہے یہاں تک کہ اس شہر کا نام بھی لیا گیا تھا جو وطنی ہے اور یہ پیشگوئی بست سے لوگوں کو سنانی گئی تھی..... اور یہی کہ نکھایا تھا ایسا ہی طور میں آیا کیونکہ بغیر سابق تعلقات قرابت اور رشتہ کے دہلی میں ایک شریف اور مشہور خاندان سیادت میں میری شادی ہو گئی..... سو چونکہ خدا تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ میری نسل میں سے ایک بڑی بنیاد عمارت اسلام کی ڈالے گا اور اس میں سے وہ شخص پیدا کرے گا جو آسمانی روح اپنے اندر رکھتا ہو گا اس لئے اس نے پسند کیا کہ اس خاندان کی نژاد میرے نکاح میں لاوے اور اس سے وہ اولاد پیدا کرے جو ان نوروں کو جن کی میرے ہاتھ سے نگرانی ہوئی ہے دنیا میں زیادہ سے زیادہ پھیلاوے اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ جس طرح سادات کی وادی کا نام شہر بانو تھا اسی طرح میری بیوی جو آئندہ خاندان کی ماں ہوگی اس کا نام نصرت جہاں بیگم ہے یہ تقاضی کے طور پر اس بات کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے تمام جہاں کی مدد کے لئے میرے آئندہ خاندان کی بنیاد ڈالی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ کبھی ناموں میں بھی اس کی پیشگوئی مخفی ہوتی ہے۔" (تریاق القلوب صفحہ ۶۳، ۶۵۔ روحانی خزائن جلد ۱ صفحہ ۲۴۳، ۲۴۵)

**۱۸۸۱ء (تخمیناً)** "تخمیناً اٹھارہ برس کے قریب عرصہ گزر رہا ہے کہ مجھے کسی تقریب سے مولوی محمد حسین بٹالوی ایڈیٹر رسالہ اشاعت السنہ کے مکان پر جانے کا اتفاق ہوا۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ آج کل کوئی امام ہوا ہے یا نہیں اس کو یہ امام سنا یا جس کو میں کئی دفعہ اپنے غلموں کو سنا چکا تھا اور وہ یہ ہے کہ

**بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

جس کے یہ معنی ان کے آگے اور نیز ہر ایک کے آگے میں سے ظاہر کئے کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ وہ دو عورتیں ایسے نکاح میں لائے گا ایک بکر ہوگی اور دوسری بیوہ۔ چنانچہ یہ امام جو بکر کے متعلق تھا پورا ہو گیا اور اس وقت بفضلہ تعالیٰ چار پسران بیوی سے موجود ہیں اور بیوہ کے امام کی انتظار ہے۔"

(تریاق القلوب صفحہ ۳۳۔ روحانی خزائن جلد ۱ صفحہ ۲۰۱)

لے تاکسار کی حالت میں یہ ابلیس اپنی دونوں پہلوؤں سے حضرت امان جان کی ذات میں ہی پورا ہوا ہے جو بکر یعنی کنواری آئیں اور نجیب یعنی بیوہ رہ گئیں۔ (واقفہ الملم۔ مرتب)

ہے اور یہی وہ دابۃ الارض ہے جس کی نسبت قرآن شریف میں وعدہ  
 تھا کہ آخری زمانہ میں ہم اس کو نکالیں گے اور وہ لوگوں کو اس لئے کاٹے گا۔ کہ وہ  
 ہمارے نشانوں پر ایمان نہیں لاتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔  
 وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ  
 أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ اور جب مسیح موعود کے مجھنے  
 سے خدا کی نجات ان پر پوری ہو جائے گی تو ہم زمین میں سے ایک جانور نکال کر کھڑا  
 کریں گے وہ لوگوں کو کھٹے گا اور زخمی کرے گا اس لئے کہ لوگ خدا کے نشانوں پر ایمان  
 نہیں لائے تھے۔ دیکھو سورۃ النمل الجزو نمبر ۲۰۔

اور پھر آگے فرمایا ہے وَيَوْمَ نَخَسِرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ  
 بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِطُوا  
 بِهَا عُلْمًا أَمْ آذَاكُمْ تَعْمَلُونَ۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا أَنَّهُمْ  
 لَا يُنطِقُونَ۔ ترجمہ۔ اُس دن ہم ہر ایک امت میں سے اس گروہ کو جمع کریں گے  
 جو ہمارے نشانوں کو ٹھٹھلاتے تھے اور ان کو ہم جدا جدا جانتیں بنا دیں گے یہاں تک کہ  
 جب وہ عدالت میں حاضر کئے جائیں گے تو خدائے عزوجل ان کو کہے گا کہ کیا تم نے  
 میرے نشانوں کی بغیر تحقیق کے تکذیب کی یہ تم نے کیا کیا اور ان پر بوجہ ان کے ظالم  
 ہونے کے نجات پوری ہو جائے گی اور وہ بول نہ سکیں گے۔ سورۃ النمل الجزو نمبر ۲۰۔

اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہی دابۃ الارض جو ان آیات میں مذکور ہے جس کا مسیح موعود  
 کے زمانہ میں ظاہر ہوتا ہے اس سے متقرر ہے یہی وہ مختلف نمود قول کا جانور  
 ہے جو مجھے عالم کشف میں نظر آیا اور دل میں ڈالا گیا کہ یہ طاسون کا کیر ہے  
 اور خدا تعالیٰ نے اس کا نام دابۃ الارض رکھا کیونکہ زمین کے کیروں میں سے ہی یہ  
 بیماری پیدا ہوتی ہے اسی لئے پہلے چھوں پر اس کا اثر ہونے کا وہ مختلف صورتوں

۱۔ النمل: ۸۳ ۲۔ النمل: ۸۴-۸۶ ۳۔

میں ظاہر ہوتی ہے اور جیسا کہ انسان کو ایسا ہی ہر ایک جانور کو یہ بیماری ہو سکتی ہے اسی لئے کشفی عالم میں اسکی مختلف شکلیں نظر آئیں۔ اور اس بیان پر کہ دابۃ الارض درحقیقت مادہ طاعون کا نام ہے جس سے طاعون پیدا ہوتی ہے مفصلہ ذیل قرآن اور دلائل میں (۱) اول یہ کہ دابۃ الارض کے ساتھ عذاب کا ذکر کیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا دَفَعْنَا الْقَوْلَ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ يَعْنِي جِب ان پر آسمانی نشانوں اور عقلی دلائل کے ساتھ محبت پوری ہو جائیگی تب دابۃ الارض زمین میں سے نکالا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ دابۃ الارض عذاب کے موقعہ پر زمین سے نکالا جائیگا نہ یہ کہ یوں ہی یہ ہودہ طور پر ظاہر ہوگا جس کا نہ کچھ نفع نہ نقصان۔ اور اگر کہو کہ طاعون تو ایک مرض ہے مگر دابۃ الارض لغوی معنوں کے رو سے ایک کیرا ہونا چاہیے جو زمین میں سے نکلے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حال کی تحقیقات سے یہی ثابت ہوا ہے کہ طاعون کو پیدا کرنے والا وہی ایک کیرا ہے جو زمین میں سے نکلتا ہے بلکہ ٹیکالگانے کے لئے دہی کیرے جمع کئے جاتے ہیں اور ان کا عرق نکالا جاتا ہے اور خوردین سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی شکل یوں ہے (۲) یعنی یہ شکل دو نقطہ۔ گویا آسمان پر بھی نشان کسوف خسوف دو کے رنگ میں ظاہر ہوا اور ایسا ہی زمین میں۔

(۲) دوسرا قرینہ یہ ہے کہ قرآن شریف کے بعض مقامات بعض کی تفسیر ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف میں جہاں کہیں یہ مرکب لفظ آیا ہے اس سے مراد کیرا لیا گیا ہے مثلاً یہ آیت فَلَمَّا أَفْضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَاتِهِ یعنی ہم نے سلیمان پر جب موت کا حکم جاری کیا تو جنات کو کسی ان کے مرنے کا پتہ نہ دیا۔ مگر گھن کے کیرے نے کہ جو سلیمان کے عصا کو کھاتا تھا۔

سورۃ السباء الجزد نمبر ۲۲۔ اب دیکھو اس جگہ بھی ایک کیرے کا نام دابۃ الارض لکھا گیا پس اس سے زیادہ دابۃ الارض کے اصل معنیوں کی دریافت کیلئے اور کیا شہادت ہوگی

کہ خود قرآن شریف نے اپنے دوسرے مقام میں دابۃ الارض کے معنی کثیر الکیا ہے سو قرآن کے برخلاف اس کے معنی کرنا یہی تحریف اور الحاد اور دُجیل ہے۔

(۳) تیسرا قرینہ یہ ہے کہ آیت میں صریح معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے نشانوں کی تکذیب کے وقت میں کوئی امام الوقت موجود ہونا چاہیے کیونکہ وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ كَافِرًا یہی ہے کہ امام حجت کے بعد یہ عذاب ہو اور یہ تو متفق علیہ عقیدہ ہے کہ خروج دابۃ الارض آخری زمانہ میں ہوگا جبکہ مسیح موعود ظاہر ہوگا تاکہ خدا کی حجت دُنیا پر پوری کرے۔ پس ایک منصف کو یہ بات جلد تر سمجھ آسکتی ہے کہ جبکہ ایک شخص موجود ہے جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور آسمان اور زمین میں بہت سے نشان اس کے ظاہر ہو چکے ہیں تو اب بلاشبہ دابۃ الارض یہی طاعون ہے جس کا مسیح کے زمانہ میں ظاہر ہونا ضروری تھا اور چونکہ یا جوج ماجوج موجود ہے اور میں کُتلی حَدَابِ يَنْفِيسُونَ کی پیشگوئی تمام دُنیا میں پوری ہو رہی ہے اور دُجالی رفتے بھی انتہا تک پہنچ گئے ہیں اور پیشگوئی يَذْرُؤُنَ الْقُلَامِ فَلَا يُسْعَىٰ عَلَيْهَا بھی بخوبی ظاہر ہو چکی ہے۔ اور شراب اور زنا اور جھوٹ کی بھی کثرت ہو گئی ہے اور مسلمانوں میں یہودیت کی فطرت بھی جوش مار رہی ہے تو صرف ایک بات باقی تھی جو دابۃ الارض زمین میں سے نکلے سو وہ بھی نکل آیا۔ اس بات پر جھگڑنا جہالت ہے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پھٹے گی اور دابۃ الارض وہاں سے نکلے گا لے گا پھر تمام دُنیا میں چکر مارے گا کیونکہ اکثر پیشگوئیوں پر استعارات کا رنگ غالب ہوتا ہے جب ایک بات کی حقیقت کھل جائے تو ایسے ادھام باطلہ کے ساتھ حقیقت کو چھوڑنا کمال جہالت ہے اسی عادت کا بد بخت یہودی قبول حق سے محروم رہ گئے۔

(۴) قرینہ چہارم دابۃ الارض کے طاعون ہونے پر یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ میں ایک رنگ میں یہ پیشگوئی کی گئی ہے کہ کسی وقت بعض مسلمان بھی یہودی بن جائیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام

مراد ہے جو آسمانی روح اپنے اندر نہیں رکھتے لیکن زمین علوم و فنون کے ذریعے منکرین اسلام کو جواب کرتے ہیں اور اپنا علم کلام اور طریق مناظرہ تائید دین کی راہ میں خرچ کر کے بھان و دل خدمت شریعت غرا بجالاتے ہیں۔ سو وہ چونکہ حقیقت زمین میں آسمانی نہیں۔ اور آسمانی روح کامل طور پر اپنے اندر نہیں رکھتے اس لئے دابتہ الارض کہلاتے ہیں اور چونکہ کامل ترقی نہیں رکھتے صورتہ کامل وفاداری۔ اس لئے سپہرہ ان کا انسالوں کا ہے مگر بعض اعضاء ان کے بعض دوسرے حیوانات سے مشابہ ہیں۔ اسی طرف اللہ جل شانہ اشارہ فرماتا ہے: **وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ** ان الناس كانوا بائتنا لا يوقنون۔ یعنی جب ایسے دن آئیں گے جو کفار پر ضرب نازل ہو اور ان کا وقت مقدر قریب آجائے گا تو ہم ایک گروہ دابتہ الارض کا زمین سے نکالیں گے وہ گروہ متکلمین کا ہو گا جو اسلام کی حمایت میں تمام ادیان باطلہ پر حملہ کرے گا۔ یعنی وہ علماء و ظاہر ہوں گے جن کو علم کلام اور فلسفہ میں ید طولی ہو گا۔ وہ جا بجا اسلام کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں گے اور اسلام کی سچائیوں کو استدلالی طور پر مشرق مغرب میں پھیلائیں گے اور اس جگہ اخراجنا کا لفظ اس وجہ سے اختیار کیا کہ آخری زمانہ میں ان کا خروج ہو گا نہ حدود یعنی تخمی طور پر یا کم مقدار کے طور پر تو پہلے ہی سے تھوڑے بہت ہر ایک زمانہ میں پائے جائیں گے لیکن آخری زمانہ میں بکثرت اور نیز اپنے کمال لائق کے ساتھ پیدا ہوں گے اور حمایت اسلام میں جا بجا واعظین کے منصب پر کھڑے ہو جائیں گے اور شمار میں بہت بڑھ جائیں گے۔

واضح ہو کہ یہ خروج کا لفظ قرآنی تشریف میں دوسرے پیرایہ میں یا جوج ما جوج کیلئے بھی آیا ہے اور دھان کے لئے بھی قرآن شریف میں ایسا ہی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ جس کے معنوں کا حاصل خروج ہی ہے اور دجال کے لئے بھی حدیثوں میں یہی خروج کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ سو اس لفظ کے استعمال کرنے کی وجہ یہ ہے تا اس بات کی طرف

ازالہ اوہام

۳۷۳

حصہ دوم

وہاں کسی دہاں کے زنگ میں، قوت کے ساتھ خروج کر رہا ہے اور گویا مثالی و علیٰ وجود کے ساتھ ہی ہے اور جیسا کہ وہ اول زمانہ میں گرجا میں جیکڑا ہوا نظر آیا تھا اب وہ اس بندے کے مجلسی پاکر عیسائیوں کے گرجے سے نکلتے اور دنیا میں ایک آفت برپا کر رہا ہے۔

ایسا ہی یا ہوج ماہوج کا حال بھی سمجھ لیجئے۔ یہ دونوں پرانی قومیں ہیں جو پہلے زمانوں میں دوسروں پر کھلے طور پر غالب نہیں ہو سکیں اور ان کی حالت میں ضعف رہا لیکن خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخری زمانہ میں یہ دونوں قومیں خروج کریں گی یعنی اپنی جہلی قوت کے ساتھ ظاہر ہوں گی۔ جیسا کہ سورہ کعبہ میں فرماتا ہے و ترکنا بعضہم بومئذ

یسوج فی بعض یعنی یہ دونوں قومیں دوسروں کو مغلوب کر کے پھر ایک دوسرے پر حملہ کریں گی اور جس کو خدا تعالیٰ چاہے فتح دے گا۔ چونکہ ان دونوں قوموں سے مراد انگریز اور روس ہیں اس لئے ہر ایک معاہدہ و تمسک مسلمان کو دعا کرنی چاہیئے

کہ اُس وقت انگریزوں کی فتح ہو۔ کیونکہ یہ لوگ ہمارے دشمن ہیں۔ اور سلطنت برطانیہ کے ہمارے سر پر بہت احسان ہیں۔ سخت جاہل اور سخت نادان اور سخت نالائق وہ مسلمان ہے۔ جو اس

گورنمنٹ سے کینہ رکھے۔ اگر ہم ان کا شکر نہ کریں تو پھر ہم خدا تعالیٰ کے بھی ناشکر گزار ہیں۔ کیونکہ ہم نے جو اس گورنمنٹ کے زیر سایہ آرام پایا اور بارہے ہیں وہ آرام ہم کسی اسلامی گورنمنٹ میں بھی

نہیں پاسکتے۔ ہرگز نہیں پاسکتے۔

ایشیائی دابہ الارض یعنی وہ علماء و واعظین جو آسمانی قوت اپنے اندر نہیں رکھتے ابتداء سے چلے آتے ہیں۔ لیکن قرآن کا مطلب یہ ہے کہ آخری زمانہ میں ان کی حد سے زیادہ کثرت ہوگی اور ان کے خروج سے مراد وہی ان کی کثرت ہے۔

اور یہ نکتہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جیسی ان چیزوں کے بارے میں جو آسمانی قوت

۳-۸

الکافرين وتشهد ان دين الاسلام حق حتى انها تقتل ابليس وتمزقه  
 وبعض الاحاديث يدل على انها امرأة كافرة خادمة للشيطان و  
 جسامه للدجال وليس فيها خير فلا يمكن التوفيق بينهما الا ان  
 نقول ان المراد من دابة الارض علماء السوء الذين يشهدون باقوالهم  
 ان الرسول حق والقرآن حق ثم يعملون الخبائث ويخدعون الدجال  
 كأن وجودهم من الجزئين جزء مع الاسلام وجزء مع الكفر اقوالهم  
 كاقوال المؤمنين وانفعالهم كفعال الكافرين فان خبر رسول الله صلى الله  
 عليه وسلم عن انهم يكثرون في آخر الزمان وسموا دابة الارض لانهم  
 اخلدوا الى الارض وما ارادوا ان يرفعوا الى السماء واطمئنوا بالدنيا  
 وشهواتها وما بق لهم قلب كالانسان واجتمعت فيهم عادات السباع و  
 الخنازير والكلاب تراهم مستكبرين متبخترين كأنهم بلغوا السماء وسموها  
 ولم تخرج ارجلهم من الارض من شدة انتكاسهم الى الدنيا فهم كالذي  
 شداد اسره وكالمسجونين يكلمون الناس من الاست لا من الافواه  
 يعني ولا تجد في كلماتهم طهارة وبركة واستقامة و نورانية  
 كلمات الصالحين \*

ہم قائل قائل لو كان هذا هو الحق ان دابة الارض هي طائفة علماء هذا الزمان فيلزم  
 ان يكون تكفيرهم حقا وصادقا فان من شأن دابة الارض انها تسم المؤمن والكافر من  
 جعله الدابة كافرا (يشير المعترض اليك) فعليكم ان تقرروا بكفره فان التكفير بمنزلة  
 التوسم من دابة الارض فيقال في جواب هذا المعترض ان المراد من التوسم اظهار  
 كفر كافر و ايمان مؤمن فهذا الاظهار على نوعين قد يكون بالاقتوال وقد يكون بالافعال  
 ونتائجها وقد جرت سنت الله انه قد يجعل الكافرين والفاستقين علة موجبة لظهور  
 افراز ايمان انبياءه واوليائه الا ترى الى سيدنا ونبينا محمد المصطفى صلعم كيف كانت

۱۲۴

حقیقت الہی

۳۵۶

نثر

دنوں میں پادریوں کے دروازہ پر گداگری اختیار نہ کرتا جو لوگ اپنے کالجوں اور سکولوں میں لازمی طور پر خلاف اسلام تعلیم دیتے ہیں کسی سچے مسلمان کا طریق نہیں کہ انکی نوکری اختیار کرے۔

افسوس کہ یہ شخص سعدا شد نام جو فوت ہو گیا ہے وہ بعض میری تقریری مباحثات بھی سن چکا تھا اور اس کو میری کتابیں دیکھنے کا بھی بہت موقع ملا تھا مگر تعصب اور بغض ایک ایسی بلا ہے کہ وہ ان سے کچھ فائدہ اٹھانہ سکا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وفات پانا کوئی مشتبہ امر نہ تھا خدا تعالیٰ

قرآن شریف میں بیان کر چکا اور اس کا رسول معراج کی رات میں وفات یافتہ نبیوں میں اُسکو دیکھ چکا تھا۔ دوسری طرف قرآن اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ سب خلیفہ اسلام کے اسی امت میں سو آئینے بلکہ حدیثوں میں یہ بھی آچکا ہے کہ نازل ہونیا الایسے اسی امت میں سے ہے۔ پھر بھی وہ بد قسمت سمجھ نہ سکا اور

پہلی کتابوں اور احادیث صحیحہ میں بڑا نشان آخری پیچ کا یہ دیا گیا تھا کہ وہ دجال کے ظہور کے وقت آئے گا اور قرآن شریف نے ظاہر کر دیا کہ وہ دجال پادریوں کا فرقہ ہے جن کا دن سات کام تحریف و تبدیل ہے کیونکہ دجال کے یہی معنی ہیں جو تحریف و تبدیل کر کے حق کو چھپانے والا ہو اور

اسی کی طرف سورہ فاتحہ اشارہ کرتی ہے۔ ایسا ہی قرآن شریف کی اس آیت سے کہ جَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ قَوْمًا الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ ثابت ہوتا ہے کہ دجال عیسائیوں کے سوا کوئی علیحدہ گروہ نہیں ہوگا کیونکہ جب کہ غلبہ اور سلطنت قیامت تک عیسائیوں

کا دجال کے معنی بجز اسکے اور کچھ نہیں کہ جو شخص دیکھ دینے والا اور گمراہ کر دینا اور خدا کے کلام کی تحریف کر دینا اور اُسکو دجال کہتے ہیں۔ سو ظاہر ہے کہ پادری لوگ اس کام میں سب سے بڑھ کر ہیں کیونکہ دوسروں کا دجل اور فریب تو کمزور ہے جو کراں لوگوں کا دجل اس قدر ہے کہ خواہ مخواہ انسان کو خرابانے کے لئے کروڑوں بار وہی فریب کہتے ہیں اور لاکھوں سالے اور کتابیں دنیا میں شائع کی ہیں اور اسی غرض سے زمین کے کناروں تک سفر کرتے ہیں۔ پس ایسی وجہ وہ دجال اکبر ہیں اور خدا تعالیٰ کی پیشگوئی کے مطابق دوسرے کسی دجال کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں کیونکہ لکھا ہے کہ دجال اگر جاسے نکلے گا اور جس قوم میں سے ہو گا وہ قوم تمام دنیا میں سلطنت کرے گی اور قیامت تک اسی طاقت اور قوت رہے گی۔ پھر جبکہ یہ حال ہو تو کونسی زمین باقی رہی جس میں ہمارے مخالفوں کا فرضی دجال ظہور کرے گا۔ منہ

۵۶: ۱۰۰

یہ حوالہ صفحہ 104 پر درج ہے

حقیقت الہی صفحہ 456 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 456 از مرزا قادیانی



قابل اعتراض ٹھہریگا۔ ایسا ہی ادا کو یہ اتفاق بھی پیش آجاتا ہے کہ گو میں شخص ایک مضمون کے ہی لکھنے والے ہوں جو پیش ہی ادیب اور طبع ہوں مگر بعض صورتوں کے لداے بیان میں ایک ہی الفاظ اور ترکیب کے فقرہ پر ان کا توار ہو جاوے گا اور یہ باتیں ادا کے نزدیک مسلمات ہیں جو ہمیں کسی کو کلام نہیں اور اگر غور کر کے دیکھو تو ہر ایک زبان کا یہی حال ہے اگر اردو میں بھی مثلاً ایک فصیح شخص تقریر کرتا ہے اور اس میں کہیں مثالیں لاتا ہے کہیں دلچسپ فقرے بیان کرتا ہے تو دوسرا شخص بھی اسی رنگ میں کہہ دیتا ہے اور بجز ایک پاگل آدمی کے کوئی خیال نہیں کرتا کہ یہ سرفرہ ہے انسان تو انسان خدا کے کلام میں جس سے یہ پایا جاتا ہو۔ اگر بعض پر فصاحت فقرے اور مثالیں جو قرآن شریف میں موجود ہیں شرعاً جاہلیت کے قصائد میں دیکھی جائیں تو ایک لمبی فہرست طیار ہوگی اور ان امور کو محققین نے جانے اعتراض نہیں سمجھا بلکہ اسی غرض سے ائمہ دانشہ میں نے جاہلیت کے ہزار ہا اشعار کو حفظ کر رکھا تھا اور قرآن شریف کی بلاغت فصاحت کے لئے انکو بطور سند لائے تھے۔

یہ بات بھی اس جگہ بیان کر دینے کے لائق ہے کہ میں خاص طور پر خدا تعالیٰ کی اعجاز نمائی کو انشاء پر وازی کے وقت بھی اپنی نسبت دیکھتا ہوں کیونکہ جب میں عربی میں یا اردو میں کوئی عبارت لکھتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ کوئی اندر سے مجھے تعلیم دے رہا ہے اور ہمیشہ میری تحریر کو عربی ہو یا اردو یا فارسی دو حصہ پر منقسم ہوتی ہے (۱) ایک تو یہ کہ بڑی سہولت سے سلسلہ الفاظ اور معانی کا میرے سامنے آتا جاتا ہے اور میں اسکو لکھتا جاتا ہوں اور گواہی تحریر میں مجھے کوئی مشقت اٹھانی نہیں پڑتی مگر دراصل وہ سلسلہ میری دماغی طاقت سے کچھ زیادہ نہیں ہوتا یعنی الفاظ اور معانی ایسے ہوتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ کی ایک خاص رنگ میں تائید نہ ہوتی تب بھی اسکے فضل کے ساتھ ممکن تھا کہ اسی معمولی تائید کی برکت سے جو لازمی فطرت خواہ انسان ہی کو کسی قدر مشقت اٹھا کر اور بہت سادقت لیکر ان مضامین کو نہیں لکھ سکتا۔ وانشاء اللہ۔ (۲) دوسرا حصہ میری تحریر کا محض خارق عادی کے طور پر ہے اور وہ یہ ہے کہ جب میں مثلاً ایک عربی عبارت

ملاحظہ فرمائیں کہ بارہا بعض لغویوں کے مطلق کلمے بعض اور یہ بذریعہ کسی معلوم ہوتی ہیں قطع نظر اسکی کہ وہ پہلے مجھ سے ہائیتوں کی کتاب میں لکھی گئی ہیں یا بقراط کی کتاب میں۔ ایسا ہی میری انشاء پر وازی کا حال ہے۔ جو عبارتیں تائید کے طور پر مجھے خدا تعالیٰ سے معلوم ہوتی ہیں مجھے ان میں کچھ نہیں کہ وہ کسی اور کتاب میں ہوگی بجز وہ میرے لئے اور ہر ایک کے لئے جو میرے حال سے

۲۲۲ دماغ پر مجھ سے ہوا اگر کسی کے ذہن پر میری پائی چنانچہ ہم ہر جہت تک بالو ابھریں گے کہ یہاں ہندی شراکتا مشہور مقابلہ کرے۔

پھر ماسوا اس کے اگر اس وجہ سے انکار کیا جاتا ہے کہ یہ امر خارق عادت ہے۔ تو کیا بموجب اصول باریوں کے دید کے بعد الہام الہی ہونا یہ خارق عادت امر نہیں ہے پس جبکہ لیکچر ام کی موت نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ وہ قادر خدا اس زمانہ میں بھی برخلات وید کے مقرر کردہ قانون قدرت کے الہام کرتا ہے تو وید کا سارا قانون قدرت دریا برد ہو گیا اس صورت میں وید کی بات کا کوئی بھی اعتبار نہ رہا۔ ظاہر ہے کہ جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اُس پر اعتبار نہیں رہتا اور لیکچر ام والی پیش گوئی سے تسلی نہیں ہوئی تو پھر درخواست کرنے سے اور کوئی ذریعہ تسلی کا پیدا ہو سکتا ہے اور خدا تعالیٰ کی صدمہ الہامی پیشگوئیاں جو پوری ہو چکی ہیں تسلی دے سکتی ہیں۔ غرض وید کا قانون قدرت ایسا جھوٹا ثابت ہوا کہ ساتھ ہی وید کو بھی لے ڈوبا۔ پھر اسی بنا پر اعتراض کرنا مسیحا سے بعید ہے۔ ظاہر ہے کہ وید نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کے بعد خدا کی قدرت تکمیل ہمیشہ کے لئے مسلوب رہے گی۔ مگر ہم نے چکے ہوئے نشانیوں کے ساتھ ثابت کر دیا کہ وید نے جو کچھ دعویٰ کیا ہے اور جو کچھ آئندہ کے لئے خدا کے الہام کے بارہ میں لکھا ہے کہ وہ محال اور قانون قدرت کے برخلاف ہے وہ سراسر جھوٹ اور خلاف حق ہے بلکہ خدا ہمیشہ اپنے بندوں کو الہام کرتا ہے تو پھر بتلاؤ کہ اس کے بعد بار بار اُس وید کو پیش کرنا جس کے قانون قدرت کا نو زہم دیکھ چکے ہیں۔ کس قدر خلاف حیا و شرم ہے۔

۲۳۳

غرض لیکچر ام کی موت نے ثابت کر دیا کہ وید کی تعلیم سراسر غلط ہے کہ اس کے بعد الہام نہیں ہے تو پھر وید کے مقرر کردہ قانون قدرت پر اعتبار کیا رہا۔ خدا تعالیٰ کے کردہ قانون قدرت ابھی مخفی ہیں اور آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہے ہیں مگر افسوس ان لوگوں پر کہ دانستہ آنکھ بند کر لیتے ہیں مگر یورپ کا کوئی شخص یہ بات ظاہر کرے کہ میں تجھ میں سے پانی نکال سکتا ہوں یا تمام تجھ کو پانی بنا سکتا ہوں تو اُس کے مقابل پر یہ لوگ دم بھی نہ ماریں اور فی الفور آمتا و مدد قائل بننے لگیں مگر خدا کے کلام نے جو کچھ بیان کیا اُس کو نہیں مانتے۔

آئتم کے مقدمہ میں دیکھ چکے ہو کہ باوجود اس کے بہت سے منصوبوں کے پھر آخر میں ہر ہو گیا۔  
 کیا تمہارے دل قبول نہیں کر گئے کہ آئتم کا قسم سے انکار کرنا اور ناشی سے انکار کرنا اور حملوں  
 کا ثبوت دینے سے انکار کرنا صرف اسی وجہ سے تھا کہ اس نے ضرور ایسا ہی شرط کے موافق حق کی  
 طرف رجوع کر لیا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ باوجود اس کے کہ علامتی اشتہاروں کی بہت ہی اس  
 کو مار پڑی مگر وہ الزام سے اپنے تئیں بڑی نکر سکا جو اس کے اقرار خوف اور بے ثبوت ہونے  
 عذر حملوں سے اس پر وارد ہو چکا تھا۔ یہاں تک کہ اس موت نے اس کو آپکڑا جس سے وہ  
 فٹا رہا۔ اور ضرور تھا کہ وہ انکار کے بعد جلد مرتا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے کی پاک پیش گوئیوں کے رد  
 سے بھی سزا اس کے لئے ٹھہرائی تھی۔ سو اس خدا سے خوف کرو۔ جس نے آئتم کو بڑی مگر گردنوں  
 کے گرداب میں ڈال کر آخر اپنے دھینکے موافق ہلاک کر دیا۔ خدا کی کھلی کھلی پیشگوئیوں سے منہ  
 پھیرنا یہ بیعتوں کا کام ہے۔ نہ نیک لوگوں کا۔ اور جھوٹ کے مزار کو کسی طرح نہ چھوڑنا۔  
 یہ کتوں کا طریق ہے نہ انسانوں کا۔ میاں حسام الدین عیسائی لکھتے ہیں کہ آئتم چار دن  
 تک یہ پوش رہا۔ مگر وہ اس کا سر نہیں بیان کر سکے کہ کیوں چار دن تک یہ پوش رہا۔ سو  
 جانتا چاہیئے۔ کہ یہ چار دن کی سخت جان کندن کے ان چار اتراؤں کی اسی دنیا میں اس کو سزا دی  
 گئی جو اس نے بہ خورانی کے اقام کا اترا کیا۔ سانپ چھوڑنے کا اترا کیا۔ لہذا اور قیروز پلو کے  
 حملہ کا اترا کیا اور عیسائیوں کے خوش کرنے کے لئے اصل وجہ خوف کو چھپایا۔ سو عیسائیوں کے لئے  
 اس سے زیادہ اور کوئی شرم کی جگہ نہیں کہ آئتم ان مذہب کے جھوٹا ہونے پر گواہی دے گیا۔ اب اگر  
 آئتم کی گواہی پر اعتبار نہیں تو اس نئے طریق سے دوبارہ حجت اللہ کو پورا کر لینا چاہیئے۔ اور  
 اس نئے طریق میں کوئی شرط بھی نہیں سیدھی بات ہے کہ اگر باہم دعا کرنے کے بعد جس کے  
 ساتھ فریقین کی طرف سے آمین بھی ہوگی۔ میرے مقابل کا شخص ایک سال تک خدا تعالیٰ کی  
 فوق العادہ عذاب کا سچ گیا۔ تو جیسا کہ میں لکھ چکا ہوں تاوان مذکورہ بالا ادا کر دیا۔  
 اور میں حضرات پادری صاحبان کو دوبارہ یاد دلاتا ہوں کہ اس طرح کا طریق دعا ان کے

خواب میں ایک شخص کی موت دیکھی جاتی ہے اور اسکی تعبیر زیادت عمر ہوتی ہے یہ ہر حال ان مولویوں کا جو بڑے دیانتدار کہلاتے ہیں۔ جھوٹ بولنے سے بدتر دنیا میں اور کوئی بڑا کام نہیں۔ ایسے جھوٹ کو خدا نے جس کے ساتھ مشابہت ذی ہے مگر یہ لوگ جس سے پرہیز نہیں کرتے ہم نے اس قدر وضاحت سے اسکا تذکرہ پیشگوئی کے مطابق ثابت کر کے لکھا ہے مگر کیا مولوی ثناء اللہ صاحب مان لینگے؟ نہیں بلکہ کوشش کریں گے کہ کسی طرح رو کر میں ان لوگوں کا خدا تعالیٰ سے جنگ ہے نہیں دیکھتے کہ اگر یہ منصوبہ انسان کا ہوتا تو یہ برکات اسکے شامل حال نہ ہوتیں کیا کوئی ایماندار خدائے عزوجل کی نسبت ان افعال کو منسوب کر سکتا ہے کہ ایک شخص کو وہ دھوئے الہام کے بعد تیس بتیس برس کی پہلنت ہے اور دن بدن اسکے سلسلہ کو ترقی بخشنے اور ایسے وقت میں جبکہ اسکے ساتھ ایک آدمی بھی نہیں تھا یہ بشارت اسکو دی کہ لاکھوں انسان تیرے سلسلہ میں داخل کئے جائیں گے اور کئی لاکھ روپیہ اور طرح طرح کے تحائف لوگ تجھے دیں گے اور دُور دُور سے ہزار ہا لوگ تیرے پاس آئیں گے یہاں تک کہ وہ راہ گہرے ہو جائیں گے اور ان میں گڑھے پڑ جائیں گے جن راہوں سے وہ آئیں گے۔ تجھے چاہیے کہ انکی کثرت کی وجہ سے تو تھک نہ جائے اور ان سے بد اخلاقی نہ کرے خدا تجھے تمام دنیا میں شہرت دیگا اور بڑے بڑے نشان تیرے لئے دکھلائیگا اور خدا تجھے نہیں چھوڑے گا جب تک وہ رشتہ اور گراہی میں فرق کر کے نہ دکھلاوے اور دشمن زور لگائیں گے اور طرح طرح کے مکر اور فریب اور منصوبے استعمال کریں گے مگر خدا انہیں نامراد رکھے گا۔ خدا ہر ایک قدم میں تیرے ساتھ ہوگا اور ہر ایک میدان میں تجھے فتح دے گا۔ اور تیرے ہاتھ پر اپنے زور کو پورا کریگا۔ دنیا میں ایک مذہب آیا ہے دنیا نے اسکو قبول نہ کیا لیکن خدا اُسے قبول کریگا اور بڑے زور اور عملوں سے اُس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ میں اپنی چمکار دکھلاؤں گا اور اپنی قدرت نمائی سے تجھے اٹھاؤں گا میں تجھے دشمنوں کے ہر ایک حملہ سے بچاؤں گا اگر یہ لوگ تجھے نہ بچاویں۔ اگر یہ لوگ تیرے بچانے کی کچھ پروا نہ رکھیں مگر میں تجھے ضرور بچاؤں گا۔

یہ اُس زمانہ کے الہام ہیں جس پر تیس برس سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اور یہ تمام الہام

جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کوئی اعتقاد نہیں رکھتا کہ آپ بھی پھر آئیں گے۔  
کیونکہ ہمنجاب نے اپنی آمد اول میں ہی کافروں کو وہ ہاتھ دکھائے جو اب تک یاد کرتے ہیں  
اور پوری کامیابی کے ساتھ آپ کا اقبال ہوا۔

۱۳۶  
اور معلوم ہوتا ہے کہ ابن العربی صاحب نے آخر عمر میں اپنے پیسے اقبال سے رجوع کر لیا تھا۔  
اس نے ان کا آخری بیان پہلے بیان سے متناقض ہے۔ ایسا ہی بعض اور فرقے مونیوں کے  
کلمے اور حضرت عیسیٰ کی وفات کے قائل ہیں۔ اور ہم ابھی بیان کر چکے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم  
کی وفات کے وقت صحابہ رضی اللہ عنہم کا اسی پر اجماع ہو گیا تھا جو کہ انبیاء گذشتہ جن میں  
حضرت عیسیٰ بھی شامل ہیں فوت ہو چکے ہیں۔ ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں پھر جیسے  
ذمہ اسلام میں جہالت اور بدعات پھیلتی گئیں یہ بدعت بھی دین کا ایک جزو ہو گئی کہ  
حضرت عیسیٰ ثرہ اندام کی جماعت میں سے نکل کر پھر دنیا میں واپس آئیں گے۔ اس عقیدہ  
اسلام کو سخت نقصان پہنچایا ہے۔ کیونکہ تمام دنیا میں سے صرف ایک ہی انسان کو یہ خصوصیت  
دی ہے کہ وہ آسمان پر مع جسم چلا گیا اور کسی زمانہ میں مع جسم واپس آئیگا۔ یہ عقیدہ حضرت  
عیسیٰ کو خدا بنانے کی پہلی اینٹ ہے کیونکہ ان کو ایک خصوصیت دی گئی ہے جس میں کوئی  
دوسرا شریک نہیں۔ خدا جلد یہ داغ اسلام کے چہرہ سے دور کرے۔ آمین

بناؤں مولوی ابو سعید محمد حسین صاحب کو محض حسبہ اللہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ آخر  
عمر تک پہنچ گئے ہیں۔ اب خدا تعالیٰ کے مقابل پر ہے ہودہ چلا کیوں کو چھوڑ دیں۔ اپنے بیعت  
نہ لگایا ہر ایک قسم کا مکر کیا اور نور کے بجھانے کے لئے قابل شرم منصوبوں سے کام لیا مگر  
انجام کا نام لود ہے۔ اگر میں مغتری ہوتا تو آپ کا کہیں نہ کہیں ہاتھ پڑ جاتا اور میں کہے تباہ  
ہو جاتا ایسا آدمی جو ہر روز خدا پر جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے ایک بات تراشتا ہے اور  
پھر کہتا ہے کہ یہ خدا کی وحی ہے جو مجھ کو پہنچی ہے۔ ایسا بد ذات انسان تو کتنوں اور مودوں  
اور بندوں سے بدتر ہوتا ہے پھر کہہ سکتے ہیں کہ خدا اس کی حمایت کرے۔ مگر یہ کاروبار

ہونے کا دعویٰ کہہ کے قوم کا صلح قرار نہیں دیتا اور نہ نبوت اور رسالت کا مدعی بنتا ہے۔ اور محض  
 نفسی کے طور پر یا لوگوں کو اپنا سموخ جتانے کے لئے دعویٰ کر رہے کہ مجھے یہ خوب آئی۔ اور  
 یا اللہم پڑا اور جھوٹ بولتا ہے یا اس میں جھوٹ ملتا ہے وہ اس نجاست کے کپڑے کی  
 طرح ہے جو نجاست میں ہی پیدا ہوتا ہے اور نجاست میں ہی مر جاتا ہے۔ ایسا خبیث اس حالق  
 نہیں کہ خدا اس کو یہ عزت دے کہ تو نے اگر میرے پر افتراء کیا تو میں تجھے ہلاک کر دوں گا بلکہ  
 وہ بوجہ اپنی ہذیت و رجبہ کی ذلت کے قابل التفات نہیں کوئی شخص اس کی پیروی نہیں کرتا کوئی  
 اس کو نبی یا رسول یا مامور من اللہ نہیں سمجھتا۔ ماسوا اس کے یہ بھی ثابت کرنا چاہئے کہ اس  
 معتزبانہ حالت پر براہینیں برس گئے۔ جس حافظ محمد یوسف صاحب کی بہت کچھ واقفیت  
 نہیں مگر یہ بھی امید نہیں۔ خدا ان کے فتنہ دنی اعمال بہتر جانتا ہے۔ ان کے دو قول تو ہمیں یاد ہیں۔  
 اور سنا ہے کہ اب وہ ان سے انکار کرتے ہیں (۱) ایک یہ کہ چند سال کا عرصہ گزرا ہے کہ بڑے  
 بڑے جلسوں میں انہوں نے بیان کیا تھا کہ مولوی عبداللہ غزنوی نے میرے پاس بیان کیا کہ آسمان کے  
 ایک نور کا ریان پر گرا اور میری طرف اس سے بے نصیب رہ گئی۔ (۲) دوسرے یہ کہ خدا تعالیٰ نے  
 انسانی تشل کے طور پر ظاہر ہو کر ان کو کہا کہ مرزا غلام احمد حق پر ہے کیوں لوگ اس کا انکار  
 کرتے ہیں۔ اب مجھے خیال آتا ہے کہ اگر حافظ صاحب ان دو واقعات سے اب انکار کرتے  
 ہیں جن کو بار بار بہت سے لوگوں کے پاس بیان کر چکے ہیں تو نعوذ باللہ بے شک انہوں نے خدا تعالیٰ  
 پر افتراء کیا ہے۔ کیونکہ جو شخص سچ کہتا ہے اگر وہ مر بھی جائے تب بھی انکار نہیں کر سکتا

+ میں ہرگز قبول نہیں کرتا کہ حافظ صاحب ان دو واقعات کے انکار کرتے ہیں۔ ان واقعات کا گواہ زمر  
 میں ہوں بگہ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت گواہ ہے اور کتاب لالہ اولیاء میں ان کی زبانی مولوی عبداللہ  
 صاحب کا کشف صبح ہو چکا ہے۔ یہی تو قیقت جانتا ہوں کہ حافظ صاحب ایسا کذب مرتب ہرگز  
 زبان پر نہیں لائے گا کہ قوم کی طرف سے ایک بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں۔ ان کے بھائی محمد تقی  
 نے تو انکار نہیں کیا تو وہ کیونکر کرینگے۔ جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں۔ منہاں

ہونے کا دعویٰ کیسے قوم کا مصلح قرار نہیں دیتا اور نہ نبوت اور رسالت کا مدعی بنتا ہے۔ اور محض ہنسی کے طور پر یا لوگوں کو اپنا رموز بتانے کے لئے دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے یہ خواب آئی۔ اور یا اللہم پناہ جوٹ بوتا ہے یا اس میں جوٹ ملتا ہے وہ اس نجاست کے کپڑے کی طرح ہے جو نجاست میں ہی پیدا ہوتا ہے اور نجاست میں ہی مر جاتا ہے۔ ایسا جیٹ اس واقعہ میں کہ خدا اس کو یہ عزت دے کہ تو نے اگر میرے پر افتراء کیا تو میں تجھے ہلاک کر دوں گا بلکہ وہ بوجہ اپنی نہایت درجہ کی ذلت کے قابل انتقام نہیں کوئی شخص اس کی پیروی نہیں کرتا کوئی اس کو نبی یا رسول یا مامور من اللہ نہیں سمجھتا۔ ماسوا اس کے یہ بھی ثابت کرنا چاہئے کہ اس معتربانہ حالت پر برائیس برس گز گئے۔ میں حافظ محمد یوسف صاحب کی بہت کچھ واقفیت نہیں مگر یہ بھی امید نہیں۔ خدا ان کے اندرونی اعمال بہتر جانتا ہے۔ ان کے دو قول تو میں یاد ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اب وہ ان سے انکار کرتے ہیں (۱) ایک یہ کہ چند سال کا عرصہ گزرا ہے کہ بڑے بڑے طبیبوں میں انہوں نے بیان کیا تھا کہ مولوی عبداللہ غزنوی نے میرے پاس بیان کیا کہ آسمان سے ایک نور نکلے گا اور میری لڑائی اس سے بے نصیب رہ گئی۔ (۲) دوسرے یہ کہ خدا تعالیٰ نے انسانی تشل کے طور پر ظاہر ہو کر ان کو کہا کہ مرزا غلام احمد حق پر ہے کیوں لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اب مجھے خیال آتا ہے کہ اگر حافظ صاحب ان دو واقعات سے اب انکار کرتے ہیں جن کو بار بار بہت سے لوگوں کے پاس بیان کر چکے ہیں تو نعوذ باللہ بے شک انہوں نے خدا تعالیٰ پر افتراء کیا ہے۔ کیونکہ جو شخص سچ کہتا ہے اگر وہ مر بھی جائے تب بھی انکار نہیں کر سکتا

✦ میں ہرگز قبول نہیں کرتا کہ حافظ صاحب میں ہر دو واقعات کا انکار کرتے ہیں۔ ان واقعات کا گواہ نہ صرف میں ہوں بلکہ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت گواہ ہے اور کتاب لالہ اولیٰ میں ان کی زبانی مولوی عبداللہ صاحب کا کشف صبح ہو چکا ہے۔ یہی تو قیامت جانتا ہوں کہ حافظ صاحب ایسا کذب مزید ہرگز نہیں کریں گے گو قوم کا طرفت ایک بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں۔ ان کے بھائی محمد یوسف نے تو انکار نہیں کیا تو وہ کیونکر کرینگے۔ جوٹ بولنا مرد ہونے سے کم نہیں۔ منہاں

عجیب قدرت دکھلاتا ہے کہ جب امام مذکور بحالت زار نزار گھروا پس آیا تو اثر الہام برعکس پایا یعنی لڑکے کے آثار و بصحت دیکھے غرض کہ موندہ منحوس سے بیکار نکلتا ہی تھا کہ دم بدم لڑکے کو آرام ہونے لگا۔ جب لوگوں نے عجیب الدعوات صاحب راہ یہ وہی لفظ ہندو کی لیاقت کا ہے، کی بنی اڑائی تو جواب دیا کہ الہام غلط نہیں ہو سکتا۔  
 وایم یہ بچہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ تمام ہواقتہ پر افترا آریہ کا۔

اب دیکھنا چاہیے کہ وہ کنجریو دلدار لڑکا کھلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرتے ہیں مگر اس آریہ میں اس قدر بھی شرم باقی نہ رہی۔ جس قوم میں اس جنس کے شریف و امین لوگ ہیں وہ کیا کچھ ترقیاں نہیں کریں گے۔ اب اس نیک ذات آریہ کی فرزند بے کیا ایک جلسہ کرا کر ہمارے روبرو اس بہتان کی تصدیق کراوے تا اصل راوی کو حلف سے پوچھا جائے اور اس بے اصل بہتان کے لئے نہ صرف ہم اس راوی کو حلف دیں گے بلکہ آپ بھی حلف اٹھائیں گے فریقین کے حلف کا یہ مضمون ہو گا کہ اگر پچ اپنے حافظ کی پوری یادداشت سے بلا ذرہ کم و بیش میں نے بیان نہیں کیا تو اے خدا تے قادر مطلق اور اے پریشہ سر شکتی مان ایک سال تک اپنے قہر عظیم سے ایسی میری بیخ کنی کرا اور ایسا ہیبت ناک عذاب نازل فرما کہ دیکھنے والوں کو عبرت ہو اور پھر اگر ایک سال تک آسمانی عذاب سے اصل راوی محفوظ رہا تو ہم اپنے جھوٹا ہونے کا خود شہاد دیدیں گے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ایسے بہتان صریح کو بے فیصلہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ تو سب سے لئے اور ایک ملہم من اللہ کے لئے ممکن بلکہ کثیر الوقوع ہے جو کوئی خواب یا الہام شائبہ طور پر معلوم ہو جس کی احتمالی طور پر کئی معنی کئے جائیں مگر افترا کہ قطعی طور پر نہیں الہام ہو گیا کہ میں محمد جان محمد کا لڑکا اب مرے گا اس کی قبر کھودو



دنیا کی خیر ہے مری موت و زوال میں  
عزت نہیں ہے ذرہ بھی اس کی جناب میں  
لکھا گیا ہے رنگِ وعیدِ شدید میں  
ہو گا وہ قتل ہے یہی اس جرم کی نزا  
دیکھے ہے ایک کو کہ وہ ایسا شریہ ہے  
ہر دن ہر ایک رات یہی کام ہے رہا  
کہتا ہے یہ خدا نے کہا بھگو آج رات  
گویا نہیں ہے یار جو پہلے سے کہہ چکا  
ییسے کے قتل کرنے کو قاتل ہوں یا میں  
تا مغتری کے قتل سے قصہ ہی ہو تمام  
نوں کی سہی و جہد یہ بھی کچھ نہیں نظر  
پھر کہیں وہ مغتری سے کرے اس قدر وفا  
کہتا ہے ہر مقام میں اس کو خدا بڑی  
کوشش بھی اس قدر کہہ بس مری جانے میں  
موجھوٹ اور فریب کی تہمت لگاتے ہیں  
جانا ہے بے اثر وہ جو سوا بار کہتے ہیں  
کیا مغتری کا ایسا ہی انجام ہوتا ہے

میں مغتری ہوں ان کی نگاہ و خیال میں  
لعنت ہے مغتری پہ خدا کی کتاب میں  
توریت میں بھی نیز کلام مجید میں  
کوئی اگر خدا پہ کرے کچھ بھی افترا  
پھر یہ عجیب غفلتِ ربِّ قدیر ہے  
پچیس سال سے ہے وہ مشغول افترا  
ہر روز اپنے دل سے بناتا ہے بیک با  
پھر بھی وہ ایسے شوخ کو دیتا نہیں نزا  
پھر یہ عجیب تر ہے کہ جب طایفہ میں  
کرتا نہیں ہے ان کی مدد وقت انتقام  
پہنا تو اس کا وعدہ رہا سارا طاق پر  
کیا وہ خدا نہیں ہے جو فرقان کا ہے خدا  
آخر یہ بات کیا ہے کہ ہے ایک مغتری  
جب دشمن اس کو بیچ میں کوشش سے ہتے ہیں  
اک اتفاق کر کے وہ باتیں بناتے ہیں  
پھر بھی وہ نامراد مقاصد میں ہتے ہیں  
ذلت میں جیتے۔ یہاں اگر ام ہوتا ہے

زجر اور توبیح کے ساتھ روڈ کی گئی۔ اور درحقیقت یہ سوال نہایت قابل شرم تھا کیونکہ سچ یہی ہے کہ نہ یہ شخص اور نہ اس کا باپ رحیم بخش کبھی ریسن کرسی نشین میں شمار کئے گئے اور اگر یہ یا اس کا باپ کرسی نشین تھے تو گویا سر پیل ریسن نے بہت بڑی غلطی کی کہ جو اپنی کتاب تاریخ ریسن پنجاب میں ان دونوں کا نام نہیں لکھا غضب کی بات ہے کہ کھانا مولوی اور اس قدر ناش دروغی اور پھر آپ اپنے خط میں کرسی نہ ملنے کا مجھ سے ثبوت مانگتے ہیں۔ گویا اپنی ذلت کو کامل طور پر تمام لوگوں پر بنا کر ناپا جانتے ہیں اور اپنے خط میں وعدہ کرتے ہیں کہ اگر وہ کاذب نکلیں تو اپنے تئیں تسکنت یافتہ تصور کریں گے اور پھر کبھی رد و قبح نہیں کریں گے۔ افسوس کہ اس شخص کو جھوٹ بولتے ذرہ شرم نہیں آتی۔ جھوٹ کہ اگر اگلا تر اور تمام گناہوں کی مانا ہے تو کس طرح دوسری سے اس شخص نے اس پر زور دیا ہے۔ یہی دیانت اور امانت ان لوگوں کی ہے جس سے مجھے اور میری جماعت کو کافر ٹھہرایا اور دنیا میں شور مچایا۔

واضح رہے کہ ہمارے بیان مذکورہ بالا کا گواہ کوئی ایک دو آدمی نہیں بلکہ اس وقت کہ کچھری کے ارد گرد صدق آدمی موجود تھے جو کرسی کے معاملہ کی اطلاع رکھتے ہیں۔ صاحب ڈپٹی کمشنر ایم ڈبلیو ڈیکس صاحب بہادر خود اس بات کے گواہ ہیں جنہوں نے بار بار کہا کہ مجھے کرسی نہیں ملے گی۔ جب تک مت کر اور پھر پکتان لہمار چند صاحب ڈسٹرکٹ سپرنٹنڈنٹ اس بات کے گواہ ہیں کہ کرسی مانگنے پر محمد حسین کو کیا جواب ملا تھا اور کیسی عزت کی گئی تھی۔ پھر ہنسی غلام حیدر شاہ صاحب سپرنٹنڈنٹ ضلع جو اب تحصیلدار ہیں اور مولوی فاضل بن صاحب پلیڈر اور لالہ رام بھیجت دست صاحب وکیل اور ڈاکٹر کلارک صاحب جن کی طرف سے یہ حضرت گواہ ہو کر گئے تھے اور صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر کے تمام اردلی یہ سب میرے بیان مذکورہ بالا کے گواہ ہیں اور اگر کوئی شخص ان میں سے محمد حسین کی حالت پر رحم کر کے اس کی پردہ پوشی بھی چاہے، مگر میں خوب جانتا ہوں کہ کوئی شخص اس بات پر قسم نہیں کھا سکے گا کہ یہ واقعہ کرسی نہ ملنے اور جھڑکیاں دینے کا جھوٹ

۱۰۔ غلام خطیب ہے؟ از مقام بنارہ روز ۲۸۔ فروری ۱۹۰۸ء۔ میان غلام محمد صاحب ندا آپ کو اور امت پر دوسے اور ضلالت والہا سے نجات بخشنے۔ والسلام علیٰ من اتبع الهدی۔ آپ کا فہمہ، فروری ۱۹۰۸ء۔ پونجا۔۔۔ آپ نے کتاب اہدیت کے صفحہ ۱۱۴ میں تعین دعویٰ کئے ہیں۔ اول یہ کہ محمد حسین نے صاحب ڈپٹی کمشنر سے کرسی طلب کی اور کہ اس کو عدالت میں کرسی ملتی تھی اور اس کے پاس کو عدالت میں کرسی ملتی تھی جس پر صاحب ڈپٹی کمشنر نے اس کو تین جھڑکیاں دیں اور کہا کہ تو جھوٹا ہے۔ جب تک مت کر، میرا دعویٰ کہ میرا باہر کے کرے میں ایک کرسی پر جا بیٹھا تو پکتان صاحب پولیس کی نظر اس پر جا پڑی اور اس وقت کنسٹبل کی معرفت جھڑکیاں کی گئیں اور اس کو کرسی سے اٹھایا گیا۔ میرا دعویٰ کہ میرا ایک شخص کی چادر سے کرسی پر بیٹھا گیا تو اس شخص نے چادر نیچے سے چھین لی۔۔۔ میرے نزدیک یہ تینوں دعوے ممکن اور صحیح ہیں جن میں راستی کا شہ داخل اور ثابت بھی نہیں۔ ۱۱۔

کہ ہم دونوں فریق میں سے جو جھوٹا ہے وہ مر جائے۔ سو خدا نے اس کو بھی جلد تر اس جہان سے رخصت کر دیا۔ اور ان دنات یافتہ مولویوں کا ایسی دعاؤں کے بعد مرجانا ایک خدا ترن مسلمان کے لئے تو کافی ہے مگر ایک پلید دل سیہ دل دنیا پرست کے لئے ہرگز کافی نہیں۔ بھلا علیگڑھ تو بہت دُور ہے اور شاید پنجاب کے کئی لوگ مولوی اسماعیل کے نام سے بھی ناداقت ہونگے۔ مگر قصور ضلع لاہور تو دُور نہیں اور ہزاروں اہل لاہور مولوی فلام دستگیر قصوری کو جانتے ہونگے اور اس کی یہ کتاب بھی انہوں نے پڑھی ہوگی تو کیوں خدا سے نہیں ڈرتے۔ کیا مرنا نہیں؟ کیا غلام دستگیر کی موت میں بھی لیکھرام کی موت کی طرح سازش کا الزام لگائیں گے؟ خدا کی جھوٹوں پر نہ ایک دم کے لئے لعنت ہے بلکہ قیامت تک لعنت ہے۔ کیا دنیا کے کپڑے محض سازش اور منصوبہ سے خدا کے مقدس مامورین کی طرح کوئی قطعی پیشگوئی کر سکتے ہیں؟ ایک چور جو چوری کے لئے جاتا ہے اس کو کیا خبر ہے کہ وہ چوری میں کامیاب ہو یا ماخوذ ہو کر جیلخانہ میں جائے۔ پھر وہ اپنی کامیابی کی نذر شور سے تمام دنیا کے سامنے دشمنوں کے سامنے کیا پیشگوئی کرے گا؟ مثلاً دیکھو کہ ایسی پر نذر پیشگوئی جو لیکھرام کے قتل کئے جانے کے باوجود میں تھی جس کے ساتھ دن تاریخ وقت بیان کیا گیا تھا کیا کسی شرے بد چلن خونی کا کام ہے؟ غرض ان مولویوں کی سمجھ پر کچھ ایسے پتھر پڑ گئے ہیں کہ کسی نشان سے ناندہ نہیں اٹھاتے۔ براہین حیدر میں قریباً سولہ برس پہلے بیان کیا گیا تھا کہ خدا تعالیٰ میری تائید میں خسوف کسوف کا نشان ظاہر کرے گا۔ لیکن جب وہ نشان ظاہر ہو گیا اور حدیث کی کتابوں سے بھی کھل گیا کہ یہ ایک پیشگوئی تھی کہ ہمدی کی شہادت کے لئے اس کے ظہور کے وقت میں رمضان میں خسوف کسوف ہوگا تو ان مولویوں نے اس نشان کو بھی گلا بخورد کر دیا اور حدیث سے منہ پھیر لیا۔ یہ بھی احادیث میں آیا تھا کہ مسیح کے وقت میں

شروع کر کے حرفت یا تک پہنچا دیا تھا یعنی ابوبکر سے یزید تک۔ مگر یہ لوگ جو اہل حدیث اور حنفی کہلاتے ہیں انہوں نے اس کا رد وائی گونا گوال سمجھ کر لعنت بازی کے دائرے کو اس طرح پر پورا کیا کہ جس شخص کو خدا نے آدم سے لیکر یسوع مسیح تک مظہر جمیع انبیاء قرار دیا تھا یعنی الف سے حرفت یا تک اور پھر تکمیل دائرہ کی غرض سے الف آدم سے لیکر الف احمد تک صفت مظہریت کا خاتم بنایا تھا اسی پر لعنتوں کی مشق کی۔

وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون

لیکن یاد رکھیں کہ یہ گالیاں جو ان کے منہ سے نکلتی ہیں اور یہ تحقیر اور یہ توہین کی باتیں جو ان کے ہونٹوں پر چڑھ رہی ہیں اور یہ گندے کاغذ جو حق کے مقابل پر وہ شائع کر رہے ہیں یہ ان کے لئے ایک روحانی عذاب کا سامان ہے جس کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے طیار کیا ہے۔ دروغوں کی زندگی جیسی کوئی لعنتی زندگی نہیں۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے منصوبوں سے اور اپنے بے بنیاد جھوٹوں سے اور اپنے افتراؤں سے اور اپنی ہنسی ٹٹھے سے خدا کے ارادے کو روک دیں گے یا دنیا کو دھوکہ دیکر اس کام کو معرض التوا میں ڈال دیں گے جس کا خدا نے آسمان پر ارادہ کیا ہے۔ اگر کبھی پہلے بھی حق کے مخالفوں کو ان طریقوں سے کامیابی ہوئی ہے تو وہ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر یہ ثابت شدہ امر ہے کہ خدا کے مخالف اور اس کے ارادہ کے مخالف جو آسمان پر کیا گیا ہو ہمیشہ ذلت اور شکست اٹھاتے ہیں تو پھر ان لوگوں کے لئے بھی ایک دن ناکامی اور نامرادی اور رسوائی درپیش ہے خدا کا فرمودہ کبھی خطا نہیں گیا اور نہ جائیگا۔ وہ فرماتا ہے:-

کَتَبَ اللّٰهُ لَآ غَیْبٰتٍ اَنَّا دَرَسْنٰہَا

یعنی خدا نے ابتداء سے لکھ چھوڑا ہے اور اپنا قانون اور اپنی سنت قرار دیدیا ہے کہ وہ اور اس کے رسول ہمیشہ غالب رہیں گے۔ پس چونکہ میں اس کا رسول یعنی فرستادہ ہوں مگر تم کسی نئی شریعت اور نئے دعوے اور نئے نام کے بلکہ اسی نبی کریم خاتم الانبیاء

میں بیان کر رہا ہے اور پستکوں اور کتابوں کے حوالہ سے ہزاروں خوارق اُن کے بیان کئے جاتے ہیں لیکن سوال تو یہ ہے کہ ان قصوں کا ثبوت کیا ہے اور کس کو ہم جھوٹا کہیں اور کس کو ہم سچا سمجھیں؟ اور اگر یہ قصے صحیح تھے تو اب کیوں یہ مصیبت پیش آئی کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں صرف قصے ہی قصے رہ گئے؟ سچوں کا نور ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ زندہ خود انصاف کرو کہ کیا گذشتہ باتوں کا فیصلہ صرف باتوں سے ہو سکتا ہے؟ کوئی بڑا مانے یا بھلا مگر میں سچ سچ کہتا ہوں کہ ان تمام مذہبوں میں سے یہ سچ پر قائم وہی مذہب ہے جس پر خدا کا ہاتھ ہے اور وہی مقبول دین ہے جس کی قبولیت کے نور ہر ایک زمانہ میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ سو دیکھو! میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ روشن مذہب اسلام ہے جس کے ساتھ خدا کی تائیدیں ہر وقت شامل ہیں۔ کیا ہی بزرگ قدر وہ رسول ہے جس سے ہم ہمیشہ تازہ تازہ روشنی پاتے ہیں اور کیا ہی برگزیدہ وہ نبی ہے جس کی محبت سے رُوح القدس ہمارے اندر سکونت کرتی ہے تب ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں اور عجائب کام ہم سے صادر ہوتے ہیں۔ زندہ خدا کا مزہ ہم اسی راہ میں دیکھتے ہیں۔ باقی سب مُردہ پرستیاں ہیں۔

کہاں ہیں مُردہ پرست کیا وہ بول سکتے ہیں؟ کہاں ہیں مخلوق پرست کیا وہ ہمارے آگے ٹھہر سکتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو شرارت سے کتے تھے۔ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پیشگوئی نہیں ہوئی اور نہ کوئی نشان ظاہر ہوا؟ دیکھو! میں کہتا ہوں کہ وہ شرمندہ ہوں گے اور عنقریب وہ چھتے پھریں گے؟ اور وہ وقت آتا ہے بلکہ آگیا کہ اسلام کی سچائی کا نور منکروں کے منہ پر ٹپانے لگے گا! اور انہیں نہیں دکھائی دے گا کہ کہاں چھپیں۔

یہ بھی یاد رہے کہ میں نے دو مرتبہ باوانا تک صاحب کو کشتی حالت میں دیکھا ہے اور ان کو اس بات کا اقرار کیا ہے کہ انہوں نے اسی نور سے روشنی حاصل کی ہے۔ فضویاں اور جھوٹ بون مُردار خوبوں کا کام ہے۔ میں وہی کہتا ہوں کہ جو میں نے دیکھا ہے۔ اسی وجہ سے میں باوانا تک صاحب کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ اس چشمہ سے پانی پیتے تھے جس سے ہم پیتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس معرفت سے بات کر رہا ہوں کہ جو مجھے عطا کی گئی ہے۔ اب اگر آپ کو اس بات سے انکار ہے کہ باوا صاحب مسلمان تھے اور نیز آپ کو اس بات پر اصرار ہے کہ بقول آپ کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعوذ باللہ بدکار آدمی تھے تو میں آپ پر صرف منقولی استدلال سے اتمام حجت کرنا نہیں چاہتا بلکہ ایک اور طریق سے آپ پر خدا کی حجت پوری کرنا چاہتا ہوں جو آگے چل کر بیان کر دوں گا اور منقولی استدلال پر اس لیے حسرت رکھنا پسند نہیں کرتا کہ بوجہ قلت استدلال یہ راہ آپ کے لیے نہایت مشکل ہے۔ آپ لوگ صرف نادان پادریوں اور

معلوم نہیں کہ کہاں تک خدا تعالیٰ کے علم میں میرے ایام دعوت کا سلسلہ ہوا اسلئے یہ لوگ باوجود مولوی کہلانے کے یہ کہتے ہیں کہ ایک خدا پر افترا کر نیوالا اور جھوٹا ملہم بننے والا اپنے ابتدائے افترا سے تیس سال تک بھی زندہ رہ سکتا ہے اور خدا اس کی نصرت اور تائید کر سکتا ہے اور اسکی کوئی نظیر پیش نہیں کرتے۔ اسے میسک لوگو! جھوٹ بولنا اور گواہ کھانا ایک برابر ہے۔ جو کچھ خدا نے اپنے لطف و کرم سے میرے ساتھ معاملہ کیا یہاں تک کہ اس مدت دراز میں ہر ایک دن میرے لئے ترقی کا دن تھا۔ اور ہر ایک مقدمہ جو میرے تباہ کرنے کے لئے اٹھایا گیا خدا نے دشمنوں کو رسوا کیا۔ اگر اس مدت اور اس تائید اور نصرت کی تمہارے پاس کوئی نظیر ہے تو پیش کرو۔ ورنہ بموجب آیت لوتقول علینا یہ نشان بھی ثابت ہو گیا اور تم اس سے پوچھے جاؤ گے۔

۱۹۔ انیسواں نشان یہ ہے کہ خواجہ غلام فرید صاحب نے جو نواب بہاولپور کے پیر تھے میری تصدیق کے لئے ایک خواب دیکھا جس کی بنا پر میری محبت خدا تعالیٰ نے اُنکے دل میں ڈالی اور اسی بنا پر کتاب اشارات فریدی میں جو خواجہ صاحب موصوف کے ملفوظات ہیں جا بجا خواجہ صاحب موصوف میری تصدیق فرماتے ہیں۔ اہل فکر کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ظاہری جھگڑوں میں بہت کم پڑتے ہیں اور جو کچھ خدا تعالیٰ کی طرف سے اُنکو بذریعہ خواب یا کشف یا الہام پتہ ملتا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ پس چونکہ خواجہ غلام فرید صاحب پیر صاحب العلم کی طرح پاک باطن تھے اسلئے خدا نے اُن پر میری سچائی کی حقیقت کھول دی اور کئی مولوی جیسے مولوی غلام دستگیر خواجہ صاحب کو میرا کذب بنانے کیلئے آپکے گاؤں میں پہنچے جیسا کہ کتاب اشارات فریدی میں خواجہ صاحب نے خود یہ حالات بیان کئے ہیں اور بعض غزنویوں کا بھی خواجہ صاحب موصوف کے پاس خط پہنچا مگر آپ نے

۲۰۔ یہ یاد ہے کہ اگر میرے زمانہ الہام کو اس تاریخ سے لیا جائے جب اقل حدتہ براہین احمدیہ کا لکھا گیا تھا تو اس سال سے میرے الہام کے زمانہ کو ستائیس سال کے قریب ہوتے ہیں اور جب براہین احمدیہ کے چہارم حصہ سے شمار کیا جائے تو تب پچیس سال گزر گئے ہیں اور جب وہ زمانہ لیا جائے کہ جب پہلے الہام شروع ہوا تب تیس سال ہوتے ہیں۔ چنانچہ

طاغون کے حملہ سے بچا رہے گا اور وہ سلامتی جو ان میں پائی جائیگی اسکی نظیر کسی گروہ میں قائم نہیں ہوگی اور قادیان میں طاغون کی خوفناک آفت جو تباہ کرے نہیں آئیگی الا کم اور شاذ و نادر۔ کاش اگر لوگ دلوں کے میدے ہوتے اور خدا سے ڈرتے تو بالکل بچتے جاتے۔ کیونکہ مذہب کے اختلاف کی وجہ سے دنیا میں عذاب کسی پر نازل نہیں ہوتا۔ اس کا موافقہ قیامت کو ہوگا۔ دنیا میں محض شرارتوں اور شوخیوں اور کثرت گناہوں کی وجہ سے عذاب آتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ بعض صحیفوں میں بھی یہ خبر موجود ہے کہ مسیح موعود کے وقت طاغون پڑیگی۔ بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی انجیل میں یہ خبر دی ہے اور ممکن نہیں کہ بیوں کی پیشگوئیاں مل جائیں۔ اور نیز یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہمیں اس الہی وعدہ کے مقابل اس لئے انسانی تدبیروں سے پرہیز کرنا لازم ہے تا نشان الہی کو کوئی دشمن دوسری طرف منسوب نہ کرے لیکن اگر ساتھ اس کے خدا تعالیٰ اپنی کلام کے ذریعے سے خود کوئی تدبیر سمجھا دے یا کوئی دوا بتلا دے۔ تو ایسی تدبیر یا دوا اس نشان میں کچھ خارج نہیں ہوگی۔ کیونکہ وہ اس خدا کی طرف سے ہے جسکی طرف سے وہ نشان ہی کسی کو یہ وہم نہ گذرے کہ اگر شاذ و نادر کے طور پر ہماری جماعت میں بذریعہ طاغون کوئی فوت ہو جائے تو نشان کے قدر و مرتبہ میں کوئی خلل آئیگا۔ کیونکہ پہلے زمانوں میں موسیٰ اور یسع اور انور میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا کہ جن لوگوں نے تلوار اٹھائی اور صندھ انسانوں کے خون کئے انکو تلوار سے ہی قتل کیا جائے۔ اور یہ نہیں کیطرف سے ایک نشان تھا جس کے بعد فتح عظیم ہوئی۔ حالانکہ مقابل مجرموں کے اہل حق بھی انکی تلوار سے قتل ہوتے تھے مگر بہت کم۔ اور اس قدر نقصان سے نشان میں کچھ فرق نہیں آتا تھا۔ پس ایسا ہی اگر شاذ و نادر کے طور پر ہماری جماعت میں سے بعض کو باعث اسباب مذکورہ طاغون ہو جائے۔ تو ایسی طاغون نشان الہی میں کچھ بھی حرج انداز نہیں ہوگی۔ کیا یہ عظیم الشان نشان نہیں کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اس پیشگوئی کو ایسے طور سے ظاہر کرے گا کہ ہر ایک طالب حق کو کوئی شک نہیں رہے گا! وعدہ سمجھ جائے گا کہ مجرہ کے طور پر خدا نے اس جماعت سے سزا دیا ہے۔ بلکہ بطور

لے مسیح موعود کے وقت میں طاغون کا پڑنا نہیں کیونکہ اسکی کتاب میں موجود ہے سو کیوں نہ کیا گیا۔ انجیل میں ہے۔ کچھ فرق ہے

حسا اول

۱۴۰

ازالہ اوہام

حالانکہ وہ بجائے خود اپنے تئیں معذور سمجھتے تھے کیونکہ ان کی بائبل کے ظاہری الفاظ پر نظر تھی۔ افسوس کہ ہمارے مسلمان بھائی بھی اسی گرداب میں پڑے ہوئے ہیں اور حضرت مسیح کی نسبت یہودیوں کی طرح ان کے دلوں میں بھی یہ خیال جما ہوا ہے کہ ہم انہیں صحیح آسمان سے اترتے دیکھیں گے اور یہ عجوبہ ہم پر چشم خود دیکھیں گے کہ حضرت مسیح زرد رنگ کی پوشاک پہنے ہوئے آسمان سے اترتے چلے آئے ہیں اور انکے بائبل فرشتے ان کے ساتھ ہیں اور تمام بتاری لوگ اور دیہات کے آدمی ایک بڑے میلہ کی طرح اکٹھے ہو کر دوڑے سے ان کو دیکھ رہے ہیں اور

لیہ اختلافا کثیرا۔ قل لو اتبع اللہ اھواءکم لفسدت السموات والارض  
ومن فیہن ولبطلت حکمتہ وکان اللہ عزیزا حکیمًا۔ قل لو کان الجح  
مداد و لکھمات ربی لنفد البصر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثاب  
مداد۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ وکان اللہ غفورًا  
رحیمًا پھر اس کے بعد الہام کیا گیا کہ ان علماء نے میرے گھر کو بدل ڈالا۔ میری عبادت گاہ

میں ان کے چولے ہیں میری پرستش کی جگہ میں ان کے کپڑے اور ٹھوٹھیاں رکھی ہوئی ہیں اور  
چوہوں کی طرح میرے نبی کی حدیثوں کو کتر رہے ہیں ٹھوٹھیاں وہ چوٹی بیاباں میں جن کو ہندستان  
میں سکوریاں کہتے ہیں۔ عبادت گاہ سے مراد اس الہام میں نمازہ حال کے اکثر مولوں کے دل میں جو دنیا سے  
بھرے ہوئے ہیں اس جگہ بھی یاد آیا کہ جس روز وہ الہام مذکورہ بالا جس میں قاریاں میں نازل ہونے کا  
ذکر ہے ہوا تھا اس روز کشمیری طور پر میں نے دیکھا کہ میرے بھائی صاحب مرحوم میرزا غلام قادر میرے  
قریب بیٹھ کر آواز بلند قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے ان تورات کو پٹھا کر  
انا انزلنہ قرینا من القادیاں تو میں نے شکر بت تعجب کیا کہ کیا قاریاں کا نام بھی قرآن شریف  
میں لکھا ہوا ہے؟ تب انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو دیکھا تھا ہے نبی نے نظر ڈال کر یہ دیکھا تو معلوم ہوا کہ  
فی الحقیقت قرآن شریف کے دائرہ صلوٰۃ میں قاید قریب نصف کے موقع پر یہ الہامی عبارت لکھی ہوئی ہو  
ہے تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس واقعہ میں قاریاں کا نام قرآن شریف میں درج ہے اور میں نے کہا  
کہ تم مشہوروں کا نام انہوں کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے کہ اور مدینہ اور قادیان یکشف تھا

یہ حوالہ صفحہ 114 پر درج ہے

ازالہ اوہام صفحہ 77 حاشیہ مندرجہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 140 از مرزا قادیانی



## اطلاع

میں نے اپنا ارادہ یہ ظاہر کیا تھا کہ اس رسالہ اربعین کے چالیس اشتہار جدا جدا شائع کروں۔ اور میرا خیال تھا کہ میں صرف ایک ایک صفحہ کا اشتہار یا کبھی دو یا دو صفحہ یا بغایت کار دو صفحہ کا اشتہار شائع کرونگا اور یا کبھی شاید تین یا چار صفحہ لکھنے کا اتفاق ہو جائیگا۔ لیکن ایسے اتفاقات پیش آ گئے کہ اس کے برخلاف ظہور میں آیا۔ ہر نمبر دو اور تین اور چار رسالوں کی طرح ہو گئے۔ چنانچہ اس رسالہ کی قسریاً ستر صفحہ تک نوبت پہنچ گئی اور درحقیقت وہ امر پورا ہو چکا جس کا میں نے ارادہ کیا تھا اس لئے میں نے ان رسائل کو صرف چار نمبر تک ختم کر دیا اور آئندہ شائع نہیں ہوگا۔ جس طرح ہمارے خدائے عزوجل نے اول پچاس نمازیں فرض کیں پھر تخفیف کر کے پانچ کو بجائے پچاس کے قرار دے دیا۔ اسی طرح میں بھی اپنے رب کریم کی سنت پر ناظرین کے لئے تخفیف تصدیح کر کے نمبر چار کو بجائے نمبر چالیس کے قرار دے دیتا ہوں اور اپنی اس تحریر کو اپنی جماعت کے لئے چند نصیحتوں پر ختم کرتا ہوں۔

## نصائح

اے عزیزو! تم نے وہ وقت پایا ہے جس کی بشارت تمام نبیوں نے دی ہے اور اس شخص کو یعنی مسیح موعود کو تم نے دیکھ لیا جس کے دیکھنے کے لئے بہت سے پیغمبروں نے بھی خواہش کی تھی۔ اس لئے اب اپنے ایمانوں کو خوب مضبوط کرو اور اپنی راہیں درست کرو۔ اپنے دلوں کو پاک کرو اور اپنے مولیٰ کو راضی کرو۔ دوستو! تم اس مسافر خانہ میں بعض چند روز کے لئے ہو۔ اپنے اہلی گھروں کو

لیکچر سیالکوٹ

۲۰۷

روحانیت کی کیفیت ان میں پھونک دی اور پچھے خدا کے ساتھ ان کا تعلق پیدا کر دیا۔ وہ خدا کی راہ میں بکریوں کی طرح ذبح کئے گئے۔ اور چوٹیوں کی طرح پیروں میں کچلے گئے مگر ایمان کو ہاتھ سے نہ دیا۔ بلکہ ہر ایک نصیبت میں آگے قدم بڑھایا۔ پس بلاشبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روحانیت قائم کرنے کے لحاظ سے آدم ثانی تھے۔ بلکہ حقیقی آدم وہی تھے جن کے ذریعہ اور طفیل سے تمام انسانی فضائل کمال کو پہنچے اور تمام نیک قوتیں اپنے اپنے کام میں لگ گئیں اور کوئی شاخ فطرت انسانی کی بے بار و برب نہ رہی۔ اور ختم نبوت آپ پر نہ مرت زمانہ کے تاخر کی وجہ سے ہوا بلکہ اس وجہ سے بھی کہ تمام کمالات نبوت آپ پر ختم ہو گئے۔ اور چونکہ آپ صفاتِ اعلیٰ کے منظر اتم تھے اس لئے آپ کی شریعت صفتِ جہالیہ و جہالیہ دونوں کی حامل تھی۔ اور آپ کے دو نام محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی عرض سے ہیں۔ اور آپ کی نبوت عامہ میں کوئی حصہ نخل کا نہیں۔ بلکہ وہ ابتداء سے تمام دنیا کے لئے ہے۔ اور ایک اور دلیل آپ کے نبوتِ نبوت پر یہ ہے کہ تمام نبیوں کی کتابوں سے اور ایسا ہی قرآن شریف سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے آدم سے لیکر اخیر تک دنیا کی عمر سات ہزار برس رکھی ہے اور ہدایت اور گمراہی کے لئے ہزار ہزار سال کے دور مقرر کئے ہیں۔ یعنی ایک وہ دور ہے جس میں ہدایت کا غلبہ ہوتا ہے اور دوسرا وہ دور ہے جس میں ضلالت اور گمراہی کا غلبہ ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بیان کیا خدا تعالیٰ کی کتابوں میں یہ دونوں دور ہزار ہزار برس پر تقسیم کئے گئے ہیں۔ اول دور ہدایت کے غلبہ کا تھا۔ اس میں بت پرستی کا نام و نشان نہ تھا۔ جب یہ ہزار سال ختم ہوا تب دوسرے دور میں جو ہزار سال کا تھا طوع طرح کی بت پرستیاں دنیا میں شروع ہو گئیں اور شرک کا بازار گرم ہو گیا اور ہر ایک ملک میں بت پرستی نے جگہ لی۔ پھر تیسرا دور جو ہزار سال کا تھا اس میں توحید کی بنیاد ڈالی گئی اور جس قدر خدا نے چاہا دنیا میں توحید پھیل گئی۔ پھر ہزار چہارم کے دور میں ضلالت نمودار ہوئی۔ اور اسی ہزار چہارم میں سخت و رعبہ پر

ایک اور حدیث بھی مسیح ابن مریم کے فوت ہو جانے پر ولادت کرتی ہے اور وہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے فرمایا کہ آج کی تاریخ سے سو برس تک تمام بنی آدم پر قیامت آجائے گی اور یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ سو برس کے عرصہ سے کوئی شخص زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی بنا پر اکثر علماء و فقہاء اسی طرف گئے ہیں کہ خضر بھی فوت ہو گیا کیونکہ محض صراطی کے کلام میں کذب جائز نہیں مگر افسوس کہ ہمارے علماء نے اس قیامت سے بھی مسیح کو باہر رکھ لیا تعجب کہ اور بنی اسرائیل کے انبیاء کی نسبت مسیح کو کیوں زیادہ عظمت دی جاتی ہے۔ لفظ اسرائیل معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارے بھائی مسلمان کسی ایسے زمانہ سے کہ جب سے بہت سے عیسائی دین اسلام میں داخل ہوئے ہوں گے اور کچھ کچھ حضرت مسیح کی نسبت اپنے مشرکانہ خیالات ساتھ لائے ہوئے ہوں گے اس بے جا عظمت دینے کے عادی ہو گئے ہیں جس کو قرآن شریف تسلیم نہیں کرتا اس لئے خاص طور پر مسیح کی تعریف کے بارے میں ان میں حد موزوں سے زیادہ غلو پایا جاتا ہے۔ انصاف کی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ کتاب براہین احمدیہ میں خدا تعالیٰ نے اس عاجز کو آدم صغیر اللہ کا مشیل قرار دیا اور کسی کو علماء میں سے اس بات پر ذرا سنج دل میں نہیں گذرا اور پھر مشیل نوح قسار دیا اور کوئی رنجیدہ نہیں ہوا اور پھر مشیل یوسف علیہ السلام قرار دیا اور کسی مولوی صاحب کو اس سے غصہ نہیں آیا اور پھر مشیل حضرت داؤد علیہ السلام قرار دیا اور کوئی علماء میں سے رنجیدہ خاطر نہیں ہوا۔ اور پھر مشیل موسیٰ کے بھی اس عاجز کو چکارا تو کوئی فقہوں اور محدثوں میں مشتعل نہیں ہوا یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو مشیل ابراہیم بھی کہا تو کسی شخص نے ایک

حدیث نبوی کا یہ فقرہ کہ میں چالیس ہزار تک قبریں نہیں دیکھا۔ اس بات کی طرف اشارہ ہوا کہ اول چند روز گویا اسی مقدس آدمی ہو قبر سے اوپر عالم خلک سے ایک ایسا تھا جس کی رکتا ہے۔ کونہی خدات کی زیادتیوں کی وجہ سے اور کوئی نافرمانی سے اور پھر قسطنطنیہ میں حکم ہوا کہ گویا صاحب قبر قبرستان میں مل جاتا ہے اور وہ روح تو مرے کے بعد آتی ہے۔ ہاں تو قضا میں اپنے نفسی فتنے پر جا بھرتی ہے۔

حصہ دوم

۶۱۰

ازالہ اوہام

فمنعناہ کل من كان في صفتهم لقوله تعالى الا عبادك منهم المخلصين  
 یعنی عسلا مزخشری نے بخاری کی اس حدیث میں لکھ کر لیا ہے اور اس کی صحت میں اس کو شک  
 بنے اور کہا ہے کہ یہ حدیث معارض تشریح ہے اور فقط اس صورت میں صحیح تصور ہو سکتی ہے  
 کہ اس کے یہ معنی کئے جاویں کہ مریم اور ابن مریم سے مراد تمام ایسے لوگ ہیں جو ان کی صفت  
 پر ہوں۔ ماسوا اس کے حسب آیت کریمہ فبانی حدیث بعدہ یؤمنون اور حسب  
 آیت کریمہ فبانی حدیث بعد اللہ وایاتہ یؤمنون ہر ایک صورت جو صریح آیت  
 کے معارض پڑے رو کرنے کے لائق ہے اور آخری نصیحت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ  
 تھی کہ تم نے تمسک بکتاب اللہ کرنا۔ جیسا کہ بخاری کے صفحہ ۷۵۱ میں یہ حدیث مذکور ہے  
 کہ او صنی بکتاب اللہ۔ اسی وصیت پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے پھر  
 اسی بخاری کے صفحہ ۱۰۸۰ میں یہ حدیث ہے وهذا الكتاب الذي هدى الله به  
 رسولكم فخذوا به تهتدوا یعنی اسی قرآن سے تمہارے رسول نے ہدایت پائی ہے  
 سو تم بھی اسی کو اپنا رہنما پکڑو۔ تا تم ہدایت پاؤ۔ پھر بخاری کے صفحہ ۲۵۰ میں یہ حدیث  
 ہے ما عندنا شیء الا کتاب اللہ یعنی کتاب اللہ کے سوا ہمارے پاس اور کوئی چیز  
 نہیں جس سے باستقلال تمسک کر سکیں۔ پھر بخاری کے صفحہ ۱۸۳ میں یہ حدیث ہے  
 حسبكم القرآن یعنی تمہیں قرآن کافی ہے۔ پھر بخاری میں یہ بھی حدیث ہے  
 حسبنا عتب اللہ ما كان من شوط لیس فی عتب اللہ فهو باطل قضاء  
 اللہ الحق دیکھو صفحہ ۲۹۰ و ۳۳۸۔ اور یہی اصول حکم اللہ کبار کا ہے۔ چنانچہ توحید  
 میں لکھا ہے انما یورد خیر الواصل من معارضتنا العتب۔ پس جس صورت میں خواہ  
 جس میں حدیث بخاری و سلم بھی داخل ہیں بحالت معارضہ کتاب اللہ رو کرنے کے لائق  
 ہے۔ تو پھر کیا۔ ایمان داری ہے کہ اگر کسی آیت کا کسی حدیث سے تعارض معلوم ہو تو آیت  
 کے زیر و زبر کرنے کی فکر میں ہو جائیں اور حدیث کی تاویل کی طرف رخ بھی نہ کریں۔

۸۶: ۵۷ جاہلہ

یہ حوالہ صفحہ 115 پر درج ہے

ازالہ اوہام صفحہ 510 مندرجہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 610 از مرزا قادیانی

نے عظمت اور قبولیت انجی دنیا کے بعض حصوں میں پھیلا دی ہے۔ وہ درحقیقت خدا کی طرف سے ہیں اور ان کی آسمانی کتابوں میں گو دور دراز زمانہ کی وجہ سے کچھ تبدیل تفسیر ہو گئی ہو۔ یا ان کے معنی خلاف حقیقت سمجھے گئے ہوں۔ مگر دراصل وہ کتابیں منجانب اللہ اور عزت اور تعظیم کے لائق ہیں۔

ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے ملکوں کے انبیاء کی نسبت سوال کیا گیا تو آپ نے یہی فرمایا کہ ہر ایک ملک میں خدا تعالیٰ کے نبی گذرے ہیں اور فرمایا کہ كَانَ فِي الْهِنْدِ نَبِيًّا اسودا اللون اسْمُهُ كَاهِنًا یعنی ہند میں ایک نبی گذرا ہے جو سیاہ رنگ تھا اور نام اُس کا کاہن تھا یعنی کنھیہ جس کو کرشن کہتے ہیں۔ اور آپ سے پوچھا گیا کہ کیا زبان پارسی میں بھی کبھی خدا نے کلام کیا ہے۔ تو فرمایا کہ ہاں خدا کا کلام زبان پارسی میں بھی اترتا ہے۔ جیسا کہ وہ اُس زبان میں فرماتا ہے۔ "اِسْ مَشْتِ خَاك رَا كَرْنَه بَجَشْم چہ کنم" اور خدا نے قرآن شریف میں یہ بھی فرمایا ہے مِثْمَم مِّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّدُنْكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ یعنی جس قدر دنیا میں نبی گذرے ہیں بعض کا ان میں سے ہم نے قرآن شریف میں ذکر کیا ہے اور بعض کا ذکر نہیں کیا۔ اس قول سے مطلب یہ ہے کہ تا مسلمان حسن ظن سے کام لیں اور دنیا کے ہر ایک حصہ کے نبی کو جو گذر چکے ہیں عزت اور تعظیم سے دیکھیں اور بار بار قرآن شریف میں بھی ذکر کیا گیا ہے اس سے مقصود مسلمانوں کو یہ یقین دینا ہے کہ وہ دنیا کے کس حصہ کے ایسے نبی کی کسر شان نہ کریں جو ایک کثیر قوم نے اُس کو قبول کر لیا تھا۔ یہ اصول نہایت ہی پیارا اور دلکش اصول ہے اور مسلمان اسکے ساتھ جس قدر فخر کریں وہ بجا ہے کیونکہ دوسری قومیں بوجہ اس کے کہ اس اصول کی پابند نہیں دنیا کے اور انبیاء کی نسبت جو گذر چکے ہیں جن کی قبولیت کروڑھا لوگوں میں پھیل چکی ہے ادنیٰ ادنیٰ اختلاف کی وجہ سے زبان درازی کے لئے

حصہ اول

۳۱۴

ازالہ اوہام

پیدا ہونے کی وجہ سے ہوا کا پوتا ہی تھا اس وجہ سے اس کا نام سیلا ہی رکھ دیا گیا۔  
 اسی تورات پریداش باب آیت پنڈہ میں حضرت یعقوب کی یہ دعا ذکر کی ہے کہ اس  
 نے یوسف کے لئے برکت چاہی اور یوسف کے لڑکوں کے لئے دعا کر کے کہا کہ وہ خدا  
 جس نے ساری عمر آج کے دن تک میرے پاس بانی کی ان بوانوں کو برکت دی ہے اور  
 یومیہ اور میرے باپ دادوں ابراہام اور اسحاق کا نام ہے سو ان کا رکھا جاوے۔ پس  
 اللہ جل شانہ کی اس عادت قدیمہ سے انکار نہیں ہو سکتا کہ وہ روحانی مناسبت کی وجہ  
 سے جو ایک کا نام ہے وہ دوسرے کا رکھ دیتا ہے۔ ابراہیمی المشریب اس کے نزدیک  
 ابراہیم ہے اور یوسوی المشریب اس کے نزدیک یوسوی ہے اور عیسوی المشریب اس کے  
 نزدیک عیسیٰ ہے اور جو ان تمام مشربوں سے حصہ رکھتا ہے وہ ان تمام ناموں کا مصداق  
 ہے۔ ہاں اگر کوئی امر بحث کے لائق ہے تو یہ ہے کہ ابن مریم کے لفظ کو اس کے ظاہری اور  
 متبادر معنوں سے کیوں پھیرا جاوے؟ تو اس کا یہ جواب ہے کہ جو قریہام قرینہ تو یہ کے  
 کیونکہ قرآن کریم اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوضاحت ناطق ہے کہ مسیح  
 ابن مریم رسول اللہ جہاں سچا ہوا اور خدا تعالیٰ کی طرف اُٹھایا گیا اور اپنے بھائیوں میں  
 جا ملا۔ اور رسول مقبول نبی آخر الزماں نے اپنی معراج کی رات میں بھی نبی شہید کے ساتھ  
 دوسرے آسمان میں اس کو دیکھا یعنی گزشتہ اور وفات یافتہ لوگوں کی جماعت میں اس  
 کو پایا۔ قسآن کریم اور احوال و بشارت بتواتر دوسرے رہی ہیں کہ مثیل ابراہیم  
 اور دوسرے مثیل عیسیٰ ہیں مگر کسی جگہ یہ نہیں لکھا کہ کوئی گزشتہ اور وفات یافتہ نبی  
 بھی پھر دنیا میں آجائے گا۔ لہذا یہ بات بیداشت ثابت ہے کہ ابن مریم کو وہ دن موم  
 رسول اللہ مراد نہیں ہے جو فوت ہو چکا اور فوت شدہ جماعت میں جا ملا اور خدا تعالیٰ  
 کی اس حکمت عجیبہ پر بھی نظر ڈالو کہ اس نے آج سے قریباً دس برس پہلے اس عاجز  
 کا نام عیسیٰ رکھا اور بتولوق و قنیل خود براہین میں چھپوا کر ایک عالم میں اس نام کو مشہور کر دیا۔

بھائیوں کیوں کہیںے بن کر یہودہ باتیں کرتے ہو اور ناحق اپنے ذمہ گناہ لیتے ہو۔  
 خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس مسیح ابن مریم کو مار چکا ہوا اسرائیلی نبی تھا جس پر انجیل نازل  
 ہوئی تھی۔ اب یہ لفظ اپنے گھر سے مدیثوں میں زیادہ مت آکر کہ وہی مسیح فوت شدہ پھر آئیگا۔  
 اسے خدا کے بندو کچھ تو خدا سے ڈرو۔ کیا خدا تعالیٰ آپ کے نزدیک اس بات پر قادر نہیں  
 کہ وہ اپنے ایک بندو میں ایک ایسی روح ڈال دے جس سے وہ ابن مریم کے روپ میں ہی ہو جائے  
 کیا اس کی مثالیں خدا تعالیٰ نے کی کتابوں میں نہیں کہ اس نے ایک نبی کا نام دوسرے پر رکھ دیا  
 کیا حدیثوں میں مذکور نہیں کہ شیل ابن مریم وغیرہ اس اُمت میں پیدا ہوں گے تو پھر  
 جب قرآن مسیح ابن مریم کو مارتا ہے اور حدیثیں شیل ابن مریم کے آنے کا وعدہ دیتی ہیں  
 تو اس صورت میں کیا اشکال باقی رہا۔ کیا اس میں کچھ جھوٹ ہے کہ جو ابن مریم کی سیرت رکھتا  
 ہے وہ ابن مریم ہی ہے۔

در آں ابن مریم خدائی نبود	ز موت ز فو تشس ر ہائی نبود
رہا کرد خود راز شرک و دوتی	تو ہم کن چنیں ابن مریم توتی

اسے مولوی صاحبان فضولی کو چھوڑو اور مجھے کوئی ایک ہی حدیث ایسی دکھاؤ کہ جو  
 مسیح ہو اور جو مسیح کا خاکی جسم کے ساتھ پیدا ہوا یا جانا اور اب تک آسمان پر زبرہ ہونا ثابت  
 کرتی ہو اور تو اتر کی حد تک پہنچی ہو اور اس مقدار ثبوت تک پہنچی ہو جو عند عقل مفیدین قطعی  
 ہو جائے اور صرف شک کی حد تک محدود نہ رہے آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی تمام آیات بیتہ  
 کیسی مفید یقین ہیں۔ اب جبکہ ہمارا دعویٰ جسی بر نفوس بیتہ قرآنہ ہی اور اسکی تائید میں صحیح حدیثیں بھی  
 ہمارے پاس ہیں اور ایسا ہی اقوال سلف و خلف بھی ہماری تائید میں کچھ تھوڑے نہیں اور الہامی شہادتوں کے  
 انصاف کے ترازو لے کر بیٹھ جاؤ اور ایک پلٹ میں اپنے خیالات رکھو اور دوسرے پلٹ میں  
 ہماری یہ سب وجوہات۔ اور آپ ہی انصاف کرو۔ خوب سوچ لو کہ اگر ہمارے پاس صرف  
 نفوس قرآن کریم ہی ہوتیں تو فقط وہی کافی تھیں۔ اب جس حالت میں بعض حدیثیں بھی ان


۲۰۲

اربعین نمبر ۳

اور کر سوچو جس قدر چاہو پھر یاد رکھو کہ عنقریب خدا تمہیں دکھلا دے گا کہ اُس کا ہاتھ غالب ہے۔ نادان کہتا ہے کہ میں اپنے منصوبوں سے غالب ہو جاؤں گا۔ مگر خدا کہتا ہے کہ اے لعنتی دیکھ میں تیرے سارے منصوبے خاک میں ملا دوں گا۔ اگر خدا چاہتا تو ان مخالف مولویوں اور ان کے پیروؤں کو آنکھیں بخشتا اور وہ ان وقتوں اور موقعوں کو پہچان لیتے جن میں خدا کے مسیح کا آنا ضروری تھا۔ لیکن ضرور تھا کہ قرآن شریف اور احادیث کی وہ پیشگوئیاں پوری ہوتیں جن میں لکھا تھا کہ مسیح موعود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھ اٹھائیں گے۔ وہ اس کو گافر قرار دیں گے اور اس کے قتل کے لئے فتوے دیئے جائیں گے اور اس کی سخت توہین کی جائیگی اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا۔ سو ان دنوں میں وہ پیشگوئی انہی مولویوں نے اپنے ہاتھوں سے پوری کی۔ افسوس یہ لوگ سوچتے نہیں کہ اگر یہ دعویٰ خدا کے امر اور ارادہ سے نہیں تھا تو کیوں اس مدعی میں پاکہ اور صادق بیوں کی طرح بہت سے سچائی کے دلائل جمع ہو گئے؟ کیا وہ رات ان کیلئے ماتم کی رات نہیں تھی جس میں میرے دعوے کے وقت رمضان میں خسوف کسوف جن مشکوٰۃ کی تاریخوں میں وقوع میں آیا۔ کیا وہ دن ان پر مصیبت کا دن نہیں تھا جس میں بیکرم کی نسبت پیشگوئی پوری ہوئی۔ خدانے بارش کی طرح نشان برمائے مگر ان لوگوں نے آنکھیں بند کر لیں تا ایسا نہ ہو کہ دیکھیں اور ایمان لائیں۔ کیا یہ سچ نہیں کہ یہ دعویٰ غیر وقت پر نہیں بلکہ عین صدی کے سر پر اور عین ضرورت کے دنوں میں ظہور میں آیا۔ اور یہ امر قدیم سے اور جب سے کہ بنی آدم پیدا ہوئے سنت اللہ میں داخل ہے کہ عظیم الشان مصلح صدی کے سر پر اور عین ضرورت کے وقت میں آیا کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد ساتویں صدی کے سر پر جبکہ تمام دنیا تاریکی میں پڑی تھی ظہور فرما ہوئے اور جب سات کو دگن کیا جائے

۶۲





ہے جس کی ایک آیت سکر ایک لاکھ صحابہ نے سر جھکا دیا تھا۔ اور بلا توقف مان لیا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام نبی عیسیٰ وغیرہ فوت ہو چکے ہیں اور اب وہی قرآن ہے جو بار بار نپ لوگوں کے روبرو پیش کیا جاتا ہے اور آپ لوگوں کو کچھ بھی اس کی پروا نہیں۔ آپ لوگ میری بڑی بڑی کتابوں کو تو نہیں دیکھتے اور فرصت کہاں ہے۔ لیکن اگر میرے رسالہ تحفہ گوٹڑویہ اور تحفہ غزنویہ کو ہی دیکھو جو پیر مہر علی شاہ اور غزنوی جماعت مولوی عبد الجبار و عبد الواحد و عبد الحق وغیرہ کی ہدایت کے لئے لکھی گئی ہیں جن کو آپ لوگ صرف دو گھنٹہ کے اندر بہت غور اور تامل سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہو جائیگا کہ مسیح کی نسبت قرآن کیا کہتا ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ اس قدر حیات مسیح پر جو آپ زور دیتے ہیں یہ بر خلاف منشاء کلام الہی ہے۔ بے عزیزو! یاد رکھو کہ جو شخص آنا تھا آچکا اور صدی جس کے سر پر مسیح موعود آنا چاہیے تھا اس میں سے بھی سترہ برس گزر گئے اور اس صدی میں جس پر امت کے اولیاء کی نظریں لگی ہوئی تھیں۔ اس میں بقول تمہارے ایک چھوٹا سا مجدد بھی پیدا نہ ہوا اور محض ایک دجال پیدا ہوا۔ کیا ان شوخیوں کا حضرت عزت کی درگاہ میں جواب دینا نہیں پڑیگا۔ گو کیسے ہی دل سخت ہو گئے ہیں آخر اس قدر تو خوف چاہیے تھا کہ جو شخص صدی کے سر پر پیدا ہوا اور رمضان کے کسوف خسوف نے اس کی گواہی دی اور اسلام کے موجودہ ضعیف اور دشمنوں کے متواتر حملوں نے اس کی ضرورت ثابت کی اور انبیاء گذشتہ کے کسوف نے اس بات پر قطعی ثمر لگا دی کہ وہ چودھویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا اور نیز یہ کہ پنجاب میں ہوگا ایسے شخص کی تکذیب میں جلدی نہ کرتے۔ آخر ایک دن مرنا ہے اور

کی مددگار میں جواب دینا نہیں پڑے گا؟ گو کیسے ہی دل سخت ہو گئے ہیں آخر اس قدر تو خوف چاہیے تھا کہ جو شخص صدی کے سر پر پیدا ہوا اور رمضان کے کسوف خسوف نے اس کی گواہی دی اور اسلام کے موجودہ ضعف اور دشمنوں کے متواتر حملوں نے اس کی ضرورت ثابت کی اور ادلیا گذشتہ کے کسوف نے اس بات پر قطعی پھر نگاہی کہ وہ چودھویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا اور نیز یہ کہ پنجاب میں ہوگا ایسے شخص کی تکذیب میں جلدی نہ کرتے۔ آخر ایک دن مرنا ہے اور سب کچھ اسی جگہ چھوڑ جانا ہے۔ دیکھو اگر میں خدا کی طرف سے ہوا اور تم نے میری تکذیب کی اور مجھے کافر قرار دیا اور دجال نام رکھا تو جناب الہی کو کیا جواب دو گے؟ کیا انہی کی مانند جواب ہیں جو یہودیوں اور عیسائیوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کرنے کے وقت اپنی کتابوں میں لکھے ہیں کہ تو بیت کے تمام نشان قرار دانا پورے نہیں ہوئے اور کچھ رہ گئے ہیں۔ موت مدت ہوئی کہ خدا تعالیٰ ان کو جواب دے چکا کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے وہ سب کچھ صحیح نہیں ہے اور نہ وہ تمام صحیح ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ جو شخص حکمِ کر کے بھیجا گیا ہے اس کی بات کو سنو۔ سو یہی جواب خدا تعالیٰ کی طرف سے اب ہے چاہو تو قبول کرو۔ آہ آپ لوگوں کو چاہیے تھا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے قصے سے عبرت لے کر اتنے ان لوگوں کی حضرت مسیح اور حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہی حجت تھی کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک تمام علامتیں پوری نہ ہوں اور بوجہ زمانہ دراز بعد انواع تغیرات کے یہ غیر ممکن تھا اس لئے وہ کفر پر مرے۔ سو تم اسی طرح ٹھوکر مت کھاؤ۔ جو یہودی انہ نصرانی کھا چکے۔ اگر تمہارا ذخیرہ سب کا سب صحیح ہوتا تو پھر حکمِ مجدد کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہر ایک فرقہ کو یہی خیال ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہی صحیح ہے۔ اب یہ تمام فرقے تو سچ پر نہیں۔ اس لئے سچ وہی ہے جو حکم کے منہ سے نکلے۔ اگر ایمان ہو تو خدا کے مقرر کردہ حکم کے حکم سے بعض حدیثوں کا چھوڑنا یا

حصہ خیم

۲۵۹

ضمیمہ برائیں احمدیہ

عظی علیہ السلام حضرت موسیٰ سے چودھویں صدی میں پیدا ہوئے تھے۔ میں بھی آنحضرت ﷺ کے زمانہ کے زمانہ سے چودھویں صدی میں ظاہر ہوئے ہوں اور اس آخری زمانہ کی نسبت خدا تعالیٰ نے سنے قرآن شریف میں یہ خبریں بھی دی ہیں کہ کتابیں اور رسالے بہت سے دنیا میں شائع ہو جائیں گے اور قوموں کی باہمی ملاقات کے لئے راہیں کھل جائیں گی۔ اور دریاؤں میں سے بکثرت نہریں نکلیں گی۔ اور بہت سی نئی کانیں پیدا ہو جائیں گی۔ اور لوگوں میں مذہبی امور میں بہت سے تنازعات پیدا ہونگے۔ اور ایک قوم دوسری قوم پر حملہ کرے گی۔ اور اسی اشارہ میں ان سے ایک مٹور بھونکی جائیگی۔ یعنی خدا تعالیٰ مسیح موعود کو بھیج کر اشاعت دین کے لئے ایک بجلی فرمائیگا۔ تب دین اسلام کی طرف ہر ایک ملک میں سعید الفطرت لوگوں کو ایک رغبت پیدا ہو جائیگی۔ اور جس حد تک خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے تمام زمین کے سعید لوگوں کو اسلام پہنچ کرے گا۔ تب آخر ہوگا۔ سو یہ تمام باتیں ظہور میں آئیں۔ ایسا ہی احادیث صحیحہ میں آیا تھا کہ وہ مسیح موعود صدی کے سر پر آئیگا۔ اور وہ چودھویں صدی کا مجدد ہوگا۔ سو یہ تمام علامات بھی اس زمانہ میں پوری ہو گئیں۔ اور نکھاتا تھا کہ وہ اپنی پیدائش کی رو سے دو صدیوں میں اشتراک رکھے گا۔ اور دو نام پائے گا۔ اسی

ہوا تھا کہ یہ انہوں نے غلطی کی ہے۔ یہودیوں کی تاریخ سے بالاتفاق ثابت ہے کہ یسوع یعنی حضرت عیسیٰ مسیح کے بعد چودھویں صدی میں ظاہر ہوا تھا اور وہی قول صحیح ہے اگرچہ مشابہت کے ثابت کرنے کیلئے پوری مشابہت ضروری نہیں ہوا کرتی جیسا کہ اگر کسی کو کسی کو کہیں کہ یہ شیر ہے تو یہ ضروری نہیں کہ شیر کا اس کے پنجے اور کھال ہو اور دم بھی ہو اور کونو بھی شیر کا لہجہ رکھتا ہو بلکہ ایک شخص کو دوسرے کا شکل میں ایک حد تک مشابہت کافی ہوتی ہے پس اگر عیسائیوں کا قول تو یہاں کہیں کہ حضرت عیسیٰ آنحضرت ﷺ کے بعد چودھویں صدی میں ہوئے تھے تاہم مضائقہ نہیں کہ چودھویں صدی میں عیسیٰ موعود کا ہونا مستند فرقہ نماہ کا مشابہت میں کچھ حرج نہیں پڑتا مگر یہودیوں کے قول کو ترجیح دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یسوع یعنی حضرت عیسیٰ آنحضرت ﷺ کے بعد چودھویں صدی میں ہی فوت ہوا تھا کیونکہ ان کے ہاتھ میں ہرانی تورات، یہ نسبت عیسائیوں کے تراجم کے صحیح ہے۔ منظر

۱۹

لوگوں کی غلطی ثابت ہوتی ہے جو خواہ مخواہ حضرت عیسیٰ کو دوبارہ دنیا میں لاتے ہیں اور وہ حقیقت جو الیاس نبی کو دوبارہ آنے کی تھی جو خود حضرت عیسیٰ کے بیان سے کھل گئی، اس سے کچھ عبرت نہیں پکڑتے بلکہ جس آنے والے کیسے ہو خود کا حدیثوں سے پتہ لگتا ہے۔ اس کا انہیں حدیثوں میں یہ نشان دیا گیا ہے کہ وہ نبی بھی ہو گا اور امتی بھی۔ مگر کیا مریم کا بیٹا امتی ہو سکتا ہے؟ کون ثابت کرے گا کہ اس نے بڑا و راست نہیں بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے درجہ نبوت پایا تھا؟ ہذا حق الحق وان تو کو اقل تعالو اندع ایتنا و ایتنا کف و نساء ناء و نساء کف و انفسنا و انفسکم ثم متہل فنجعل لحنہ اللہ علی الکاذبین۔ اور ہزار کوشش کی جائے اور تاویل کی جائے یہ بات بالکل غیر معقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی آئیگا اور اگر جب لوگ نماز کیلئے مسابہ کی طرف دوڑیں تو وہ کھینچا کی طرف بھاگے گا۔ اور جب لوگ قرآن شریف پڑھیں گے تو وہ انجیل کھول پیٹھے گا اور جب لوگ عبادت کے وقت بیت اللہ کی طرف منکرینگے تو وہ بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو گا اور شراب پیئے گا اور سور کا گوشت کھائے گا اور اسلام کے حلال و حرام کی کچھ پروا نہیں رکھیگا۔ کیا کوئی عقل تجویز کر سکتی ہے کہ اسلام کے لئے یہ مصیبت کا دن بھی آتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی بھی آئے گا کہ جو مستقل نبوت کی وجہ سے آپ کی ختم نبوت کی ٹہر کو توڑ دے گا۔ اور آپ کی فضیلت خاتم الانبیاء ہونے کی چھین لیگا۔

آج حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے کا مسئلہ عیسائیوں نے محض اپنے فائدہ کے لئے گھڑا تھا کیونکہ ان کی پہلی آمد میں ان کی خدائی کا کوئی نشان ظاہر نہ ہوا۔ ہر دفعہ مار کھاتے رہے۔ کمزوری دکھلاتے رہے۔ پس یہ عقیدہ پیش کیا گیا کہ آمد ثانی میں وہ خدائی کا جلوہ دکھائیں گے اور پہلی کسر میں نکالیں گے۔ تا اس طرح پہلی آمد کے حالات کی پرندہ پوشی کی جائے۔ مگر اب وہ زمانہ آنا جاتا ہے کہ خود عیسائی ایسے عقائد سے منحرف ہوتے جاتے ہیں۔ میں یقین کرتا ہوں کہ جب انہی عقلیں ترقی کر سکیں تو وہ بہت آسانی سے اس عقیدے کو چھوڑ دیں گے۔ اور جیسا کہ بچہ پورا تیار ہو کر پھر رحم میں نہیں رہ سکتا اسی طرح وہ بھی مشیمہ حجاب اور جہل سے باہر آ جائیں گے۔ منہ

حقیقۃ الوحی

۵۲۱

تتر

اس کے نور کو نابود نہ کر سکی۔ سو خدا نے جو ہر ایک کام نرمی سے کرتا ہے اس زمانہ کے لئے سب سے پہلے میرا نام عیسیٰ ابن مریم رکھا کیونکہ ضرور تھا کہ میں اپنے ابتدائی زمانہ میں ابن مریم کی طرح قوم کے ہاتھ سے دکھ اٹھاؤں اور کافر اور ملعون اور دجال کہلاؤں اور عدالتوں میں کھینچا جاؤں سو میرے لئے ابن مریم ہونا پہلا زینہ تھا مگر میں خدا کے دفتر میں صرف عیسیٰ ابن مریم کے نام سے موسوم نہیں بلکہ اور بھی میرے نام ہیں جو آج سے چھبیس برس پہلے خدا تعالیٰ نے براہین احمدیہ میں میرے ہاتھ سے لکھا لیتے ہیں اور دنیا میں کوئی نبی نہیں گذرا جس کا نام مجھے نہیں دیا گیا۔ سو جیسا کہ براہین احمدیہ میں خدا نے فرمایا ہے۔ میں آدم ہوں۔ میں نوح ہوں۔ میں ابراہیم ہوں۔ میں اسحاق ہوں۔ میں یعقوب ہوں۔ میں اسمعیل ہوں۔ میں موسیٰ ہوں۔ میں داؤد ہوں۔ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یعنی بروزی طور پر جیسا کہ خدا نے اسی کتاب میں یہ سب نام مجھے دیئے اور میری نسبت جدی اللہ فی حلال الانبیاء فرمایا یعنی خدا کا رسول نبیوں کے پیراؤں میں۔ سو ضرور ہو کہ ہر ایک نبی کی شان مجھ میں پائی جاوے اور ہر ایک نبی کی ایک صفت کا میرے ذریعے سے ظہور ہو مگر خدا نے یہی پسند کیا کہ سب سے پہلے ابن مریم کے صفات مجھ میں ظاہر کرے۔ سو میں نے اپنی قوم سے وہ سب دکھ اٹھائے جو ابن مریم نے یہود سے اٹھائے بلکہ تمام قوموں سے اٹھائے۔ یہ سب کچھ ہوا مگر پھر خدا نے کہ صلیب کے لئے میرا نام مسیح قائم رکھا تا جس صلیب نے مسیح کو توڑا تھا اور اسکو زخمی کیا تھا دوسرے وقت میں مسیح اسکو توڑے مگر آسمانی نشانوں کے ساتھ نہ انسانی ہاتھوں کے ساتھ کیونکہ خدا کے نبی مغلوب نہیں رہ سکتے۔ سو سنہ عیسوی کی بیسیوں صدی میں پھر خدا نے ارادہ فرمایا کہ صلیب کے مسیح کے ہاتھ سے مغلوب کرے۔ لیکن جیسا کہ میں ابھی بیان کر چکا ہوں مجھ اور نام بھی دیئے گئے ہیں اور ہر ایک نبی کا مجھے نام دیا گیا ہے چنانچہ جو خاک ہند میں کرشن نام ایک نبی گذرا ہو جس کو زور گو پال بھی کہتے ہیں (یعنی فنا کر نیوالا اور پرورش کر نیوالا) اس کا نام بھی مجھے دیا گیا ہو پس جیسا کہ آریہ قوم کے لوگ کرشن کے ظہور کا ان دنوں میں انتظار کرتے ہیں وہ کرشن میں ہی ہوں

یہ حوالہ صفحہ 120 پر درج ہے

حقیقت الوحی صفحہ 86 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 521، 522 از مرزا قادیانی

اور یہ دعویٰ صرف میری طرف سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ نے بار بار میرے پر ظاہر کیا ہے کہ جو کرشن آخری زمانہ میں ظاہر ہونے والا تھا وہ تو ہی ہے آریوں کا بادشاہ۔ اور بادشاہت سے مراد صرف آسمانی بادشاہت ہے۔ ایسے لفظ خدا کے کلام میں آجاتے ہیں مگر معنی روحانی ہوتے ہیں۔ سو میں اس تصدیق کے لئے کہ وہی کرشن آریوں کا بادشاہ میں ہوں دہلی کے ایک اشتہار کو جو بالکنز نام ایک پنڈت نے ان دنوں میں شائع کیا ہے مع ترجمہ حاشیہ میں لکھنا ہوں جس سے معلوم ہوگا کہ آریہ ورت کے محقق پنڈت بھی کرشن اوتار کا زمانہ ہی قرار دیتے ہیں اور اس زمانہ میں اسے آنے کے منتظر ہیں گو وہ لوگ ابھی مجھ کو شناخت نہیں کرتے مگر وہ زمانہ آتا ہے بلکہ قریب ہے کہ

## شری نشکلنگ بھگوان کا اوتار

(شری ہمنوگان جی کی جے)

سنساری پرشوں کو دت ہو کر آجکل جیسے جیسے اوپر وہ ہمارے دیش میں ہو رہے ہیں وہ سب کو معلوم ہی ہیں مثلاً استر لوں کا بیوہ ہونا اور ساتھ ہی ان بڑی باتوں کا بھی ہونا جن کو بچہ بچہ جانتا ہو اور گھی اور غلہ وغیرہ کا اس قدر گراں ہونا اور علاوہ اسکے سینکڑوں قسم کی مصیبتیں ہمارے آریہ ورت پر آئی ہوئی ہیں جن کا ذکر بیاق سے باہر ہے یہ آپ لوگوں کو خوب روشن ہو کر جو طاقت آپ کے پاس و دادا میں تھی وہ اب آپ میں کہاں۔ اور آپ میں جو وصلہ طاقت و بدھی ہے وہ آپ کی اولاد میں ہے یا کچھ آئندہ ہو جانے کی امید ہو۔ بس اے بھنو! اگر آپ لوگوں کو اس مہاکشٹ سے چھٹنے کی خواہش ہو اور نیا کار و سا کار کی ایکتا اور پر ماتما میں پریم اور بھگتی بڑھانے کی خواہش ہو تو شری نشکلنگ جی مہاراج کا ضرور سمرن و دھیان کیجئے۔ کیونکہ ایشور پر ماتما ہمیشہ بھگتوں کے بس میں ہوتے ہیں۔ ان کو اپنے بھگتوں کو سکھانے کی ہی اچھا یعنی خواہش رہتی ہے وہ ضرور پرگھٹ ہو کر حال میں ہی ان سب اویدروں اور دشتوں کو ناس کر دیں گے۔ اگر کسی سجن کو یہ خیال ہوئے کہ ابھی کلجنگ کا پرتمہ چرن ہی ہے اور مہاراج جی کا ہنر کلجنگ کے انت میں لکھا ہو تو آپ غور کیجئے کہ اس سے زیادہ اور کیا کلجنگ پر تیت ہو گا کہ استریاں اپنے پیسوں کو چھوڑ کر دوسروں پر نگاہ رکھیں۔ اور اولاد اپنے والدین کی وفاداری میں نہ رہیں۔ اور والدین اپنی اولاد کو اولاد کی طرح نہ سمجھیں۔ یہاں تک کہ آجکل سب ہی چیزیں اپنے اپنے دھرموں سے پھری ہوئی ہیں۔ اب کوئی صاحب یہ فرمادیں کہ ابھی شاسترہ دارا

کی طرف چھا جا کہ یہ شریر یہودی تیری نسبت بدارادے رکھتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ایسا کر جو ابن ملکوں سے دور نکل جاتا تجھ کو شناخت کر کے یہ لوگ دکھ نہ دیں۔ اب دیکھو۔ اس حدیث اور مریم عیسیٰ کا نسخہ اور کشمیر کے قبر کے واقعہ کو باہم ملا کر کسی صاف اصیلت اس مقولہ کی ظاہر ہو جاتی ہے۔ کتاب سوانح یوز آصف جس کی تالیف کو ہزاروں سال سے زیادہ ہو گیا ہے اس میں صاف لکھا ہے کہ ایک نبی یوز آصف کے نام سے مشہور تھا اور اس کی کتاب کا نام انجیل تھا۔ اور پھر اسی کتاب میں اس نبی کی تعلیم لکھی ہے۔ اور وہ تعلیم مسئلہ تثلیث کو لگا رکھ کر عینہ انجیل کی تعلیم ہے۔ انجیل کی مشائخ اور بہت سی عبارتیں اس میں عینہ درج ہیں۔ چنانچہ پڑھنے والے کو کچھ بھی اس میں شک نہیں رہ سکتا کہ انجیل اور اس کتاب کا مولف ایک ہی ہے اور طرفہ تر یہ کہ اس کتاب کا نام بھی انجیل ہی ہے۔ اور استعارہ کے رنگ میں یہودیوں کو ایک ظالم باپ قرار دے کر ایک لطیف قصہ بیان کیا ہے جو عمدہ نضار سے پڑے۔ اور مذت ہونی کہ یہ کتاب یورپ کی تمام زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے اور یورپ کے ایک حصہ میں یوز آصف کے نام پر ایک گرجا بھی طیار کیا گیا ہے۔ اور جب میں نے اس قصہ کی تصدیق کے لئے ایک معتبر مرید اپنا جو خلیفہ نور الدین کے نام سے مشہور ہیں کشمیر سری نگر میں بھیجا تو انہوں نے کئی بیٹے رہ کر بڑی آہستگی اور تدبیر سے تحقیقات کی۔ آخر ثابت ہو گیا کہ فی الواقعہ صاحب قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں۔ جو یوز آصف کے نام سے مشہور ہوئے۔ یوز کا لفظ یسوع کا بڑا ہوا یا اس کا مخفف ہے اور آصف حضرت مسیح کا نام تھا جیسا کہ انجیل سے ظاہر ہے جس کے معنی میں یہودیوں کے متفرق فرقوں کو تلاش کرنے والا یا اٹھے کرنے والا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کشمیر کے بعض باشندے اس قبر کا نام عیسیٰ صاحب کی قبر بھی کہتے ہیں۔ اور انکی پورانی تالیفوں میں لکھا ہے کہ یہ ایک نبی شہزادہ ہے جو بلادِ شام کی طرف سے آیا تھا۔ جس کو قرینا ایس سورس آنے ہوئے گئے اور ساتھ اس کے بعض شاگرد تھے۔ اور وہ گویا سلیمان پر عبادت کرتا رہا۔ اور اس کی عبادت گاہ پر ایک کتبہ تھا جس کے یہ لفظ تھے کہ یہ ایک شہزادہ نبی ہے جو بلادِ شام



وَدَجَدَكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آہ  
 نبیوں کی طرح ظاہری علم کسی استاد سے نہیں پڑھا تھا۔ مگر حضرت عیسیٰ اور حضرت مومنے  
 مکتبوں میں بیٹھے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ نے ایک یہودی استاد سے تمام تورات پڑھی تھی۔  
 غرض اسی لحاظ سے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی استاد سے نہیں پڑھا خدا آپ  
 ہی استاد ہوا۔ اور پہلے پہل خدا نے ہی آپ کو اِقْدَعُوْا کہا۔ یعنی پڑھ۔ کہہ رہی تھی کہ  
 اس لئے آپ نے خاص خدا کے زیر تربیت تمام دینی ہدایت پائی اور دوسرے نبیوں کے دینی  
 سلومات انسانوں کے ذریعہ سے بھی ہوئے۔ سو آنے والے کا نام جو ہدی رکھا گیا۔ سو  
 اس میں یہ اشارہ ہے کہ وہ آنے والا علم دین خدا سے ہی حاصل کریگا۔ اور قرآن اور حدیث  
 میں کسی استاد کا شکر نہیں ہوگا۔ سو میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میرا حال یہی حال ہے۔  
 کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا  
 ہے۔ یا کسی مفسر یا محدث کی شکر دی اختیار کی ہے۔ پس یہی ہدایت ہے جو نبوت محمدیہ  
 کے منہاج پر مجھے حاصل ہوئی ہے۔ اور امراہ دین بلا واسطہ میرے پر کھولے گئے۔ اور  
 جس طرح مذکورہ بالا وجہ سے آنے والا ہدی کہلائے گا اسی طرح وہ مسیح بھی کہلائیگا کیونکہ  
 اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت بھی اثر کرے گی۔ لہذا وہ عیسیٰ ابن مریم بھی  
 کہلائیگا اور جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت اپنے خاصہ ہدایت کو اس کے اندر چھونکا۔

یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہدی بھی ہے اس لئے خدا نے ہدی نام رکھا کہ اصل عبودیت کا خضوع اور ذل ہے اور  
 عبودیت کی حالت کا لہ وہ ہے جس میں کسی جسم کا غلظت اور ہندی اور عجیب نہ رہے اور صاحب اس حالت کا اپنی عملی  
 تکمیل محض خدا کی طرف دیکھے۔ اور کوئی ہاتھ درمیان نہ دیکھے۔ عرب کا محاورہ ہے کہ وہ کہتے ہیں مودر

نوٹ:۔۔۔ یہ مرتبہ عبودیت کا جو انسان اپنی عملی تکمیل محض خدا تعالیٰ کی طرف سے دیکھے بجز اس ہدی کالی کی جس کی عملی تکمیل تمام  
 دکنل محض خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے ہوئی ہو دوسرے کو میسر نہیں آسکتا کیونکہ اپنی جو چیز اور ادا کو بخش کا اثر ہر ایک  
 ایسا خیال پیدا کرتا ہے کہ جو عبودیت نامہ کے منافی ہے۔ اس لئے مرتبہ عبودیت کا لہ بھی بوجہ اس کے جو مرتبہ ہدایت کامل  
 کے تابع ہے بجز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دوسرے کو بوجہ مکمل حاصل نہیں۔ ذلک فضل اللہ یؤتیہ  
 من یشاء فاشہدوا اننا نشہد ان محمدًا عبد اللہ ورسولہ۔ منہاج

۳۰۷  
کے لئے ضروری ہے پورے طور پر میسٹر آگیا۔ ہاں دو مرض میرے لاحق حال ہیں۔ ایک بدن کے اوپر کے حصہ میں۔ اور دوسری بدن کے نیچے کے حصہ میں۔ اوپر کے حصہ میں دورانِ سر ہے اور نیچے کے حصہ میں کثرتِ پیشاب ہے اور دونوں مرضیں اسی زمانہ سے ہیں جس زمانہ سے میں نے اپنا دعویٰ مامور من اللہ ہونے کا شائع کیا ہے۔ میں نے ان کے لئے دعائیں بھی کیں مگر منع میں جواب پایا اور میرے دل میں القاء کیا گیا کہ ابتداء سے مسیح موعود کیلئے یہ نشان مقرر ہے کہ وہ دو زرد چادروں کے ساتھ دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اترے گا۔ سو یہ وہی دو زرد چادریں ہیں جو میری جسمانی حالت کے ساتھ شامل کی گئیں۔ انبیاء علیہم السلام کے اتفاق سے زرد چادر کی تعبیر بیماری ہے اور دو زرد چادریں دو بیماریاں ہیں جو دو حصہ بدن پر مشتمل ہیں اور میرے پر بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے یہی کھولا گیا ہے کہ دو زرد چادروں سے مراد دو بیماریاں ہیں اور ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ کافر مودہ پورا ہوتا۔

بادر ہے کہ مسیح موعود کی خاص علامتوں میں سے یہ نکھایا کہ (۱) وہ دو زرد چادروں کے ساتھ اترے گا (۲) اور نیز یہ کہ دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اترے گا (۳) اور نیز یہ کہ کافر اسکے دم سے مرے گے (۴) اور نیز یہ کہ وہ ایسی حالت میں دکھائی دینگا کہ گویا غسل کر کے حمام میں سے نکلا ہے اور پانی کے قطرے اس کے سر پر سے موتیوں کے دانوں کی طرح ٹپکتے نظر آئیں گے (۵) اور نیز یہ کہ وہ دجال کے مقابل پر خانہ کعبہ کا طواف کرے گا (۶) اور نیز یہ کہ وہ صلیب کو توڑے گا (۷) اور نیز یہ کہ وہ خنزیر کو قتل کرے گا (۸) اور نیز یہ کہ وہ بیوی کرے گا اور اسکی اولاد ہوگی (۹) اور نیز یہ کہ وہی ہے جو دجال کا قاتل ہوگا (۱۰) اور نیز یہ کہ مسیح موعود قتل نہیں کیا جائیگا بلکہ فوت ہوگا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں داخل کیا جائیگا۔ وتلك عشرة كاملة۔ پس دو زرد چادروں کی نسبت ہم بیان کر چکے ہیں کہ وہ دو بیماریاں ہیں جو بطور

یہ چند احکام بطور نمونہ ہم نے لکھے ہیں اس میں ایک تھوڑی سی عقل کا آدمی بھی سوچ سکتا ہے کہ بظاہر یہ تمام خطاب صحابہ کبریٰ کی ہیں لیکن درحقیقت تمام مسلمان ان احکام پر عمل کرنے کے لئے مامور ہیں نہ یہ کہ صرف صحابہ مامور ہیں و بس۔ غرض قرآن کا اصلی اور حقیقی اسلوب جس سے سارا قرآن بھرا پڑا ہے یہ ہے کہ اسکے خطاب کے مورد حقیقی اور واقعی طور پر تمام مسلمان ہیں جو قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے گو بظاہر صورت خطاب صحابہ کبریٰ کی ہے مگر معلوم ہوتا ہے پس جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ یہ وعدہ یا وعید صحابہ تک ہی محدود ہے وہ قرآن کے عام محاورہ سے عدول کرتا ہے اور جب تک پورا ثبوت اس دعویٰ کا پیش نہ کرے تب تک وہ ایسے طریق کے اختیار کرنے میں ایک ٹھہر ہے۔ کیا قرآن صرف صحابہ کے واسطے ہی نازل ہوا تھا۔ اگر قرآن کے وعدہ اور وعید اور تمام احکام صحابہ تک ہی محدود ہیں تو گویا جو بعد میں پیدا ہوئے وہ قرآن سے بکلی بے تعلق ہیں۔ تَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ هَذِهِ الْخُرَافَاتِ۔

اور یہ کہنا کہ حدیث میں آیا ہے کہ خلافت تیس سال تک ہوگی عجیب فہم ہے جس حالت میں قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ وَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْاٰخِرِيْنَ تو پھر اس کے مقابل پر کوئی حدیث پیش کرنا اور اسکے معنی مخالف قرآن قرار دینا معلوم نہیں کہ کس قسم کی سمجھ ہے اگر حدیث کے بیانی پر اعتبار ہو تو پہلے ان حدیثوں پر عمل کرنا چاہیے جو صحت اور وثوق میں اس حدیث پر کئی درجہ بڑھی ہوئی ہیں مثلاً صحیح بخاری کی وہ حدیثیں جن میں آخری زمانہ میں بعض خلیفوں کی نسبت خبر دی گئی ہے خاص کر وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے اسکی نسبت آواز آئیگی کہ هَذَا خَلِيْفَةُ اللّٰهِ الْمَهْدِيُّ۔ اب سوچو کہ یہ حدیث کس پایہ اور مرتبہ کی ہے جو ایسی کتاب میں درج ہو جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے لیکن وہ حدیث جو معترض صاحب نے پیش کی ہے علماء کو اس میں کئی طرح کا جرح ہو اور اسکی صحت میں کلام ہو کیا معترض نے غور نہیں کیا جو آخری زمانہ کی نسبت بعض خلیفوں کے ظہور کی خبریں دی گئی ہیں کہ حادث آئیگا مہدی آئیگا۔ آسمانی خلیفہ آئیگا۔ یہ خبریں حدیثوں میں ہیں یا کسی اور کتاب میں۔ احادیث سے یہ ثابت ہے کہ زمانہ تبین ہیں۔

سے نظر آوے اور کوئی کسی کو نہ سے۔ یہی حال اسلام کا ہے کہ اس کی آسمانی روشنی صرف ایک ہی طرف سے نظر نہیں آتی۔ بلکہ ہر ایک طرف سے اس کے ابدی چراغ نمایاں ہیں۔ اس کی تعلیم بجائے خود ایک چراغ ہے۔ اور اس کے ساتھ جو خدا کی نصرت کے نشان ہیں۔ وہ ہر ایک نشان چراغ ہے۔ اور جو شخص اس کی سچائی کے اظہار کے لئے خدا کی طرف سے آتا ہے۔ وہ بھی ایک چراغ ہوتا ہے۔ میرا بڑا حصہ عمر کا مختلف قوموں کی کتابوں کے دیکھنے میں گذرا ہے۔ مگر میں سچ سچ کہتا ہوں کہ میں نے کسی دوسرے مذہب کی تعلیم کو خواہ اس کا عقائد کا حصہ اور خواہ اخلاقی حصہ اور خواہ تدبیر منزلی اور سیاست مدنی کا حصہ اور خواہ اعمال صالحہ کی تقسیم کا حصہ ہو۔ قرآن شریف کے بیان کے ہم پہلو نہیں پایا۔ اور یہ قول میرا اس لئے نہیں کہ میں ایک مسلمان شخص ہوں۔ بلکہ سچائی مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں گواہی دوں۔ اور یہ میری گواہی بے وقت نہیں۔ بلکہ ایسے وقت میں جب کہ دنیا میں مذاہب کی کشتی شروع ہے۔ مجھے خبر دی گئی ہے کہ اس کشتی میں آخر اسلام کو فتح ہے۔ میں زمین کی باتیں نہیں کہتا۔ کیونکہ میں زمین سے نہیں ہوں۔ بلکہ میں وہی کہتا ہوں جو خدا نے میرے منہ میں ڈالا ہے۔ زمین کے لوگ خیال کرتے ہوں گے۔ کہ شاید انجام کار عیسائی مذہب دنیا میں پھیل جائے یا بد مذہب دنیا پر حاوی ہو جائے۔ مگر وہ اس خیال میں غلطی پر ہیں۔ یاد رہے کہ زمین پر کوئی بات ظہور میں نہیں آتی۔ جب تک وہ بات آسمان پر قرار نہ پائے۔ سو آسمان کا خدا مجھے بتلاتا ہے۔ کہ آخر اسلام کا مذہب دلیل کو فتح کرے گا۔ اس مذہب کی جنگ میں مجھے حکم ہے کہ میں حکم کے طالبوں کو ڈراؤں۔ اور میری مثال اس شخص کی ہے۔ کہ جو ایک خطرناک ڈاکوئل کے گروہ کی خبر دیتا ہے۔ جو ایک گاؤں کی

مرسل کی تائید اور اس کے احکام کی تک کرنے والا کس طرح اس میں رہ سکتا ہے۔

**مداقت مسیح موعود علیہ السلام** اگر میرے ساتھ خدا تعالیٰ کا کوئی نشان نہ ہوتا اور خداں کی تائید اور نصرت میرے شامل حال ہوتی اور میں نے قرآن سے ہلک

کوئی راہ نکال ہوتی یا قرآن احکام اور شریعت میں کچھ دخل و تصرف کیا ہوتا یا منسوخ کیا ہوتا یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے باہر کوئی اور نئی راہ بتائی ہوتی تو البتہ حق تھا اور لوگوں کا مدد معقول اور قابل قبول ہوتا کہ واقف میں یہ شخص خدا اور خدا کے رسول کا دشمن اور قرآن شریف اور تعظیم قرآن کا منکر اور منسوخ کرنا ہوا ہے۔ فاسق ہے۔ ناجبر ہے۔ مجرم ہے۔ مگر جب میں نے نہ قرآن میں کوئی تغیر کیا اور نہ پہلی شریعت کا جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تھے ایک شوشہ اور فتنہ میں نے بدلا بلکہ میں قرآن اور احکام قرآن کی خدمت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک مذہب کی خدمت کے واسطے کربتہ ہوں اور جان تک میں نے اپنی اسی راہ میں لگا دی ہے۔ اور میرا یقین کمال ہے کہ قرآن کے سوا جو کمال اکل اور کھل کتاب ہے اور اس کی پوری اطاعت اور بغیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نجات ممکن ہی نہیں اور قرآن میں کسی بیشی کرنے والے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جوا اپنی گردن سے اتارنے والے کو کافر اور مرتد یقین کرتا ہوں تو پھر اس صورت میں اور باوجود میری صداقت کے ہزار ہا نشان ظاہر ہو جانے کے جو کہ خدا تعالیٰ نے آج تک میری تائید میں آسمان اور زمین پر ظاہر کئے پھر مجھے جو شخص کا ذہب اور مغز ہی اور دجال کے ناک سے پکارا ہے یا جو میری پروا نہیں کرتا اور میری اولاد کی طرف کان نہیں دھرتا یقیناً جا لو کہ خدا تعالیٰ بغیر شانہ اسے ہرگز ہرگز نہ چھوڑے گا۔ اسلام کی کشتی فرق ہونے کو ہے۔ زمانہ شہادت سے رہا ہے اور اتنا پکار پکار کر ضرورت کو محسوس کر رہا ہے۔ اندرونی حالت ایسی خطرناک ہے کہ اس سے ہرگز ہرگز کسی کا دل مطمئن اور خوش نہیں ہو سکتا۔ بیرونی عملے ایسے خطرناک ہیں کہ قریب ہے کہ اسلام کو بیخ و بن سے اٹھا ڈھکیں تو کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ کسی کو خدا تعالیٰ اسلام کی حمایت کے واسطے مبعوث فرماتا اور کوئی مجدد بھیجتا جو اسلام کی ڈبٹی تاؤ کو سنبھال لیتا۔ صدی کا سر بھی گند گیا مگر کل وعدے جھوٹے ہی جھوٹے نکلے، تو پھر تم ہی بتاؤ کیا ابھی وہ وقت نہیں کہ خدا اسلام کی خبر گیری کرتا یا کیا کوئی اس سے بھی زیادہ خطرناک اور نازک حالت ہوگی؟ کیا جب اسلام بالکل مٹ رہی جاوے گا اور اس میں کوئی دم بھائی نہ رہے گا اس وقت کوئی آویگا یا پھر ایسے آئیوا لہے سے کیا فائدہ اور کیا حاصل؟ یاد رکھو کہ اگر تم جھوٹا ہوں تو پھر اسلام بھی جھوٹا ہے اور اگر اسلام بھی دوسروں کی طرح ایک مردہ مذہب ہے تو پھر اسلام میں کیا بڑائی ہے اور اس کی کیا خصوصیت؟ تو حید جس کا تم کو ناز ہے اس کے تو برہو اور آریہ بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ ایک شخص نے اسی لاجورد میں ایک دفعہ لکھ دیا تھا کہ ہم لوگ لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں پھر ہمیں

۵۹۸

حضرت موسیٰ کی نسبت یہ کہے کہ نعوذ باللہ: ہ مال حرام کھانیو الا تھا۔ یا حضرت مسیح کی نسبت یہ زبان پر لاؤ کہ ذُو ظُوْلُفَع کے گندہ مال کو اپنے کام میں لایا۔ یا حضرت ابراہیم کی نسبت یہ تحریر شائع کرے کہ مجھے جس قدر ان پر بدگمانی ہو اسکی وجہ اتنی دروغگوئی ہو تو ایسے خبیث کی نسبت اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ اسکی فطرت اُن پاک لوگوں کی فطرت سے متاثر پڑی ہوئی ہو اور شیطان کی فطرت کے موافق اُس پلید کا مادہ اور خمیر ہے۔ یہ حضرت بشالوی صاحب یاد رکھیں کہ جسقدر آپ اس غلبہ کی نسبت بہ باعث اپنی نادانی کے دروغگوئی کے الزام لگاتے ہیں وہ اسی قسم کے اعتراض ہیں جو پہلے اسکا تاجدار لوگوں نے انبیاء و علیہم السلام پر کئے ہیں مگر آپ پر تکبر اور غرور اور خود پسندی کا اعتراض ہے جو اسی معلم الملکوت کا خاصہ ہے جو آپکا قرین دائمی ہے۔ اگر کوئی کذب حقیقت میں ہم سے ظہور میں آیا ہے تو ہم اسکی سزا پائینگے اور اگر خلیل اللہ کے کلمات کی طرح ہمارا کوئی کلمہ کسی نادان کی نظر میں بصورت دروغ معلوم ہو تو یہ اسکی نادانی ہوگی جو ایک دن ضرور اسکو رسوا کرے گی۔ خدا تعالیٰ ایسے لوگوں سے سزا میں رکھے جو ابلیس کی چادر پہن کر اپنی نفسانی پندار سے۔ ہچو من دیگرے نیست کہتے پھر یہی اور اپنی کور باطنی سے دوسروں کی نکتہ چینی کریں۔ میں سچ کہتا ہوں کہ قیامت کے دن شرک کے بعد تکبر جیسی اور کوئی بلا نہیں۔ یہ ایک ایسی بلا ہے جو دونوں جہان میں انسان کو رسوا کرتی ہے۔ خدا تعالیٰ کا رحم ہر ایک موجد کا تدارک کرتا ہے مگر متکبر کا نہیں۔ شیطان بھی موجد ہونے کا دم مارتا تھا مگر چونکہ اسکے سر میں تکبر تھا اور آدم کو جو خدا تعالیٰ کی نظر میں پیارا تھا۔ جب اس نے توہین کی نظر سے دیکھا اور اسکی نکتہ چینی کی اسلئے وہ مارا گیا اور طوق لعنت اسکی گردن میں ڈالا گیا۔ سو پہلا گناہ جس ایک شخص ہمیشہ کیلئے ہلاک ہوا تکبر ہی تھا۔ اب میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو بدکار مغتری کو بے سزا نہیں چھوڑے گا کہ خدا تعالیٰ نے جسے مجھے مسیح ابن مریم قرار دیا ایسا ہی آدم بھی قرار دیا اور فرمایا کہ ارددت ان استخلف فخلقت آدم۔ یعنی میں نے ارادہ کیا کہ دنیا میں اپنا خلیفہ مقرر کروں سو میں نے آدم کو پیدا کیا یعنی اس عاجز کو۔ سو جبکہ میں آدم ٹھہرا تو میرے لئے ایک نکتہ چینی بھی چاہیے تھا۔ جو اول لوگوں کی نظر میں ملکوت میں داخل ہو اور پھر الیوم الدین کا جامہ پہنے۔ سو اب معلوم ہوا کہ وہ آپ ہی ہیں۔ اور پھر میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ فقرہ جو میں اوپر لکھ آیا ہوں یہ اللہ جل شانہ کا کلام ہے۔ اور اگر یہ اللہ جل شانہ کا کلام نہیں تو میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ایک رات مجھ کو مہلت نہ دے اور میرے پر وہ سزا نازل کرے جو کسی پر نہ کی ہو۔ اے میرے خدا۔ اے میرے ہادی۔ رہنا۔ اگر یہ تیرا کلام نہیں۔ اگر تو نے ہی مجھے خلیفہ مقرر نہیں کیا۔ اگر تو نے ہی میرا نام علیٰ بنی نہیں رکھا اور تو نے ہی میرا نام آدم نہیں رکھا تو مجھے

لازم ہے کیونکہ جو لوگ خدائے تعالیٰ سے الہام پاتے ہیں وہ بغیر بلائے نہیں ہوتے اور بغیر بچھائے نہیں سمجھتے اور بغیر فرمائے کوئی دعویٰ نہیں کرتے اور اپنی طرف سے کسی قسم کی دلیری نہیں کر سکتے اسی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک خدائے تعالیٰ کی طرف سے بعض عبادات کے ادا کرنے کے بارہ میں وحی نازل نہیں ہوتی تھی تب تک ہلال کتاب کی سنن و سنہ پر قدم مارنا بہتر جانتے تھے اور بوقت نزول وحی اور دریافت اہل حقیقت کے اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ سو اسی لحاظ سے حضرت مسیح بن مریم کی نسبت اپنی طرف سے بلاہین میں کوئی بحث نہیں کی گئی تھی۔ اب جو خدا تعالیٰ نے حقیقت امر کو اس عاجز پر ظاہر فرمایا تو علم طور پر اس کا اعلان از بس ضروری تھا لیکن مجھے اگر کچھ افسوس ہے تو اس زمانہ کے ان مولوی صاحبان پر ہے کہ جنہوں نے قبل اس کے جو میری تحریر پر غور اور غور کی نگاہ کریں رد لکھنے شروع کر دیئے ہیں مصنفین اور محققین خوب سمجھتے ہیں کہ جس قدر حال کے بعض مولوی صاحبوں نے مجھے اپنی دیرینہ رائے کا مخالف ٹھہرایا ہے غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ درحقیقت اتنی بڑی مخالفت نہیں ہے جس پر اتنا شور مچایا گیا۔ میں نے صرف ٹیل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور میرا یہ بھی دعویٰ نہیں کہ صرف ٹیل ہو نامیرے پر ہی ختم ہو گیا ہے بلکہ میرے نزدیک ممکن ہے کہ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے اور دس ہزار بھی ٹیل مسیح آجائیں ہاں اس زمانہ کے لئے میں ٹیل مسیح ہوں اور دوسرے کی انتظار بے ثبوت ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ کچھ میرا ہی خیال نہیں کہ ٹیل مسیح بہت ہو سکتے ہیں بلکہ احادیث بنویہ کا بھی یہی منشاء پایا جاتا ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے اخیر تک قریب تیس کے دجال پیدا ہوں گے اب ظاہر ہے کہ جب عیش وصال کا آنا ضروری ہے تو حکم لیکل و جلال عیسے تیس مسیح بھی آنے چاہئیں پس اس بیان کے رد سے ممکن اور بالکل ممکن ہے کہ کسی زمانہ میں کوئی ایسا مسیح بھی آجائے جس کا حدیثوں کے بعض ظاہری الفاظ صادق آسکیں کیونکہ یہ عاجز اس دنیا کی حکومت اور بادشاہت

جهلاتهم في الجرائد - وكادوا كالمصائد - وجاهوا بزور مبين - ولما رأيت

دراغباہ شایخ کردند - و بچو شکاریان کر یا نمودند - و دودھے مرغی آلودند - پس ہر گاہ کہ دیم

انهم اخلوا کنا نتهم - وقضوا من المفتریات لبانتهم - اشعت ما اشعت

کہ اور شان تیردان خود باغالی نمودند - و از مفتریات حاجت بدالی خود کردند - شان کم آنچه شایخ کتم

کما هو فرض الصادقین - فاعضوا عن فضلی - وفروا من عسالی

چنانچہ فرض صادقین است - پس از مقابلہ من کتارہ جو شدند - و از نیزہ من گر بختند

و واروا وجوههم كالکاذبین -

و مدہائے خود را همچو کاذبان پوشانیدند -

ایها الناس ارقبوا علی ظلمکم ولا تظلموا - وانتهوا ولا تغرطوا

اے مردمان بد جانہائے خود سعی کنید و ظلم نکنید - و باز ایستید و کار را با فرط

واحذروا ولا تجتروا - واذکر والہوت ولا تغفلوا - واذکر اباؤکم الغابریں -

برمانید - و بتربسید و بیری کنید - مرگ خود را یاد کنید و غافل مباشید - و پدران خود را کہ گذشتہ اند یاد کنید

انظنوں انکم تترکون والدنیا ولذاتہا - ولا تقادون المالحاة وجماراتہا -

آیا گمان کنید کہ شمار دنیا و لذات آن گزارشتہ نخواہید شد - و سوئے قیامت روادش آن کنید نخواہید شد

ولا تساقون الممالک یوم الدین - مالکم لا تنتهبون مہجۃ الاہتداء -

و سوئے مالک یوم جزا همچو گرفتاران رواد نخواہید شد - بچہ سبب امت کہ راہ راست را نمی گیرید -

ولا تعالجون داع الاعتداء - وتمرون بالمحق محقرین -

و بیماری نخواہد از حد را علاج نمی کنید - و برحق چون میگزید بہ حقیرے گزیدید -

اعلموا ان فضل الله معی - وان سادح اطله ينطق فی نفسی

بدانید کہ فضل خدا با من است - و روح خدا در من سخن با من کند -



وہ قتل کریں اور یہی ایک خدمت تھی جو ان کے سپرد کی گئی تھی۔ اس سوال کا جواب ہم بجز اس صورت کے اور کسی طور سے دے نہیں سکتے کہ آخری زمانہ میں دجال معبود کا آنا سراسر قلمط ہے۔ اب حاصل کلام یہ ہے کہ وہ دمشقی حدیث جو امام مسلم نے پیش کی ہے خود مسلم کی دوسری حدیث سے ساقطاً اعتبار ٹھیرتی ہے اور صریح ثابت ہوتا ہے کہ تو اس راوی نے اس حدیث کے بیان کرنے میں دھوکہ کھایا ہے یہ فرض نہایت مسلم کے سر پر تھا۔ کہ وہ اپنی ذکر کردہ حدیث کا تعارض اپنی قلم سے رفع کرتے مگر انہوں نے جو ایسے تعارض کا ذکر تک نہیں کیا تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ محمد بن المنکدر کی حدیث کو نہایت قطعاً اور یقینی طور صاف اور صریح سمجھتے تھے اور نو اس بن سمان کی حدیث کو از قبیل استعارات و کنایات خیال کرتے تھے اور اس کی حقیقت حوالہ بخدا کرتے تھے۔

غرض اے بھائیو! ان حدیثوں پر نظر ڈال کر ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے کہ کبھی صدر اول کے لوگوں نے دجال معبود کے بارہ میں ہرگز اس بات پر اتفاق نہیں کیا کہ وہ آخری زمانہ میں آئے گا اور مسیح ابن مریم ظہور نہ فرما کر اس کو قتل کرے گا بلکہ وہ تو ابن صیاد کو ہی دجال معبود سمجھتے رہے اور یہ بات خود ظاہر ہے کہ جب انہوں نے ابن صیاد کو دجال معبود یقین کیا اور پھر یہ بھی اپنی زندگی میں دیکھ لیا کہ وہ مشرف باسلام ہو گیا اور پھر یہ بھی دیکھ لیا کہ وہ مدینہ منورہ میں فوت بھی ہو گیا اور مسلمانوں نے اس کے جنازہ کی نماز پڑھی پھر ایسی صورت میں ان بزرگوں کا اس بات پر کہ ان کو یقین یا اعتقاد ہو سکتا تھا کہ مسیح ابن مریم آخری زمانہ میں دجال معبود کے قتل کرنے کے لئے آسمان سے اتریں گے کیونکہ وہ بزرگوار لوگ تو پہلے ہی دجال معبود کا فوت ہو جانا تسلیم کر چکے تھے پھر اس اعتقاد کے ساتھ یہ دوسرا اعتقاد کیوں کر جوڑ لیا جاسکتا ہے کہ ان کو مسیح ابن مریم کے آسمان سے اترنے اور دجال معبود کے قتل کرنے کی انتظار لگنی ہوئی تھی یہ تو صریح اجتماع بندی ہے اور کوئی دانشمند اور قائم الحواس آدمی ایسے دو متضاد اعتقاد ہرگز نہیں رکھ سکتا۔

حصہ پنجم

۲۷۵

ضمیمہ براہین احمدیہ

کی ہے درحقیقت میرے ہی قلم بے نکلی ہے۔ چنانچہ وہ عبارت جو آپ نے محض جطسازمی سے میری طرف منسوب کر دی ہے وہ یہ ہے۔ "براہین احمدیہ کی پیشگوئی سے مجھے بہت صفائی سے خدا کی طرف سے یہ خبر مل چکی تھی کہ اس سے زلزلہ مراد ہے تاہم میں نے قوم کی بدگوئی اور بدظنی کے خوف سے اس کو چھپایا اور عربی کا ترجمہ اردو میں کر کے شائع نہ کیا۔ اور میں اس فعل سے خدا کے گناہ کیوں کا مرتکب ہوا۔ اور پچیس برس تک اسی گناہ پر قائم اور مٹھ رہا۔" اے مغتری نابکار! کیا اب بھی ہم نہ کہیں کہ جھوٹے پر خدا کی لعنت جس نے آپ عبارت بنا کر میری طرف منسوب کر دی۔ اے سخت دل ظالم! تجھے مولوی کہلا کر شرم نہ آئی کہ تو نے ناحق اس قدر میرے پر جھوٹ بولا۔ کیا تو دکھلا سکتا ہے کہ میرے اشتہار ۱۹۰۵ء میں یا کسی اور اشتہار میں یا کسی رسالہ میں یہ عبارت موجود ہے جو تو نے نکھی: بلعنة الله على الكاذبين۔

اسجگہ ان لوگوں کو متنبہ رہنا چاہیے کہ جو ایسے لوگوں کو مولوی اور دیاندار سمجھ کر ان کے قول پر عمل کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ یہ حال ہے ان لوگوں کی دیانت کا اور جھوٹے کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔ اس لئے مولوی صاحب موصوف کا یہ بیان بھی ناقص سے بھرا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ اخبار مذکور کے صفحہ پانچ کالم تیسرے میں پندرہویں سطر و چوبیسویں سطر میں میرے اشتہاد کی عبارت یہ لکھتے ہیں کہ "میں نے براہین احمدیہ میں اس زلزلہ کی خبر دی تھی اور اگرچہ اس وقت اس خارق عادت بات کی طرف ذہن منتقل نہ ہو سکا۔ لیکن اب ان پیشگوئیوں پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ آئیوالمے زلزلہ کی نسبت تمہیں جو اس وقت نظر سے مخفی رہ گئیں۔"

اب ناظرین خود دیکھ لیں کہ اس عبارت مذکورہ بالا کا یہی مطلب ہے کہ اس زمانہ میں کہ جب براہین احمدیہ کے لکھنے کا زمانہ تھا ذہن اس طرف منتقل نہ ہو سکا کہ زلزلہ سے مراد درحقیقت زلزلہ ہے اور یہ امر اس وقت نظر سے مخفی رہا اور اب پچیس برس

اب دیکھو کہ ایک طرف تو یہ شخص میرے مسیح موعود ہونے کا اقرار کرتا ہے اور نہ صرف اقرار بلکہ میری تصدیق کے بارے میں ایک خواب بھی پیش کرتا ہے جو سچی نکلی۔

پھر اسی کتاب کے آخر میں اور نیز اپنے رسالہ المسیح الدجال میں میرا نام دجال اور شیطان بھی رکھتا ہے اور مجھے خائن اور حرامخور اور کذاب ٹھیراتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ عبدالحکیم خاں نے اپنے ان دونوں متناقض بیانات میں چند روز کا بھی فرق نہیں رکھا۔ ایک طرف تو مجھے مسیح موعود کہا اور اپنے خواب کے ساتھ میری تصدیق کی اور پھر ساتھ ہی دجال اور کذاب بھی کہہ دیا۔

مجھے اس بات کی پروا نہیں کہ ایسا کیوں کیا مگر ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ اس شخص کی حالت ایک مختلط الحواس انسان کی حالت ہے کہ ایک کھلا کھلا تناقض اپنے کلام میں رکھتا ہے۔ ایک طرف تو مجھے مسیح قرار دیتا ہے بلکہ میری تصدیق میں ایک سچی خواب پیش کرتا ہے جو پوری ہو گئی۔ اور دوسری طرف مجھے سب کافروں سے بدتر سمجھتا ہے کیا اس بڑھکر کوئی

اور تناقض ہو گا۔ اور جن عیبوں کو وہ میری طرف منسوب کرتا ہے اسکو خود سوچنا چاہیے تھا کہ جب خواب کی رو سے میری سچائی کی اسکو تصدیق ہو چکی تھی بلکہ میری تصدیق کیلئے خدا نے حس بیگ کو طاعون سے ہلاک بھی کر دیا تھا۔ تو کیا ایک دجال کیلئے خدا نے اسکو مارا اور کیا خدا کو وہ عیب معلوم نہ تھے جو بیس سال کے بعد اسکو معلوم ہو گئے۔ اور یہ عذر اس کا قابل قبول نہ ہو گا کہ مجھ کو شیطانی خوابیں آتی ہونگی اور یہ بھی ایک شیطانی خواب تھی۔ کیونکہ یہ تو ہم قبول کر سکتے ہیں کہ اس کو بوجہ فطرتی مناسبت کے شیطانی خوابیں آتی ہوں گی اور شیطانی الہام

پتا اب عبدالحکیم کیلئے لازم ہے کہ محمد حس بیگ کی قبر پر جا کر وہ وہ سے کہ لے بھالی تو تذبذب میں سچا تھا اور میں ٹھوسا۔ میرا گناہ معاف کر اور خدا سے معلوم کہ مجھے بتلا کہ ایک کذاب اور دجال کیلئے کیوں اس نے مجھے ہلاک کر دیا۔ منہ سے یہ بات بھی غور کے لائق ہے کہ وہ شخص بیس سال تک تحریر اور تقریر میں میری تائید کرتا اور مخالفوں کے ساتھ مجھ پر تار ہا۔ اب میں اس سال کے بعد کو فسی نہی بات اسکو معلوم ہوئی۔ جو عیب اس نے لکھے ہیں وہ تو وہی ہیں جن کا جواب وہ آپ دیا کرتا تھا۔

۱۳۳

کہتے ہیں اور ہم تسلیم کر لیں گے کہ شاید کسی مسلمان نے موقدہ پاکر گنتہ میں داخل کر دیئے ہیں لیکن اگر دلائل قاطعہ سے یہ ثابت ہو جائے کہ باوا صاحب نے اسلام کے عقاید قبول کر لئے تھے اور وہ پر ان کا ایمان نہیں رہا تھا تو پھر وہ چند اشعار جو باوا صاحب کے اکثر حصہ کام سے مخالفہ ٹرے ہیں جعلی اور الحاقی تسلیم کرنے پڑیں گے یا ان کے ایسے معنی کرنے پڑیں گے جن سے متناقض دور ہو جائے اور ظاہر ہے کہ ایک دل سے دو متناقض باتیں نکل نہیں سکتیں۔ کیونکہ ایسے طریق سے یا انسان پاگل کہلاتا ہے یا منافق۔ پس بڑی بے ادبی ہوگی کہ متناقض باتوں کا مجموعہ باوا صاحب کی طرف منسوب کیا جائے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ باوا صاحب نے ایسے مسلمانوں اور کامیوں مفتیوں کو بھی اپنے اشعار میں سرزنش کی جو جنہوں نے اس حق اور حقیقت کو چھوڑ دیا جس کی طرف خدا تعالیٰ کا کلام بلاتا ہے اور بعض رسم اور عادت کے پابند ہو گئے جو نہ تو قرآن شریف اور حدیث میں بھی ہے کہ ایسے نمازیوں پر لعنتیں ہیں جن میں صدق اور اخلاص نہیں اور ایسے روزے زنی قاتلہ کشی ہے جن میں گناہ ترک کرنے کا مدد نہ نہیں۔ سو تعجب نہیں کہ غافل مسلمانوں کے کھانے کے لئے اور اس غرض سے کہ وہ رسم اور عادت سے آگے قدم بڑھادیں باوا صاحب نے بعض بے عمل مولویوں اور قاضیوں کو نصیحت کی جو۔

اب ہم کھول کر دیکھتے ہیں کہ ہماری رائے باوا صاحب کی نسبت یہ ہے۔ کہ بلاشبہ وہ سچے مسلمان تھے اور یقیناً وہ وید سے بیزاد ہو کر اور کلہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے شرف ہو کر اس نئی زندگی کو پانچے تھے۔ جو بخیر خدایتعالیٰ کے پاک رسوں کی پیروی کے کسی کو نہیں مل سکتی۔ وہ

ہندوں کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے

اور پوشیدہ ہی چلے گئے اور اس کے

دلائل ہم ذیل میں کہتے ہیں۔

۳۱

۱۳۲

کے رنگ میں ہیں اس لئے انہوں نے باوا صاحب کے اشعار میں اپنی طرف سے اشعار ملا دیئے جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ ان اشعار میں تناقض پیدا ہو گیا۔ مگر صاف ظاہر ہے کہ کسی سچیار اور عقلمند اور صاف دل انسان کی کلام میں ہرگز تناقض نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی پاگل اور مجنون یا ایسا منافق ہو کہ خوشامد کے طور پر ہاں میں ہاں ملا دیتا ہو۔ اس کا کلام بے شک متناقض ہو جاتا ہے۔

یہ فیصلہ کہ ہم کیونکر ان تمام اشعار میں سے کھرے کھوٹے میں فرق کر سکیں اور کیونکر سمجھیں کہ ان میں سے یہ یہ اشعار باوا صاحب کے مُتَبَد سے نکلے ہیں اور یہ یہ اشعار جو ان پہلے شعروں کی نقیض پڑے ہیں وہ کسی اور نے باوا صاحب کی طرف منسوب کر دیئے ہیں۔ تو واضح رہے کہ یہ فیصلہ نہایت آسان ہے چنانچہ طریقی فیصلہ یہ ہے کہ ان تمام دلائل پر غور اور انصاف سے نظر ڈالی جاوے جو باوا صاحب کے مسلمان ہوجانے پر نااطق ہیں سو بعد غور اگر یہ ثابت ہو کہ وہ دلائل صحیح نہیں ہیں اور مسائل باوا صاحب ہند ہی تھے اور وید کو مانتے تھے۔ اور اپنی عملی صورت میں انہوں نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا بلکہ اسلام کی عداوت ظاہر کی تو اس صورت میں ہمیں اتروک پڑے گا کہ جو کہ باوا صاحب کی نسبت مسلمانوں کا یہ پورا ناخیال چلا آتا ہے کہ وہ تحقیقت وہ مسلمان ہی تھے اور پانچ وقت نماز بھی پڑھتے تھے اور حج بھی کیا تھا یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ اور اس صورت میں وہ تمام اشعار الحاقی ماننے جائیں گے جو باوا صاحب کے اسلام پر دلالت

**تقریب حاشیہ** یہ فیصلہ کھلے چاہیے کہ کوئی جلدی سے انکار نہ کرے یہی سچ ہے اور ماننا پڑے گا۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ صوتی لوگ اسی زندگی میں ایک قسم کے اداگوں کے حامل ہیں۔ اور ہر ایک کو وہ ایک عالم سمجھتے ہیں اور نیز کہتے ہیں کہ انسان جب تک کامل تک نہیں پہنچتا وہ طرح طرح کے حیوانوں سے مشابہ ہوتا ہے اس لئے اہل کشف کہیں انسان کو کتے کی صورت میں دیکھتے ہیں اور پھر وہ سرے وقت میں بیل کی صورت پر اس کو پاتے ہیں ایسا ہی خدا صفت میں بدلتی رہتی ہیں اہل عدت کے بعض انسان ہوتا ہے تب جنوں کی پھانسی ٹوٹی ہے۔ پس کیا تعجب کہ باوا صاحب کی بھی یہی روایت ہو کہ انہوں نے تناقض سے باوا صاحب کی منکر پڑی۔

۳۰

یہ حوالہ صفحہ 129 پر درج ہے

ست پانچ صفحہ 30 مندرجہ روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 142 از مرزا قادیانی

۵۰

کرتے کے بارہ میں سوچتے چلے جائیں تب بھی اُن کو یہ دعویٰ نہیں پہنچتا کہ جس قدر اُن میں خواص تھے اُنہوں نے معلوم کر لئے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کی عبارتیں صرف سطحی خیالات تک محدود ہیں جو ایک جاہل ملا انیسر سرسری نظر ڈالکر دعویٰ کر سکتا ہے کہ جو کچھ قرآن میں تھا میں نے معلوم کر لیا۔ خدا تعالیٰ کا قانون قدرت ہرگز بدل نہیں سکتا اور اُسکی مخلوقات میں سے ایک پتہ بھی ایسا نہیں جسکو چند معلومہ خواص میں محدود کہہ سکیں بلکہ اسکی ہر ایک مخلوق خواص غیر محدودہ اپنے اندر رکھتی ہے اور اسی وجہ سے ہر ایک مخلوق میں صفت بینظیری پائی جاتی ہے اور اگر تمام دنیا اسکی نظیر بنانا چاہے تو ہرگز اُنکے لئے میسر نہ ہو جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ فرما دیا ہے کہ مکھی بنانے پر بھی کوئی قادر نہیں ہو سکتا۔ کیوں قادر نہیں ہو سکتا اسکی یہی توجہ ہے کہ مکھی میں بھی اس قدر عجائبات صنعت صانع ہیں کہ انسانی طاقتوں بلکہ تمام مخلوق کی قوتوں سے بڑھ کر ہیں پھر خدا تعالیٰ کا کلام کیوں ایسا گراہوا اور ادنیٰ درجہ کا سمجھا جائے کہ جو اپنے خواص اور حقائق کے رُو سے مکھی کے درجہ پر نہیں۔ کیا یہ وہی کلام نہیں جسکے حق میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے **قُلْ لَنْ أَجْتَعِدَ الْإِنْسَانَ وَالْجِنِّ عَلَىٰ**

**أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ**

**لَوْ كَانُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا**۔ یعنی اگر جن وانس اس بات پر

اتفاق کر لیں کہ اس قرآن کی نظیر بنا دیں تو ہرگز بنا نہیں سکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کی

مدد بھی کریں۔ بعض نادان ملا اخسرا ہم اللہ کہا کرتے ہیں کہ یہ بے نظیری صرف بلاغت

کے متعلق ہے۔ لیکن ایسے لوگ سخت جاہل اور بولوں کے اندھے ہیں۔ اس میں کیا کلام ہے

کہ قرآن کریم اپنی بلاغت اور فصاحت کے رُو سے بھی بے نظیر ہے۔ لیکن قرآن کریم

کا یہ منشاء نہیں ہے کہ اُس کی بے نظیری صرف اسی وجہ سے ہے بلکہ اُس پاک

کلام کا یہ منشاء ہے کہ جن جن صفات سے وہ متصف کیا گیا ہے۔ اُن تمام

۸

۸۹: لہ بنی اسرائیل

کوئی قوت پیدا کر سکے یا کوئی ذرہ اجسام بنا سکے یا کوئی علم غیب اپنی شناخت کیلئے اپنی کتاب میں بیان کر سکے یا دلوں کو تسلی دینے کیلئے اپنا کوئی معجزہ دکھلا سکے تو پھر یہ کہنا کہ اُس کا کوئی قانون قدرت ہے سراسر لغو اور بے معنی بات ہے۔ قانون کا مرتب کرنا قدرت کے بعد ہے اور جب قدرت ہی نہیں تو یہ کہنا چاہیے کہ قانون عجز اور بے قدرتی نہ کہ قانون قدرت۔ وہ پھر جو ممکنہ دائمی نہیں دے سکتا اور کسی کا گنہ نہیں بخش سکتا اور اپنی ہستی ثابت کرنے کیلئے کوئی قدرت کا نمونہ دکھلا نہیں سکتا اسکی نسبت قانون قدرت کو کیونکر منسوب کر سکتے ہیں۔

پھر مضمون خواں نے بیان کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا اپنے قانون کو بدل سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کیا وہ اپنے صفات کو بھی بدل سکتا ہو۔ اب غور کرنا چاہیے کہ یہ کیسا مفہوم ہو اب ہے۔ یہ تو سچ ہے کہ جیسا کہ خدا غیر متبدل ہو اسکی صفات بھی غیر متبدل ہیں۔ اسکی کس کو انکار ہو مگر آج تک اُس کے کاموں کی حد بست کس نے کی ہے۔ اور کون کہہ سکتا ہے کہ وہ اسکی عمیق در عمیق اور بے حد قدرتوں کی انتہاؤں تک پہنچ گیا ہے بلکہ اُس کی قدرتیں غیر محدود ہیں اور اُسکی عجائز کام تاپیدا کنار ہیں اور وہ اپنے خاص بندوں کیلئے اپنا قانون بھی بدل لیتا ہے مگر وہ بدلنا بھی اُس کے قانون میں ہی داخل ہے جب ایک شخص اُس کے آستانہ پر ایک نئی روح لے کر حاضر ہوتا ہے اور اپنے اندر ایک خاص تبدیلی محض اُسکی رضا مندی کیلئے پیدا کرتا ہے تب خدا بھی اُسکے لئے ایک تبدیلی پیدا کر لیتا ہے کہ گویا اس بندے پر جو خدا ظاہر ہوا ہے وہ اور ہی خدا ہے۔ نہ وہ خدا جس کو عام لوگ جانتے ہیں۔ وہ ایسے آدمی کے مقابل پر جس کا ایمان کمزور ہے کمزور کی طرح ظاہر ہوتا ہے لیکن جو اُسکی جناب میں ایک نہایت قوی ایمان کے ساتھ آتا ہے وہ اُسکو دکھو دیتا ہے کہ تیری بد کیلئے میں بھی قوی ہوں۔ اس طرح انسانی تبدیلیوں کے مقابل پر اُسکی صفات میں بھی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں جو شخص ایمانی حالت میں ایسا مفقود الطاقت ہے کہ گویا میت ہے خدا بھی اُسکی تائید اور نصرت سے کسٹکٹش ہو کر ایسا خاموش ہو جاتا ہے کہ گویا نعوذ باللہ وہ مر گیا ہے۔ مگر یہ تمام تبدیلیاں وہ اپنے قانون کے اندر اپنے تقدس کے موافق

ازالہ اوہام

۳۵۳

حصہ دوم

## نور افشاں منطبوعہ ۲۳ اپریل کا اعتراض

پرچہ نور افشاں میں مسیح کے صعود کی نسبت یہ دلیل پیش کی گئی ہے کہ مسیح کے  
صعود کی نسبت گیارہ شاگرد بچشم دید گواہ موجود ہیں جنہوں نے اُسے آسمان کو جہان تک  
عد نظر سے جاتے دیکھا۔ چنانچہ معترض صاحب نے اپنے دعوے کی تائید میں درج ذیل کے  
اعمال کی یہ آیتیں پیش کی ہیں

۱۔ اسی اپنے گیارہ شاگردوں پر (اُس نے) یعنی مسیح نے اپنے مرنے کے پیچھے  
آپ کو بہت سی قوی دلیلوں سے زندہ ثابت کیا کہ وہ چالیس دن تک اہمیں نظر آتا رہا اور خدا کی  
بادشاہت کی باتیں اکتارے اور ان کے ساتھ ایک جاہلوں کے حکم دیا کہ یروشلم سے باہر  
نہ جاؤ۔۔۔۔۔ اور وہ یہ کہنے کے اُن کے دیکھتے ہوئے اُپر اُٹھایا گیا اور بدلی نے اُن کی  
نظر سے چھپا لیا۔ اور اس کے جاتے ہوئے آسمان کی طرف اُٹھ کر اُسے  
تھے دیکھو وہ در سفید پوشاک پہنے ہوئے اُن کے پاس کھڑے تھے (۱۱) اور کہنے لگے  
اے جلیل مروج تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو یہی یسوع جو تمہارے پاس کو  
آسمان پر اُٹھایا گیا ہے اسی طرح جس طرح تم نے اسے آسمان کو جاتے دیکھا پھر آوے گا۔

اب پادری صاحب صرف اس عہدت پر خوش ہو کر کھڑے ہیں کہ حقیقت اسی  
جسم فلکی کے ساتھ مسیح اپنے مرنے کے بعد آسمان کی طرف اُٹھایا گیا۔ لیکن انہیں معلوم ہے  
کہ یہ بیان لوقا کا ہے جس نے نہ مسیح کو دیکھا اور نہ اُس کے شاگردوں سے کبھی سنا ہے پھر  
ایسے شخص کا بیان کیونکر قابل اعتدال ہو سکتا ہے جو شہادت رویت نہیں اور نہ کسی  
دیکھنے والے کے نام کا اُس میں حوالہ ہے۔ ماسوا اس کے یہ بیان سراسر غلط فہمی سے بھرا  
ہوا ہے۔ یہ تو سچ ہے کہ مسیح اپنے وطن گلیل میں جا کر فوت ہو گیا۔ لیکن یہ ہرگز سچ نہیں کہ  
وہی جسم جو دفن ہو چکا تھا پھر زندہ ہو گیا۔ بلکہ اسی باب کی تیسری آیت ظاہر کر رہی ہے



نوت ہوا۔ اور تم سُن چکے ہو کہ مسری نگر محلہ خان یار میں اُس کی قبر ہے۔ یہ سب پہلا طوس کی سی کا نتیجہ تھا۔ لیکن تاہم اُس پہلے پہلا طوس کی کارروائی بُزدلی کی رنگ آمیزی سے خالی نہ تھی۔ اگر وہ اپنے اس قول کا پاس کر کے کہ میں اس شخص کا کوئی گناہ نہیں دیکھتا مسیح کو چھوڑ دیتا تو اُس پر کچھ مشکل نہ تھا۔ اور وہ چھوڑنے پر قادر تھا۔ مگر وہ قیصر کی دوہائی سُن کر ڈر گیا۔ لیکن یہ آخری پہلا طوس پادریوں کے ہجوم سے نہ ڈرا۔ حالانکہ اس جگہ بھی قیصر کی بادشاہی تھی۔ لیکن یہ قیصر اُس قیصر سے بدتر تھا۔ اس لئے کسی کیلئے ممکن نہ تھا کہ حاکم پر دباؤ ڈالنے کے لئے اور انصاف چھوڑنے کیلئے قیصر سے ڈرے۔ بہر حال پہلے مسیح کی نسبت آخری مسیح پر بہت شور اور منصوبہ اٹھایا گیا تھا۔ اور میرے مخالف اور ساری قوموں کے سرگروہ جمع ہو گئے تھے۔ مگر آخری پہلا طوس نے سچائی سے پیار کیا اور اپنے اس قول کو پورا کر کے دکھلایا کہ جو اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا تھا کہ میں تم پر خون کا الزام نہیں لگاتا۔ سو اس نے مجھے بہت معافی اور مردانگی سے بُری کیا اور پہلے پہلا طوس نے مسیح کے بچانے کیلئے سچیلوں سے کلام لیا۔ مگر اس پہلا طوس نے جو کچھ عدالت کا تقاضا تھا۔ اس طوز سے اس تقاضے کو پورا کیا جس میں بُزدلی کا رنگ نہ تھا۔ جس دن میں بُری ہوا اُس دن اس حالت میں نکتی فوج کا ایک چور بھی پیش ہوا۔ یہ اس لئے وقوع میں آیا کہ پہلے مسیح کے ساتھ بھی ایک چور تھا۔ لیکن اس آخری مسیح کے ساتھ چور کو جو پکڑا گیا۔ تو اُس پہلے چور کی طرح پہلے مسیح کے ساتھ پکڑا گیا۔ صلیب پر نہیں چڑھایا۔ اور نہ اس کی ہڈیاں توڑی گئیں۔ بلکہ صرف تین ماہ کی قید ہوئی۔

اب پھر ہم اپنے بیان کی طرف رجوع کر کے لکھتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ میں اس قدر حقائق و دقائق و معارف جمع ہیں کہ اگر ان سب کو لکھا جائے تو وہ باتیں ایک دفتر میں بھی ختم نہیں ہو سکتیں۔ اسی ایک حکیمانہ دعا کو دیکھئے کہ جو اس سورۃ میں سکھائی گئی ہے یعنی

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ یہ دعا ایک ایسا مفہوم رکھتی ہے جو تمام دین

پہلی فصل

۶۱۰

برائین احمدیہ

ان تمہیدات کے بعد دلائل حقیقت قرآن شریف کے لکھے جاتے ہیں۔ ونسئل  
اللہ التوفیق والنصرة هو نعم المولى ونعم النصير۔

۵۱۲

زیادہ تر کریم ہے کہ پھر اُس کو یہ جلتا ہوا دوزخ دکھائے۔ غرض یہ کامل استقامت وہ  
فتنہ ہے کہ جس سے کارخانہ وجود بندہ کو بگلی شکست پہنچتی ہے اور ہوا اور شہوت اور  
ارادت اور ہر ایک خود روی کے فعل سے بیکبارگی دستکش ہونا پڑتا ہے اور یہ مرتبہ  
سیر و سلوک کے مراتب میں سے وہ مرتبہ ہے جس میں انسانی کوششوں کا بہت کچھ  
داخل ہے اور بشری مجاہدات کی بخوبی پیش رفت ہے اور اسی حد تک اولیاء اللہ کی  
کوششیں اور سالکین کی محنتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور پھر بعد اس کے خاص مواہب سماوی

۵۱۱

۵۱۰

حُبَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْأَكْرَمِ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ۔ اس جگہ فتنہ ہے۔ پس صبر کر  
جیسے اولوالعزم لوگوں نے صبر کیا ہے۔ خبردار ہو۔ یہ فتنہ خدا کی طرف سے ہے تا وہ ایسی  
محبت کرے جو کامل محبت ہے۔ اس خدا کی محبت جو نہایت عزت والا اور نہایت بزرگ ہے  
وہ بخشش جس کا کبھی انقطاع نہیں۔ شَانَانٍ تُذْبَحَانِ۔ وَكُلٌّ مِّنْ عَلَيْهَا قَانٍ۔ دو  
بکریاں ذبح کی جائیں گی اور زمین پر کوئی ایسا نہیں جو مرنے سے بچ جائیگا۔ یعنی ہر ایک  
کے لئے قضا و قدر درپیش ہے اور موت سے کسی کو خلاصی نہیں۔ کوئی چار روز پہلے اس  
دنیا کو چھوڑ گیا اور کوئی پیچھے اُسے جا ملا۔

نہیں مرگ است گز یا ران ہو شد سے یا ران را بد بیکدم می کند وقت خزاں فصل بہاراں را  
وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا۔ اَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا۔ اَلَمْ تَعْلَمُوا  
اَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔  
اور سست مت ہو اور غم مت کرو۔ کیا خدا اپنے بندہ کو کافی نہیں ہے۔ کیا تو نہیں  
جانتا کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اور خدا ان لوگوں پر بھی کوواہ لائے گا۔ اَوْفَىٰ اللَّهُ أَجْرَكَ  
وَيُؤْتِي عَنكَ رِزْقًا وَيُنَزِّلُ سَمَكًا وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَ  
هُوَ يَكْفُرُ بِكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ

یہ حوالہ صفحہ 131 پر درج ہے

برائین احمدیہ جلد 1 صفحہ 610 مندرجہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 610 [حاشیہ در حاشیہ] از مرزا قادیانی

عالم کا مرنے والے اور چہرے پر سے اور چہرے مر گئے تو ان کی موت سے کوئی نخل دنیا کے انتظام میں نہیں آسکتا۔ پس خدا تعالیٰ کی یہی سنت ہے کہ جب اُس کے مرسلوں کے مقابل پر لوگ اور فرق کھڑا ہو جاتا ہے تو گودہ اپنے خیال میں کیسے ہی اپنے تئیں نیک قرار دے انہیں کو خدا تعالیٰ تباہ کرتا ہے! اور انہیں کی ہلاکت کا وقت آجاتا ہے۔ کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ جس غرض کیلئے اپنے کسی مرسل کو مبعوث فرماتا ہے، اس کو ضائع کرے کیونکہ اگر ایسا کرے تو پھر وہ خود اپنی غرض کا دشمن ہو گا۔ اور پھر زمین پر اسکی کون عبادت کرے گا۔ دنیا کثرت کو دیکھتی ہے اور خیال کرتی ہے۔ کہ یہ فرق بہت بڑا ہے۔ سو یہاں پہلے ہے۔ اور نادان خیال کرتا ہے۔ کہ یہ لوگ ہزاروں لاکھوں مساجد میں جمع ہوتے ہیں کیا یہ بڑے ہیں۔ مگر خدا کثرت کو نہیں دیکھتا۔ وہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ خدا کے خاص بندوں میں محبت الہی اور صدق اور وفا کا ایک ایسا خاص نور ہوتا ہے کہ اگر میں بیان کر سکتا تو بیان کرتا لیکن میں کیا بیان کروں جیسے دنیا ہوتی اس راز کو کوئی نبی یا رسول بیان نہیں کر سکا۔ خدا کے باوجود بندوں کی اس طور کا آستانہ الہی پر بلوغ کرتی ہے۔ مگر کوئی لفظ ہمارے پاس نہیں کہ اس کیفیت کو دکھلا سکے۔ اب بعد اس کے بقیہ ترجمہ کر کے اس معنیوں کو ختم کرتا ہوں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ اگرچہ میں تجھے قتل سے بچاؤں گا۔ مگر تیری جماعت میں سے دو بکریاں ذبح کی جائیں گی۔ اور ہر ایک جو زمین پر ہے اور فنا ہو گا یعنی بیگناہ اور معصوم ہونے کی حالت میں قتل کی جائیں گی۔ یہ خدا تعالیٰ کی کتابوں میں حماورہ ہے۔ کہ بیگناہ اور معصوم کو بکری سے یا بکری سے تشبیہ دیا جاتی ہے اور کبھی گائیل سے بھی تشبیہ دیا جاتی ہے سو خدا تعالیٰ نے اس جگہ انسان کا لفظ چھوڑ کر بکری کا لفظ استعمال کیا۔ کیونکہ بکری میں دو ہتھریں وہ دو ہتھریں بھی دیتی ہے۔ اور پھرائیں گا گوشت بھی کھایا جاتا ہے۔ اور یہ پیشگوئی شہید مرحوم مولوی محمد عبداللطیف الدہان کے شاگرد عبدالرحمن کے بارے میں ہے کہ جو براہین احمدیہ کے لکھے جانے کے بعد پوسے تئیں میں بعد پوری ہوئی۔ اب تک لاکھوں کروڑوں انسانوں نے اس پیشگوئی کو میری کتاب براہین احمدیہ کے صفحہ ۱۱۵ میں پڑھا ہو گا۔ اور ظاہر ہے کہ جیسا کہ ابھی میں نے لکھا ہے بکری کی صفحتوں میں سے ایک صفحہ دینا ہے۔ اور ایک اُس کا گوشت ہے جو کھایا جاتا ہے۔ یہ دونوں بکری کی صفحتیں مولوی عبداللطیف صاحب مرحوم کی شہادت سے پہلی ہوئیں۔ کیونکہ مولوی صاحب مرحوم نے مباحثہ کے وقت ان کے اقسام

یعنے اُس پر تفریقہ کی ٹھہرت نازل ہوگی۔ اور اپنے مقاصد میں ناکام رہے گا اور رسوا ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اس شخص کے دعویٰ اسلام اور مولویت کے لائق نہیں تھا کہ تکفیر اور تکذیب پر جرأت کرتا اس تک مقدمہ میں چلا کی کے ساتھ دخل دیتا۔ ہاں یہ چاہیے تھا کہ صحت نیت اور خوف دل کے ساتھ اپنے شکوک رفع کرانا۔ اور پھر فرمایا کہ اس شخص کے منصوبوں سے جو کچھ تجھے ضرر پہنچے گا وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جب یہ تکفیر اور تکذیب کریگا تو اُس وقت ملک میں ایک جڑا قتلہ برپا ہوگا۔ وہ قتلہ انسان کی طرف سے نہیں بلکہ تیرے خدا سے ہی چاہا تا وہ تجھ سے نہایت درجہ کی محبت کرے کیونکہ ہر ایک مصفاہ ابتلا کے بعد ہوتا ہے خدا کی محبت بڑھنے قدم کے لائق ہے کیونکہ وہ سب پر غالب ہے سب سے زیادہ کریم ہے۔ پس جس سے وہ محبت کرے گا اس کی تمام امیدیں کامیابی کا انجام رکھتی ہیں۔ اور اُس کی یہ عطا غیر منتقل ہے۔ اس کے بعد لڑوں ہوگا کہ دو بچیاں فتح کی جائیں گی پہلی بکری سے مراد میرزا احمد بیگ ہو شیار پوری ہے اور دوسری بکری سے مراد اُس کا مادہ ہے اور پھر فرمایا کہ تم سست مت ہو اور غم مت کرو کیونکہ ایسا ہی ظہور میں آئے گا۔ کیا تو نہیں جانتا کہ خدا ہر ایک چیز پر قادر ہے اور پھر فرمایا کہ ہم نے تجھے کھلی کھلی فتح دی ہے یعنی کھلی کھلی فتح دیں گے تاکہ تیرا خدا تیرے اگے بچھا گناہ بخشے یعنی کامل محبت اور قبولیت عطا کرے کیونکہ خدا تعالیٰ کا تمام گناہ بخش دینا اس معاملہ پر استعمال پاتا ہے کہ وہ اٹلی دھبہ پر رخی ہو جائے اور پھر فرمایا کہ خدا اپنے بندہ کے لئے کافی ہے۔ وہ اُس کو اُن تمام ہلڑوں کی بڑی کریگا جو اس پر لگائے جاتے ہیں۔ اور وہ بند خدا کے نزدیک وحید ہے۔

ان پیشگوئیوں میں علاوہ اور پیشگوئیوں کے جو ان کے ضمن میں بیان کی گئیں دو بچیوں کی بونے کی پیشگوئی احمد بیگ اور اُس کے دلاؤ کی طرف اشارہ ہے جو آج سے ستر برس پہلے براہین احمدیہ میں شائع ہو چکی ہے ایسا ہی محمد حسین کی تکفیر کا خبر جو صدف پانچ چار سال سے شائع ہوا ہے آج سے ستر برس پہلے اُس قتلہ کی براہین میں خبر دی گئی ہے چنانچہ میں ابھی بیان کر چکا ہوں۔ اب سوچنا چاہیے کہ کیا یہ انسان کا کام ہے۔ کیا انسان کو یہ قدرت حاصل ہے کہ آئندہ وقت کی خبر لہا لہا پہلے ایسی صفائی سے بیان کر سکے۔ بڑے عظیم الشان قتلہ میری نسبت دو واقعہ میں آئے ہیں ایک پلاویوں کا ایک محمد حسین وغیرہ کی تکفیر کا۔ سو ان دونوں قتلہ کی تصریح کیسا تم براہین احمدیہ میں ستر برس پہلے آج کے دن خبریں موجود ہیں کیا تم میں کوئی اور شخص موجود ہے جس کی تحریروں میں عظیم الشان سلسلہ پیشگوئیوں کا پایا جائے یقیناً کوئی سخت جیسا کہ جو اس نے لکھا ہے سلسلہ سے انکار کرے اس جگہ ہم اہل ہاشم کی طرح برس رہا ہے کہ انوں کے صوانے کھلے میں اب دیکھو کہ یہ خبریں مولوی کیتنگ اور کیتنگ اٹھ کریں گے میں خدا سے یقینی علم پا کر کہتا ہوں کہ اگر یہ تمام مولوی اور ان کے سواہ نشین لوگوں کے علم

یادِ بیضا کہ با او تابندہ	باز با ذوالفقار سے بیتم
---------------------------	-------------------------

یعنی اُس کا وہ روشن ہاتھ جو تمام کے مُجت کی رُو سے تلوار کی طرح چمکتا ہے پھر میں اُس کو ذوالفقار کے ساتھ دیکھتا ہوں یعنی ایک زمانہ ذوالفقار کا تو وہ گزر گیا کہ جب ذوالفقار علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھ میں تھی گر خدا تعالیٰ پھر ذوالفقار اُس امام کو دے دے گا۔ اس طرح پر کہ اُسکا چمکنے والا ہاتھ وہ کام کرے گا جو پہلے زمانہ میں ذوالفقار کرتی تھی سو وہ ہاتھ ایسا ہوگا کہ گویا وہ ذوالفقار علی کرم اللہ وجہ ہے جو پھر ظاہر ہوگئی ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ امام سلطان القلم ہوگا اور اُسکی قلم ذوالفقار کا کام دیگی۔ یہ پیشگوئی بعینہ اس عاجز کے اُس الہام کا ترجمہ ہے جو اس وقت سے دس برس پہلے براہین احمدیہ میں چھپ چکا ہے اور وہ یہ ہے کتاب الولی ذوالفقار علی۔ یعنی کتاب اس ولی کی ذوالفقار علی کی ہے یہ اس عاجز کی طرف اشارہ ہے۔ اسی بنا پر بار بار اس عاجز کا نام مکاشفات میں غازی رکھا گیا ہے چنانچہ براہین احمدیہ کے بعض دیگر مقامات میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔

عازی دوستِ دشمن کش	ہدم و یارِ غار سے بیتم
--------------------	------------------------

وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک غازی ہے دوستوں کو بچانے والا اور دشمنوں کو مارنے والا۔

صورتِ سیرتِ جو بیغمبر	علم و حلمش شعار سے بیتم
-----------------------	-------------------------

یعنی ظاہر و باطن اپنا نبی کی مانند رکھتا ہے اور شانِ نبوت اُس میں نمایاں ہے اور علم اور حلم اُسکا شعار ہے مراد یہ کہ بیاعت اپنی اتباع نبی کریم کے گویا وہی صورت اور وہی سیرت اُسکو حاصل ہوگئی ہے یہ اُس الہام کے مطابق ہے جو اس عاجز کے باسے میں براہین میں چھپ

کا نزول ہے وہ دمشق میں واقع ہے بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منارہ سے اُس مسجد اقصیٰ کا منارہ مراد لیا ہے جو دمشق سے شرقی طرف واقع ہے یعنی مسیح موعود کی مسجد جو حال میں وسیع کی گئی ہے اور عمارت بھی زیادہ کی گئی۔ اور یہ مسجد فی الحقیقت دمشق سے شرقی طرف واقع ہے۔ اور یہ مسجد صرف اس غرض سے وسیع کی گئی اور بنائی گئی ہے کہ تار مشقی مفسد کی اصلاح کرے اور یہ منارہ وہ منارہ ہے جس کی ضرورت احادیث نبویہ میں تسلیم کی گئی۔ اور اس منارہ المسیح کا خرچ دس ہزار روپیہ سے کم نہیں ہے۔ اب جو دوست اس منارہ کی تعمیر کے لیے مدد کریں گے میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بھاری خدمت کو انجام دیں گے اور میں یقیناً جانتا ہوں کہ ایسے موقع پر خرچ کرنا ہرگز ہرگز ان کے نقصان کا باعث نہیں ہوگا۔ وہ خدا کو قرض دیں گے اور مدد سود واپس لیں گے۔ کاش ان کے دل سمجھیں کہ اس کام کی خدا کے نزدیک کس قدر عظمت ہے جس نے ان منارہ کا حکم دیا ہے اس نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ اسلام کی مردہ حالت میں اسی جگہ سے زندگی کی روح پھونکی جائے گی اور یہ فتح نمایاں کا میدان ہوگا مگر یہ فتح ان ہتھیاروں کے ساتھ نہیں ہوگی جو انسان بنتے ہیں بلکہ آسمانی حربہ کے ساتھ ہے جس حربہ سے فرشتے کام لیتے ہیں۔ آج سے انسانی جہاد جو تلوار سے کیا جاتا تھا خدا کے حکم کے ساتھ بند کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو شخص کافر پرتلووار اٹھاتا اور اپنا ناغازی رکھتا ہے وہ اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے جس نے آج سے تیرہ سو برس پہلے فرما دیا ہے کہ مسیح موعود کے آنے پر تمام تلوار کے جہاد ختم ہو جائیں گے۔ سواب میرے ظہور کے بعد تلوار کا کوئی جہاد نہیں۔ ہمازی طرف سے امان اور صلی کاری کا سفید جھنڈا بلند کیا گیا ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف دعوت کرنے کی ایک راہ نہیں۔ پس جس راہ پر نادان لوگ اعتراض کر چکے ہیں خدا تعالیٰ کی حکمت اور مسلمات نہیں چاہتی کہ اسی راہ کو پھر اختیار کیا جائے اس کی ایسی ہی مثال ہے کہ جیسے جن نشانوں کی پسے تکذیب ہو چکی وہ ہمارے سید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دینے گئے۔ لہذا مسیح موعود اپنی فوج کو اس منبرخ مقام سے تھپتھے بٹ جانے کا حکم دیتا ہے۔ جو بدی کا بدی کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اپنے تئیں شریر کے حملہ سے بچاؤ مگر خود شریرانہ مقابلہ مت کرنا جو شخص ایک

امور ملکی مدنی و منزلی اور خود فرد فرد کے ذاتی ہیں۔ ان میں سے کسی میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ ہر وقت اور ہر جگہ ان کے رازوں کا افشا کرنا مصلحت ہو یا عدم افشا کا نام مکر اور فریب رکھا جائے۔ خدا تعالیٰ نے دل و زبان و غیرہ قوی انسان کو عطا فرمایا کہ ان کے مناسب استعمال کے لئے اُسے فہم و ار بنایا ہے اور ہر ایک بات کی عمدگی اور خوبی دکھانے کے لئے جدا جدا مواقع اور محل اور وقت اُس بات کے مقرر کئے ہیں کوئی خلق خواہ کیسا ہی عمدہ ہو مگر جب وہ بے عمل اور بے وقت ہمار ہوگا تو ساری خوبی اور خوبصورتی اُس کی خاک میں مل جائے گی اور کوئی مفید چیز اپنے فوائد پر گز نظر نہیں کہے گی جب تک وہ ٹھیک ٹھیک اپنے وقت پر استعمال میں نہ لائی جائے۔ خدا تعالیٰ کی سچی اطاعت اور نوع انسان کی حقیقی بھلائی وہی شخص بجا لا سکتا ہے جو وقت شناس ہو ورنہ نہیں۔ مثلاً ایک شخص گوراست گوہے مگر اپنی راستی کو حکمت کے ساتھ ظاہر استعمال نہیں کرتا بلکہ لامٹی کی طرح مارتا ہے اور بے تمیزی سے ایک شریف خصلت کو بے عمل کام میں لاتا ہے تو وہ ایک حکیم منش کے نزدیک برگز قابل تعریف نہیں ٹھہرتا۔ ایسے کو جاہل نیک بخت کہیں گے نہ دانائیک بخت اگر کوئی اندھے کو اندھا اندھا کر کے پکارے اور پھر کسی کے منع کرنے پر یہ کہے کہ میاں کیا میں بھوٹ بولتا ہوں تو اُسے یہی کہا جائے گا کہ بے شک تو راست گوہے مگر احمق یا شریر کہ جس راستی کے اظہار کی تجھے ضرورت ہی نہیں اُس کو واجب الاظہار سمجھتا ہے اور اپنے بھائی کے دل کو دکھاتا ہے۔ اسی طرح اخلاقی امور کا تمام عقد جو ابر اسی ایک ہی رشتہ سے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
نحمدہ و نصلی علی رسولنا الکریم

## احمد مسیح کے ساتھ مباہلہ منظور

۲۱ مئی ۱۹۰۶ء کی ڈاک میں مجھے دہلی کے اندر سے عیسائی احمد مسیح کا وہ اشتہار ملا تھا جس میں عیسائی مذکور نے اسلام اور عیسائیت کے درمیان آخری فیصلہ کرنے کے واسطے مجھے مباہلہ کے واسطے طلب کیا۔ اس کے جواب میں پانچ مئی کے اشتہار میں میں نے اس دعوت کو قبول کیا۔ بدیں شرط کہ لاہور، کلکتہ، مدراس اور بمبئی چار مقامات کے بشپ صاحبان اس مباہلہ میں شامل ہوں اور اس شہریت کے واسطے ان کے لئے تکلیف سزا برداشت کرنے اور کسی ایک جگہ جمع ہونے کی بھی شرط قرار نہیں دی۔ کیونکہ میرے نزدیک مباہلہ تحریری بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ یہ اشتہار علاوہ علیحدہ چھپنے کے اخبار بد مورخہ ۱۰ مئی ۱۹۰۶ء کے صفحہ اول پر اور اخبار الحکم مورخہ ۱۰ مئی ۱۹۰۶ء کے صفحہ ۱۱ پر بھی شائع ہو چکا ہے اور اس کے جواب کے واسطے تین ماہ کی لمبی صلت بھی دی گئی ہے لیکن آج مجھے خیال آیا ہے کہ اس مباہلہ میں عیسائی صاحبان کو اور بھی سہولت دی جاوے تاکہ ان کا کوئی جھوٹا عذر بھی باقی نہ رہے۔ اس واسطے میں اعلان کرتا ہوں کہ میں مباہلہ کے واسطے خود احمد مسیح نابینا کے بالتقابل ہی خیاب ہوں بشپ صاحبان اگر پسند نہیں کرتے تو وہ بالتقابل اپنا نام پیش نہ کریں بلکہ اپنی تحریری سند دیکر بذریعہ چھپے ہوئے اشتہار کے اخبار پائیر یا سول میں صرف یہ شائع کر دیں کہ احمد مسیح کا مغلوب ہونا چہاں بشپ صاحبان کا مغلوب ہونا سمجھا جاوے گا۔ یہ بات بھی ہم اس واسطے کہتے ہیں کہ احمد مسیح ایک گنم آدمی ہے اور جب تک بشپ صاحبان اس کو اپنا ناقص نام نہ بناویں تو ہم پر کچھ اثر نہیں ہو سکتا لیکن اب معاملہ بہت صاف کر دیا گیا ہے۔ امید ہے کہ بشپ صاحبان پورے غور و فکر کے بعد اس مباہلہ کو منظور کریں گے۔

مکرر آیا کہ اگر ہر چہاں بشپ منظور نہ کریں تو صرف لاہور کے بشپ صاحب کی ہی تحریر کافی سمجھی جاتے گی۔

وَالسَّلَامُ عَلٰی سَائِرِ النَّبِیِّیْنَ

خاکسار: میرزا غلام احمد مسیح موعود قادیان ۱۹۰۶ء



آنے کا وقت پندرہویں صدی کا شروع سال بتلا گئے ہیں چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی قدس سرہ کی بھی ایسی ہی لائے ہے اور مولوی صدیق حسن صاحب مرحوم نے بھی اپنے ایک رسالہ میں ایسا ہی لکھا ہے اور اکثر محدثین اس حدیث کے معنی میں کہ جو آیات بعد الماتین سے اسی طرف گئے ہیں۔ اگر یہ کہو کہ مسیح موجود کا آسمان پر دمشق کے منارہ کے پاس اترنا تمام مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے تو اس کا جواب میں اسی رسالہ میں لکھ چکا ہوں کہ اس بات پر ہرگز اجماع نہیں قرآن شریف میں اس کا کہاں بیان ہوگا تو صرف موت کا ذکر ہے بخاری میں حضرت عیسیٰ کی روح کے ساتھ حضرت عیسیٰ کی روح کو دوسرے آسمان پر بیان کیا ہے اور دمشق میں اترنے سے اعراض کیا ہے اور ابن ماجہ صاحب بیت المقدس میں ان کو نازل کر رہے ہیں اور ان سب میں سے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ تمام الفاظ و اسما ظاہر یہی محمول ہیں بلکہ صرف صورت پیش گوئی پر ایمان لے آئے ہیں پھر اجماع کس بات پر ہے۔ ہاں تیرہویں صدی کے اختتام پر مسیح موجود کا آنا ایک اجماعی عقیدہ معلوم ہوتا ہے۔ سو اگر یہ عاجز مسیح موجود نہیں تو پھر آپ لوگ مسیح موجود کو آسمان پر اتار کر دکھلا دیں۔ صالحین کی اولاد ہو مسجد میں بیٹھ کر تضرع اور زاری کرو تاکہ عیسیٰ رضی اللہ عنہما سے فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تشریف لائیں اور تم سچے ہو جاؤ ورنہ کیوں ناحق بدظنی کرتے ہو اور زیر الزام آیت کہ لَمْ يَلْقَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ آنے ہو خدا نے تعالے سے ڈرو۔

لطیفہ چند روز کا ذکر ہے کہ اس عاجت نے اس طرف توجہ کی کہ کیا اس حدیث کا کا جو آیات بعد الماتین سے ایک یہ بھی نشا ہے کہ تیرہویں صدی کے اواخر میں مسیح موجود کا ظہور ہو گا اور کیا اس حدیث کے مفہوم میں بھی یہ عاجز داخل ہے تو مجھے کشفی طور پر اس مندرجہ ذیل نام کے اعداد حروف کی طرف دلائی گئی کہ دیکھ یہی مسیح ہے کہ جو تیرہویں صدی کے پورے ہونے پر ظاہر ہو لے لہذا تھا پہلے ہی تاریخ

۱۸۹

اس وقت مجھے اپنے ایک دوست کی بات یاد آئی ہے۔ خدا اس کو غریقِ رحمت کرے نام اس مرحوم کا حافظہ ہدایت علی تھا اور یہ کسی زمانہ میں صلح گوردوارہ کے کنٹرولر اسٹنٹ تھے اور مدت تک ٹیکہ میں تحصیلدار بھی رہے۔ ایک جلسہ میں انہوں نے فرمایا کہ جس قدر بعض امور کے ظہور کا آخری زمانہ کے بارے میں وعدہ دیا گیا ہے اور بعض پیشگوئیاں فرمائی گئی ہیں ہمیں ان کی نسبت یہ اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ ضرور پوری گھری صورت میں ہی ظہور پزیر ہوں گی۔ تا اگر ان کی حقیقت کسی اور طرح پر کھلے تو ہم ٹھوکر نہ کھاویں۔ اور ہمارا ایمان سلامت رہ جائے۔ اور کہا کہ چونکہ غالباً ہم اسی زمانہ میں پیدا ہوئے ہیں جس کو آج سے کچھ کم تیسرا سو برس پہلے آخری زمانہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اس لئے کچھ تعجب نہیں کہ ان میں سے بعض پیشگوئیاں ہماری ہی زندگی میں ظاہر ہو جائیں۔ سو ہمیں اجمالِ ایمان کا اصول محکم پکڑنا چاہیے اور کسی شق پر ایسا زور نہیں دینا چاہیے جیسا کہ اس حالت میں دیا جاتا ہے کہ جو ایک حقیقت کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ تہہ کلانہ

اور واقعی یہ سچ اور بالکل سچ ہے کہ امت کے اجماع کو پیشگوئیوں کے امور سے کچھ تعلق نہیں اور ہمارے حال کے مولویوں کو یہ سخت دھوکا لگا ہوا ہے کہ پیشگوئیوں کو بھی جن کی اصل حقیقت ہنوز درپردہ غیب ہے اجماع کے قبضہ میں کھینچنا چاہتے ہیں۔ اور اصل پیشگوئیاں حاملہ عورتوں سے مشابہت رکھتی ہیں اور مشابہت ایک حاملہ عورت کی نسبت ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ اس سکرپٹ میں کوئی بچہ منور ہے اور یقیناً وہ جو مینے اور دس دن کے اندر اندر پیدا بھی ہو جائے گا مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا شکل رکھتا ہے اور اس کی حالت جسمی کیسی ہو اور اس کے نقوش چہرہ کس طرز کے واقع ہیں اور لڑکا ہے یا بلاشبہ لڑکی ہے۔

شاید اس جگہ کسی کے دل میں یہ اعتراض ظہور کیا کہ اگر پیشگوئیوں کا ایسا ہی

ان افعال سے کم نہ تہ پر ہمیں گا جو خود خدا تعالیٰ علانیہ اور بالجہرا اپنی قوت کاملہ سے ظہور میں لاتا ہے یعنی ایسا اقتداری معجزہ نہ نسبت دوسرے الہی کاموں کے جو بلا واسطہ اللہ جل شانہ سے ظہور میں آتے ہیں ضرور کچھ نقص اور کمزوری اپنے اندر موجود رکھتا ہوگا تا سرسری نگاہ والوں کی نظر میں تشابہ فی الخلق واقع نہ ہو۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا باوجود اس کے کہ کئی دفعہ سانپ بنا لیکن آخر عصا کا عصا ہی رہا اور حضرت مسیح کی چڑیاں باوجودیکہ معجزہ کے طور پر انکا پرواز قرآن کریم سے ثابت ہے مگر پھر جی ٹی کی مٹی ہی تھی۔ اور کہیں خدا تعالیٰ نے یہ نہ فرمایا کہ وہ زندہ بھی ہو گئیں اور ہمارے

## نبی اللہ علیہ وسلم کے اقتداری خوارق میں

چونکہ طاقت الہی سب سے زیادہ بھری ہوئی تھی کیونکہ وجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تجلیات الہیہ کے لئے اتم و اعلیٰ و ارفع و اکمل نمونہ تھا اس لئے ہماری نظر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداری خوارق کو کسی درجہ بشریت پر مقرر کرنے سے قاصر ہیں مگر تاہم ہمارا اسپر ایمان ہے کہ اس جگہ بھی اللہ جل شانہ اور اس کے رسول کریم کے فعل میں مخفی طور پر کچھ فرق ضرور ہوگا۔

اب ان تحریرات سے ہماری غرض اس قدر ہے کہ لقا کا مرتبہ جب کسی انسان کو میسر آتا ہے تو اس مرتبہ کی توجیح کے اوقات میں الہی کام ضرور اس سے صادر ہوتے ہیں اور ایسے شخص کی گہری صحبت میں جو شخص ایک حصہ عمر کا بسر کرے تو ضرور کچھ نہ کچھ یہ اقتداری خوارق مشاہد کرے گا کیونکہ اس توجیح کی حالت میں کچھ الہی صفات کارنگ ظلی طور پر انسان میں آجاتا ہے یہاں تک کہ اس کا رحم خدا تعالیٰ کا رحم اور اس کا غضب خدا تعالیٰ کا غضب آجاتا ہے اور بسا اوقات وہ بغیر کسی دعا کے کہتا ہے کہ فلاں چیز پیدا ہو جائے تو وہ پیدا ہو جاتی ہے اور کسی پر غضب کی نظر سے دیکھتا ہے تو اسپر کوئی

اقتداری معجزہ خدا تعالیٰ کے بلا توسط کاموں سے کم درجہ اور قلیل

اقتداری معجزہ خدا تعالیٰ کے بلا توسط کاموں سے کم درجہ اور قلیل

ہو سکتا ہے جس کو پیش کر کے ہم ہر ایک ملک کے آدمی کو خواہ ہندی ہو یا پارسی یا یورپین یا امریکن یا کسی اور ملک کا ہو ملزم و ساکت و لاجواب کر سکتے ہیں۔ وہ غیر محدود معارف و حقائق و علوم حکمیہ قرآنیہ ہیں جو ہر زمانہ میں اس زمانہ کی حاجت کے موافق کھلتے جاتے ہیں اور ہر ایک زمانہ کے خیالات کا مقابلہ کرتے کے لئے مستحسب سپاہیوں کی طرح کھڑے ہیں مگر قرآن شریف اپنے حقائق و حقائق کے لحاظ سے ایک محدود چیز ہوتی تو ہرگز وہ معجزہ تاترہ نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ فقط بلاغت و فصاحت ایسا امر نہیں ہے جس کی اعجازی کیفیت ہر ایک خواندہ ناخواندہ کو معلوم ہو جائے کھلا کھلا اعجاز اس کا تو یہی ہے کہ وہ غیر محدود معارف و حقائق

۳۰۶ سے بطور لہو و لعب نہ بطور حقیقت ظہور میں آسکیں کیونکہ عمل الترب میں جس کو زمانہ محل میں سمرزم کہتے ہیں ایسے ایسے عجائبات ہیں کہ اس میں تو یہی لہو و لعب کی مشق کرنے والے اپنا روح کی گرمی دوسری چیزوں پر ڈال کر ان چیزوں کو زندہ کے موافق کہہ جاتے ہیں۔ انسان کی روح میں کچھ ایسی خاصیت ہے کہ وہ اپنی زندگی کی گرمی ایک جماد پر جو بالکل بے جان ہے ڈال سکتی ہے۔ تب جماد سے وہ بعض حرکات صادر ہوتی ہیں جو زندگی سے صادر ہوا کرتی ہیں۔ راقم رسالہ ہڈانے اس علم کے بعض مشق کرنے والوں کو دیکھا ہے جو انہوں نے ایک لکڑی کی تپائی پر ہاتھ رکھ کر ایسا اپنی حیوانی روح سے اُسے گرم کیا کہ اس نے چار بائوں کی طرح حرکت کرنا شروع کر دیا اور کتنے آدمی گھوڑے کی طرح اس پر سوار ہوئے اور اسکی تیزی اور حرکت میں کچھ کمی نہ ہوئی۔ سو یقین طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ اگر ایک شخص اس فن میں کامل مشق رکھنے والا ہو گا ایک پرندہ بنا کر اس کو پرواز کرتا ہوا بھی دکھا دے تو کچھ بعید نہیں کیونکہ کچھ اعجازہ نہیں کیا گیا کہ اس فن کے کمال کی کہان تک اتمام ہے۔ اور جبکہ ہم چشم خود دیکھتے ہیں کہ اس فن کے ذریعہ سے ایک جماد میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ جانداروں کی طرح چلنے لگتا ہے تو پھر اگر اس میں پرواز بھی ہو تو بعید کیا ہے۔ مگر یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا جانور جو مٹی یا لکڑی وغیرہ سے بنایا جاوے اور عمل الترب سے اپنی روح کی گرمی اس کو پہنچائی جاوے وہ درحقیقت زندہ نہیں ہوتا بلکہ بدستور بے جان اور جماد ہوتا ہے صرف حامل کے روح کی گرمی بارود کی طرح اُس کو جنبش میں لاتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان پرندوں کا پرواز کرنا قرآن شریف سے

حصہ اول

۲۵۷

ازاد اہام

اپنے اندر کتاب ہے جو شخص قرآن شریف کے اس اعجاز کو نہیں مانتا وہ علم قرآن کو سخت بے نصیب ہے ومن لم یؤمن بذات اللک الا عجز فواقه ما قدر القرآن حق قدره وما عرف الله حق معرفته واما وقد الرسول حق توفیره۔

اے بندگانِ خدا! یقیناً یاد رکھو کہ قرآن شریف میں غیر محدود معارف و حقائق کا اعجاز ایسا کامل اعجاز ہے جس نے ہر ایک زمانہ میں تلوار کے زباؤں کا کام کیا ہے اور ہر ایک زمانہ اپنی نئی حالت کے ساتھ جو کچھ شبہات پیش کرتا ہے یا جس قسم کے اعلیٰ معارف کا دعویٰ کرتا ہے اس کی پوری مدافعت اور پورا التزام اور پورا پورا مقابلہ قرآن شریف میں موجود ہے کئی شخص

برگزشتہ نہیں ہوتا بلکہ ان کا ہٹا اور جنبش کن بھی ہوا ہے ثبوت نہیں پہنچتا اور نہ درحقیقت ان کا زندہ ہوجانا کہ ثابت ہوتا ہے۔ اس جگہ بھی جانتا چاہیے کہ سلبِ امراض کرنا اپنی روح کی گرمی جماد میں ڈال دینا درحقیقت سب کل الترب کی شاخیں ہیں۔ ہر ایک زمانہ میں ایسے لوگ ہوتے رہے ہیں اور اب بھی ہیں جو اس روحانی عمل کے ذریعے سلبِ امراض کرتے رہے ہیں اور مصلوح امیروں، مدقوق وغیرہ ان کی توجہ سے اچھے ہوتے رہے ہیں جن لوگوں کے معلومات وسیع ہیں وہ میرے اس بیان پر شہادت دے سکتے ہیں کہ بعض فقہاء فقہندی و تہروردی وغیرہ نے بھی ان مشغول کی طرف بہت توجہ کی تھی اور بعض ان میں یہاں تک مشاق گزے ہیں کہ صدائے کاروں کو اپنے یسین و یسار میں بٹھا کر صوفیوں کے نظر سے اچھا کر دیتے تھے اور علی اللہ ان لوگوں نے صاحب کو بھی اس میں خاص توجہ کی تھی۔ لویا اور ال سلوک کی قوارخ اور سوانح پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کالمیں ایسے عملوں سے پرہیز کرتے رہے ہیں مگر بعض لوگ اپنی ولایت کا ایک ثبوت بنانے کی غرض سے یا کسی اوریت سے ان مشغولوں میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اور اب یہ بات قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت کچھ ان میں مافذ و علم الہی الیضیع نبی کی طرح اس عمل الترب میں کمال رکھتے تھے گو ایضی کے درجہ کا وہ سے کم رہے ہوتے تھے کیونکہ ایضی کی ہشمن نے بھی مجھ کو دکھایا کہ اسکی ہڈوں کے گٹنے سے ایک موہ زندہ ہو گیا مگر چوروں کی ہاشیں مسیح کے جبر کے ساتھ گٹنے سے ہرگز زہی نہیں ہو سکتی۔ یعنی وہ دو چہرہ مسیح کے ساتھ مصلوب ہونے تھے۔ ہر حال مسیح کی یہ تری کا درد امان زمانہ کے مناسب عمل طور خاص مصلحت کے تھیں۔ مگر یاد رکھنا چاہیے کہ یہ عمل ایسا قدر کے لائق نہیں۔ جیسا کہ

## علمائے ہند کی خدمت میں نیاز نامہ

۱۹۰

بے برادران دین و علمائے شیعہ متین! آپ صاحبان میری ان معروضات کو متوجہ ہو کر سنیں کہ اس عاجز نے بوٹیل موجود ہونے کا دعویٰ کیا ہے جس کو کم فہم لوگ مسیح موعود خیال کر بیٹھے ہیں۔ یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں جو آج ہی میرے منہ سے سنا گیا ہو بلکہ یہ وہی پرانا الہام ہے جو میں نے خدائے تعالیٰ سے پا کر براہین احمدیہ کے کئی مقالات پر تصریح درج کر دیا تھا جس کے شائع کرنے پر سات سال سے بھی کچھ زیادہ عرصہ گزر گیا ہو گا میں نے یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا کہ میں مسیح بن مریم ہوں جو شخص یہ الزام میرے پر لگاوے وہ سراسر مفتری اور کذاب ہے بلکہ میری طرف سے عرصہ سات یا آٹھ سال سے برابر یہی شائع ہو رہا ہے کہ میں مثیل مسیح ہوں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعض روحانی خواص طبع اور عادت اور اخلاق وغیرہ کے خدائے تعالیٰ نے میری فطرت میں بھی رکھی ہیں اور دوسرے کئی امور میں جن کی تصریح انہیں رسالوں میں کر چکا ہوں میری زندگی کو مسیح اسی مریم کی زندگی سے مشابہت ہے اور یہ بھی میری طرف سے کوئی نئی بات ظہور میں نہیں آئی کہ میں نے ان رسالوں میں اپنے تئیں وہ موجود ٹھہرایا ہے جس کے آنے کا قرآن شریف میں اجمالاً اور احادیث میں تصریحاً بیان کیا گیا ہے کیونکہ میں پہلے بھی براہین احمدیہ میں تصریح لکھ چکا ہوں کہ میں وہی مثیل موجود ہوں جس کے آنے کی خبر روحانی طور پر قرآن شریف اور احادیث نبویہ میں پہلے سے ظہور ہو چکی ہے۔ تعجب کہ مولوی ابوسعید محمد حسین صاحب بٹالوی اپنے رسالہ اشاعت المسننہ نمبر ۶ جلد سات میں جس میں براہین احمدیہ کا رد و رد لکھا ہے ان تمام اہمال کی اگر ایمانی طور پر نہیں مگنا کافی طور پر تصدیق کر چکے اور بدل و جان مان چکے ہیں مگر پھر بھی سنا جاتا ہے کہ حضرت مولوی صاحب موصوف کو بھی پورے لوگوں کا شور اور غوغا دیکھ کر

۱۹۱

## ضمیمہ تحفہ گولڑویہ

ہم نے مناسب سمجھا ہے کہ اپنے دعویٰ کے متعلق جس قدر ثبوت ہیں اجمالی طور پر انکو اس جگہ اکٹھا کر دیا جائے۔ سو اول تمہیدی طور پر اس بات کا کھتا ضروری ہے کہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں مسیح موعود ہوں جس کے بارے میں خدا تعالیٰ کی تمام پاک کتابوں میں پیشگوئیاں ہیں کہ وہ آخری زمانہ میں ظاہر ہوگا۔ ہمارے علماء کا یہ خیال ہے کہ وہی مسیح عیسیٰ ابن مریم جس پر انجیل نازل ہوئی تھی آخری زمانہ میں آسمان پر سے نازل ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے کہ قرآن شریف اس خیال کے مخالف ہے اور آیت فلما توفیتنی کنت انت الدقیب علیہم ام آیت کا نایا کلان الطعام ام آیت ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الواصل اور آیت فیہا تمیون و فیہا تموتون اور دوسری تمام آیتیں جن کا ہم اپنی کتابوں میں ذکر کر چکے ہیں اس امر پر قطعیۃ الدلالت ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور انکی موت کا انکار قرآن سے انکار ہے اور پھر اس کے بعد اگرچہ اس بات کی ضرورت نہیں کہ ہم احادیث سے حضرت مسیح کی وفات کی دلیل ڈھونڈیں لیکن پھر بھی جب ہم حدیثوں پر نظر ڈالتے ہیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ کافی حصہ اس قسم کی حدیثوں کا موجود ہے جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک سو تیس برس عمر تکھی ہے اور جن میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر عیسیٰ اور موسیٰ زندہ ہوتے تو میری پیروی کرتے۔ اور جن میں لکھا گیا ہے کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات یافتہ روحوں میں داخل ہیں۔ چنانچہ معراج کی تمام پیشین گوئیاں بھی ہیں وہ اس بات پر گواہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معراج کی رات میں وفات شدہ روحوں میں دیکھے گئے۔ لہذا سب سے بڑھ کر حدیثوں کے دوسرے یہ ثبوت ملتا ہے کہ تمام صحابہ کا اس پر اجماع ہو گیا تھا کہ گذشتہ تمام نبی جن میں حضرت عیسیٰ بھی داخل ہیں سب کے سب فوت ہو چکے ہیں۔ اس

لے المائلا: ۱۱۸ لے المائلا: ۷۶ لے ال عمران: ۱۲۵ لے الاعراف: ۲۶

ازالہ اوہام

۲۳۶

حصہ

حضرت عزیٰرا اور حضرت مسیح ہیں اور ان کا بہشت میں داخل ہو جانا اس سے ثابت ہوتا ہے جس کے ان کی موت بھی بپایہ ثبوت پہنچتی ہے۔

(۲۸۷) اٹھائیسویں آیت ابن مائکھونوا یدر حکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ (المجدد نمبر ۵) یعنی جس جگہ تم ہو اسی جگہ موت تمہیں پکڑے گی اگرچہ تم بڑے مرتفع درجوں میں ہو دو بائیں اختیار کرو۔ اس آیت سے بھی صریح ثابت ہوتا ہے کہ موت اور لوازم موت بیک جگہ جسم خاکی پر وارد ہو جاتے ہیں۔ یہی سنت اللہ ہے اور اس جگہ بھی استثنائے کفار کے طور پر کوئی ایسی عبارت بلکہ ایک ایسا کلمہ بھی نہیں لکھا گیا ہے جس سے مسیح باہر رہ جاتا۔ پس بلاشبہ یہ اشارۃ النقص بھی مسیح ابن مریم کی موت پر دلالت کر رہے ہیں۔ موت کے تعاقب سے مراد زمانہ کا اثر ہے جو ضعف اور پیری یا امراض و آفات منجمالی الموت تک پہنچاتا ہے اس کو کوئی نفس مخلوق خالی نہیں۔

۲۲۵

(۲۸۹) اٹھائیسویں آیت مَا اَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ یعنی رسول جو کچھ تمہیں علم و معرفت عطا کرے وہ لے لو اور جس سے منع کرے وہ چھوڑ دو۔ لہذا اب ہم اس طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارہ میں کیا فرمایا ہے۔ سو پہلے وہ حدیث سنو جو مشکوٰۃ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور وہ یہ ہے۔

وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعمار امتي ما بين الستين الى السبعين واقلهم من يجوزة االك رواه الترمذی وابن ماجه۔ یعنی اکثر عمریں مئیدہ کی امت کی ساٹھ سے تتریس تک ہوں گی۔ اور ایسے لوگ کمتر ہونگے جو ان سے تجاوز کریں۔ یہ ظاہر ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم اس امت کے شمار میں ہی آگئے ہیں۔ پھر اتنا فرق کیونکر ممکن ہے کہ اور لوگ تتریس تک مشکل سے پہنچیں اور ان کا یہ حال ہو کہ دو ہزار کے قریب ان کی زندگی کے برس گزر گئے اور اب تک مرنے میں

۲۲۶

نہ تسار: ۷۹ سے حشر: ۸ ۲۰۵



لیکن خدا تعالیٰ مجھے باپ کے لحاظ سے نارسی النسل قرار دیتا ہے اور ماں کے لحاظ سے مجھے فاطمی ٹھہراتا ہے اور وہی حق ہے جو وہ کہتا ہے۔ اور جو تھا امر جو مجھے دو پر مشتمل کرتا ہے وہ یہ ہے کہ میں جوڑا پیدا ہوا تھا۔ ایک میرے ساتھ لڑکی تھی جو مجھ سے پہلے پیدا ہوئی تھی۔

پھر ہم اپنے پہلے مقصد کی طرف رجوع کر کے کہتے ہیں کہ یہ بالکل غلط اور دھوکا کھانا ہے کہ حدیثوں میں مسیح موعود کے بارے میں نبی کا نام دیکھ کر یہ سمجھا جائے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں۔ کیونکہ انہیں حدیثوں میں اگرچہ آنے والے عیسیٰ کا نام نبی رکھا گیا ہے مگر اس کے ساتھ ایک ایسی شرط لگا دی گئی ہے کہ اس شرط کے لحاظ سے ممکن ہی نہیں کہ اس نبی سے مراد حضرت عیسیٰ امرئیلی ہوں کیونکہ باوجود نبی نام رکھنے کے اس عیسیٰ کو انہی حدیثوں میں اتنی بھی قیام دیا ہے۔ اور جو شخص اتنی کی حقیقت پر نظر غور ڈالیگا وہ بدایت سمجھ لے گا کہ حضرت عیسیٰ کو اتنی قرار دینا ایک کفر ہے کیونکہ اتنی اس کو کہتے ہیں کہ جو بغیر اتباع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور بغیر اتباع قرآن شریف بعض ناقص اور گمراہ اور بے دین ہو اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور قرآن شریف کی پیروی سے اس کو ایمان اور کمال نصیب ہو۔ اور ظاہر ہے کہ ایسا خیال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کرنا کفر ہے۔ کیونکہ گو وہ اپنے درجہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ہی کم ہوں مگر نہیں کہہ سکتے کہ جو تک وہ دوبارہ دنیا میں آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل نہ ہوں تب تک بغور یا مذہب گمراہ اور بے دین میں یا وہ ناقص میں اور ان کی معرفت ناممکن ہے۔ پس میں اپنے مخالفوں کو یقینا کہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ اتنی ہرگز نہیں ہیں۔ گو وہ بلکہ تمام انبیاء و آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر ایمان رکھتے تھے مگر وہ ان ہدایتوں کے پیرو تھے جو ان پر نازل ہوئی تھیں۔ اور براہ راست خدا نے ان پر تجلی فرمائی تھی یہ ہرگز نہیں تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی تعلیم سے وہ نبی بنے تھے تا وہ اتنی کہلاتے۔ ان کو خدا تعالیٰ نے الگ کتاب دی تھی۔ اور ان کو ہدایت تھی کہ ان کتابوں پر عمل کریں اور گمراہیوں جیسا کہ قرآن شریف اس پر گواہ ہے۔ پس اس بدیہی شہادت کی رو سے

۱۹۵

نزول المسیح

۲۱۵

جماعت اور عنالین یعنی عیسائیوں کے زمانہ ترقی کی خبر ہے۔ سو کس قدر سختی کی بات ہے کہ وہ باتیں آج پوری ہوئیں :

بالآخر میں ایک اور مسوایا لکھتا ہوں جو طاعون کی نسبت مجھے ہوئی اور وہ یہ کہ میں نے ایک جانور دیکھا جس کا قد ہاتھی کے قد کے برابر تھا مگر منہ آدمی کے منہ سے ملتا تھا اور بعض اعضاء دوسرے جانوروں سے مشابہ تھے اور میں نے دیکھا کہ وہ یوں ہی قدرت کے ہاتھ سے پیدا ہو گیا اور میں ایک ایسی بدم پر بیٹھا ہوں جہاں چاروں طرف بن ہیں جن میں بیل گدھے گھوڑے کتے سور بھیڑیے اونٹ وغیرہ ہر ایک قسم کے موجود ہیں اور میرے دل میں ڈالا گیا کہ یہ سب انسان ہیں جو بد عملوں سے ان صورتوں میں ہیں۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ ہاتھی کی ضخامت کا جانور جو مختلف شکلوں کا مجموعہ ہے جو محض قدرت سے زمین میں سے پیدا ہو گیا ہے وہ میرے پاس آ بیٹھا ہے اور قطب کی طرف اس کا موٹہ ہے خاموش صورت ہے آنکھوں میں بہت حیا ہے اور بار بار چند منٹ کے بعد ان بنوں میں سے کسی بن کی طرف دوڑتا ہے اور جب بن میں داخل ہوتا ہے تو اس کے داخل ہونے کے ساتھ ہی شور قیامت اٹھتا ہے اور ان جانوروں کو کھانا شروع کرتا ہے اور ہڈیوں کے چلبنے کی آواز آتی ہے۔ تب وہ فراغت کو کے پھر میرے پاس آ بیٹھا ہے اور شاید اس منٹ کے قریب بیٹھا رہتا ہے اور پھر دوسرے بن کی طرف جاتا ہے اور وہی صورت پیش آتی ہے جو پہلے آئی تھی اور پھر میرے پاس آ بیٹھا ہے۔ آنکھیں اس کی بہت لمبی ہیں اور میں اس کو ہر ایک دفعہ جو میرے پاس آتا ہے خوب نظر لگا کر دیکھتا ہوں۔ اور وہ اپنے چہرہ کے اندازہ سے مجھے یہ بتلاتا ہے کہ میرا اس میں کیا تصور ہے میں مامور ہوں اور نہایت شریف اور پرہیزگار جانور معلوم ہوتا ہے اور کبھی اپنی طرف سے نہیں کرتا بلکہ وہی کرتا ہے جو اسکو حکم ہوتا ہے۔ تب میرے دل میں ڈالا گیا کہ یہی طاعون

۲۹

یہ حوالہ صفحہ 136 پر درج ہے

نزول المسیح صفحہ 38 مندرجہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 415، 416 از مرزا قادیانی

ہے اور یہی وہ ذابۃ الارض ہے جس کی نسبت قرآن شریف میں وعدہ  
تھا کہ آخری زمانہ میں ہم اس کو نکالیں گے اور وہ لوگوں کو اس لئے کاٹے گا۔ کہ وہ  
ہمارے نشانوں پر ایمان نہیں لاتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔  
وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ  
أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ اور جب مسیح موعود کے بھیجنے  
سے خدا کی نجات ان پر پوری ہو جائے گی تو ہم زمین میں سے ایک جانور نکال کر کھڑا  
کریں گے وہ لوگوں کو کاٹے گا اور زخمی کریگا اس لئے کہ لوگ خدا کے نشانوں پر ایمان  
نہیں لائے تھے۔ دیکھو سورۃ النمل الجزء نمبر ۲۰۔

اور پھر آگے فرمایا ہے وَيَوْمَ نَخْسِفُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ  
بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا  
بِهَا عَلَمًا امْتَاذَ اَكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا أَنَّهُمْ  
لَا يُنطِقُونَ۔ ترجمہ۔ اُس دن ہم ہر ایک امت میں سے اس گروہ کو جمع کریں گے  
جو ہمارے نشانوں کو جھٹلاتے تھے اور ان کو ہم جدا جدا جگہ میں بنا دیں گے یہاں تک کہ  
جب وہ عدالت میں حاضر کئے جائیں گے تو خدائے عزوجل ان کو کہے گا کہ کیا تم نے  
میرے نشانوں کی بغیر تحقیق کے تکذیب کی یہ تم نے کیا کیا اور ان پر بوجہ ان کے ظالم  
ہونے کے نجات پوری ہو جائے گی اور وہ بول نہ سکیں گے۔ سورۃ النمل الجزء نمبر ۲۰۔

اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہی ذابۃ الارض جو ان آیات میں مذکور ہے جس کا مسیح موعود  
کے زمانہ میں ظاہر ہونا ابتدائے مقرر ہے یہی وہ مختلف صورتوں کا جانور  
ہے جو مجھے عالم کشف میں نظر آیا اور دل میں ڈالا گیا کہ یہ طاعون کا کیرا ہے  
اور خدا تعالیٰ نے اس کا نام ذابۃ الارض رکھا کیونکہ زمین کے کیروں میں سے ہی یہ  
بیماری پیدا ہوتی ہے اسی لئے پہلے چوہوں پر اس کا اثر ہوتا ہے اور مختلف صورتوں

۳۰۸

الکافرين وتشهد ان دين الاسلام حق حتى انها تقتل ابليس وتمزقه  
 وبعض الاحاديث يدل على انها امرأة كافرة خادمة للشيطان و  
 جسارة للدجال وليس فيها خير فلا يمكن التوفيق بينهما الا ان  
 نقول ان المراد من دابة الارض علماء السوء الذين يشهدون باقوالهم  
 ان الرسول حق والقرآن حق ثم يعملون الخبائث ويخدعون الدجال  
 كأن وجودهم من الجزئين جزء مع الاسلام وجزء مع الكفر اقوالهم  
 كاقوال المؤمنين وفعالهم كفعال الكافرين فاخبر رسول الله صلى الله  
 عليه وسلم عن انهم يكثرون في آخر الزمان وسما دابة الارض لانهم  
 اخلدوا الى الارض وما ارادوا ان يرفعوا الى السماء واطمئنوا بالدنيا  
 وشهواتها وما بق لهم قلب كالانسان واجتمعت فيهم عادات السباع و  
 الخنازير والكلاب تراهم مستكبرين متبخترين كأنهم بلغوا السماء ومشوها  
 ولم تخرج ارجلهم من الارض من شدة انتكاسهم الى الدنيا فهم كالذي  
 شدد اسره وكالمسجونين يكلمون الناس من الاست لا من الافواه  
 يعني ولا تجدي في كلماتهم طهارة وبركة واستقامة و نورانية  
 كلمات الصالحين\*.

ہم قال قائل لو كان هذا هو الحق ان دابة الارض هي طائفة علماء هذا الزمان فيلزم  
 ان يكون تكفيرهم حقا وصدقا فان من شأن دابة الارض انها تسم المؤمن والكافر  
 جعله الدابة كافر (يشير المعترض اليه) فعليكم ان تقرروا بكفره فان التكفير بمنزلة  
 الوسم من دابة الارض فيقال في جواب هذا المعترض ان المراد من الوسم اظهار  
 كفر كافر و ايمان مؤمن فهذا الاظهار على نوعين قد يكون بالاقتوال وقد يكون بالافعال  
 ونسأئبها وقد جرت سنت الله انه قد يجعل الكافرين والفاستقين علة موجبة لظهور  
 انوار ايمان انبياءه و اوليائه الا ترى الى سيدنا و نبينا محمد المصطفى صلعم كيف كانت

۱۲۲

افسوس کہ ہماری قوم کے لوگ استعارات کو حقیقت پر حمل کر کے سخت پیچوں میں پھنس گئے ہیں اور ایسی مشکلات کا سامنا نہیں پیش آگیا ہے کہ اب ان سے آسانی نکلتا ان لوگوں کیلئے سخت دشواری ہے اور جو نکلنے کی راہیں ہیں وہ انہیں قبول نہیں کرتے۔ مثلاً صحیح مسلم کی حدیث میں جو یہ لفظ موجود ہے کہ حضرت مسیح جب آسمان سے اترینگے تو ان کا لباس زرد رنگ کا ہوگا اس لفظ کو ظاہری لباس پر حمل کرنا کیسا لغو خیال ہے زرد رنگ پہننے کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی لیکن اگر اس لفظ کو ایک کشفی استعارہ قرار دے کر مجتہدین کے مذاق اور تجارب کے موافق اسکی تعبیر کرنا چاہیں

یک یہ کہ جب وہ مسیح آئے گا تو مسلمانوں کی اندرونی حالت کو جو اس وقت بغایت طبع بگڑی ہوئی ہوگی دینی صحیح تعلیم سے درست کر دے گا ایمان کے روحانی افلاس اور باطنی ناداری کو جلی دور فرما کر جو اہریت علوم و حقائق و معارف ان کے سامنے رکھے گا یہاں تک کہ وہ لوگ اس دولت کو لیتے لیتے خاک جانیجے اور ان میں سے کوئی طالب خج روحانی طور پر مفلس اور نادار نہیں رہے گا بلکہ جس قدر سچائی کے بھوکے اور پیاسے ہیں ان کو بھرت طیب غذا صداقت کی اور شربت شیریں معرفت کا پلا یا جائے گا اور علوم حقہ کے موتوں سے ان کی جھولیاں بڑھ کر دی جائیں گی اور جو مغضہ اور لب لباب قرآن شریف کا ہے اس عطر کے بھرے ہوئے شیشے ان کو دتے جائیں گے۔

دوسری علامت خاصہ یہ ہے کہ جب وہ مسیح موجود آئے گا تو صلیب کو توڑے گا اور خسرو بول کو قتل کرے گا اور وہ حال کسبہ شرم کو قتل کر ڈالے گا اور جس کا فرنگ اس کے دم کی ہوا پہنچے گی وہ فی الفور مرجا جائیگا سو اس علامت کی اصل حقیقت جو روحانی طور پر مراد رکھی گئی ہے یہ ہے کہ سچ دنیا میں اگر صلیبی مذہب کی شان ثبوت کو اپنے پیروں کے پیچھے کھیل ڈالے گا اور ان لوگوں کو جن میں خسرو بول کی بے حیائی اور نوکوں کی بے شرمی اور نجاست شہری ہے ان پر دعائی قاطعہ کا ہتھیار چلا کر ان سب کا کام تمام کرے گا اور وہ لوگ جو صرف دنیا کی آنکھ رکھتے ہیں مگر دین کی آنکھ بٹکی نکلے۔ بلکہ ایک بد نما ٹینٹ اس میں کھائے اور انکو تین جتنوں کی سیف قاطعہ سے لزم کرے ان کی منکرانہ ہستی کا خاتمہ کر دے گا اور نہ صرف ایسے ایک چشم لوگ بلکہ ہر ایک کافر جو دین محمدی کو منظر استحقار دیکھتا ہے۔ سچی دوائی کے عطالی دم سے روحانی طور پر مارا جائے گا۔ فرض یہ سب جبارتیں استعارہ کے طور پر واقع ہیں جو اس عاجز بے

۲۰۶

فمن مناظروك في امر نزول المسيح من السماء، ولا نسلم انه ثابت من الكتاب والسنة، وان كان ثابتاً فلا ينبغي لنا ولا لاحد ان يأبى ويمتنع من قبوله، فانه لا يفر من قبول الحق الا ظالم معتد لا يحب الصدق اوضحال جاهل لا يعرف قدرها، واما ان كان غير ثابت فلا ينبغي لصالح ان يختاره لنفسه، فكيف يدعو اليه رجلا يمشي على صراط مستقيم وكيف يحسبه من الكافرين؟ وان امر الدين امر جليل الخطب عظيم القدر لا ينبغي لاحد ان يستجمل فيه بل اللازم الواجب على كل مسلم مؤمن ان يطرح من بينه اليخل والشك ويدعو الله ويسأله بالتضرعات والابتهالات هداية من لدنه، ومن يهدى الا الله وهو أحسن الهادين - ومن نظرت في القرآن وفكرت في الفرقان بالتدبر والتمعن فيظهر عليه كل ما سولت للعلماء أنفسهم قد عتوا كبرياء، وعاندوا الحق وأشاعوا كذباً وزوراً، وان الحق

مهذولة في تنقيدها وتميزها، وأنفدوا أعمارهم فيها وأضلوا أنفسهم في سلكها وما التفتوا الى صفات الله واستنباط مسائلها، فبقى الفرقان كالمستتر من أعينهم وبقيت أسرارها كالدور المكنونة او الخزائن المدفونة، ما عرفوها وما رعوها حق رعايتها وأكبوا على كتب أخرى كالمعرضين - ولو أنهم توجهوا الى القرآن لكشف الله عليهم سر كل حقيقة ونجاة من براري الشبهات، ولكنهم ما شأوا ان ينوروا واختاروا العسى وعادوا قوماً منورين، فمن اعظم غيباتهم انهم لم يفهموا حقيقة المسيح الموعود الذي أخبروا عنه وقالوا ان عيسى بن مريم عليه السلام ينزل من السماء وقد كانوا يقرؤن في القرآن انه توفي ولحق بأخوانه الذين خلوا من قبله، ففسروا ما كانوا يعلمون واتبعوا ما قيل بعد المأتين، ونبدوا آيات الله وراء ظهورهم كأنهم ما وجدوا في القرآن أثراً من أخبار وفاة المسيح وكأنهم كانوا من الغافلين - و اذا قيل لهم ان الله قد أخبر عن وفاة المسيح في آياته المحكمات وقال:

۲۰

اپنی تحریروں اور چھپی ہوئی کتابوں کے ذریعہ سے مخالفوں اور موافقوں میں پیش از وقت شائع کر دیا ہوا اور اپنی عظمت میں میری پیشگوئیوں کے مساوی ہوں اس زمانہ میں دکھاویں۔ جن میں الہی قوت محسوس ہو تب بھی میں جھوٹا ہو جاؤں گا چہ اور قسم کیلئے ضروری ہو گا کہ جو صاحب قسم کھانے پر آمادہ ہوں وہ قادیان میں آکر میرے روبرو قسم کھاویں میں کسی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ یہ دین کا کام ہے بس جو لوگ باوجود مولویت کی لاف کے اس میں سستی کریں تو خود کاذب ٹھہریں گے۔ اگر میرے جیسے شخص کو جس کا نام و مجال رکھتے ہیں مغلوب کر لیں تو گویا تمام دنیا کو بدی سے چھڑائیے گے اور قسم کے وقت یہ شرط نہایت ضروری ہوگی کہ میں انکی قسم سے پہلے پورے دو گھنٹے تک عام جلسہ میں ان پیشگوئیوں کی سچائی کے دلائل اتنے سامنے بیان کروں گا تا وہ جلدی کر کے ہلاک نہ ہو جائیں اور نیز ان پر جنت پوری ہو اور ان کا حق نہیں ہوگا کہ بجز قسم کھانے کے ایک کلمہ بھی منہ پر لائیں خاموشی سے دو گھنٹے تک میرے بیان کو سنیں گے پھر حسب نمونہ مذکورہ قسم کھا کر اپنے گھروں میں جائیں گے اور یاد رہے کہ میں نے سید احمد خان صاحب کا نام منکرین کی مد میں اسلئے لکھا ہے کہ انکو خدا کے اس الہام بلکہ وحی کو بھی انکار ہے جو خدا سے نازل ہوتی اور علم غیب کی عظمت اپنے اندر رکھتی ہے چونکہ وہ بھی اب عمر کی منزل کو طے کر چکے ہیں میں نہیں چاہتا کہ وہ یورپ کے کورانہ خیالات کی پیروی کر کے اس غلطی کو قبر میں لے جائیں۔ اب گو وہ متوجہ نہ ہوں اور اس بات کو ٹھٹھے میں ماراؤں مگر میں نے توجہ تبلیغ کرنی تھی وہ کر چکا ہوں میں ڈرتا ہوں کہ میں پوچھنا نہ جاؤں کہ ایک بناؤں گم شدہ کو تم نے کیوں تبلیغ نہ کی؟

بعض نادان کہتے ہیں کہ ہر دفع عذاب اور موت کی پیشگوئیاں کیوں کی جاتی ہیں۔ یہ نادان نہیں جانتے کہ ہر ایک نبی انذاری پیشگوئیاں کرتا رہا ہے اگر یہ روا نہیں ہے تو اسکے کیا معنی ہیں کہ مسیح موعود کے دم سے مخالفت مریں گے؟ غرض یہ تو صاحب ہیں جو قسم کھانے کیلئے منتخب کیے گئے ہیں کہ وہ ہر ایک ان میں سے ایک جماعت اپنے ساتھ رکھتا ہے پس اس کے ساتھ فیصلہ کرنے سے جماعت کا فیصلہ خود نہیں ہو جائیگا۔ قسم کا یہی مضمون ہو گا کہ یہ پیشگوئیاں پوری نہیں ہوئیں اور پہلے

کچھ تہوں۔ پس کیا نیک دل اور دانشمند انسان ایک دم کے لئے بھی ایسے شریر کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ گورنمنٹ کے لئے یہ بات نہایت اطمینان بخش ہے کہ میری جماعت کے لوگ جاہل۔ وحشی۔ ادبائش۔ بد معاش اور بد رویہ لوگ نہیں ہیں بلکہ وہ ایسے نیک انسان اور نیک چلتی میں شہرت یافتہ ہیں۔ جو کئی اُن میں سے گورنمنٹ کی نظر میں نیک چلتی اور نیک مزاجی اور پاک دل اور خیر خواہی سرکار میں مسلم ہیں۔ اور گورنمنٹ کی طرف سے معزز عہدوں پر سرفراز ہیں۔ سر سید احمد خاں صاحب کے سی۔ ایس۔ آئی نے جو اپنے آخری وقت میں یعنی موت سے تھوڑے دن پہلے میری نسبت ایک شہادت شائع کی ہے۔ اس سے گورنمنٹ عالیہ سمجھ سکتی ہے کہ اس دانا اور مردم شناس شخص نے میرے طریق اور رویہ کو بدل پسند کیا ہے۔ چنانچہ حاشیہ میں اُن کے کلمات کو درج کرتا ہوں۔

### ”مرزا غلام احمد صاحب قادریانی“

حاشیہ ۱۔

مرزا صاحب نے جو ایشہاد ۲۵ جون ۱۸۹۷ء کو جاری کیا ہے اس ایشہاد میں مرزا صاحب نے ایک نہایت لطیف عمدہ فقرہ گورنمنٹ انگریزی کی خیر خواہی اور وفاداری کی نسبت لکھا ہے۔ ہمارے نزدیک ہر ایک مسلمان کو جو گورنمنٹ انگریزی کی نسبت ہے ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا مرزا صاحب نے لکھا ہے۔ اس لئے ہم اس فقرہ کو اپنے اخبار میں چھاپتے ہیں مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ ”گورنمنٹ انگریزی کی خیر خواہی کی نسبت جو میرے پر عمل کیا گیا ہے۔ یہ جملہ بھی محض شرارت ہے۔ سلطان روم کے حقائق بچائے خود میں مگر اس گورنمنٹ کے حقوق بھی ہمارے سر پر ثابت شدہ ہیں۔ اور ناشکر گزادی ایک بے ایمانی کی قسم ہے۔ اے نادانو! گورنمنٹ انگریزی کی تعریف تہادی طرح میری قلم سے منافقانہ نہیں نکلتی بلکہ بلکہ میں اپنے اعتقاد اور یقین سے جانتا ہوں کہ درحقیقت خدا تعالیٰ کے فضل سے اس گورنمنٹ کی پراس سلطنت ہونے کا اور کیا میرے نزدیک ثبوت ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے

چنانچہ ہمارے لئے بالواسطہ خدا تعالیٰ کی پناہ ہے اس سے زیادہ اس گورنمنٹ



۴۶۷

اور ثابت قدمی اور روحانی زندگی اور استقامت اور اخلاق نبوت عطا کرتا ہے۔ اسلئے وہ معمولی دنیا داروں کی طرح اس مالی صدمہ کی برداشت نہ کر سکے اور اسی غم کو دن بدن کوفتہ ہو کر انکی رُوح تحلیل ہوتی گئی۔ یہاں تک کہ یہ مُردار دنیا جسکو وہ بڑا مدعا سمجھتے تھے۔ ایک دم میں ان سے جدا ہو گیا۔ گویا وہ کسی دنیا میں نہیں آئے تھے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ جیسا کہ غم اور صدمہ مالی کے وقت میں دلی کمزوری ان سے ظہور میں آئی۔ اور اس مصیبت سے عشق بھی ہو گئی اور آخر اسی میں انتقال فرما گئے۔ ایسا ہی دوسرے پہلو کی وجہ سے یعنی جب انکو دنیا کی عزت اور مرتبت اور عروج اور ناموری حاصل ہوئی۔ تو ان ایام میں بھی ان سے اس دوسرے رنگ میں سخت کمزوری ظہور میں آئی۔ انکے وقت میں خدا نے یہ آسمانی سلسلہ پیدا کیا۔ مگر انھوں نے اپنی دنیوی عزت کی وجہ سے اس سلسلہ کو ایک ذرہ عظمت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ بلکہ اپنے ایک خط میں کسی اپنے رُو آشنا کو لکھا کہ یہ شخص جو ایسا دعویٰ کرتا ہے۔ بالکل بیخ ہے اور اسکی تمام کتابیں لغو اور بے سود اور باطل ہیں۔ اور اس کی تمام باتیں ناراستی سے بھری ہوئی ہیں۔ حالانکہ سرسید صاحب اس بات سے بکلی محروم ہے کہ کسی پر کسی چھوٹے سے رسالہ کو بھی اقل سے آخر تک دیکھیں۔ وہ غصے کے وقت میں دنیوی رعونت سے ایسے مدہوش تھے کہ ہر ایک کو اپنے پیروں کے نیچے کھلتے تھے اور یہ دکھلاتے تھے کہ گویا انکو دنیوی حیثیت کے رُو سے ایسا عروج ہے کہ انکا کوئی بھی ثانی نہیں۔ ہنسی اور ٹھٹھا کرنا اکثر انکا شیوہ تھا۔ جب میں ایک دفعہ علیگڑھ میں گیا۔ تو مجھ سے بھی اسی رعونت کی وجہ سے حسرت کا محکم پودہ انکے دل میں مستحکم ہو چکا تھا ہنسی ٹھٹھا کیا۔ اور یہ کہا کہ آؤ میں مرید بننا ہوں اور آپ مُرشد بنیں اور حیدرآباد میں چلیں اور کچھ چھوٹی کرامات

۲۲۹

۲۶۸

۱۵۱

دکھائیں اور میں تعریف کرتا پھروں گا۔ تب ریاست اپنی سادہ لوحی کی وجہ سے ایک لاکھ روپیہ سے دی گئی۔ اس میں دو حصے میرے اور ایک حصہ آپ کا ہوا۔ گویا اس تقریر میں وہ ٹھگ جو سادہ مو کہلاتے ہیں مجھے قرار دیا۔ ایسا ہی اور کئی باتیں تھیں جن کا اب انکی وفات کے بعد لکھنا بے فائدہ ہے۔ اس قدر تحریر سے غرض یہ ہے کہ اس پہلو کی کمزوری بھی ان میں موجود تھی جو دولت اور عزت اور ناموری تک پہنچ کر تکبر اور نخوت اور رعوت اور خود پسندی کے رنگ میں ظہور میں آتی ہے۔ اور یہ ان کا قصور نہیں ہے بلکہ ہر ایک دنیا دار کا ہی حال ہے کہ وہ دو قسم کی کمزوری اپنے اندر رکھتا ہے۔ مثلاً ایک شخص جو مولوی کے خطاب سے مشہور ہے۔ وہ اپنے تئیں مولوی کہلا کر نہیں چاہتا کہ دوسرے کا عزت سے نام بھی لے۔ بلکہ اسکی بڑی مہربانی ہوگی۔ اگر وہ دوسرے کو منشی بھی کہے۔ بہت دولت مند رئیس یا مسلمان حکام ہیں۔ وہ اس بات کو اپنے لئے سخت عار سمجھتے ہیں کہ کسی کو السلام علیکم کا جواب دیں اور اگر کوئی السلام علیکم کہے تو بہت برا مانتے ہیں۔ اور اگر ممکن ہو تو سزا دیدیں۔ یہ تمام کمزوری کے طریق ہیں۔ اور اس کو چراغ نبوت سے روشنی لینے والے اخلاقی کمزوری سے نامزد کرتے ہیں۔ غرض سید احمد خاں صاحب کی میت بھی آخر کمزوری کی وجہ سے ہوئی۔ خدا ان پر رحم کرے۔

اب ہم اس اشتہار مورخہ ۱۲۔ مارچ ۱۸۹۶ء کو جس میں سید احمد خاں صاحب کی موت کی نسبت پیشگوئی ہے۔ بعینہ اس جگہ درج کر دیتے ہیں۔ اور یہ اشتہار لاکھوں انسانوں میں مشہور ہو چکا ہے۔ اور ہم بہت سے لوگوں کو قبل از وقت زبانی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں خدا تعالیٰ نے معلوم کرادیا ہے۔ کہ اب عنقریب سید صاحب فوت ہو جائیں گے۔ اور اشتہار ۲۲ فروری ۱۸۹۶ء

۲۴۰

اب انجمن نے جو اب سے منہ پھیر کر اور ایک دوسرا پہلو اختیار کر کے دکھا دیا کہ یہ گمان  
ان کا ٹھیک ہے اور انجمن کے حامی جیسا کہ پیسہ اخبار اور ابزور زور سے کہتے ہیں کہ رد کی کچھ  
بھی ضرورت نہیں تھی پہلی کتابیں بہت ہیں۔ اب وہی بات ہوئی جو اللہ تعالیٰ  
فرماتا ہے ولقد صدق علیہم ابلیس ظنہ

اب کیا انجمن اُس صورت میں جو میموریل کا نشانہ خالی جلے یا ادھیرا ہے اُس  
دوسرے پہلو کو اختیار کر سکتی ہے کہ رد لکھا جائے اور ایسے ارادے کو پیسہ اخبار یا  
ابزور وغیرہ اخباروں میں شائع کر سکتی ہے ہرگز نہیں۔ اب اہل اسلام دیکھ لیں کہ  
اس انجمن کی شتاب کاری سے کس قدر اسلام کی حقیقی کارروائی کو ضرر پہنچا ہے اور کیسے اسلام  
کے مدافعت میں حرج واقع ہوا ہے۔ سرسید احمد خان بالقابہ کیسا بہادر اور زیرک اور ان  
کاموں میں فراست رکھنے والا آدمی تھا انہوں نے آخری وقت میں بھی اس کتاب کا  
رد لکھنا بہت ضروری سمجھا اور میموریل بھیجنے کی طرف ہرگز التفات نہ کیا۔ اگر وہ زندہ ہوتے  
تو آج وہ میری رائے کی ایسی ہی تائید کرتے جیسا کہ انہوں نے سلطان روم کے بارے میں  
صرف میری ہی رائے کی تائید کی تھی اور مخالفانہ راؤں کو بہت ناپسند اور قابل اعتراض قرار  
دیا تھا۔ اب ہم اس بزرگ پولٹیکل مصلح شناس کو کہاں سے پیدا کریں تا وہ بھی ہم سے ملکر  
اس انجمن کی شتاب کاری پر روویں۔ سچ ہے قدر مرداں بعد از مردن

اگر اس انجمن کی طرف سے یہ عذر پیش ہو کہ ہم اس لئے رد لکھنے کے مخالف ہیں کہ یہ لوگ  
گو کیسی ہی عیدہ دہنی سے کام لیتے ہیں مگر پھر بھی شاہی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ لہذا  
ان کا رد لکھنا ادب کے مخالف ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ کیا مواخذہ کرنے کے لئے اور سزا  
دلانے کے لئے میموریل بھیجنا یہ ادب میں داخل ہے۔ ہماری گورنمنٹ عالیہ نے نہایت  
عقل مندی اور بلند ہمتی سے یہ قانون ہر ایک کیلئے کھولا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے مذہب پر  
اختلاف رائے کی بنا پر حملہ کرے تو اس دوسرے شخص کا بھی اختیار ہے کہ وہ اُس حملہ کی

نزول المسح

۵۲۳

۱۵۵

تاریخ نزول پیشگوئی	پیشگوئی میں مشرف کیا گیا ہوں اسی نے مندرجہ ذیل خالق عباد پیشگوئی یا میری تائید میں یہاں فرمایا	تاریخ نزول پیشگوئی	نمبر شمار
چند سال کے بعد اول نبی میں طاعون پھوٹ پڑی	اس طرح اس زمانہ میں جبکہ نبی میں بھی طاعون کا نام نشان نہ تھا طاعون کے آنے کیلئے دعا کی گئی اور وہ دعا منظور ہو گئی چنانچہ سالہ ہجری میں جس کو نہیں ہو گئے یہ دعائیہ شعر حمامۃ البشریٰ میں موجود ہے۔ فَلَمَّا طَغَى الْفَيْسُ الْمَيْدِي بِسَبِيلِهِ تَمَنَّى لَوْ كَانَ الرِّبَا وَالْمُتَبَرِّ دیکھو صفحہ اول قصیدہ حمامۃ البشریٰ یعنی جب فسق کا طوفان برپا ہوا تو میں نے خدا سے چاہا کہ طاعون آوے۔	آج سے نو برس پہلے	پیشگوئی نمبر ۲۳
اس پیشگوئی کے چند سال بعد پنجاب میں طاعون پھیل گئی۔	ایسا ہی طاعون کے بارے میں رسالہ سراج منیر صفحہ ۵۹ میں پیشگوئی کی گئی ہے کہ جن لوگوں نے حکیم ام کے متعلق کی پیشگوئی کو قبول نہیں کیا تھا ان پر بھی طاعون کی بلا نازل ہوگی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا یعنی جنہوں نے گوسالہ کو عزت دی اور اس کی پرستش کی ان پر غضب آئے گا اور ذلت کی مار ان پر پڑے گی ہو دنیا میں غضب نازل ہونے سے مراد طاعون ہے اور اسی کتاب کے صفحہ ۶۰ میں طاعون کی نسبت یہ الہام بھی لکھا تھا یا مسیح الخلق عدوانا یعنی طاعون کے غلبہ کے وقت لوگ نہیں گے کہ اسے مسیح ہماری شفاعت کر۔ اور اس کتاب کے شائع کرنے پر آج سے جو ہمارے جلدی ۱۹۰۲ء سے پانچ برس گزر گئے	۱۸۹۷ء	پیشگوئی نمبر ۲۳
ان دونوں پیشگوئیوں نمبر ۲۳ و ۲۴ کے ثبوت میں سرکاری نقوشات کافی ہیں۔ جن کا ہم صفحہ ۱۵۲ و ۱۵۳ میں ذکر کرتے ہیں۔		نزدہ کو روایت	۲۳ و ۲۴

۱۵۷

۱۵۳: الاعراف

یہ حوالہ صفحہ 140 پر درج ہے

نزول المسح صفحہ 157 مندرجہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 533 از مرزا قادیانی

(الرحمہ : ۴۲) یعنی ہم دور دور سے زمین کو گھناتے پلے آتے ہیں یہ عادت اللہ ہے کہ اول عذاب ایسے لوگوں سے شروع ہوتا ہے جو دور دور ہوتے ہیں اور ضعیف اور کمزور ہوتے ہیں۔ یہ قوف یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ صرف انہیں کے لئے ہے ہمارے لئے نہیں مگر عذاب ایک کران تک پہنچتا ہے جن کو خبر نہیں ہوتی اور بے پروا ہوتے ہیں خدا تعالیٰ کی اس میں حکمتیں ہوتی ہیں وہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ اور شوخی کر لیں لوگوں کو اس طاعون کی خبر نہیں ہے وہ مجھے لکھتے ہیں اور اشتیاقوں میں شائع کرتے ہیں کہ یہ بھی ایک مرض ہے جس کا علاج ہو سکتا ہے اب ان پر لازم ہے کہ ڈاکٹروں سے علاج کروائیں۔ آخر رسول (ﷺ) نے لکھ دیا کہ ہم کہاں تک اس پر پروہ ڈالیں خود گورنمنٹ کو بھی اس نیکہ سے تکلیف پہنچی ہے۔

### طاعون کی اقسام

فرمایا:-

طاعون تین قسم کی ہے ایک خفیف جس میں صرف گلٹی نکلتی ہے اور تپ نہیں ہوتا۔ دوسری اس سے تیز کہ اس میں گلٹی کے ساتھ تپ بھی ہوتا ہے تیسری سب سے تیز اس میں تپ نہ نکلتی۔ بس آدمی سویا اور مرگیا ہندوستان کے بعض دیہات میں ایسا ہی ہوا ہے کہ اس قوی رات کو سوئے تو صبح کو مرے ہوئے پائے گئے۔ اس کا اصل باعث طعن ہے یہ لوگ ٹھنڈے کرتے ہیں مگر ان کو پتہ لگ جائے گا جو مخالف ہو اس کیا کرتے ہیں ان پر یک لخت پتھر نہیں پڑا کرتے اول ان کو دور سے آگ دکھائی جاتی ہے تاکہ وہ توبہ کریں۔

### خدا تعالیٰ اس وقت اپنا چہرہ دکھلانا چاہتا ہے

شیخ نور احمد صاحب نے عرض کی حضور اب بھی مخالف کہتے ہیں کہ ہمیں طاعون کیوں نہیں ہوتی۔ فرمایا:-

قرآن میں بھی یہی لکھا ہے کہ وہ لوگ خود عذاب طلب کرتے تھے کجنت یہ نہیں کہتے کہ دعا کرو کہ ہمیں ہدایت ہو جائے طاعون ہی مانگتے ہیں دراصل یہ لوگ دہریہ ہیں خدا پر ان لوگوں کو ایمان نہیں ہے خدا تعالیٰ اس وقت اپنا چہرہ دکھلانا چاہتا ہے۔ اس وقت جس قدر عیاشی، فسق و فجور، حقوق العباد میں قصم و فیو ہو رہے ہیں کیا اس کی کوئی حد ہے۔ ہمیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ دکانداروں کی طرح ایک دکاندار ہے مگر غریب خدا تعالیٰ ان کو بتلا دے گا کہ دکان تو ہے مگر خدا تعالیٰ کی دکان ہے ایک صریح کھلاں آسمان سے ہے اور صریح خدا تعالیٰ کے ارادے معلوم ہیں کہ

آخر من کتب اولی۔ انکفیک هذه الشواهد او نأتیک بامثال آخری۔  
 از کتاب اے نخستیں برآر آیا کفایت اند ترا این گواہان یا دیگر امثال! بیاریم  
 فان فکرت فیما تلوت علیک من الامثال ذکرنا۔ نستعلم انک قد بلغت من  
 پس اگر فکر کنی در آنچه بر تو خواندم از امثال برائے یا دانید پس عنقریب بدانی که نما عذر کامل  
 عذرا۔ هذا وما کشف علیک امر الم تستطع علیه صبرا۔  
 شنیدی این است بطور مختصر و عنقریب مفصل بیگوئیں امر می گوئیم که برو صبر نہ کر دی۔

## البيان الشافي في هذا الباب تفصيل الجاني

بیان شافی دریں باب و تفصیل آن امر کہ چرا برائے

## إلى ترك التطعيم والتوكل على رب الأرباب

ترک حال زدن مضطر گردیدیم و بیان توکل بر خدائے خدا و ندان۔

اعلم ان موضوع امرنا هذا هو الدعوى الذى عرضت على الناس قلت انى

بدانکہ موضوع این امرنا آن دعویٰ است کہ بر مردم پیش کردیم و گفتیم کہ من

انا المسير الموعود والامام المنتظر المجهود۔ حکمى الله لرفع اختلاف الامة

سیح موعود ہستم و امام منتظر مہجود ہستم۔ ظاہر حکم مقرر کردہ است برائے دفع اختلاف امت

وعلمنى من لدنه لادعوا الناس على البصيرة۔ فاما كان جوابهم الا السب و

و از جناب خدا مرا تطہیر داد تا مردم را بوجہ بصیرت بخوانم پس جواب ایشان بجز این بیچ نبود کہ دشنام با

الشتيم والفحشاء والتكفير والتكذيب والايذاء۔ وقد سبوني بكل صفت

عذرت و محشایا گفتند و لاف گفتی و دروغ گوئی و کفر و کذب و ایذاء۔ و قد سبونی بکل صفت

فأرددت عليهم جوابهم۔ و أعبأت بمقالهم وخطابهم۔ ولم يزل

پس جواب دادم ایشان و دشنامی نمودم و پر عباتی نمودم و خطاب ایشان نمودم و دشنام دادم

میں پسند نہیں کرتا کہ ایسی درخواستوں پر کوئی اندازہ پیشگوئی کی جائے بلکہ آئندہ ہماری طرف سے یہ اصول رہنے گا کہ اگر کوئی ایسی اندازہ پیشگوئیوں کے لئے درخواست کرے تو اس کی طرف ہرگز توجہ نہیں کی جائے گی جب تک وہ ایک تحریری حکم اجازت صاحب مجسٹریٹ ضلع کی طرف سے پیش نہ کرے۔ یہ ایک ایسا طریق ہے جس میں کسی ملوکہ گنجائش نہیں رہے گی۔

یہ بات بھی میں تسلیم کرتا ہوں کہ مخالفوں کے مقابل پر تحریری مباحثات میں کسی قدر میرے الفاظ میں سختی استعمال میں آئی تھی۔ لیکن وہ ابتدائی طور پر سختی نہیں ہے بلکہ وہ تمام تحریریں نہایت سخت حملوں کے جواب میں لکھی گئی ہیں۔ مخالفوں کے الفاظ ایسے سخت اور دشنام دہی کے رنگ میں تھے جن کے مقابل پر کسی قدر سختی مصلحت تھی۔ اس کا ثبوت اس وقت ابد سے ہوتا ہے جو میں نے اپنی کتابوں اور مخالفوں کی کتابوں کے سخت الفاظ اکٹھے کر کے کتاب مثل مقدمہ مطبوعہ کے ساتھ شامل کئے ہیں جس کا نام میں نے کتاب البریت رکھا ہے اور بائیں ہمہ میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ میرے سخت الفاظ جو اپنی طور پر ہیں ابتدا سختی کی مخالفوں کی طرف سے ہے۔

اور میں مخالفوں کے سخت الفاظ پر بھی صبر کر سکتا تھا۔ لیکن دو مصلحت کے سبب سے میں نے جواب دینا مناسب سمجھا تھا۔ اول یہ کہ مخالف لوگ اپنے سخت الفاظ کا سختی میں جواب پا کر اپنی روش بدلائیں اور آئندہ تہذیب سے گفتگو کریں۔ دوم یہ کہ مخالفوں کی نہایت ہتک آمیز اور غصہ دلانے والی تحریروں سے عام مسلمان جو کس میں نہ آویں اور سخت الفاظ کا جواب بھی کسی قدر سخت پا کر اپنی پر جوش طبیعتوں کو اس طرح سمجھالیں کہ اگر اس طرف سے سخت الفاظ استعمال ہوتے تو ہماری طرف سے بھی کسی قدر سختی کے ساتھ ان کو جواب مل گیا اور اس طرح وہ وحشیانہ انتقاموں سے دستکش رہیں۔ میں خوب جانتا ہوں کہ ایسی مذہبی تحریروں سے جیسا کہ لیکچر آرم اور انڈر مین

۲۲۶

نزول اسح

کے راستباز بندوں میں سے تھے لیکن ایسے بندے تو کروڑ ہاؤ دنیا میں گزر چکے ہیں اور خدا جاننے آگے  
کس قدر جھونگ۔ پس بلاوجہ انکو تمام انبیاء کا سردار بنا دینا خدا کے پاک رسولوں کی سخت ہتک کرنا ہی۔  
ایسا ہی خدا تعالیٰ نے اور اسکے پاک رسول نے بھی مسیح موعود کا نام نہی اور رسول رکھا ہے اور تمام خدا تم  
کے نبیوں نے اسکی تعریف کی ہے اور اسکو تمام انبیاء کے صفات کا ملکہ کا حفظ ہے۔

بیشک اسکا کونہ وجہ کیا ہوتا کہ وہ کیا کہتے ہیں جہانک میں اپنی تفسیروں کو دیکھتا ہوں میں اس آیت کی تفسیر میں مختلف  
اقوال ہیں ایک شخص یہ بھی اور مالک اور ابو نعیم کا حال دیکھا ہے اور ایک روایت یا واقعہ بیان کرتا ہے۔ دوسرا اسکے  
بالمقابل قرآن مجید کمال کر خدا کا کلام پیش کرتا ہے اور اپنے دعویٰ کے واسطے صحت صحیح اور حدیث پیش کرتا ہے  
ہم کس کو مانیں اور کس کو جانیں کہ وہ عالم اور عال بالقرآن ہے۔ اسکے آگے آپ فرماتے ہیں ثابت ہے کہ حسین  
اور اسکے آباؤ اظہار کو انبیاء و اولیاء نے سخت تکلیف کے وقت خدا اور اپنے درمیان وسیلہ قرار دیا ہے جسکی  
وجہ سے انکی حاجتیں پوری ہوئیں۔ آپ اپنے زعم کی بنیاد مجاہد اور طبرانی اور حاکم وغیرہ کا نقل قرار دیتے ہیں اور  
آیت تعلق آدم سے رتبہ کلمت کو اپنے زعم کی تفسیر قرار دیتے ہیں گویا آپ کا قول عمل تھا جو پہلے سے کسی  
کتاب آسمانی میں درج چلا آتا تھا قرآن نے اسکی تصریح کر دی ہے۔ میں عقل و دانش بنا کر گریست ہ  
اس فہم لطیف کے جو سہ پر اپنے مخالف پر طعن کرتے ہیں ذرا انصاف کریں اور اپنی ہی کتابوں کو دیکھیں کہ  
کیا علماء اور مفسرین امامیہ نے کلمات کی تفسیر میں صرف انہی نامہائے مبارک پر محصر تفسیر رکھا ہے میرے  
پاس اسوقت میں تفسیریں امامیہ موجود ہیں۔ تفسیر عمدة البیان۔ خلاصۃ المنہج۔ مجمع البیان۔ انیس بہت  
مختلف اقوال درج ہیں۔ پھر حیات القلوب نکال کر جلد اول صفحہ ۵۶ و ۵۷ میں روایات مختلفہ کا سال

بچو علی ماضی صاحب نے اپنے سزا بصرۃ العقلاء میں اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ اہل بیت کے برابر غیر اہل بیت نہیں ہو سکتا اسکا مختصر جواب  
یہ ہے کہ سادات کی جڑ نہیں ہے کہ وہ بنی خاتم ہیں۔ سب سے اگرچہ علوی تو نہیں ہیں مگر بنی خاتم میں سے ہیں میری بعض عادات یا مشہور اور  
صحیح النسب سادات میں سے تھیں۔ ہمارے خاندان میں یہ طریق جاری رہا ہے کہ کسی سادات کی رگیوں سے ہمارے خاندان میں آئیں اور  
کبھی ہمارے خاندان کی رگیوں میں آئیں۔ اسکا یہ مرتبہ فضیلت جو ہمارے خاندان کو حاصل ہے صرف انسانی ذاتوں تک  
مورد نہیں بلکہ خدا نے اپنی پاک وحی سے اسکی تصدیق کی ہے۔ چنانچہ وہ عزوجل ایک اپنی وحی میں جو حکایت عن الرسول ہے میرا  
نام سلمان رکھا ہے اور فرماتا ہے سلمان مناہل البیت علی شرب الحس یعنی اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے  
ہیں کہ سلمان جو دو سلم کا موجب ہو گا یعنی دو سلم کا موجب ہو گا یہی شخص ہے اور اہل بیت میں سے ہے جس کے شرب پر  
اور پھر ایک اور وحی میں فرماتا ہے الحمد للہ الذی جعل لکم الصبر والنسب اس خدا کو تو فرماتے ہیں جس نے تمہیں سادات بنا دیا  
اور نیز نسب حال بھی عطا کی جس میں خاندان علی علیہ السلام ہے اور پھر ایک کشف میں جو براہین احمدیہ میں مندرج ہے میرے ظاہر کیا گیا کہ  
میرا سر ہونے کی طرح حضرت خاتم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہے علامہ اسکی جس شخص کو خدا نے یہ صحیح موعود بنایا اور صفا نشان دیتے اور  
اسکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرار دیا اور اسکو شہ صفات جمیع انبیاء پھر آیا اسکی نسبت یہ زبان جو انبیاء کے خاندان میں پھر کرنا ہے

یہ حوالہ صفحہ 141 پر درج

نزول اسح صفحہ 48 مندرجہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 426 از مرزا قادیانی



مقرر تھا۔ کیونکہ مسیح موعود خاتم الخلق ہے اور آخر کو اول سے مناسبت چاہیے۔ اور چونکہ حضرت آدم بھی چھٹے دن کے آخر میں پیدا کئے گئے ہیں اس لئے بلحاظ مناسبت ضروری تھا۔ کہ آخری خلیفہ جو آخری آدم ہر وہ بھی چھٹے ہزار کے آخر میں پیدا ہو۔ و جبر یہ کہ خدا کے سات دنوں میں سے ہر ایک دن ہزار برس کے برابر ہے جیسا کہ خود وہ فرماتا ہے۔ اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ اور احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح موعود چھٹے ہزار میں پیدا ہوگا۔ اسی لئے تمام اہل کشف مسیح موعود کا زمانہ قرار دینے میں چھٹے ہزار برس سے باہر نہیں گئے اور زیادہ سے زیادہ اسکے ظہور کا وقت چودھویں صدی ہجری لکھا ہے۔ اور اہل اسلام کے اہل کشف نے مسیح موعود کو جو آخری خلیفہ اور خاتم الخلق ہے صرف اس بات میں ہی آدم سے مشابہ قرار نہیں دیا کہ آدم چھٹے دن کے آخر میں پیدا ہوا اور مسیح موعود چھٹے ہزار کے آخر میں پیدا ہوگا بلکہ اس بات میں بھی مشابہ قرار دیا ہے کہ آدم کی طرح وہ بھی جمع کے دن پیدا ہوگا اور اسکی پیدائش بھی تو اتم کے طور پر ہوگی یعنی جیسا کہ آدم تو اتم کے طور پر پیدا ہوا تھا پہلے آدم اور بعد میں تو اتم۔ ایسا ہی مسیح موعود بھی تو اتم کے طور پر پیدا ہوگا۔ سوا الحمد للہ والمنة کہ متصوفین کی اس پیشگوئی کا میں مصداق ہوں میں بھی جمعہ کے روز بوقت صبح تو اتم پیدا ہوا تھا صرف یہ فرق ہوا کہ پہلے لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنت تھا۔ وہ چند روز کے بعد جنت میں چلی گئی اور بعد اس کے میں پیدا ہوا۔ اور اس پیشگوئی کو شیخ محی الدین ابن عربی نے بھی اپنی کتاب فصوص میں لکھا ہے اور لکھا ہے کہ وہ صیغۃ الاصل ہوگا۔ بہر حال

وہ خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر فرمایا ہے کہ سورۃ العصر کے حروف حساب جمل کے رو سے ابتداء آدم سے لیکر حضرت مسیٰ اللہ علیہ وسلم تک جس قدر برس گزرے ہیں انکی تعداد ظاہر کرنے میں سورۃ مومنین کی رو سے جب اس زمانہ تک حساب لگایا جائے تو معلوم ہوگا کہ اب ساتواں ہزار لگ گیا ہے اور اس حساب کے رو سے میری پیدائش چھٹے ہزار میں ہوئی ہے کیونکہ میری عمر اس وقت قریباً ۶۸ سال کی ہے۔ منہ

اس سے مطلب یہ ہے کہ اسکے خاندان میں ترک کا خون ملا ہوا ہوگا بہر حال خاندان جو اپنی شہر کے لحاظ سے مغلیہ خاندان کہلاتا ہے اس پیشگوئی کا مصداق ہے کیونکہ اگر صحیح ہے تو خاندان فرمایا کہ یہ خاندان فارسی الاصل ہے مگر یہ تو عقین نامہ مشہور و محسوس ہے کہ اکثر اُمم اور ادیان پہلری مغلیہ خاندان سے ہیں اور وہ صیغۃ الاصل میں یعنی میں کے بچنے والی۔ منہ

و دیگر غلامتہ تا بیت اوب مدین حسن خان صاحب (بھوپال) منہ  
لئے الصحیح : ۲۸

## ہجوم مشکلات سے نجات حاصل کرنے کا طریق

ذیل میں جو نکتہ درج کی جاتی ہے یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک صاحب شیخ محمد بخش میں لکھا اور  
منسلح تجارت کو نکتہ درج فرمائی تھی جبکہ وہ سخت بال مشکلات میں مبتلا تھے۔ خدا تعالیٰ سے مغفرت کیج موعود  
علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعا کے بغیر ان کی تکالیف دور کریں۔

اک نہ اک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے  
پھوڑنی ہوگی تجھے دنیا سے فانی ایک دن  
مستقل رہنا ہے لازم ہے بشر تکو سدا  
بارگاہ ایزدی سے تو نہ یوں مایوس ہو  
حاجتیں پوری کریں گے کیا تری عاجز بشر  
چاہیے تجھ کو سانا قلب سے نقشِ دُوی  
چاہیے نفرتِ بدی سے اور نیکی سے پیار  
چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قصا کے سامنے  
ہر کوئی مجبور ہے حکمِ خدا کے سامنے  
رنج و غم یاس و الم فکر و بلا کے سامنے  
شکلیں کیا چیز ہیں مشکل کشا کے سامنے  
کریاں سب حاجتیں حاجت روا کے سامنے  
سر جھکا بس مالکِ امضِ سما کے سامنے  
ایک دن جانا ہے تجھ کو بھی خدا کے سامنے  
راستی کے سامنے کب جھوٹ چھٹا ہے جھلا  
قدر کیا پتھر کی لعل بے بہا کے سامنے



انبارِ افضل، ۱۳ جنوری ۱۹۲۸ء

میرے اٹھارہ سال کی تالیفات سے ظاہر ہیں۔ سب کی سب ضائع اور برباد نہ جائیں اور خدا نخواستہ سرکار انگریزی اپنے ایک قدیم وقادار اور خیر خواہ خاندان کی نسبت کوئی تکدر خاطر اپنے دل میں پیدا کرے۔ اس بات کا علاج تو غیر ممکن ہے کہ ایسے لوگوں کا منہ بند کیا جائے جو اختلاف مذہبی کی وجہ سے یا نفسانی حسد اور بغض اور کسی ذاتی غرض کے سبب سے جھوٹی مخبری پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں صرف یہ التماس ہے کہ سرکار دولتدار ایسے خاندان کی نسبت جسکو پچاس برس کے متواتر تجربہ سے ایک وقادار حجان نثار خاندان ثابت کر چکی ہے اور جسکی نسبت گورنمنٹ عالیہ کے معزز حکام نے ہمیشہ مستحکم رائے سے اپنی چٹھیا میں یہ گواہی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکار انگریزی کے یکے خیر خواہ اور خدمت گزار ہیں۔ اس خود کاشتہ پودہ کی نسبت نہایت حرم اور احتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے اور اپنے ماتحت حکام کو اشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی ثنابت شدہ وقاداری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر مجھے اور میری جماعت کو ایک خاص عنایت اور مہربانی کی نظر سے دیکھیں۔ ہمارے خاندان نے سرکار انگریزی کی راہ میں اپنے خون بہانے اور جان دینے سے فرق نہیں کیا اور نہ اب فرق ہے۔ لہذا ہمارا حق ہے کہ ہم خدمات گذشتہ کے لحاظ سے سرکار دولتدار کی پوری عنایات اور خصوصیت توجہ کی درخواست کریں تاہر ایک شخص بے وجہ بہاری آبروریزی کے لئے دلیری نہ کر سکے۔ اب کسی قدر اپنی جماعت کے نام ذیل میں لکھتا ہوں:-

۱	خانصاحب جناب محمد علی خانصاحب رئیس الیر کوٹہ جنک	۲	مرزا خدا بخش صاحب لچکی سابق مترجم چیف کٹہ پنجاب
	خاندان کی خدمات گورنمنٹ عالیہ کو معلوم ہیں۔		حال تحصیلدار علاقہ پنجاب محمد علی خان صاحب ریاست مالیر کوٹہ
۲	مولوی سید محمد مسکری خانصاحب رئیس کراضلع الہ آباد	۳	منشی بی بی بخش صاحب ہیڈ دفتر اگزیکٹو ریویو سے لاہور
	پنشنرز ڈپٹی کلکٹر و نائب ڈائریکٹر ریاست بہوپال جنکی	۴	بابو عبدالرحمن صاحب کوٹہ دفتر کوٹہ ریویو سے لاہور
	نمایاں خدمات پر سرکار سے لقب عطا ہوا۔ اور	۵	مولوی سید فضل حسین صاحب ڈپٹی کلکٹر علی گڑھ ضلع فرخ آباد
	چٹھیا خوشنودی میں۔	۶	سیا چراغ الدین صاحب کٹرکٹیسیا ریٹنٹ پنجاب رئیس لاہور

۱۲

۵۱۶

نزول المسح

نمبر شمار	نمبر شمار	نمبر شمار
پیشگوئی	<p>جس سے میں مشرف کیا گیا ہوں اس کی خلاق عادت پیشگوئیاں جو ظہور میں آچکی ہیں</p> <p>تھے کہ یہ تمام کام ہو جائیں گے اور ایک جماعت بھی ہو جائیگی چنانچہ منجہ ان کے</p> <p>بعض انگریزی الہامات ہیں اور میں انگریزی نہیں جانتا۔ اس کو چہ سے بالکل</p> <p>ناواقف ہوں ایک فقرہ تک مجھے معلوم نہیں مگر خارق عادت طور پر مندرجہ</p> <p>ذیل الہامات ہوئے۔ آئی لو یو۔ آئی ایم وڈیو۔ آئی شیل سیلپ یو۔ آئی کین</p> <p>ویٹ آئی ول ڈو۔ ڈی کین ویٹ دی ول ڈو۔ صفحہ ۳۸۰ و ۳۸۱۔ گاڈ از کنگ</p> <p>بلی ہیز آئی۔ صفحہ ۳۸۳۔ ہی از وڈیو ٹوکل ایمپی۔ صفحہ ۳۸۳۔ دی ڈیز شل کم</p> <p>دین گاڈ شیل سیلپ یو گوری بی ٹو دس لارڈ۔ گارڈ میکراون ارتھ اینڈ</p> <p>ہوں۔ صفحہ ۵۲۲۔ وہ اک من شہڈ بی اینگری بیٹ گاڈ از وڈیو ہی شل</p> <p>سیلپ یو۔ وارڈس آف کلک کین ٹاٹ ایکس جینج۔ صفحہ ۵۵۲۔ آئی لو یو۔</p> <p>آئی شیل گوریو جلا ج پارٹی آف اسلام۔ ۵۵۶ دیکھو صفحات مذکورہ براہین احمدیہ</p> <p>ترجمہ۔ میں تم سے محبت رکھتا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں</p> <p>تمہاری مدد کروں گا۔ میں کر سکتا ہوں جو چاہوں گا۔ ہم کر سکتے ہیں</p> <p>جو چاہیں گے۔ خدا ایک لشکر لیکر چلا آتا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہے</p> <p>جا تمہارے دشمن کو ہلاک کرے۔ یعنی اس کو مخلوب و مخذول کرے</p>	نمبر شمار
پیشگوئی	<p>اور براہین کے زمانہ کو پیش نظر رکھ کر ہر ایک عاقل سوچ سکتا ہے کہ براہین کے وقت میں</p> <p>کیا حالت تھی اور بعد میں کیا حالت ہوئی اور جیسا کہ ہم کئی مرتبہ لکھ چکے ہیں۔ یہ</p> <p>پیشگوئیاں جن میں یہ ذکر ہے کہ میں اس سلسلہ کو ایک بڑی قوم بناؤنگا۔ انکا سالہ ۱۹۰۱ء</p> <p>۱۹۰۲ء میں پورا ہو جانا اظہر من الشمس ہے اقول یہ بات ظاہر ہے کہ جس زمانہ میں</p> <p>براہین احمدیہ میں یہ پیشگوئیاں لکھی گئی ہیں کہ یہ ایک بڑی جماعت بنائی جائیگی۔ اس</p>	نمبر شمار

۱۳۰

یہ حوالہ صفحہ 142 پر درج ہے

نزول المسح صفحہ 140 مندرجہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 516 از مرزا قادیانی

کر سکتے تھے۔ اس واسطے مرزا صاحب کو بلا کر حکم دیا کہ جو جوابات ہم کہیں۔ عرب صاحب سے پوچھو اور جو جواب وہ دیں اُردو میں ہمیں لکھواتے جاؤ۔ مرزا صاحب نے اس کام کو کما حقہ ادا کیا اور آپ کی بیعت لوگوں پر شکست ہوئی۔

اس زمانہ میں مولوی ابھی بخش صاحب کی سعی سے جو چیف مہر مدارس تھے۔ (اب اس عہدہ کا نام ڈسٹرکٹ انسپکٹر مدارس ہی) کچھری کے ملازم منشیوں کے لئے ایک درسہ قائم ہوا۔ کہ رات کو کچھری کے ملازم منشی انگریزی پڑھا کریں۔ ڈاکٹر امیر شاہ صاحب جو اس وقت سسٹنٹ سرجن پنشنر ہیں استاد مقرر ہوئے۔ مرزا صاحب نے بھی انگریزی شروع کی اور ایک کتاب انگریزی کی تھی۔ مرزا صاحب کو اس زمانہ میں بھی مذہبی مباحثہ کا بہت شوق تھا۔ چنانچہ پادری صاحبوں کے اکثر مباحثہ رہتا تھا۔ ایک دفعہ پادری الایضہ صاحب جو دیسی صیالی پادری تھے اور حاجی پورہ سے جانب جنوب کی کوشیوں میں سے ایک کوشی میں رہا کرتے تھے۔ مباحثہ ہوا پادری صاحب نے کہا کہ عیسوی مذہب قبول کرنے کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی مرزا صاحب نے فرمایا۔ نجات کی تعریف کیا ہے؟ اور نجات سے آپ کیا مراد رکھتے ہیں؟ مفصل بیان کیجئے۔ پادری صاحب نے کچھ مفصل تقریر کی اور مباحثہ ختم کر بیٹھے اور کہا۔ میں اس قسم کی منطق نہیں پڑاؤں۔

پادری بلکہ صاحب ایم۔ اے سے جو بڑے فاضل اور محقق تھے۔ مرزا صاحب کا مباحثہ بہت دفعہ ہوا۔ یہ صاحب موضع گود پور کے قریب رہتے تھے۔ ایک دفعہ پادری صاحب نے فرمایا تھے کہ مسیح کو بے باپ پیدا کرنے میں یہ سہرا تھا۔ کہ وہ کنواری مریم کے لطن سے پیدا ہوئے اور آدم کی شرکت سے جو گنہگار تھا بری ہے۔ مرزا صاحب نے فرمایا۔ کہ مریم بھی تو آدم کی نسل سے ہے۔ پھر آدم کی شرکت سے بریت کیسے۔ اور جلاوہ ازیں عورت ہی نے تو آدم کو ترغیب دی۔ جس سے آدم نے درخت ممنوع کا پھل کھایا اور گنہگار ہوا۔ پس چاہیے تھا کہ مسیح عورت کی شرکت سے بھی بری رہتے۔ اور پادری صاحب خاموش ہو گئے۔

پادری بلکہ صاحب مرزا صاحب کی بہت عزت کرتے تھے اور بڑے ادب سے ان کو گفتگو کیا کرتے تھے۔ پادری صاحب کو مرزا صاحب سے بہت محبت تھی چنانچہ جب پادری صاحب ولایت جانے لگے تو مرزا صاحب کی ملاقات کے لئے کچھری تشریف لائے۔ ڈپٹی کمشنر صاحب نے

عبدالحمید بتلایا اور کہا کہ میں جنم کا برہمن ہوں اور کہ میرا ہندو نام رلیا رام ہے اور والد کا نام رام چند ہے اور کجوری دروازہ بٹالہ کا رہنے والا ہوں۔ سات سال کی عمر میں مرزا نے مجھے مسلمان کیا تھا۔ جس کو سات سال گزرے ہیں۔ وہ ایک ہندو دوست کی ترغیب سے مسلمان ہوا تھا۔ اور وہ دوست بھی اسی وقت مسلمان ہو گیا تھا۔ میرا دوست اور ڈھ قوم کا تھا اور کراپا رام اس کا نام تھا۔ اب اس کا نام عبدالعزیز ہے اور بٹالہ میں کپوری دروازہ کے اندر تمباکو فروشی کرتا ہے سات سال کے عرصہ میں مرزا صاحب کے یہاں طالب علم رہا اور قرآن کی تعلیم پاتا رہا۔ حال میں جو مرزا صاحب کے دعاوی کی نسبت الہامات باطل ثابت ہوئے تو اس کو یقین ہوا کہ مرزا صاحب نبی نہیں ہیں۔ اور اس نے خیال کیا کہ مرزا صاحب اچھے آدمی نہیں ہیں اور شہر گنیز ہیں۔ میں سیدھے قادیان سے آیا ہوں۔ اور عام طور پر غلامیہ میں نے مرزا صاحب کو گالیاں دی تھیں۔ جب میں وہاں سے چلا تھا میں اپنے ساتھ کچھ نہیں لایا۔ خداوند مسیح کا قول ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ پیچھے چلو۔ میں اور کچھ نہیں پاتا صرف بیسہ لیتا پاتا ہوں۔ اپنی معاش کو کوری اٹھا کر قلی گری کر کے بسر کروں گا۔ ہم کو کوئی کافی وجہ اس نے نہ بتلائی کہ وہ امرتسر کیوں آیا ہے

اور ملک دہلی کی پسینگی اور وہ سلسلہ ہمارے وقت میں آکر بالکل ختم ہو گیا اور ایسا ہوا تاکہ خدا تعالیٰ نیا سلسلہ قائم کرے جیسا کہ براہین احمدیہ میں اس سبحانہ کی طرف سے یہ الہام ہے سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ زاد مجدک ینقطع ابلک و یبید منک یعنی خدا جو بہت برکتوں والا اور بلند اور پاک ہے اس نے تیری بزرگی کو تیرے خاندان کی نسبت زیادہ کیا۔ اب سے تیرے آبا کا ذکر قطع کیا جائے گا اور خدا تجھ سے شروع کرے گا۔ اور ایسا ہی اس نے مجھے بشارت دی کہ میں تجھے برکت دوں گا اور بہت برکت دوں گا۔ یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔

پھر میں پہلے سلسلہ کی طرف غور کروں گا لکھتا ہوں کہ بچپن کے زمانہ میں میری تعلیم

کیونکہ بٹالا اور گورداسپور میں مشنری صاحب موجود ہیں اور نہ اس نے کوئی خاص وجہ بتلائی کہ وہ کیوں خاص کر میرے پاس آیا ہے۔ جب کہ اور بھی مشنری صاحب موجود ہیں۔ اس نے صرف یہ کہا کہ اتفاقاً ایک شخص کے آپ کی کوٹھی بتلانے پر آیا ہوں۔ جب ہم نے اُس سے پوچھا کہ تم نے کراہی ریل کا کہاں سے لیا تو وہ بتلانہ سکالوں باتوں پر ہماری خاص توجہ غور کے واسطے ہوئی اور غور طلب معاملہ ہم نے سمجھا اور یہ میرے دل میں گذرا کہ اس کے بیانات لیکھرام کے قاتل کے بیانات سے عجیب تشبیہ رکھتے ہیں۔ پس ہم نے اس کی طرف خاص دھیان رکھا۔ پس اس سے گفتگو کر کے ہم نے قصہ مذکور کیا۔ اس شخص نے واقفیت دین عسوی سے ظاہر کی ہم نے پوچھا کہاں سے یہ واقفیت حاصل کی۔ اس نے کہا کہ قادیان میں ایک عیسائی بٹالا کا رہتا ہے جو مسلمان ہو کر مرزا صاحب کے یہاں رہتا ہے نام اس کا سائیاں ہے۔ اس کے پاس انجیل مقدس تھی اور مطالعہ کیا کرتا تھا جہاں سے مجھے شوق و رغبت ہوئی۔ میں نے اس نوجوان کو مہاں سنگم گھیٹ والے شفا خانہ میں بھیج دیا۔ کہ وہاں طالب علموں کے پاس رہے اور تعلیم پائے۔ اور ہم نے اس کو بوتلوں کے صاف کرنے وغیرہ کا کام دیا۔ قریباً پانچ چھ یوم تک وہ اس جگہ رہا۔ اول اس میں قابل توجہ یہ بات تھی کہ وہ مرزا صاحب

اس طرح پر ہوئی کہ جب میں چھ سات سال کا تھا تو ایک فدی خواں مسلم میرے لئے نوکر رکھا گیا۔ جنہوں نے قرآن شریف اور چند نامی کتابیں مجھے پڑھائیں اور اس بزرگ کا نام فضل الہی تھا۔ اور جب میری عمر تقریباً دس برس کے ہوئی تو ایک عربی خواں مولوی صاحب میری تربیت کے لئے مقرر کئے گئے جن کا نام فضل احمد تھا۔ میں خیال کرتا ہوں کہ چونکہ میری تعلیم خدا تعالیٰ کے فضل کی ایک ابتدائی تخم ریزی تھی اس لئے ان استادوں کے نام کا پہلا لفظ بھی فضل ہی تھا۔ مولوی صاحب موصوت جو ایک دیندار اور بزرگوار آدمی تھے۔ وہ بہت توجہ اور محنت سے پڑھاتے رہے اور میں نے صرف کی بعض کتابیں اور کچھ قواعد نحو ان سے پڑھے اور بعد اس کے جب میں سترہ یا اٹھارہ سال کا ہوا تو ایک اور مولوی صاحب چند سال پڑھنے کا

۱۸۰

کے حق میں بہت ہی برا بکھتا تھا۔ دو سو وہ بپتسمہ لینے کی از حد خواہش رکھتا تھا۔ اور سو سو وہ بلاوجہ اور بلا طلبی ہمارے کوٹھی پر آکر گشت اور میر اور ملاقات چاہتا تھا۔ اور باوجودیکہ کل سال کی عمر میں وہ محمدی ہوا تھا۔ اپنی گوت (برہمن) سے ناواقف تھا اور ناکہوں سے ناواقف تھا اور مختلف اشخاص سے مختلف قسم کی اپنی نسبت کہانی بیان کی۔ مثلاً ایک شخص سے اُس نے اپنے دوست ایسروا اس نام کو بجائے کر پارام کے بتلایا۔ بعد اقصائے پانچ روز ہم نے اپنے اسپتال واقع بیاس پر اُسے بھیج دیا۔ وہاں بھی میرے طالب علم پڑھتے ہیں جاتے ہیں اس نے ایک خط مولوی نور الدین کے نام جو میرزا صاحب کا دلہنہ ہاتھ کا فرشتہ ہے لکھا یہ اسی شخص کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ خط اُس نے لکھا ہے۔ مطلب اس خط کا یہ تھا کہ میں عیسائی ہونے لگا ہوں آپ روک سکتے ہیں تو روک لیں۔ یہ مطلب بھی اُس کی زبانی ہی معلوم ہوا تھا اور دیگر شہادت بھی ہے۔ باعث خط لکھنے کا یہ تھا کہ ہم نے اس کو کہا تھا کہ یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم مرزا صاحب کو لکھیں کہ یہ شخص عیسائی ہونا چاہتا ہے۔ کل کو یہ نہ کہیں کہ تم اُن کے چور ہو۔ اس نے کہا کہ نہیں میں خود ہی خط لکھتا ہوں۔ اور اس نے خط لکھ کر میرنگ ڈاک میں ڈالا۔ اور مجھے خط کے ذریعہ سے خط لکھنے سے منع کیا تھا جب تک میرے بپتسمہ کا وقت ہو۔ وہ خط

اتفاق ہوا۔ ابن کا نام گل علی شاہ تھا۔ ابن کو بھی میرے والد صاحب نے نوکر رکھ کر قادیان میں شغلنے کے لئے مقرر کیا تھا۔ ابن آخر الذکر مولوی صاحب سے میں نے خواہ اور منطلق اور حکمت وغیرہ علوم مردوبہ کو جہاں تک خدا تعالیٰ نے چاہا حاصل کیا اور بعض طبابت کی کتابیں میں نے اپنے والد صاحب پر پڑھیں اور وہ فن طبابت میں بڑے عاقل و طبیب تھے اور ان دنوں میں مجھے کتابوں کے دیکھنے کی طرف اس قدر توجہ تھی کہ گویا میں دنیا میں نہ تھا۔ میرے والد صاحب مجھے بار بار یہی ہدایت کرتے تھے کہ کتابوں کا مطالعہ کم کرنا چاہئے۔ کیونکہ وہ نہایت ہمدردی سے ڈرتے تھے کہ صحت میں فرق نہ آدے اور نیز اُن کا یہ بھی مطلب تھا کہ میں اس شکل سے ملک

تفاتیق  
کتاب  
البریہ



وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آہ  
 نبیوں کی طرح ظاہری علم کسی استاد سے نہیں پڑھا تھا۔ مگر حضرت عیسیٰ اور حضرت مومنے  
 مکتبوں میں بیٹھے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ نے ایک یہودی استاد سے تمام تورات پڑھی تھی۔  
 غرض اسی لحاظ سے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی استاد سے نہیں پڑھا خدا آپ  
 ہی استاد ہوا۔ اور پہلے پہل خدا نے ہی آپ کو اِقْوَمَ کہا۔ یعنی پڑھ۔ اور کسی نے نہیں کہا۔  
 اس لئے آپ نے خاص خدا کے زیر تربیت تمام دینی ہدایت پائی اور دوسرے نبیوں کے دینی  
 معلومات انسانوں کے ذریعہ سے بھی ہوئے۔ سو آنے والے کا نام جو ہدی رکھا گیا۔ سو  
 اس میں یہ اشارہ ہے کہ وہ آنے والا علم دین خدا سے ہی حاصل کریگا۔ اور قرآن اور حدیث  
 میں کسی استاد کا شاگرد نہیں ہوگا۔ سو جس حلقہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا حلال یہی حال ہے۔  
 کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا  
 ہے۔ یا کسی مفسر یا محدث کی شگردی اختیار کی ہے۔ پس یہی ہدایت ہے جو نبوت محمدیہ  
 کے منہاج پر مجھے حاصل ہوئی ہے۔ اور اسرار دین بلا واسطہ میرے پر کھولے گئے۔ اور  
 جس طرح مذکورہ بالا وجہ سے آنے والا ہدی کہلائے گا اسی طرح وہ سچ بھی کہلائیگا کیونکہ  
 اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت بھی اثر کرے گی۔ لہذا وہ عیسیٰ ابن مریم بھی  
 کہلائیگا اور جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت اپنے خاصہ ہدایت کو اس کے اندر چھونکا۔

۴۔ بابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عبد بھی ہے اور اس لئے خدا نے عبد نام رکھا کہ اہل عبودیت کا حضور اور نازل ہے اور  
 عبودیت کی حالت کا لہجہ ہے جس میں کسی قسم کا غلو اور بلندی اور عجب نہ رہے اور صاحب اس حالت کا اپنی عملی  
 تکمیل محض خدا کی طرف دیکھے۔ اور کوئی ذات درمیان نہ دیکھے۔ عرب کا محاورہ ہے کہ وہ کہتے ہیں صور

جو نوٹ :- یہ مرتبہ عبودیت کا ہے انسان اپنی عملی تکمیل محض خدا تعلق کی طرف سے دیکھے جس میں ہدی کا نام کی عملی تکمیل تمام  
 وکمال محض خدا تعلق کے لہجہ سے ہوئی ہو دوسرے کو عیب نہیں آسکتا کیونکہ اپنی جہد و جہاد کا تلاش کا اثر ہونے تک  
 ایسا خیال پیدا کرتا ہے کہ جو عبودیت نام کے معنی ہے۔ اس لئے مرتبہ عبودیت کا لہجہ جو اس کے جو مرتبہ ہدایت کا  
 کے تابع ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دوسرے کو بوجہ کمال حاصل نہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ  
 من یشاء فاشہدوا اننا فاشہد ان محمدًا عبد اللہ ورسولہ۔ متفقہ

ان دنوں میں پنجاب یونیورسٹی نئی نئی قائم ہوئی تھی۔ اس میں عربی استاد کی ضرورت تھی۔ جسکی تنخواہ ایک سو روپیہ ماہوار تھی۔ میں نے ان کی خدمت میں عرض کی کہ آپ درخواست بھجویں۔ چونکہ آپکی لیاقت عربی زبان دانی کی نہایت کامل ہے آپ ضرور اس عہدہ پر مقرر ہو جائیں گے۔ فرمایا۔

میں درسی کو پسند نہیں کرتا۔ کیونکہ اکثر لوگ پڑھ کر بعد ازاں بہت شرارت کے کام کر کے ہیں۔ اور علم کو ذریعہ اور آلہ ناجائز کاموں کا بناتے ہیں۔ میں اس آیت کے وعید سے بہت ڈرتا ہوں۔ احشر والذین ظلموا وازواجهم۔ اس جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیسے نیک باطن تھے۔

ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ انبیاء کو احتلام کیوں نہیں ہوتا؟ آپ نے فرمایا کہ چونکہ انبیاء سوتے جاگتے پاکیزہ خیالوں کے سوا کچھ نہیں رکھتے اور ناپاک خیالوں کو دل میں آئے نہیں دیتے اس واسطے ان کو خواب میں بھی احتلام نہیں ہوتا۔

ایک مرتبہ لباس کے بارہ میں ذکر ہو رہا تھا۔ ایک کہتا کہ بہت کھلی اور وسیع موہری کا پاجامہ اچھا ہوتا ہے۔ بیس بندوستانی اکثر پہنتے ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ تنگ موہری کا پاجامہ بہت اچھا ہوتا ہے مرزا صاحب نے فرمایا کہ۔

’بلواظ ستر عورت تنگ موہری کا پاجامہ بہت اچھا اور افضل ہے اور اس میں پردہ زیادہ ہے۔ کیونکہ اسکی تنگ موہری کے باعث زمین سے بھی ستر عورت ہو جاتا ہے۔‘

سب نے اس کو پسند کیا۔

آخر مرزا صاحب نوکری سے دن برداشتہ ہو کر استغفار دیکر ۱۸۶۸ء میں پھر تشریف لگے۔ ایک دفعہ ۱۸۶۸ء میں آپ تشریف لائے اور لالہ بھیم سین صاحب کے مکان پہ قیام کیا۔ اور تشریف دعوت حکیم میر حسام الدین صاحب کے مکان پہ تشریف لائے۔ اس سال مرید احمد خاں صاحب غفرلہ نے قرآن شریف کی تفسیر شروع کی تھی۔ میں کہیں کی تفسیر یہاں میرے پاس چلی تھی جب میرا شیخ الہیہ داد صاحب مرزا صاحب کی بیواؤں کیلئے لالہ بھیم سین صاحب کے مکان پر گئے۔ تو انہاں گفتگو میں مرید صاحب

۸۴۱  
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ خواجہ عبدالرحمن صاحب متوطن کشمیر نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت  
 مسیح موعود علیہ السلام گھر میں جب رنج حاجت کے لئے پانخانہ میں جاتے تھے تو پانی کا لونا لانا  
 ساتھ لے جاتے تھے اور انڈر لہارت کرنے کے علاوہ پانخانہ سے باہر آکر بھی ہاتھ صاف کرتے تھے  
 خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت صاحب کا طریق تھا کہ لہارت سے فارغ ہو کر ایک دفعہ ہاتھ  
 پانی سے ہاتھ دھوتے تھے۔ اور پھر سٹی نل کر دو بارہ صاف کرتے تھے۔

۸۴۲  
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا۔ کہ ایک شخص پتھر سنگ  
 ریاست جوں کے تھے۔ وہ قادیان آکر مسلمان ہو گئے۔ نام ان کا شیخ عبدالعزیز رکھا گیا۔ ان کو لوگ  
 اکثر کہتے تھے کہ تختہ کراو۔ وہ بچا رہے چونکہ بڑی عمر کے ہو گئے تھے۔ اس لئے بچکچاتے تھے۔ اور  
 تکلیف سے بھی ڈرتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ذکر کیا گیا۔ کہ آیا تختہ ضروری ہے فرمایا  
 بڑی عمر کے آدمی کے لئے ستر عورت فرض ہے مگر تختہ مرت سنت ہے۔ اس لئے ان کے لئے  
 ضروری نہیں کہ تختہ کراویں۔

۸۴۳  
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت صاحب  
 کے خادم میاں حامد علی مرحوم کی روایت ہے کہ ایک سفر میں حضرت صاحب کو احتلام ہوا جب میں  
 سفیر روایت سنی تو بہت تعجب ہوا۔ کیونکہ میرا خیال تھا کہ انبیاء کو احتلام نہیں ہوتا۔ پھر بعد فکر کرنے  
 کے اور طبی طور پر اس مسئلہ پر غور کرنے کے میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ احتلام میں قسم کا ہوتا ہے  
 ایک فطرتی۔ دوسرا شیطانی خواہشات اور خیالات کا نتیجہ اور تیسرا مرض کی وجہ سے۔ انبیاء کو فطرتی  
 اور بیماری والا احتلام ہو سکتا ہے۔ مگر شیطانی نہیں ہوتا۔ لوگوں نے سب قسم کے احتلام کو شیطانی  
 سمجھ رکھا ہے جو قلط ہے۔

خاکسار عرض کرتا ہے کہ میر صاحب مکوم کا یہ خیال درست ہے کہ انبیاء کو بھی بعض اقسام کا  
 احتلام ہو سکتا ہے اور میرا ہمیشہ سے یہی خیال رہا ہے۔ چنانچہ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے یمن میں  
 اس حدیث کو پڑھا تھا کہ انبیاء کو احتلام نہیں ہوتا، تو اس وقت بھی میں نے دل میں یہی کہا تھا کہ  
 اس سے شیطانی نظارہ والا احتلام مراد ہے نہ کہ ہر قسم کا احتلام۔ نیز خاکسار عرض کرتا ہے کہ میر صاحب  
 نے جو فطرتی احتلام اور بیماری کے احتلام کی اصطلاح نکھی ہے یہ غالباً ایک ہی قسم ہے جس میں فطر

میں تغیرات ڈالتا ہے اور یہ بالکل غیر معقول اور بیہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی ہو اور الہام اس کو کسی اور زبان میں ہو جس کو وہ سمجھ بھی نہیں سکتا کیونکہ اس میں تکلیف مالا یطاق ہے اور ایسے الہام سے فائدہ کیا ہو جو انسانی سمجھ سے بالاتر ہے پس جب کہ بموجب اصول آریہ سماج کے وید کے رشیوں کی زبان ویدک سنسکرت نہیں تھی اور زورہ اس کے بولنے اور سمجھنے پر قادر تھے اور پھر خدا کا ایسی بیگانہ زبان میں ان کو الہام کرتا تو وہ ویدہ دانستہ ان کو اپنی تعلیم سے محروم رکھتا تھا۔ اور اگر کہہ کر خدا ان کو ان کی زبان میں سمجھا دیتا تھا کہ ان عبارتوں کے یہ معنی ہیں تو اس صورت میں پر میشر کا یہ عہد بجال نہیں رہے گا کہ انسانی زبان میں اس کو بولنا حرام ہے۔ مجھے تعجب ہے کہ ان نہایت کچی اور خام باتوں کے پیش کرنے سے اہل لویوں کو فائدہ کیا ہے کیا جو کچھ انسان کا ہے وہ سب کچھ پر میشر کا نہیں ہے تو پھر کوئی پر میشر کی ہتک عزت ہے کہ انسان کو اسی کی زبان میں سمجھا دے کیا ہمارا خدا ہمارے ہاتھ ہماری زبان میں ہی نہیں سنتا۔ پس سب کہ ہماری زبان میں ہی ہمارے دعا سننے سے اس کی شان میں کچھ فرق نہیں ہوتا تو پھر ہماری زبان میں ہی ہمیں کوئی راہ راست بچانے سے کیوں اس کی شان میں فرق آئے گا۔

پس یاد رکھنا چاہئے کہ قدیم سنت اللہ کے موافق تو یہی عادت الہی ہے کہ وہ ہر ایک قوم کے لئے اسی زبان میں ہدایت کرتا ہے لیکن اگر کوئی زبان ایسی ہو کہ ظہم کو خوب یاد ہو اور گویا اس کی زبان کے حکم میں ہو تو بسا اوقات ظہم کو اس زبان میں الہام ہو جاتا ہے جیسا کہ قرآن شریف کے بعض الفاظ سے یہ سند ملتی ہے کیونکہ اول قرآن شریف قریش کی زبان میں ہی نازل ہونا شروع ہوا تھا کیونکہ اول مخاطب قریش ہی تھے مگر بعد اس کے قرآن شریف میں عرب کی اور آدھ زبانوں کے بھی الفاظ آگئے ہیں اور ہم لوگ جو قرآن شریف کے پیرو ہیں اور ہماری شریعت کی کتاب خدا تعالیٰ کی طرف سے قرآن شریف ہے۔ اس لئے ہم خدا تعالیٰ سے اکثر عربی میں الہام پاتے ہیں تاہم اس بات کا نشان ہو کہ جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ اسخزرت

۲۱۰

نزل اسح

۲۳۵

۷۷

لکھا ہوں اور سلسلہ عبارت میں بعض ایسے الفاظ کی حاجت پڑتی ہے کہ وہ مجھے معلوم نہیں ہیں تب ان کی نسبت خدا تعالیٰ کی وحی رہنمائی کرتی ہے اور وہ لفظ وحی متلو کی طرح روح القدس مجھے دل میں ڈالتا ہے اور زبان پر جاری کرتا ہے اور اس وقت میں اپنی حس سے غائب ہوتا ہوں۔ مثلاً عربی عبارت کے سلسلہ تحریر میں مجھے ایک لفظ کی ضرورت پڑی جو ٹھیک ٹھیک بسیاری عیال کا ترجمہ ہے اور وہ مجھے معلوم نہیں اور سلسلہ عبارت اس کا محتاج ہے تو فی الفور دل میں وحی متلو کی طرح لفظ صنف و الا گیا جس کے معنی ہیں بسیاری عیال۔ یا مثلاً سلسلہ تحریر میں مجھے ایسے لفظ کی ضرورت ہوئی جس کے معنی ہیں غم و غمت سے چُپ ہو جانا اور مجھے وہ لفظ معلوم نہیں تو فی الفور دل پر وحی ہوئی کہ وجوم۔ ایسا ہی عربی فقرات کا حال ہے۔ عربی تحریروں کے وقت میں صد ہائے بنائے فقرات وحی متلو کی طرح دل پر وارد ہوتے ہیں اور یا یہ کہ کوئی فقرہ ایک کاغذ پر لکھے ہوئے وہ فقرات دکھا دیتا ہے اور بعض فقرات آیات قرآنی ہوتے ہیں یا ان کے مشابہ کچھ تھوڑے تعریف سے۔ اور بعض اوقات کچھ مدد کے بعد پتہ لگتا ہے کہ فلاں عربی فقرہ جو خدائے تعالیٰ کی طرف سے برنگ وحی متلو القادہ ہوا تھا وہ فلاں کتب میں موجود ہے چونکہ ہر ایک چیز کا خدا مالک ہے اس لئے وہ یہ بھی اختیار رکھتا ہے کہ کوئی عمدہ فقرہ کسی کتاب کا یا کوئی عمدہ شعر کسی دیوان کا بطور وحی میرے دل پر نازل کرے۔ یہ تو زبان عربی کے متعلق بیان ہے مگر اس سے زیادہ تعجب کی یہ بات ہے کہ بعض الہامات مجھے ان زبانوں میں بھی ہوتے ہیں جن سے مجھے کچھ بھی واقفیت نہیں جیسے انگریزی یا سنسکرت یا عبرانی وغیرہ جیسا کہ براہین احمدیہ میں کچھ نونہ انکا لکھا گیا ہے اور مجھے اس خدا کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ یہی حادثات اللہ میرے ساتھ ہے اور یہ نشانوں کی قسم میں ہے کہ ایک نشان ہے جو مجھے دیا گیا ہے جو مختلف پیرایوں میں اور خمیریہ میرے پر ظاہر ہوتے رہتے ہیں اور میرے خدا کو اس کی کچھ بھی پرواہ نہیں کہ کوئی کلمہ میرے پر بطور وحی القلم ہو وہ کسی عربی یا انگریزی یا سنسکرت کی کتاب میں درج ہو کہ میرے لئے وہ خمیریہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بہت سے تدریج کے قیاس بیان کر کے انکو علم غیب میں داخل کیا ہے کیونکہ وہ قیاس انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے علم غیب تھا گو یہودیوں کیلئے وہ غیب نہ تھا۔ پس یہی راز ہے جسکی مدد سے میں ایک دنیا کو

مشرق سے مغرب کو اور مغرب سے مشرقی بلاد کو آتی ہے اور اس پیشگوئی کے ساتھ قرآن شریف میں ایک اور بھی پیشگوئی ہے جو جسمانی اجتماع کے بعد روحانی اجتماع پر دلالت کرتی ہے اور وہ یہ ہے درکنہ بعضہم یومئذ یومج فی بعض و نفتح فی الصور فجمعنا ہم جمعاً یعنی ان آخری دنوں میں جو یا جوج ما جوج کا زمانہ ہوگا دنیا کے لوگ مذہبی جھگڑوں اور لڑائیوں میں مشغول ہو جائیں گے اور ایک قوم دوسری قوم پر مذہبی رنگ میں ایسے حملے کرے گی جیسے ایک موج دریا دوسری موج پر پڑتی ہے اور دوسری لڑائیاں بھی ہوں گی اور اس طرح پر دنیا میں

حاشیہ۔ یہ آیت سورہ کہف میں یا جوج ما جوج کے ذکر میں ہے۔ کتب سابقہ میں جوہنی اسرائیلی نبیوں پر نازل ہوئی تھیں صاف اور صریح طور پر معلوم ہوتا ہے بلکہ نام لے کر بیان کیا ہے کہ یا جوج ما جوج سے مراد یورپ کی عیسائی قومیں ہیں اور یہ بیان ایسی صحت سے ان کتابوں میں موجود ہے کہ کسی طرح اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کہنگہ وہ کتابیں حق مہدل ہیں۔ ان کا بیان قابل اعتبار نہیں۔ ایسی بات وہی کہے گا جو خود قرآن شریف سے بے خبر ہے کیونکہ اللہ جل شانہ امور منوں کو قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ یعنی فلاں فلاں باتیں اہل کتاب سے پوچھ لو اگر تم بے خبر ہو۔ پس ظاہر ہے کہ اگر ہر ایک بات میں پہلی کتابوں کی گواہی نامائز ہوتی تو خدا تعالیٰ کیوں مومنوں کو فرماتا کہ اگر تمہیں معلوم نہیں تو اہل کتاب سے پوچھ لو بلکہ اگر نبیوں کی کتابوں سے کچھ فائدہ اٹھانا حرام ہے تو اس صورت میں یہ بھی نامائز ہو گا کہ ان کتابوں میں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بطور استدلال پیشگوئیاں پیش کریں۔ حالانکہ خود صحابہ رضی اللہ عنہم اور بعد ان کے تابعین بھی ان پیشگوئیوں کو بطور حجت پیش کرتے رہے ہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ کتب سابقہ کے بیانی میں قسم کے ہیں۔

(۱) ایک تو وہ باتیں ہیں جو واجب التصدیق ہیں۔ جیسا کہ خدا کی توحید اور ملائک کا ذکر اور بہشت و دوزخ کے وجود کی نسبت بیان۔ اگر ان کا انکار کریں تو ایمان جائے۔

(۲) دوسری وہ باتیں ہیں جو رد کرنے کے لائق ہیں جیسا کہ وہ تمام امور جو قرآن شریف کے مخالف ہیں

لہ الکہف: ۱۰۰ لہ النحل: ۲۲

## ایک شخص ساکن جموں چراغ دین نام کی نسبت اپنی تمام جماعت کو ایک عام اطلاع

چونکہ اس شخص نے ہماری سلسلہ کی تائید کا دعویٰ کر کے اور اس بات کا اظہار کر کے کہ میں فرقہ احمدیہ میں سے ہوں جو بیعت کر چکا ہوں طاعون کے بائے میں شاید ایک یا دو اشتہار شائع کئے ہیں اور میں نے سرسری طور پر کچھ حصہ انکا سنا تھا اور قابل اعتراض حصہ ابھی سنا نہیں گیا تھا اس لئے میں نے اجازت دی تھی کہ اسکے چھپنے میں کچھ مضائقہ نہیں۔ مگر افسوس کہ بعض خطرناک لفظ اور بیہودہ دعوے جو اسکے حاشیے میں تھے اس کو میں کثرت لوگوں اور دوسرے خیالات کی وجہ سے سن نہ سکا اور محض نیک ظنی سے ان کے چھپنے کے لئے اجازت دی گئی۔ اب جو بات اس شخص چراغ دین کا ایک اور مضمون پڑھا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ مضمون بڑا خطرناک اور زہریلا اور اسلام کے لئے مضر ہے اور سر سے پیر تک لغو اور باطل باتوں سے بھرا ہوا ہے۔ چنانچہ اس میں لکھا ہے کہ میں رسول ہوں اور رسول بھی اولوالعزم ہوں اور اپنا کام یہ لکھا ہے کہ تا عیسا نبیوں اور مسلمانوں میں صلح کرادے اور قرآن اور انجیل کا فرقہ باہمی دور کرے اور ابن مریم ایک جواری بنکر یہ خدمت کرے اور رسول کہلاوے۔ اور ہر ایک شخص جانتا ہے کہ قرآن شریف نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ انجیل یا توریت سے صلح کرے گا بلکہ ان کتابوں کو محرف و متبدل اور ناقص اور نامتو قرار دیا ہے اور تاج خاص اکملت لکم دینکم کا اپنے لئے رکھا ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ سب کتابیں انجیل توریت قرآن شریف کے مقابل پر کچھ بھی نہیں اور ناقص اور محرف اور متبدل ہیں اور تمام بھلائی قرآن میں ہے جیسا کہ آج سے بائیس برس پہلے براہین احمدیہ میں یہ الہام موجود ہے۔ قل انما انا بشر مثلكم یوحی الی انما الہکم الٰہ واحد والخیر کلہ فی القرآن لا یعتہ الا المظہرون۔ دیکھو براہین احمدیہ ص ۵۱۵

یعنی انکو کہہ دے کہ میں تمہارے جیسا ایک آدمی ہوں مجھ پر یہ وحی ہوتی ہے کہ خدا ایک ہے اس کا کوئی ثانی نہیں اور تمام بھلائی قرآن میں ہے۔ پاک دل لوگ اس کی حقیقت

ہیں کہ بیہوں نے ولی انصاف سے عظمتِ شانِ اسلام کو قبول کر لیا ہے اور تثلیث کے مسئلہ کا غلط ہونا اور بہت سی بدعتوں کا عیسائی مذہب میں مخلوط ہو جانا اپنی تصنیفات میں بڑی شد و مد سے بیان کیا ہے۔ مگر افسوس کہ یہ انصاف ہلکے ہموطنوں آریہ قوم سے مشاجراتا ہے۔ اس قوم کو تعصب نے اس قدر گھیرا ہے کہ انبیاء کا ادب سے نام لینا بھی ایک پاپ سمجھتے ہیں۔ اور تمام انبیاء کی کسرِ شان کر کے اور سب کو تفری اور جلساز ٹھہرا کر یہ دعویٰ بلا دلیل پیش کرتے ہیں کہ ایک وید ہی خدا کی کلام ہے۔

نے ان کو بہت خراب کر رکھا ہے کہ جیسے یہ لکھا گیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے جتنے پہلے نبی آئے۔ وہ سب چور اور ڈاکو تھے۔ مگر یہ متکبرانہ الفاظ کسی حالت میں بھی نیک پاک آدمی کی طرف منسوب نہیں ہو سکتے۔ حضرت مسیح تو ایسے خدا کے متواضع اور حلیم اور عاجز اور بے نفس بندے تھے جو انہوں نے یہ بھی روانہ رکھا۔ جو کوئی ان کو نیک آدمی بھی کہے۔ پھر کوئی ان کی طرف کوئی غرور آمیز لفظ کہ جس میں اپنی شہنشاہی اور دوسرے کی توہین پائی جاتی ہے۔ منسوب کیا جائے۔ بے شک اگر ہم خدا کے پاک نبیوں کو چور اور ڈاکو کہیں۔ تو ہم چوروں اور ڈاکوؤں سے ہزار درجہ بدتر ہیں۔ جن دلوں پر خدا کی کلام مقدس نازل ہوتی رہی ہے۔ اگر وہ دل مقدس نہیں تھے۔ تو ناپاک کو پاک سے کیا نسبت تھی۔ یہ نہایت چالاک ہے۔ جو خدا کے ستودہ بندوں کی شان میں بے جا الفاظ بولے جائیں۔ کیا افسوس کا مقام ہے۔ کہ جو لوگ اپنی خودی سے ایک دم باہر نہیں نکلتے۔ اور جنہوں نے دنیا سے ایسی رباط بڑھائی اور تعلق پیدا کئے۔ کہ ان کے دلوں میں ہر دم دنیا ہی دنیا ہے۔ وہ خدا کے مقدس لوگوں کو تحقیر سے یاد کریں۔ اسے بھائیو! نبیوں کا پاک اور کامل اور راستباز ہونا تسلیم کرو۔ تا وہ کتابیں بھی پاک ٹھہریں جو نبیوں پر نازل ہوئیں۔ ورنہ جن دلوں سے وہ کتابیں نکلی ہیں۔ اگر وہ دل ہی پاک نہیں تو پھر کتابیں کیونکر پاک ہو سکتی ہیں۔ کیا ممکن ہے جو دھاتورے کے درخت کو انگور کا پھل لگے۔ یا آگ کو انجیر۔ جب چشمہ کا پانی صاف ہے تو چشمہ بھی صاف ہی سمجھو۔ اگر وہ لوگ چسپہ اور پرگزید اور خدا کے کامل وقادر بندے نہیں تھے۔

بے شک اگر وہ لوگ چسپہ اور پرگزید اور خدا کے کامل وقادر بندے نہیں تھے۔



کو ایک خط مستقیم میں باہم رکھ دیا جاوے تو شاید ایک مسافر کی دو منزل طے کرنے تک بھی وہ دوکانیں ختم نہ ہوں۔ عبادت سے فراغت سے اور دن رات سوا عیاشی اور دنیا پرستی کے کام نہیں پس اس تمام تحقیقات سے ثابت ہوا کہ یسوع کے مصلوب ہونے سے اس پر ایمان لانے والے گناہ سے رکت نہیں سکتے بلکہ عیساکہ بند ٹوٹنے سے ایک تیز دھاوا دیا کا پانی اور گرد کے یہاں کو تباہ کر جاتا ہے ایسا ہی کفارہ پر ایمان لانے والوں کا حال ہوتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ عیسائی لوگ اس پر زیادہ بحث نہیں کریں گے کیونکہ جس حالت میں ان نبیوں کو جن کے پاس خدا کا فرشتہ آتا تھا۔ یسوع کا کفارہ بکا یوں روک نہ سکا تو پھر کیوں تاجروں اور پیشہ وندوں اور خشک پارٹیوں کو ناپاک کاموں سے روک سکتا ہے۔ غرض عیسائیوں کے خدا کی کیفیت یہ ہے جو ہم بیان کر چکے۔

تیسرا مذہب ان دو مذہبوں کے مقابل پر جن کا ابھی ہم ذکر کر چکے ہیں اسلام ہے اس مذہب کی خدا شناسی نہایت صاف صاف اور انسانی فطرت کے مطابق ہے۔ اگر تمام مذہبوں کی کتابیں باہم جو کر ان کے سارے تعلیمی خیالات اور تصورات بھی محو ہو جائیں تب بھی وہ خدا جس کی طرف تکیں رہنا ہی کرتا ہے۔ آئینہ قانون قدرت میں صاف صاف نظر آئیگا اور اس کی قدرت اور حکمت سے بھری ہوئی صورت ہر ایک ذرہ میں چمکتی ہوئی دکھائی دے گی غرض وہ خدا جس کا پتہ قرآن شریف بتاتا ہے اپنی موجودات پر فقط قہری حکومت نہیں رکھتا بلکہ موافق آیتہ کہ **السمت برویکم قالوا بلیٰ** کے ہر ایک ذرہ ذرہ اپنی طبیعت اور روحانیت سے اس کا حکم ہمارا ہے۔ اس کی طرف بھگنے کے لئے ہر ایک طبیعت میں ایک کشش پائی جاتی ہے۔ اس کشش سے ایک ذرہ بھی خالی نہیں اور یہ ایک بڑی دلیل اس بات پر ہے کہ وہ ہر ایک چیز کو اپنی طرف سے کیونکہ ذرا قلب اس بات کو مانتا ہے کہ وہ کشش جو اس کی طرف بھگنے کیلئے تمام چیزوں میں پائی جاتی ہے وہ بلاشبہ وہی کی طرف سے ہے جیسا کہ قرآن شریف نے اس آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان صفت شیبی الا یہ سبب بجمدا یعنی ہر ایک چیز اس کی پاکی اور اس کے عبادت یا گری ہے مگر خدا ان چیزوں کو مانتا نہیں تھا تو ان چیزوں میں خدا کی طرف کشش کیوں پائی جاتی ہے۔

۱۴۶ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معلوم ہوتا ہے جو اپنے خدائی کا دعویٰ کرنا بخدا کی ایک برکت ہے۔

یہ حوالہ صفحہ 148 پر درج ہے

ستہم جلد 172 مندرجہ روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 296 از مرزا قادیانی

حصہ اول

۲۰۹

ازالہ اوہام

تب وہ شخص زبردہ ہو کر ایک روشن اور چمکتے ہوئے چہرہ کے ساتھ اس کے سامنے آجائے گا اور اس کی الوہیت سے انکار کرے گا سو وہ جہاں اسی قسم کی گمراہ کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہو گا کہ ناگہاں سیدنا سیدنا حضرت مریمؑ ظاہر ہو جائے گا اور وہ ایک ستارہ سفید کے پاس دمشق کے شرقی طرف اترے گا مگر اہل ماجہ کا قتل ہے کہ بیت المقدس میں اترے گا اور بعض کہتے ہیں کہ نہ بیت المقدس اور نہ دمشق بلکہ مسلمانوں کے لشکر میں اترے گا جہاں حضرت محمدیؐ ہونگے اور پھر فرمایا کہ جس وقت وہ اترے گا اس وقت اس کی زرد پوشاک ہوگی۔ یعنی زرد رنگ کے دکھڑے اس نے پہنے ہوئے ہوں گے یہ اس بات کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اس کی صحت کی حالت اچھی نہیں ہوگی اور دونوں تحصیل اس کی دو فرشتوں کے بازوؤں پر ہوں گی۔ مگر بخاری کی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مریمؑ کو بجائے دو فرشتوں کے دو آدمیوں کے کندھوں پر اٹھ کر رکھ کر طواف کرتے دیکھا۔ پس اس حدیث کے لہذا صغائی سے یہ بات کہلتی ہے کہ دمشق حدیث میں جو دو فرشتے رکھے ہیں وہ دراصل وہی دو آدمی ہیں کہ دوسری حدیث میں بیان کئے گئے ہیں اور ان کے کندھوں پر اٹھ رکھنے سے مطلب یہ ہے کہ وہ مسیح کے مددگار اور انصار ہو جائیں گے۔

اور پھر فرمایا کہ جس وقت سیدنا سوسو جھکائے گا تو اس کے سینے کے قطرے شرح ہوں گے اور جب اوپر کو اٹھائے گا تو بالوں سے قطرے سینے کے چاندی کے مانڈ کی طرح گریں گے جیسے موتی ہوتے ہیں اور کسی کافر کے لئے ممکن نہیں ہوگا کہ ان کے دم کی ہوا پا کر میتا رہے بلکہ فی الفور مر جائے گا اور وہ ان کا ان کی حد نظر تک پہنچے گا۔ پھر حضرت ابن مریمؑ جہاں کی تلاش میں لگیں گے اور آندے کے دروازہ پہ بیت المقدس کے دیہات میں آجائے گاؤں ہے اس کو جا پکڑیں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔ وقت توجمة الحدیث۔ یہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں امام صاحب نے لکھی ہے جس کو ضعیف محکمہ میں الحدیث

(۶) وہاں جب گدھے پر سوار ہو گا تو گدھا جس جلدی سے چلیگا اس کی یہ مثال ہے کہ جیسے باول اس حالت میں چلتا ہے جب کہ پیچھے اس کے ہوا ہو۔ یہ ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وہاں گدھا کوئی جاندار مخلوق نہیں ہوگا بلکہ وہ کسی روحانی مادہ کے زور سے چلے گا۔

(۷) زمین اور آسمان دونوں وہاں کے فرمانبروار ہوں گے معنی خدا تعالیٰ اس تدریج کے ساتھ تقدیر موافق کر دے گا اور اس کے ہاتھ پر زمین کو اس کی مرضی کے موافق آباد کرے گا۔

(۸) وہاں مشرق کی طرف سے خروج کرے گا یعنی ملک ہند سے کیونکہ یہ ملک زمین حجاز سے مشرق کی طرف ہے۔ متفق علیہ۔

(۹) وہاں جس ویرانہ پر گدرے گا اسے کیسے گا تو اپنے خزانے باہر نکال۔ سو وہ تمام خزانے باہر نکل آئیں گے اور وہاں کے پیچھے پیچھے جائیں گے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہاں زمین سے بہت فائدہ اٹھائے گا۔ اور اپنی تدبیروں سے زمین کو آباد کرے گا اور ویرانے کو خزانے کر کے دکھائے گا پھر آخراً بابل اور قتل کیا جائیگا لہذا ان لوگوں کو کہتے ہیں جو بے جا جھگڑنے والے ہوں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔

بسر کرنا انہوں نے کہاں سے سیکہ لیا ہے۔ کتاب الہی کی غلط تفسیر میں نے ابھی بت فرمایا ہے اور ان کے دل اور مافی قوی پر بہت بُرا اثران سے پڑا ہے۔ اس زمانہ میں باشبہ کتاب الہی کے نئے ضروری ہے کہ اس کی ایک نئی اور صحیح تفسیر کی جائے کیونکہ حال میں جن تفسیروں کی تعلیم دی جاتی ہے وہ نہ اخلاقی حالت کو درست کر سکتی ہیں اور نہ ایمانی حالت پر نیک اثر ڈالتی ہیں بلکہ فطرتی سعادت اور نیک روشنی کی مزاحم ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود اس اپنے اکثر خاندان کی وجہ سے قرآن کریم کی تعلیم نہیں ہے قرآنی تعلیم ایسے لوگوں کے دل سے مٹ گئی ہے کہ گویا قرآن آسمان پر اٹھایا گیا ہے۔ وہ ایمان جو قرآن نے سکھایا تھا اس سے لگ بے غبڑ ہیں وہ عرفان جو قرآن نے بخشا تھا اس سے لگ غافل ہو گئے۔ ان سے یہ کہہ کر قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن ان کے متن سے پیچھے نہیں آتا۔ ان میں معنوں سے

حسد دوم

۴۹۳

ازالہ ابوام

کہ جب دجال کے بے جا جھگڑے کمال تک پہنچ جائیں گے تب سچ موعود ظہور کرے گا اور اس کے تمام جھگڑوں کا خاتمہ کر دے گا۔

(۱۰) دجال خدا نہیں کہلائے گا بلکہ خدا تعالیٰ کا قائل ہوگا بلکہ بعض انبیاء کا بھی۔ مسلم۔ ان وشوش علامتوں میں سے ایک بھاری علامت دجال محمود کی یہ لکھی ہے کہ اُس کا فتنہ تمام بن قنوں سے بڑھ کر ہوگا کہ جو ربانی دین کے مٹانے کے لئے ابتدا سے لوگ کرتے آئے ہیں اور ہم اسی رسالہ میں ثابت کر چکے ہیں کہ یہ علامت عیسائی مشنوں میں بخوبی ظاہر ہو چکا ہے۔

ازالہ جملہ ایک بڑی بھاری علامت دجال کی اُس کا گدھا ہے جس کے بیٹے الاذین کا اندازہ شروع کیا گیا ہے اور ریل کی گاڑیوں کا اکثر اسی کے موافق سلسلہ طولانی ہوتا ہے اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ وہ وہ خان کے زور سے چلتی ہیں جیسے باطل ہوا کے زور سے تیز حرکت کرتا ہے۔ اس جگہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے کھلے طور پر ریل گاڑی کی طرف اشارہ فرمایا ہے چونکہ یہ عیسائی قوم ایجاد ہے جن کا امام و مقتدا ہی دجال ہے اس لئے ان گاڑیوں کو دجال کا گدھا قرار دیا گیا۔ اب اس سے زیادہ اور کیا ثبوت ہوگا کہ علامت خاصہ دجال کے انہیں لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ انہیں لوگوں نے مکروں اور فریبوں کا اپنے وجود پر خاتمہ کر دیا ہے اور دین اسلام کو وہ ضرر پہنچایا ہے جس کی نظیر دنیا کے ابتدائے سے نہیں پائی جاتی اور انہیں لوگوں کے متبعین کے پاس وہ گدھا بھی ہے جو دجال کے زور سے چلتا ہے جیسے باطل ہوا کے زور سے۔ اور انہیں لوگوں کے متبعین زمین کو

تھا۔ کیا گیا ہے کہ آخری زمانہ میں قرآن آسمان پر اٹھایا جائے گا۔ پھر زمین مدینوں میں لکھا ہے کہ پھر دوبارہ قرآن کو زمین پر لے گا ایک مرد فارسی اوصل ہوگا جیسا کہ فرمایا گنوکان الایمان معلقاً لب عند انثریا لنا لہ سرجل من فارس۔ یہ عریف و حقیقت اسی زمانہ کی طرف اشارہ کرتی ہے جو آیتہ ناعلیٰ و ہاب بہ لقلادون میں اشارتاً بیان کیا گیا ہے۔ منہ

ازالہ ابوام صفحہ 730 مندرجہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 492، 493 از مرزا قادیانی یہ حوالہ صفحہ 148 پر درج ہے

ومنح بی من النعم الظاهرة والباطنة وجعلني من المجدوبين. وكنت شاكياً  
وقد شغيت وما استفتحت باباً الا فتحت. وما سألت من نعمة الا اعطيت  
وما استكثفت من امر الا كشفت. وما ابتللت في دعاء الا اجيبت.  
وكل ذلك من حبني بالقرآن وحب سيدي وامامي سيد المرسلين. اللهم  
صل وسلم عليه بعدد نجوم السموات وذرات الارضين ومن اجل هذا الحب  
الذي كان في نظرتي كان الله معي من اول امري حين ولدت وحين كنت  
ضرباً عند ظمري وحين كنت اقرئ في المتعلمين. وقد حبيب الي منذ فوت  
العشرين ان انصر الدين. واجادل البراهمة والقسيسين. وقد الفت  
في هذه المناظرات مصنفات عديدة. ومؤلفات مفيدة منها كتابي  
**البراهين**. كتاب نادر مانسج على منواله في ايام خالية فليقرء من كان  
من امرتايين. قد سللت فيه صوارم الحجج القطعية على اقوال الملحدين.  
ورميت بشبهها الشياطين المبطنين. قد خفض هام كل معاند بذالك  
السيف المسلول. وتبينت فضيحتهم بين ارباب المنقول والمعقول. وبين  
المصنفين. فيه دقائق العلوم وشواردها والالهامات الطيبة الصحيحة و  
الكشوف الجلية ومواردها. ومن كل ما يجلي ذرر معارف الدين المتين ولي  
كتب اخرى تشابهه في الكمال. منها الكحل والتوضيح والازالة وفتح الاسلام  
وكتاب آخر سبق كلها الفتى في هذه الايام اسمه دافع الوساوس هو نافع جداً  
للذين يريدون ان يروا حسن الاسلام. ويكفون افواه المتخالفين. تلك كتب  
ينظر اليها كل مسلم بعين المحبة والمودة وينتفع من معارفها ويقبلني ويصدق

۵۲۸

دعوتی۔ الاذریۃ البغایا الذین ختم اللہ علی قلوبہم فہم لا یقبلون۔ ولما  
 بلغت اشد عمری وبلغت اربعین سنة جاء تنی نسیم الوحی بریا عنایات  
 ربی لیزید معرفتی و یقیننی و یرفع حجبی و اکون من المستیقنین فاؤل ما  
 فتح علی بابہ هو الرؤیا الصالحة فکنت لا اری رؤیا الا جاءت مثل فلق  
 الصبح و انی رايت فی تلك الايام رؤیا صالحة صادقة قریبا من القین او  
 اکثر من ذالک۔ منها محفوظہ فی حافظتی و کثیر منها نسیتها۔ ولعل  
 اللہ یکررہا فی وقت اخر و نحن من الآملین۔ و رايت فی غلواء شبابی  
 و عند دواعی التصابی کانی دخلت فی مکان و فیہ حفداتی و خدعی فقلت  
 طہروا فرأشئ فان وقتی قد جاء ثم استیقظت و عثیت علی نفسی  
 و ذهب و هلی الی انی من المائتین۔ و رايت ذات لیلۃ و انا غلام  
 حدیث السن کانی فی بیت لطیف نظیف یذکر فیہا رسول اللہ صلی اللہ  
 علیہ وسلم فقلت ایہا الناس این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاشاروا  
 الی حجرۃ فدخلت مع الداخلین۔ فبش بی حین واقیتہ۔ و حیانی باحسن  
 ما حییتہ و ما انسی حسنه و جماله و ملاحظته و تحننه الی یومی هذا۔ شخفی  
 جبلا و جذبنی بوجه حسین قال ما هذا بیمنک یا احمد فنظرت فاذا  
 کتاب بیدی الیمنی و خطر بقلبی انه من مصنفاتی قلت یا رسول اللہ  
 کتاب من مصنفاتی قال ما اسم کتابک فنظرت الی الکتاب مرۃ اخرى  
 و انا کالمتحیرین۔ فوجدته یثابہ کتابا کان فی دار کتبی و اسمه  
 قطبی قلت یا رسول اللہ اسمه قطبی قال ارنی کتابک القطبی فلما

کہے کہ فرشتوں کا نزول اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ اپنے وجود کو آسمان سے خالی کر دیں تو ہم شوق  
 اس ثبوت کو سنیں گے۔ اور اگر درحقیقت ثبوت ہوگا۔ تو ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ جہاں تک ہمیں  
 معلوم ہے فرشتوں کا وجود ایمانیات میں داخل ہے خدا تعالیٰ کا نزول سماء الدنیا کی طرف  
 اور فرشتوں کا نزول وہاں ایسی حقیقتیں ہیں جو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ ہاں کتاب اللہ سے اتنا ثابت  
 ہوتا ہے کہ خالق جدید کے طور پر زمین پر فرشتوں کا ظہور ہوتا ہے وہ وحیہ کلیبی کی شکل میں  
 جبرئیل کا ظاہر ہونا خالق جدید تھا یا کچھ اور تھا۔ پھر کیا یہ ضرور ہے کہ پہلی خلق کو نابود کر لیں پھر  
 خلق جدید کے قائل ہوں بلکہ پہلا خلق بجائے خود آسمان پر ثابت اور قائم ہے اور دوسرا خلق خدا  
 تعالیٰ کی وسیع قدرت کا ایک نتیجہ ہے کیا خدا تعالیٰ کی قدرت سے بعید ہے کہ ایک وجود دو جگہ  
 دو جسموں سے دکھاوے۔ حاشا دکھا ہرگز نہیں۔ *الم تعلم ان الله على كل شئ قدير*  
 پھر شیخ بلالوی صاحب نے اپنی دانست میں ہماری کتاب تبلیغ کی کچھ غلطیاں نکالی ہیں۔  
 اور ہم فسوس سے لکھتے ہیں کہ تعصب کے جوش سے یا نادانی کی وجہ سے صحیح اور باقاعدہ ترکیبوں  
 اور لفظوں کو بھی غلطی میں داخل کر دیا۔ اگر اس امر کے لئے کوئی خاص مجلس مقرر ہو تو ہم  
 ان کو سمجھا دیں کہ ایسی شتابکاری سے کیا کیا ندامتیں اٹھانی پڑتی ہیں قیامت کی نشانیاں ظاہر  
 ہو گئیں یہ علم اور نام مولوی *إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ*۔ وہ غلطیاں جو انہوں نے بڑی جانکاہی  
 سے نکالی ہیں۔ اگر وہ تمام اکٹھی کر کے لکھی جائیں تو دو یا ڈیڑھ سطر کے قریب ہو گئی۔ اور ان میں  
 اکثر تو سہو کا تب ہیں اور تین ایسی غلطیاں جو بوجہ نہ میسر آنے نظر ثانی یا طفرہ نظر کے رہ گئی ہیں۔  
 اور باقی شیخ صاحب کی اپنی عقل کی کوتاہی اور سمجھ کا گھٹا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ شیخ صاحب  
 نے کبھی لسان عرب کی طرف توجہ نہیں کی۔ بہتر تھا کہ چپ رہتے اور اور بھی اپنی پردہ دری  
 نہ کرتے۔ ہمیں شوق ہی رہا کہ شیخ صاحب ہماری کتابوں کے مقابل پر کوئی فصیح بلیغ رسالہ نظم اور  
 شریف نکالیں اور ہم سے انعام لیں اور ہم سے اقرار کرالیں کہ درحقیقت وہ مولوی اور عربی دان ہیں۔  
 میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ یہ رسائل جو لکھے گئے ہیں تائید الہی سے لکھے گئے ہیں۔

میں ان کا نام وحی اور الہام تو نہیں رکھتا مگر یہ تو ضرور کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی خاص اور خارق عادت تائید نے یہ رسالے میرے ہاتھ سے نکلوائے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ شائع کیا کہ اگر شیخ صاحب موصوف جن کی نسبت میرا اعتقاد ہے کہ وہ فذلان میں پڑے ہوئے ہیں اور علم عربیت سے کسی اتفاق سے محروم رہ گئے ہیں مقابلہ کر کے دکھلا دیں تو وہ اس مقابلہ سے میرے ان تمام دعویٰ کو نابود کر دیں گے۔ مگر شیخ صاحب کیوں اس طرف متوجہ نہیں ہوتے کوئی مصیبت ہے جو انکو مانع ہے۔ بس یہی مصیبت ہے کہ وہ لسان عرب سے بے بہرہ اور آہنکل فذلان کی حالت میں مبتلا ہیں۔ انکے لئے ہرگز ممکن نہ ہو گا کہ مقابلہ کر سکیں۔ یہ وہی الہام ہے جو ظہور کر رہا ہے کہ الہی مہین من اراد اہانتک یہ وہی محمد حسین ہے جو اس عاجز کی نسبت جا بجا کہتا پھر تا تھا کہ یہ شخص سخت جاہل ہے۔ عربی کیا ایک صیغہ تک اسکو نہیں آتا اور وہ اعلیٰ درجہ کے فاضل جو میرے ساتھ ہیں ان کو کہتا تھا کہ یہ لوگ صرف مُنشی ہیں۔ پس خدا تعالیٰ کی غیرت نے تقاضا کیا کہ اس کی پردہ درسی کرے اور اس کے تکبر کو توڑے اور اسکو دکھلاوے کہ خود پسندی اور عجب کے یہ ثمرات ہیں۔ سو اس سے زیادہ اور کیا اعانت ہوگی کہ جس شخص کو جاہل سمجھتا تھا اور نمبر پر چڑھ کر اور مجلسوں میں بیٹھ کر بارہ لکھتا تھا کہ زبان عرب سے یہ شخص بالکل نا آشنا ہے اور جاہل ہے اسی کے ہاتھ سے خدا تعالیٰ نے اس کو بتر مندہ اور ذلیل کیا۔ اگر یہ نشان نہیں تو چلیے تھاکہ محمد حسین اپنے تمام دوستوں سے مدد لیتا اور توہم الحق اور کرامات الصادقین کا جواب لکھتا۔ اس شخص کو بڑے بڑے انعاموں کے وعدے دیئے گئے۔ ہزار لعنت کا ذخیرہ آگے دکھا گیا۔ مگر اس طرف توجہ نہ کی۔ یہ نتیجہ مخالفت حق کا ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الابصار۔

اور یاد رہے کہ یہ عذر شیخ صاحب موصوف کا کہ توہم الحق میں پادری بھی مخاطب ہیں اسلئے رسالہ بالمقابل لکھنے سے پہلو تہی کیا گیا نہایت ہنگامہ غدر سے ہے۔ گویا ایک بہانہ ڈھونڈھا ہے کہ کسی طرح جان بچ جائے۔ لیکن دانا سمجھتے ہیں کہ یہ بہانہ نہایت کچا اور فضول اور ایک



اور حق پوشی میں حد سے گزر گئے ہیں۔ ہائے افسوس ان کو کیا ہو گیا کہ وہ عمداً صحیح واقعات سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے ملک میں ایک بادشاہ کی حیثیت سے ظہور فرما نہیں ہوئے تھے۔ تاہم گمان کیا جاتا کہ چونکہ وہ بادشاہی جبروت اور شوکت اپنے ساتھ رکھتے تھے اسلئے لوگ جان بچانے کے لئے ان کے جھنڈے کے نیچے آگئے تھے۔

پس سوال تو یہ ہے کہ جب کہ آپ کے لئے اپنی غریبی اور مسکینی اور تنہائی کی حالت میں خدا کی توحید اور اپنی نبوت کے بارے میں متادی شروع کی تھی تو اس وقت کس تلوار کے خوف سے لوگ آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ اور اگر ایمان نہیں لائے تھے تو پھر جبر کرنے کے لئے کس بادشاہ سے کوئی لشکر مانگا گیا تھا۔ اور مدد طلب کی گئی تھی۔ اسے حق کے طالبو! تم یقیناً سمجھو کہ یہ سب باتیں ان لوگوں کی افتراء ہیں۔

جو اسلام کے سخت دشمن ہیں۔ تاریخ کو دیکھو۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہی ایک قدیم لڑکا تھا جس کا باپ پیدائش سے چند دن بعد ہی فوت ہو گیا۔ اور ماں صرف چند ماہ کا بچہ چھوڑ کر مر گئی تھی۔ تب وہ بچہ جس کے ساتھ خدا کا ہاتھ تھا۔

بغیر کسی کے سہارے کے خدا کی پناہ میں پرورش پاتا رہا۔ اور اس مصیبت اور تنہی کے ایام میں بعض لوگوں کی بکریاں بھی چرا میں۔ اور بجز خدا کے کوئی متکفل نہ تھا اور پچیس برس تک پہنچ کر بھی کسی سچے سچے نبی آپ کو اپنی نرگی نہ دی۔ کیونکہ جیسا کہ ظاہر نظر آتا تھا۔ آپ اس لائق نہ تھے کہ خانہ داری کے اخراجات کے متحمل ہو سکیں۔

اور نیز محض اسی تھے۔ اور کوئی حرفہ اور پیشہ نہیں جانتے تھے۔ پھر جب آپ پالیس برس کے سن تک پہنچے تو یک دفعہ آپ کا دل خدا کی طرف کھینچا گیا۔ ایک غار منگہ سے چند میل کے فاصلہ پر ہے۔ جس کا نام حرا ہے۔ آپ کیلئے وہاں جاتے اور غار کے اندر چھپ جاتے۔ اور اپنے خدا کو یاد کرتے۔ ایک دن اسی غار میں آپ

طہر پیدا ہو سکتا ہے کہ تو محض باتعدیہ میں کم طرحوں کے ہیں کہ بے جا نہ جانے کا ہیں تو ہر شخص وہ شخص کو کہہ سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ تو بوجہ جانے کا وہ بوجہ جانے کا باطن قہم کی باتوں سے کیا ہی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جن کے دل میں عیب پایا جاتا ہے وہ تیرا منی ہو کہ میں تو بھی دیکھ لہو نہ پا بھی دیکھ لگا کر ہم نے تجھے تیرم نہیں پایا تھا اور کیا ہوتے ہیں اس میں تو اگر ہم نے تجھے پناہ دی اور تجھے قہم کے نقصان سے بچلا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی رجم ماہ میں ہی تھے کہ آپ کے وہ وقت ہو گئے جب آپ کی پیدائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں اللہ کے طرف سے اللہ کی فیر سے لیا اور رحمت پیدا کی۔ عام طور پر ایسے حالت میں انسان کی توجہ پو توں کی ہوتی ہے اور دوسرے چیزوں کی طرف ہوتی ہے مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ اپنے دل میں کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ محبت اور پیار رکھنے والا کہیں کے لڑکے ہون گئے اور اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ہی کرتے رہتے تھے مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت پیدا کر دی کہ آپ اگر قصوری دیکھتے تھے بھی ان کی نظروں کو اوچھل کر دیتے تو وہ بے چین ہو جاتے تھے۔ آپ کو ہر وقت کوئی عیب یا خدشہ نہ رکھتے تھے آپ کی محبت میں اخبار پڑھتے رہتے تو پورے اپنے دل میں کو ڈالتے رہتے تھے کہ اس کی قدر کیوں نہیں کرتے پھر عربوں میں رواج تھا کہ وہ نہنگ پالنے کے لئے دائیاں رکھا کرتے تھے آپ کی والدہ نے ہا اکر انہیں بھی کوئی دائی مل جائے مگر فوت کی وجہ سے کوئی دائی نہ ملی تاخیر اللہ تعالیٰ نے خیمہ کاس حکیم اشیاں خدمت کے لئے منتخب فرمایا۔ عظیم وہ تھی جسے ہر روزہ کے محض اس لئے نہ کیا گیا تھا کہ وہ ایک غریب محنت تھی اگر اسے بچھو گیا تو وہ اسے کھانے کی کہاں سے ہوگا اور جس کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سلیقہ کیا تھا اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے کھانے کے تمام بچے حرام کر دیئے۔ وہ جس گھر میں بھی گئی اس گھر میں کھانا کھانے سے

دینا بچ نہیں دے سکتے، تم بچے گئیں تو اسے کھانا کی کہاں دے۔ گویا سارے گھر میں اس روز ایک بچہ ایسا تھا جسے کوئی دیر نہ مل سکی اور ایک دیر ایسی تھی جسے کوئی بچہ نہ دے جب شام ہو گئی تو دوسرے گھر میں کسی بچہ کے لئے سے ماہوں ہو گئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ کسی دیر کے لئے سے ماہوں ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے عظیم کے دل میں نہنگ لگا کر بچے غریب گھرانے کا ہے اور اس کا والد فوت شدہ ہے مگر میرا غالی جانا دوسرے لوگوں کی منی کا موجب ہو گا چلو میری کو لے چلو میرا غالی جانا اور میں کیوں اللہ تعالیٰ کے لئے گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت ڈالی کہ آپ کا نام ہر گھر کے لئے آٹھوں سے بولتا تھا اس پر سخت گریں گزرتا اور دعا کی محبت میں بے تاب ہو جاتا۔ تاریخوں میں آتا ہے کہ آپ ذرا بھی آنتہ تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ سے عاوجل ہوتے تو وہ اپنے بچوں کو ڈانٹتا تھا کہ جان کر تم اسے چھوڑ کر گئے ہو اور میرا آپ کو لے کیلئے وہ پڑتی غریب باپ کے بعد آپ کو پرورش کے لئے عظیم بیسی دائی ملی، عظیم اللہ تعالیٰ جیسا محبت کرنے والا دائی اور پھر عظیم اللہ تعالیٰ فوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے چچا ابو طالب کے دل میں آپ کی محبت ڈالی۔ ابو طالب کو بھی آپ سے بے انتہا محبت تھی ایسی محبت کہ عرصہ نزدیک وہ دنیا میں رہتے کہ چچا ہیں گے جنہوں نے اپنے کسی بچے کی اس محبت کے ساتھ پالا ہو۔ جو ان ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ملاوٹ سے آپ کے دل میں آپ کی محبت پیدا کر دی اور خود اس کے دل میں خود پیدائش پیدا ہوئی کہ میں ان سے شادی کر لیں کیونکہ یہ محبت ہی وہ مذاق کے ایک ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے گھر بار کا سلیقہ پیدا کر دیا۔ پھر عظیم کے لئے ساتھیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان باپ زید ہوتے ہیں تو ان کی خوشنودی کے لئے ایک دوستیاں اختیار کرتے ہیں لیکن جب مر جاتے ہیں تو ان کے تمام تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں اور کوئی کا خیال تک نہیں رہتا کسی نہیں آتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ کیفیت ہو چکی تھی اس لئے طبی طور پر آپ کو بھی ساتھیوں اور دوستوں کی ضرورت تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے جو بزرگ اور حکیم پر حزم سے

۲۱۱  
فلاوی کی خدمت میں

یہ تو ہم نے قرآن شریف کی اس زبردست طاقت کا بیان کیا ہے جو اپنے پیروی کرنے والوں پر اثر ڈالتی ہے لیکن وہ دوسرے مہجرت سے بھی بھرا ہوا ہے، اس نے اسلام کی ترقی اور شوکت اور فتح کی اس وقت خبر دی تھی جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگوں میں اکیلے پھر کرتے تھے اور ان کے ساتھ بجز چند فریب اور ضعیف مسلمانوں کے اور کوئی نہ تھا اور جب قیصر روم ایرانیوں کی لڑائی سے مغلوب ہو گیا اور ایران کے کسری نے اس کے ملک کا ایک بڑا حصہ وبالیا تب بھی قرآن شریف نے بطور پیش گوئی کے یہ خبر دی کہ روم کے اندر پھر قیصر روم قہیاب ہو جائے گا اور ایران کو شکست دے گا چنانچہ ایسا ہی ظہور میں آیا ایسا ہی شوق القہر کا ایشان مہجرہ جو خدائی ہاتھ کو دکھلا رہا ہے قرآن شریف میں مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارہ سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور کفار نے اس مہجرہ کو دیکھا اس کے جواب میں یہ کہنا کہ ایسا وقوع میں آنا خلاف علم ہیئت ہے یہ سہ ماہی فضول باتیں ہیں کیونکہ قرآن شریف تو فرمایا ہے کہ قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ يُنَادُوا بِكُرْهُهُمُ اسْتَعِذُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاهُمْ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَاتِلْ أُولَئِكَ فَانصُرُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور کافروں نے یہ مہجرہ دیکھا اور کہا کہ یہ پکا جادو ہے جس کا آسمان تک اثر پہلا گیا اب ظاہر ہے کہ یہ فراد دعویٰ نہیں بلکہ قرآن شریف تو اس کے ساتھ ان کافروں کو گواہ قرار دیتا ہے جو سخت دشمن تھے اور کفر پر ہی رہے تھے سب ظاہر ہے کہ اگر شوق القہر وقوع میں نہ آیا ہوتا تو کفر کے مخالف لوگ اور جانی دشمن کیونکر خاموش بیٹھ سکتے تھے وہ بلا مشغول شور مچاتے کہ ہم پر یہ تمہمت لگائی ہے ہم نے تو چاند کو دو ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھا اور تم تجویز نہیں کر سکتی کہ وہ لوگ اس مہجرہ کو سراسر جھوٹ اور افترا خیال کے پھر بھی چپ رہتے۔ بالخصوص جب کہ ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کا گواہ قرار دیا تھا تو اس حالت میں ان کافروں نے تھا کہ اگر یہ واقعہ صحیح نہیں تھا تو اس کا رد کرتے نہ یہ کہ خاموش رہ کر اس واقعہ کی صحت پر فہم لگاتے پس یقیناً ظہور معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ضرور ظہور میں آیا تھا اور اس کے مقابل پر یہ کہنا کہ یہ قوی

## سُورَةُ الْقَمَرِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مَعَ الْبِسْمِ الْمَكِّيَّةِ سِتَّةٌ وَخَمْسُونَ آيَةً وَتَلْتُمُ الْكُفْرَانَ

سورۃ قمر یہ سورۃ کی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی چھپن آیات ہیں اور تین رکوع ہیں

رضی اللہ عنہما نام بیکر جو بے حکم کرنے والا اور ابد بارگم کرنے والا ہے (پڑھتا ہوا) عرب کی تباہی کی گھڑی آگئی ہے اور چاند ٹھٹ گیا ہے۔ اور اگر وہ کوئی نشان دیکھیں گے تو ضرور عرض کر جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ محض ایک ہوکا ہے جو ہمیشہ سے چلا آتا ہے۔

اور انھوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے اور ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔

۴۔ وہ ان کے پاس ایسے حالات پہنچ چکے ہیں جن میں تمہارے سامان موجود تھا۔ نیز ایسی حکمت کی باتیں بھی تمہیں جو اثر کرنے والی تھیں۔ مگر افسوس کہ ڈرانے والے نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔

پس تو ان سے منہ پھیر لے اور اس وقت کا انتظار کر کہ چلنے والا ایک ناپسندیدہ چیز یعنی عذاب کی طرف ان کو پکارے گا۔

ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ وہ قبروں سے نکلیں گے اس طرح کہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ۝ وَاَنْشَقَّ الْقَمَرُ ②

وَ اِنْ يَّرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا ۝ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّتَّبِعٌ ③

وَ كَذَّبُوا ۝ وَ اتَّبَعُوا اَهْوَاءَهُمْ ۝ وَ كَلَّ اَعْيُنُهُمْ ۝ فَسَتَقَرُّوْا ④

وَ لَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْاَشْيَاءِ مَا فِيْهِ مُّزْدَجَرٌ ⑤

حِكْمَةٌ بِاللِّغَةِ ۝ فَمَا تَعْرِى التُّذْرُوْا ⑥

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلٰى ۝ سِتِّى تَكْوِيْنٌ ⑦

خُشَعًا اَبْصَارُهُمْ ۝ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَانِ ۝ كَاَنَّهُمْ

نے عربوں کے نزدیک چاند عرب حکومت کا نشان تھا چنانچہ یہودی بھی یہ یقین رکھتے تھے حضرت صغیر بن یساف جو ایک یہودی سردار کی بیٹی تھیں اور بعد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندراج مطہرات میں داخل ہوئیں۔ انھوں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ ان کی گود میں چاند گرہا ہے۔ ان کی والدہ نے اس خواب سے بھی استلال کیا کہ تو بادشاہ وقت سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ راصابا پس چاند پھٹنے اور عرب کی تباہی آجانے کے ایک معنی یہ ہیں کہ ساعت یعنی عرب کی تباہی کی ساعت آئی ہے۔ نور چاند یعنی عرب کی حکومت کا عروج پاش پاش ہو گیا ہے۔ مفسرین نے فعل سے اس کے یہ معنی کیے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہجرہ دکھائی تھی۔ کہ چاند کی طرف اشارہ کیا تو وہ حقیقتہً جہان طور پر پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا۔ فقہ البیان حالانکہ یہ غلط ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو عرب کے سب حصوں میں اور دنیا کے سب حصوں میں ایسا نظر آتا بلکہ نظام شمسی کے یہ ملک ثابت ہوتا۔ کیونکہ وہ اسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے جبکہ اس کے سب سے بڑے اپنی جگہ پر ٹھیک ہی پھر کسی صوبائی نے بھی جو اس وقت اس مجلس میں ہوا کہ یا عرب کے کسی اور مقام پر جو اس کی شہادت نہیں دی کہ چاند جہان طور پر پھٹ گیا تھا۔ علامہ نے چاند کے جہان طور پر پھٹنے کا خیال سے کوئی تعلق نہیں۔ اسے مطلب یہ ہے کہ یہ خراب کی بات ہمیشہ ہی نبوت کے مدعی کہتے چلے آئے ہیں۔ اسے قرآن میں بدینے اور انے والوں کا ہے۔ حالانکہ صرف ایک ڈرانے والا ہی تھا۔ یہ جمع یا تو محبت کے لیے ہے یا اس لیے کہ آپ کی ذات میں سب رسول جمع ہیں۔

مسیح اپنے خواص میں عام انسانوں کے خواص بلکہ تمام انبیاء کے خواص سے مستثنیٰ اور نرال ہے کیونکہ جبکہ ایک افضل البشر جو مسیح سے چند سو برس پہلے آیا تھوڑی سی عمر یا کم فوٹ ہو گیا اور تیرہ سو برس اُس نبی کریم کے فوت ہونے پر گذر بھی گئے مگر مسیح اب تک فوت ہونے میں نہیں آیا۔ تو کیا اس سے یہی ثابت ہوا یا کچھ اور کہ مسیح کی حالت لوازم بشریت سے بڑھی ہوئی ہے۔ پس حال کے علماء اگرچہ بظاہر صورتِ مشرک سے بیزاری ظاہر کرتے ہیں مگر مشرکوں کو مدد دینے میں کوئی دقیقہ انہوں نے اٹھا نہیں رکھا۔ غضب کی بات ہے کہ اللہ جل شانہ تو اپنی پاک کلام میں حضرت مسیح کی وفات ظاہر کرے اور یہ لوگ اب تک اُسکو زندہ سمجھ کر ہزار ہا اور بیشمار نئے اسلام کے لئے برپا کر دیں اور مسیح کو آسمان کا جی و قیوم اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کا مرد و پھر اویں سالانہ مسیح کی گواہی قرآن کریم میں اس طرح پر لکھی ہے کہ مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِمْ بَعْدَ إِسْمَاعِيلَ يُعَمِّدُ فِيهِمْ یعنی میں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور نام اُس کا احمد ہوگا۔ پس اگر مسیح اب تک اس عالم جسمانی سے گذر نہیں گیا تو اس سے لازم آتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب تک اس عالم میں تشریف فرما نہیں ہوئے کیونکہ نص اپنے کھلے کھلے الفاظ سے بتلا رہی ہے کہ جب مسیح اس عالم جسمانی سے رخصت ہو جائے گا تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم جسمانی میں تشریف لائیں گے۔ وہ یہ کہ آیت میں آنے کے مقابل پر جانہ بیان کیا گیا ہے اور ضرور ہے کہ آنا اور جانا دونوں ایک ہی رنگ کے ہوں۔ یعنی ایک اُس عالم کی طرف چلا گیا اور ایک اُس عالم کی طرف سے آیا۔ پھر دوسری گواہی حضرت مسیح کی اُن کی وفات کے بارے میں آیت فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي فِي صَيْحٍ مِّمَّجٍ دَرَجٍ هِيَ حِسِّ كَيْفَ تَكْفِيں

لے الفت : ۷

ذریعہ سے یہ نام بتایا گیا ہو تا تو قرآن کریم میں جو وحی الہی ہے اول تو احمد نام ہی آتا اور اگر محمد بھی آتا تو احمد بعض مقامات پر ضرور آتا۔ وہ عجیب الہامی نام تھا کہ قرآن کریم اس نام سے ایک دفعہ بھی آنحضرت ﷺ کو نہیں پکارتا۔ دوسری دلیل آپ کا نام احمد نہ ہونے کی یہ ہے کہ کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ آپ کا نام احمد تھا۔ کلمہ شہادت جس پر اسلام کا دارودار ہے اس میں بھی محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے کبھی احمد رسول اللہ نہیں کہا جاتا حالانکہ اگر آپ کا نام احمد ہوتا تو کلمہ شہادت کی کوئی روایت تو یہ بھی ہوتی کہ اَشْهَدُ اَنَّ اَحْمَدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ بِخَيْرَتِهِ اِذَا نَزَلَ فِي الْاِزَانِ بِبَلَدِ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ کہہ کر آپ کی رسالت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ کبھی احمد رسول اللہ نہیں کہا جاتا۔ تکبیر میں بھی محمد ہی آنحضرت کا نام آتا ہے اور درود میں بھی آنحضور کو محمد نام لے کر ہی یاد کیا جاتا ہے اور اسی نام کے رسول پر خدا تعالیٰ کی رحمتیں بھیجاتی ہیں۔ رسول کریم ﷺ کے خطوط کی نقلیں موجود ہیں ان سب میں آپ نے اپنے دستخط کی جگہ محمد نام کی ہی مہر لگائی ہے۔ ایک خط میں بھی احمد اپنا نام تحریر نہیں فرمایا۔ پھر صحابہ کرام کی گفتگو احادیث میں مذکور ہیں لیکن ایک دفعہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ کسی صحابی نے آنحضرت ﷺ کو احمد کہہ کر پکارا ہو اور نہ ان کی آپس کی گفتگو میں ہی یہ نام آتا ہے نہ تاریخ سے ثابت ہے کہ آپ کا نام احمد رکھا گیا تھا۔ بلکہ تاریخ سے بھی یہ ثابت ہے کہ آپ کا نام محمد رکھا گیا تھا۔ آپ کے مخالف جس قدر تھے جن میں خود آپ کے رشتہ دار اور چچا بھی شامل تھے سب آپ کو محمد ﷺ نام سے پکارتے تھے یا شرارت سے مذموم کہہ کر پکارتے تھے کہ وہ بھی محمد کے دزن پر ہے۔ غرض جس قدر بھی غور کریں اور فکر کریں آپ کا نام قرآن کریم سے، احادیث سے، کلمہ اِزَان سے، تکبیر سے، درود سے، آپ کے خطوط سے، معاہدات سے، تاریخ سے، صحابہ کے اقوال سے محمد ہی معلوم ہوتا ہے نہ کہ احمد۔ پھر اس قدر دلائل کے ہوتے ہوئے کیونکر کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا نام احمد تھا۔ اگر احمد بھی آپ کا نام ہوتا تو مذکورہ بالا مقامات میں محمد نام کے ساتھ آپ کا نام احمد بھی آتا اور کچھ نہیں تو ایک ہی جگہ احمد نام سے آپ کو پکارا جاتا یا کلمہ شہادت میں بجائے اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ کے احمد رسول اللہ بھی پڑھنا جائز ہوتا مگر ایسا نہیں ہے نہ یہ بات رسول کریم سے ثابت ہے اور نہ صحابہ سے۔ اب ان واقعات کے ہوتے ہوئے ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ آپ کا نام احمد نہ تھا۔ پس اس آیت میں جس رسول احمد نام والے کی خبر دی گئی ہے وہ آنحضرت ﷺ نہیں

ہو سکتے ہاں اگر وہ تمام نشانات جو اس احمد نام رسول کے ہیں آپ کے وقت میں پورے ہوں تب بیشک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں احمد نام سے مراد احمدیت کی صفت کا رسول ہے کیونکہ سب نشانات جب آپ میں پورے ہو گئے تو پھر کسی اور پر اس کے چسپاں کرنے کی کیا وجہ ہے لیکن یہ بات بھی نہیں جیسا کہ میں آگے چل کر ثابت کروں گا۔

دوسری صورت یہ تھی کہ اِسْمُهُ اَحْمَدُ والی پیگھوٹی میں کوئی ایسا لفظ ہوتا جس کی وجہ سے ہم کسی غیر پر اسے چسپاں نہ کر سکتے مثلاً یہ لکھا جاتا کہ وہ خاتم النبیین ہو گا اور چونکہ خاتم النبیین صرف رسول کریم ہی ہیں اور ایک ہی شخص خاتم النبیین ہو سکتا ہے اس لئے ہم کہہ سکتے تھے کہ کو بعض نشانات آپ کے وقت میں اپنے ظاہر الفاظ میں پورے نہیں ہوئے لیکن جبکہ ایک ایسی صریح علامت موجود ہے جو آپ کے سوا کسی اور میں پائی ہی نہیں جاسکتی تو ان باتوں کی کوئی اور تاویل ہوگی اور ہر حال یہ پیگھوٹی آپ پر ہی چسپاں ہوتی ہے لیکن یہ بات بھی نہیں۔ اس پیگھوٹی میں کوئی ایسا لفظ نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ پیگھوٹی خاتم النبیین کے متعلق ہے۔ نہ کوئی اور ایسا لفظ ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ پیگھوٹی ضرور آنحضرت ﷺ پر چسپاں کرنی پڑے۔ سوم باوجود آپ کا نام احمد نہ ہونے کے آپ پر یہ پیگھوٹی چسپاں کرنے کی یہ وجہ ہو سکتی تھی کہ آپ نے خود فرمادیا ہوتا کہ اس آیت میں جس احمد کا ذکر ہے وہ میں ہی ہوں لیکن احادیث سے ایسا ثابت نہیں ہوتا نہ عجمی نہ جمہوی نہ وضعی نہ قوی نہ ضعیف نہ مرفوع نہ مرسل کسی حدیث میں بھی یہ ذکر نہیں کہ آنحضرت ﷺ نے اس آیت کو اپنے اوپر چسپاں فرمایا ہو اور اس کا مصداق اپنی ذات کو قرار دیا ہو۔ پس جب یہ بھی بات نہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم خلاف مضمون آیت کے اس پیگھوٹی کو آنحضرت ﷺ پر چسپاں کریں۔ ایک چوتھی مجبوری بھی ہو سکتی تھی جس کی وجہ سے ہم یہ آیت رسول کریم ﷺ پر چسپاں کرنے کے لئے مجبور تھے اور وہ یہ کہ انجیل میں صرف ایک ہی نبی احمد کی خبر دی گئی ہوتی۔ اس صورت میں واقعہ میں مشکل تھی کہ اگر اس پیگھوٹی کو ہم کسی اور شخص پر چسپاں کر دیتے تو رسول کریم ﷺ کے موعود نہ رہتے حالانکہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ آپ حضرت مسیح موعود کے موعود ہیں۔ لیکن انجیل میں ہم دو نبیوں کے آنے کی خبر دیتے ہیں۔ ایک وہ نبی جو تمام نبیوں کا موعود ہے اور جس کا آنا گویا خدا تعالیٰ کا آقا قرار دیا گیا ہے۔ اور دوسرے مسیح کی دوبارہ آمد اور بتایا گیا ہے کہ پہلے ”وہ نبی“ آئے گا۔ پھر مسیح دوبارہ آئے گا اور ان دونوں پیگھوٹیوں میں

ازالہ اوہام

۲۰۷

حصہ دوم

پھر صفحہ ۵۲۹ میں فرماتے ہیں کہ اس بہت پر تمام سلف و خلف کا اتفاق ہو چکا ہے  
 کہ عیسیٰ جب نازل ہو گا تو اُمت محمدیہ میں داخل کیا جائے گا۔ اور فرماتے ہیں سلطان  
 نے بھی مواہب اللدنیہ میں یہی لکھا ہے اور عجیب تر یہ کہ وہ اُمتی بھی ہو گا اور پھر نبی بھی۔  
 لیکن افسوس کہ مولوی صاحب مرحوم کو یہ سمجھ نہ آیا کہ صاحب نبوت تا مہر گز اُمتی نہیں  
 ہو سکتا۔ اور جو شخص کامل طور پر رسول اللہ کہلاتا ہے وہ کامل طور پر دوسرے نبی کا مطیع  
 اور اُمتی ہو جانا نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ کے رو سے بکلی ممنوع ہے اللہ جل شانہ فرماتا ہے  
 وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ یعنی ہر ایک رسول مطیع اور امام  
 بنانے کے لئے بھیجا جاتا ہے۔ اس غرض سے نہیں بھیجا جاتا کہ کسی دوسرے کا مطیع اور  
 تابع ہو۔ ان محدث جو مرسلین میں سے ہے اُمتی بھی ہوتا ہے اور ناقص طور پر نبی بھی  
 اُمتی وہ اس وجہ سے کہ وہ بکلی تابع شریعت رسول اللہ اور مشکوٰۃ رسالت سے فیض پانے والا  
 ہوتا ہے اور نبی اس وجہ سے کہ خدا تعالیٰ نبیوں کا سامع اطراف سے کرتا ہے اور قدرت  
 کا وجود انبیا اور ائمہ میں بطور برزخ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ وہ اگرچہ کامل  
 طور پر اُمتی ہے مگر ایک وجہ سے نبی بھی ہوتا ہے اور محدث کے لئے ضرور ہے کہ وہ کسی  
 نبی کا مشیل ہو اور خدا تعالیٰ کے نزدیک وہی نام پاوے جو اس نبی کا نام ہے۔  
 اب سمجھنا چاہیے کہ چونکہ مقتدر تھا کہ آخری زمانہ میں نصاریٰ اور یہود کے خیالات  
 باطلہ زہرِ ظاہر کی طرح تمام دنیا میں سرایت کر جائیں گے اور نہ ایک رلوے بلکہ  
 ہزاروں راہوں سے ان کا بد اثر لوگوں پر پہنچے گا اور اس زمانہ کے پہلے سے اجاریٹ  
 میں خبر دی گئی تھی کہ مسائیت اور یہودیت کی مڑی ٹھسلیں یہاں تک غلبہ کریں گی کہ  
 مسلمانوں پر بھی اس کا سخت اثر ہو گا۔ مسلمانوں کا طرہ فقہ مسلمانوں کا شعار مسلمانوں  
 کی وضع ہو گی یہود و نصاریٰ سے مشابہ ہو جائے گی اور جو عادتیں یہود اور نصاریٰ کو پہلے  
 ہلاک کر چکی ہیں وہی عادتیں اسبابِ تارش کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے مسلمانوں میں آج بھی

لے شمار: ۶۵

ازالہ اوہام صفحہ 569 مندرجہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 407 از مرزا قادیانی

یہ حوالہ صفحہ 157 پر درج ہے



اظہار علی الغیب کا درجہ یعنی جس درجہ محبت کو حاصل کر کے انسان کو غیب الہی پر غلبہ حاصل ہو جاتا ہے جس کے معنی کثرت کے ہیں اسی کا نام رسالت اور نبوت ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ نبوت اظہار علی الغیب کے مقام کا نام ہے جس کا اردو میں ترجمہ رازدار ہو گا جس طرح کہہ سکتے ہیں کہ نبی کے سوا کسی کو اظہار علی الغیب کا رتبہ نہیں مل سکتا۔

خلاصہ کلام یہ کہ نبوت کی تعریف اور اس کے حصول کا طریق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف طور پر بیان کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ یہ ایک انسانی کمال کا رتبہ ہے جس پر پہنچ کر انسان غیب الہی سے واقف کیا جاتا ہے اور اس سے پہلے مراتب صالح شہید اور صدیق کے ہیں اور رسول اس درجہ کے پانے والے کو اس لئے کہتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے اور نبی اس لئے کہ وہ غیب کی اخبار لوگوں کو بتاتا ہے اور چونکہ قوت ایمانی اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک دلائل و براہین ساتھ نہ ہوں اس لئے بھی اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو جن کو رسول کرتا ہے اظہار علی الغیب کا رتبہ دیتا ہے تا جس طرح ان کے اپنے ایمان تازہ ہیں وہ لوگوں کے ایمان بھی تازہ کر سکیں۔

یہ باتیں میں نے بطور اختصار اس لئے بتائی ہیں تا معلوم ہو جائے کہ قرآن کریم ایک کامل کتاب ہے اور اس نے ہر ایک ضروری بات بیان کر دی ہے۔ اور یہ بات غلط ہے کہ اس نے نبی کی تعریف نہیں کی اس نے خود نبی کی تعریف اور اس کے شرائط اور اس کا درجہ بیان کر دیا ہے اور جو کچھ اس نے بیان فرمایا ہے اس کے رد سے حضرت مسیح موعود کی نبوت ثابت ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہرگز شریعت لانے یا نہ لانے کی شرط نہیں لگائی اور میں خیال کرتا ہوں کہ جو لوگ حضرت مسیح موعود کی نبوت کے منکر ہیں انہوں نے آج تک اس بات پر غور ہی نہیں کیا کہ نبوت چیز کیا ہے اور نبی کون ہوتا ہے؟ ورنہ اگر وہ قرآن کریم پر تدبر کرتے تو ان کو معلوم ہو جاتا کہ حضرت مسیح موعود نبی تھے اور ان کے نبی ہونے میں کوئی شک نہیں۔

بعض نادان کہہ دیا کرتے ہیں کہ نبی دوسرے نبی کا متبع نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَمَا أَدْسَلْنَا مِنْ دُسُوبٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ (احساء: ۶۵) اور اس سے حضرت مسیح موعود کی نبوت کے خلاف استدلال کرتے ہیں۔ لیکن یہ سب سبب قلت تدبر ہیں جب اللہ تعالیٰ خود دوسری جگہ فرماتا ہے کہ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يُحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ (المائدہ: ۴۵) یعنی ہم نے تورات اتاری ہے جس میں ہدایت و نور ہے اس

نشان ظاہر ہوئے تب انہوں نے کہا کہ اب قبول کرنے سے مرنا بہتر ہے۔ غرض نظر دقیق کو صادق کے صدق کو شناخت کرنا سعیدوں کا کام ہی اور نشان طلب کرنا نہایت منحوس طریق اور اشقیاء کا شیوہ ہے جس کی وجہ سے کروڑوں نامنکر میزیم جہنم ہو چکے ہیں خدائے تعالیٰ اپنی سنت کو نہیں بدلتا۔ وہ جیسا کہ اُس نے فرمادیا ہے اُنہی کے ایمان کو ایمان سمجھتا ہے جو زیادہ ضد نہیں کرتے۔ اور قرآن مجید کو دیکھ کر اور علامات صدق پا کر صادق کو قبول کر لیتے ہیں اور صادق کا کلام صادق کی راستبازی صادق کی استقامت اور خود صادق کا منہ اُن کے نزدیک اس کے صدق پر گواہ ہوتا ہے۔ مبارک وہ جن کو مردم شناسی کی عقل دی جاتی ہے۔

ماسوا ایسے جو شخص ایک نبی مقبوع علیہ السلام کا قبیح ہے اور اُسکے فرمودہ پر اور کتاب اللہ پر ایمان لاتا ہے اُسکی آزمائش انبیاء کی آزمائش کی طرح کرنا ایک قسم کی ناسمجھی ہے کیونکہ انبیاء اسلئے آئے ہیں کہ تا ایک دین سے دوسرے دین میں داخل کریں اور ایک قبلہ سے دوسرا قبلہ مقرر کرادیں اور بعض احکام کو منسوخ کریں اور بعض نئے احکام لادیں۔ لیکن اسجگہ تو ایسے انقلاب کا دعویٰ نہیں ہے وہی اسلام ہے جو پہلے تھا۔ وہی نمازیں ہیں جو پہلے تھیں۔ وہی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو پہلے تھا اور وہی کتاب کریم ہے جو پہلے تھی۔ اصل دین میں سے کوئی ایسی بات چھوڑنی نہیں پڑی جس سے اسقدر حیرانی ہو۔ مسیحیہ موعود کا دعویٰ اس حالت میں گرلا اور قابل احتیاط ہوتا کہ جبکہ اس دعویٰ کے ساتھ موعود بائبل کے احکام کی کمی بیشی ہوتی اور ہماری عملی حالت دوسرے مسلمانوں سے کچھ فرق رکھتی۔ اب جبکہ ان باتوں میں سے کوئی بھی نہیں۔ صرف بابہ النزاع حیات سچ اور وفات سچ ہے اور سچ موعود کا دعویٰ اس مسئلہ کی درحقیقت ایک فرسہ ہے اور اس دعویٰ سے مراد کوئی عملی انقلاب نہیں اور نہ اسلامی اعتقادات پر اس کا کچھ مخالفانہ اثر ہے تو کیا اس دعویٰ کے تسلیم کرنے کیلئے کسی بڑے مجوزہ یا کرامت کی حاجت ہے جس کا مانگنا رسالت کے دعویٰ میں عام کا قدیم شیوہ ہے ایک مسلمان جسے تائید اسلام کیلئے خدائے تعالیٰ نے بھیجا۔ جس کے مقاصد یہ ہیں کہ تادین اسلام کی خوبیاں لوگوں پر ظاہر کرے اور آجکل کے فلسفی وغیرہ الزاموں سے اسلام کا پاک ہونا ثابت کر دیوے اور مسلمانوں کو اللہ اور رسول کی محبت کی طرف رجوع دلاوے کیا اس کا قبول کرنا ایک منصف مزاج اور خدا ترس آدمی پر کوئی مشکل امر ہے؟

کی ایک تعریف کر دی ہے تو نہایت نادان ہے وہ جو اب بھی ٹھوکر کھاتا ہے جب سورج چڑھ گیا تو پھر ٹھوکر میں کھانا آنکھوں والوں کا کام نہیں۔ پس اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ سورج نصف النہار میں آیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کا اظہار کر رہا ہے اور اپنی طاقت کا جلوہ دکھاتا ہے اس کے جلال کا اقبال کرو اور اس کی قرنا کا جواب دو جو اس کا نبی مسیح موعود ہے جس نے اپنے سب کمالات آنحضرت ﷺ کے طفیل سے اور آپ کے واسطے سے پائے۔ پس کیا ہی مبارک ہے وہ جس نے اس قدر فیضان کا دریا بہا دیا۔ اور کیا ہی مبارک ہے وہ جس نے اس فیضان کو اپنے اندر لے لیا۔ اور اس قدر وسیع ہوا کہ غلطی طور پر کل کمالات محمدیہ کو پالیا۔

آہ! کیا ہی قابل افسوس اور جائے تعجب و حیرت ہے یہ امر کہ وہ غلطی جو اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود کی معرفت دور کر دئی تھی اور وہ حقیقت جو اس کے ذریعے دنیا پر روشن کی تھی اسی غلطی کا مرتکب احمدی جماعت کا ایک حصہ ہو رہا ہے اور اسی حقیقت کا منکر اس کے پیروؤں کا ایک گروہ ہو رہا ہے۔ نادان مسلمانوں کا خیال تھا کہ نبی کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ کوئی نئی شریعت لائے یا پہلے احکام میں سے کچھ منسوخ کرے یا بلا واسطہ نبوت پائے لیکن اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود کے ذریعہ اس غلطی کو دور کروایا اور بتایا کہ یہ تعریف قرآن کریم میں تو نہیں۔ قرآن کریم تو یہ فرماتا ہے کہ قَلَّا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ يَحْرَمُ عَلَىٰ نَبِيِّكَ لِيُؤْتِيَ مَا تُرِيدُ بِحَبْلٍ مَّقْشُورٍ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهِمْ إِذِ انبَأَتْ أَنَّ نَبِيَّهَا آتِيَةٌ فَاسْتَفْتَاهُ فِي مَا يَصِفُونَ أَلَمْ يَجِبْ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْكُتَابُ مِنْ رَبِّهِمْ أَنْ يَتْلُوهُمْ هَذَا قَدْ آتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا وَأَنْزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْكِتَابَ الْحَكِيمَ

نبوت کی وہی تعریف ہے جو وہ کرتا ہے اس نے اعلان کیا کہ خدا کے حکم کے ماتحت میں یہ تعریف کرتا ہوں اس نے اس تعریف کے قبول نہ کرنے والوں کو ڈانٹا اور زجر کیا اور کہا کہ تم اپنی نادانی اور جمالت سے نبی کی غلط تعریف کر رہے ہو نبی کے لئے شریعت لانا ضروری نہیں نبوت تو ایک موہبت ہے جس میں شریعت لانے نہ لانے کا کوئی دخل نہیں اور لکھا کہ:

”نبی اس کو کہتے ہیں جو خدا کے الہام سے بکثرت آئندہ کی خبریں دے مگر ہمارے مخالف مسلمان مکالمہ الہیہ کے قائل ہیں لیکن اپنی نادانی سے ایسے مکالمات کو جو بکثرت پیٹھگوئیوں پر مشتمل ہوں نبوت کے نام سے موسوم نہیں کرتے“

(پیشہ معرفت ص ۱۸۰، ۱۸۱ روحانی خزائن جلد ۲۳ ص ۱۸۹)

لیکن افسوس کہ باوجود اس کے مسیح موعود نے اس باطل اور بلا دلیل عقیدہ کی تردید کر دی جس میں اس وقت کے مسلمانوں کا ایک کثیر حصہ جلاء تھا لیکن خود مسیح موعود کی جماعت میں سے

۴۹۸

نشان آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ اور اُن ہدایتوں کے بھیجنے والے کے منہ پر ہمیشہ کے لئے ٹھہر لگ گئی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ہر ایک انسان جو سچی بھوک اور پیاس خدا تعالیٰ کی طلب میں رکھتا ہے وہ ایسا خیال ہرگز نہیں کرے گا۔ اس لئے ضروری ہے کہ سچے مذہب کی یہی نشانی ہو کہ زندہ خدا کے زندہ نمونے اور اُس کے نشانوں کے چمکتے ہوئے نور اُس مذہب میں تازہ بہ تازہ موجود ہوں۔ اگر ہماری گورنمنٹ عالیہ ایسا جلسہ کرے تو یہ نہایت مبارک ارادہ ہے۔ اور اس سے ثابت ہو گا کہ یہ گورنمنٹ سچائی کی حامی ہے۔ اور اگر ایسا جلسہ ہو تو ہر ایک شخص اپنے اختیار سے اور ہنسی خوشی سے اس جلسہ میں داخل ہو سکتا ہے۔ قوموں کے پیشوا جنہوں نے مقدس کہلا کر روٹا روٹا روپیہ قوموں کا کھا لیا ہے۔ ان کے تقدس کو آزمانے کے لئے اس سے بڑھ کر اور کوئی عمدہ طریق نہیں ہو سکتا یا اُن کے مذہب کا خدا کے ساتھ رشتہ ہے اس رشتہ کا زندہ ثبوت مانگا جائے۔ یہ عاجز اپنے ولی جوش سے جو ایک پاک جوش ہے یہی چاہتا ہے کہ ہماری محسن گورنمنٹ کے ہاتھ سے یہ فیصلہ ہو۔ خدا یا اس عالی مرتبہ گورنمنٹ کو یہ الہام کر۔ تا وہ اس قسم کے جلسوں میں سب سے پہلے آکر سب سے پہلے ہو جائے۔ اور میں چونکہ مسیح موعود ہوں۔ اس لئے حضرت مسیح کی عادت کارنگ مجھ میں پایا جانا ضروری ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام وہ انسان تھے جو مخلوق کی بھلائی کے لئے صلیب پر چڑھے۔ گو خدا کے رحم نے اُن کو بچا لیا۔ اور فریم عیسیٰ نے اُن کے زخموں کو اچھا کر کے آخر

میں فریم عیسیٰ ایک نہایت مبارک مرہم ہے جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زخم اچھے ہوئے تھے جبکہ آئے خدا تعالیٰ کے فضل سے سولی سے نجات پائی تو صلیب کی گیلوں کے جو زخم تھے جن کو آپ نے حواریوں کو بھی دکھایا تھا وہ اسی مرہم سے اچھے ہوئے تھے۔ یہ مرہم طبیب کی ہزار کتاب میں درج ہے اور قانون بوعلی سینا میں بھی مندرج ہے اور رومیوں اور یونانیوں اور عیسائیوں اور یہودیوں اور مسلمانوں غرض تمام فرقوں کے طبیبوں نے اس مرہم کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ منگلا

۴۶۰

کشمیرِ جنتِ نظیر میں ان کو پہنچا دیا۔ سو انھوں نے سچائی کے لئے صلیب سے پیار کیا۔ اور اس طرح اسپر چڑھ گئے جیسا کہ ایک بہادر سوار خوش عنان گھوڑے پر چڑھتا ہے۔ سو ایسا ہی میں بھی مخلوق کی بھلائی کے لئے صلیب سے پیار کرتا ہوں۔ اور میں یقین رکھتا ہوں کہ جس طرح خدا تعالیٰ کے فضل اور کرم نے حضرت مسیح کو صلیب سے بچالیا۔ اور انکی تہم رات کی دُعا جو بلغ میں کی گئی تھی قبول کر کے انکو صلیب اور صلیب کے نیچوں سے نجات دی۔ ایسا ہی مجھے بھی بچائے گا۔ اور حضرت مسیح صلیب سے نجات پا کر نصیبین کی طرف آئے اور پھر افغانستان کے ملک میں ہوتے ہوئے کوہِ نعمان میں پہنچے۔ اور جیسا کہ اُس جگہ شہزادہ نبی کا چوتراہ اب تک گواہی دے رہا ہے۔ وہ ایک مدت تک کوہِ نعمان میں رہے۔ اور پھر اس کے بعد پنجاب کی طرف آئے۔ آخر کشمیر میں گئے اور کوہِ سلیمان پر ایک مدت تک جلوت کرتے رہے۔ اور سکھوں کے زمانہ تک ان کی یادگار کا کوہِ سلیمان پر کتبہ موجود تھا آخر سرینگر میں ایک سو پچیس برس کی عمر میں وفات پائی اور خان یار کے محلہ کے قریب آپ کا مقدس مزار ہے۔ غرض جیسا کہ اس نبی نے سچائی کے لئے صلیب سے قبول کیا ایسا ہی میں بھی قبول کرتا ہوں۔ اگر اس جلسہ کے بعد جس کی گورنمنٹ محنت کو ترغیب دیتا ہوں ایک سال کے اندر میرے نشانِ تمام دنیا پر غالب نہ ہوں تو میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں۔ میں راضی ہوں کہ اس جرم کی سزا میں شولی دیا جاؤں اور میری ہڈیاں توڑی جائیں۔ لیکن وہ خدا جو آسمان پر ہے جو دل کے خیالات کو جانتا ہے جس کے الہام سے میں نے اس عریضہ کو لکھا ہے۔ وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اور میرے ساتھ ہے۔ وہ مجھے اگر لمبے عمار اور قوموں کے سامنے شرمندہ نہیں کرے گا۔ اسی کی روح ہے جو میرے اندر ہے۔ میں نہ اسنی طرف سے بلکہ اُس کی طرف سے یہ پیغام پہنچا رہا ہوں تا۔ یہ عجمی نام تخت کیلئے چاہئے

یہ بات ظاہر ہے کہ لوگوں نے اسے قتل کر دیا تھا یا صلیب پر لٹکا کر  
اسے صلیب ثابت کر دیا۔ وہ قتل ہی محفوظ رہا تھا اور صلیب  
ہی محفوظ رہا تھا۔ بیشک وہ صلیب ہی نے اسے صلیب ثابت کرنا  
چاہا مگر خزانے اسے غارت ہی اور دشمن کو اس کے ارادوں میں  
ناکام کر دیا۔

آخر میں حضرت مسیح فرماتے ہیں۔ یہ اس لئے ہو گا کہ  
”وہ میری چیزوں سے پاد سے گی۔ اور تمہیں دکھا دیگی میری  
چیزوں سے پہنے کا یہ مفہوم نہیں کہ وہ مسیح کا متبع ہو گا۔ بلکہ  
صلیب پر ہے کہ اسے وہ تعلیم ہے جس میں تمام انبیاء کی  
تعلیمیں شامل ہونگی۔ نوح کی تعلیم بھی اس میں موجود ہوگی۔ ابراہیم  
کی تعلیم بھی اس میں موجود ہوگی۔ موسیٰ کی تعلیم بھی اس میں موجود  
ہوگی اور میری یعنی عیسیٰ کی تعلیم بھی اس میں موجود ہوگی اور  
اس طرح اس کی تعلیم جامع ہوگی تمام سابق انبیاء کی تعلیمات کی  
اور پھر وہ کتاب جیسی ہونے لگی جو تمہیں دکھا دیگی یعنی اس میں  
صرف زبانی باتیں نہیں ہونگی بلکہ عملی طور پر وہ تمام چیزوں کو  
ماہر کر کے دنیا پر ان کو واضح کر دیگی۔ یہ بیگونیوں مسافروں  
پر بتاتی ہیں کہ حضرت مسیح کے بعد ایک ایسے وجود نے بھی  
آنا تھا جو مسیح سے زیادہ کامیاب ہوتا اور پھر مقدر یہ تھا کہ وہ  
ایک ایسی جامع اور بے مثل کتاب بنے مانتا تھا جس میں  
تمام بیگونیوں سے جو اس میں شہد ہونے سے لیکر آخر تک اللہ تعالیٰ  
کا کلام ہوتا اور پھر عملی طور پر وہ کتاب تمام بیگونیوں کو روشن  
کرنے والی ہوتی۔ اب تو اس سے ہے کہ حضرت مسیح نے داعیوں  
ساری دنیا کے لئے اٹھائے تھے اگر دنیا کی نجات کے لئے ان پر  
بہن لانا کافی تھا اور اگر انسانی نجات کا آخری نقطہ ہی تھے  
تو ساری سماجیاں ان میں تانی چاہیں نہیں مگر وہ تو کہتے ہیں  
سب سماجیاں نہیں بتا سکتے ان کو میرے بعد آنے والے تھے۔  
اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ حضرت مسیح موعود کی زندگی  
ان کا اپنا وجود پرورش دینا کہ انہی نقطہ نہیں تھا بلکہ یہ  
آپ ایک اور وجود اس شہد اور نعمت ہا مستحق تھا۔

پانچویں اور حضرت مسیح کفارہ ہونے میں تو ان کا

کفارہ ہونا اسی صورت میں تسلیم کیا جاسکتا ہے جب وہ خوشی  
اور اتھالی ہلاکت کے ساتھ کفارہ ہونے ہوں جس شخص کو  
بہتر صلیب پر لٹکا دیا جائے اس کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا  
کہ وہ اپنی خوشی سے لوگوں کے لئے ترانہ بنا ہے۔ مگر حضرت  
مسیح و تقدیر کفارہ ہونے کے لئے دنیا میں شہدین لائے  
تھے تو چاہیے تھا کہ وہ دوڑ کر صلیب پر چڑھے اور خوش ہو  
کہ جس شہد کے لئے میں آیا تھا وہ آج پوری ہو رہی ہے۔ مگر  
بائبل میں لکھا ہے جب انہیں پتہ لگا کہ مسیح جسے صلیب پر  
لٹکا یا جانے والا ہے تو انہوں نے ساری رات دعائیں کرتے  
ہوئے گزردی اور اپنے حواریوں سے بھی بار بار کہا کہ جاگو  
اور دعا مانگو تاکہ استخوان میں نہ پڑو۔ حضرت مسیح نیک پہاڑی  
پر دعائیں کر رہے تھے اور ان کے حواری بیٹھے تھے وہ گھبراہٹ  
کی حالت میں بار بار نیچے آتے اور دیکھتے کہ حواری دعائیں کر  
رہے ہیں یا نہیں مگر جب بھی آتے دیکھتے کہ وہ سو رہے ہیں  
حضرت مسیح پھر ان کو جگاتے اور چلے جاتے۔ پھر نیچے آتے اور  
دیکھتے کہ حواریوں کی کیا حالت ہے پھر ان کو سوتا پاتے آخر  
حضرت مسیح ان پر ناراض ہونے اور کہا کہ کیا تم میرے ساتھ  
ایک گھنٹہ نہیں جاگ سکتے۔ مگر شاگردوں نے پھر بھی کوئی اثر  
نہ ہوا اس دوران میں حضرت مسیح نے جس بقداری بوجھ و غم  
کے ساتھ اس آفتاب کے حضور دعائیں کیں ان کا ذکر انجیل میں  
بمفصّل آتا ہے۔

پھر سورج ان کے ساتھ شمس نامی ایک نظام  
میں آیا اور شاگردوں سے کہا میں منجوع بن گیا  
میں وہیں جا کر دعا مانگوں۔ اب اس نے پطرس  
اور زبدي کے دو بیٹے ساتھ لئے اور علیین اور  
ہناریت وغیرہ ہونے لگا۔ اب ان کے لئے کہا  
کہ میرا دل سامنے علیین ہے بلکہ میری موت کو کسی  
حالت سے تم میں نہیں دیکھو اور میرے ساتھ جاگتے  
رہو اور کچھ آگے نیر کے سونہ کہ ان کو اور دعا  
مانگتے ہوئے کہا کہ اسے بہت اب آ کر ہو سکے

برائین احمدیہ

۶۶۲

۱-باب

وہ جسمانی یا روحانی حاجتوں کے وقت مدد فرماتا ہے یعنی جسمانی صعوبتوں کے وقت بارش وغیرہ سے اور روحانی صعوبتوں کے وقت اپنا شفا بخش کلام نازل کرنے سے عاجز بندوں کی دستگیری کرتا ہے۔

سویہ مقدمہ بدیہی الصداقت ہے کیونکہ کسی عاقل کو اس سے انکار نہیں کہ یہ دونوں سلسلے روحانی اور جسمانی اسی وجہ سے ایک صحیح و سالم چلے آتے ہیں کہ خداوند کریم نیست و نابود ہونے سے انکو محفوظ رکھتا ہے مثلاً اگر خدائے تعالیٰ جسمانی سلسلہ کی حفاظت نہ کرتا اور سخت سخت قحطوں کے وقت میں باران رحمت کی دستگیری نہ فرماتا تو بالآخر نتیجہ اس کا یہی ہوتا کہ لوگ پہلی فصلوں کی جس قدر پیداوار تھی سب کی سب کھا لیتے اور پھر آگے اناج گے نہ ہونے سے تڑپ تڑپ کر مرنے لگتے اور نوع انسان کا

۵۵۵

قرآن شریف وہ کتاب ہے جس نے اپنی عظمتوں اپنی عظمتوں اپنی صداقتوں اپنی بلاغتوں اپنے لطائف و نکات اپنے انوار و رسائی کا آپ دعویٰ کیا ہے اور اپنا بے نظیر ہونا آپ ظاہر فرمادیا ہے۔ یہ بات ہرگز نہیں کہ صرف مسلمانوں نے فقط اپنے خیال میں اس کی خوبیوں کو قرار دیدیا ہے بلکہ وہ تو خود اپنی خوبیوں اور اپنے کمالات کو بیان فرماتا ہے اور

۵۵۶

أَبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف پر احسان کیا۔ تاہم اس سے بدنی اور فحش کو روک دیں اور ناتواہی لوگوں کو ڈراوے۔ جن کے باپ دادوں کو کسی نے نہیں ڈرایا۔ سو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس جگہ یوسف کے لفظ سے یہی عاجز مراد ہے کہ جو باعتبار کسی روحانی مناسبت کے اطلاق پایا۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ۔ بعد اس کے فرمایا۔ كُلِّ هِنْدِي سَهْلَةٌ مِّنَ اللَّهِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُؤْمِنُونَ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ مَنِ السَّامِعِينَ رَبَّنَا عَاجِزٌ رَبِّ السَّجِينِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ۔ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ غَفَقٍ۔ ایل ایل لَمَّا سَبَقْتَنِي۔ کرہائے تو مارا گرد گستاخ۔

۵۵۷

۱۔ باب

۶۶۳

براہین احمدیہ

منصب اسی کو پہنچتا ہے کہ وہ نہ صرف روحانی پر اسی کو اطلاع ہے اور ازالہ مرض اور استروا  
صحت پر وہی قادر ہے۔ پھر بعد اسکے بطور استدلال کے فرمایا کہ اللہ وہ ذات کاملہ رحمت  
ہے کہ اس کا قدیم سے یہی قانون قدرت ہے کہ اس تنگ حالت میں وہ ضرور مینہ برساتا ہے  
کہ جب لوگ ناامید ہو چکے ہیں۔ پھر زمین پر اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے اور وہی کار ساز حقیقی  
اور ظاہر اور باطناً قابل تعریف ہے یعنی جب سختی اپنی نہایت کو پہنچ جاتی ہے اور کوئی صورت مخلصی  
کی نظر نہیں آتی تو اس صورت میں اس کا یہی قانون قدیم ہے کہ وہ ضرور عاجز بندوں

۵۵۳

نہیں جو اس سے باہر ہو۔ کوئی حکمت نہیں جو اس کے محیط بیان سے رہ گئی ہو۔ کوئی  
نور نہیں جو اس کی متابعت سے نہ ملتا ہو۔ اور یہ باتیں بلاشوت نہیں۔ کوئی ایسا امر نہیں  
جو صرف زبان سے کہا جاتا ہے بلکہ یہ وہ مستحق اور بدیہی الثبوت صداقت ہے کہ جو  
تیرہ سو برس سے برابر اپنی رنج شنی دکھلاتی چلی آئی ہے اور ہم نے بھی اس صداقت کو  
اپنی اس کتاب میں نہایت تفصیل سے لکھا ہے اور دقائق اور معارف قرآنی کو اس قدر  
بیان کیا ہے کہ جو ایک طالب صداقت کی تسلی اور تشفی کے لئے بحر عظیم کی طرح

۵۵۶

۵۵۷

تیری بخششوں نے ہم کو گمراہ کر دیا۔ یہ سب اسرار ہیں کہ جو اپنے اپنے اوقات پر چسپان ہیں  
جن کا علم حضرت عالم الغیب کو ہے پھر بعد اسکے فرمایا ہوشعنا نعسا۔ یہ دونوں فقرے  
شاید عبرانی ہیں امیر ان کے معنی ابھی تک اس عاجز پر نہیں کھلے۔ پھر بعد اسکے دو فقرے  
انگریزی میں جن کے الفاظ کی صحت باعث سرعت الہام ابھی تک معلوم نہیں اور وہ یہ ہیں  
آئی کوئی۔ آئی شیل گو یو لارج پارٹی اور اسلام۔ چونکہ اس وقت  
یعنی آج کے دن اس جگہ کوئی انگریزی خوان نہیں اور نہ اسکے پورے پورے معنی کھلے ہیں  
اسلے بغیر معنوں کے لکھا گیا ہے۔ پھر بعد اسکے یہ الہام ہے۔ یا عیسیٰ ابی متوقیک و  
رافعک الی (و مطہرک من الذین کفروا) و جاعل الذین اتبعوک توفی الذین  
کفروا الی یوم القیامہ ثلثہ من الاولین و ثلثہ من الاخرین۔ اسے عیسیٰ میں تجھے

۵۵۸

یہ فقرہ سہو کتاب سے براہین میں رہ گیا ہے۔ (براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۱۶۰ حاشیہ)

یہ حوالہ صفحہ 160 پر درج ہے

براہین احمدیہ صفحہ 554، 557 مندرجہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 662، 664 از مرزا قادیانی





اسم سے اذن فرمایا کہ وہ بھی گناہوں کی ذمہ داری

### خطبہ جمعہ

نسکے فضلوں کو دیکھ کر زیادہ شکر گزار بنو

حضرت امیر مومنین عظیم الشان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ

فرمودہ ۲۵ جنوری ۱۹۱۷ء

مذہب کے سزاوت کو جس کے پتے نہیں ہیں وہ کتنا  
بڑا ہے کہ وہ عوامانہ غلبہ و غیبت کہتے ہیں کہ  
ہوئی جو عساکر ان سزاوت کا نہیں جو پڑیں ہو گئی  
شخص بن کا اندازہ نہیں کھنڈ اور کئی حالت ان سزاوت کا  
مشہور کر سکتے ہیں۔ تو خداوند کی فرستے جانے جو حالت پر  
ہیں کہ سب کی لگن پر عرض ہے کہ غلبہ و غیبت پر  
کھنڈ کریں۔ گناہی۔ ہر وقت پر عرض ہے کہ وہ  
انہوں کے

انہوں کو جس رنگ میں ماری شہرت فرماتا ہو کہ جس  
طرح سے دشمنوں کو ذلیل کرے کہ یہ امتیاز اور دلچسپی  
کوئی باہت ہے

انہوں کو اس امر پر اطمینان ہے کہ وہ اس کے  
اور ان کے۔ اور ہم کو اس کا فکر اور اس کے  
سے بڑھ کر اس کی خدمت کو پہنچانے میں ان کے اس کے  
بڑھ کر اس کے سزاوت کا خیال ہے کہ ان کے  
کے حکمران کے سزاوت میں ہی جو غلبہ اور اور  
شخص ان سے نہ غلبہ کے سزاوت کا فکر کرنے میں  
موت ترقی انفرادی شایع ہے

یہی خداوند کے کہتے ہیں جو انہوں کو  
انہوں کے کہ اس کے سزاوت تو میں نہیں آتی  
نہیں سکتا۔ مگر ان کا فکر ثابت آسمان سے  
ہست آسمان میں روزانہ اولیٰ کے ہی انہوں کو  
حکمران انہیں کہتے

یوں تو برسرِ انہی ماری جو غلبہ و شکست شہرانی

ہیں۔ مگر جنہوں سے وہ لوگ ہماری پادشاہی کے ایک ہرگز  
ہیں۔ خواہ وہ ہماری کہیں۔ مگر ہماری پادشاہی میں نہیں  
انہوں سے ہمارے غلبہ و غیبت پر زیادہ کوشش ہوئی ہے  
انہوں میں ہر طرف سے پہنچانے میں ہے۔ ہر  
بڑھ کر اس کے سزاوت میں ہے۔ ہر  
انہوں کو انہیں ہمارے غلبہ و غیبت پر زیادہ کوشش ہوئی ہے  
انہوں میں ہر طرف سے پہنچانے میں ہے۔ ہر  
بڑھ کر اس کے سزاوت میں ہے۔ ہر  
انہوں کو انہیں ہمارے غلبہ و غیبت پر زیادہ کوشش ہوئی ہے  
انہوں میں ہر طرف سے پہنچانے میں ہے۔ ہر  
بڑھ کر اس کے سزاوت میں ہے۔ ہر

کامیاب ہوئے۔  
اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد ہرگز  
دور ہو گا۔ اور ہمارے غلبہ و غیبت پر  
پیدا کرنے کے لیے یہ حالت پہنچانے میں  
سزاوت کا خیال ہے۔ مگر انہوں کے غلبہ و غیبت پر  
پہنچانے میں زیادہ کوشش ہوئی ہے۔ ہر  
مذہب کی حالت بنایا۔ اور کوشش کی کہ حالت اور  
ہیں۔ مگر انہوں کے غلبہ و غیبت پر زیادہ کوشش ہوئی ہے  
انہوں میں ہر طرف سے پہنچانے میں ہے۔ ہر  
بڑھ کر اس کے سزاوت میں ہے۔ ہر  
انہوں کو انہیں ہمارے غلبہ و غیبت پر زیادہ کوشش ہوئی ہے  
انہوں میں ہر طرف سے پہنچانے میں ہے۔ ہر  
بڑھ کر اس کے سزاوت میں ہے۔ ہر

یہی خداوند کے کہتے ہیں جو انہوں کو  
انہوں کے کہ اس کے سزاوت تو میں نہیں آتی  
نہیں سکتا۔ مگر ان کا فکر ثابت آسمان سے  
ہست آسمان میں روزانہ اولیٰ کے ہی انہوں کو  
حکمران انہیں کہتے

شکر لیا گیا ہے۔ کہ ہے  
حکمران کے سزاوت میں ہر ایک ہم پہنچانے میں  
ہیں کوشش ہوئی ہے۔ ہر  
انہوں کے سزاوت میں ہر ایک ہم پہنچانے میں  
ہیں کوشش ہوئی ہے۔ ہر  
انہوں کے سزاوت میں ہر ایک ہم پہنچانے میں  
ہیں کوشش ہوئی ہے۔ ہر  
انہوں کے سزاوت میں ہر ایک ہم پہنچانے میں  
ہیں کوشش ہوئی ہے۔ ہر  
انہوں کے سزاوت میں ہر ایک ہم پہنچانے میں  
ہیں کوشش ہوئی ہے۔ ہر  
انہوں کے سزاوت میں ہر ایک ہم پہنچانے میں  
ہیں کوشش ہوئی ہے۔ ہر

یہی خداوند کے کہتے ہیں جو انہوں کو  
انہوں کے کہ اس کے سزاوت تو میں نہیں آتی  
نہیں سکتا۔ مگر ان کا فکر ثابت آسمان سے  
ہست آسمان میں روزانہ اولیٰ کے ہی انہوں کو  
حکمران انہیں کہتے

یہی خداوند کے کہتے ہیں جو انہوں کو  
انہوں کے کہ اس کے سزاوت تو میں نہیں آتی  
نہیں سکتا۔ مگر ان کا فکر ثابت آسمان سے  
ہست آسمان میں روزانہ اولیٰ کے ہی انہوں کو  
حکمران انہیں کہتے

سیح اول اور سیح ثانی میں ماہیہ الاستیاز قائم کرنے کے لئے صرف یہی نہیں فرمایا کہ سیح ثانی ایک مرد مسلمان ہوگا اور شریعت قرآنی کے موافق غسل کرے گا اور مسلمانوں کی طرح صوم و صلوٰۃ وغیرہ احکام فرقانی کا پابند ہوگا اور مسلمانوں میں پیدا ہوگا اور ان کا امام ہوگا اور کوئی جداگانہ دین نہ لائے گا اور کسی جداگانہ نبوت کا دعویٰ نہیں کرے گا بلکہ یہ بھی ظاہر فرمایا ہے کہ سیح اول اور سیح ثانی کے علیہ میں بھی فرق ہیں ہوگا۔ چنانچہ سیح اول کا صلیبہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی تائید میں نظر آیا وہ یہ ہے کہ درمیانہ قدا و میرزا گنگر والے بال اور سینہ کشا وہ ہے (دیکھو صحیح بخاری صفحہ ۹۷۸) لیکن اسی کتاب میں سیح ثانی کا صلیبہ جناب مدوح نے یہ فرمایا ہے کہ وہ گندم گون ہے اور اس کے بال گنگر والے نہیں ہیں بلکہ انوں تک لگتے ہیں۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ کیا یہ دونوں عظیمیہ جہتیں جو سیح اول اور ثانی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کافی طور پر یقین نہیں دلاتیں کہ سیح اول اور سیح ثانی اور ان دونوں کو اسی مریم کے نام سے پکارنا ایک لطیف استعارہ ہے جو باعث بارش بہت طبع اور روحانی خاصیت کے استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اندرونی خاصیت کے مشابہت کے رو سے دونوں آدمی ایک ہی نام کے مستحق ہو سکتے ہیں اور ایسا ہی دو بد آدمی بھی ایک ہی بد مادہ میں شریک مساوی ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے قائم مقام کہلا سکتے ہیں مسلمان لوگ جو اپنے بچوں کے نام احمد اور موسیٰ اور عیسیٰ اور سلیمان اور داؤد وغیرہ رکھتے ہیں تو درحقیقت اسی تغاول کا خیال انہیں ہوتا ہے جس سے نیک فال کے طور پر پیدا رہا کیا جاتا ہے کہ یہ بچے بھی ان درگوں کی روحانی شکل اور خاصیت ایسی تم اور اکمل طور سے پیدا کر لیں کہ گویا انہیں کا روپ ہو جائیں۔ اس جگہ اگر یہ اعتراض پیش کیا جائے کہ سیح کا شیل بھی نبی چاہیے کیونکہ سیح نبی تھا۔ تو اس کا اول جواب تو یہی ہے کہ آئیو لے سیح کے لئے ہمارے سید و مونی نے نبوت شرط نہیں ٹھہرائی بلکہ صاف طور پر یہی لکھا ہے کہ وہ ایک مسلمان ہوگا اور عام مسلمانوں کے موافق شریعت فرقانی کا پابند ہوگا اور اس سے

جگہ تو صاف مسیح کا ذکر ہے اور ایک جگہ انجیل کا ذکر ہے۔ پس قرآن کریم سے ثابت ہے کہ اس آیت کا مسیح سے تعلق ہے اور چونکہ یہ آیت اپنے پہلے منظر آنحضرت ﷺ کی رسالت کا ثبوت ہے۔ اس لئے اس کے دوسرے منظر مسیح موعود کی رسالت کا بھی اس سے ثبوت لگتا ہے دوسری آیت جس میں مسیح موعود کو رسول قرار دیا ہے۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهُمْ لَمَعًا يَلْحَقُوا بِهِمُ (البقرہ: ۱۲۹) کی آیت ہے۔ جس میں آنحضرت ﷺ کے دوبعث بتائے گئے ہیں۔ پس ضرور ہے کہ دوسرا باعث بھی رسالت کے ساتھ ہو۔ غرض کہ یہ چاروں آیات قرآن کریم کی مسیح موعود کی نبوت پر ایک گواہ کے طور پر ہیں جن کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔

(۲) دوسری دلیل حضرت مسیح موعود کے نبی ہونے پر یہ ہے کہ آپ کو آنحضرت ﷺ نے نبی کے نام سے یاد فرمایا۔ اور نو اس بن معان کی حدیث میں نبی اللہ کہہ کے آپ کو پکارا گیا ہے۔ پس آنحضرت ﷺ شاید ہیں اس امر کے کہ حضرت مسیح موعود نبی ہیں۔ اب ہم آنحضرت ﷺ کی شہادت کو کس طرح چھوڑ دیں۔ جسے خدا تعالیٰ قرآن کریم میں رسول کہتا ہے۔ اور هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ فِيهِ نَبِيٌّ مِّمَّنْ لَمَّ كَتَبَ عَلَيْهِ الْوَحْيَ (البقرہ: ۱۲۹) اس کے نبی ہونے کی شہادت دیتے ہیں۔ اس کی نبوت کا انکار کرنا کسی مومن کے لئے جائز نہیں ہو سکتا۔ وہ شخص جو آنحضرت ﷺ کے قول کی عزت نہیں کرتا۔ اور اسے من کرنا پھیر لیتا ہے۔ اور اس کا سینہ نہیں کھل جاتا ہے۔ وہ اپنی روحانیت کا علاج کرے۔ کہ کوئی ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (النساء: ۶۶)

پس آنحضرت ﷺ کے قلم کے قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں اگر آپ نے لاینبیٰ بعدیٰ فرمایا ہے تو مسیح کو نبی اللہ بھی فرمایا ہے۔ پس ان دونوں اقوال کو نا کر یہ معنی کرنے پڑیں گے کہ ایک قسم کے نبی آپ کے بعد نہیں ہوں گے اور ایک اور قسم کے ہوں گے۔ اور آتے دن ان مسیح نبی ہو گا۔ جو شخص آنحضرت ﷺ کے اقوال میں سے ان کو جن لیتا ہے جو اس کی خواہشات کے مطابق ہوں۔ اور دوسروں کو چھوڑ دیتا ہے وہ آپ کا مطیع نہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ایسے ہی لوگوں سے ذکر کرنا یہ فرمایا تھا کہ قَوْلُوا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ وَلَا تَقُولُوا لَآئِبِي بَعْدَهُ (الانعام: ۱۰۸) جلد ۵ صفحہ ۱۲۰۳ خاتم الانبیاء تو کہہ لو لیکن لاینبیٰ بعدہ نہ کہہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل میں خیال پیدا ہوا ہو گا۔ کہ کچھ دن کے بعد بعض لوگ نبوت کا دروازہ بالکل مسدود نہ سمجھ لیں۔ اور دقت پر خدا

لیکن خدا تعالیٰ مجھے باپ کے لحاظ سے فارسی النسل قرار دیتا ہے اور ماں کے لحاظ سے مجھے فاطمی ٹھیراتا ہے اور وہی حق ہے جو وہ کہتا ہے۔ اور جو تھا امر جو مجھے دُورِ مشتمل کرتا ہے وہ یہ ہے کہ میں جوڑا پیدا ہوا تھا۔ ایک میرے ساتھ لڑکی تھی جو مجھ سے پہلے پیدا ہوئی تھی۔

پھر ہم اپنے پہلے مقصد کی طرف رجوع کر کے کہتے ہیں کہ یہ بالکل غلط اور دھوکا کھانا ہے کہ حدیثوں میں صحیح موعود کے بارے میں نبی کا نام دیکھ کر یہ سمجھا جائے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں۔ کیونکہ انہیں حدیثوں میں اگرچہ آنے والے عیسیٰ کا نام نبی رکھا گیا ہے مگر اس کے ساتھ ایک ایسی شرط لگا دی گئی ہے کہ اس شرط کے لحاظ سے ممکن ہی نہیں کہ اس نبی سے مراد حضرت عیسیٰ امرئیلی ہوں کیونکہ باوجود نبی نام رکھنے کے اس عیسیٰ کو انہی حدیثوں میں اتنی ہی قدر دیا ہے۔ اور جو شخص اتنی کی حقیقت پر نظر غور ڈالے گا وہ بیدار مت سمجھے گا کہ حضرت عیسیٰ کو اتنی قرار دینا ایک کفر ہے کیونکہ اتنی اس کو کہتے ہیں کہ جو بغیر اتباع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور بغیر اتباع قرآن شریف بعض ناقص اور گمراہ اور بے دین ہو اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور قرآن شریف کی پیروی سے اس کو ایمان اور کمال نصیب ہو۔ اور ظاہر ہے کہ ایسا خیال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کرنا کفر ہے، کیونکہ گو وہ اپنے درجہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ہی کم ہوں مگر نہیں کہہ سکتے کہ جب تک وہ دوبارہ دنیا میں آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل نہ ہوں تب تک نفوذ بائند وہ گمراہ اور بے دین ہیں یا وہ ناقص ہیں اور ان کی معرفت ناقص ہے۔ پس میں اپنے مخالفوں کو یقیناً کہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ اتنی ہرگز نہیں ہیں۔ گو وہ جگہ تمام انبیاء و آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوائی پر یقین رکھتے مگر وہ ان ہدایتوں کے پیرو تھے جو ان پر نازل ہوئی تھیں۔ اور براہ راست خدا نے ان پر تجلی فرمائی تھی یہ ہرگز نہیں تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی تعلیم سے وہ نبی بنتے تھے تا وہ اتنی کہتے تھے۔ ان کو خدا تعالیٰ نے الگ کتاب دی تھی۔ اور ان کو ہدایت تھی کہ ان کتابوں پر عمل کریں اور لکھیں۔ جیسا کہ قرآن شریف اس پر گواہ ہے۔ پس اس پر یہی شہادت کی دوسے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

# تشریح القرآن

ترجمہ تفسیر مجاہد بن ابی سفیان

جلد ۱۰ باب ۱۰۰ تا ۱۰۱

فہرست مضامین  
 مجموعی ترجمہ نبوت کی اصل حقیقت  
 ۱۰۰ تا ۱۰۱

## تیسرا حصہ

عمر بن عبد العاص کا فہرست مضامین

"تشیخ الاذہان" قادیان شمارہ نمبر 8، جلد 12، صفحہ 28، اگست 1917ء

یہ حوالہ صفحہ 161 پر درج ہے

ملاحظ ہو کہ احادیث نبویہ میں یہ بیگونی کی گئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو میری  
 اور ابن ربیع جیسا اور نبی کے نام سے مہموم کیا جائیگا یعنی اس کثرت سے مکالمہ مخاطبہ کا شرف اس کو  
 حاصل ہوگا اور اس کثرت سے امر فہمیا اس پر ظاہر ہونے کے بجائے کسی پر ظاہر نہیں ہو سکتا ہے  
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا یظہرہ علی غیبہ احد ...

اسکی امت میں سے ایک نبی ہوگا  
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے

حوالہ نمبر ۵۴ حقیقۃ الوحی صفحہ ۲۸

کسی حدیث صحیح سے اس بات کا پتہ نہیں لیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی آیا ہوگا  
 جو اسی نہیں یعنی آپ کی پیروی سے فیضیاب نہیں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے  
 نبی ہو سکتا ہے

حوالہ نمبر ۵۵ ضمیمہ براہین احمدیہ صفحہ ۱۳۲

قرآن کریم ثابت ہے کہ بزرگ نبی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے  
 لتؤمنن بہ ولتقتضینہ پس اس طرح تمام انبیاء علیہم السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے  
 سے روک کر گزریں جو کہا کہ تم میں کوئی نبی نہیں آسکتا حالانکہ تمام انبیاء حضرت  
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پھر باوجود امت ہونے کے وہ نبی بھی ہیں اور تمام نبیوں  
 کو تمام انبیاء کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونا اصالتاً اور بالفعل طور سے نہیں ہے لتؤمنن بہ ولتقتضینہ کہ گزرتے  
 انبیاء کا نبیت رکھنے کے معنی ہونے کے تمام انبیاء گزرتے بالفعل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے معنی ہوتے ہیں  
 بیخوش ہونے اور اسی طرح اپنا امتی ہونا ثابت کر چکے اور وہ تمام انبیاء کا منظر ہو کر مسیح موعود ہے جو ایک طرف آنحضرت  
 کا امتی بالفعل ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی انبیاء ثابت کرتا ہے اور دوسری طرف نص صریح کے راستے وہ رسول اور انبیاء پر

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے  
 نبی ہو سکتا ہے

حوالہ نمبر ۵۶ (نزول المصحح صفحہ ۴)

ابکار بھی ظاہر ہے کہ ان کے حکم و حکم نے وضع دنیا دہی رکھی ہے یعنی بعض فوس بعض کے مشابہ  
 ہوتے ہیں بیک ٹکوں کے مشابہ اور بد بدوں کے مشابہ مگر باہر ہر مٹھنی ہوتا ہے اور زور  
 شہ سے ظاہر نہیں ہوتا لیکن آخری زمانہ کے لئے خدا نے مقرر کیا ہوا تھا کہ ایک عالم جمعیت  
 کا نام ہوگا اسے امت دوسری امتوں کی کسی بات میں کم نہ ہو پس اسے مجھے پیدا کر کے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے  
 نبی ہو سکتا ہے

بریک گزشتہ نبی سے مجھے تشبیہ دی کہ وہی میرا نام رکھ دیا چنانچہ ہوم براہیم لوح موسیٰ و داؤد سلیمان و  
 یحییٰ میں سے دیکھو یہ تمام نام براہین احمدیہ میں نمبر ۷ رکھے گئے اور اس صحت میں گرایا تمام انبیاء گزشتہ اس

۲۹۷

کوئی کسی کے لئے اپنا ایمان ضائع نہیں کر سکتا۔ ان سے حلفاً پوچھو کہ کیا جیسا کہ  
 لکھا گیا ایسا ہی پیشگوئی ظہور میں آئی تھی یا نہیں؟ اب برائے خدا یہ بھی ذرہ سوچو  
 کہ کیا اس کثرت اور صفائی سے غیب کا علم اور وہ علم جو بموجب تورات اور قرآن کے  
 سچے نبیوں اور مامورین کی نشانی ہے وہ کسی مفتری اور کاذب کو مل سکتا ہے۔ میں  
 سچ سچ کہتا ہوں کہ جس کثرت اور صفائی سے غیب کا علم حضرت جبریلؑ نے  
 اپنے ارادہ خاص سے مجھے عنایت فرمایا ہے اگر میں اس کثرت تعداد اور انکشاف  
 تام کے لحاظ سے کوئی اور بھی میرے ساتھ شریک ہے تو میں جھوٹا ہوں۔ لیکن اگر  
 اس کثرت اور انکشاف تام کے رُوسے کوئی اور میرے ساتھ شریک ثابت  
 نہیں ہو سکتا۔ تو پھر میرے دعوے سے انکار کرنا سخت ظلم ہے۔

۵۷  
 عرصہ قریباً بیس برس کا گذرا ہے کہ ایک دفعہ کشفی طور پر مجھے معلوم ہوا کہ  
 ایک شخص مسلمانوں میں سے یہ فتنہ برپا کرے گا کہ میری تکفیر کا فتویٰ لکھا کر ملک میں  
 پھیلائیگا۔ اور قریباً اس ملک کے تمام مولویوں کو اس خطا سے آلودہ کرے گا اور  
 یہ تمام بوجھ اسکی گردن پر ہوگا۔ چنانچہ وہ الہام جو اس بارے میں ہوا۔ وہ  
 براہین احمدیہ کے صفحہ ۱۰ اور ۱۱ میں اس طرح پر مندرج ہے :-  
 اذ یمکر بك الذی كفر۔ او قد لي يا همامان لعلي اطلع على الہ  
 موسى و اني لا ظننه من الكاذبين۔ تبنت يدا ابى لهب و تب۔  
 ما كان له ان يدخل فيها الا خائفا۔ وما اصابك فمن الله۔ الفتنه  
 ههنا فاصبر كما صبر اولو العزم۔ الا انها فتنه من الله ليحب  
 حبا جماً۔ حبا من الله العزيز الاكرم۔ عطاء غير مجد وذ۔  
 ترجمہ۔ اس شخص کے مکر کو یاد کرو جو تیرے ایمان کا منکر ہوا۔ اور تجھے

۲۹۸



مفتی محمد صادق صاحب و مولوی صدر الدین صاحب کیے ازرفعا نے مولوی محمد علی ایک تبلیغی دورہ پر بھیجے گئے تھے۔ اس دورہ کے دوران میں مولوی شبلی صاحب نعمانی بانی ندوہ سے بھی ان کو ملاقات کا موقع ملا۔ سلسلہ گفتگو میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نبوت کا بھی ذکر آیا۔ اور جناب مولوی شبلی صاحب کے سوال پر ان صاحبان نے جواب دیا کہ ہم مرزا صاحب کو لغوی معنوں میں نبی مانتے ہیں۔ گو یہ جواب درست تھا۔ کیونکہ لغوی معنی اور شرعی اصطلاح ایک ہی ہے۔ مگر چونکہ یہ جواب ایک رنگ احفاء کا رکھتا تھا۔ اور اس طرف اشارہ ہوتا تھا کہ گویا خدا تعالیٰ کے نزدیک نبی کے کچھ اور معنی ہیں۔ مجھے ناپسند ہوا اور مجھے خوف ہوا کہ یہ طریق جماعت میں عام نہ ہو جائے خصوصاً جبکہ میں نے دیکھا کہ اس سال چند دنیاوی تحریکوں (مثلاً مسلم یونیورسٹی) کی رو میں بہہ کر بعض احمدی اپنے مرکز سے ہٹ رہے ہیں۔ تو میں اس جواب سے اور بھی ڈرا۔ اور میں نے چاہا کہ سالانہ جلسہ کے موقع پر خاص طور پر اپنی جماعت کو توجہ دلاؤں۔ حضرت خلیفہ اول اس تقریر کے موقع پر موجود نہ تھے۔ مگر خواجہ صاحب، مولوی محمد علی صاحب اور مولوی محمد احسن صاحب موجود تھے۔ ان لوگوں کی موجودگی میں تمام جماعت کے مدبروں نے اس موضوع پر تقریر کی۔ اور میری یہ تقریر اس بات کا روشن ثبوت ہے کہ میں ہمیشہ حضرت مسیح موعود کو نبی سمجھتا رہا ہوں۔ چند فقرات اس تقریر کے جو ۱۹ جنوری ۱۹۱۱ء کے پرچہ بدر میں شائع ہو چکی ہے میں ذیل میں درج کرتا ہوں۔ وہی خدا ہے جس نے اپنے فضل سے تمہیں توفیق دی کہ تم ایک نبی کی اتباع کرو۔ (بدر جنوری ۱۹۱۱ء صفحہ ۶ کالم ۳)

پھر احمدیوں اور غیر احمدیوں کے متعلق لکھا ہے :-

سوداگروں کے درمیان بھی میں دیکھتا ہوں کہ اگرچہ ایک جنس ہی ہے تو بھی وہ کتا ہے نہیں جی ہمارا غلہ خاص قسم کا ہے اور تم تو دونوں فریقوں میں جن فرق دیکھتے ہو اور پھر تم میں سے بعض میں جو کہ دینے میں کچھ فرق نہیں۔ کیا یہ فرق نہیں کہ تم ایک نبی کے متبع ہو اور دوسری قوم ایک نبی کی کذب ہے۔\* یہ بھی یاد رکھو کہ مرزا صاحب نبی ہیں اور بحیثیت رسول اللہ کے خاتم النبیین ہونے کے آپ کی اتباع سے آپ کو نبوت کا درجہ ملا ہے اور ہم نہیں جانتے کہ اور کتنے لوگ یہی درجہ پائیں گے۔ ہم انہیں کیوں نبی نہ کہیں۔ جب خدا نے انہیں نبی کہا ہے۔ چنانچہ آخری عمر کا الہام ہے کہ یا نبی اللہ انبیاء الخیر والفقیر۔ جو مسیح موعود کے ایک لفظ کو بھی جھوٹا سمجھتا ہے وہ خدا کی درگاہ سے مردود ہے کیونکہ خدا اپنے نبی کو وفات تک غلطی میں نہیں رکھتا۔

(بدر ۱۹ جنوری ۱۹۱۱ء صفحہ ۷)

\* بدر ۱۹ جنوری ۱۹۱۱ء صفحہ ۶ سے تذکرہ صفحہ ۶۶، ایڈیشن چارم

بدر ۱۹ جنوری ۱۹۱۱ء صفحہ ۷، آئینہ صداقت صفحہ ۴۰ مندرجہ انوار العلوم جلد ۶ صفحہ ۱۲۴ از مرزا بشیر الدین محمود

یہ حوالہ صفحہ ۱۶۲ پر درج ہے

صفحہ دوم

۵۱۸

ازالہ اوہام

پیدا ہوا ہے جاتا رہے اور ایک بھاری شکست اور ناحق کی سسکی اور ناکامی کے ساتھ واپس ہوں۔ سومیسری صلاح یہ ہے کہ بجائے ان غلطوں کے عمدہ عمدہ تالیفیں ان ملکوں میں بھیجی جائیں۔ اگر قوم بدل و جان میری مدد میں مصروف ہو تو میں چاہتا ہوں کہ ایک تفسیر بھی تیار کر کے اور انگریزی میں ترجمہ کرا کر ان کے پاس بھیجی جائے۔ میں اس بات کو صاف صاف بیان کرنے سے رو نہیں سکتا کہ یہ میرا کام ہے دوسرے سے ہرگز ایسا نہیں ہوگا جیسا مجھ سے یا جیسا اس سے جو میری شاخ ہے اور مجھ ہی میں داخل ہے۔ ہاں اس قدر میں پسند کرتا ہوں کہ ان کتابوں کے تقسیم کرنے کے لئے یا ان لوگوں کے خیالات اور اعتراضات کو ہم تک پہنچانے کی غرض سے چند آدمی ان ملکوں میں بھیجے جائیں جو امانت اور مولویت کا دعویٰ نہ کریں بلکہ ظاہر کر دیں کہ ہم ان کے لئے بھیجے گئے ہیں کہ تا کتابوں کو تقسیم کریں اور اپنے معلومات کی حد تک سمجھائیں اور مشکلات اور مباحث دقیقہ کا حل ان امانوں سے چاہیں جو اس کام کے لئے ملک ہند میں موجود ہیں۔

اس میں کچھ شک نہیں کہ اسلام میں اس قدر صداقت کی روشنی چمک رہی ہے اور اس قدر اس کی سچائی پر نورانی دلائل موجود ہیں کہ اگر وہ اہل تحقیق کے زیر توجہ لائی جاویں تو قیامتاً وہ ہر ایک سلیم العقل کے دل میں گھر کر جاویں لیکن افسوس کہ ابھی وہ دلائل اندرونی طور پر بھی اپنی قوم میں شائع نہیں چہ جائیکہ مخالفوں کے مختلف فرقوں میں شائع ہوں۔ سوائے براہین اور دلائل اور حقائق اور معارف کے شائع کرنے کے لئے قوم کی مالی امداد کی حاجت ہے کیا قوم میں کوئی ہے جو اس بات کو سنے؟ جب سے میں نے رسالہ فتح اسلام کو تالیف کیا ہے ہمیشہ میرا اسی طرف خیال لگا رہا کہ میری اس تجویز کے موافق جو میں نے درج ذیل چندہ کے لئے رسالہ مذکور میں لکھی ہے دلوں میں حرکت پیدا ہوگی۔ اسی خیال سے میں نے چار سو کے قریب

خاتم النبیین و خیر المرسلین ہیں جن کے ہاتھ سے اکمال دین ہو چکا اور وہ نعمت بہتر بہ تمام  
 پہنچ چکی جس کے ذریعے انسان راہ راست کو اختیار کر کے خدائے تعالیٰ تک پہنچ سکتا  
 ہے اور ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب الہی  
 ہے اور ایک شے یا نقطہ اس کی مشرعات اور حدود اور احکام اور اوامر سے زیادہ نہیں  
 ہو سکتا اور نہ کم ہو سکتا ہے اور اب کوئی ایسی وحی یا ایسا الہام ملجانا اب اللہ نہیں ہو سکتا  
 جو احکام فرقانی کی ترمیم یا تنسیخ یا کسی ایک حکم کے تبدیل یا تغیر کر سکتا ہو اگر کوئی ایسا  
 خیال کرے تو وہ ہمارے نزدیک جماعت مومنین سے خارج اور ملحد اور کافر ہے اور  
 ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ ادنیٰ درجہ مراد استقیم کا بھی بغیر اتباع ہمارے نبی صلی اللہ  
 علیہ وسلم کے ہرگز انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا چہ جائیکہ راہ راست کے اعلیٰ مدارج بجز  
 اقتدا اس امام الرسل کے حاصل ہو سکیں کوئی مرتبہ شرف و کمال کا اور کوئی مقام عزت  
 اور قرب کا بجز نبی اور کمال متابعت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ہرگز حاصل کر ہی نہیں  
 سکتے ہیں جو کچھ ملتا ہے قسلی یا نفسی طور پر ملک ہے اور ہم اس بات پر بھی ایمان رکھتے  
 ہیں کہ جو راستباز اور کمال لوگ شرف صحبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے مشرف ہو کر  
 تکمیل منازل سلوک کو چکے ہیں ان کے کمالات کی نسبت بھی ہماری کمالات اگر ہیں حاصل  
 ہوں بطور ظلل کے واقع ہیں اور ان میں بعض ایسے بڑی فضائل ہیں جناب انہیں کسی طرح سے  
 حاصل نہیں ہو سکتے۔ غرض ہمارا ان تمام باتوں پر ایمان ہے جو قرآن شریف میں نازل  
 اور جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدائے تعالیٰ کی طرف سے لائے اور تمام محدثات اور  
 بدعات کی تم ایک فاش ضلالت اور جہنم تک پہنچانے والی راہ یقین رکھتے ہیں مگر انہوں  
 کہ ہماری قوم میں ایسے لوگ دست ہیں جو بعض عقائد اور معارف قرآنیہ اور دقائق آثار نبویہ  
 کو جو اپنے وقت پر بذریعہ کشف والہام زیادہ تر صفائی سے کھلتے ہیں محدثات اور بدعات میں  
 ہی غافل کو دیکھتے ہیں حالانکہ معارف نخبیہ قرآن و حدیث ہمیشہ اہل کشف پر کھلتے رہے ہیں

اسے اندر اندر لگنی بچر گھمانے والو شہروں کے غارت کرنے والو ہمیں دولت عطا کرو۔

لڑائیوں میں ہماری مدد کرو یعنی بہت سالوٹ کا مال ہمیں دو۔ اسے اندر جو سب دیوتاؤں میں

اول درجہ کا دیوتا ہے ہم تجھے بلاتے ہیں تو نے لڑائیوں میں بہت سالوٹ کا مال حاصل کیا ہے

اسے اہمیت اندر ایسی لڑائیوں میں ہماری حفاظت کر جہاں سے بہت لوٹ ہمارے ہاتھ آئے

ہم اندر کو جو ہمارے دشمنوں کے مقابل پر بچر گھماتا ہے اور جو ہمارا مددگار ہے بے شمار دولت

حاصل کرنے کے لئے بلاتے ہیں۔ (دید کی تعلیم کی رو سے لوٹ کا مال اکثر اندر ہی دیا کرتا ہے ہلے

لگنی ہم نے تجھے کبھی کا ہوم کر کے بلایا ہے ہمارے دشمنوں کو بخلا دے۔

اب کوئی آریہ صاحب بتلا دیں کہ یہ شرتیاں درید میں ہیں یا قرآن شریف میں۔ قرآن شریف

میں تو کہیں نہیں لکھا کہ اپنے دشمنوں کو آگ سے جلا دو اور ان کا مال لوٹ لو۔ یہ ایک سخت بذاتی

ہے جو خدا تعالیٰ کی پاک کلام پر ناحق تہمت لگائی جاتی ہے۔ قرآن شریف میں صرف یہ حکم دیا گیا

ہے کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کو قتل کیا اور ان کا مال لوٹا اور ان کو وطن سے نکالا تم بھی بعض

اس نقصان کے ان کا مال لوٹ لو۔ اور جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے ہمیشہ لڑائیوں کی نفسی

طرح چلی آئی ہے کہ فتح کرنے والے مغلوب فریق کا مال لوٹ لیتے ہیں بلکہ ان کے ملک پر بھی

قیصر کر لیتے ہیں۔ آج کل بھی فتح پانے والے بادشاہوں میں یہی رسم جاری ہے مگر قرآن شریف نے

ظلم اور زیادتی کی تعلیم نہیں دی اور صرف مظلوموں کی نسبت لڑائی کرنا جائز رکھا ہے اور نیز یہ

کہ جس طرح دشمن نے ان کا مال لوٹ لیا ہے وہ بھی لوٹ لیں زیادتی نہ کریں۔ پس کس قدر بیحیاتی

بے شرمی۔ بے ایمانی ہے کہ ناحق قرآن شریف پر یہ تہمت تھاپ دی جاتی ہے کہ گویا اس نے

آتے ہی بغیر اس کے کہ فریق ثانی سے مجرمانہ حرکتیں صادر ہوں لوٹ اور قتل کرنے کا حکم دیدیا تھا

ہمیں ایسی کوئی آیت سدا سے قرآن شریف میں نہیں ملتی اگر اربوں نے کوئی ایسی آیت دیکھی ہے

جس سے یہ پایا جاتا ہو کہ بغیر فریق ثانی کے ظلم اور مجرمانہ حرکات کے ان کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم ہو

تو ان پر کھانا حرام ہے جب تک وہ آیت پیش نہ کریں۔ یوں ہی کسی آیت کا سر پر کاٹ کر اور

اپنے مطلب کے موافق بنا کر پیش کر دینا یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو سخت شریر اور بد معاش اور گنڈے کہلاتے ہیں۔ خدا تو قرآن شریف میں یہ فرماتا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لبقدر۔ یعنی جن مسلمانوں پر ناحق قتل کرنے کے لئے چڑھائی کی جاتی ہے۔ خدا نے دیکھا کہ وہ مظلوم ہیں اس لئے خدا بھی ان کو مقابلہ کرنے کے لئے اجازت دیتا ہے۔

مضمون پڑھنے والے نے ایک نشانی الہامی کتاب کی یہ بیان کی کہ پیدائش اور فنا کے بارے میں اس میں صحیح صحیح حالات درج ہوں۔ واضح ہو کہ اس نشانی کی حقیقت بیان کرنے کے بارے میں ہم چنانچہ ضرورت نہیں دیکھتے۔ کیونکہ پہلے بھی وضاحت کے ساتھ ہم لکھ چکے ہیں کہ ان دونوں نشانیوں میں دید نے بڑی بھاری غلطی کھائی ہے کیونکہ بموجب قول آریہ سماج کے دید کی یہ تعظیم ہے کہ ارواح اور ذرات اجسام انادی اور غیر مخلوق اور قدیم سے پریشیر کی طرح خود بخود ہیں اور ان کی تمام طاقتیں اور قوتیں بھی خود بخود ہیں۔ اور انسان کے مرنے کے وقت میں اس کی مدح آسمان کی فضا میں چلی جاتی ہے اور پھر شبنم کی طرح رات کے وقت کسی گھاس پات پر پڑتی ہے اور وہ گھاس کوٹی کھالتا ہے اور اس طرح پر نطقہ کے اندر ہو کر وہ رُوح کسی عورت کے پیٹ میں چلی جاتی ہے۔ یہ ہے دید کی فلاسفی جو پیدائش اور فنا کے متعلق ہے اور ہم اسی رسالہ میں ثابت کر چکے ہیں کہ یہ ایسا بدیہی بلبلان عقیدہ ہے کہ ایک بچہ بھی اُس پر ہنسنے کا اگر رُوحیں خود بخود ہیں اور ان کی طاقتیں خود بخود ہیں تو پھر پریشیر پریشیر نہیں رہ سکتا اور نہ پرستش کرانے کے لئے اس کا کوئی حق ٹھہر سکتا ہے اور اس کا رُوحوں پر حکومت کرنا صرف قبضہ جابرانہ ہوگا اور ہم کوئی دوسرا نام اس قبضہ کا نہیں رکھ سکتے۔ ایسا ہی اس عقیدہ سے اس کی توحید تمام دہم برہم ہو جاتی ہے اور قدامت میں ذرہ ذرہ اُس کے وجود کے ساتھ برابر ہو جاتا ہے۔ اور نیز بڑی خرابی یہ ہے کہ اس صیورت میں وہ منبع فیوض نہیں ٹھہر سکتا کیونکہ جب کہ رُوحیں خود بخود ہیں اور ان کی طاقتیں خود بخود ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ ان کے ادراک مجہولات

دین میں پادریوں کے دروازہ پر گداگری اختیار نہ کرتا جو لوگ اپنے کالجوں اور سکولوں میں لازمی طور پر خلاف اسلام تعلیم دیتے ہیں کسی سچے مسلمان کا طریق نہیں کہ انکی نوکری اختیار کرے۔

افسوس کہ یہ شخص سعد اشد نام جو فوت ہو گیا ہے وہ بعض میری تقریری مباحثات بھی سن چکا تھا اور اس کو میری کتابیں دیکھنے کا بھی بہت موقع ملا تھا مگر تعصب اور بغض ایک ایسی بلا ہو کہ وہ ان سے کچھ فائدہ اٹھانہ سکا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وفات پاناکوئی مشتبہ امر نہ تھا خدا تعالیٰ قرآن شریف میں بیان کر چکا اور اس کا رسول معراج کی رات میں وفات یافتہ نبیوں میں اُسکو دیکھ چکا تھا۔ دوسری طرف قرآن اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ سب خلیفہ اسلام کے اسی امت میں سے آئیں گے بلکہ حدیثوں میں یہ بھی آچکا ہے کہ نازل ہونے والا عیسیٰ اسی امت میں سے ہے۔ پھر بھی وہ بد قسمت سمجھ نہ سکا اور پہلی کتابوں اور احادیث صحیحہ میں بڑا نشان آخری مسیح کا یہ دیا گیا تھا کہ وہ دجال کے ظہور کے وقت آئے گا اور قرآن شریف نے ظاہر کر دیا کہ وہ دجال پادریوں کا فرقہ ہے جن کا دن رات کام تحریف و تبدیل ہے کیونکہ دجال کے یہی معنی ہیں جو تحریف و تبدیل کر کے حق کو چھپانے والا ہو اور اسی کی طرف سورۃ فاتحہ اشارہ کرتی ہے۔ ایسا ہی قرآن شریف کی اس آیت سے کہ جَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ ثابت ہوتا ہے کہ دجال عیسائیوں کے سوا کوئی علیحدہ گروہ نہیں ہو گا کیونکہ جب کہ غلبہ اور سلطنت قیامت تک عیسائیوں

میں دجال کے معنی بجز اسکے اور کچھ نہیں کہ جو شخص دھوکہ دینے والا اور گمراہ کر دینے والا اور خدا کے کلام کی تحریف کر دینے والا ہو۔ اُسکو دجال کہتے ہیں۔ سو ظاہر ہے کہ پادری لوگ اس کام میں سب سے بڑھ کر ہیں کیونکہ دوسروں کا دجل اور فریب تو کمزور ہے پر جو مکران لوگوں کا دجل اس قدر ہے کہ خواہ انسان کو خدا بنانے کے لئے کہہ دے اور وہ یہ خیر کہے ہیں اور لاکھوں رسالے اور کتابیں دنیا میں شائع کی ہیں اور اسی غرض سے زمین کے کناروں تک سفر کرتے ہیں۔ پس ایسی وجہ وہ دجال اکبر ہیں اور خدا تعالیٰ کی پیشگوئی کے مطابق دوسرے کسی دجال کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں کیونکہ بکھا ہو کہ دجال گرجا سے نکلے گا اور جس قوم میں سے ہو گا وہ قوم تمام دنیا میں سلطنت کرے گی اور قیامت تک انکی طاقت اور قوت رہے گی۔ پھر جبکہ یہ حال ہو تو کونسی زمین باقی رہی جس میں ہمارے مخالفوں کا قرضی دجال ظہور کرے گا۔ منہ

سے ال عمران: ۵۶

لهذه المناضلة ان كانوا من الصادقين وعلّمت من ربي انهم من المغلوبين - و  
 والله اني لست من العلماء ولا من اهل الفضل والذماء وكلماء اقول من انواع  
 حسن البيان او من تفسير القرآن فهو من الله الرحمان وكلماء اخطأت فيه فهو  
 متى وكلماء هو حق فهو من ربي وان ربي ارواني من كاس العرقان ومعد لك ما  
 ابرء نفسي من السهو والنسيان وان الله لا يتركني على خطأ طرفة عين و  
 يعصمني من كل مبین ويحفظني من سبل الشياطين - فيا اهل الاهواء و  
 الدعاوى والرياء ان كنتم تحسبون انفسكم من اولي العلم والفضل والذم  
 او من العلماء والاولياء والأتقياء او من الذين يسمع دعواتهم كالاحياء  
 فاتوا بمثل ذلك الكتاب في جميع الامم كما داروني علمكم وقد ركم في حضرة  
 الكبرياء وان لم تفعلوا ولن تفعلوا يا معشر السفهاء فتادبوا مع اهل الحق والنور  
 والضياء ولا تعتدوا كل الاعتداء وما هذا الا صنيعا الرب القوي لا فعل المخرم  
 والضعفاء وان الكرامات تظهر في وقت توهين الاعداء وان عباد الله ينصرون  
 عند انتهاك الجور من اهل الجفاء واذا بلغ الظلم غايته فيدركهم رب السماء  
 فتوبوا من المعائب والعثرات ويادروا الى الحسنات والصلوات وان الجزامة  
 كل الجزامة في قبول الكرامة فاقبلوها قبل الندامة واتقوا سواد الخزي و  
 الملامة ونكال القيامة فطوبى لكم ان جئتم كالتائبين المنتدبين من هذه الخاتمة  
 النصية وخاتمة افهام العداوات الحقة والسلام على من قبلنا قبل المذلة وترك  
 سبيل الجرمين - واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

## الراقص الحقير

المفتقر الى الله الصمد غلام اسجد عاقاه الله وايد

وكان هذا مكتوبا في ذي القعدة ١١٣١  
 من هجرة نبي العهد مقبول لاحد صلى الله عليه وسلم

من الازل الى الابد

کے لئے ہمیشہ اور ہر دم کے لئے اس کا قرین اور مصاحب مقرر کرے تا وہ اس کے ایمان کی بھنگنی کے فکر میں رہیں اور ہر وقت اس کے خون اور اس کے دل اور دماغ اور رگ و ریشہ میں اور آنکھوں اور کانوں میں گھس کر طرح طرح کے وسوسے ڈالتے رہیں۔ اور ہدایت کرنے کا ایسا قرین جو ہر دم انسان کے ساتھ رہے اور ایک بھی انسان کو نہ دیا جائے۔ یہ اعتراض درحقیقت ان کے عقیدہ مذکورہ بالا سے پیدا ہوتا ہے کیونکہ ایک طرف تو یہ لوگ بموجب آیت وما مینا الا لہ مقام معلوم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل اور غزیریل یعنی ملک الموت کا مقام آسمان پر مقرر ہے جس مقام سے وہ نہ ایک بالشت نیچے اتر سکتے ہیں نہ ایک بالشت اوپر چڑھ سکتے ہیں اور پھر باوجود اس کے ان کا زمین پر

ان دونوں حضرتوں کے نزدیک قابل اعتبار نہیں ہوں گی کیونکہ وحی کی روشنی سے خالی ہیں اور ان کے زہویک ان دونوں میں خواہوں کا سلسلہ بھی بھٹی بند تھا۔  
اب منصفو! دیکھو کہ کیا ان دونوں شخصوں کی بے ادبی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت انتہا کو پہنچ گئی یا نہیں۔ وہ آفتاب صداقت جس کا کوئی دل کو خطرہ بھی بغیر وحی کی تحریک کے نہیں اس کے بارے میں ایسے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ گو یادہ نمود بائند مدتوں ظلمت میں بھی پڑا رہتا تھا اور اس کے ساتھ کوئی روشنی نہ تھی۔ اس عاجز کو اپنے ذاتی تجربہ سے یہ معلوم ہے کہ روح القدس کی قدسیت ہر وقت اور ہر دم اور ہر لحظہ بلا فصل ملہم کے تمام قومی میں کام کرتی رہتی ہے اور وہ بغیر روح القدس اور اس کی تاثیر قدسیت کے ایک دم بھی اپنے تئیں ناپکی سے بچا نہیں سکتا۔ اور انوار دائمی اور استقامت دائمی اور محبت دائمی اور عصمت دائمی اور برکات دائمی کا بھی سبب ہوتا ہے کہ روح القدس

ان دونوں حضرتوں کے نزدیک قابل اعتبار نہیں ہوں گی کیونکہ وحی کی روشنی سے خالی ہیں اور ان کے زہویک ان دونوں میں خواہوں کا سلسلہ بھی بھٹی بند تھا۔

اب منصفو! دیکھو کہ کیا ان دونوں شخصوں کی بے ادبی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت انتہا کو پہنچ گئی یا نہیں۔ وہ آفتاب صداقت جس کا کوئی دل کو خطرہ بھی بغیر وحی کی تحریک کے نہیں اس کے بارے میں ایسے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ گو یادہ نمود بائند مدتوں ظلمت میں بھی پڑا رہتا تھا اور اس کے ساتھ کوئی روشنی نہ تھی۔ اس عاجز کو اپنے ذاتی تجربہ سے یہ معلوم ہے کہ روح القدس کی قدسیت ہر وقت اور ہر دم اور ہر لحظہ بلا فصل ملہم کے تمام قومی میں کام کرتی رہتی ہے اور وہ بغیر روح القدس اور اس کی تاثیر قدسیت کے ایک دم بھی اپنے تئیں ناپکی سے بچا نہیں سکتا۔ اور انوار دائمی اور استقامت دائمی اور محبت دائمی اور عصمت دائمی اور برکات دائمی کا بھی سبب ہوتا ہے کہ روح القدس



میں نے اس کتاب میں نہایت زبردست ثبوتوں سے سچ کا قوت ہو جانا اور اموات میں داخل ہونا ثابت کر دیا ہے اور میں نے بہت کی حد تک اس بات کو پہنچا دیا ہے کہ سچ زندہ ہو کر جسم منصری کے ساتھ ہرگز آسمان کی طرف اٹھایا نہیں گیا بلکہ اور زمیں کی موت کی طرح اس پر بھی موت آئی اور دائمی طور پر وہ اس جہان سے رخصت ہوا۔ اگر کوئی مسیح کا ہی پرستار ہے تو مجھ سے کہہ کر گیا اور مرنے والوں کی جماعت میں ہمیشہ کے لئے داخل ہو گیا۔ سو تم تائید حق کے لئے اس کتاب سے فائدہ اٹھاؤ اور سرد گرمی کے ساتھ پادریوں کے مقابل پر کھڑے ہو جاؤ۔ چاہیے کہ یہی ایک مسئلہ ہمیشہ تمہارے زیر توجہ اور پورا بھروسہ کرنے کے لائق ہو جو حقیقت سچ ان مریم فوت شدہ گروہ میں داخل ہے۔ میں نے اس بحث کو اس کتاب میں بڑی دلچسپی کے ساتھ کامل اور قوی دلائل سے انجام تک پہنچایا ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے اس تالیف میں میری وہ مدد کی ہے جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور میں بڑے دعوے اور استقلال سے کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں اور خدا تعالیٰ کے فضل سے اس میدان میں میری ہی فتح ہے۔ اور جہاں تک میں دور بین نظر سے کام لیتا ہوں تمام دنیا اپنی سچائی کے تحت اسد اموی بکتا ہوں۔ اور قریب ہے کہ میں ایک عظیم الشان فتح پاؤں کیونکہ میری زبان کی تائید میں ایک اور زبان بلبل رہی ہے۔ اور میرے ہاتھ کی تقویت کے لئے ایک اور ہاتھ چل رہا ہے جس کو دنیا نہیں دیکھتی مگر میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے اندر ایک آسمانی روح چل رہی ہے جو میرے لفظ لفظ اور حرف حرف کو زندگی بخشتی ہے اور آسمان پہا یک بولتی اور آواز پیدا ہوا ہے جس نے ایک پتلی کی طرح اس مشت خاک کو کھڑا کر دیا ہے۔ ہر ایک وہ شخص جس پر توبہ کا دروازہ بند نہیں عنقریب دیکھ لے گا کہ میں اپنی طرف سے نہیں ہوں۔ کیا وہ آنکھیں بینا ہیں جو صادق کو شناخت نہیں کر سکتیں۔ کیا وہ بھی زندہ ہے جس کو اس آسمانی صدا کا احساس نہیں ہے

۵۲۳

لازم ہے کیونکہ جو لوگ خدائے تعالیٰ سے الہام پاتے ہیں وہ بغیر بلائے نہیں بولتے اور بغیر بھلائے نہیں سمجھتے اور بغیر فرمائے کوئی دعویٰ نہیں کرتے اور اپنی طرف سے کسی قسم کی دلیری نہیں کر سکتے اسی وجہ سے ہمارے ہی صلے اللہ علیہ وسلم جب تک خدائے تعالیٰ کی طرف سے بعض عبادات کے ادا کرنے کے بارہ میں وحی نازل نہیں ہوتی تب تک اہل کتاب کی سنن و سنن پر قدم مارنا بہتر جانتے تھے اور بروقت نزول وحی اور دریافت اہل حقیقت کے اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ موصی لحاظ سے حضرت مسیح بن مریم کی نسبت اپنی طرف سے براہین کوئی بحث نہیں کی گئی تھی۔ اب جو خدا تعالیٰ نے حقیقت امر کو اس عاجز پر ظاہر فرمایا تو علم طور پر اس کا اعلان از بس ضروری تھا لیکن مجھے اگر کچھ افسوس ہے تو اس زمانہ کے ان مولوی صاحبان پر ہے کہ جنہوں نے قبل اس کے جو مسیری تحریر پر غور اور غور کی نگاہ کریں رد لکھنے شروع کر دیے ہیں مصنفین اور محققین خوب سمجھتے ہیں کہ جس قدر حال کے بعض مولوی صاحبوں نے مجھے اپنی دیرینہ رائے کا مخالف ٹھہرایا ہے غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ درحقیقت اتنی بڑی مخالفت نہیں ہے جس پر اتنا شور مچایا گیا۔ میں نے صرف شیل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور میرا یہی دعویٰ نہیں کہ صرف شیل ہو نامیرے پر ہی ختم ہو گیا ہے بلکہ میرے نزدیک ممکن ہے کہ آئندہ زمانہ میں میرے جیسے اور دس ہزار بھی شیل مسیح آجائیں ہاں اس زمانہ کے لئے میں شیل مسیح ہوں اور دوسرے کی ایشیا بے سود ہے اور یہ بھی ظاہر رہے کہ یہ کچھ میرا ہی خیال نہیں کہ شیل مسیح بہت ہو سکتے ہیں بلکہ احادیث نبویہ کا بھی یہی منشاء پایا جاتا ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے اخیر تک قریب تیس کے دجال پیدا ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ جب تیس دجال کا آنا ضروری ہے تو حکم لکھل و جبال عیسائی تیس مسیح بھی آنے چاہئیں پس اس بیان کے رد سے ممکن اور بالکل ممکن ہے کہ کسی زمانہ میں کوئی ایسا مسیح بھی آجائے جس کا

ازالہء اہام

۲۹۳

مستدوم

کہ جب دجال کے بے جا جھگڑے کمال تک پہنچ جائیں گے تب سچ موعود ظہور کرے گا اور اس کے تمام جھگڑوں کا خاتمہ کر دے گا۔

(۱۰) دجال خدا نہیں کہلائے گا بلکہ خدا تعالیٰ کا قائل ہوگا بلکہ بعض انبیاء کا بھی۔ مسلم۔ ان دسوں علامتوں میں سے ایک بھاری علامت دجال مسعود کی یہ لکھی ہے کہ اُس کا فتنہ تمام ان فتنوں سے بڑھ کر ہوگا کہ جو ربانی دین کے مٹانے کے لئے ابتداء سے لوگ کرتے آئے ہیں اور ہم اسی رسالہ میں ثابت کر چکے ہیں کہ یہ علامت عیسائی مشنوں میں بخوبی ظاہر ہو چکا ہے۔

ازرا جملہ ایک بڑی بھاری علامت دجال کی اُس کا گدھا ہے جس کے بیٹے الاذنین کا اندازہ مشرب کیا گیا ہے اور ریل کی گاڑیوں کا اکثر اسی کے موافق سلسلہ طوفانی ہوتا ہے اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ وہ دغان کے زور سے چلتی ہیں جیسے بادل ہوا کے زور سے تیز حرکت کرتا ہے۔ اس جگہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے کھلے طور پر ریل گاڑی کی طرف اشارہ فرمایا ہے چونکہ یہ مسالہ قدامت کا ہے جن کا امام مقتدا اسی دجال کی طرف اشارہ کرتے ہیں ان گاڑیوں کو دجال کا گدھا قرار دیا گیا۔ اب اس سے زیادہ اور کیا ثبوت ہوگا کہ علامت خاصہ دجال کے انہیں لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ انہیں لوگوں نے مکروں اور فریبوں کا اپنے وجود پر خاتمہ کر دیا ہے اور دین اسلام کو وہ ضرر پہنچایا ہے جس کی نظیر دنیا کے ابتداء سے نہیں پائی جاتی اور انہیں لوگوں کے متبعین کے پاس وہ گدھا بھی ہے جو دجال کے زور سے چلتا ہے جیسے بادل ہوا کے زور سے۔ اور انہیں لوگوں کے متبعین زمین کو

کھا گیا ہے کہ آخری زمانہ میں قرآن آسمان پر اٹھایا جائے گا۔ پھر انہیں مدینوں میں لکھا ہے کہ پھر دوبارہ قرآن کو زمین پر لے کر آئے گا۔ حالانکہ ایک موقادسی اصل ہوگا جیسا کہ فرمایا گوسکان الایمان مختلفاً لیا عند الثریا لنا لہ سرجل من فارس۔ یہ حدیث درحقیقت اسی زمانہ کی طرف اشارہ کرتی ہے جو آیتنا علی وھاب بہ لقلدون میں اشارتاً بیان کیا گیا ہے۔ منہ

حصہ دوم

۲۸۲

ازالہ اوہام

بہت فائدہ ہوگا چنانچہ تھوڑے دنوں کے بعد قحط پڑا اور بیوپاری لوگوں کو اس قحط میں  
بہت فائدہ ہوا۔ ایسی ہی ان کی اور بھی کئی پیشگوئیاں تھیں جو پوری ہوتی رہیں۔

اس بزرگ نے ایک دفعہ جس بات کو عرصہ تیس سال کا گذرا ہوگا مجھ کو کنا کہ عیسیٰ  
ایسا جوان ہو گیا ہے اور لدھیانہ میں آکر قرآن کی غلطیاں نکالے گا اور قرآن کی رو سے فیصلہ  
کرے گا اور کنا کہ مولوی اس سے انکار کریں گے پھر کنا کہ مولوی انکار کر جائیں گے تب  
میں نے تعجب کی راہ سے پوچھا کہ کیا قرآن میں بھی غلطیاں ہیں قرآن تو اللہ کا کلام ہے۔  
تو انہوں نے جواب دیا کہ تفسیروں پر تفسیریں ہو گئیں اور شاعری زبان پھیل گئی یعنی  
مبالغہ پر مبالغہ کر کے حقیقتوں کو چھپایا گیا جیسے شاعر مبالغہات پر زور دیکر اس حقیقت  
کو چھپا دیتا ہے پھر کنا کہ جب وہ عیسیٰ آئے گا تو فیصلہ قرآن سے کرے گا پھر اس جذبہ  
نے بات کو دوہرا کر یہ بھی کہا تھا کہ فیصلہ قرآن پر کرے گا اور مولوی انکار کر جائیں گے  
اور پھر یہ بھی کنا کہ انکار کریں گے اور جب وہ عیسیٰ لدھیانہ میں آئے گا تو قحط بہت  
پڑے گا۔ پھر میں نے پوچھا کہ عیسیٰ اب کہاں ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ بیچ قادیان  
کے یعنی قادیان میں تب میں نے کہا کہ قادیان تو لدھیانہ سے تین کوس ہے وہاں عیسیٰ  
کہاں ہے (لدھیانہ کے قریب ایک گاؤں ہے جس کا نام قادیان ہے) اس کا انہوں  
نے کچھ جواب نہ دیا۔ اور مجھے کچھ معلوم نہ تھا کہ ضلع گورداسپورہ میں بھی کوئی گاؤں ہے  
جس کا نام قادیان ہے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی اللہ آسمان پر  
اٹھائے گئے اور کعبہ پر اتریں گے۔ تب انہوں نے جواب دیا۔ عیسیٰ ابن مریم نبی اللہ تو مر گیا  
ہے اب وہ نہیں آئے گا ہم نے اچھی طرح تحقیق کیا ہے کہ مر گیا ہے ہم بادشاہ ہیں جو بوٹ  
نہیں بولیں گے اور کہا کہ جو آسمانوں والے صاحب ہیں وہ کسی کے پاس حل کر نہیں آیا کرتے؟

المفط

میاں کریم بخش بمقام لدھیانہ محلہ اقبال گنج ۱۲ جون ۱۸۹۱ء روز شنبہ

پہلی نسل

۲۶۵

براہین احمدیہ

۲۳۰ اور ظاہر فرماتا ہے اور اُن دقائقِ علمِ الہی کو کہ جو صد ہا دفتروں اور طویل طویل کتابوں میں لکھے گئے تھے اور پھر بھی ناقص اور ناتمام تھے۔ باسٹیفاً تمام لکھتا ہے اور آئندہ کسی عاقل

۲۳۱

لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا

اور کسی نسل کی تبدیل نہ آتے نہیں ہوگی۔ یہی سعادتِ عظمیٰ ہے کہ جو اُن لوگوں کو ملتی ہے کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ خدا اور اُسکے سارے فرشتے اُس نبی کریم پر درود بھیجتے ہیں۔ بس ایسا نثار و تمجید ہی اُس پر درود بھیجو۔ اور نہایت احترام اور محبت سے سلام کرو جو لوگ اللہ اور اُسکے رسول کو دکھ دیتے ہیں اُن پر دنیا اور آخرت میں خدا کی لعنت ہے۔ دنیا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اُن کے برکتوں سے محروم رہیں گے اور آخرت میں یہ کہہ دالت اور امانت کے ساتھ جہنم کے عذاب میں ڈالے جائیں گے۔

۲۳۹

يَا أَحْمَدُ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ- الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ- لِيُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاءَهُمْ وَيَتَسَمَّيْنَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ وَإِنَّا أَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ- قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ

یہ اول تا شب الی اللہ بمرشدی فی الزمان او اول من یؤمن بہن سلام و اللہ اعلم۔

إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. كُلُّ بَرَكَةٍ مِّنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَتَبَارَكَ مَنْ عَلَّمَهُ وَتَعَلَّمَ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ إِجْرَامِي هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ لَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ظَلَمُوا لِيَوْمِهِمْ أَن اسْمُوا بِالْحَقِّ فَنُفِرُوا فِيهِ لِيَأْخُذُوا بِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذُنُوبِهِمْ لَقَدْ يُرِيتُمْ أَنَّا كَفِينَاكَ الْمُشْرِكِينَ. يَقُولُونَ إِنَّا لَمَكْ هَذَا إِنَّا لَمَكْ هَذَا إِنَّ هَذَا الْقَوْلُ الْبَشَرُ أَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخِرُونَ. أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ حَقٌّ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ. جَاهِلٌ أَوْ كَاذِبٌ. قُلْ مَا تَوْابَرَهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. هَذَا مِنْ رَحْمَةِ رَبِّكَ يُتَمِّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ لِيَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ

۵۸-۵۷ : اعراب : ۵۸-۵۷

یہ حوالہ صفحہ 169 پر درج ہے

براہین احمدیہ صفحہ 239 مندرجہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 265 از مرزا قادیانی

سے ایسا فیصلہ مانگ کر ہلاک ہو جاتا ہے تو دوسرا اُسکی کچھ بھی پر واپس نہیں کرتا اور اُس کا قائم مقام ہو کر گستاخی اور بد زبانی شروع کر دیتا ہے بلکہ اُسکے بھی اُسکے بڑے جانتے چنانچہ اب تک بیسیوں ان میں سے ایسے مہلات سے ہلاک ہو چکے ہیں اگر میں سب کے حالات لکھوں تو کئی جزو کتاب کے اسی ذکر میں بھر جائیں میرے بہت دوستوں نے خط لکھے کہ فلاں شخص یکطرفہ مبالغہ کر کے چند روز میں مر گیا۔ اور فلاں شخص نے ہماری جماعت میں سے کسی کے ساتھ مبالغہ کیا تو صبح ہوتے ہی دنیا سے کوچ کر گیا اور بعض نے خود اگر ایسے عجیب نشان بیان کئے چنانچہ کل ۲۸ فروری ۱۹۷۷ء کو بھی چند بہانوں نے حالات مبالغہ کے بیان کئے مگر میں نے اسلئے کہ کتاب بہت بڑھ گئی ہے اور وہ واقعات بھی صرف زبانی ہیں انکا لکھنا غیر ضروری سمجھا معلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے کہ کوئی بھی ان میں سے یہ سوچتا نہیں کہ یہ تائیدات الہیہ کیلئے ہو رہی ہیں کیا کاذبوں و جالوں اور فاسقوں کے یہی نشان ہیں کہ انکے مقابل پر مبالغہ کی حالت میں خداموں منوں متقیوں کو ہلاک کرنا جائے۔ بالآخر یاد ہے کہ اشعار مذکورہ قلمی مصنف کا عکس لیکر اُس کتاب کے ساتھ شامل کر دیا گیا ہے تا محالوں پر اتمام حجت ہو اگر کسی کو انکا ہو کہ یہ اُسکے شعر نہیں ہیں تو اُسکی اس عکسی تحریر کو اُسکی دوسری تحریروں سے ملا سکتا ہے اور اصل میں میرے پاس محفوظ ہے جس کا جی چاہے دیکھ لے اور جس شخص کے ذریعے مجھے یہ تحریر ملی ہے وہ اُس کا شاگرد ہے اور اُس کا نام ہے شیخ محمد ولد علی محمد ساکن ڈیہری والہ ضلع گورداسپور۔

خدا تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اکثر مبالغہ کرنے والے طاعون سے ہی مرے اور اکثر سخت مخالفتوں کا طاعون نے ہی فیصلہ کیا۔ براہین احمدیہ میں طاعون اور زلزلہ کا خدا نے اُس زمانہ میں ذکر کیا ہے کہ جبکہ ان عذابوں کا اِس ملک میں نام و نشان نہ تھا جیسا کہ براہین احمدیہ میں موت کی یہ پیشگوئی ہے کہ لا یصدق التظہیر الاسبغۃ الہلاک۔ اقی امر اللہ فلا تستعجلوا یعنی سفلی آدمی بجز موت کے نشان کے اور کسی نشان کی تصدیق نہیں کرتا انکو کہہ دے کہ وہ نشان بھی یا تو الہی ہے پس تم مجھ سے جلدی مت کرو پس موت کے نشان سے ہی طاعون کا نشان مراد تھا ایسا ہی دوسری جگہ اللہ تعالیٰ براہین احمدیہ میں فرماتا ہے الرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ لَتَنْذِرُنَّ قَوْمًا مَّا

۳۵۳

مندرجہ نشان آسانی استخارہ کریں تو میں آپ کے لئے دعا کروں گا کیا خوب ہو کہ یہ استخارہ میرے برو  
برو ہوتا میری توجہ زیادہ ہو آپ پر کچھ ہی شکل نہیں لوگ معمولی اور نقلی طور پر بیج کرنے کو بھی جانتے  
ہیں مگر اس جگہ نقلی بیج سے ثواب زیادہ ہے اور غافل رہنے میں نقصان اور خطر۔ کیونکہ  
سلسلہ آسانی ہے اور حکم ربانی۔

یعنی خواب اپنی سچائی کے آثار آپ ظاہر کر دیتی ہے وہ دل پر ایک نور کا اثر ڈالتی ہے اور  
بیج آہنی کی طرح اندر کھسک جاتی ہے اور دل اس کو قبول کر لیتا ہے اور اُکی نورانیت اور ہیبت بال بال  
پر طاری ہو جاتی ہے۔ میں آپ سے ہمد کرتا ہوں کہ اگر آپ میرے برو میری ہدایت اور تعلیم کے موافق  
اس کام میں مشغول ہوں تو میں آپ کے لئے بہت کوشش کروں گا کیونکہ میرا خیال آپ کی نسبت بہت نیک  
ہے اور خدا تعالیٰ سے چاہتا ہوں کہ آپ کو ضائع نہ کرے اور شداد و سعادت میں ترقی دے اب میں نے  
آپ کا وقت بہت لے لیا ختم کرتا ہوں۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔

آپ کا مکرر خط پڑھ کر ایک بات کچھ زیادہ تفصیل کی محتاج معلوم ہوئی اور وہ یہ ہے کہ استخارہ  
کیلئے ایسی دعا کی جائے کہ ہر ایک شخص کا استخارہ شیطان کے دخل سے محفوظ ہو۔ عزیز من یہ بات خدا تعالیٰ  
کے قانون قدرت کے برخلاف ہے کہ وہ شیاطین کو ان کے موافق مناسبے معطل کر دیکر اللہ جل شانہ قرآن کریم  
میں فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القوم الشیطان فی امنینہ  
فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیہم حکیم یعنی ہم نے کوئی ایسا رسول  
اور نبی نہیں بھیجا کہ اُنکی یہ حالت ہو کہ جب وہ کوئی تمنا کرے یعنی اپنے نفس سے کوئی بات چاہے تو شیطان  
اُنکی خواہش میں کچھ نہ مانگے یعنی جب کوئی رسول یا کوئی نبی اپنے نفس کے جوش سے کسی بات کو چاہتا ہے تو  
شیطان اس میں بھی دخل دیتا ہے توجہ متلو جو شوکت اور ہیبت اور روشنی نام رکھتی ہے اس دخل کو اٹھا  
دیتی ہے اور نشانہ الہی کو محسوس کر کے دکھلا دیتی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کے دل میں جو  
خیالات اُسٹھے ہیں اور جو کچھ خواہش کے نفس میں پیدا ہوتی ہیں درحقیقت وہ تمام وحی ہوتی ہیں جیسا کہ  
قرآن کریم اس پر شاہد ہے۔ وما یبطق عن الہوی ان ھو الا وحی یوحی لیکن قرآن کریم کی وحی وحی  
وحی سے جو صرف معانی بجانب اللہ ہوتی ہیں نیز کئی رکھتی ہے اور نبی کے اپنے تمام اقوال وحی نیز متلو میں  
داخل ہوتے ہیں کیونکہ روح القدس کی برکت اور چمک پیغمبری کے شامل حال رہتی ہے اور ہر ایک  
بات اُنکی برکت سے بھری ہوئی ہوتی ہے اور وہ برکت روح القدس اس کلام میں رکھی جاتی ہے لہذا ہر ایک

ترجمہ۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے اور وہ کلام جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر ایمان لائے اور وہی حق ہے ایسے لوگوں کے خدا ننا بخش دے گا اور ان کے دلوں کی اصلاح کرے گا۔ اب دیکھو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے جو سے کس قدر خدا تعالیٰ اپنی خوشنودی ظاہر فرماتا ہے کہ ان کے ننا بخشتا ہے اور ان کے تزکیہ نفس کا خود تکفل ہوتا ہے۔ پھر کیسا بد بخت وہ شخص ہے جو کتاب کے مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں اور غرور اور تکبر سے اپنے تئیں کچھ سمجھتا ہے۔ سعدی نے سچ کہا ہے:-

محال دست سعدی کہ راہ صفا تو اس رفت جو در پئے مصطفیٰ  
بر در مژاں شاہ سوئے بنشت حرام دست بر غیر بوئے بنشت

(۱۵) قوله تعالى: المر يعلموا انه من عباد الله ورسوله يدخله نادرا انحالدا فيها  
ذلك الخزي العظيم (الجزء من سورة قومه)

ترجمہ۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ جو شخص خدا اور رسول کی مخالفت کرے خدا اس کو جہنم میں ڈالے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا یہ ایک بڑی رسوائی ہے۔  
اب بتادیں میاں عبدالحکیم قاسم کہ ان کی کیا رائے ہے کیا خدا کے اس حکم کو قبول کریں گے یا باہری سے ان آیتوں کے وعید کو اپنے سر پر لے میں گئے۔

(۱۶) قوله تعالى: واذا اخذ الله ميثاق النبیین لئلا اتیتکم من کتاب و جعلتم  
جاء کذا رسولی مصدقاً لئلا مئکم لتؤمنن به و لتنصرنه و قالوا آخرون نعدوا اخلاصکم  
غدا و بکم اذعوف و قالوا آخرون فاکالنا ظهد و اذ انما مئکم من الشاهدين  
الجزء من ترجمہ۔ اور یاد کر کہ جب خدا نے تمام رسولوں سے عہد کیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور  
حکمت دوں گا اور پھر تمہارے پاس آخری زمانہ میں میرا رسول آئے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق  
کرے گا تمہیں اس پر ایمان لانا ہو گا اور اس کی اعلا کرنی ہو گی اور کیا تم نے قرار کیا اور اس عہد پر



ہو جو علوم اور عقاید صحیحہ سے بے خبری اور ناراست اور بیوقوفانہ باتوں میں مبتلا ہونا ہے تو یہ تو مزاج متقیوں کی صفت کے برخلاف ہے کیونکہ حقیقی تقویٰ کے ساتھ جاہلیت جمع نہیں ہو سکتی حقیقی تقویٰ اپنے ساتھ ایک نور رکھتی ہے جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے یا ایہا الذین امنوا ان تتقوا اللہ يجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم مبینا تکم و يجعل لکم نوراً تمسئون بہ۔ یعنی اے ایمان لانے والو اگر تم متقی ہوئے پر ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کے لئے اتقائے کی صفت میں قیام اور استحکام اختیار کرو تو خدا تعالیٰ تم میں اور تمہارے غیروں میں فرق رکھ دے گا وہ فرق یہ ہے کہ تم کو ایک نور دیا جائیگا جس نور کے ساتھ تم اپنی تمام راہوں میں چلو گے یعنی وہ نور تمہارے تمام افعال اور اقوال اور قوی اور حواس میں آجائیگا تمہاری عقل میں بھی نور ہوگا اور تمہاری ایک انگلی کی بات میں بھی نور ہوگا اور تمہاری

عالم ایک ہی ذات سے صادر ہیں اور اس ذات واحد شریک کلمہ ہی تقاضا ہونا چاہئے کہ دونوں نظام ایک ہی شکل اور طرز پر واقع ہوں تاہم دونوں مل کر نیک ہی خالق اور صانع پر ولایت کیوں کہ توکل فی النظام توحید باری ہو تاہم اس کے مسئلہ کو مؤید ہے جب یہ کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کئی خالق ہوتے تو اس نظام میں باختلاف کثیر یا اجانبہ غرض یہ بات نہایت سیدھی اور صاف ہے کہ ہا ایک اللہ عالم گیر کے لئے ایسے ہی ضروری ہیں جیسے قوی اور جانور و ستیہ نثار انسان کے لئے جو عالم صغیر ہے۔

اگر یہ عرض پیش کیا جائے کہ اگر ملائکہ فی الحقیقت موجود ہیں تو کیوں نظر نہیں

ثم خلقنا النطفة علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاماً فکسرنا العظام لحمًا۔ ثم انشأناہ خلقاً آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یعنی پہلے تو ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا جو زمین کے تمام

اس بات کا ثبوت کہ خدا درمیان زمین و آسمان کو کسی چیز سے جدا کیا

۱۷۷

زنج رہیں بلکہ اس جگہ زمین سے مراد زمین کے رہنے والے ہیں اور یہ عام محاورہ ہے کہ سرانِ شریف کا  
 ہے کہ زمین کے لفظ سے انسانوں کے دل اور ان کے باطنی قومی مراد ہوتی ہیں جیسا کہ اللہ جل جلالہ ایک  
 جگہ فرماتا ہے اعلیٰ ان اللہ یعنی اللہ عزوجل بعد موتہ اور یہ ہے کہ فرماتا ہے۔ البسملہ مطیب بخروج  
 نبی اللہ باذن ربہ والذی نبی اللہ عزوجل بعد موتہ اور یہ ہے کہ فرماتا ہے۔ البسملہ مطیب بخروج  
 مت میں جو پڑھے والوں پر پوشیدہ نہیں ماسوا اس کے روحانی واقفوں کا ظاہر ہونا اور ان کے ساتھ  
 فرشتوں کا آنا ایک روحانی قیامت کا نونہ ہوتا ہے جس سے مردوں میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے درجہ  
 قبول کے اندر میں وہ باہر آجاتے ہیں اور نیک اور بد لوگ اپنی منزلت پر پالیتے ہیں سو اس سورۃ الزلزال کو قیامت  
 کے آثار میں سے قرار دیا جائے تو اس میں بھی شک نہیں کہ ایسا وقت روحانی طور پر ایک قسم کی قیامت  
 ہوتی ہے خدا نے تعالیٰ کے نام سے قیامت بندے قیامت ہی کا روپ بن کر آتے ہیں اور انہیں کا وجود قیامت  
 کے نام سے موسوم ہو سکتا ہے جبکہ آنے سے روحانی مردے زندہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور نیز اس  
 میں بھی کچھ شک نہیں کہ جب ایسا زمانہ آجائے گا کہ تمام انسانی طاقتیں اپنے کمالات کو ظاہر کر دکھائیں گی  
 اور جس حد تک بشری محول اور افکار کا پرواز ممکن ہے اس حد تک وہ پہنچ جائیں گی اور جن نئی حقیقتوں  
 کو ابتدا سے ظاہر کرنا مقدر ہے وہ سب ظاہر ہو جائیں گی تب اس عالم کا دائرہ پورا ہو کر ایک دفعہ  
 اس کی صف پیٹ دی جائے گی۔

کُلُّ شَيْءٍ ذَرٌّ وَيُؤْتِي بَعْضُهُ بَعْضًا وَجَدَّالٌ الْاِكْرَامِ

بقیہ... حاشیہ... کے لیے دمشق میں اس عاجز کو اتار بطرف شرقی عند المنارة ایضاً  
 من المسجد البذی من دخله کان آمناً تبارک الذی انزل فی ہذا المقام والسلام علی رسولہ  
 افضل الرسل وخیر الانام۔ منہ

نقل: ایشیل بدلول

حصہ اول

فہمیں ایک نئے اور زیادہ نئے سے قبول کیا کہیں قبول کیا اور بڑے اور بڑے سے قبول کیا چنانچہ ظاہر ہے کہ...

# ازالہ وصال

فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ

الحمد والمنةت کہ بہاہ مبارک ذمہ الحجۃ ۱۳۰۸ء کتاب  
جامع مغارف قرآنی و شارح اسرار کلام ربانی از  
تالیفات مرسل یزدانی و مامور رحمانی حضرت  
جناب میرزا غلام احمد صاحب قادیانی

پہلے نام دہی شیخ نور احمد مالک مطبع ریاض ہند مطبعہ جوگر وید

قیمت فی جلد ۸ روپے

تعداد جلد ۱۰۰

یہ حوالہ صفحہ 173 پر درج ہے

ازالہ اوہام، سرورق، مندرجہ روحانی خزائن، جلد 3، صفحہ 101 از مرزا قادیانی

براہین احمدیہ

۵۸۰

پہلی فصل

قبول کر لیتے جو ببا عت تعلیم توحید کے تمام مشرکین کو برا معلوم ہوتا تھا اور اس کے قبول کرنے والے ہر وقت چاروں طرف سے معرض ہلاکت اور بلا میں تھے پس جس چیز نے ان کے دلوں کو اسلام کی طرف پھیرا وہ یہی بات تھی جو انہوں نے آنحضرت کو محض اُمتی اور سرِ اِپا مؤید من اللہ پایا اور قرآن شریف کو بشری طاقتوں سے بالاتر دیکھا اور پہلی کتابوں میں اس آخری نبی کے آنے کے لئے خود بشارتیں پڑھتے تھے سو خدا نے ان کے سینوں کو ایمان لانے کے لئے کھول دیا۔ اور ایسے ایماندار نکلے جو خدا کی راہ میں اپنے خونوں کو بہایا اور جو لوگ عیسائیوں اور یہودیوں اور عربوں میں سے نہایت درجہ کے جاہل اور شریر اور

عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ لکھا۔ کیونکہ امر مجازات مالکِ یوم الدین کے متعلق ہے۔ سو ایسا فقرہ جس میں طلب انعام اور عذاب سے بچنے کی درخواست ہے اسی کے نیچے رکھنا موزوں ہے۔

چوتھا لطیفہ یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ مجمل طور پر تمام مقاصد قرآن شریف پر مشتمل ہے گویا یہ سورۃ مقاصد قرآن کا ایک ایجاز لطیف ہے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے اِنَّا اَنْشَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَشَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ یعنی ہم نے تجھے اسے رسول سات آیتیں سورۃ فاتحہ کی عطا کی ہیں جو مجمل طور پر تمام مقاصد قرآن پر مشتمل ہیں اور ان کے مقابلہ پر قرآن عظیم بھی عطا فرمایا ہے جو مفصل طور پر مقاصد دینیہ کو ظاہر کرتا ہے اور اسی جہت سے اس سورۃ کا نام

ساتھ ہیں جیسے وہ میرے ساتھ ہیں۔ ہو گا ضمیر واحد بتا دے مافی السموات والارض ہے۔ اور ان کلمات کا حاصل مطلب تلفقات اور برکات الہیہ ہیں جو حضرت خیر الرسل کی متابعت کی برکت سے ہر ایک کامل مومن کے شامل حال ہوجاتی ہیں اور حقیقی طور پر مصداق ان سب عنایات کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور دوسرے سب طفیلی ہیں۔ اور اس بات کو ہر جگہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ایک صرح و شہادہ جو کسی مومن کے

یہ حوالہ صفحہ 173 پر درج ہے

براہین احمدیہ صفحہ 580 مندرجہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 558 از مرزا قادیانی

۶۲۵	اَشْهَدُ بِاَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا	آریہ سماج ۱۔
۱۵۱	اِنَّ اللّٰهَ نُوْرٌ سَطُوْعٌ وَّالْاَرْضُ	۱۔ آریہ سماج کا ذکر اور ان کا عقیدہ پر پیشہ کے متعلق۔ ص ۱۵۱
۱۵۹	الْحَمَلُ اللّٰهُ الَّذِيْ هَدٰ اَنَا	۲۔ آریہ سماج کا عقیدہ کہ کون کون سے واجب الوجود اور موجود۔ پوجہ کیسے ہے۔ ص ۱۵۹
۲۲۰	الْخَبِيْثَاتِ لِلتَّحْبِيْثِيْنَ	۳۔ ان کا عقیدہ کہ صرف دیدہ ہی خدا کا کلام ہے اور آریہ فرقہ کے تعصب اور بدذہابی کا ذکر
۵۶۱	الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَّلَمْ يَلْبَسُوْا	۹۲
۵۶۲	الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ	۴۔ ان کے نزدیک سب نیک تو خدا کا بندہ سمجھتے اور مغز کا تھے۔ ص ۵۶۲
۱۴۲	السَّمِ بِرَبِّكُمْ	۵۔ نیک خلق جو نیابت اور سعادت کا مہیا ہے فرقہ کو مہیا ہے۔ ص ۹۶
۵۶۵	الْمُتَوَلٰى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا	آزادی:-
۲۸۵	الْمَا تَعْلَمُوْنَ اِنَّ اللّٰهَ	حقیقی آزادی یعنی غلطی اور شکوک و شبہات سے نہات پاک فقیہ کامل تک پہنچنا اور اپنے مولا کو کسی دنیا میں دیکھ لینا دنیا میں کامل اور خدا دست مسلمانوں کو بدیہ قرآن شریف حاصل ہے اور عزیزین کے کسی برہم و غیرہ کو حاصل نہیں۔ ص ۲۸۵ و ۲۸۶
۱۹۰	اِنَّمَّ ذٰلِكَ الْكُتُبِ	آیات قرآنیہ:-
۶۲۱	اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰهٗ	اَتَّخَذَ رَاٰحِبًا رَہْمَ
۶۱۲	اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ	اَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ نَجْمٌ فِي الْاَرْضِ
۵۵۸	اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ سَبْعًا	اِنَّ اللّٰهَ يَجْعَلُ الْحَيٰثَ كَمَا يَشَاءُ
۶۱۵	اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ	اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
۱۹۶	اِنَّا جَعَلْنَاهُمْ اَعْلٰى الْاَرْضِ	وَالَّذِيْنَ هٰجَرُوْا
۲۳۹	اِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ	اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ
۲۹۵	اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ الْاَعْلٰى	اِنَّ اللّٰهَ يَجْعَلُ الْحَيٰثَ كَمَا يَشَاءُ
۲۸۶	اِنَّكَ لَعَلٰى خَلْقٍ	۱۸۶ و ۲۸۷
۲۰۲	اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ	۲۰۲ و ۲۰۳
۲۲۹	اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا	
۵۵۷	اِنَّ الَّذِيْنَ هٰجَرُوْا	
۵۶۸	اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ	
۵۶۸	اِنَّ اللّٰهَ يَجْعَلُ الْحَيٰثَ كَمَا يَشَاءُ	

ع۔ قرآن کی یہ تعلیم ہو کہ یہ بہتان مکاری کیڑے اتار لیں ہیں نے بڑی صاحب کے قول سے ایسا سمجھا ہے۔  
 غ۔ اگر یہی تعلیم ہو تو آیت قرآن شریف کی پیش کیجئے بلکہ جنہوں نے تلواروں سے قتل کیا وہ تلواروں  
 سے بھی مائے گئے۔ جنہوں نے ناحق غریبوں کو لوٹا وہ لوٹے گئے جیسا کیا ویسا پایا بلا آنکے ساتھ  
 بہت زرمی کا برتاؤ ہوا جس پر آج اعتراض کیا جاتا ہے کہ کیوں ایسا برتاؤ ہوا سب کو قتل کیا ہوتا ہے  
 ع۔ قرآن نے جائز رکھا کہ خوفزدہ ایمان کا اظہار نہ کرے۔

غ۔ اگر قرآن کی یہی تعلیم ہو تو پھر اسی قرآن میں یہ حکم کیوں ہے۔ ان یجاہدوا فی سبیل اللہ  
 باموالکم و انفسکم (سورۃ توبہ رکوع ۶) اور کانتم بنیان مرصوص ۲۵ اور یہ کہ ولا  
 یخشون احدا الا اللہ ۲۲ اصل بات یہ ہے کہ ایمانداروں کے مراتب ہوتے ہیں جیسا کہ  
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو منہم ظالم لنفسہ و منہم مقتصد و منہم سابق بالخیرات ۲۲ یعنی  
 بعض مسلمانوں میں سو ایسے ہیں جن پر نفسانی جذبات غالب ہیں اور بعض درمیانی حالت کے ہیں  
 اور بعض وہ ہیں کہ انتہا رکمالات ایمانیہ تک پہنچ گئے ہیں پھر اگر اللہ تعالیٰ نے برعایت اس  
 طبقہ مسلمانوں کے جو ضعیف اور بزدل اور ناقص الایمان ہیں یہ فرما دیا کہ کسی جان کے خطرہ کی  
 حالت میں اگر وہ دل میں اپنے ایمان پر قائم رہیں اور زبان سے گو اس ایمان کا اقرار نہ کریں  
 تو ایسے آدمی معذور سمجھے جاویں گے مگر ساتھ اسکے یہ بھی نو فرما دیا کہ وہ ایماندار بھی ہیں کہ بہادری  
 سے دین کی راہ میں اپنی جانیں دیتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے اور پھر پولوس کا حال آپ پر  
 پوشیدہ نہیں جو فرماتے ہیں کہ میں یہودیوں میں یہودی اور غیر قوموں میں غیر قوم ہوں اور  
 حضرت پطرس صاحب نے بھی مخالفوں سے ڈر کر تین مرتبہ انکار کر دیا۔ بلکہ ایک دفعہ نقل کفر  
 کفر نباشد۔ حضرت مسیح پر لعنت بھیجی اور اب بھی میں نے تحقیقاً سنا ہے کہ بعض انگریز  
 اسلامی ملکوں میں بعض مصالحہ کیلئے جا کر اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرتے ہیں +

ع۔ قرآن میں لکھا ہے کہ ذوالقرنین نے آفتاب کو طول میں غروب ہوتے پایا۔

غ۔ یہ صرف ذوالقرنین کے وجدان کا بیان ہے آپ بھی اگر جہاز میں سوار ہوں تو آپ کو بھی

کہ ایک شخص کو منس پرورد خدا بنایا گیا ہے جس کی چالیس کروڑ آدمی پرستش کر رہے ہیں۔ تب اس نے مجھے ایسے زمانہ میں بھیجا کہ جب اس عقیدہ پر غلو اتنا تک پہنچ گیا تھا اور تمام نبیوں کے نام میرے نام رکھے مگر مسیح ابن مریم کے نام سے خاص طور پر مجھے مخصوص کر کے وہ میرے پر رحمت اور عنایت کی گئی جو اس پر نہیں کی گئی۔ لوگ سمجھیں کہ فضل خدا کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اگر تیرا اپنی طرف سے یہ باتیں کرتا ہوں تو جھوٹا ہوں لیکن اگر خدا میری نسبت اپنے نشاؤں کے ساتھ گواہی دیتا ہے تو میری تکذیب تقویٰ کے بر خلاف ہے اور جیسا کہ انبیاء نبی نے بھی لکھا ہے۔ میرا خدا کے کمال جلال کے غلو کا وقت ہے اور میرے وقت میں فرشتوں اور شیاطین کا آخری جنگ ہے۔ اور خدا اس وقت وہ نشان دکھائیگا جو اس نے کبھی دکھائے نہیں گویا خدا زمین پر خود اتر آئیگا جیسا کہ وہ فرماتا ہے یوم یاتی ربک فی ظلل من الخمام یعنی اس دن بادلوں میں تیرا خدا آئیگا یعنی انسانی بنظر کے ذریعہ سے اپنا جلال ظاہر کرے گا اور اپنا چہرہ دکھائیگا۔ کفر اور شرک نے بہت غلبہ کیا اور وہ خاموش رہا اور ایک معنی خیز اور ان کی طرح ہو گیا اب چونکہ شرک اور انسان پرستی کا غلبہ کمال تک پہنچ گیا اور اسلام اس کے پاؤں کے نیچے پکڑا گیا اسلئے خدا فرماتا ہے کہ میں زمین پر نازل ہونگا اور وہ تیری نشان دکھلاؤنگا کہ جسے منس آدم پیدا ہوئی ہے کبھی نہیں دکھلائے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ مدافعت بقدر حملہ دشمن ہوتی ہے پس جس قدر انسان پرستیوں کو شرک پر غلو ہے وہ غلو بھی اتنا تک پہنچ گیا ہے اسلئے اب خدا آپ لڑائیگا وہ انسانوں کو کوئی تلوار نہیں دینگا اور نہ کوئی تہاد ہوگا یا اپنا ہاتھ دکھائیگا بیٹھیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مسیح ظاہر ہوں گے اور آخری مسیح جس سے اس زمانہ کا مسیح مراد ہے، اپنے مسیح سے افضل ہوگا۔ اور عیسائی ایک ہی مسیح کے قائل ہیں مگر کہتے ہیں کہ وہی مسیح ابن مریم جو پہلے ظاہر ہوا آمد ثانی میں بڑی قوت اور جلال کے ساتھ ظاہر ہوگا اور دنیا کے فرقوں کا فیصلہ کریگا اور کہتے ہیں کہ اس قدر جہوں کے ساتھ ظاہر ہوگا کہ اول کو اس سے کچھ نسبت نہیں۔

بہر حال یہ دونوں فرقے قائل ہیں کہ آئیوا مسیح جو آخری زمانہ میں آئے گا اپنے

تسلی دے رہی ہے اور ہزار ہا خدا کی گواہیاں اور فوق العادہ نشان اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ خدا تعالیٰ کے کام مصلحت اور حکمت سے خالی نہیں۔ اُس نے دیکھا کہ ایک شخص کو محض بے وجہ خدا بنا لیا گیا ہے جس کی چالیس کروڑ آدمی پرستش کر رہے ہیں۔ تب اُس نے مجھے ایسے زمانہ میں بھیجا کہ جب اس عقیدہ پر غلو انتہا تک پہنچ گیا تھا اور تمام نبیوں کے نام میرے نام رکھے مگر مسیح ابن مریم کے نام سے خاص طور پر مجھے مخصوص کر کے وہ میرے پر رحمت اور عنایت کی گئی جو اُس پر نہیں کی گئی تا لوگ سمجھیں کہ فضل خدا کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اگر میں اپنی طرف سے یہ باتیں کرتا ہوں تو جھوٹا ہوں لیکن اگر خدا میری نسبت اپنے نشانوں کے ساتھ گواہی دینا ہے تو میری تکذیب تقویٰ کے برخلاف ہے۔ اور جیسا کہ دانیال نبیؑ بھی لکھا ہے میرا آنا خدا کے کامل جلال کے ظہور کا وقت ہے۔ اور میرے وقت میں فرشتوں اور شیاطین کا آخری جنگ ہے۔ اور خدا اس وقت وہ نشان دکھائیگا جو اُس نے کبھی دکھائے نہیں گویا خدا زمین پر خود اتر آئیگا جیسا کہ وہ فرماتا ہے هل ينظرون الا ان ياتيهما الله في ظلال من الغمام یعنی اُس دن بادلوں میں تیرا خدا آئے گا یعنی انسانی منظر کے ذریعے اپنا جلال ظاہر کر لگا اور اپنا چہرہ دکھائیگا۔ کفر اور شرک نے بہت غلو کیا اور وہ خاموش رہا اور ایک مخفی خزانہ کی طرح ہو گیا۔ اب چونکہ شرک اور انسان پرستی کا غلبہ کمال تک پہنچ گیا اور اسلام اسکے پاؤں کے نیچے کچلا گیا اس لئے خدا فرماتا ہے کہ میں زمین پر نازل ہونگا اور وہ قہری نشان دکھلاؤنگا جیسے نسل آدم پیدا ہوئی ہے کبھی نہیں دکھلائے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ واقعت بقدر حملہ دشمن ہوتی ہو پس جس قدر انسان پرستوں کو شرک پر غلو ہے وہ غلو بھی انتہا تک پہنچ گیا ہے۔ اس لئے اب خدا آپؐ کو لگاؤ و انسانوں کو کوئی تلوار نہیں دیکھا اور نہ کوئی جہاد ہو گا بلکہ اپنا ہاتھ دکھائیگا یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ دوسرا ظاہر ہونگے اور آخری مسیح (جس سے اس زمانہ کا مسیح مراد ہے) پہلے مسیح اخصل ہوگا۔ اور عیسائی ایک ہی مسیح کے قائل ہیں مگر کہتے ہیں کہ پہلا مسیح ابن مریم جو پہلے ظاہر ہوا آدنیثانی میں بڑی قوت اور جلال کے ساتھ ظاہر ہوگا اور دنیائے کے فرقوں کا فیصلہ کرے گا۔ اور کہتے ہیں کہ اس قدر جلال کے ساتھ ظاہر ہوگا کہ آسمانوں کا لٹل لٹل کر اس کے نسبت نہیں۔



نے منع کیا ہے اور اسی کتاب کا پابند رہتا ہے جو اس کے شارع نے دی ہے تو

برخلاف قسم دوم کے کہ اس میں انہماک جائز ہے اور جب تک ولایت کسی ولی کی قسم سوم تک نہیں پہنچتی عارضی ہے اور خطرات امن میں نہیں۔ وجہ یہ کہ جب تک انسان کی سرشت میں خدا کی محبت اور اس کے غیر کی عداوت داخل نہیں تریب کچھ رنگ ریشہ ظلم کا نہیں باقی ہو کیونکہ اس نے حق ربوبیت کو

۵۰۵

خَلَقَ آدَمَ فَأَكْرَمَهُ - پیدا کیا آدم کو پس اکرام کیا اس کا۔ جَدِّيَ اللَّهُ فِي حُلِيِّ الْأَنْبِيَاءِ

جدی اللہ نبیوں کے حُلّوں میں۔ اس فقرہ الہامی کے یہ معنی ہیں کہ منصب لہرت اور

ہدایت اور مورد وحی الہی ہونے کا دراصل محلہ انبیاء ہے اور ان کے غیر کو بطور مستعار

منا ہے اور یہ محلہ انبیاء اُمتِ محمدیہ کے بعض افراد کو بغرض تکمیل ناقصین عطا ہوتا ہے

اور اسی کی طرف اشارہ ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عَلَمَاءُ أُمَّتِي

كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ پس یہ لوگ اگرچہ نبی نہیں پر نبیوں کا کام ان کو سیر

کیا جاتا ہے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ فَأَنفَذْنَا لِكُلِّ مَنَّهُا - اور تمھے تم ایک

گڑھے کے کنارہ پر سو اس سے تم کو خلاصی بخشتی یعنی خلاصی کا سامان عطا فرمایا

عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ عَلَيْكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عَدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ

لِلْكَافِرِينَ حَصِيدًا خدائے تعالیٰ کا ارادہ اس بات کی طرف متوجہ ہے جو آپ

رحم کرے۔ اور اگر تم نے گناہ اور سرکشی کی طرف رجوع کیا تو ہم بھی سزا اور عقوبت کی

طرف رجوع کریں گے اور ہم نے جہنم کو کافروں کیلئے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ یہ آیت اس

مقام میں حضرت مسیح کے جلالی طور پر ظاہر ہونے کا اشارہ ہے یعنی اگر طریق رفیع اور

نرمی اور لطف احسان کو قبول نہیں کریں گے اور حق محض جو دلائل واضح اور آیات باری

سے نقل گیا ہے۔ اس سے سرکش رہیں گے۔ تو وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ جب

خدائے تعالیٰ جبر میں کے لئے شدت اور عنف اور قہر اور سختی کو استعمال میں لائیں گا اور

حضرت مسیح غیر التسم نہایت جلالیت کے ساتھ دنیا پر اتریں گے اور تمام راہوں اور

[

]

اور تو میرا سب سے بڑا نام ہے۔ تجھے ان دنوں میں خوشخبری ہو۔ اسے ابراہیم! تو مجھ سے ہے۔ تو خدا کے نفس پر قائم ہے۔ زندہ خدا کا منظر۔ اور تو مجھ سے امر مقصود کا بندو ہے اور تو ہمارے پانی سے ہے اور دوسرے لوگ نسل سے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک بڑی جماعت میں انتقام لینے والے۔ یہ سب بھاگ جائیں گے اور پیٹھ پھیر لیں گے۔ وہ خدا قابل تعریف ہے جس نے تجھے دامادی اور آبائی عزت بخشی۔ اپنی قوم کو ڈرا اور کہہ کہ میں خدا کی طرف سے ڈرانے والا ہوں۔ ہم نے کئی کھیت تیرے لئے تیار کر رکھے ہیں اسے ابراہیم! اور لوگوں نے کہا کہ ہم تجھے ہلاک کرینگے مگر خدا نے اپنے بندہ کو کہا کہ کچھ خوف کی جگہ نہیں۔ میں اور میرے رسول غالب ہونگے۔ اور میں اپنی فوجوں کے ساتھ عنقریب آؤں گا۔ میں ہمدرد کی طرح موج زنی کرونگا خدا کا فضل آنے والا ہے اور کوئی نہیں جو اس کو رد کر سکے اور کہہ خدا کی قسم یہ بات سچ ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوگی اور نہ وہ چھپی رہے گی اور وہ امر نازل ہو گا جس سے تو تعجب کرے گا۔ یہ خدا کی وحی ہے جو اونچے آسمانوں کا بنانے والا ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہر ایک چیز کو جانتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اور وہ خدا ان کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور نیکی کو نیک طور پر ادا کرتے ہیں اور اپنے نیک عملوں کو خوبصورتی کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ وہی ہیں جن کے لئے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور دنیا کی زندگی میں بھی ان کو بشارتیں ہیں تو نبی کی کناد طافت میں پرورش پا رہا ہے اور میں ہر حال میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور پھر فرمایا :-

قالوا ان هذا الا تخلاق۔ ان هذا الرجل مجوح الدين۔ قل جاء حق و نزہق الباطل۔ قل لو كان الامر من عند غير الله لوجنتم فيه اختلافا كثيرا۔ هو الذي ارسل رسولا بالهدى ودين الحق و تهذيب الاخلاق۔ قل ان افتريتہ فعلی اجرامی۔ ومن اظلم

وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفر والى يوم القيمة. انك اليوم  
 لدينا مكين امين. انت متى بمنزلة توحيدى وتفريدى ثعان ان تعان و  
 تعرفت بين الناس ويعلمك الله من عنده تقيم الشريعة. وتحي الدين  
 انا جعلناك المسيح بن مريم. والله يعصمك من عنده ولولم يعصمك  
 الناس. والله ينصرك ولولم ينصرك الناس. الحق من ربك فلا تكونن من  
 الممترين. يا احمدى انت مرادى ومعنى. انت وجهه فى حضرتى. اخترتك  
 لنفسى. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم و  
 رحم عليكم وهو ارحم الراحمين. هذه نبذة من الهاماتى. ومن جملتها الهام  
 انا جعلناك المسيح بن مريم. والله قد كنت اعلم من ايام مديدة  
 اننى جعلت المسيح ابن مريم وانى نازل فى منزله ولكن اخفيتة نظراً  
 الى تاييله. بل ما بدلت عقيدتى وكنت عليها من المستمسكين وتوقفت  
 فى الاظهار عشر سنين. وما استعجلت وما بادرت وما اخبرت حبا ولا  
 عدوا ولا احداً من الحاضرين. وان كنتم فى شك فاسئلوا علماء الهند  
 كم مضت من مدة على الهامى. يا عيسى انى متوفيك. اواتى والبراهمين  
 وكنت انتظر الخيرة والرضاء و امر الله تعالى حتى تكر ذلك  
 الالهام. ورفع الظلام. وتواتر الاعلام. وبلغ الى عنده يعلمها  
 رب العلمين. وخطبت للاظهار بقوله. فاصدع بما توهم. وظهرت  
 علامات تعرفها حاسة الاولياء. وعقل ارباب الاصطفاء وجلى الصبح  
 واكد الامر. وشرح الصدر. واطمان الجنان. وافق القلب. وتبين انه

الحمد لله الذي جعل لكم الصبر والنسب الحمد لله الذي اذهب

عن خدا کو تعریف میں جو جتنی دانا دی اور نسب کی شے تیرے پر احسان کیا۔ اس خدا کو تعریف ہے جس نے میرا

عني الحزن واثاني ما لم يوث احد من العالمين. ليس انك

غم دور کیا۔ اور مجھ کو وہ چیز دی جو اس زمانہ کے لوگوں میں ہو کسی کو نہیں دیا گئی۔ میرے سردار تو خدا کا

لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم اريد

مُرسل ہے۔ اور خدا کی طرف سے جو غالب اور حکم کرنے والا ہو جس نے میرا

ان استخلف فخلقت آدم يحيى الدين و يقيد الشريعة.

کیا کہ اس زمانہ میں اپنا خلیفہ مقرر کر دیا سو میں آدم کو پیدا کیا۔ وہ دین کو زندہ کرے گا اور شریعت کو قائم کرے گا۔

چودہویں خسروی آغاز کر دند۔ مسلمان را مسلمان باز کر دند

جب مسیح السلطان کا دور شروع کیا گیا تو مسلمانوں کو جو معرفت رکھتے تھے ان سے مسلمان بننے لگے

ان السموات والارض كانتا رتقا ففتقنهما. قرب اجلك

آسمان اور زمین ایک گھٹی کی طرح تھیں جو ہم نے ان کو کھول دیا یعنی زمین اپنی پوری قوت لگا کر آسمان سے اب تیار وقت

المقدر ان ذا العرش يدعوك. ولا يبق لك من الخزيات

موت قریب آگیا۔ اور وہ العرش تجھے بلاتا ہے اور تم تیرے لئے کوئی رسوا کنندہ امر نہیں چھوڑیں گے

ذكر ان قد ميعاد ربك ولا يبق لك من الخزيات شيئا

تیرے رب کا وعدہ کم رہ گیا ہے اور تم تیرے لئے کوئی امر رسوا کنندہ بات نہیں چھوڑیں گے۔

بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں اس دن خدا کی طرف سے

سب پر اوو اسی چھا جائے گی۔ یہ ہوگا۔ یہ ہوگا۔ یہ ہوگا۔

کسی انتہات کے تجاوز کے بعد

اور اس دن سب جہانوں کے پتھر پھولیں گے۔

اور اس دن سب جہانوں کے پتھر پھولیں گے۔

اور اس دن سب جہانوں کے پتھر پھولیں گے۔

اور اس دن سب جہانوں کے پتھر پھولیں گے۔

اور اس دن سب جہانوں کے پتھر پھولیں گے۔

اور اس دن سب جہانوں کے پتھر پھولیں گے۔

حالاً مکروہ بجائے خود اپنے تئیں معذور سمجھتے تھے کیونکہ ان کی بائبل کے ظاہری الفاظ پر نظر تھی۔ افسوس کہ ہمارے مسلمان بھائی بھی اسی گرداب میں پڑے ہوئے ہیں اور حضرت مسیح کی نسبت یہودیوں کی طرح ان کے دلوں میں بھی یہی خیال جما ہوا ہے کہ ہم انہیں صحیح آسمان پر اترتے دیکھیں گے اور یہ عجوبہ ہم بچشم خود دیکھیں گے کہ حضرت مسیح زرد رنگ کی پوشاک پہنے ہوئے آسمان سے اترتے چلے آئے ہیں اور انہیں بائبل فرشتے ان کے ساتھ ہیں اور تمام بزاری لوگ اور رہات کے آدمی ایک بڑے میلہ کی طرح اکٹھے ہو کر دُور سے ان کو دیکھ رہے ہیں اور

یہ اختلافاً کثیراً۔ قل لو اتبع الله اھواءکم لفسدت السموات والارض  
من فیہن ولبطلت حکمتہ وحان الله عزیزاً حکیماً۔ قل لو کان البحر  
مداً لاجمات ربی لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثلاً  
مدداً۔ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یمحبکم الله وکان الله غفوراً  
رحیماً پھر اس کے بعد الہام کیا گیا کہ ان علماء نے میرے گھر کو بدل ڈالا۔ میری عبادت گاہ

میں ان کے چولے ہیں میری پرستش کی جگہ میں ان کے پیالے اور ٹھٹھیاں رکھی ہوئی ہیں اور  
جو ہوں کی طرح میرے نبی کی حدیثوں کو کتر رہے ہیں رٹھو ٹھیاں وہ چھوٹی بیاباں ہیں جن کو ہندوستان  
میں گوریاں کہتے ہیں۔ عبادت گاہ سے مراد اس امام میں زمانہ حال کے اکثر مولویوں کے دل ہیں جو دنیا سے  
بھرے ہوئے ہیں اس جگہ مجھے یاد آیا کہ جس روز وہ الہام مذکورہ بلا جسد میں قادیان میں نازل ہوئے کہ  
دیکھو پتا تھا اس روز کشتی طور پر میں نے دیکھا کہ میرے بھائی صاحب جمہوم میرزا غلام قادر میرے  
قریب بیٹھ کر آواز بلند قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے بان فقرات کو پٹھا کر  
انا انزلنہ قریباً من القادیاں تو میں نے شکر بت سمجھا کیا کہ کیا قادیان کا نام بھی قرآن شریف  
میں لکھا ہوا ہے؟ تب انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو کھا ہوا ہے تب میں نے نظر ڈال کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ  
فی الحقیقت قرآن شریف کے دائیں صفحہ میں قادیان قریب نصف کے قریب یہی الہامی عبارت لکھی ہوئی موجود  
ہے تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ ان واقعی طور پر قادیان کا نام قرآن شریف میں درج ہے اور میں نے کہا  
کہ تمی شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے کہ اور مدینہ اور قادیان یکثرت تھا

پہلی فصل

۵۹۳

براہین احمدیہ

۴۹۹

تمہید ہشتم۔ جو امر خارق عادت کسی ولی سے صادر ہوتا ہے وہ حقیقت میں اس قبوع کا معجزہ ہے جس کی وہ اُمت ہے اور یہ بدیہی اور

۴۹۹

کہ تو در مطلق کہ جس کے علم قدیم سے ایک ذرہ مخفی نہیں اور جس کی طرف کوئی نقصان اور حیران عاید نہیں ہو سکتا۔ اور جو ہر ایک قسم کے جہل اور اُلودگی اور ناتوانی اور غم اور حزن اور درد اور رنج اور گرفتاری سے پاک ہے وہ کیوں کر اس چیز کا عین ہو سکتا ہے کہ جو

برجہ یقین کامل پہنچ کر منکر میں پھر بعد اسکے فرمایا۔ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُوْنَ۔ وَ بِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ ذِكْرًا حَقًّا نَّبِّئُكَ۔ صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَ كَانَ اَمْرُ اللهِ مَفْعُوْلًا۔ یعنی ہم نے ان نشانوں اور عجائبات کو ائمہ نیز اس الہام پر از معارف و حقائق کو قادیان کے قریب اُتارا ہے اور ضرورتِ حقہ کے ساتھ اُتارا ہے اور بضرورتِ حقہ اُتارا ہے۔ خدا اور اُسکے رسول نے تیردی تھی کہ جو اپنے وقت پر پوری ہوئی اور جو کچھ خدا نے چاہا تھا وہ ہونا ہی تھا۔ یہ آخری فقرات اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس شخص کے ظہور کیلئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث متذکرہ بالا میں اشارہ فرما چکے ہیں اور خدا نے تعالیٰ اپنے کلام مقدس میں اشارہ فرما چکا ہے چنانچہ وہ اشارہ صحتِ سوم کے الہامات میں بھی ہو چکا ہے اور فرقانی اشارہ اس آیت میں ہے هُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدٰى وَ دِيْنٍ اَلْحَقِّ لِيُظْهِرَ لَعَلَّ عَلَى الدِّيْنِ كَلِمًا۔ یہ آیت جسمانی اور سیاستِ ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیشگوئی ہے اور جس غلبہ کاملہ دینِ اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا۔ اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دینِ اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔ لیکن اس عاجز نے خاطر کیا گیا ہے کہ یہ ٹھاکسا اور اپنی غربت اور انکسار اور توکل اور ایثار اور آیات اور اذکار کے رُوسے مسیح کی پہلی زندگی کا نمونہ ہے اور اس عاجز کی فطرت اور مسیح کی فطرت باہم نہایت ہی متشابه واقع ہوئی ہے تو یا ایک ہی جوہر کے دو ٹکڑے یا ایک ہی درخت کے دو پھل ہیں اور بحدی اتحاد ہے کہ نظر کشفی میں نہایت ہی باریک امتیاز ہے اور نیز ظاہری طور پر

کے الصفحہ : ۱۰

یہ حوالہ صفحہ 178 پر درج ہے

براہین احمدیہ صفحہ 571 مندرجہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 593 از مرزا قادیانی

باوا صاحب کے ہاتھوں کی یاد گار ہے۔ اور گرتھ کے شدت تو بہت پیچھے سے اکٹھے کئے گئے ہیں۔ جس میں محققوں کو بہت کچھ کلام ہے۔ خدا جانے اس میں کیا کیا تصرفات ہوئے ہیں۔ اور کن کن لوگوں کے کلام کا ذخیرہ ہے۔ خیر یہ قصہ اس جگہ کے لائق نہیں ہے۔ ہمارا اصل مطلب یہ ہے کہ بنی نوع انسان کا ایمان تازہ رکھنے کیلئے تازہ الہامات کی ہمیشہ ضرورت ہے۔ اور وہ الہامات اقتداری قوت سے شناخت کئے جاتے ہیں۔ کیونکہ خدا کے سوا کسی شیطان جن بھوت میں اقتداری قوت نہیں ہے۔ اور امام الزمان کے الہام سے باقی الہامات کی صحت ثابت ہوتی ہے۔

ہم بیان کر چکے ہیں کہ امام الزمان اپنی جبلت میں قوت امامت رکھتا ہے اور دست قدرت نے اسکے اندر پیشرو کی کا خاصہ پھونکا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ سنت اللہ ہے کہ وہ انسانوں کو متفرق طور پر چھوڑنا نہیں چاہتا۔ بلکہ جیسا کہ اُس نے نظام شمسی میں بہت سے ستاروں کو داخل کر کے سورج کو اس نظام کی بادشاہی بخشی ہے۔ ایسا ہی وہ عام مومنوں کو ستاروں کی طرح حسب مراتب روشنی بخش کر امام الزمان کو اُنکا سورج قرار دیتا ہے اور یہ سنت الہی یہاں تک اسکی آفرینش میں پائی جاتی ہے کہ شہد کی مکھیوں میں بھی یہ نظام موجود ہے کہ ان میں بھی ایک امام ہوتا ہے جو بحسب کہلاتا ہے۔ اور جسمانی سلطنت میں بھی یہی خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ ایک قوم میں ایک امیر اور بادشاہ ہو۔ اور خدا کی لعنت ان لوگوں پر ہے جو تفرقہ پسند کرتے ہیں۔ اور ایک امیر کے تحت حکم نہیں چلتے۔ حالانکہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے۔ اَطِيعُوا اللَّهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ اولى الامر سے مراد جسمانی طور پر بادشاہ اور روحانی طور پر امام الزمان ہے۔ اور جسمانی طور پر جو شخص ہمارے مقاصد کا مخالف نہ ہو اور اس سے مذہبی فائدہ ہمیں حاصل ہو سکے وہ ہم میں سے ہے۔ اسی لئے میری نصیحت اپنی جماعت کو یہی ہے کہ وہ انگریزوں کی بادشاہت کو اپنے اولى الامر میں داخل کریں اور دل کی سچائی سوائے انکے مطیع رہیں۔

بناٹھا

۴

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝  
 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ  
 عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

ہمیں سیدھے راستے پر چلا لے  
 ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے جن پر نہ تو لعنہ ہے نہ غضب  
 نازل ہوا ہے، اور نہ وہ لعین ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں۔

لہٰذا اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں بتایا گیا ہے کہ رویت کے بعد انسان کے اندر دوصل کی شدید خواہش پیدا ہوتی ہے۔ رویت کشفِ قلب کا تقاضا ہوتی ہے اور دوصل قُربِ معانی کا تقاضا ہے۔ پس اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ کے ساتھ ہی لازماً انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں خدا تعالیٰ کے قریب چلا جاؤں۔ پس اس آیت میں اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جب مومن اِیَّاكَ نَعْبُدُ کے مقام پر پہنچتا ہے تو بے اختیار ہو کر کہتا ہے کہ مجھے اپنے پاس آنے کا قریب ترین راستہ بتا۔

الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ یعنی سیدھا راستہ چھوٹے سے چھوٹا راستہ ہوتا ہے۔ چونکہ چھوٹا راستہ خدا کی طرف جانے کا بھی ہو سکتا ہے اور جہنم اور آگ اور شیطان کی طرف جانے کا بھی ہو سکتا ہے اس لیے اس کی تشریح اگلی آیت میں کی ہے کہ  
 تَعِبْرَاتِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ منعم علیہ گروہ کا راستہ مجھے دکھا یعنی راستہ چھوٹا بھی ہو اور تجھ تک پہنچنے کا راستہ ہر اور تجھ سے دور لے جانے والا راستہ نہ ہو۔

تَعِبْرَاتِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کا بدل ہے۔ پس اس کے معنی یہ ہوتے کہ ان منعم علیہ لوگوں کا راستہ تباہ و مغضوب نہیں ہوتے اور جو ضال نہیں بن گئے، منعم علیہم تو مغضوب اور ضال ہوا ہی نہیں کرتے پھر اس دعا کے معنی کیا ہوتے؟ پس یاد رکھنا چاہیے کہ جیسا کہ پہلی آیات کے ترجمہ سے ظاہر ہے یہ دعا اجتماعی اور قومی دعا ہے اور ہر قوم ایک زمانہ تک منعم علیہ ہونے کے بعد مغضوب علیہم یا ضال ہونے میں جاتی ہے پس اس دعا کا یہی مطلب ہے کہ ہماری ابتدا بھی منعم علیہ کی ہو اور ہماری انتہا بھی منعم علیہ کی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری قوم آہستہ آہستہ منعم علیہم سے بدل کر مغضوب ہو جائے یا ضال ہو جائے۔ یہ مطلب نہیں کہ فرد مغضوب اور ضال نہ بنے بلکہ یہ مراد ہے کہ قوم مغضوب اور ضال نہ بنے جس کی طرف اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ میں ہمیں دعا کا صیغہ استعمال کر کے اشارہ کیا گیا ہے۔ پس غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ کی آیت بتاتی ہے کہ یہ آئندہ زمانہ کے متعلق دعا ہے نہ کہ صحابہؓ کے زمانہ کے متعلق اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے یہی معنی کیے ہیں کیونکہ جب آپ سے صحابہؓ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! مغضوب علیہم اور ضالین کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہود اور نصاریٰ۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم جس طرح جوتی جوتی سے مٹی ہے اسی طرح میری قوم کے لوگ ایک دن ان پہلی قوموں کے نقش قدم چلیں گے (ترذیلاً) پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے لوگوں کے متعلق نہیں بلکہ اس میں آئندہ زمانہ کے مسلمانوں کے انحطاط کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن جہاں اس پیشگوئی نے خطرہ کا ایک پہلو پیش کیا ہے وہاں ایک اُمید کی کرن بھی اس نے پھیل گئی ہے۔ کیونکہ دعا ایسے ہی امر کے متعلق کی جاتی ہے جو ممکن ہو، غیر ممکن کے لیے دعا نہیں کی جاتی خصوصاً قرآنی دعا وغیر ممکن کے لیے ہوتی ہی نہیں پس اس دعا نے ایک اُمید کا پہلو ہمارے لیے قائم رکھا ہے کہ اگر کسی زمانہ کے مسلمان ایسی حالت میں جبکہ وہ منعم علیہم ہوں، یہ پوشش کریں کہ وہ مغضوب علیہم اور ضال بن جائیں تو ان کی کوششوں کے کامیاب ہونے کا امکان ضرور موجود ہے اور کسی چیز کے دروازہ کے کھار بننے سے بھی بہت بڑی اُمید پیدا ہوتی ہے اور جو صلہ بڑھتا ہے۔

تفسیر صغیر صفحہ 4 از مرزا بشیر الدین محمود

یہ حوالہ صفحہ 181 پر درج ہے



سُورَةُ الْبَقَرَةِ مَدْنِيَّةٌ وَرُحِيِّ مَعَ الْبِسْمِ بِأَمْتَانِ سِتْعٍ وَثَمَانُونَ آيَةً وَأَرْبَعُونَ رُكُوعًا

سورة بقرہ۔ یہ سورتہ فی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی دوسو ساڑھی آیات ہیں اور چالیس رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ هَدٰى لِنَصْرِحِمْ هٰذَا لِنَبِّنَا  
 ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَیْبَ فِیْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِیْنَ ۝۱  
 الَّذِیْنَ یُوْفُونَ بِالْعَهْدِ وَیُقِیْمُونَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا  
 رَزَقْنٰهُمْ یَنْفِقُونَ ۝۲  
 وَ الَّذِیْنَ یُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَ الْیَکَ وَ مَا اُنزِلَ مِنْ  
 قَبْلِکَ وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ یوقِنُونَ ۝۳  
 اُولٰٓئِکَ عَلٰی هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَاُولٰٓئِکَ هُمُ  
 الْمفلِحُونَ ۝۴

بِسْمِ اللہ کے نام سے کہ جو بے حد مہربان ہے اور بہت رحیم ہے۔  
 اے لوگو! یہ کتاب کی کوئی شک نہیں ہے، متقیوں کو ہدایت دینے والی ہے۔  
 جو عہد پر ایمان لاتے اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا  
 ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔  
 اور جو تجھ پر نزل کیا گیا ہے یا جو تجھ سے پہلے نزل کیا گیا تھا اس پر ایمان لاتے  
 ہیں اور آئندہ دہمنے والی دعوؤں والوں پر بھی یقین رکھتے ہیں۔  
 یہ لوگ (یقیناً) اس ہدایت پر قائم ہیں جو ان کے رب کی طرف سے  
 آئی ہے اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔

ہے آتہ اور ای قسم کے اور حروف جو مختلف سورتوں کے شروع میں آتے ہیں مقطعات کہلاتے ہیں۔ یہ حرف الٹ الٹ بولے جاتے ہیں۔ ان میں سے  
 ہر حرف ایک لفظ کا قائم مقام ہوتا ہے۔ مثلاً اَلْحَمْدُ میں اَمْتَانِ کا قائم مقام ہے اور اَلَمْ لَمَّا کا۔ جَوْهَرِ اَلْحَمْدُ کا۔ جوہر الھ  
 کے تین حروف کی ان اَللّٰهُ اَعْلَمُ کے معنے دیتے ہیں۔ یعنی میں اللہ سب سے زیادہ جانتے والا ہوں۔۔۔ بن حروف کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی کُن مَعْنَا  
 کی حرف انتصاف اشارہ ہوتا ہے جو اس سورت میں بیان ہوتی ہیں جس کے ابتدا میں یہ حروف لاتے جاتے ہیں، بعض اوقات بیان شدہ صفت کا  
 پہلا حرف لے لیا جاتا ہے اور بعض اوقات کوئی اور اہم حرف۔ بعض سورتیں ایسی بھی ہیں جن سے پہلے کوئی تشدید نہیں رکھی گئی، ایسی سورتیں اپنے سے پہلی  
 سورت کے تابع ہوتی ہیں جن میں کوئی مقطع ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے بن حروف سے علم ایچ کے مطابق مدد انکا ہے ہیں اور ان سے بعض اوقات  
 کی حرف اشارہ مراد لیا ہے جو ان سورتوں میں بیان ہوئے ہیں تفصیل کے لیے دیکھیں تفسیر کبیر طبع اولیٰ

اللہ ذیٰلک کے معنے وہ کے ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی یہ لفظ اس چیز کے لیے بھی جو قریب جوار نشان اور درجہ میں بہت انفسل ہوا سنتوں ہوتا ہے اور  
 اس جگہ اس کے یہ معنے ہیں۔ چونکہ اُرْدُو میں ان معنوں کو پوری طرح اوکرنے والا کوئی لفظ نہیں، اس لیے بی بی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ دوسرے  
 معنے اس کے یہ ہیں کہ ذیٰلک کا اشارہ اَلْهَدٰی الْمَسْتَبْعِیْمُ کی اشارت ہے کتاب کی طرف ہے اور مطلب یہ ہے کہ جس ہدایت یا کتاب  
 کے گمانے کی سورتہ فاتحہ کے آخر میں دعا کی گئی ہے وہی یہ کمال کتاب ہے۔ اس صورت میں ذیٰلک کے معنے درجہ کی بندی کے کرنے کی ضرورت نہیں  
 صحتاً تو چونکہ دوسری سورتہ ہے اس لیے ذیٰلک بے حد کے اشارہ کے لیے قائم رہے گا جیسا کہ اس کے محل معنے ہیں۔  
 کہ آیت میں واؤ ہے جس کے معنے اور کے ہیں۔ ہم نے اور کی بجائے "یا" استعمال کیا ہے تاکہ مفہوم آسانی سے سمجھ آسکے۔

بِسْمِ اللہ کے نام سے کہ جو بے حد مہربان ہے اور بہت رحیم ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

## ایک غلطی کا ازالہ

ہماری جماعت میں سے بعض صاحب جو ہمارے دعویٰ اور دلائل سے کم واقفیت رکھتے ہیں جنکو نہ بخور کتابیں دیکھنے کا اتفاق ہوا اور نہ وہ ایک معقول مدت تک صحبت میں رہ کر اپنے معلومات کی تکمیل کر سکے۔ وہ بعض حالات میں مخالفین کے کسی اعتراض پر ایسا جواب دیتے ہیں کہ جو سراسر واقعہ کے خلاف ہوتا ہے۔ اس لئے باوجود اہل حق ہونے کے انکو ندامت اٹھانی پڑتی ہے۔ چنانچہ چند روز ہوئے ہیں کہ ایک صاحب پر ایک مخالف کی طرف سے یہ اعتراض پیش ہوا کہ جس سے تم نے بیعت کی ہے وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور اس کا جواب محض انکار کے الفاظ سے دیا گیا حالانکہ ایسا جواب صحیح نہیں ہے۔ حتیٰ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوئی ہے۔ اس میں ایسا الفاظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں نہ ایک دفعہ بلکہ صد بار دفعہ پھر کیے گئے جو اب صحیح ہو سکتا ہے کہ ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ بلکہ اس وقت تو پہلے زمانہ کی نسبت بہت تصریح اور توضیح سے یہ الفاظ موجود ہیں اور براہین احمدیہ میں بھی جسکو طبع ہونے بائیں برس ہوئے۔ یہ الفاظ کچھ تھوڑے نہیں ہیں۔ چنانچہ وہ مکالمات الہیہ جو براہین احمدیہ میں شائع ہو چکے ہیں ان میں سے ایک یہ وحی اللہ ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلمہ (دیکھو مشورہ براہین احمدیہ) اس میں صاف طور پر اس

عاجز کو رسول کر کے پکارا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی کتاب میں میری نسبت یہ وحی اللہ ہے۔  
جرى الله في حلل الانبياء یعنی خدا کا رسول نبیوں کے حلوں میں (دیکھو براہین احمدیہ  
صفحہ ۵۰۴) پھر اسی کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی یہ وحی اللہ ہے محمد رسول الله  
والذین معه اشداء على الكفار وجاء بينهم اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا  
اور رسول بھی۔ پھر یہ وحی اللہ ہے جو صفحہ ۵۵۷ براہین میں درج ہے: "دنیا میں ایک نذیر  
آیا۔" اس کی دوسری قرأت یہ ہے کہ دنیا میں ایک نبی آیا۔ اسی طرح براہین احمدیہ میں  
اور کئی جگہ رسول کے لفظ سے اس عاجز کو یاد کیا گیا۔ سو اگر یہ کہا جائے کہ آنحضرتؐ تو  
خاتم النبیین ہیں۔ پھر آپ کے بعد اور نبی کس طرح آسکتا ہے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ  
بیشک اس طرح سے تو کوئی نبی نیا ہو یا پڑانا نہیں آسکتا۔ جس طرح سے آپ لوگ  
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری زمانہ میں آتاتے ہیں اور پھر اس حالت میں انکو نبی بھی  
مانتے ہیں۔ بلکہ چالیس برس تک سلسلہ وحی نبوت کا جاری رہنا اور زمانہ آنحضرتؐ  
صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ جانا آپ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ بیشک ایسا عقیدہ تو  
معصیت ہے اور آیت ولكن رسول الله وخاتم النبیین اور حدیث لا نبی  
بعدي اس عقیدہ کے کذب صریح ہونے پر کامل شہادت ہے۔ لیکن ہم اس قسم کے  
عقاید کے سخت مخالف ہیں۔ اور ہم اس آیت پر سچا اور کامل ایمان رکھتے ہیں جو فرمایا کہ  
ولكن رسول الله وخاتم النبیین اور اس آیت میں ایک پیشگوئی ہے جس کی  
ہمارے مخالفوں کو خبر نہیں اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ آنحضرتؐ  
صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیشگوئیوں کے دروازے قیامت تک بند کر دیئے گئے۔  
اور ممکن نہیں کہ اب کوئی ہندو یا یہودی یا عیسائی یا کوئی رسمی مسلمان نبی کے لفظ کو  
اپنی نسبت ثابت کر سکے۔ نبوت کی تمام کھڑکیاں بند کی گئیں مگر ایک کھڑکی سیرۃ صدیقی  
کی کھلی ہے یعنی فتاویٰ الرسول کی۔ پس جو شخص اس کھڑکی کی راہ سے خدا کے پاس آتا ہے

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جب عیسیٰ بن مریم نے بنی اسرائیل کو کہا کہ اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہو کر تمہاری طرف آیا ہوں اور ان باتوں کی تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے کہی گئی ہیں تو رات سے۔ اور تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ وہ کون سا رسول ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آیا اور اس کا نام احمد ہے۔ میرا اپنا دعویٰ ہے اور میں نے یہ دعویٰ یونہی نہیں کر دیا بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں میں بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے اور حضرت خلیفۃ المسیح الاول نے بھی یہی فرمایا ہے کہ مرزا صاحب احمد ہیں۔ چنانچہ ان کے درس کے نوٹوں میں یہی چھپا ہوا ہے اور میرا ایمان ہے کہ اس آیت کے مصداق حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہی ہیں ہاں پہلے پیل جب حضرت خلیفہ اول سے یہ بات میں نے سنی تو ابتداءً اسے قبول نہ کیا اور بہت کچھ اس کے متعلق بحثیں ہوتی رہیں لیکن جب میں نے اس پر غور کیا تو خدا تعالیٰ نے اس کے متعلق میرا سینہ کھول دیا اور دلائل قاطعہ اور براہین ساطعہ عنایت فرمادیے اور میں نے اس خیال کو قبول کر لیا۔

ان آیات میں خدا تعالیٰ نے اول حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کہ جب وہ اپنی قوم میں آئے اور ان کی قوم نے انہیں دکھ دیئے تو انہوں نے کہا کہ میں خدا کی طرف سے تمہارے پاس رسول ہو کر آیا ہوں مجھے قبول کر لو لیکن جب انہوں نے قبول نہ کیا اور کجی اختیار کی تو خدا تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو کج کر دیا۔ اس ذکر کے بعد خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے تمام انبیاء کا ذکر چھوڑ دیا ہے اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ اس کی غرض سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیرہ سو سال بعد حضرت مسیح آئے تھے اسی طرح آنحضرت ﷺ کے تیرہ سو سال بعد جو شیل موسیٰ ہیں مسیح موعود آئے گا اور اِسْمُهُ اَحْمَدُ کا جملہ اس کو صاف کر دیتا ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ کا نام احمد نہ تھا بلکہ محمد تھا۔ چنانچہ اس آیت زیر بحث کو چھوڑ کر جس میں رسول اللہ ﷺ کو احمد کہہ کر مخاطب نہیں فرمایا بلکہ صرف حضرت مسیح کی ایک بیٹھکائی بیان فرمائی ہے جو خود زیر بحث ہے کسی جگہ بھی قرآن کریم میں آنحضرت ﷺ کو احمد نام سے یاد نہیں کیا گیا۔ اگر آنحضرت ﷺ کا نام احمد ہوتا اور جیسا کہ لوگ بیان کرتے ہیں والدہ کو الہام کے

أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ قُلُوبَنَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ آتَمَاءِ الْهَكَمَاءِ وَوَجِدُ  
 وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي الْقُرْآنِ. وَلَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. وَقَالُوا إِن  
 هَذَا إِلَّا افْتِرَاءٌ. قُلْ إِن هُدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ. أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ.  
 إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ  
 عَبْدَهُ. فَتَرَاهُ اللَّهُ يَمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا. وَأَنَّهُ مُرْسِلُ الْكَافِرِينَ.  
 وَلِنَجْعَلَ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا. وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا. قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ تَمَتُّونَ.  
 يَا أَحْمَدُ فَاضْتِ الرَّحْمَةَ عَلَىٰ شَفَقَتِكَ. إِنَّا آعْطَيْنَاكَ الْكُوفَرُ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ.  
 إِنَّ شَانِكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. يَا أَيُّ قَوْمٍ لَا نَبِيَّاءَ وَأَمْرُكَ يَتَأْتَى. يَوْمَ يَجِيءُ الْحَقُّ وَ

چاہا کہ شناخت کیا جاؤں۔ زمین و آسمان بند سے ہوئے تھے سو ہم نے دونوں کو کھول دیا۔ اور تجھے انہوں نے  
 ایک ہنسی کی جگہ بنا رکھا ہے کیا یہ ہے جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا۔ کہ میں ایک آدمی ہوں تم جیسا مجھے خدا  
 سے الگ ہوتا ہے کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے۔ اور تمام بھلائی قرآن میں ہے۔ اور میں اس سے پہلے ایک مدت  
 سے تم میں ہی رہتا تھا۔ کیا تمہیں میرے حالات معلوم نہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ باتیں افترا ہیں۔ کہ حقیقی ہدایت  
 جس میں غلطی نہ ہو خدا کی ہدایت ہے۔ اور خبردار ہو کہ خدا کا گروہ ہی آخر کار غالب ہوتا ہے۔ تمہارے کھل  
 کھلی فتح دی ہے تاہم سے اگلے اور پھلے گناہ معاف کئے جائیں۔ کیا خدا اپنے بندہ کے لئے کافی نہیں ہے۔  
 سو خدا نے ان کے الزاموں سے اس کو بری کیا۔ اور وہ خدا کے نزدیک وجہ ہے۔ اور خدا کافروں کے فکر  
 کو مست کر دے گا۔ اور ہم اس کو لوگوں کے لئے نشان بنائیں گے۔ اور رحمت کا نمونہ ہوگا۔ اور یہی مقدر  
 تھا۔ یہ وہ سچا قول ہے جس میں لوگ شک کرنے ہیں۔ اسے احمد اور رحمت تیرے لبوں پر جاری ہو رہی ہے۔ تمہارے  
 تجھے بہت سے حقائق اور معارف اور برکات بخشے ہیں اور ذریت نیک عطا کی ہے۔ سو خدا کے لئے نماز پڑھ  
 اور قربانی کر۔ تیرا بدگوبے خیر ہے یعنی خدا اسے بے نشان کر دے گا۔ اور وہ نامراد مرے گا۔ بیوقوف کا پانڈا سے گا

۱۔ یہ الہام کہ اِنَّ شَانِكَ هُوَ الْاَبْتَرُ اس وقت اس عاجز پر خدا تعالیٰ کی طرف سے القا ہوا کہ جب ایک شخص  
 نو مسلم سعد اللہ نام نے ایک نظم گالیوں سے بھری ہوئی اس عاجز کی طرف بھیجی تھی اور اس میں اس عاجز کی نسبت  
 اس ہنس دوزارہ نے وہ الفاظ استعمال کئے تھے کہ جب تک ایک شخص درحقیقت شقی و نجیست نیست۔ ذمہ دار  
 نہ ہو ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتا۔۔۔۔۔ سو یہ الہام اس کے اشتہار اور رسالہ کے پڑھنے کے وقت ہو کہ اِنَّ  
 شَانِكَ هُوَ الْاَبْتَرُ۔ سو اگر اس ہنس دوزارہ بد نظرت کی نسبت ایسا وقوع میں نہ آیا اور وہ نامراد اور ذلیل و زبون  
 نہ رہا تو سمجھو کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں۔ ۱۱۔ انجام آتمہ حاشیہ صفحہ ۵۸۔ ۵۹۔ روحانی خزائن جلد ۱ صفحہ ۵۸۔ ۵۹۔

مکتبہ

<p>پیشگوئی</p>	<p>ازبکستان</p>	<p>جس وحی سے میں مشرف کیا گیا ہوں اسی وحی نے مندرجہ ذیل خارق عادت پیشگوئیاں بتلائی ہیں جو دنیا پر ظاہر ہو چکی ہیں</p>	<p>ابو جعفر محمد باقر</p>
<p>پیشگوئی نمبر ۱</p>	<p>۱۸۷۰-۱۸۷۱</p>	<p>الْيَسْرَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ قَبْرَاهُ اللَّهُ مَدًا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا وَيَكْفُو بِهِمُ الْمَأْمُورِينَ وَالْمُرَادُونَ بِهِمُ الْمَمْدُودُونَ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْوَسْطَةَ مِنْهُمْ لَا يَسْتَلِمْ عَلَيْهِمْ وَلَا يَلْمِزُهُمْ فِي شَيْءٍ وَاللَّهُ يَبْتَغِي لَكُمُ الْوَسْطَةَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِ مَكْرَهٍ إِلَى أَرْضٍ مَّوَدَّةٍ وَاللَّهُ مُخْرِجُكُمْ مِنْهُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ</p> <p>پس وہ اسکو ان تمام الزاموں سے بری کرے گا جو اس پر لگائے جائیں گے اور وہ خدا کے نزدیک وجاہت رکھتا ہے۔ یہ پیشگوئی اس طرح پوری ہوئی کہ کپتان ڈاکٹر ڈی کشر کے وقت میں میرے پر خون کا الزام لگایا گیا خدا نے اس سے مجھے بری کر دیا اور پھر مسٹر ڈون ڈی کشر کے وقت میں مجھ پر الزام لگایا گیا اس سے بھی خدا نے مجھ پر بری کر دیا اور پھر مجھ پر جاہل ہونے کا الزام لگایا سو مخالف مولویوں کی خود جہالت ثابت ہوئی اور پھر مر علی نے مجھ پر سارق ہونے کا الزام لگایا سو اس کا خود سارق ہونا ثابت ہوا۔ ایسا ہی یہ دن کسی نہیں گذرے گا جب تک خدا کج دل انسانوں کو نہ دکھلا دے کہ یہ میرا بندہ میری طرف سے تھا تب بہتوں کی آنکھیں کھلیں گی مگر کیا فائدہ۔ انہوں نے ہزار عذر بیاری گناہ راہ مرثیے کردہ رانہ و زینہ و خنجر</p>	<p>پیشگوئی اس زمانہ سے آئی ہوئی ہے جو ابھی تک ظاہر ہوئی ہے۔ یہ پیشگوئی اس زمانہ سے آئی ہوئی ہے جو ابھی تک ظاہر ہوئی ہے۔ یہ پیشگوئی اس زمانہ سے آئی ہوئی ہے جو ابھی تک ظاہر ہوئی ہے۔</p>
<p>پیشگوئی نمبر ۱</p>	<p>۱۸۷۰-۱۸۷۱</p>	<p>إِنَّا أَخْطَيْنَاكَ الْكَوْتَرِ يَعْنِي جَمْعِيَّةً بَيْتِكَ أَرَادْتُمْ عَطَاكَ مِثْلَ لَوْ هِيَ كَثِيرٌ جَمَاعَتِ تَحْتِ دِي جَانَسِي. دیکھو اس پیشگوئی کو جس برس گذر گئے۔ اور اب یہ کثیر جماعت ہوئی اور نہ صرف ستر ہزار بلکہ اب تو یہ جماعت لاکھ کے قریب ہو گئی اور ان دنوں میں ایک بھی نہ تھا۔</p>	<p>ظاہر ہے کہ دنوں میں کالی ظہور ہوا</p>
<p>زندہ گواہ اور یہی ہے</p>	<p></p>	<p>جن مقدمات میں خدا نے مجھے بری کیا جو بڑے افترا اور اتقاق سے پیدا کئے گئے تھے تو بے لکھنے کی کچھ ضرورت نہیں سرکاری کاغذات موجود ہیں اور جن صدقہ نشانیوں کے ساتھ نعت اور کذب اور افترا اور جہل سے خدا نے مجھے بری کیا ان نشانیوں میں سے بطور نمونہ اسی ہرست میں موجود ہیں اور منصف کے لئے کافی ہو سکتی ہیں۔</p>	<p></p>

نزل مسیح صفحہ 133 مندرجہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 509 از مرزا قادیانی یہ حوالہ صفحہ 184 پر درج ہے

يُكْفِفُ الْعِثْقَ وَيَغْسِرُ الْغَايِرُونَ . اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي . اَنْتَ مَعِي وَاَنَا مَعَكَ .  
 سِرِّكَ مِيْرِي . وَفَعْنَا عَنْكَ وَذَرْنَا الَّذِي اَنْقَضَ ظَهْرَكَ . وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ . يَغْفِرُ فَوْقَكَ  
 مِنْ ذُوْنِهِ . اَيْمَةُ الْكُفْرِ . لَا تَخَفِ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلَى . غَرَسْتُ لَكَ بِيَدِي رَحْمَتِي  
 وَقَدَّرْتُ . نَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا . يَنْصُرَكَ اللهُ فِيْ مَوَاطِنَ .  
 كَتَبَ اللهُ لَاغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ . لَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِهِ . اللهُ الَّذِيْ جَعَلَكَ الْمَسِيْحَ  
 ابْنَ مَرْيَمَ . قُلْ هَذَا فَعَلَّ رَبِّيْ وَاِنِّيْ اَجْرِدُ نَفْسِيْ مِنْ صُرُوْبِ الْخِطَابِ .  
 يَا عِيْسَى ابْنِيْ مَتَوَفِّيْكَ وَرَافِعَكَ اِلَيَّ وَجَاعِلِ الَّذِيْنَ اَتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا  
 اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . نَظَرَ اللهُ اِلَيْكَ مَعْطَرًا . وَقَالُوْا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا  
 قَالَ اِنِّيْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ . وَقَالُوْا كِتَابٌ مُّثَمَلِيٌّ مِنَ الْكُفْرِ وَالْاِنْكَذِيْبِ . قُلْ  
 تَعَالَوْا مَتَدْعُ اَبْنَاءَنَا وَابْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ثُمَّ  
 نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّنْهُ اللهُ عَلَى الْكَافِرِيْنَ . سَلَامٌ عَلَيَّ وَاٰلِهَيْمَ صَ فَيَسَّأَهُ وَ  
 نَجِيْسَاةٍ مِنَ الْغَيْمِ . تَفَرَّدَ تَابِذُ الْاَلِكِ . يَا دَاوُدَ عَامِلِ بِالنَّاسِ رِفْقًا وَاِحْسَانًا . كَمُوْتُ  
 وَاَفْرَاطِ مِيْنِكَ . وَاللهُ يَعِصُكَ مِنَ النَّاسِ . كَذَّبُوْا بِآيَاتِيْ وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ .

اور تیرا کام تجھے حاصل ہو جائے گا۔ اس دن حق آئے گا اور سچ کھولا جائے گا اور جو خسران میں ہیں ان کا خسران ظاہر ہو جائے گا۔ میری یاد میں نماز کو قائم کر۔ تو میرے ساتھ اور میں تیرے ساتھ ہوں۔ تیرا بھید میرا بھید ہے۔ تم نے تیرا وہ بوجھ اتار دیا جس نے تیری کمزوری۔ اور تیرے ذکر کو ہم نے بلند کیا۔ تجھے خدا کے سوا اوروں سے ڈرتے ہیں۔ یہ کفر کے پیشوا ہیں۔ مت ڈر۔ غلبہ تجھی کو ہے۔ میں نے اپنی رحمت اور قدرت کے درخت تیرے لئے اپنے ہاتھ سے لگائے۔ خدا ہرگز ایسا نہیں کرے گا کہ کافروں کا مومنوں پر کچھ الزام ہو۔ خدا تجھے کسی میدانوں میں فتح دے گا۔ خدا کا یرتدیم فرشتہ ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ اس کے کلموں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ وہ خدا جس نے تجھے مسیح ابن مریم بنایا۔ کہ یہ خدا کا افضل ہے اور میں تو کسی خطاب کو نہیں چاہتا۔ اے عیسیٰ! میں تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ اور تیرے تابعداروں کو تیرے مخالفوں پر قیامت تک غلبہ بخشوں گا۔ خدا نے تیرے پر خوشبودا نظر کی۔ اور لوگوں نے دلوں میں کہا کہ اے خدا! کیا تو ایسے مُضد کو اپنا خلیفہ بنائے گا۔ خدا نے کہا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تمہیں معلوم نہیں۔ اور لوگوں نے کہا کہ یہ کتاب کفر اور کذب سے بھری ہوئی ہے۔ ان کو کہہ دے کہ آؤ ہم اور تم اپنے بیٹوں اور عورتوں اور عزیزوں سمیت ایک جگہ اکٹھے ہوں پھر مباحثہ کریں اور جھوٹوں پر لعنت بھیجیں۔ ابراہیم یعنی اس عاجز پر سلام ہم نے اس سے دلی دوستی کی اور غم سے نجات دی۔ یہ ہمارا ہی کام تھا جو ہم نے کیا۔ اے داؤد! لوگوں سے نرمی اور احسان کے ساتھ معاملہ کر۔ گواہی حالت میں مرے گا کہ میں تجھ سے راضی ہوں گا۔ اور خدا تجھ کو لوگوں کے

۱۰ جولائی ۱۹۰۶ء ” دیکھ میں آسمان سے تیسرے برساؤں کا اور زمین سے نکالوں گا۔ پروہ جو تیسرے  
نقاع ہیں پکڑے جائیں گے۔“

(بدرد جلد ۲ نمبر ۲۳ مورخہ ۱۹ اگست ۱۹۰۶ء صفحہ ۲، الحکم جلد ۱۰ نمبر ۲۹ مورخہ ۱۹ اگست ۱۹۰۶ء صفحہ ۱)

۱۹۰۶ء

” يَا أَحْمَدُ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَفِيعُ  
لَهُ أَحْمَدُ خدائے تجھ میں برکت رکھ دی ہے جو کچھ تو نے چلایا وہ تو نے نہیں چلایا بلکہ خدائے چلایا۔  
الرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ لِتُنذِرَ نَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاءَهُمْ وَلِقَاتِهِمْ  
خدائے تجھے قرآن سکھلایا یعنی سکے صحیح معنی تجھ پر ظاہر کئے تاکہ تو ان لوگوں کو ڈرا دے جن کے باپ دادے نے نہیں گئے اور تاکہ  
سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ  
مجرموں کی راہ میں جلتے جہنمی معلوم ہو جائے کہ کون تجھ سے بگڑے ہو گا کہ میں خدا کی عزت، عزتوں اور میں سے پہلے ایمان لائے اور  
قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا كُلُّ بَرَكَةٍ مِّنْ مُحَمَّدٍ  
سید حق آیا اور باطل بھاگ گیا۔ اور باطل بھاگنے والا ہی تھا۔ ہر ایک برکت محمد  
عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبَرَّكٌ مِّنْ عِلْمِهِ وَتَعَلَّمَ وَقَالُوا إِن هَذَا  
علی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ پس بڑا مبارک وہ ہے جس نے تعلیم دی اور جس نے تعلیم پائی۔ اور کہیں کہیں  
إِنَّا أَخْلَقْنَا قُلُوبًا لَّعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ قُلْ اللَّهُ شَهِدَ ذَرْهَمًا فِي خَوَافِهِمْ يَلْعَبُونَ قُلْ  
میں نے یہ کلمات تو اپنی طرف سے بنائے ہیں۔ انکو کہ وہ خدا ہے جس نے یہ کلمات نازل کئے پھر انکو سوا اللہ کے نہ کہیں جوڑے۔ انکو  
إِن انْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ إِجْرَامٍ شَدِيدٍ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ انْتَرَىٰ  
گریہ کلمات میرا انترا ہے اور خدا کا کلام نہیں تو پھر میں سخت سزا کے لائق ہوں اور اس انسان سے زیادہ تر کون ظالم ہے  
عَلَى اللَّهِ كَذِبًا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْمُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ  
جس نے خدا پر انترا کیا اور ٹھوٹا بنا دیا۔ خدا وہ خدا ہے جس نے اپنا رسول اور اپنا فرستادہ اپنی ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا۔  
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ لَأَمْسِدَ لِكَلِمَتِهِ يَقُولُونَ أَيُّ نَكَاحٍ  
تو اس دین کو تو ہم نے دین پر غالب کیا۔ خدا کی باتیں پوری ہو کر رہتی ہیں کوئی ان کو بدل نہیں سکتا اور وہ کہیں گے کہ

۱۰۔ حضرت یحییٰ موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے الاستفتاء صفحہ ۶۹، مشمولہ حقیقتہ الوحی۔ روحانی خزائن جلد ۱۲ صفحہ ۷۰،  
میں اس آیت کا عربی میں ترجمہ فرماتے ہوئے اس کی تاریخ ۱۰ جولائی ۱۹۰۶ء تحریر فرمائی ہے اس لئے اسے یہاں  
درج کیا گیا۔ امرتیب۔



نفس پر قائم ہے زندہ خدا کا منظر اور تو مجھ سے، یہ مقصود کا مبدا ہے۔ اور تو ہمارے پانی سے سبے و روئے  
لوگ فٹل سے کیا کہتے ہیں کہ ہم ایک بڑی جماعت ہیں۔ انتقام لینے والے یہ سب بھاگ جائیں گے اور پیچھے  
پھیریں گے۔ وہ خدا کا بے تعریف ہے جس نے تجھے دامادی اور بائی عزت بخش۔ اپنی قوم کو ڈرا اور کہہ لیں خدا  
کی طرف سے ڈرنے والا ہوں۔ ہم نے کئی کیفیت تیرے لئے تیار کر رکھے ہیں اسے براہیم۔ اور لوگوں نے کہا  
ہم تجھے ہلاک کریں گے مگر خدا نے اپنے بندہ کو کہا یہ کچھ خوف کی جگہ نہیں ہیں اور میرے رسول کی لب ہوں گے۔  
اور میں اپنی فوجوں کے ساتھ عسقریب آؤں گا میں سندر کی طرح موجزئی کروں گا۔ خدا کا فضل آنے والا ہے اور  
کوئی نہیں جو اس کو رد کر سکے۔ اور کہہ خدا کی قسم یہ بات سچ ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوگی اور نہ وہ ٹھپن رہے گی۔  
اور وہ امر نازل ہوگا جس سے تو تعجب کرے گا۔ یہ خدا کی وحی ہے جو اونچے آسمانوں کا نالے والا ہے۔ اس کے  
سوا کوئی خدا نہیں۔ ہر ایک چیز کو جانتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اور وہ خدا ان کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں  
اور نیکی کو نیک طور پر ادا کرتے ہیں اور اپنے نیک عملوں کو خوبصورتی کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ وہی ہیں جن کے لئے  
آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے۔ اور دنیا کی زندگی میں بھی ان کو بشارتیں ہیں۔ تو نبی کی کنارِ عاطفت میں  
پرورش پاتا ہے..... اور میں ہر حال میں تیرے ساتھ ہوں۔

اور پھر فرمایا:-

« وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا اخْتِلَافٌ. إِنَّ هَذَا لَرَجُلٌ يَجْعَلُ الَّذِينَ قُلُ جَاءَ الْحَقِّ  
وَرَهَقَ الْبَاطِلُ. قُلْ لَرُكَّانِ الْأُمْرَيْنِ عِنْدَ غَيْرِ اللَّهِ لَوْ جَدَّتُمْ فِيهِ اخْتِلَافٌ  
كَثِيرًا. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ وَتَهْدِيهِ لِاخْتِلَافِ قُلُ  
إِن اخْتَرَيْتُمْ فَعَلَىٰ اجْتِرَابِنِ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. تَنْزِيلُ  
مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. لَسَنُذَرُّكُمْ مِمَّا أُنذِرُ آبَاءَكُمْ هَذَا. وَيَسْذَعُونَ قَوْمًا آخَرِينَ.  
عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مَوَدَّةً. يَخْرُجُونَ عَلَى الْأَعْيُنِ  
سُجَّدًا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا مَا كُنَّا خَاطِئِينَ. لَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا. اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ  
أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. إِنِّي أَنَا اللَّهُ فَاعْبُدْنِي وَلَا تُشْرِكْ بِي وَأَجْتِهْدِ أَنْ تَصْنَعُوا لِي سُنَنَ  
رَبِّكَ وَكُنْ سَوَاحًا. اللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ. فَبِأَيِّ مَدِينَةٍ بَعَدَهُ تَحْكُمُونَ.  
نَزَّلْنَا عَلَىٰ هَذَا الْعَبْدِ رَحْمَةً وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُسْمَعُ.  
دُنِي فَتَدَلِّي فَكَانَ قَبَّ قَوْمَيْنِ أَوْ آذَنِي. ذَرْنِي وَ لَسَنُكَذِّبِينَ إِنِّي مَعَهُ الرَّسُولُ الْقَوْمُ.  
إِنَّ يَوْمَهُ لَفَضْلٌ عَظِيمٌ. وَإِنَّكَ عَنِّي صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. وَإِنَّا نُرِيدُكَ بَعْضَ الَّذِي

سے ترجمہ از مرتب اور تو ہماروں کی چوٹیوں پر رہتا ہے۔

فَاصْبِرْ الرَّحْمَةَ عَلَى شَفَقَتِكَ وَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا سَمِعْنَاكَ الْمَتَوَكِّلُ  
 تیرے لبوں پر رحمت جاری کی گئی۔ تو میری آنکھوں کے سامنے ہے میں نے تیرا نام متوکل رکھا۔  
 يَرْفَعُ اللَّهُ ذِكْرَكَ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَا بُولُوكَ  
 خدا تیرا ذکر بلند کرے گا۔ اور اپنی نعمت و نیا اور سنت میں تیرے پر پوری کرے گا۔ اے احمد! تُو  
 يَا أَحْمَدُ. وَكَانَ مَا بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ حَقًّا فَبِكَ شَأْنِكَ عَجِيبٌ وَتَجْرَكَ  
 برکت دیا گیا اور جو کچھ تجھے برکت دی گئی وہ تیرا ہی حق تھا تیرا ہی شان عجیب ہے اور تیرا ابر  
 قَرِيبٌ وَالْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ مَعَكَ كَمَا هُوَ مَعِي وَأَنْتَ وَجِيهَةٌ فِي حَضْرَتِي  
 قریب ہے۔ آسمان اور زمین تیرے ساتھ ہیں جیسے کہ وہ میرے ساتھ ہیں۔ تو میری درگاہ میں وجیہ ہے  
 اخْتَرْتُكَ لِنَفْسِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى زَادَ مَجْدَكَ  
 تیرے لیے تجھے اپنے لیے چنا۔ خدائے پاک بڑا برکتوں والا اور بڑا بزرگ ہے وہ تیری بزرگی کو زیادہ کرے گا  
 يَنْقُطُ أَبْنَاءُكَ وَيُبْدُ مِنْكَ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَسْتَرْكَكَ حَتَّى  
 تیرے باپ اور اولاد کا ذکر منقطع ہو جائے گا اور تیرے بعد سلسلہ خاندان کا تہ سے شروع ہوگا اور خدا ایسا نہیں کرتا جو چاہے  
 يَمِيزُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ إِذَا جَاءَ لَصُدُورِ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ  
 جب تک پاک اور پلیدی میں فرق کر کے نہ نکلا دے اور جب خدا تعالیٰ کی مدد اور فتح آئے گی اور خدا کا وعدہ پورا ہوگا  
 هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ! أَرَدْتُ أَنْ أَسْتَخْلِفَ فَخَلَقْتُ  
 تم کما جائے گا یہ وہی امر ہے جس کیلئے تم چاہتے تھے میں نے ارادہ کیا کہ اپنا خلیفہ بناؤں سو میں نے اس آدم کو  
 أَدْرَدْتُ فَتَدْنِي فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. يُخِي الذِّينَ وَ  
 پیدا کیا۔ وہ خدا سے نزدیک ہوا پھر مخلوق کی طرف بھاگا اور خدا اور مخلوق کے درمیان میں ہو گیا جیسے کہ وہ تو اس کے درمیان کا ظاہر ہے  
 يُعِينُ الشَّرِيعَةَ يَا أَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ يَا مَرْيَمُ  
 دین کو زندہ کرے گا اور شریعت کو قائم کرے گا۔ اے آدم! تو اور تیرے دوست بہشت میں داخل ہو۔ اے مریم  
 اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. يَا عِمْدُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ!  
 تو اور تیرے دوست بہشت میں داخل ہو۔ اے احمد! تو اور تیرے دوست بہشت میں داخل ہو۔

لے یاد رہے کہ ظاہری بزرگی اور وجاہت کے لحاظ سے اس خاں کا نام بہت شہرت رکھتا تھا بلکہ اس زمانہ تک ہی اس  
 خاندان کی ذہنی شوکت زوال کے قریب قریب تھی۔ میرے دادا صاحب کے اس لواج میں یہی اتنی گاؤں اپنی ملکیت کے تھے اور پہلے  
 اس سے وہ والیان ملک کے رنگ میں بسر کرتے تھے اور کسی سلطنت کے ماتحت نہ تھے اور پھر رفتہ رفتہ رفقہ رفقہ اور شہرت بزرگی  
 سے غمور کے زمانہ میں چند لڑائیوں کے بعد سب کچھ جھٹھے اور مروت چھ گاؤں ان کے قبضہ میں رہے اور پھر دو گاؤں اور باقی

نے فرمایا کہ "ابھی میں نے شرح الفاظ میں لکھا دیکھا ہے کہ

مُبَارَك

یہ گویا قبولیت کا نشان ہے" (الحکم جلد ۴ نمبر ۱۶ مورخہ یکم مئی ۱۹۰۰ء صفحہ ۵)

۱۹۰۰ء

"ایک دفعہ عزیز مرحوم کی زندگی میں بکثرت اس کی شفا کے لئے دعا کی۔ تب خواب میں دیکھا کہ ایک شکر ہے۔ گویا وہ چاند کے ٹکڑے اکٹھے کر کے بنائی گئی ہے اور ایک شخص ایوب بیگ کو اس شکر پر سے لے جا رہا ہے اور وہ شکر آسمان کی طرف جاتی ہے اور نہایت خوش اور چمکیلی ہے۔ گویا زمین پر چاند پھایا گیا ہے۔ میں نے یہ خواب اپنی جماعت میں بیان کی اور تکلف کے طور پر یہ سمجھا کہ صحت کی طرف اشارہ ہے لیکن دل نہیں مانتا تھا کہ اس خواب کی تفسیر صحت ہو۔ سو اب اس خواب کی تفسیر ظہور میں آئی۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رٰجِعُوْنَ" (از مکتوب بنام ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب مندرجہ الحکم جلد ۴ نمبر ۱۶ مورخہ ۱۹ مئی ۱۹۰۰ء صفحہ ۴)

۲۵ اپریل ۱۹۰۰ء

"اس خط کے لکھنے کے وقت میں جو ایوب بیگ مرحوم کی طرف توجہ تھی کہ وہ کیونکر جلد ہماری آنکھوں سے ناپدید ہو گیا اور تمام تعلقات کو خواب و خیال کر گیا کہ یک دفعہ الہام ہوا:

مبارک وہ آدمی جو اس دروازہ کے راہ سے داخل ہو

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عزیز ایوب بیگ کی موت نہایت نیک طور پر ہوئی ہے اور خوش نصیب وہ ہے جس کی ایسی موت ہو!"

(از مکتوب بنام ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب مندرجہ الحکم جلد ۴ نمبر ۱۶ مورخہ ۱۹ مئی ۱۹۰۰ء صفحہ ۴)

۱۹۰۰ء

"خدا نے مجھے کہا کہ اٹھ اور ان لوگوں کو کہہ دے کہ میرے پاس خدا کی گواہی ہے۔ پس کیا تم خدا کی گواہی دے دو گے۔ خدا کا کلام جو میرے پر نازل ہوا اس کے یہ الفاظ ہیں:

قُلْ يٰٓعِبَادِیْ شَہَادَةٌ مِّنْ اللّٰہِ قُلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ. قُلْ یٰٓعِبَادِیْ شَہَادَةٌ مِّنْ اللّٰہِ

قُلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰہَ فَاٰتِیْعُوْا بِحَبْلِہٖ اللّٰہُ وَقُلْ

یٰٓاٰیُّہَا النَّاسُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰہِ اٰتِیْعُوْا بِحَبْلِہٖ اللّٰہُ"

(از اشتہار سیار الاخیار صفحہ ۲ مورخہ ۲۸ مئی ۱۹۰۰ء مجموعہ اشتہارات جلد ۲ صفحہ ۲۶۹، ۲۷۰)

(ترجمہ) ان کو کہہ کہ میرے پاس خدا کی گواہی ہے۔ پس کیا تم ایمان لاؤ گے یا نہیں۔ ان کو کہہ کہ میرے

سے مرزا ایوب بیگ صاحب (مترجم) سے مرزا ایوب بیگ صاحب (مترجم)

مِنْ كُلِّ فِجَعٍ عَمِيْقٍ ۚ يَا تَوَكُّلُ مِنْ كُلِّ فِجَعٍ عَمِيْقٍ ۚ يَنْصُرُكَ اللهُ مِنْ عِنْدِهِ ۚ  
 کی راہ سے تجھے پہنچے گی اور ایسی راہوں پہنچے گی کہ وہ راہ لوگوں کی بہت چلنے سے جزیری طرف اٹھیں گے مگر یہ وہ ہیں جس کی طرف  
 يَنْصُرُكَ رِجَالٌ تَوَكَّلُوا بِالنَّهْمِ مِنَ السَّمَاءِ ۚ لَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ۚ  
 لوگ تیری طرف اٹھیں گے جن اہوں پر وہ چلیں گے وہ تیرے ہوجائیں گے خدا کی طرف تیری مدد کرے گا تیری مدد وہ لوگ کریں گے جن کے دل میں  
 قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ نَزَّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَا يَرْضِيكَ ۚ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا  
 ہم اپنی طرف اللہ کرینگے خدا کی باتیں بل نہیں سکتیں تیرا رب فرماتا ہے کہ ایک ایسا امر آسمان سے نازل ہوگا جس سے تو خوش ہو جائیگا ہم  
 مُبِينًا ۚ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا وَقَرَّبْنَا نَاةً تَحِيَّتًا ۚ أَشْجَعُ النَّاسِ ۚ وَلَوْ كَانَ  
 ایک کھلی کھلی فتح تجھ کو عطا کریں گے وہ لکھ کر ایک بڑی فتح ہے اور ہم نے سوا ایک ایسا قرب کرنا کہ ہرگز اپنا بار نہ ہو تمام لوگوں سے زیادہ  
 الْإِيمَانَ مُعَلَّقًا بِالنَّهْمِ ۚ إِنَّا رَأَيْنَاكَ كُنْتَ كَثْرًا  
 ہمارے اور اگر ایمان تیرا سے معلق ہوتا تو وہ وہیں جا کر اس کے لیے یہاں خدا اس کی رحمت روشن کرے گا میں ایک سزا نہ  
 مَخْفِيَةً فَبَاخَبْتُ أَنْ أُعْرِفَ ۚ يَا قَمْرُ يَا شَمْسُ أَنْتَ صِيحِي وَأَنَا  
 پوشیدہ تھا میں نے چاہا کہ ظاہر کیا جاؤں۔ اسے چاند اور اسے سورج! تو مجھ سے ظاہر ہوا اور میں  
 مِنْكَ ۚ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ فَانْتَهَى أَمْرُ الزَّمَانِ إِلَيْنَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ  
 تجھ سے۔ جب خدا کی مدد آئے گی اور زمانہ ہماری طرف رجوع کرے گا تب کہا جائے گا کہ کیا یہ شخص جو ہمیں  
 رَبُّكَ ۚ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ ۚ وَلَا تَصْعَدُ لِيَخْلُقِ اللهُ وَلَا تَسْمُ  
 گیا تیری پر نہ تھا اور چاہیے کہ تو توحید الہی کے لئے کے وقت میں ہمیں نہ ہو اور چاہیے کہ تو لوگوں کی کثرت ملاقات سے تمک  
 مِنَ النَّاسِ ۚ وَوَسِعَ مَكَانَكَ ۚ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَهُمْ قَدَمٌ  
 نہ جائے اور تجھے لازم ہے کہ اپنے مکانوں کو وسیع کرنے والی جو کثرت اٹھیں گے تو اتنے کیلئے کافی گنجائش ہو اور ایمان والوں کو  
 صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَاشْلُ عَلَيْهِمْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ  
 خود بخبری سے کہ خدا کے حضور میں نہاقدہ صحت پر ہے۔ اور جو کچھ تیرے رب کی طرف تیرے پر وہی نازل کی گئی ہے وہ ان لوگوں کو سنا ہو  
 أَصْحَابُ الصُّفَّةِ ۚ وَمَا آذَرَكَ مَا أَصْحَابُ الصُّفَّةِ ۚ تَرَى أَعْيُنَهُمْ  
 تیری جماعت میں داخل ہوں گے جملہ کے ہونے والے اور تو کیا جانتا ہے کہ کیا ہیں صفہ کے رہنے والے تو مجھے گا کہ ان لوگوں سے  
 تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ ۚ يُصَلُّونَ عَلَيْكَ ۚ رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا  
 آنسو جاری ہوں گے وہ تیرے پر درود بھیجیں گے اور کہیں گے کہ اے ہم سے خدا ہم نے ایک ندا کی کہ نہ والے  
 يُنَادِيَنِ لِلْإِيمَانِ ۚ وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ وَبِرَاجًا مُنِيرًا ۚ يَا أَحْمَدُ  
 کی آواز سننے سے جو ایمان کی طرف بلاتا ہے اور خدا کی طرف بلاتا ہے اور ایک چمکتا ہوا چہرہ ہے۔ اے احمد

لَهُ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ ۚ اور خدا کا وعدہ پورا ہوگا۔ (ترجمہ از عرب)

يَحْمَدُكَ اللَّهُ وَيَنْشِي إِلَيْكَ  
 خدا تیری تعریف کرتا ہے اور تیری طرف چلا آتا ہے  
 أَلَا إِنَّ نَعْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ  
 خبردار ہو خدا کی مدد نزدیک ہے  
 سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا

پاکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ کو رات کے وقت میں سیر کرایا۔ یعنی فضیلت اور گمراہی کے زمانہ میں  
 جرات سے مشابہ ہے۔ مقامات معرفت اور یقین تک لگنی طور سے پہنچایا۔

خَلَقَ آدَمَ فَآخَرَمَهُ  
 پیدا کیا آدم کو پس اکرام کیا اس کا  
 جَرَى اللَّهُ فِي خَلْقِ الْإِنْسِيَاءِ  
 جری اللہ نبیوں کے مخلوق میں

اس فقرہ الہامی کے یہ معنی ہیں کہ منصب ارشاد اور ہدایت اور مورد وحی الہی ہونے کا دراصل نملہ انبیاء  
 ہے اور ان کے غیر کو بطور مستعار ملتا ہے اور یہ نملہ انبیاء امت محمدیہ کے بعض افراد کو بغرض تکمیل ناقصین عطا ہوتا  
 ہے اور اسی کی طرف اشارہ ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عَلَمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔  
 پس یہ لوگ اگرچہ نبی نہیں پر نبیوں کا کام ان کو سپرد کیا جاتا ہے۔

وَكُنْتُمْ عَلَيَّ شَفَاخُفْرَةً فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا

اور تم تھے تم ایک گڑھے کے کنارے پر سو اس سے تم کو خلاصی بخشی۔ یعنی خلاصی کا سامان عطا فرمایا۔  
 تَلَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَذَحَّهَ عَلَيْكُمْ۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عَدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَيْثُورًا  
 خدا تعالیٰ کا ارادہ اس بات کی طرف متوجہ ہے جو تم پر دم کرے۔ اور اگر تم نے گناہ اور سرکشی کی طرف رجوع کیا تو  
 ہم بھی سزا اور عقوبت کی طرف رجوع کریں گے اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لئے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ ....  
 تَوْبُوا وَأَصْلِحُوا وَإِلَى اللَّهِ تُوجَّهُونَ وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُوا وَأَنْتُمُ الْيَائِسُونَ وَالصَّلَاةُ  
 توبہ کرو اور فسق اور فحور اور کفر اور معصیت سے باز آؤ اور اپنے مال کی اصلاح کرو اور خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ  
 اور اس پر تکیہ کرو اور صبر اور صلوة کے ساتھ اس سے مدد چاہو کیونکہ نیکیوں سے بدیاں دور ہو جاتی ہیں۔  
 بَشِّرْ لَكَ يَا أَحْمَدُ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ مُرَادِي وَمَعِي غَدَسْتُ كَرَامَتِكَ بِمَيْدِي۔

لہ حضرت احمد نے اس امام کو ایمان دے کے کہ (روحانی خزائن جلد ۱ صفحہ ۲۷۷) پر اور اس کے علاوہ کئی اور مقامات پر بھی بکوار براہین احمدیہ  
 ان تیرہ جگہ درج فرمایا ہے (روحانی خزائن جلد ۱ صفحہ ۲۸۰) جس سے معلوم ہوتا ہے کہ غلو کا لفظ سو کاتب ہے۔ (ترتیب)

وَاذْيَسْكُرِيكَ الَّذِي كَلَّمَهُ اَوْ قَدَّرَ لِي مَا مَانَ لَعَلِّي اَصْلِعُ عَلَيَّ  
 پہلے اور یاد کرو وہ وقت جب تم سے وہ شخص نکلنے لگا جس نے تم کو کھینچ کر اور تجھے کافر ٹھہرانے اور کہہ کر اسے ہاں سے دھکیل دیا اور کہا میں  
 اِلٰهِ مُوسٰى! وَاِنِّي لَا اُظَنُّهُ مِنْ الْكَاذِبِيْنَ ؕ تَبَّتْ يَدَا اٰمِيْنَ لَهَيْبِ  
 موسیٰ کے خدا پر اطلاع پاؤں اور میں اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ ہلاک ہو گئے دونوں ہاتھ ابی لہب کے  
 وَتَبَّتْ يَدَا مَآكَانَ لَهٗ اَنَّ يَدْخُلُ فِيْهَا اِلَّا خَائِفًا ؕ وَمَا اَمَّا بَكَ فَمِنَ اللّٰهِ  
 اور وہ آپ بھی ہلاک ہو گیا اس کو نہیں پائیے تھا کہ اس معاملہ میں دخل دیتا مگر ڈرتے ڈرتے اور جو کچھ تجھے پہنچے گا وہ تو خدا کا  
 الْفِتْنَةُ هُمْنَا ؕ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اَوْلُو الْعَزِيْرِ ؕ اِلَّا اِنَّهَا فِتْنَةٌ مِّنَ اللّٰهِ  
 طرف سے ہے اس جگہ ایک فتنہ برپا ہو گا پس صبر کر جیسا کہ اولوالعزم نبیوں نے صبر کیا۔ وہ فتنہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو گا  
 لِيُجِيبَ حُبًّا حَمًا. حُبًّا مِّنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْاَكْرَمِ ؕ شَاتَايْنِ شُدُّ بَعَانٍ ؕ وَكُلٌّ مِّنَ  
 تا وہ تجھ سے محبت کرے۔ وہ اس خدا کی محبت ہے جو بہت غالب اور بہت بزرگ ہے۔ دو بکرےیں ذبح کی جائیں گی۔ اور ہر ایک  
 عَلَيْهَا فَايْنٌ ؕ وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا ؕ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدًا ؕ اَلَمْ تَعْلَمُوْا  
 جو زمین پر ہے آخر وہ فنا ہو گا۔ تم کچھ غم مٹھو اور اترو وہ گیس مت ہو۔ کیا خدا اپنے بندے کے لیے کافی نہیں دیکھتے نہیں جانا  
 اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ؕ وَاِنْ يَّتَّخِذْ وَّنَكَ اِلَّا هٰزُوًا ؕ اِهْدِ الَّذِي  
 کہ خدا ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ اور تجھے انہوں نے ٹھٹھے کی جگہ بنا رکھا ہے۔ وہ سنسہ کی راہ سے کہتے ہیں کیا یہی ہے  
 بَعَثَ اللّٰهُ ؕ كُلَّ اُمَّةٍ اَنْبَاۓ بَشَرٍ مِّثْلِكُمْ يُؤْتِيْ اِلٰنَا اَلْمُكْرَمٰلَهُ وَاِجْدُ  
 جس کو خدا نے مبعوث فرمایا؟ اہی کو کہ کہیں تو ایک انسان ہوں میری طرف یہ وہی ہوئی ہے کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے  
 وَ الْخَبْرُ كُلُّهُ فِي الْقُرْاٰنِ ؕ لَا يَنْتَعِزُّ اِلَّا السُّطُوْرُوْنَ. كَلِمَ اِنَّ هُدٰى اللّٰهُ  
 اور تمام بھلائی اور نیکی قرآن میں ہے کسی دوسری کتاب میں نہیں۔ اس کے سوا رکھتا ہی نہیں ہے جو ایک کتاب میں کہ ہدایت

لے مکفر سے مراد مولوی ابوسعید محمد حسین بٹالوی ہے۔ کیونکہ اس نے استفتاء لکھ کر نذیر حسین کے  
 سامنے پیش کیا اور اس ملک میں تکفیر کی آگ بھڑکانے والا نذیر حسین ہی تھا۔ عَلَيْنَا مَا  
 يَسْتَحِقُّهُ. مِنْهُ

(حقیقۃ الوحی صفحہ ۸۱ حاشیہ۔ روحانی خزائن جلد ۲۲ صفحہ ۸۳)

یہ اس جگہ اہل بیت کے مراد ایک دہلوی مولوی ہے جو فوت ہو چکا ہے اور یہ پیشگوئی ۲۵ برس کی ہے جو براہین احمدیہ میں درج ہے اور  
 یہ اسی زمانہ میں شائع ہو چکا ہے جبکہ میری نسبت تکفیر کا فتویٰ بھی ان مولویوں کی طرف سے نکلا تھا۔ تکفیر کے فتویٰ کا بانی بھی وہی دہلوی مولوی  
 تھا جس کا نام خدا تعالیٰ نے اہل بیت رکھا اور تکفیر سے ایک مدت دراز پہلے یہ خبر سے دی جو براہین احمدیہ میں درج ہے۔ منہ  
 (حقیقۃ الوحی صفحہ ۸۱ حاشیہ۔ روحانی خزائن جلد ۲۲ صفحہ ۸۳)

هُوَ الْهُدَىٰ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيَّ رَجُلٌ مِّن قَرِيْبَتَيْنِ عَظِيْمَتَيْنِ  
 دراصل خدا کی ہدایت ہی ہے اور کہیں گے کہ یہی انہی کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں ہوئی جو وہ مشرکوں میں سے کسی ایک شرکاء شریک  
 وَقَالُوا آتَىٰ لَكَ هَذَا إِنَّ هَذَا الْمَكْرُ شَكَرْتُمْ فِي الْمَدِيْنَةِ يَنْظُرُونَ  
 ہے۔ اور کہیں گے کہ تجھ پر تر کمال حاصل ہو گیا یہ تو ایک تمکب ہے جو تم لوگوں نے نکل کر بنایا۔ یہ لوگ تیری طرف دیکھتے ہیں  
 إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ  
 مگر تو انہیں دکھائی نہیں دیتا۔ ان کو کہہ کہ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو اور خدا بھی تم سے محبت کرے۔  
 عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُم ۖ وَإِنْ عُذْتُمْ عَدْنَاهُ ۖ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ  
 خدا آیا ہے تم پر رحم کرے۔ اور اگر تم پھر شرارت کی طرف عود کرو گے تو ہم بھی ظاب دینے کی طرف عود کریں اور ہم نے جہنم کو  
 حَصِيْرًا ۚ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ قُلْ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ  
 کافروں کیلئے قید خانہ بنا لیا ہے اور ہم نے تجھے تلو تیار رحمت کرنے کیلئے بھیجا ہے انکو کہ تم اپنے مکانوں پر اپنے طور پر عمل کرو  
 إِنِّي عَامِلٌ ۚ قَسْوَتَ تَعْلَمُونَ ۚ لَا يُقْبَلُ عَمَلٌ يَّمْتَقِنُ ذَرِيَةً مِّن  
 اور میں اپنے طور پر عمل کر رہا ہوں پھر تمہاری دیر کے بعد تم دیکھ لو گے کہ کس کی خدا مدد کرتا ہے کوئی عمل غیر تقویٰ کے ایک ذرہ  
 غَيْرِ التَّقْوَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا ۗ وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ۚ  
 قبول نہیں ہو سکتا۔ خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جو نیک کاموں میں مشغول ہیں  
 قُلْ إِنْ أَنْتَرَيْتُمْ فَعَلَىٰ إِجْرَامِكُمْ ۚ وَلَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن  
 کہ اگر تم نے انکار کیا ہے تو میری گردن پر میرا گناہ ہے۔ اور میں پہلے اس سے ایک مدت تک تم میں ہی رہتا  
 قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۚ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۚ وَلِيُجْعَلَ آيَةً  
 تم کیا تم کو سمجھ نہیں؟ کیا خدا اپنے بندہ کے لئے کافی نہیں ہے۔ اور ہم اس کو لوگوں کے لئے  
 لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ  
 ایک نشان اور ایک نمونہ رحمت بنائیں گے۔ اور یہ ابتداء سے معقد تھا۔ یہ وہی امر ہے جس میں تم  
 تَمْتَرُونَ ۚ سَلَامٌ عَلَيْكَ ۚ جُعِلَتْ مَبَارَكًا ۚ أَنْتَ مُبَارَكٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ  
 شک کرنے تھے۔ تیرے پر سلام۔ تو مبارک کیا گیا۔ تو دنیا اور آخرت میں مبارک ہے

۱۔ یعنی اس شخص کو وہی کا مود ہونے کا دعویٰ ہے جو پیغمبر کے ایک چھوٹے سے گاؤں قادیان کا رہنے والا ہے۔ کیوں کہ وہی محمد  
 منکر یا دین میں مبعوث نہ ہوا جو سرزمین اسلام ہے۔ منہ (حقیقۃ الوحی صفحہ ۲۷، حاشیہ۔ روحان خزائن جلد ۲ صفحہ ۱۸۵)  
 ۲۔ الہام کے الفاظ فی المدینۃ کا ترجمہ "شہر میں" حقیقۃ الوحی کے پہلے ایڈیشن میں بھی موجود نہیں ہے۔ (مرتب)

هُوَ الْمُهْدَى دَوْقَالَ الْوَالِدُ لَا نُزِلَ عَلَيَّ رَجُلٌ مِّنْ قَرِيْبَتَيْنِ عَظِيْمَتَيْنِ  
 دراصل خدا کی ہدایت ہی ہے اور کہیں گے کہ یہ جو انہی کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں ہوئی جو وہ مشرکوں میں سے کسی ایک شرک باشندہ  
 وَقَالَ لَوْ أَنِّي لَكَ هَذَا إِنَّ هَذَا الْمَكْرُ مَكْرٌ تَسُوهُ فِي الْمَدِيْنَةِ يَنْظُرُونَ  
 ہے۔ اور کہیں گے کہ تجھے ترتر کہاں حاصل ہوگی یہ تو ایک مکرب ہے جو تم لوگوں سے مل کر بنایا۔ یہ لوگ تیری طرف دیکھتے ہیں  
 إِلَيْكَ وَعُمْدٌ لَا يُبْصِرُونَ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ  
 مگر تو انہیں دکھائی نہیں دیتا۔ ان کو کہہ کہ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو او میری پیروی کرو تا خدا بھی تم سے محبت کرے۔  
 عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمُ ۚ وَإِنْ عُذْتُمْ عَدُوًّا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ  
 خدا آیا ہے تا تم پر رحم کرے۔ اور اگر تم پھر شرارت کی طرف جوڑو گئے تو ہم بھی مذاب دینے کی طرف جوڑیں اور ہم نے جہنم کو  
 حَصِيْرًا ۚ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۚ قُلِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ  
 کافروں کیلئے قید خانہ بنا دیا ہے اور ہم نے تجھے تمام دنیا پر رحمت کرنے کیلئے بھیجا ہے تاکہ تم اپنے مکانوں پر اپنے طور پر عمل کرو  
 إِنِّي عَامِلٌ ۚ فَمَنْ تَعْلَمُونَ ۚ لَا يُقْبَلُ عَمَلٌ يَثْقَالُ ذَرَّةً قِسْفِ  
 اور میں اپنے طور پر عمل کر رہا ہوں پھر تم کوئی دوسرے کے بعد تم دیکھ لو گے کہ کس کی خدا دکھاتا ہے کوئی عمل بغیر تقویٰ کے ایک ذرہ  
 غَيْرِ التَّقْوَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ۚ  
 قبول نہیں ہو سکتا۔ خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جو نیک کاموں میں مشغول ہیں  
 قُلْ إِنْ أَنْتَرَيْتُمْ فَكُلُوا مِنْ جَدَارِهَا وَلَا تَقْدُ لَيْسَتْ فِيكُمْ عُمْدٌ مِّنْ  
 کہ اگر میں نے انفر کیا ہے تو میری گردن پر میرا گناہ ہے۔ اور میں پہلے اس سے ایک مدت تک تم میں ہی رہتا  
 قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۚ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا ۚ وَلِيَجْعَلَ آيَةً  
 تمہاری تم کو سمجھ نہیں؛ کیا خدا اپنے بندہ کے لئے کافی نہیں ہے۔ اور ہم اس کو لوگوں کے لئے  
 لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ  
 ایک نشان اور ایک نمونہ رحمت بنائیں گے۔ اور یہ ابتداء سے متقدر تھا۔ یہ وہی امر ہے جس میں تم  
 تَمْتَرُونَ ۚ سَلَامٌ عَلَيْكَ ۚ جُعِلَتْ مَبَارِكًا ۚ أَنْتَ مَبَارِكٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ  
 شک کرنے سے تیرے پر سلام۔ تو مبارک کیا گیا۔ تو دنیا اور آخرت میں مبارک ہے

۱۔ یعنی اس شخص کو مدعی موعود ہونے کا دعویٰ ہے جو پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں قادیان کا رہنے والا ہے۔ کیوں مدعی موعود  
 مکر یا دین میں مبعوث نہ ہوا جو سرزمین اسلام ہے۔ منہ (حقیقۃ الوحی صفحہ ۸۷ حاشیہ۔ روحانی خزائن جلد ۲۲ صفحہ ۸۵)  
 ۲۔ الہام کے اظہار فی المدینۃ کا ترجمہ "شیر میں" حقیقۃ الوحی کے پہلے ایڈیشن میں بھی موجود نہیں ہے۔ (مرتب)



وَكُن مَعِيَ أَيَّمَا كُنْتَ. كُن مَعَهُ اللَّهُ حَيْثُمَا كُنْتَ. أَيَّمَا تَوَلَّوْا فَتَعَرَّ وَنِعْمَةُ اللَّهِ.  
 كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ وَانْتَخَرْنَا الْمُؤْمِنِينَ. وَلَا تَيْسَسْ مِنْ  
 رُوحِ اللَّهِ الْآيَاتِ رُوحِ اللَّهِ قَرِيبٌ. الْآيَاتِ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. يَا أَيُّهَا مَنْ كُلِّ فَجْرٍ  
 عَمِيْقٍ. يَا تَوَنُّ مِنْ كُلِّ فَجْرٍ عَمِيْقٍ. يَنْصُرُكَ اللَّهُ مِنْ عِنْدِهِ. يَنْصُرُكَ رِجَالٌ  
 يُؤَيِّدُ الْيَهُودَ مِنَ السَّمَاءِ لَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ. أَيُّهَا فَتَعَرَّكَ فَتَعَرَّكَ مَبْدَلًا.  
 فَتَحُ الْوَلِيِّ فَتَحُ وَقَرَّبْنَا نَجِيًّا. أَشْجِيَةَ النَّاسِ. وَلَوْ كَانَ الْإِيْمَانُ مُعَلَّقًا  
 بِالسَّمَاوَاتِ لَنَالَهُ. أَكَا رَأَيْتُمْ بَرَهَانَهُ. يَا أَحْمَدُ فَاضَيْتِ الرَّحْمَةَ عَلَى شَفِيْقِكَ.  
 إِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا يَرْزُقُكَ اللَّهُ ذِكْرَكَ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَوَجَدَكَ  
 حَالًا فَهَدَى. وَنَظَرْنَا إِلَيْكَ وَكَلَّمْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيْمَ خَرَاتِيْمُ  
 نِعْمَةُ رَبِّكَ. يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قَانِذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. يَا أَحْمَدُ يَتِمُّ اسْمُكَ

ان کو عذاب کرے۔ میں تیرے ساتھ ہوں سو تو ہر ایک جگہ میرے ساتھ رہ۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدہ کیلئے  
 نکالے گئے ہو۔ تم مومنوں کا فخر ہو اور تم خدا کی رحمت سے نوید مت ہو خبردار ہو کہ خدا کی رحمت قریب ہے۔  
 خبردار ہو کہ خدا کی مدد تجھ سے قریب ہے وہ مدد ہر ایک دور کی راہ سے تجھے پہنچے گی اور ایسی راہوں سے پہنچے گی  
 کہ وہ راہ لوگوں کے بہت چلنے سے جو تیری طرف آئیں گے گہرے ہو جائیں گے۔ اور اس کثرت سے لوگ تیری طرف  
 آئیں گے کہ جن ماہوں پر وہ چلیں گے وہ عمیق ہو جائیں گے۔ خدا اپنی طرف سے تیری مدد کرے گا۔ تیری مدد وہ لوگ  
 کریں گے جن کے دلوں میں ہم اپنی طرف سے اہم کریں گے۔ خدا کی باتوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ہم ایک کھل کھلی  
 فتح تجھ کو عطا کریں گے۔ وہی کی فتح ایک بڑی فتح ہے اور ہم نے اس کو ایک ایسا قرب بخشا کہ ہمارا اپنا بنا  
 دیا۔ وہ تمام لوگوں سے زیادہ بہادر ہے۔ اور اگر ایمانی ثریا سے معلق ہوتا تو وہیں سے جا کر اس کو  
 لے لیتا۔ خدا اس کی محبت روشن کرے گا۔ اے احمد تیرے نبیوں پر رحمت جاری کی گئی۔  
 تو میری آنکھوں کے سامنے ہے خدا تیرا ذکر بلند کرے گا اور اپنی نعمت دُنیا اور آخرت میں تیرے پر پوری کرے گا۔ اور تم نے

لے (ترجمہ از قرب) اور اس نے جب خطاب ہدایت پایا پس اس نے تیری رہنمائی کی۔

لے (ترجمہ از قرب) تیرے رب کی رحمت کے (ہر قسم کے) خزانے (تجھے دینے جائیں گے) اے کپڑا اور منے والے اٹھ اور

لوگوں کو آنے والے خطرات سے اور اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر۔

علی علیہ السلام حضرت موسیٰ سے چودھویں صدی میں پیدا ہوئے تھے۔ جس بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے چودھویں صدی میں ظاہر ہوا ہوں اور اس آخری زمانہ کی نسبت خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ خبریں بھی دی تھیں کہ کتابیں اور رسالے بہت سے دنیا میں شائع ہو جائیں گے اور قوموں کی باہمی ملاقات کے لئے راہیں کھل جائیں گی۔ اور دریاؤں میں سے بکثرت نہریں نکلیں گی۔ اور بہت سی نئی کانیں پیدا ہو جائیں گی۔ اور لوگوں میں مذہبی امور میں بہت سے تنازعات پیدا ہونگے۔ اور ایک قوم دوسری قوم پر حملہ کرے گی۔ اور اسی اشاروں کے مطابق سے ایک صور پھونکی جائیگی۔ یعنی خدا تعالیٰ مسیح موعود کو بھیج کر اشاعت دین کے لئے ایک بجلی فرمائیگا۔ تب دین اسلام کی طرف ہر ایک ملک میں سعید الفطرت لوگوں کو ایک رغبت پیدا ہو جائیگی۔ اور جس خدا تک خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے تمام زمین کے سعید لوگوں کو اسلام پر جمع کرے گا۔ تب آخر ہوگا۔ سو یہ تمام باتیں ظہور میں آئیں گی۔ ایسا ہی احادیث صحیحہ میں آیا تھا کہ وہ مسیح موعود صدی کے سر پر آئیگا۔ اور وہ چودھویں صدی کا مجدد ہوگا۔ سو یہ تمام علامات بھی اس زمانہ میں پوری ہو گئیں۔ اور نکھا تھا کہ وہ اپنی پیدائش کی رُود سے دوسریوں میں اشتراک رکھے گا۔ اور دُونا نام پائے گا۔ اور مسیٰ

پڑا تھا کہ یہ انہوں نے غلطی کی ہے۔ یہودیوں کی تاریخ سے بالاتفاق ثابت ہے کہ یسوع یعنی حضرت موسیٰ کے بعد چودھویں صدی میں ظاہر ہوا تھا اور وہی قول صحیح ہے اگرچہ مشابہت کے ثابت کرنے کیلئے پروردگار تعالیٰ ضروری نہیں ہوا کرتی جیسا کہ اگر کسی کو کسی کو کہیں کہ یہ شیر ہے تو یہ ضروری نہیں کہ شیر کا اس کے پنجے اور کھال ہو اور دم بھی ہو اور آواز بھی شیر کا ہے بلکہ ایک شخص کو دوسرا کھیل کھیلنے میں ایک حد تک مشابہت کافی ہوتی ہے۔ پس اگر عیسائیوں کا قول قبول کریں کہ حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ چودھویں صدی میں ہوئے تھے ہم مضائقہ نہیں کہ چودھویں صدی میں چودھویں صدی کا ہم کو تو یہی ہوا مستند فرقہ نانہ کا مشابہت میں کچھ حرج نہیں بلکہ اگر ہم یہودیوں کے قول کو ترجیح دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یسوع یعنی حضرت موسیٰ کے بعد میں چودھویں صدی میں نبوت ہوا تھا کیونکہ ان کا تہجد میں برائی نویت، بہ نسبت عیسائیوں کے تراجم کے صحیح ہے۔ منہا

پیدائش دو خاندان سے اشتراک رکھتیگی۔ اور چوتھی دو گونہ صفت یہ کہ پیدائش میں بھی جوڑے کے طور پر پیدا ہوگا۔ سو یہ سب نشانیاں ظاہر ہو گئیں۔ کیونکہ دو صدیوں کے اشتراک رکھنا یعنی دو القرن ہونا میری نسبت ایسا ثابت ہے کہ کسی قوم کی مقرر کردہ صدی ایسی نہیں ہے جس میں میری پیدائش اس قوم کی دو صدیوں پر مشتمل نہیں۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کی طرف سے دو نام میں نے پائے۔ ایک میرا نام اُمّتی رکھا گیا جیسا کہ میرے نام علامہ احمدیہ سے ظاہر ہے۔ دوسرے میرا نام ظلی طور پر نبی رکھا گیا۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے حصص سابقہ برائین احمدیہ میں میرا نام احمد رکھا۔ اور اسی نام سے بار بار مجھ کو پکارا اور یہ اسی بات کی طرف اشارہ تھا کہ میں ظلی طور پر نبی ہوں۔ پس میں اُمّتی بھی ہوں اور ظلی طور پر نبی بھی ہوں۔ اسی کی طرف وہ وحی الہی بھی اشارہ کرتی ہے جو حصص سابقہ برائین احمدیہ میں ہے۔ مکتب برکتہ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتبارک من علم و تعلم۔ یعنی ہر ایک برکت انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ پس بہت برکت والا وہ انسان ہے جس نے تعلیم کی یعنی انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر بعد اس کے بہت برکت والا وہ ہے جس نے تعلیم پائی یعنی یہ عاجز۔ پس اتباع کامل کی وجہ سے میرا نام اُمّتی ہوا۔ اور پورا عکس نبوت حاصل کرنے سے میرا نام نبی ہو گیا۔ پس اس طرح پر مجھے دو نام حاصل ہوئے۔ جو لوگ بار بار اعتراض کرتے ہیں کہ صحیح مسلم میں آنے والے عیسیٰ کا نام نبی رکھا گیا ہے ان پر لازم ہے کہ یہ ہمارا بیان تو جسے پڑھیں کیونکہ جس مسلم میں آئیو اے عیسیٰ کا نام نبی رکھا گیا ہے اسی مسلم میں آئیو اے عیسیٰ کا نام اُمّتی بھی رکھا گیا ہے۔ اور

بذکر کوئی شخص سبک نہ ہوئے لفظ مودود کا ذکر کیا۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ یہ وہ نبوت ہے جو ایک مستقل نبوت کہلائے اور کوئی مستقل نبی اتنی نہیں کہا سکتا۔ مگر میں اُمّتی ہوں۔ پس یہ ضرور خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک نئی نام ہے جو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہوا۔ انحضرت صلی نے تجل مشاہدت ہو۔ منہج

اور کر سوچو بمقتد جا پہلے یاد رکھو کہ عنقریب خدا تمہیں دکھلا دے گا کہ اس کا ہاتھ غالب ہے۔ نادان کہتا ہے کہ میں اپنے منسوبوں سے غالب ہو جاؤں گا۔ مگر خدا کہتا ہے کہ اے لعنتی دیکھ میں تیرے مارے منسوبے خاک میں ملا دوں گا۔ اگر خدا چاہتا تو ان مخالف مولو لوں اور ان کے پیروؤں کو آنکھیں بختا اور وہ ان وقتوں اور موقعوں کو پہچان لیتے جن میں خدا کے مسیح کا آنا ضروری تھا۔ لیکن ضرور تھا کہ قرآن شریف اور احادیث کی وہ پیشگوئیاں پوری ہوتیں جن میں لکھا تھا کہ مسیح موعود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھ اٹھائیں گے۔ وہ اس کو کافر قرار دیں گے اور اس کے قتل کے لئے فتوے دیئے جائیں گے اور اس کی سخت توہین کی جائیگی اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا۔ سو ان دنوں میں وہ پیشگوئی انہی مولو لوں نے اپنے ہاتھوں سے پوری کی۔ انیسویں سوچتے نہیں کہ اگر یہ دعویٰ خدا کے امر اور ارادہ سے نہیں تھا تو کیوں اس مدعی میں پاک اور صادق نبیوں کی طرح بہت سے سچائی کے دلائل جمع ہو گئے؟ کیا وہ رات ان کیسے ماتم کی رات نہیں تھی جس میں میرے دعوے کے وقت رمضان میں خسوف کسوف میں پیشگوئی کی تاریخوں میں وقوع میں آیا۔ کیا وہ دن ان پر مصیبت کا دن نہیں تھا جس میں مکرم کی نسبت پیشگوئی پوری ہوئی۔ خدا نے بادش کی طرح نشان برمائے مگر ان لوگوں نے آنکھیں بند کر لیں تا ایسا نہ ہو کہ دیکھیں اور ایمان لائیں۔ کیا یہ سچ نہیں کہ یہ دعویٰ غیر وقت پر نہیں بلکہ عین صدی کے سر پر اور عین ضرورت کے دنوں میں ظہور میں آیا۔ اور یہ امر قدیم سے اور جب سے کہ بنی آدم پیدا ہوئے سنت اللہ میں داخل ہے کہ عظیم الشان صلح صدی کے سر پر اور عین ضرورت کے وقت میں آیا کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد ساتویں صدی کے سر پر جبکہ تمام دنیا تاریکی میں پڑی تھی ظہور فرمایا ہوئے اور جب سات کو دگن کیا جائے

۴ مئی ۱۹۰۶ء "إِنِّي مَعَهُ الْأَكْرَامِ لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقَ"

(بدردجلد ۲ نمبر ۱۹ مورخہ ۱۰ مئی ۱۹۰۶ء صفحہ ۱۱)

۵ مئی ۱۹۰۶ء روایا۔ ایک شخص نے ایک دوای کو لاواٹن کی ایک بوتل دی جو سرخ رنگ کی دوای ہے اور بوتل بند کی ہوئی ہے اور اس پر رستیاں لپیٹی ہوئی ہیں۔ ظاہر دیکھنے میں تو بوتل ہی نظر آتی ہے مگر جس شخص نے دی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کتاب دیتا ہوں۔ دیکھنے میں تو بوتل ہی نظر آتی تھی لیکن کہنے میں وہ شخص اس کا نام کتاب رکھتا ہے۔ اس وقت میں کہتا ہوں کہ اس کا وقت آ گیا ہے۔ اس کو نوکر رکھا جائے۔ اور میں نے اس کتاب پر دستخط کر دیئے ہیں۔ پھر الہام ہوا۔

یہ میری کتاب ہے اس کو کوئی ہاتھ نہ لگاوے مگر وہی جو میرے خاص خدمت گار ہیں۔

پھر الہام ہوا۔

اللَّهُ يُعَلِّمُنَا وَلَا نُعَلِّمُ

فرمایا۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ ہم دشمنوں پر غالب ہوں گے اور دشمن سے مغلوب نہ ہوں گے۔

(بدردجلد ۲ نمبر ۱۹ مورخہ ۱۰ مئی ۱۹۰۶ء صفحہ ۲۔ الحکم جلد ۱۰ نمبر ۱۶ مورخہ ۱۰ مئی ۱۹۰۶ء صفحہ ۱۱)

۵ مئی ۱۹۰۶ء "پھر بہار آئی، تو آئے تلج کے آنے کے دن

تلج کا لفظ عربی ہے۔ اس کے ایک تو یہ معنی ہیں کہ وہ برف جو آسمان سے پڑتی ہے اور شدت سردی کا موجب ہو جاتی ہے اور بارش اس کے لازم سے ہوتی ہے۔ اس کو عربی میں تلج کہتے ہیں۔ ان معنوں کی بناء پر اس پیشگوئی کے یہ معنی معلوم ہوتے ہیں کہ بہار کے دنوں میں آسمان سے ہمارے ملک میں خدا تعالیٰ غیر معمولی طور پر یہ آفتیں نازل کرے گا اور برف اور اس کے لازم سے شدت سردی اور کثرت بارش ظہور میں آئے گی اور دوسرے معنی اس کے عربی میں اطمینان قلب حاصل کرنا ہے۔ یعنی انسان کو کسی امر پر ایسے دلائل اور شواہد میسر آجائیں جس سے اس کا دل مطمئن ہو جائے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ فلاں تو میرے موجب تلج قلب ہو گئی۔ یعنی ایسے دلائل قاطعہ بیان کئے گئے جن سے کلی اطمینان ہو گئی۔ اور یہ لفظ کبھی خوشی اور راحت پر بھی استعمال کیا جاتا ہے جو اطمینان قلب کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ جب انسان کا دل کسی

سے (ترجمہ) تحقیق میں بزرگوں کے ساتھ ہوں۔ اگر تو نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔

سے (ترجمہ) اللہ تعالیٰ ہمیں اوجھا کرے گا ہم نیچے نہیں گئے جائیں گے۔

۱۸ اکتوبر ۱۸۹۹ء "بافعل خدا تعالیٰ نے میرے دل میں یہی ڈالا ہے کہ بیعت کرنے والے دو قسم میں رکھے جائیں گے، ایک جو اعلیٰ اور صاف تر زندگی کے خواہشمند اور خدا تعالیٰ کے منشاء کی اطاعت کے لئے حاضر ہیں اور ایک وہ جو کسی قدر کمزور ہیں۔" (انقباس مکتوب نمبر ۴۱۱، حضرت مسیح موعود علیہ السلام مورخہ ۱۸ اکتوبر ۱۸۹۹ء مندرجہ تشیخہ الاذہان جلد ۶، نمبر ۶، جون ۱۹۱۲ء صفحہ ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵)

۱۸۹۹ء "حضرت اقدس کو روایا ہوئی کہ حامد علی اگر کتاب ہے کہ باہر ایک ہندو کھڑا ہے اور دعا کے لئے درخواست کرتا ہے حضور اقدس اسے کہتے ہیں کہ بے نذر لئے ہم دعا کرنے کے نہیں۔ پھر حامد علی دوبارہ واپس آتا ہے تو ایک چھوٹا بیگ اور دو چادریں ہیں ان میں روپیہ بھر کر لاتا ہے۔ فرمایا ہندو سے مراد ایسا شخص ہوا کرتا ہے جو دنیا کے غم ہم میں مبتلا ہو اور چاہے کہ کسی طرح دنیوی ابتلاؤں سے نجات ہو۔" (مکتوب مولوی عبدالکریم صاحب مندرجہ تشیخہ الاذہان جلد ۶، نمبر ۶، جون ۱۹۱۲ء صفحہ ۲۳۴)

۵ جنوری ۱۹۰۰ء (الف) ۵ جنوری ۱۹۰۰ء کو صبح کی نماز کے وقت حضرت اقدس نے فرمایا کہ پرسوں کی نماز میں جب میں التحيات کے لئے بیٹھا تو بجائے التحيات کے یہ دعا پڑھنے لگ گیا صَلَّى اللهُ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْكَ وَوَيْدَةَ دُعَاءُ أَعْدَائِكَ عَلَيْهِمْ. حضرت صاحب فرماتے تھے کہ میں نے خیال کیا کہ یہ کیا پڑھ رہا ہوں تو معلوم ہوا کہ الہام ہے۔ (روایت منشی محمد الدین صاحب واصل باقی نویں۔ رجسٹر روایات صحابہ جلد ۱۱، صفحہ ۱۰۳ و رجسٹر روایات صحابہ جلد ۱۱، صفحہ ۱۰۴)

(ب) صاحبزادہ پیر سراج الحق صاحب جمالی نعمانی نے بیان کیا کہ:-

"ایک روز مغرب کی نماز پڑھی گئی اور میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس کھڑا تھا۔ جب نماز کا سلام پھیر گیا تو آپ نے پایاں ہاتھ میری دائیں ران پر رکھ کر فرمایا کہ صاحبزادہ صاحب! اس وقت میں التحيات پڑھتا تھا اللہ میری زبان پر جاری ہوا کہ:-

صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ وَعَلَى مُحَمَّدٍ

(الحکم جلد ۲۶، نمبر ۱۹، مؤرخہ ۲۱ مئی ۱۹۲۲ء صفحہ ۵)

لے (نوٹ از مرتب) یہ مکتوب حضرت مولانا نے افریقہ کے ایک شخص کو لکھا اور اس میں یہ بھی لکھا کہ "آپ کا وعدہ ارسال روپیہ آنے سے ایک ہفتہ قبل حضور اقدس کو روایا ہوئی..... پھر جب نام بنام فرست چندہ پر مشتمل خط آیا تو تاویل و تصدیق واضح ہو گئی۔" (مکتوب مذکور)

لے (ترجمہ از مرتب) اللہ تعالیٰ محمد پر صلوٰۃ بھیجے اور تجھ پر بھی اور تیرے دشمنوں کی بددعاؤں پر کوٹا دی جائے گی۔

خانکار عرض کرتا ہے کہ کپور تھلہ کی جماعت ایک خاص جماعت تھی۔ اور نہایت مخلص تھی۔ ان میں سے تین دوست خاص طور پر ممتاز تھے۔ یعنی میاں محمد خاں صاحب مرحوم، منشی روڑے خاں صاحب مرحوم اور منشی ظفر احمد صاحب۔ اول الذکر بزرگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے اور ثانی الذکر خلافتِ ثانیہ میں فوت ہوئے اور ثالث الذکر ابھی تک زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں تادیر سلامت رکھے اور ہر طرح محفوظ و ناصر ہو۔ آمین۔ نیز خانکار عرض کرتا ہے کہ مکرم منشی ظفر احمد صاحب کے اس اخلاص کے اظہار میں تین لطافتیں ہیں ایک تو یہ کہ جو رقم جماعت سے مانگی گئی تھی وہ انہوں نے خود اپنی طرف سے پیش کر دی، دوسرے یہ کہ پیش بھی اس طرح کی کہ نقد موجود نہیں تھا تو زیور فروخت کر کے روپیہ حاصل کیا۔ تیسرے یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جتا یا تک نہیں کہیں خود اپنی طرف سے زیور بچکر لایا ہوں۔ بلکہ حضرت صاحب ہی سمجھتے رہے کہ جماعت نے چندہ جمع کر کے یہ رقم بچوائی ہے۔ دوسری طرف منشی روڑے خاں صاحب کا اخلاص بھی ملاحظہ ہو کہ اس خفقہ میں منشی ظفر احمد صاحب سے چھ ماہ ناراض رہے کہ اس خدمت کے موقعہ کی اطلاع مجھے کیوں نہیں دی۔ یہ نظارے کس درجہ روح پرور کس درجہ ایمان افروز ہیں۔ اسے محمدی سلسلہ کے برگزیدہ مسیح! تجھ پر خدا کا لاکہ لاکہ درود اور لاکہ لاکہ سلام ہو کہ تیرا شکر کیسا شیرین ہے۔ اور اسے محمدی مسیح کے حلقہ بگوشو! تم پر خدا کی لاکہ لاکہ رحمتیں ہوں کہ تم نے اپنے عہدِ اخلاص و وفا کو کس خوبصورتی اور جاں نثاری کے ساتھ نبھایا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی نے بذریعہ تحریر مجھ سے بیان کیا کہ ادائیل میں جب میں قادیان جاتا تو اس کمرے میں ٹھہرتا تھا۔ جو مسجد مبارک سے ملحق ہے اور جس میں سے ہو کر حضرت صاحب مسجد میں تشریف لے جاتے تھے ایک دفعہ ایک مولوی جو ذی علم شخص تھا۔ قادیان آیا۔ بارہ نمبر وار اس کے ساتھ تھے۔ وہ مناظرہ وغیرہ نہیں کرتا تھا بلکہ صرف حالات کا مشاہدہ کرتا تھا ایک مرتبہ رات کو تنہائی میں میرے پاس اس کمرہ میں وہ آیا۔ اور کہا کہ ایک بات مجھے بتائیں کہ مرزا صاحب کی عربی تعانیف ایسی ہیں کہ ان جیسی کوئی نصیح بلیغ عبارت نہیں لکھ سکتا۔ مرزا صاحب کچھ علماء سے مدد لے کر لکھتے ہوئے۔ اور وہ وقت رات کا ہی ہو سکتا ہے تو کیارات کو کچھ آدمی ایسے آپ کے پاس رہتے ہیں جو اس کام میں مدد دیتے ہوں۔ میں نے کہا مولوی







وہ عیب میں داخل ہیں یا چند ایسی پیشگوئیاں پیش کریں جو ان کے نزدیک وہ پوری نہیں ہوئیں۔ مگر وہ امور ایسے ہوں جو انبیاء کے موعوع یا انکی پیشگوئیوں میں ان کی نظیر مل نہ سکے۔ مگر یاد رہے کہ اگر وہ ایسی ہذب اور دانشمند مجلس میں یہ تعصیہ کرنا چاہیں تو ضرور ثابت ہو جائیگا کہ وہ صرف بہتان اور افتراء کرنے والے ہیں۔ غائبانہ ذکر تو صرف غیبت کہلاتا ہے۔ اس سے زیادہ نہیں اور اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا کیونکہ اس میں شخص غیبت کنندہ کو بوجہ اکیلا ہونے کے ہر ایک کذب اور افتراء کی بہت گنجائش ہوتی ہے پس بلاشبہ ایسی غیبت جس مجلس میں مستی جاتی ہے وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک صلحاء کی مجلس نہیں ہے۔ اگر انسان اپنے دل میں بچائی کی طلب رکھتا ہے تو جو بات اس کو سمجھ نہ آوے اس کو پوچھ لینا چاہیے۔ اگر میرے پر یہ الزام لگایا جائے کہ کوئی پیشگوئی میری پوری نہیں ہوئی یا پورا ہونے کی امید جاتی رہی تو اگر میں نے بحوالہ انبیاء و علیہم السلام کی پیشگوئیوں کے یہ ثابت نہ کر دیا کہ درحقیقت وہ تمام پیشگوئیاں پوری ہو گئی ہیں یا بعض انتظار کے لائق ہیں اور وہ اسی رنگ کی ہیں جیسا کہ نبیوں کی پیشگوئیاں تھیں۔ تو بلاشبہ میں ہر ایک مجلس میں جھوٹا ٹھہرونگا۔ لیکن اگر میری باتیں نبیوں کی باتوں سے مشابہ ہیں تو جو مجھے جھوٹا کہتا ہے اس کو خدا تعالیٰ کا خوف نہیں ہے۔ بعض بے خبر ایک یہ اعتراض بھی میرے پر کرتے ہیں کہ اس شخص کی جماعت اس پر فقرہ حیہ الصلوٰۃ والسلام اطلاق کرتے ہیں اور ایسا کرنا حرام ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ میں مسیلم موعوع ہوں۔ اور دوسروں کا صلوٰۃ یا سلام کہنا تو ایک طرف خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس کو پادے۔ میرا سلام اس کو کہے۔ اور احادیث اور تمام موعوع احادیث میں مسیلم موعوع کی نسبت صمد یا جگہ صلوٰۃ اور سلام کا لفظ لکھا ہوا موجود ہے۔ پھر جبکہ میری نسبت نبی علیہ السلام نے یہ لفظ کہا صحابہ نے کہا بلکہ خدا نے کہا تو میری جماعت کا میری نسبت یہ فقرہ بولنا کیوں حرام ہو گیا۔ خود عام طور پر تمام موعوعوں کی نسبت قرآن شریف میں

ان کے گناہوں کا مواخذہ کرتا تو زمین پر ایک بھی زندہ نہ چھوڑتا اور خدا وہ ذات کریم و رحیم ہے کہ جو بارش سے پہلے ہواؤں کو چھوڑتا ہے پھر ہم ایک پاک پانی آسمان سے اتارتے ہیں تا اس سے مری ہوئی بستی کو زندہ کریں اور پھر بہت سے آدمیوں اور ان کے چار پالیوں کو پانی پلا دیں اور ہم پھیر پھیر کر مثالیں بتلاتے ہیں تا لوگ یاد کر لیں کہ نبیوں کے بھیجنے کا یہی اصول ہے اور اگر ہم چاہتے تو ہر ایک بستی کے لئے جبراً خدا رسول بھیجتے مگر یہ اس لئے کیا گیا کہ تا تجھ سے بھاری کوششیں ظہور میں آویں یعنی جب ایک مرد ہزاروں کا کام کرے گا تو بلاشبہ وہ بڑا اجر پائیگا اور

سے جس کا مل طور پر نکلیں پر اپنی نجات کو پورا کر لیا ہے اور وہ یہ ہے وَإِنْ كُنْتُمْ فِي  
رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ قَدْ كُنْتُمْ  
تَفْعَلُونَ وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي ذُقْتُمْ هَآلَ النَّاسِ وَالْجِبَارَةُ

الہامات پائے ہوں مگر مصلحتِ وقت سے عام طور پر انکو شائع نہیں کیا اور خدائے تعالیٰ کو ہر ایک زمانہ میں نئے نئے مصالحوں ہیں۔ پس نبوت کے جہد میں مصلحتِ ربانی کا یہی تقاضا تھا کہ جو غیر نبی ہے اس کے الہامات نبی کے وحی کی طرح قلمبند نہ ہوں تا غیر نبی کا نبی کے کلام سے داخل واقعہ نہ ہو جائے۔ لیکن اس زمانہ کے بعد جس قدر اولیاء اور صاحبِ کمالات باطنیہ گذرے ہیں ان سب کے الہامات مشہور و متعارف ہیں کہ جو ہر ایک عصر میں قلمبند ہوتے چلے آئے ہیں۔ اس کی تصدیق کے لئے شیخ عبد القادر جیلانی اور مجدد الف ثانی کے مکتوبات اور جو سکوا اولیاء اللہ کی کتاب میں دیکھنی چاہئیں کہ کس کثرت سے ان کے الہامات پائے جاتے ہیں بلکہ امام ربانی صاحب اپنے مکتوبات کی جلد ثانی میں جو مکتوب پنجاہ و یکم ہے اس میں صاف لکھتے ہیں کہ غیر نبی بھی مکالمات و مخاطبات حضرت احمدیت سے مشرف ہو جاتا ہے اور ایسا شخص محدث کے نام سے موسوم ہے اور انبیاء کے مرتبہ سے اس کا مرتبہ قریب واقعہ ہوتا ہے ایسا ہی شیخ عبد القادر جیلانی

وتب، ما كان له أن يدخل فيها إلا خائفاً، وما أصابك فمن  
الله و اعلم أن العاقبة للمتقين، وأنذر عشيرتك الأقربين  
، أنا نزيهم آية من آياتنا في الثيبة و نردها اليك ، أمر  
من لدنا انا كنا فاعلين، انهم كانوا يكذبون بأياتي و  
كانوا بي من المستهزئين، فبشرى لك في النكاح، الحق  
من ربك فلا تكونن من الممترين، انا زوجناكها، لا مبدل  
لكلمات الله، و انا رادوها اليك، ان ربك فعال لما يريد،  
فقل من لدنا ليكون آية للناظرين، شاتان تذبجان وكل من  
عليها فان، ونزيهم آياتنا في الإفاق وفي انفسهم ونزيهم  
جزاء القاسقين- اذ اجاء نصر الله والفتح وانتهى أمر الزمان

بقية الحاشية) ولا فرق في نزول الوحي بين أن يكون إلى نبي أو ولي، ولكل  
خط من مكالمات الله تعالى ومخاطباته على حسب المدارج، نعم الوحي  
الأنبياء شأن أتم وأكمل، وأقوى أقسام الوحي وهي رسولنا خاتم النبيين-  
وقال المجدد الامام السرهندي الشيخ أحمد رضى الله عنه  
في مكتوب يكتب فيه بعض الوصايا إلى مریده محمد صديق: اعلم  
أيها الصديق! أن كلامه سبحانه مع البشر قد يكون شفاهاً وذلك  
لأفراد من الأنبياء وقد يكون ذلك لبعض الكمل من متابعيهم،  
وإذا كثرت هذه القسم من الكلام مع واحد منهم يسمى محدثاً، وهذا  
غير الالهام وغير الالتقاء في الروع وغير الكلام الذي مع الملك، إنما  
يخاطب بهذا الكلام الإنسان الكامل، والله يختص برحمته من يشاء-  
تم كلامه، فارجع إلى كلامه ان كنت من المنكرين، واذكر قصة من قال:

آجاتے ہیں کسی مسلمان کا کام نہیں بلکہ ان لوگوں کا کام ہے جو درحقیقت اسلام کے دشمن ہیں۔ اور پھر ایک اور نادانی یہ ہے کہ جاہل لوگوں کو بھراکانے کیلئے کہتے ہیں کہ اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے حالانکہ یہ انکا مسراسر انتر ہے۔ بلکہ جس نبوت کا دعویٰ کرنا قرآن شریف کے رو سے منع معلوم ہوتا ہے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا صرف یہ دعویٰ ہے کہ ایک پہلو سے میں امتی ہوں اور ایک پہلو سے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض نبوت کی وجہ سے نبی ہوں اور نبی سے مراد صرف اس قدر ہے کہ خدا تعالیٰ سے بکثرت شرف مکالمہ و مخاطبہ پاتا ہوں بات یہ ہے کہ جیسا کہ مجدد صاحب سرہندی نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ اگرچہ اس اُمت کے بعض افراد

مکالمہ و مخاطبہ الہی سے مخصوص ہیں اور قیامت تک مخصوص رہیں گے لیکن جس شخص کو بکثرت اس

مکالمہ و مخاطبہ سے مشرف کیا جائے اور بکثرت امور غیبیہ اس پر ظاہر کئے جائیں وہ نبی کہلاتا ہے۔

اب واضح ہو کہ احادیث نبویہ میں یہ پیشگوئی کی گئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت میں

سے ایک شخص پیدا ہوگا جو عیسیٰ اور ابن مریم کہلائیگا اور نبی کے نام سے موسوم کیا جائیگا یعنی اس

کثرت سے مکالمہ و مخاطبہ کا شرف اس کو حاصل ہوگا اور اس کثرت سے امور غیبیہ اس پر ظاہر ہونگے

کہ بجز نبی کے کسی پر ظاہر نہیں ہو سکتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فلا یظہر علیٰ غیبہ

احد الا کمین ارتضیٰ من رسول یعنی خدا اپنے غیب پر کسی کو پوری قدرت اور ظلمہ

نہیں بخشتا جو کثرت اور صفائی سے حاصل ہو سکتا ہے بجز اس شخص کے جو اس کا برگزیدہ رسول

ہو۔ اور یہ بات ایک ثابت شدہ امر ہے کہ جس قدر خدا تعالیٰ نے مجھ سے مکالمہ و مخاطبہ کیا ہے اور

جس قدر امور غیبیہ مجھ پر ظاہر فرمائے ہیں تیرے نو برس ہجری میں کسی شخص کو آج تک بجز میرے

یہ نعمت عطا نہیں کی گئی اگر کوئی منکر ہو تو بار نبوت اس کی گردن پر ہے۔

غرض اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس اُمت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص

ہوں اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اطاب اس اُمت میں سے گزر چکے

ہیں انکو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کیلئے

۶۳۰

۷ ارمی ۱۹۰۸ء "مکن تکبیر بر عمرنا پائیدار ہے"

(بدردجلد ۷ نمبر ۲۲ مورخہ ۲ جون ۱۹۰۸ء صفحہ ۳)

۲۰ مئی ۱۹۰۸ء "التَّحِيْلُ ثُمَّ التَّرْجِيْلُ وَاسْوَتْ قَرِيْبٍ"

(بدردجلد ۷ نمبر ۲۲ مورخہ ۲ جون ۱۹۰۸ء صفحہ ۳)

تَقَرَّرَ

\*\*\*

۱۔ (ترجمہ از قرب) پائیدار عمر پر چھوڑ دے۔  
 نوٹ:۔ یہی الہامی سستہ و نکتہ بھی بتایا گیا ہے چنانچہ اس کے علاوہ ۱۳۲۶ھ (۱۹۰۸ء) (مرب)۔  
 ۲۔ (ترجمہ) اب گریح کا وقت آگیا۔ ان گریح کا وقت آگیا اور موت قریب ہے۔

یہ حوالہ صفحہ 193 پر درج ہے

تذکرہ مجموعہ وحی والہامات صفحہ 640 طبع چہارم از مرزا قادیانی

(۱۲) رحمت اور فضل کا کلام شکر کا کلام !!

(بدجلد ۷ نمبر ۱۶ مورخہ ۲۳ اپریل ۱۹۰۸ء صفحہ ۸۔ الحکم جلد ۱۲ نمبر ۲۶ مورخہ ۱۳ اپریل ۱۹۰۸ء صفحہ ۳)

۱۸۔ اپریل ۱۹۰۸ء " (۱) اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا۔ (۲) زُلْزَلَتِ الْاَرْضُ۔ فَتَحْنَا الْعَذَابَ وَتَدْتَلِي

(۳) بشارت: (الحکم جلد ۱۲ نمبر ۲۶ مورخہ ۲۶ اپریل ۱۹۰۸ء صفحہ ۱)

۲۲۔ اپریل ۱۹۰۸ء " (۱) میرے لئے ایک نشان آسمان پر ظاہر ہوا۔

(۲) خیر و خوبی کا نشان۔

(۳) میری مرادیں پوری ہوئیں۔

(بدجلد ۷ نمبر ۱۶ مورخہ ۳۰ اپریل ۱۹۰۸ء صفحہ ۷۔ الحکم جلد ۱۲ نمبر ۲۶ مورخہ ۲۲ اپریل ۱۹۰۸ء صفحہ ۵)

۲۶۔ اپریل ۱۹۰۸ء " میاںس ایمن از بازمی روزگار۔

(بدجلد ۷ نمبر ۱۶ مورخہ ۳۰ اپریل ۱۹۰۸ء صفحہ ۷۔ الحکم جلد ۱۲ نمبر ۲۶ مورخہ ۲۶ اپریل ۱۹۰۸ء صفحہ ۵)

۲۹۔ اپریل ۱۹۰۸ء " اِنِّي اَحَافِظُ كُلَّ مَنْ فِي الدَّارِ۔

(بدجلد ۷ نمبر ۱۶ مورخہ ۶ مئی ۱۹۰۸ء صفحہ ۵۔ الحکم جلد ۱۲ نمبر ۳ مورخہ ۶ مئی ۱۹۰۸ء صفحہ ۱)

۱۹۰۸ء " جو کچھ خدا نے مجھے خبر دی ہے وہ بھی یہی ہے کہ اگر دنیا اپنی بد عملی سے باز نہیں آئے گی اور  
بڑے کاموں سے توبہ نہیں کرے گی تو دنیا پر سخت سخت بلائیں آئیں گی اور ایک بلا بھی نہیں نہیں کرے گی کہ  
دوسری بلا ظاہر ہو جائے گی۔ آخر انسان نہایت تنگ ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہونے والا ہے اور بہتر کے سببوں  
کے بیچ میں اگر دیوانوں کی طرح ہو جائیں گے! (پیغام صلح صفحہ ۹۔ روحانی خزائن جلد ۲۳ صفحہ ۳۳۳)

۱۔ (ترجمہ از قرب) ہم نے تجھے کمال مستح دی ہے۔ (۲) زمین پر زلزلہ آئے گا۔ پس عذاب واقع ہوگا اور اتر آئے گا۔  
(۳) بشارت ہے۔

۲۔ (ترجمہ از قرب) زمانے کے کھیل سے بے خوف نہ۔

۳۔ (ترجمہ از قرب) میں ان تمام لوگوں کی حفاظت کروں گا جو میں دار میں ہیں۔

بعض لوگ اس کی راہ پر بیٹھ گئے ہیں۔ اتنے میں وہ حاکم نکلا ہے۔ گھوڑے پر سوار ہے اور بہت ناراض ہے۔ کہتا ہے یہ لوگ میری راہ پر کیوں بیٹھ گئے۔ اتنی قید اور اتنے قریب بیدار گاؤں۔“

(کاپی الہامات حضرت مسیح موعود علیہ السلام صفحہ ۲۹)

۱۸ جون ۱۹۰۳ء

”رسیدہ بود بلائے وے بجز گذشت۔ اِنَّمَا أَمْرٌكَ إِذَا أَرَدْتَ شَيْئًا أَنْ تَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۔ كُلُّ بَدْعٍ فِي هَذَا۔ كُلُّ أَمْرٍ قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَ لَكَ سُؤْلًا فِي كُلِّ أَمْرٍ“

(کاپی الہامات حضرت مسیح موعود علیہ السلام صفحہ ۲۹)

۱۹ جون ۱۹۰۳ء

والدہ محمود کی طرف سے۔ اُرِيدُ أَنْ أَتَخَلَّصَ بِهِ  
منجانب اللہ۔ اُرِيدُ أَنْ أُحْلِصَ بِهِ

(کاپی الہامات حضرت مسیح موعود علیہ السلام صفحہ ۲۹)

۲۱ جون ۱۹۰۳ء

”أَنَا الرَّحْمَنُ فَاطْلُبْنِي تَجِدْنِي“

(کاپی الہامات حضرت مسیح موعود علیہ السلام صفحہ ۲۹)

۲۲ جون ۱۹۰۳ء

”أَحْسِنُ وَدَادَكَ۔ سَأَجْعَلُ لَكَ سُؤْلًا فِي أَمْرِكَ  
لَنْ تَنَالُوا الْيَتْرَحَى تَنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ“

(کاپی الہامات حضرت مسیح موعود علیہ السلام صفحہ ۲۹)

۱۔ (ترجمہ از مرتب) مصیبت آگئی تھی لیکن خیریت سے گزر گئی۔ تیرا معاملہ یوں ہے کہ جب تو کسی چیز کا ارادہ کرے اور اسے کہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تمام برکت اسی میں ہے۔ ہر بات بدل ہوئی ہے۔ عنقریب میں میرے لئے ہر امر میں سہولت کر دوں گا۔

۲۔ (ترجمہ از مرتب) میں غلام ہونا چاہتا ہوں۔ مے (ترجمہ از مرتب) میں غلامی دینا چاہتا ہوں۔

۳۔ (ترجمہ از مرتب) میں رحمن خدا ہوں۔ تو مجھے تلاش کرے گا تو پاسے گا۔

۴۔ (ترجمہ از مرتب) اپنی دوستی کو سنوار میں عنقریب تیرے معاملے میں سہولت پیدا کر دوں گا۔

۵۔ (ترجمہ از مرتب) تم سبھی ہرگز حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیزوں کو خرچ نہ کرو۔



کے کام ہیں مگر افسوس کہ ہماری قوم دیکھتی ہے پھر آنکھ بند کر لیتی ہے۔  
(مکتوب مورخہ ۲۷ جون ۱۸۹۹ء بنام سید عبدالرحمن صاحب مدرسہ اسی مکتوبات احمدیہ جلد پنجم صفحہ اول نمبر ۲۶۷)  
(ب) عرصہ چوداں برس کا ہوا ہے کہ ایک خواب آئی تھی کہ چار ٹکے ہوں گے اور چوتھے ٹکے کا عقیدہ  
پیر کے دن ہوگا۔ (از مکتوب بنام ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب مورخہ ۲۶ جون ۱۸۹۹ء)

۱۸۸۵ء "میاں عبداللہ سنوری جو علاقہ ٹیپالہ میں شہزادی ہیں ایک مرتبہ ان کو ایک کام پیش آیا جس کے  
ہونے کے لئے انہوں نے ہر طرح سے کوشش کی اور بعض وجوہ سے ان کو اس کام کے ہو جانے کی امید بھی  
ہو گئی تھی۔ پھر انہوں نے دعا کے لئے ہماری طرف التجا کی ہم نے جب دعا کی تو بلا توقف الامام ہوا۔  
"اسے بسا آرزو کہ خاک شدہ"

تب میں نے ان کو کہہ دیا کہ یہ کام ہرگز نہیں ہوگا اور وہ الامام سنا دیا اور آخر کار ایسا طور میں آیا اور کچھ  
ایسے موافق پیش آئے کہ وہ کام ہوتا ہوتا رہ گیا۔ (نزول المسیح صفحہ ۲۲۳۔ روحانی خزائن جلد ۱۸ صفحہ ۶۱۲)

۲۸ نومبر ۱۸۸۵ء "۲۸ نومبر ۱۸۸۵ء کی رات کو یعنی اُس رات کو جو ۲۸ نومبر ۱۸۸۵ء کے دن سے پہلے آئی ہے  
اس قدر شب کا تماشا آسمان پر تھا جو میں نے اپنی تمام عمر میں اس کی نظیر کبھی نہیں دیکھی اور آسمان کی فضا میں اس قدر بڑا  
شعلے ہر طرف چل رہے تھے جو اُس رنگ کا دنیا میں کوئی بھی نمونہ نہیں تائیں اُس کو بیان کر سکوں۔ مجھ کو یاد ہے کہ اُس  
وقت یہ الامام بکثرت ہڑا تھا کہ


مَا دَمَيْتَ اِذْ دَمَيْتَ وَلَيْكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى

سو اُس رات کو رات کو شب سے بہت مناسبت تھی۔

یہ شب ناقبہ کا تماشا جو ۲۸ نومبر ۱۸۸۵ء کی رات کو ایشیا وسیع طور پر ہوا جو یورپ اور امریکہ اور ایشیا کی تمام  
اخباروں میں بڑی حیرت کے ساتھ چھپ گیا لوگ خیال کرتے ہوں گے کہ یہ بے تاثرہ تھا لیکن خداوند کریم جانتا ہے کہ  
سب سے زیادہ غور سے اس تماشا کے دیکھنے والا اور پھر اس سے خط اور لذت اٹھانے والا میں ہی تھا۔ میری آنکھیں بہت  
دیر تک اس تماشا کے دیکھنے کی طرف لگی رہیں اور وہ سلسلہ زمی شہب کا شام سے ہی شروع ہو گیا تھا جس کو میں صرف  
المامی بشارتوں کی وجہ سے بڑے سرور کے ساتھ دیکھتا رہا کیونکہ میرے دل میں الامام ڈالا گیا تھا کہ یہ تیرے لئے نشان  
ظاہر ہوا ہے۔

اور پھر اُس کے بعد یورپ کے لوگوں کو وہ ستارہ دکھائی دیا جو حضرت مسیح کے غور کے وقت میں نکلا تھا۔

۱۰ "جو کہ تیرے پلا یا وہ تیرے نہیں چلا یا بلکہ خدا نے چلا یا۔" (حقیقۃ الاولیٰ صفحہ ۷۰۔ روحانی خزائن جلد ۱۲ صفحہ ۷۰)



یہ حوالہ صفحہ 194 پر درج ہے

ٹائیکل صفحہ کتاب از بعین از مرزا قادیانی

ہے جس کی ایک آیت سُنکر ایک لاکھ صحابہ نے سر جھکا دیا تھا۔ اور بلا توقف مان لیا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام نبی عیسیٰ وغیرہ فوت ہو چکے ہیں اور اب وہی قرآن ہے جو بار بار آپ لوگوں کے روبرو پیش کیا جاتا ہے اور آپ لوگوں کو کچھ بھی اس کی پروا نہیں۔ آپ لوگ میری بڑی بڑی کتابوں کو تو نہیں دیکھتے اور ذہنت کہاں ہے۔ لیکن اگر میرے رسالہ تحفہ گولڑویہ اور تحفہ غزنویہ کو ہی دیکھو جو پیر مہر علی شاہ اور غزنوی جماعت مولوی عبد انجبا۔ و عبد الواحد و عبد الحق وغیرہ کی ہدایت کے لئے لکھی گئی ہیں جن کو آپ لوگ صرف دو گھنٹہ کے اندر بہت غور اور تامل سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہو جائیگا کہ مسیح کی نسبت قرآن کیا کہتا ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ اس قدر حیات مسیح پر جو آپ زور دیتے ہیں یہ برخلاف منشاء کلام الہی ہے۔ اے عزیزو! یاد رکھو کہ جو شخص آنا تھا آچکا اور صدی جس کے سر پر مسیح موعود آنا چاہیے تھا اس میں سے بھی سترہ برس گزر گئے اور اس صدی میں جس پر امت کے انبیاء کی نظریں لگی ہوئی تھیں۔ اس میں بقول تمہارے ایک چھوٹا سا مجدد بھی پیدا نہ ہوا اور محض ایک دجال پیدا ہوا۔ کیا ان شوخیوں کا حضرت عزت کی درگاہ میں جواب دینا نہیں پڑیگا۔ گو کیسے ہی دل سخت ہو گئے ہیں آخر اس قدر تو خون چاہیے تھا کہ جو شخص صدی کے سر پر پیدا ہوا اور رمضان کے کسوف خسوف نے اس کی گواہی دی اور اسلام کے موجودہ ضعیف اور دشمنوں کے متواتر حملوں نے اس کی ضرورت ثابت کی اور انبیاء گزشتہ کے کشوت نے اس بات پر قطعی سہرا لگا دی کہ وہ چودھویں صدی کے سر پر پیدا ہو گا اور نیز یہ کہ پنجاب میں ہو گا ایسے شخص کی تکذیب میں جلدی نہ کرتے۔ آخر ایک دن مرنا ہے اور

کی مددگاہ میں جواب دینا نہیں پڑے گا! گو کیسے ہی دل سخت ہو گئے ہیں آخر اس قدر تو خوف چاہیے تھا کہ جو شخص صدی کے سر پر پیدا ہوا اور رمضان کے کسوتِ خسوف نے اس کی گواہی دی اور اسلام کے موجودہ ضعف اور دشمنوں کے متواتر حملوں نے اس کی ضرورت ثابت کی اور اولیاءِ گذشتہ کے کسوت نے اس بات پر قطعی مہر لگا دی کہ وہ جو صدیوں صدی کے سر پر پیدا ہوگا اور نیز یہ کہ پنجاب میں ہوگا ایسے شخص کی تکذیب میں جلدی نہ کرتے۔ آخر ایک دن مرنا ہے اور سب کچھ اسی جگہ چھوڑ جانا ہے۔ دیکھو اگر میں خدا کی طرف سے ہوا اور تم نے میری تکذیب کی اور مجھے کافر قرار دیا اور جہاں نام رکھا تو جناب الہی کو کیا جواب دو گے؟ کیا انہی کی مانند جواب میں جو یہودیوں اور عیسائیوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کرنے کے وقت اپنی کتابوں میں لکھے ہیں کہ تو بیت کے تمام نشان قرار دلا پورے نہیں ہوئے اور کچھ رہ گئے ہیں۔ سو بدت ہوئی کہ خدا تعالیٰ ان کو جواب دے چکا کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے وہ سب کچھ صحیح نہیں ہے اور نہ وہ تمام معنی صحیح ہیں جو تم کہ رہے ہو۔ جو شخص حکم کر کے بیجا گیا ہے اس کی بات کو سنو۔ سو یہی جواب خدا تعالیٰ کی طرف سے اب ہے چاہو تو قبول کرو۔ آہ آپ لوگوں کو چاہیے تھا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے قصے سے عبرت پکارتے ان لوگوں کی حضرت مسیح اور حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہی حجت تھی کہ ہم نہیں مانتے کہ جب تک تمام علامتیں پوری نہ ہوں اور بوجہ زمانہ دراز اور انواعِ تغیرات کے یہ غیر ممکن تھا اس لئے وہ کفر پر مرے۔ سو تم اسی طرح لشکرِ مت کھاؤ۔ جو یہودی اور نصرانی کھا چکے۔ اگر تمہارا ذخیرہ سب کا سب صحیح ہوتا تو پھر حکم مجدد کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہر ایک فرقہ کو یہی خیال ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہی صحیح ہے۔ اب یہ تمام فرقے تو صحیح پر نہیں۔ اس لئے صحیح وہی ہے جو حکم کے منہ سے نکلے۔ اگر ایمان ہو تو خدا کے مقرر کردہ حکم کے حکم سے بعض حدیثوں کا چھوڑنا یا

۵۱۳

۵۱۴

۵۱۵

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ  
 الْبُرُوجِ نَوْمِ ۱۳ سُورَةُ النُّجُومِ وَهُوَ الَّذِي  
 يُزِيلُ الرِّيحَ بِشَرِّ ابْنِ يَدِي رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا  
 نِّقَالًا سَقَنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيْمَنٍ فَاذْلُقْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ  
 الثَّمَرَاتِ لَعَلَّ الْإِنسَانَ لُعَلَّكَ تَذَكَّرُونَ - وَالْبَلَدُ

نام منعم علیہم رکھا گیا ہے کہ وہ بیاہت غلبہ محبت اکام کو بزرگ انعام دیکھتے ہیں اور ہر ایک سچا یا  
 راحت جو دوست حقیقی کی طرف سے انکو پہنچتی ہے بوجہ مستی عشق اس کے لذت اٹھاتے ہیں  
 پس یہ ترقی فی القرب کی دوسری قسم ہے جس میں اپنے محبوب کے جمیع افعال سے لذت آتی ہے اور  
 جو کچھ اسکی طرف سے پہنچے انعام ہی انعام نظر آتے ہیں اور اصل موجب اس حالت کا ایک محبت  
 کامل اور تعلق صادق ہونا ہے جو اپنے محبوب سے ہو جاتا ہے اور یہ ایک مہیبت خاص ہوتی ہے جس میں

شعریب وہ میرا راہ کھول دیکھا۔ اے میرے خدا آسمان سے رگم اور مغفرت کر۔ میں مخلوب  
 ہوں میری طرف سے مقابلہ کر۔ اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا  
 آخری فقرہ اس بالہام کا یعنی اے اسی باعث شریعت ورد و مشتبہ ہا ہے اور نہ اسکے  
 کچھ معنی گھلے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

آئے خالق ارض و سما بر من در رحمت کشا  
 از بس لطیفی و لبرادر ہر گ و تارم در  
 در کشی اے پاک شو جاں بر گم در بجز تو  
 خواہی بقرم کن جدا خواہی طعم زونما  
 دلی نواں در مراکز دیگران نہیں گنم  
 تا چہ بچو دیا ہم ترا اول خوشتر از بستان گنم  
 ز انسان می گزیم کز و یک علی گزای گنم  
 خواہد کشش یا کن۔ ہا کے ترک آن داناں گنم

یہ سب اشارات مختص المقامات ہیں جن کی تشریح اس جگہ ضروری نہیں۔ یَا عِبَادَ الْقَادِرِ  
 إِنِّي مَعَكَ أَشْعَمُ وَأَرَىٰ غُرْمَتُكَ لَكَ بِبِدِي رَحْمَتِي وَقُدْرَتِي وَنَجِيَّتَكَ  
 مِنَ الْعَمَةِ وَفِتْنَتِكَ فُتُونَا. لِيَأْتِيَنَّكَ مِنِّي هُدًى أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ  
 هُمُ الْعَالِيُونَ. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ

۶۶-۶۷: النحل

برائین احمدیہ

۶۱۳

ارباب

الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبِثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا  
كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُشْكُرُونَ - الجزء و نمبر سورہ الاعراف -  
اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُبْرِئُ سَحَابًا مُبَسَّطًا فِي السَّمَاءِ كَيْفَ  
يَشَاءُ وَ يَجْعَلُهُ كِسْفًا فَنُزِّلُ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خَلِيلِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ

حیدر اور تدبیر کو کچھ دخل نہیں بلکہ خدا ہی کی طرف سے آتی ہے۔ اور جب آتی ہے۔ تو پھر  
ساک ایک دوسرا رنگ بڑا لیتا ہے اور تمام بوجھ اس کے سر سے اتارے  
جاتے ہیں اور ہر ایک ایلام العام ہی معلوم ہوتا ہے اور شکوہ اور شکایت کا نشان نہیں  
ہوتا۔ پس یہ حالت ایسی ہوتی ہے کہ گویا انسان بعد موت کے زندہ کیا گیا ہے کیونکہ  
ان لمخول سے لکلی نکل آتا ہے جو پہلے درجہ میں تھیں۔ جن سے ہر ایک وقت موت کا

بقیۃ حاشیہ نمبر ۱۱

۵۱۵

لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ - اسے عبد القادر میں تیرے ساتھ ہوں سنتا ہوں اور  
دیکھتا ہوں۔ تیرے لئے میں نے رحمت اور قدرت کو اپنے ہاتھ سے لگایا اور تجھ کو غم سے  
نجات دی اور تجھ کو خالص کیا۔ اور تم کو میری طرف سے مدد آئے گی۔ خبردار ہو لشکر خدا کا  
ہی غالب ہوتا ہے۔ اور خدا ایسا نہیں جو انکو عذاب پہنچا دے جب تک تو انکے درمیان ہے یا  
جب وہ استغفار کریں۔ اَنَا بَدُّكَ الْلاَّزِمُ اَنَا مُجِيبُكَ نَفِخْتُ فِيكَ مِنْ لَدُنِّي رُوحَ  
الصِّدْقِ وَالْقِيَّتُ عَلَيْكَ كَحَبَّةٍ مِمَّنِي وَ لِيُصْنَعُ عَلَيَّ عَيْنِي كَزُرِّيءٍ اَخْرَجَ شَطَانَهُ  
فَاسْتَقْلَطَ فَاَسْتَوَى عَلَيَّ سَوْقَهُ - میں تیرا چارہ لازمی ہوں۔ میں تیرا زندہ کرنا ہوں  
میں نے تجھ میں سچائی کی رُوح پھونکی ہے اور اپنی طرف سے تجھ میں محبت ڈال دی جو تاکہ میرے  
رہ برد تجھ سے نیکی کی جائے سو تو اس رُوح کی طرح ہے جس نے اپنا سبزہ نکالا پھر موٹا ہوتا گیا یہاں تک  
اپنے ساقوں پر قائم ہو گیا۔ ان آیات میں خدائے تعالیٰ کی ان تائیدات اور احسانات کی طرف  
اشارہ ہے اور نیز اس عروج اور اقبال اور عزت اور عظمت کی خبر دینا گئی ہے کہ جو آہستہ  
آہستہ اپنے کمال کو پہنچے گی۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا

بقیۃ حاشیہ نمبر ۱۱

۵۱۵

سورہ الاعراف : ۵۸ - ۵۹

یہ حوالہ صفحہ 194 پر درج ہے

برائین احمدیہ صفحہ 591، 592 اور جہاد فی سبیل اللہ جلد 1 صفحہ 613، 614 اور مرزا قادیانی

پیشگوئی	جس وحی سے میں مشرف کیا گیا ہوں اسی وحی نے مندرجہ ذیل خوارق عادت پیشگوئیاں بتلائی ہیں جو دنیا پر ظاہر ہو چکیں۔	پیشگوئی	پیشگوئی
پیشگوئی میں بریں بعد از ان کے زمانہ میں پوری ہوئی۔	<p>يا عبد القادر اني معك اسمع و ارضي غرست لك بيدي رحمتي  وقدرتي. والقيت عليك حبة منى. ولتصنع علي عيني. كزرع  اخرج شطاها فاستغفظ فاستوي على سوقه. ويحور باين احمديه صفر ۵۱۳  ترجمہ۔ اے قادر کے بندے میں تیرے ساتھ ہوں۔ میں دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں  میں نے اپنی رحمت تیرے پر ڈالی تاکہ تو میری آنکھوں کے اوپر پروہ رشی  کیا جائے۔ تو ایک بیج کی طرح سے یعنی ایسا ہے جس کی ابھی کوئی شاخ نہیں نکلی  صرف ایک سبزہ نکلا مگر بعد اسکے ایسا ہو گا کہ وہ سبزہ موٹا ہو جاوے گا اور اسکی  شاخیں تنہ پر قائم ہونگی اور وہ ایک بٹا درخت بن جاوے گا اب دیکھو کہ یہ پیشگوئی  کس قدر صفائی سے پوری ہوئی اور باوجود سخت مخالفتوں کی سخت مزاحمتوں کے یہ  سلسلہ ایک عظیم بزرگی کے ساتھ قائم ہو گیا اور جیسا کہ پیشگوئی کا منشا تھا اس تخم  کی بہت سی شاخیں نکل آئیں اور پنجاب اور ہندوستان میں پھیل گئیں اور یہی جاتی  ہیں۔ براہین احمدیہ میں بار بار یہ ذکر آچکا ہے کہ تو اس وقت ایسا ہے اور تیرے ساتھ  کوئی نہیں جیسا کہ ایک جگہ میری دعا کا خود خدا تعالیٰ ذکر فرماتا ہے کہ رَبِّ لَا تَزِدْ  فِرْدَاؤًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ یعنی اے خدا مجھے ایسا مت چھوڑ اور تو بہترین وارث  ہے پس اسجگہ خدا کو ایسی دیباہ ہے کہ اس الہام کے وقت میں اکیلا تھا سو خدا نے وعدہ  دیا کہ تو اکیلا نہیں رہے گا اور ایک جہاں تیری شاخوں میں داخل ہو جائیگا۔</p>	۵۰۸	پیشگوئی نمبر
زیدہ گراہ	<p>براہین احمدیہ ان تمام پیشگوئیوں کی گواہ ہے اور کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ یہ اس  زمانہ کی پیشگوئیاں ہیں کہ جبکہ اس اقبال اور عزت اور کامیابی کے کچھ بھی آثار نہیں تھے کہ  جواب ۱۹۰۱ء و ۱۹۰۲ء میں ظہور میں آئے۔</p>	زیدہ گراہ	زیدہ گراہ

براہین احمدیہ

۴۱۹

۱۔ باب

۵۱۵  
 ۵۱۶  
 ۵۱۷  
 انزلناہ و بالحق نزل۔ یا اهل الکتب قد جاءکم من قبلنا بایین لکم  
 علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر  
 فقد جاءکم بشیر و نذیر و اللہ علی کل شیء قذیر۔ الجزء نمبر ۱ سورہ مائدہ۔  
 وکنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها کذا الذی یتین اللہ لکم

میں داخل نہیں ہوئی۔ بلکہ اس میں محفوظ ہوتی ہے۔

اور تیسری ترقی جو قربت کے میدانوں میں چلنے کے لئے انتہائی قدم ہے۔ اس

عباد میں مصروف ہیں۔ ایک صفت رفیق اور لطف اور احسان ہے اس کا نام جمال ہے اور  
 دوسری صفت قہر اور سختی ہے اس کا نام جلال ہے۔ یوحنا اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ  
 جو لوگ اُسکی درگاہ عالی میں بلائے جاتے ہیں انکی تربیت کبھی جمالی صفت اور کبھی جلالی صفت سے  
 ہوتی ہے اور جہاں حضرت احدیت کے تعلقاً عظیم مبدل ہوتے ہیں وہاں ہمیشہ صفت جمالی  
 کے تجلیات کا غلبہ رہتا ہے مگر کبھی کبھی بعد گاہ خاص کی صفات جلالیہ سے بھی تادیب اور  
 تربیت منظور ہوتی ہے۔ جیسے انبیاء کرام کے ساتھ بھی خدائے تعالیٰ کا یہی معاملہ رہا ہے کہ  
 ہمیشہ صفات جمالیہ حضرت احدیت کے انکی تربیت میں مصروف ہے ہیں لیکن کبھی کبھی ان کی  
 استقامت اور اخلاق فاضلہ کے ظاہر کرنے کیلئے جلالی صفتیں بھی ظاہر ہوتی رہی ہیں اور ان کو  
 شریروں کے ہاتھ سے انواع اقسام کے دکھ ملتے رہے ہیں تا ان کے وہ اخلاق فاضلہ  
 جو بغیر تکالیف شاقہ کے پیش آنے کے ظاہر نہیں ہو سکتے وہ سب ظاہر ہو جائیں اور دنیا  
 کے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ کچھ نہیں ہیں بلکہ سچے دکا دار ہیں۔ وَقَالُوا آتَىٰ لَكَ  
 هَذَا اِنَّ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَرَىٰ اِلٰهَ جَهَنَّمَ۔  
 لَا يُصَدِّقُ السِّفِيَةَ اِلَّا سَيْفَةُ الْهَلَاكِ۔ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَكَ قُلْ اَلَمْ  
 اْمُرَ اللّٰهَ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ۔ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ الْكٰثِرُ بِكُمْ قَالُوْا اَبْلٰى۔  
 اور کہیں گے یہ تمہے کہاں سے حاصل ہوا۔ یہ تو ایک سحر ہے جو اختیار کیا جاتا ہے۔ ہم

۱۔ سورۃ بنی اسرائیل: ۱۰۴ تا ۱۰۵ مائدہ: ۲۰

یہ حوالہ صفحہ 195 پر درج ہے

براہین احمدیہ ۵۹۷-۵۹۸ مندرجہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 619, 620 از مرزا قاریانی



آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ البقرہ نمبر ۳ سورہ آل عمران۔ وَلَوْ لَا أَنْ تَصِيبَهُمْ  
مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا  
رَسُولًا فَتَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ وَلَوْ لَا دَفَعُ اللَّهُ  
النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ

آیت میں تعلیم کی گئی ہے۔ جو فرمایا ہے۔ غیر المصنوب علیہم ولا الضالین۔  
یہ وہ مرتبہ ہے جس میں انسان کو خدا کی محبت اور اس کے غیر کی عداوت  
سرشت میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور بطریق طہیحت اس میں قیام پکڑتی ہے۔

ہرگز نہیں مانیں جب تک خدا کو بچشم خود دیکھ نہ لیں۔ سفید بجز ضربہ ہلاکت کے کسی چیز کو باور نہیں کرتا  
میرا اور تیرا دشمن ہے۔ کہ خدا کا امر ایسا ہے سو تم جلدی مت کرو جب خدا کی مدد آئیگی تو کہا جائیگا  
کہ کیا میں تمہارا خدا نہیں۔ کہیں گے کہ کیوں نہیں۔ لَقَدْ هَمَمْنَا أَنْ نَرَفِعَكَ إِلَىٰ دَجَائِلِ  
الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوَقَّكَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا  
وَكَانَ اللَّهُ بِكُمْ رَءُوفًا رَحِيمًا۔ الْآيَاتِ أُولِيَاءِ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ  
يَحْزَنُونَ۔ تَمُوتُ وَأَكَارِضُ بِمِثْلِكَ فَأَدْخَلُوا الْجَنَّةَ أَنْشَاءً اللَّهُ أَمِينِينَ۔  
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخَلُوا أَمِينِينَ۔ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ جُعِلَتْ مَنَابِقُكُمْ  
سَمِعَ اللَّهُ إِنَّهُ سَمِيعٌ الدُّعَاءِ أَنْتَ مُبَارَكٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ أَمْرًا  
النَّاسِ وَبَرَكَاتُهُ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ۔ أَذْكَرٌ نِعْمَتِي إِلَيْكَ أَنْعَمْتُ  
عَلَيْكَ وَإِنِّي نَصَّيْتُكَ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي  
إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي۔ مَن رَّبُّكُمْ  
عَلَيْكُمْ وَأَحْسَنُ إِلَىٰ أَحِبَّاءِكُمْ وَعَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ وَإِنْ تَعَدُّوا  
نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا۔ مَن تَجَرَّوْا يُورِي نُعْمَتِ دُونِهَا وَإِنِّي لَأَعْلَمُ غُفْلَتِكُمْ۔ اور جو  
لوگ تیری متابعت اختیار کریں۔ یعنی حقیقی طور پر اللہ و رسول کے متبعین میں داخل  
ہو جائیں۔ ان کو ان کے مخالفوں پر کہ جو انکاری ہیں۔ قیامت تک غلبہ بخشوں گا۔ یعنی

لہ آل عمران: ۱۰۲۔ آلہ القصص: ۲۸

نزول المسیح

۵۱۰

ہمیشہ پوری ہوگی	جس وحی سے میں مشرف کیا گیا ہوں اسی وحی نے مندرجہ ذیل خارق عادت پیشگوئیاں بتلائی ہیں جو دنیا پر ظاہر ہو چکی ہیں	پیشگوئی نمبر ۱۲۷	۱۲۷
جس وقت سے مراد بتائی نہیں تالیف ہوئی۔	یا احمد قاضی الرحمت علی شفقتك۔ براہین احمدیہ صفحہ ۵۱۷۔ ترجمہ ۵۱۸۔ لے احمد تیرے لبوں پر رحمت جاری کی جاوے گی۔ بلاغت اور فصاحت اور عقائد اور معارف تجھے عطا کئے جاویں گے سو ظاہر ہو کہ میری کلام نے وہ معجزہ دکھلایا کہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ اس الہام کے بعد میں آسے زیادہ کتابیں اور رسائل میں نے عربی بلغ فصیح میں شائع کئے مگر کوئی مقابلہ نہ کر سکا۔ خدا نے ان سے زبان اور دل دونوں چھین لئے اور مجھے دے دئے۔	۱۲۸	پیشگوئی نمبر ۱۲۸
طاعون کے دونوں میں سے پیشگوئی پوری ہوئی۔	وقالوا انى لك هذا ان هذا الاصحح يوشركون فومن لك حتى نرى الله جهرة لا يصدق السفية الاستيفه الهلاك عدوتى وعدوك لك۔ قل انى امر الله فلا تستجلوه۔ دیکھو صفحہ ۵۱۸ و ۵۱۹ براہین احمدیہ۔ ترجمہ۔ اور کہتے ہیں کہ یہ مقام تجھے کہاں سے ملا یہ تو ایک فریب ہے۔ ہم تیرے پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک خدا کو نہ دیکھ لیں یہ لوگ تو بجز موت کے نشان کے کبھی مانیں گے نہیں۔ ان کو کہہ دے کہ مری یعنی طاعون بھی چلی آئی ہے سو تم مجھ سے جلدی مت کرو۔ یہ پیشگوئی بیس برس پہلے طاعون کے کی گئی تھی۔	۱۲۹	پیشگوئی نمبر ۱۲۹
طاعون دونوں میں	امراض الناس و برکاتہ۔ لوگوں کی مرضیں اور خدا کی برکتیں۔ دیکھو براہین احمدیہ صفحہ ۵۱۹۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک	۱۳۰	پیشگوئی نمبر ۱۳۰
طاعون دونوں میں	جیسا کہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں یہ تمام پیشگوئیاں براہین احمدیہ میں درج ہیں اور وہ گواہ بھی درج ہیں جن کے ڈوبو بعض پیشگوئیاں پوری ہوئیں اور طاعون پھیلنے کی خبر جو براہین احمدیہ میں تھی وہ اب ملک میں پھیل رہی ہے اس وقت بھی جو ۲۰ اگست ۱۹۱۷ء ہے بعض حصوں پنجاب میں	۱۳۱	پیشگوئی نمبر ۱۳۱

۱۳۲

یہ حوالہ صفحہ 196 پر درج ہے

نزول المسیح صفحہ 132 مندرجہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 510 از مرزا قادیانی

۲۹۹

تمہید ہشتام جو امر خارق عادت کسی ولی سے صادر ہوتا ہے۔ وہ حقیقت میں اس قبوع کا معجزہ ہے جس کی وہ اُمت سے اور بہ بدیہی اور

۲۹۹

کہ قادر مطلق کہ جس کے علم قدیم سے ایک ذرہ مغفقی نہیں اور جس کی طرف کوئی نقصان اور خسراں غاید نہیں ہو سکتا۔ اور جو ہر ایک قسم کے جہل اور آلودگی اور ناتوانی اور غم اور حزنی اور درد اور رنج اور گرفتاری سے پاک ہے وہ کیوں کر اس چیز کا علین ہو سکتا ہے کہ جو

بدرجہ یقین کامل پہنچ کر پھر منکر میں پھر بعد اسکے فرمایا۔ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ۔ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ بِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ دِيَالْحَقِّ نَزْلًا۔ صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَكَانَ اَمْرًا اَللّٰهُ مَفْعُوْلًا۔ یعنی ہم نے ان نشانوں اور عجائبات کو اور نیز اس الہام پر از معارف و حقائق کو قادیان کے قریب اتارا ہے اور ضرورت حقہ کے ساتھ اتارا ہے اور بضرورت حقہ اتارا ہے۔ خدا اور اسکے رسول نے خبر دی تھی کہ جو اپنے وقت پر پوری ہوئی اور جو کچھ خدا نے پیدا کیا وہ ہوتا ہی تھا۔ یہ آخری فقرات اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس شخص کے ظہور کیلئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث متذکرہ بالا میں اشارہ فرما چکے ہیں اور خدا نے تعالیٰ اپنے کلام مقدس میں اشارہ فرما چکا ہے چنانچہ وہ اشارہ صحتہ سوم کے الہامات میں صحیح ہو چکا ہے اور قرآنی اشارہ اس آیت میں ہے۔ هُوَ الَّذِيْ اَنْزَلَ رَسُوْلًا بِالْهُدٰى اَلدِّيْنِ بِالْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ۔ یہ آیت جسمانی اور سیاسی حکمی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیشگوئی ہے اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا۔ اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جیسے آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔ لیکن اس عاجز پر ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ خاکسار اپنی عظمت اور انکسار اور توکل اور ایثار اور آیات اور الہام کے رُوسے مسیح کی پہلی زندگی کا نمونہ ہے اور اس عاجز کی فطرت اور مسیح کی فطرت باہم نہایت ہی متشابه واقع ہوئی ہے گویا ایک ہی جوہر کے دو ٹکڑے یا ایک ہی درخت کے دو پھل ہیں اور بحدی اتحاد ہے کہ نظر کشفی میں نہایت ہی باریک امتیاز ہے اور نیز ظاہری طور پر

۲۹۹

۱۰ : نصف

نہ اسے دوستو! یہ منارہ اس لئے تیار کیا جاتا ہے کہ تا حدیث کے موافق مسیح موجود  
کے زمانہ کی یادگار ہو۔ اور نیز وہ عظیم مشکوٰتی پوری ہو جائے جس کا ذکر قرآن شریف کی اس  
آیت میں ہے کہ سبحان الذی اسرئ بعبدہ لیلۃ من المسجد المحرم الی المسجد

ہوئی ہے کہ تمام میناروں سے اونچا ہو۔ کیونکہ یہ منارہ مسیح موجود کے احقاق حق اور حق ہمت  
اور تمام حجت اور اعلیٰ وقت کی جہان طور پر تصویر ہے۔ پس جیسا کہ اس کی پہلی سہائی مسیح موجود  
کے وقت سے اعلیٰ درجہ کے ارتقاء تک پہنچ گئی ہے اور مسیح کی ہمت ثریا سے ایسا گزرتا  
کو واپس لا رہی ہے اسی کے مطابق یہ مینار بھی روحانی امور کی عظمت ظاہر کر رہا ہے۔ وہ کوہ  
جو دنیا کے ہر چہار گوشہ میں پہنچائی جائے گی وہ روحانی طور پر بڑے اونچے مینار کو چاہتی ہے  
قریباً بیس برس ہوئے کہ میں نے اپنی کتاب براہین احمدیہ میں خدا تعالیٰ کا یہ کلام جو میری زبان  
پر جاری کیا گیا نکھا تھا۔ یعنی یہ کہ *تَا مَنذَلْنَا قُرْبَانَ مِّنَ الْقَادِيَانِ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ  
وَبِالْحَقِّ نَزَلَ حُدُوقُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ أَمْرًا اللَّهُ مَفْعُولًا*۔ دیکھو براہین احمدیہ صفحہ ۴۹۸  
یعنی ہم نے اس مسیح موجود کو قادیان میں اتارا ہے۔ اور وہ ضرورتِ حقہ کے ساتھ اتارا گیا۔  
اور ضرورتِ حقہ کے ساتھ اترا۔ خدا نے قرآن میں اور رسول نے حدیث میں جو کچھ فرمایا تھا  
وہ اُس کے آنے سے پورا ہوا۔ اس ابہام کے وقت جیسا کہ میں کئی دفعہ کھ چکا ہوں مجھے  
کشتی طور پر یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ یہ ابہام قرآن شریف میں نکھا ہوا ہے اور اس وقت  
عالم کشف میں میرے دل میں اس بات کا یقین تھا کہ قرآن شریف میں تین ٹہروں کا ذکر  
ہے۔ یعنی مکہ اور مدینہ اور قادیان کا۔ اس بات کو قریباً بیس برس ہو گئے جبکہ میں نے  
براہین احمدیہ میں نکھا تھا۔ اب اس رسالہ کی تحریر کے وقت میرے پر یہ منکشف ہوا کہ  
جو کچھ براہین احمدیہ میں قادیان کے بارے میں کشتی طور پر میں نے نکھا یعنی یہ کہ اس کا  
ذکر قرآن شریف میں موجود ہے حقیقت یہ سچ بات ہے۔ کیونکہ یہ یقینی امر ہے کہ

بیت المقدس

نزل اسح

۵۲۷

۱۳۹	پیشگوئی	جس کی سے میں مشرف کیا گیا ہوں اسی کی خالق عادت پیشگوئیاں جو دنیا پر ظاہر ہو چکیں	پیشگوئی	نمبر شمار
		اور قریباً تمام مولوی مخالف ہو گئے اور کئی ذلیل و ذلیل منصوبہ نہ چھوڑا جو میر سے تباہ کرنے کیلئے زکریا گیا مگر نتیجہ برعکس ہوا اور یہ سلسلہ فوق العادت ترقی کر گیا۔		بیتہ پیشگوئی نمبر ۲۹
	۱۸۹۵۹۶	<p>وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَسْبَغَ مِنِّي مَلَّتُهُمْ  وَحَرِّقُوا آلَ بَنِي نِينَ وَيَبْنِئْ بِغَيْرِ عِلْمٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ  الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَيَمْكُرُونَ  وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ - الْفِتْنَةُ هَهُنَا فَاصْبِرْ كَمَا  صَبَرَ أُولُو الْعَرْشِمْ - دیکھو براہین احمدیہ صفحہ ۲۲۱ - ترجمہ - یعنی پادری صفت  عیسائی جو اپنے زعم میں جیسا نیچے کے ناصر ہیں اور یہودی صفت مسلمان جو  اپنے زعم میں یہودیوں کی طرح عامل بالحدیث ہیں ہرگز راضی نہیں ہونگے  جب تک تو ان کے مذہب میں داخل نہ ہو۔ کہہ دو خدا ایک ہے اور بے نیاز ہو  نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کوئی اس کا بیٹا اور یہ لوگ باہم ٹکڑے ٹکڑے کر کریں گے اور  خدا بھی ٹکڑے کرے گا اور خدا بہتر ٹکڑے کرے گا ہے اور اس وقت تیرے لئے ایک  فتنہ برپا ہوگا سو صبر کر جیسا کہ اولو العزم نبیوں نے صبر کیا ہے یہ پیشگوئی  اس فتنہ کے متعلق ہے کہ جو عیسائیوں اور مسلمانوں نے اقل یا اکثر کے  وقت کیا۔ اور پھر کلامک کے دعویٰ اقامت قتل کے وقت کیا۔ اور</p>	۱۸۹۵۹۶	پیشگوئی نمبر ۲۹
		<p>براہین احمدیہ صفحہ ۲۲۱ میں مجھے مخاطب کرنے یہ پیشگوئی موجود ہے کہ پادری اور یہودی صفت مسلمان  ٹکڑے ٹکڑے کرے گا اور تم پر ایک فتنہ برپا کرے گا مگر خدا اصلیت ظاہر کرنے کا سوا اقل یا اکثر کے مفقہ میں  ایسا ہی ہوا کہ میں لوگوں نے ٹکڑے پیشگوئی کو جھوٹی قرار دینا سچا مگر خدا نے اسکی سچائی ظاہر کر دی۔ ستم  نے پیشگوئی کی شرط کے موافق و جلال کہنے میں مع میں رجوع کیا اور بہت سا ہتلاہ اسکی مخالفت ہوا۔</p>		زندہ کو اور بیت نمبر ۲۹

۱۵۱

یہ حوالہ صفحہ 197 پر درج ہے

نزل اسح صفحہ 149 مندرجہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 1527 از مرزا قادیانی

پہلی فصل

۲۶۶

براہین احمدیہ

گیلے کسی نئے و قیقہ کے پیدا کرنے کی جگہ نہیں چھوڑتا۔ حالانکہ وہ اس قدر قلیل الحجم کتاب ہے

آیات مندرجہ بالا میں جس قدر خداوند قادر مطلق نے تمام دنیا کے مقابلہ پر تمام مخالفوں کے مقابلہ پر تمام دشمنوں کے مقابلہ پر تمام منکروں کے مقابلہ پر تمام دو گنہگاروں کے مقابلہ پر تمام زیور اوروں کے مقابلہ پر تمام بادشاہوں کے مقابلہ پر تمام حکیموں کے مقابلہ پر تمام فلاسفوں کے مقابلہ پر تمام اہل منہ مہ کے مقابلہ پر ایک طرز ناتوان بے زور بے زور ایک ہی ناخوان بے علم بے تربیت کو

أَنْتَ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّكَ فَبَشِّرْ وَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ - قُلْ  
 إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ إِذَا كَفَيْتُكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ -  
 هَذَا نَبِيُّكُمْ عَلَى مَنْ نَزَّلَ الشَّيَاطِينَ - نَزَّلَ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ - قُلْ  
 عِنْدِي شَهَادَةٌ مِنَ اللَّهِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُؤْمِنُونَ - قُلْ عِنْدِي شَهَادَةٌ مِنَ اللَّهِ  
 فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ - إِنْ مَعِيَ رَبِّي سِجِّدِينَ - رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى  
 رَبِّ ارْحَمْنِي وَأَرْحَمِ مِنَ السَّمَاءِ - رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ -  
 رَبِّ اصْلِحْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ - رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ  
 خَيْرُ الْفَاتِحِينَ - وَقُلِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ نَسُوفَ تَعْلَمُونَ -  
 وَلَا تَقُولَنَّ لِيْ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ الْيَوْمِ وَلَا يَخَافُوكَ مِنْ دُونِهِ -  
 إِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا سَمِعْتَكَ الْمُتَوَكِّلِ - يُحْمَدُكَ اللَّهُ مِنْ عَرْشِهِ -  
 نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي - يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ  
 نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ - سَنَلِقُنَّ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ - إِذَا جَاءَ نَصْرُ  
 اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَأَنْتُمْ فِي الْأَرْضِ الْيَسَاءِ - أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ - هَذَا تَأْوِيلُ  
 رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا - وَقَالُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا اخْتِلَافٌ -  
 قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ - قُلْ إِنْ أَوْرَثْتُهُ فَعَلَى إِجْرَائِي وَ  
 مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا - وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا  
 النَّصَارَى وَخَرَقُوا آيَةَ الْبَنِيْنَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ - قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ -  
 اللَّهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ - وَمُكْرَدُونَ وَ

یہ حوالہ صفحہ 197 پر درج ہے

براہین احمدیہ صفحہ 256 مندرجہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 266 از مرزا قادیانی

منصب اسی کو پہنچتا ہے کیونکہ امراض روحانی پر اسی کو اطلاع ہے اور ازالہ مرض اور استرداد صحت پر وہی قادر ہے۔ پھر بعد اسکے بطور استدلال کے فرمایا کہ اللہ وہ ذات کاملہ رحمت ہے کہ اُس کا قدیم سے یہی قانون قدرت ہے کہ اُس تنگ حالت میں وہ ضرور مہینہ برساتا ہے کہ جب لوگ نا امید ہو چکے ہیں۔ پھر زمین پر اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے اور وہی کارساز حقیقی اور ظاہر و باطناً قابل تعریف ہے جسے جب معنی اپنی نہایت کو پہنچ جاتی ہے اور کوئی صورت مخلصی کی نظر نہیں آتی تو اس صورت میں اُس کا یہی قانون قدیم ہے کہ وہ ضرور عاجز بندگی

۵۵۲

نہیں جو اُس سے باہر ہو۔ کوئی حکمت نہیں جو اُس کے محیط بیان سے رہ گئی ہو۔ کوئی نور نہیں جو اُس کی متابعت سے نہ ملتا ہو۔ اور یہ باتیں بلا ثبوت نہیں۔ کوئی ایسا امر نہیں جو صرف زبان سے کہا جاتا ہے بلکہ یہ وہ متحقق اور بدیہی الثبوت صداقت ہے کہ جو تیرہ سو برس سے برابر اپنی روشنی دکھلاتی چلی آئی ہے اور ہم نے بھی اس صداقت کو اپنی اس کتاب میں نہایت تفصیل سے لکھا ہے اور دقائق اور معارف قرآنی کو اس قدر بیان کیا ہے کہ جو ایک طالب صادق کی تسلی اور تشفی کے لئے بحر عظیم کی طرح

۵۵۳

تیری بخششوں نے ہم کو گمراہ کر دیا۔ یہ سب اصرار ہیں کہ جو اپنے اپنے اوقات پر چسپاں ہیں جن کا علم حضرت عالم الغیب کو ہے پھر بعد اسکے فرمایا ہوشعنا نحسا۔ یہ دونوں فقرے شاید عبرانی ہیں لہذا ان کے معنی ابھی تک اس عاجز پر نہیں کھلے۔ پھر بعد اسکے دو فقرے انگریزی میں جن کے الفاظ کی صحت بجاغت سرعت الہام ابھی تک معلوم نہیں اور وہ یہ ہیں آئی ٹو یو۔ آئی شیل گویو اور لارج پارٹی اور اسلام۔ چونکہ اس وقت سے آج کے دن اس جگہ کوئی انگریزی خوان نہیں اور نہ اسکے پورے پورے معنی کھلے ہیں اسلئے بغیر معنیوں کے لکھا گیا ہے۔ پھر بعد اسکے یہ الہام ہے۔ یا عیسیٰ اِنِّیْ مُتَوَقِّئُكَ وَ رَافِعُكَ اِلَیَّ (و مَطْهَرُكَ مِنَ الَّذِیْنَ كَفَرُوا) وَ جَاعِلُ الَّذِیْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا اِلَیَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ثَلَاثًا مِنَ الْاَوَّلِیْنَ وَ ثَلَاثًا مِنَ الْاٰخِرِیْنَ۔ اسے عیسیٰ میں تجھے

۵۵۴

۵۵۵

یہ فقرہ سہو کاتب سے براہین میں رہ گیا ہے۔ (براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۳۳۳ حاشیہ)

کی خبر لیتا ہے اور انکو ہلاکت سے بچاتا ہے اور جیسے وہ جسمانی سختی کے وقت رحم فرماتا ہے اسی طرح جب روحانی سختی یعنی ضلالت اور گمراہی اپنی حد کو پہنچ جاتی ہے اور لوگ راہِ راست پر قائم نہیں رہتے تو اس حالت میں بھی وہ ضرور اپنی طرف سے کسی کو مشرفِ بوحی کر کے اور اپنے نورِ خاص کی روشنی عطا فرما کر ضلالت کی ہلاکت تازہ کی کو اسکے ذریعے سے اٹھاتا ہے اور چونکہ جسمانی رحمتیں عام لوگوں کی نگاہ میں ایک واضح امر ہے اسلئے اللہ تعالیٰ نے آیتِ محدودہ میں اول ضرورتِ فرقانِ مجید

۵۵۵

جو شہ مار رہے ہیں اب یہ کیونکر ہو سکے کہ کوئی شخص صرف مونہہ کی واہیات باتوں سے اس نورِ بزرگ کی کسر نشان کرے۔ ہاں اگر کسی کے دل کو یہ وہم بگڑتا ہے کہ یہ تمام دقائق و معارف و لطائف و خواص کہ جو قرآن شریف میں ثابت کر کے دکھلائے گئے ہیں کسی دوسری

۵۵۶

کابل پر بخشوں گے یا وفات ڈونگا اور اپنی طرف اٹھاؤں گے یعنی رفع درجات کروں گا یا دنیا سے اپنی طرف اٹھاؤں گا اور تیرے تابعین کو ان پر جمع منکر میں قیامت تک غلبہ بخشوں گا یعنی تیرے ہم عقیدہ اور ہم مشربوں کو محنت اور برہان اور برکات کے زور سے دوسرے لوگوں پر قیامت تک فائق رکھوں گا۔ پہلوں میں سے بھی ایک گروہ ہے اور پچھلوں میں سے بھی ایک گروہ ہے اس جگہ عیسیٰ کے نام سے بھی یہی عاجز مراد ہے اور پھر بعد اسکے آرد میں الہام فرمایا۔ میں اپنی چمکار دکھلاؤں گا۔ اپنی قدرتِ نمائی سے تجھ کو اٹھاؤں گا۔ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا لیکن خدا سے قبول کریگا اور بڑے زور اور محلوں سے اسکی سچائی ظاہر کر دے گا۔ اَلْفِئْتَةُ هُمْ نَا قَاصِدٌ كَمَا صَبَرُوا الْعَزْمِ۔ اس جگہ ایک فتنہ ہے سو اولوا العزم نبیوں کی طرح صبر کر۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا۔ جب خدا مشکلات کے پہاڑ پر تجل کر لگا تو انہیں پاش پاش کر دے گا۔ قُوَّةُ الرَّحْمَانِ لِعَبِيدِ اللَّهِ الصَّامِدِ۔ یہ خداؤں کی تہ ہے کہ جو اپنے بندہ کے لئے وہ غنی مطلق ظاہر کرے گا۔ مَقَامٌ لَا تَنَزَّ فِي الْعَبْدِ فِيهِ بَسْمِ الْاَعْمَالِ۔ یعنی عبد اللہ الصمد ہونا ایک مقام ہے کہ جو بطریقِ موہبت خاص عطا ہوتا ہے کوشسوں سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ يَا ذَا عَزْوُدُ عَامِلٌ بِالذَّنَابِ رِفْقًا وَاحْسَانًا وَاِذَا احْتَبَمُ بِحَبْتِهِ لَحِيْقًا وَاِذَا احْسَنَ مِنْهَا۔ وَاَمَّا بِعَمَّتِ رَبُّكَ فَحَدَّثْ

۵۵۷



اس کے ہاتھ سے دین باسلام کو تمام دینوں پر غلبہ بخشے اور ابتداء میں ضرور ہے کہ اس مامور اور اسکی جماعت پر ظلم ہو لیکن آخر میں فتح ہوگی اور یہ دین اس مامور کے ذریعہ سے تمام ادیان پر غالب جائیگا اور دوسری تمام ملتیں بیٹنے کے ساتھ ہلاک ہو جائیں گی۔ دیکھو! یہ کس قدر عظیم الشان پیشگوئی ہے اور یہ وہی پیشگوئی ہے جو ابتدا سے اکثر علماء کہتے آئے ہیں کہ مسیح موعود کے حق میں ہے اور اسکے وقت میں پوری ہوگی اور براہین احمدیہ میں شترہ برس سے مسیح موعود کے دعویٰ سے پہلے درج ہے تاخدا ان لوگوں کو شرمندہ کرے کہ جو اس عاجز کے دعویٰ کو انسان کا افترا خیال کرتے ہیں۔ براہین خود گواہی دیتی ہے کہ اس وقت اس عاجز کو اپنی نسبت مسیح موعود ہونے کا خیال بھی نہیں تھا اور پیمانے عقیدہ پر نظر تھی لیکن خدا کے الہام نے اسی وقت گواہی دی تھی کہ تو مسیح موعود ہے۔ کیونکہ جو کچھ آثار نبویہ نے مسیح کے حق میں فرمایا تھا الہام الہی نے اس عاجز پر جاریا تھا۔ یہاں تک کہ اسی براہین احمدیہ میں نام بھی عیسیٰ رکھ دیا۔ چنانچہ صفحہ ۵۵۶

براہین احمدیہ میں یہ الہام موجود ہے یا عیسیٰ اذی متوفیک و رافعت الی و  
 جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفرو الی یوم القیامة ثلثة من الاولین  
 و ثلثة من الاخرین۔ یعنی اسے عیسیٰ میں تجھے طبعی وفات دونا اور اپنی طرف اٹھاؤنگا  
 اور تیرے تابعین کو ان لوگوں پر غلبہ بخشونگا جو مخالف ہونگے اور تیرے تابعین دو قسم کے  
 ہوں گے پہلا گروہ اور بچھلا گروہ۔ یہ آیت حضرت مسیح پر اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جب  
 انکی جان یودیوں کے منصوبوں سے نہایت گھبراہٹ میں تھی اور یہودی اپنی خباثت  
 سے انکے مصلوب کرنے کی فکر میں تھے تا مجرمانہ موت کا داغ انپر لگ کر تورات کی ایک  
 آیت کے موافق انکو طعون ٹھہراویں کیونکہ تورات میں لکھا تھا کہ جو لکڑی پر لٹکایا جائے  
 وہ لعنتی ہے۔ چونکہ صلیب کو جرائم پیشہ سے قدیم طریق سزا دہی کی وجہ سے ایک مناسبت  
 پیدا ہوگئی تھی اور ہر ایک خونی اور نہایت درجہ کا بدکار صلیب کے ذریعہ سے سزا پاتا تھا اسلئے  
 خدا کی تقدیر نے راستبازوں پر صلیب کو حرام کر دیا تھا تا پاک کو پلید سے مشابہت پیدا  
 نہ ہو۔ پس یہ عجیب بات ہے کہ کوئی نبی مصلوب نہیں ہوا تا انکی سجائی عوام کی نظر

اس میں ابتدائی حروف کچھ آہستہ جویا نہیں رہے مگر مفہوم یہی تھا:

(بدجلد ۶ نمبر ۱۳، مورخہ ۳ اپریل ۱۹۰۶ء صفحہ ۳۔ الحکم جلد ۱۱ نمبر ۱۲، مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۰۶ء صفحہ ۱)

۲۔ اپریل ۱۹۰۶ء إِنِّي مَعَ الرَّسُولِ أَقْوَمُ وَالْوَمَّ مَن قِيلُومٌ - وَأَعْطَيْتَكَ مَا يَكُونُ

(بدجلد ۶ نمبر ۱۵، مورخہ ۱۱ اپریل ۱۹۰۶ء صفحہ ۴۔ الحکم ۱۱ نمبر ۱۲، مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۰۶ء صفحہ ۲)

۳۔ اپریل ۱۹۰۶ء "(۱) لَأَلْفَ آفٍ بَيْنَ (۲) يَا أُخْتِ رَحِمِ كَر - (۳) إِنِّي مَعَ اللَّهِ فِي

كُلِّ حَالٍ (۴) أَخْتَرْتُ نَاسِيْفَةً (۵) خَدَاكَ سَاتِ نَكُو كَارِ بِنْدَسَ هَرَجَلِكِ رَيْشِي هِي -

(بدجلد ۶ نمبر ۱۵، مورخہ ۱۱ اپریل ۱۹۰۶ء صفحہ ۴۔ الحکم جلد ۱۱ نمبر ۱۲، مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۰۶ء صفحہ ۲)

۵۔ اپریل ۱۹۰۶ء "(۱) خَسَدٌ - يَلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (۲) رَا زَكْوَلٌ كِيَا -

تفہیم: وہ جو خسہم ہے۔ اس میں خدا کے نوشتہ کے کئی نشان ہیں جو ظاہر ہونے والے ہیں جسے مقطعات میں کسی کا نام ہے۔ یہی تفہیم ہے۔

(۳) الَّذِينَ اخْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ

یہ قوم مخالفت کی طرف اشارہ ہے۔ ساتھ کافقرہ مجہول گیا۔ واخذ اعلم

(بدجلد ۶ نمبر ۱۵، مورخہ ۱۱ اپریل ۱۹۰۶ء صفحہ ۴۔ الحکم جلد ۱۱ نمبر ۱۲، مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۰۶ء صفحہ ۱)

۵۔ اپریل ۱۹۰۶ء "(۱) مَثَّ آيَاتُ الْخُرَّانِ (۲) تَمَّتْ كَلِمَةُ اللَّهِ - (۳) إِنَّ اللَّهَ

مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا - (۴) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقَعُودًا - (۵) رَحِمَهُ اللَّهُ

۱۔ میں اپنے رسول کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور جو اسے طاعت کرتا ہے اسے طاعت کروں گا اور تجھے وہ چیزوں کا جو ہمیشہ ہے

۲۔ (۱) Life of pain (ترجمہ: تلخ زندگی) ۳۔ میں ہر حال میں اللہ کے ساتھ ہوں۔

۴۔ (۴) ہم نے اس کی تلوار کو کھینچا ہے۔ (ترجمہ: از مرتب) ۵۔ یہ کھول کر بیان کرنے والی کتاب کے نشان ہیں۔

۶۔ (ترجمہ) وہ لوگ جنہوں نے نسبت کے معاملہ میں زیادتی کی۔

۷۔ (ترجمہ) اُسے بڑے خیانت کرنے والے مرجا۔ اللہ کی بات پوری ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو تقویٰ اختیار کریں۔ وہ جو

اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے۔ اللہ نے رحم کیا۔

۸۔ (ترجمہ: از مرتب) منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی کی ہدایت ہے کہ یہ نام ایڈیٹر خلد شہباز منگ قادیان کے متعلق تھا۔ لکھتے

اور میں امام مالک اور ابن حزم اور معتزلہ کے قول کو مسیح کی وفات کے بارے میں صحیح قرار دیتا ہوں اور دوسرے اہلسنت کو غلطی کا مرتکب سمجھتا ہوں۔ سو میں بحیثیت حکم کو ہونے کے ان جھگڑا کر نیوالوں میں یہ حکم صادر کرتا ہوں کہ نزول کے اجمالی معنوں میں یہ گروہ اہلسنت کا سچا ہے کیونکہ مسیح کا بروزی طور پر نزول ہونا ضروری تھا۔ ہاں نزول کی کیفیت بیان کرنے میں ان لوگوں نے غلطی کھائی ہے۔ نزول صفت بروزی تھا نہ کہ حقیقی۔ اور مسیح کی وفات کے مسئلہ میں معتزلہ اور امام مالک اور ابن حزم وغیرہ ہمکلام ان کے سچے ہیں کیونکہ بموجب نص صریح آیت کریمہ یعنی آیت فلما توفیتنی کے مسیح کا عیسائیوں کے بگڑنے سے پہلے وفات پانا ضروری تھا۔ یہ میری طرف سے بطور حکم کے فیصلہ ہے اب جو شخص میرے فیصلہ کو قبول نہیں کرتا وہ اس کو قبول نہیں کرتا جس نے مجھے حکم مقرر فرمایا ہے۔ اگر یہ سوال پیش ہو کہ تمہارے حکم ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا یہ جواب ہے کہ جس زمانہ کیلئے حکم دیا گیا ہے تھا وہ زمانہ موجود ہے اور جس قوم کی صلیبی غلطیوں کی حکم نے اصلاح کرنی تھی وہ قوم موجود ہے۔ اور جن نشانوں نے اس حکم پر گواہی دینی تھی وہ نشان ظہور میں آچکے ہیں۔ اور اب بھی نشانوں کا سلسلہ شروع ہے۔ آسمان نشان ظاہر کر رہا ہے۔ زمین نشان ظاہر کر رہی ہے اور مبارک وہ من کی آنکھیں اب بند نہ رہیں۔

میں یہ نہیں کہتا کہ پہلے نشانوں پر ہی ایمان لاؤ۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر میں حکم نہیں ہوں تو میرے نشانوں کا مقابلہ کرو۔ میرے مقابل پر جو اختلاف عقائد کے وقت آیا ہوں اور سب بحثیں نکلی ہیں۔ صرف حکم کی بحث میں ہر ایک کا حق ہے جسکو میں پورا کر چکا ہوں۔ خدا نے مجھے چار نشان دیئے ہیں۔

(۱) میں قرآن شریف کے مجربہ کے ظنی پر عربی بلاغت فصاحت کا نشان دیا گیا ہوں۔ کوئی نہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے۔

(۲) میں قرآن شریف کے حقائق معارف بیان کرنے کا نشان دیا گیا ہوں۔ کوئی نہیں کہ

جو اس کا مقابلہ کر سکے۔

(۳) میں کثرت قبولیت دعا کا نشان دیا گیا ہوں۔ کوئی نہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میری دعائیں میں ہزار کے قریب قبول ہو چکی ہیں اور انکا میرے پاس ثبوت ہے۔

(۴) میں غیبی اخبار کا نشان دیا گیا ہوں۔ کوئی نہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ یہ خدا تعالیٰ کی گواہیاں میرے پاس ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں میرے حق میں چمکتے ہوئے نشانوں کی طرح پوری ہوئیں۔

آسمان بار و نشان الوقت سے گوید زمین و این دو شاہد از پئے تصدیق من استادہ اند مدت ہوئی کسوف خسوف رمضان میں ہو گیا۔ حج بھی بند ہوا۔ اور بموجب حدیث کے طاعون بھی ملک میں پھیل اور بہتک نشان مجھ سے ظاہر ہوئے جسکے صدر ہند و اندھمان گواہ ہیں جن کو میں نے ذکر نہیں کیا۔ ان تمام وجوہ سے میں امام الزمان ہوں اور خدا میری تائید میں ہے۔ اور وہ میرے لئے ایک تیز تلوار کی طرح کھڑا ہے۔ اور مجھے خبر دی گئی ہے کہ جو شرارت میرے مقابل پر کھڑا ہوگا وہ ذلیل اور شرمندہ کیا جائیگا۔ دیکھو میں نے وہ حکم پہنچا دیا جو میرے ذمہ تھا اور یہ باتیں میں اپنی کتابوں میں لکھی تھیں۔ لکھ چکا ہوں مگر جس واقعہ نے مجھے ان امور کے مکرر لکھنے کی تحریک کی وہ میرے ایک دوست کی اجتہادی غلطی ہے جس پر اطلاع پانے سے میں نے ایک نہایت دردناک دل کیساتھ اس رسالہ کو لکھا ہے۔

تفصیل اس واقعہ کی یہ ہے کہ ان دنوں میں یعنی ماہ ستمبر ۱۸۹۸ء میں جو مطابق جمادی الاول ۱۳۱۶ھ ہے۔ ایک میرے دوست جن کو میں ایک شہر انسان اور نیک بخت اور متقی اور پرہیزگار جانتا ہوں اور انکی نسبت ابتدا سے میرا بہت نیک گمان ہے و اللہ حسیبہ۔ مگر بعض خیالات میں غلطی میں پڑا ہوا سمجھتا ہوں۔ اور اس غلطی کے ضرر سے انکی نسبت اندیشہ بھی رکھتا ہوں وہ تکالیف سفر اٹھا کر اور ایک اور میرے عزیز دوست کو ہمراہ لیکر قادیان میں میرے پاس پہنچے۔ اور بہت سے الہامات اپنے مجھ کو مسئلے پس اس سے مجھ کو بہت خوشی ہوئی۔ کہ خدا تعالیٰ نے انکو الہامات کا شرف بخشا ہے۔ مگر انہوں نے سلسلہ الہامات میں ایک یہ خواب بھی اپنی مجھے سنائی کہ میں نے

ہے تو بس یہی کہ انکی فطرت میں یہودیوں کی صفات کا خمیر بھی موجود ہے ورنہ یہ کسی نیک بخت آدمی کا کام نہیں ہے کہ قرآن کریم کی ظاہر ترکیب کو توڑ مروڑ کر اور آیات کے غیر منطقی تعلقات کو ایک دوسری سے الگ کر کے اور بعض فقرے اپنی طرف سے زائد کر کے کوئی امر ثابت کرنا چاہے اگر اسی بات کا نام ثبوت ہے تو کونسا امر ہے جو ثابت نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ہر ایک ملحد اور بے ایمان اپنے مقاصد اسی طرح ثابت کر سکتا ہے۔ اس بات کو کون نہیں جانتا کہ ایک کتاب کے معنی اسی صورت میں اس کتاب کے معنی کہلاتے ہیں کہ جب اسکی ترتیب اور تعلقات فقرات اور سیاق سباق محفوظ رکھ کر کئے جائیں۔ لیکن اگر اس کتاب کی ترکیب کو ہی زیر و زبر کیا جائے اور عبارت کے اعضا کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے اور نہایت دلیری کر کے بعض فقرات اپنی طرف سے ملا دیئے جائیں تو پھر ایسی خود ساختہ عبارت سے اگر کوئی مدعا ثابت کرنا چاہے تو کیا یہ وہی یہودیانہ تحریف نہیں ہے جس کی وجہ سے قرآن کریم میں ایسے لوگ سورا اور بندر کہلائے جنہوں نے اسی طرح توریت میں طحانہ کا ردائیاں کی تھیں۔ اگر ایسے ہی خائنانہ تصرفات اور تحریفات سے حضرت مسیح کی زندگی ثابت ہو سکتی ہے تو پھر ہمیں تو اقرار کرنا چاہیے کہ حضرت مسیح کی زندگی ثابت ہو گئی۔ مگر اس بات کا کیا علاج کہ خدا تعالیٰ نے ایسے محرفوں کا نام خنزیر اور بوز نہ رکھا ہے اور ان پر لعنت بھیجی ہے اور ان کی صحبت سے پرہیز اور اجتناب کرنے کا حکم ہے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم الہی کلام کی کسی آیت میں تغیر اور تبدیل اور تقدیم اور تاخیر اور فقرات تراشی کے مجاز نہیں ہیں مگر صرف اُس صورت میں کہ جب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہو اور یہ ثابت ہو جائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بذات خود ایسی تغیر اور تبدیل کی ہے اور جب تک ایسا ثابت نہ ہو تو ہم قرآن کی ترسیح اور ترتیب کو زیر و زبر نہیں کر سکتے اور نہ اُس میں اپنی طرف سے بعض فقرات ملا سکتے ہیں۔ اور اگر ایسا کریں تو عناد اللہ مجرم اور قابل مواخذہ ہیں۔ اب ناظرین خود مولوی صاحب موصوف کی کتاب کو دیکھ لیں کہ کیا وہ ایسی ہی کارروائیوں سے پڑھے یا کہیں انہوں نے ایسا ہی کیا ہے کہ قرآن کریم کی کوئی آیت ایسے طور سے پیش کی ہے کہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ ثابت کر کے دکھلا دیا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس

خاتم النبیین و خیر المرسلین ہیں جن کے ہاتھ سے اکمال دین ہو چکا اور وہ نعمت بجز تمام  
 پہنچ چکی جس کے ذریعے ہر انسان راہ راست کو اختیار کر کے خدائے تعالیٰ تک پہنچ سکتا  
 ہے اور ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب کا ہی  
 ہے اور ایک شمشیر یا نقطہ اس کی شہر آشوب اور حدود و احکام اور اوامر سے زیادہ نہیں  
 ہو سکتا اور نہ کم ہو سکتا ہے اور اب کوئی ایسی وحی یا ایسا الہام مطلوب اللہ نہیں ہو سکتا  
 جو احکام فرغاتی کی زیم یا نسخ یا کسی ایک حکم کے تبدیل یا تغیر کر سکتا ہو اگر کوئی ایسا  
 خیال کرے تو وہ ہمارے نزدیک جماعت مومنین سے خارج اور ملحد اور کافر ہے اور  
 ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ اوتی و درہم را کہ استقیم کا بھی بغیر اتباع ہمارے نبی صلی اللہ  
 علیہ وسلم کے ہرگز انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا چہ جائیکہ راہ راست کے اعلیٰ مدارج بجز  
 اقتدا اس امام الرسل کے حاصل ہو سکیں کوئی مرتبہ شرف و کمال کا اور کوئی مقام عزت  
 اور قرب کا بجز بھی اور کامل متابعت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ہرگز حاصل کر ہی نہیں  
 سکتے ہیں جو کچھ کتابے طے فی افضل طور پر کتابے اللہ ہم اس بات پر بھی ایمان رکھتے  
 ہیں کہ جو راستیاز اور کامل لوگ شرف و محبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہو کر  
 تکمیل منازل سلوک کر چکے ہیں ان کے کمالات کی نسبت بھی ہمارے کمالات اگر ہمیں حاصل  
 ہوں بطور ظن کے حاق ہیں اور ان میں بعض ایسے بڑی فضائل ہیں جنہیں ہمیں کسی طرح سے  
 حاصل نہیں ہو سکتے۔ غرض ہمارا ان تمام باتوں پر ایمان ہے جو قرآن شریف میں مذکور  
 اور جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدائے تعالیٰ کی طرف سے لائے اور تمام محدثات اور  
 بدعات کی تم ایک فاش ضلالت اور جہنم تک پہنچانے والی راہ یقینی رکھتے ہیں گناہوں  
 کہ ہماری قوم میں ایسے لوگ بہت ہیں جو بعض حقائق اور معارف قرآنیہ اور حقائق تاریخیہ  
 کو جو اپنے وقت پر فہم کشف و الہام زیادہ تر صفائی سے کہتے ہیں محدثات و بدعات ہی  
 ہی فاسل کہتے ہیں حالانکہ معارف و حقائق قرآنیہ و حدیثیہ ہمیشہ اس کشف و کھتے بہت ہیں

وَمِنَ الْمُعْتَرِضِينَ الْمَذْكُورِينَ - شَيْخُ خِلِّ بَطَالُوى - وَجَارِ غُوى - يُقَالُ لَهُ

وَيْجُزُ الْعَرَضُ كَتَدَاغٍ شَيْخٌ كَرَاهُ سَاكِنٌ بِلَادِهِ اسْتِ كَهَسَايَةِ كَرَاهِ اسْتِ - لَوْ رَأَى

عَمْرًا حَسَنًا - وَقَدْ سَبَقَ الْكَلِمَةُ فِي الْكُذْبِ وَالْمَيْتِنِ - وَأَنَّهُ أُجِبَى

عَمْرًا حَسَنًا - وَأَنَّهُ أُجِبَى - وَأَنَّهُ أُجِبَى - وَأَنَّهُ أُجِبَى - وَأَنَّهُ أُجِبَى

وَاسْتَكْبَرَ - وَأَشَاعَ الْكِبْرَ وَأَطَهَرَ حَتَّى قِيلَ إِنَّهُ إِمَامُ الْمُسْتَكْبِرِينَ - وَسُرِّيَسٌ

وَكَبِيرٌ نَمُوذٌ - وَكَبِيرٌ أَيْ شَيْخٌ كَرَاهُ وَظَاهِرٌ سَاعَتٌ تَأْتِي كَلِمَةً شَدِيدَةً أَوْ إِمَامٌ حَكِيمٌ اسْتِ - وَرَبِيسٌ

لِلْمُعْتَدِينَ - وَرَبِيسٌ الْغَاوِينَ - هُوَ الَّذِي كَفَرَنِي قَبْلَ أَنْ يَكْفُرَ الْآخَرُونَ - وَاعْتَرَضَ

تَهْدِيَةً كَتَدَاغٍ - وَسُرِّيَسٌ اسْتِ - أَوْ يَمَانٌ نَحْوُ اسْتِ كَهَسَايَةِ كَرَاهِ اسْتِ - وَرَبِيسٌ

عَلَى كَتَبِي وَأَطَهَرَ جِهْلَهُ الْمَكُونُونَ - فَقَالَ إِنَّ تِلْكَ كَلِمَةٌ مَشْحُونَةٌ مِنَ الْأَعْلَاطِ

مِنَ الْعَرَضِ كَرُوذٌ - وَبِهِلٌ نَمُوذٌ ظَاهِرٌ نَمُوذٌ - بِسُكُونِ كَتَبِي كَرَاهِ اسْتِ - وَرَبِيسٌ

وَمَا قَطَعَتْ فِي وَجْهِ الْأَعْلَاطِ - وَبِهِلٌ نَمُوذٌ ظَاهِرٌ نَمُوذٌ - بِسُكُونِ كَتَبِي كَرَاهِ اسْتِ - وَرَبِيسٌ

أَخْطَاطٌ فَرَادِقَانَةٌ - وَبِهِلٌ نَمُوذٌ ظَاهِرٌ نَمُوذٌ - بِسُكُونِ كَتَبِي كَرَاهِ اسْتِ - وَرَبِيسٌ

لِلْجَاهِلِينَ - وَكَلِمَةٌ يَوْجَدُ فِي كَتَبِهِ مِنْ جِهْلِهِمْ وَأَقْيَافِهَا - فَلَيْسَ قَرِيحَتَهُ حَجَرٌ

وَبِهِلٌ نَمُوذٌ ظَاهِرٌ نَمُوذٌ - بِسُكُونِ كَتَبِي كَرَاهِ اسْتِ - وَرَبِيسٌ

أَتَانِيهَا بِلِ تِلْكَ كَلِمَةٌ نَمُوذٌ ظَاهِرٌ نَمُوذٌ - بِسُكُونِ كَتَبِي كَرَاهِ اسْتِ - وَرَبِيسٌ

وَكَلِمَةٌ يَوْجَدُ فِي كَتَبِهِ مِنْ جِهْلِهِمْ وَأَقْيَافِهَا - فَلَيْسَ قَرِيحَتَهُ حَجَرٌ

فَقُلْتُ يَا شَيْخَ الْمَنُوكِيِّ - وَعَدُو الْعَقْلِ وَالنُّهَى - إِنَّ كَتَبِي مَبْرُورَةٌ مَتَا

بِهِلٌ نَمُوذٌ ظَاهِرٌ نَمُوذٌ - بِسُكُونِ كَتَبِي كَرَاهِ اسْتِ - وَرَبِيسٌ

رَحْمَتٌ - وَمَنْزُورَةٌ عَمَّا ظَنَنْتُ - الْأَسْهُوَ الْكَاتِبِينَ - أَوْ زَيْغَ الْقَلَمِ بِتَغَاوُلٍ مَتَى لَا

بِهِلٌ نَمُوذٌ ظَاهِرٌ نَمُوذٌ - بِسُكُونِ كَتَبِي كَرَاهِ اسْتِ - وَرَبِيسٌ

مِنَ مَهْمَلَاتِهَا وَالصَّوَابُ مَنْزُورَةٌ - فَسُ

۲۴۲

كجھل الجاهلین۔ فان قلت استثبتت فيها آثارا فخذ اء كل لفظ غلط

پس اگر تو میدانی کہ دران کجا بہ لغزش ثابت کنی پس از من بمقابلہ ہر لفظ غلط دینارے بگیر

دینارا۔ واجمع صریفاً ونضاراً۔ وكن من المتمولين۔ وهذا صلة تلامم هواك۔ و

وسيم وندرا جمع كن۔ واز الدار ابن بشو۔ واین آن انعام است کہ مناسبل خواہش

تقريبه عيناك۔ وتستريح به وجملاك۔ فتنبو من السفر الدائم۔ ولا تحنيه كالشحم

کست۔ ویدو چشم تو خشک خواہد شد۔ وپرو دپنے تو از ان آرام خواہند گرفت پس از سفر دائمی نجات خوبی یافت

الهائم وتقلد كالمتمولين۔ وتغوي به عن جعلل اخرى۔ ومكانك شتى۔ وانشاعة

قدح سرگردان آوردہ بخواری گردید۔ وشل متغمان خواہی نشست۔ ودریں مال از مزیدی آوگر و فریب آوگواگون

عدو السنة۔ ووعظ الدجل والغفريّة۔ وتعيش كالمستريحين۔

وایشاعہ السنہ کہ در مال عدو السنہ است واز دجل و فریب بے نیاز خوبی شد و بخو آدم یا بان زندگ خوبی گذرانید۔

بيداني اريد ان اري قبله رياضاتك واشاهد ريح بلاعتك۔ لا فهم

مگر این است کہ می خواہم کہ قبل ازین امر خوشبہ نصاحت ترا بینم و بوسے بلاغت تو مشاہدہ کنم۔

انك من علماء هذه الصناعة۔ ومن اهل تلك الصولة۔ ولسنت

تا بہ بینم کہ تو از علمائے این صناعت هستی۔ واز آنان هستی کہ اہل این عملہ هستند۔ واز

من الجاهلین المحبوبین العمین۔

جابلان و محبوبان و نایبانیان هستی۔

فاتفق لو شل حظه المنعوس۔ ونكد طالعه المنعوس۔ انه ما قبل

پس بیاعت کہ نصیبی و بدبختی طالع منعوس او این اتفاق افتاد کہ او این انعام را قبول نکرد

هذه الصلة۔ وما سئى نفسه لي قبل هذه الشريطة۔ وخشوا الذلة

و خویشتن را بر بلندی آماجی نیاورد کہ تا شرط را قبول کند۔ واز ذلت و رسوائی



شائع کر دیا اور شائع بھی ایسا کیا کہ شاید ایک یا دو ہفتہ تک دس ہزار مرد و عورت تک ہماری درخواست نکاح اور ہمسائے مضمون الہام سے بخوبی اطلاع یاب ہو گئے ہونگے اور پھر زبانی شائستگی پر اکتفا نہ کر کے اخباروں میں ہمارا خط چھپوایا اور بازاروں میں ان کے دکھلانے سے وہ خط جا بجا پڑھا گیا اور عورتوں اور بچوں تک اس خط کے مضمون کی منادی کی گئی۔ اب جب مرزا نظام الدین کی کوشش سے وہ خط ہمارا نور افشاں میں بھی چھپ گیا۔ اور علیسانیلوں نے اپنے مادہ کے موافق بیجا افتراء شروع کیا تو ہم پر فرض ہو گیا کہ اپنے قلم سے اصلیت کو ظاہر کریں۔ بد خیال لوگوں کو واضح ہو کہ ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لئے ہماری پیشگوئی سے بڑھ کر اور کوئی محکم امتحان نہیں ہو سکتا اور نیز یہ پیشگوئی ایسی بھی نہیں کہ جو پہلے پہل اسی وقت میں ہم نے ظاہر کی ہے بلکہ مرزا امام الدین و نظام الدین اور اس جگہ کے تمام آریہ اور نیو لیکچر ام پشاور کی اور صد ہا دوسرے لوگ خوب جانتے ہیں کہ کئی سال ہوئے کہ ہم نے اسی کے متعلق مجھ کو ایک پیشگوئی کی تھی یعنی یہ کہ ہماری برادری میں سے ایک شخص احمد بیگ نام فوت ہو گیا ہے۔ اب منصف آدمی سمجھ سکتا ہے کہ وہ اس پیشگوئی کا ایک شعبہ تھی یا یوں کہو کہ یہ تفصیل اور وہ اجمال تھی اور اس میں تاریخ اور مدت ظاہر کی گئی اور اس میں تاریخ اور مدت کا کچھ ذکر نہ تھا اور اس میں شرائط کی تصریح کی گئی اور وہ ابھی اجمالی حالت میں تھی۔ سمجھدار آدمی کیلئے یہ کافی ہے کہ پہلی پیشگوئی اُس زمانہ کی ہے کہ جبکہ ہنوز وہ لڑکی نابالغ تھی اور جبکہ یہ پیشگوئی بھی اسی شخص کی نسبت ہے جس کی نسبت اب سے پانچ برس پہلے کی گئی تھی یعنی اُس زمانہ میں جبکہ اُس کی یہ لڑکی آٹھ یا نو برس کی تھی تو اس پر نفسانی افتراء کا گمان کرنا اگر حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ والسلام علی من اتبع الهدی۔

(غلام غلام احمد از قادیان ضلع گورداسپورہ پنجاب)۔ ۱۰ جولائی ۱۸۸۸ء۔

اصلاح کے لئے اور خدمات ضرور یہ کے مناسب حال ایک بندہ بھیجا اور اس کا نام مسیح موعود رکھا۔ یہ خدا کا فعل تھا جو عین ضرورت کے دنوں میں ظہور میں آیا۔ اور آسمان نے اس پر گواہی دی۔ اور بہت سے نشان ظہور میں آئے لیکن تب بھی اکثر مسلمانوں نے اس کو قبول نہ کیا۔ بلکہ اس کا نام کافر اور دجال اور بے ایمان اور مگاز اور خائن اور دروغگو اور عہد شکن اور مال خور اور ظالم اور لوگوں کے حقوق دبانے والا اور انگریزوں کی خوشامد کرنے والا رکھا۔ اور جو چاہا اس کے ساتھ سلوک کیا اور بہتوں نے یہ عذر پیش کیا کہ جو الہامات اس شخص کو ہوتے ہیں وہ سب شیطانی ہیں یا اپنے نفس کا افترا ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ

جما کے دام کی نسبت اور چل میں سے تین مرگے اور ایک باقی ہے جس کی نسبت شرعی پیشگوئی ہے جیسا کہ آتم کی شرعی تھی۔ اب بار بار شور مچانا کہ یہ جو شخص بھی کیوں جلدی پوری نہیں ہوتی۔ اور سوجھ سے تمام پیشگوئیوں کو کذب کرنا کیا یہ ان لوگوں کا کام ہے جو خدا سے ڈرتے ہیں۔ اسے متعصب لوگو! اس قدر جوٹا بونا نہیں کس نے سکھایا؟ ایک مجلس شدتاً بلالہ میں مستقر کرو اور پھر شیطانی جذبات سے دہ ہو کر میری تقریر سنو۔ پھر اگر ثابت ہو کہ میری تو پیشگوئی میں سے ایک بھی جھوٹی نکلی ہو تو میں اقرار کروں گا کہ میں کاذب ہوں۔ اور اگر یوں بھی خدا سے لڑتا ہے تو صبر کرو اور اپنا انجام دیکھو۔ منہا

تو ہر ایک سزا بھگتنے کے لئے میں طیار ہوں اور اس بات پر راضی ہوں  
کہ مجھے گلے میں رستہ ڈال کر کسی سوئی پر کھینچا جائے۔ اور باوجود میرے  
اس اقرار کے یہ بات بھی ظاہر ہے کہ کسی انسان کا اپنی پیشگوئی میں  
جھوٹا ہنگنا خود تمام رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی ہے۔ زیادہ اس  
سے کیا کتھوں۔ اب آریوں کو چاہیے کہ سب فکر دعا کریں کہ یہ عذاب  
ان کے اس وکیل سے ٹل جائے۔ فقط

اور صفحہ ایک کے اشعار اسی ضمیمہ میں جو لیکچر ام کی صورت  
موت پر بلند آواز سے دلالت کرتے ہیں یہ ہیں:-

عجب علیست در کان محمد  
کہ گردد از محبتان محمد  
کہ روتا بند از خوان محمد  
کہ دارد شوکت و شان محمد  
کہ هست از کینہ داران محمد  
کہ باشد از عدوان محمد  
بیا در ذیل مستان محمد  
بشو از دل ثنا خوان محمد  
محمد ہست بر ہان محمد  
دلہم ہر وقت قربان محمد  
نثار روتے تا بان محمد  
نتابم روز ایوان محمد  
کہ دارم رنگ ایوان محمد

عجب نورست در جان محمد  
ز ظلمتہا لے آنگہ شود صاف  
عجب دارم دل آن باقصاں را  
ندانم هیچ نفسے در دو عالم  
خدا زان سیدہ بیزارست صد با  
خدا خود سوزد آن کرم دنی را  
اگر خواہی نجات از مستی نفس  
اگر خواہی کہ حق گوید شناخت  
اگر خواہی دلیلے عاشقش باش  
سے دارم فدائے خاک احمد  
گیسوئے رسول اللہ کہ مستم  
دریں رہ کر کشندم در بسوزند  
بکار دین نترسم از جہانے

ٹھہر سکتا کیا یہ پیشگوئی جو پوری ہو گئی کوئی ایسا اتفاقی امر ہے جسکی خدا تعالیٰ کو کچھ بھی خبر نہیں کیا بغیر اسکے علم اور ارادہ کے ایک دجال کی تائید میں خود بخود یہ پیشگوئی وقوع میں آگئی کیا یہ سچ نہیں کہ مدعی کاذب کی پیشگوئی ہرگز پوری نہیں ہوتی۔ یہی قرآن کی تعلیم ہے اور یہی تورات کی۔ اگر آپ میں انصاف کا کچھ حصہ ہے اور تقویٰ کا کچھ ذرہ ہے تو اب زبان کو بند کر لیں خدا تعالیٰ کا غضب آپکے غضب سے بہت بڑا ہے۔

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ - وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْفُهْرِيُّ وَمَا اسْتَكْبَرُوا مَا ابَى -

عاجز غلام احمد عفی اللہ عنہ

ذیل میں ہم خط محبتی نواب صاحب محمد علیخان صاحب کا لکھتے ہیں یہ خط نواب صاحب موصوف نے کسی اور طالب حق کی تحریک سے لکھا ہے۔ ورنہ خود نواب صاحب اس عاجز سے ایک خاص صلہ اخلاص و محبت رکھتے ہیں اور اس سلسلہ کے حامی بدل و جان ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

طیب روحانی مکرم معظم سلم اللہ تعالیٰ  
السلام علیکم۔ بندہ بہ سبب علالت طبع کے جواب کا حصہ ہوا۔ الحمد للہ کہ اب خیریت چل  
آئید ہے کہ جناب بھی خیریت سے ہونگے۔ روپیہ ہمدست مرزا خدا بخش صاحب ارسال کیا گیا ہے  
آئید کہ مرزا صاحب نے آپ سے کل حال بیان کر دیا ہوگا۔

جب سے کہ دعویٰ مشیل المسیح کی اشاعت ہوئی ہے ہر ایک آدمی ایک عجیب  
ظہن میں ہو رہا ہے گو بعض خواص کی یہ حالت ہو کہ ان کو کوئی شک پیدا نہ ہوا ہو۔ بندہ

طاعون کے حملے سے بچا رہے گا اور وہ سلامتی جو ان میں پائی جائیگی اسکی نظیر کسی گروہ میں قائم نہیں ہوگی اور قادیان میں طاعون کی خوفناک آفت جو تباہ کرنے نہیں آئیگی الا کم اور شاذ و نادر۔ کاش اگر یہ لوگ دلوں کے میدے ہوتے اور خدا سے ڈرتے تو بالکل بچائے جاتے۔ کیونکہ مذہب کے اختلاف کی وجہ سے دنیا میں عذاب کسی پر نازل نہیں ہوتا۔ اس کا مواخذہ قیامت کو ہوگا۔ دنیا میں محض شرارتوں اور شوخیوں اور کثرت گناہوں کی وجہ سے عذاب آتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ قرآن شریف میں بلکہ تورات کے بعض صحیفوں میں بھی یہ خبر موجود ہے کہ مسیح موعود کے وقت طاعون پڑے گی۔ بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی انجیل میں یہ خبر دی ہے اور ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیشگوئیاں تل جائیں۔ اور نیز یہ بھی یاد رہے کہ ہمیں اس الہی وعدہ کے مقابل اس لئے انسانی تدبیروں سے پرہیز کرنا لازم ہے تا نشان الہی کو کوئی دشمن دوسری طرف منسوب نہ کرے لیکن اگر ساتھ اس کے خدا تعالیٰ اپنی کلام کے ذریعے سے خود کوئی تدبیر سمجھا دے یا کوئی دوا بتلا دے۔ تو ایسی تدبیر یاد و اس نشان میں کچھ خارج نہیں ہوگی۔ کیونکہ وہ اس خدا کی طرف سے ہے جسکی طرف سے وہ نشان ہے کسی کو یہ وہم نہ گذرے کہ اگر شاذ و نادر کے طور پر ہماری جماعت میں سے بذریعہ طاعون کوئی فوت ہو جائے تو نشان کے قدر و مرتبہ میں کوئی خلل آئیگا۔ کیونکہ پہلے زمانوں میں موسیٰ اور یسع اور آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا کہ جن لوگوں نے تلوار اٹھائی اور صد ہا انسانوں کے خون کئے انکو تلوار سے ہی قتل کیا جائے۔ اور یہ نہیں کیے طرف سے ایک نشان تھا جس کے بعد فتح عظیم ہوئی۔ حالانکہ مقابل مجوس کے اہل حق بھی انکی تلوار سے قتل ہوتے تھے مگر بہت کم۔ اور اس قدر نقصان سے نشان میں کچھ فرق نہیں آتا تھا پس ایسا ہی اگر شاذ و نادر کے طور پر ہماری جماعت میں سے بعض کو باعث اسباب مذکورہ طاعون ہو جائے۔ تو ایسی طاعون نشان الہی میں کچھ بھی حرج انداز نہیں ہوگی۔ کیا یہ عظیم الشان نشان نہیں کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اس پیشگوئی کو ایسے طور سے ظاہر کرے گا کہ ہر ایک طالب حق کو کوئی شک نہیں رہے گا۔ اعدہ سمجھ جائے گا کہ معجزہ کے طور پر خدا نے اس جماعت سے معاملہ کیا ہے۔ بلکہ بطور

لے مسیح موعود کے وقت میں طاعون کا پڑنا نہیں کی ذیل کی کتاب میں موجود ہے۔ دیکھو۔ ذکر کیا گیا۔ انجیل میں تھا۔ کاش خدایا

یہ حوالہ صفحہ 208 پر درج ہے

کشتی نوح صفحہ 5 مندرجہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 15 از مرزا قادیانی

اصرار سے لکھوائی تھی اور چونکہ مجھے خدا تعالیٰ کے وعدوں پر وثوق تھا اس لئے میں نے بھی اسکو قبول کر لیا تھا اب وہ مشکل جس کیلئے اس استفتاء کی ضرورت پڑی۔ صرف اسقدر نہیں کہ آریہ سماجوں کے اس راقم پر خفیہ سازش کا الزام لگایا۔ بلکہ ہماری قوم کے بعض بزرگ لوگوں نے بھی ان سے اتفاق کر لیا اور یہ چاہا کہ ایسی عظیم الشان پیشگوئی جسکی تکذیب کا نتیجہ معاہدہ کے کاغذات کی رو سے اسلام کی تکذیب ہے کسی طرح باطل ٹھہرائے جائے۔ چنانچہ مولوی ابو سعید محمد حسین صفا ہالوی ایڈیٹر اشاعت السنۃ اور ایسا ہی بعض اور چند مولویوں نے عام طور پر یہ رائے شائع کر دی ہے کہ یہ پیشگوئی جھوٹی نکلی۔ چنانچہ انہوں نے ایک خط میری طرف بھی بھیجا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اپنی نیک نیتی سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی یعنی لیکھرام کی موت صرف ایک اتفاقی امر تھا جس میں خدا کا کچھ دخل نہیں اور اس بات پر زور دیا کہ کیوں یہ امر ثابت شدہ مان لیا جائے کہ پیشگوئی سچی ہوئی۔ اور کیوں یہ قبول نہ کیا جائے کہ یہ ایک اتفاقی موت ہے جو پیشگوئی کے زمانہ میں وقوع میں آگئی۔

اس تکذیب کی ہمیں اپنے ذاتی اغراض کیلئے تو کچھ پرواہ نہ تھی لیکن چونکہ معاہدہ کے کاغذات تلاش کی وقت میں رکھے گئے اور صفا سٹرکٹ پرنٹنگ پالیس کے حضور میں بڑھے گئے اور ہر ایک شہنشاہ دست کو ان سے اطلاع ہو گئی۔ تو اب ایسی سچائی جس میں فرد گناہت کو شہ سے اسلام پر بیجا حملہ ہوتا ہے قابل درگزر نہیں۔ اسکی اشد ضرورت کیوجہ سے تمام روٹنڈا اہل الرائے کی خدمت میں پیش کرنی پڑی۔ تاکہ وہ دیکھیں کہ کس قدر ظلم کا ارادہ کیا گیا ہے۔

افسوس کہ ان لوگوں نے ان خیالات کے ظاہر کرنے کے وقت یہ نہیں سوچا کہ ان لوگوں کے دنیا میں کسی نبی کی پیشگوئی قائم نہیں رہی کیونکہ ہر ایک جگہ اس وہم کا دروازہ کھلا ہے کہ یہ اتفاقی واقعہ ہے۔ پس اگر یہی مانے سچی ہے تو انہیں اقرار کرنا چاہیے کہ تمام نبیوں کی نبوت پر کوئی بھی ثبوت نہیں اور سب اتفاقی واقعات ہیں۔ تو ریت اور قرآن نے بجا ثبوت نبوت کا صرف پیشگوئی کو قرار دیا ہے اور ایک مفہم کو کسی نبی کی پیشگوئی کو بڑی آسانی سے اتفاقی امر کہہ سکتا ہے لیکن میں مذکور سے کہتا ہوں کہ یہ تمام شبہات اس قسم کے ہیں کہ جیسے ایک دہریہ معنوعات کو ایک نگما سلسلہ ٹھہرا کر خدا تعالیٰ کے وجود کی نسبت شبہات پیدا کر لیتا ہے اور دنیا کے تمام نظام کو اتفاقی امر ٹھہراتا ہے اور پھر جب سمجھ لاتی ہے اور خدا کا فضل اسکے شامل حال ہوتا ہے اسکا عالم کی ترتیب اطلاع اور محکم کو مشاہدہ کرتا ہے اور وہ قانون صنعت باری اور اسکی لطیف حکمتوں پر اطلاع پاتا ہے تو ناچار پہلی رائے اسکو چھوڑنی پڑتی ہے سو یقیناً سمجھنا چاہیے کہ یہ اختر حضرات بھی ایسے ہی ہیں اور یہ اختر حضرات اسی وقت تک دل میں اٹھتے ہیں کہ جب تک ایک پیشگوئی کے بارے میں پہلوؤں پر نظر نہیں پڑتی اور خدا تعالیٰ کی خدائی کے استظام کو ناقص سمجھا جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایسے شے ہمیشہ لوگوں کے دلوں

نشان الہی کے نتیجہ یہ ہو گا کہ طاعون کے ذریعے سے یہ جماعت بہت بڑھے گی اور خارق عادت  
 ترقی کرے گی اور انکی یہ ترقی تعجب سے دیکھی جائیگی اور مخالف جو ہر ایک موقع پر شکست پاتے  
 رہے ہیں جیسا کہ کتاب نزول المسیح میں میں نے لکھا ہے۔ اگر اس پیشگوئی کے مطابق خدا نے  
 اس جماعت اور دوسری جماعتوں میں کچھ فرق نہ دکھلایا تو انکا حق ہو گا کہ میری تکذیب کریں۔  
 اب تک جو انہوں نے تکذیب کی ہے اس میں تو صرف ایک لعنت کو خریدنا ہے مثلاً بار بار شور مچایا کہ  
 اٹھم پندہ ہیندہ اند نہیں مرا۔ حالانکہ پیشگوئی نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ اگر وہ حق کی  
 طرف رجوع کرے گا تو پندہ ہیندہ ہیندہ میں نہیں مرے گا۔ سو اس نے عین جلسہ مباحثہ پر نثر سوزنا میرا  
 کے زور دیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کہنے سے رجوع کیا اور نہ صرف یہ بلکہ اس نے  
 پندہ ہیندہ ہیندہ تک اپنی خاموشی اور خوف سے اپنا رجوع ثابت کر دیا اور پیشگوئی کی بناء پر یہی تھی کہ اس نے  
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کہا تھا۔ لہذا اس نے رجوع کو صرف استدر فائدہ اٹھایا کہ پندہ  
 ہیندہ کے بعد مرا مرے گا۔ یہ سنائے ہوئے کہ پیشگوئی میں یہ بیان تھا کہ فریقین میں سے شخص اپنے عقیدہ کے  
 زور سے ٹھوٹا ہے وہ پہلے مرے گا۔ سو وہ مجھ سے پہلے مر گیا۔ اسی طرح وہ غیب کی باتیں جو خدا نے مجھے  
 بتائی ہیں اور پھر اپنے وقت پر پوری ہوئیں وہ دس ہزار سے کم نہیں مگر کتاب نزول المسیح میں جو  
 چھپ رہی ہے خود کے طور پر صرف ڈیڑھ سو انہیں سے مع ثبوت اور گواہوں کے لکھی گئی ہیں۔  
 اور کوئی ایسی پیشگوئی میری نہیں ہے کہ وہ پوری نہیں ہوئی یا اسکے دو حصوں میں سے ایک حصہ پورا  
 نہیں ہو چکا۔ اگر کوئی کسی شکر آ کر تار مسمیٰ جائے تو ایسی کوئی پیشگوئی جو میرے منہ سے نکلی ہو اسکو نہیں  
 ملے گی جسکی نسبت وہ کہہ سکتا ہو کہ خالی گئی۔ مگر بے شرمی سے یا بیخبری سے جو چاہے کہے۔ اور میں  
 دعویٰ سے کہتا ہوں کہ ہزار ہا میری ایسی کھلی کھلی پیشگوئیاں ہیں جو نہایت صفائی سے پوری ہو گئیں  
 جن کے لاکھوں انسان گواہ ہیں۔ مگر نظیر اگر گذشتہ جنہوں میں تلاش کی جائے تو بجز آنحضرت صلی اللہ  
 علیہ وسلم کے کسی اور جگہ انکی مثل نہیں ملے گی۔ اگر میرے مخالف اسی طریق سے فیصلہ کرتے تو  
 کبھی سے انکی آنکھیں کھل جاتیں اور میں انکو ایک کثیر النعم دینے کو تیار تھا اگر وہ دنیا میں کوئی

باز آجائیں۔ جو شخص صادق سے لڑتا ہے وہ اُس سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ سے لڑتا ہے۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ

یٰمَعْبُودِ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَعِیْنُ

ایک پیشگوئی پیش از وقوع کا اشتہار

پیشگوئی کا جب انجام ہویدا ہوگا قدرتِ حق کا عجب ایک تماشہ ہوگا

جھوٹ اور سچ میں جو فرق وہ پیدا ہوگا کوئی پا جائیگا عزت کوئی رسوا ہوگا

اخبار نور افشکن۔ ارشی ۱۸۸۸ء میں جو اس راقم کا ایک خط متضمن درخواستِ نکاح

چھاپا گیا ہے۔ اُس خط کو صاحب اخبار نے اپنے پرچہ میں درج کر کے عجیب طرح کی زبان درازی کی ہے

اور ایک صفحہ اخبار کا سخت گوئی اور دشنام ہی میں ہی سیاہ کیا ہے۔ یہ کیسی بے انصافی ہے کہ جن

لوگوں کے مقدس اور پاک نبیوں نے سینکڑوں بیویاں ایک ہی وقت میں رکھی ہیں وہ دو یا تین

بیویاں کا جمع کرنا ایک کبیرہ گناہ سمجھتے ہیں بلکہ اس فعل کو زنا یا حرام کاری خیال کرتے ہیں۔ کسی

خاندان کا سلسلہ صرف ایک ایک بیوی سے ہمیشہ کے لئے جاری نہیں رہ سکتا بلکہ کسی نہ کسی

فرد سلسلہ میں یہ وقت آپڑتی ہے کہ ایک بھور و عقیمہ اور ناقابلِ اولاد نکلتی ہے۔ اس تحقیق سے

ظاہر ہے کہ دراصل بنی آدم کی نسل ازدواجِ مکرر سے ہی قائم و دائم چلی آتی ہے۔ اگر ایک سے

زیادہ بیوی کرنا منع ہوتا تو اب تک نوع انسانی قریب قریب خاتمہ کے پہنچ جاتی۔ تحقیق سے ظاہر

ہوگا کہ اس مبارک اور مفید طریق نے انسان کی کہانتک حفاظت کی ہے اور کیسے اُس نے اُبڑے

ہوئے گھروں کو بیک دفعہ آباد کر دیا ہے اور انسان کے تقویٰ کے لئے یہ فعل کیسا زبردست



کہ دروغگو کو اس کے گھر تک پہنچا دیں کیونکہ مکاروں اور خیانت پیشوں کی سزا وہی رہی ہے کہ ان کے خیانت کے طریقوں کو پریشان نہ رکھا جائے اور صفت اور آسٹ کو کچھ پہلے اسی غرض سے ہم نے اس رسالہ کو لکھا ہے غلط بیانی کے بیجا الزام کا فیصلہ ہو جائے کیونکہ یہ عین بدزبانیوں جو میری نسبت کی گئیں اور کہا گیا کہ یہ شخص غلط بیان اور قادی منتعصب اور غیبت انگیز ہے یہ ایسا خباثت سے بھرا ہوا بہتان ہے کہ کوئی صادق آدمی اس پر صبر نہیں کر سکتا اور نیز اس پر خاکوش رہنے سے خلق اللہ کو ضرر پہنچتا ہے اور پہلے کہ ہو گا کہ غلط بیانی اور بہتان طرز ہی راست ہانوں کا کام نہیں بلکہ نہایت شریر اور بد ذات آدمیوں کا کام ہے کہ جو خدا سے ڈریں اور نہ خلقت کے لعن و لعن کی پروا رکھیں اور چہ چہ کہنا حق ان لوگوں نے گلیاں دیکر اور سوجھ

میرے خیال میں انسانی شرم نے ان کو بہت نہیں دی اور جب میرے بعض مخلصوں نے ان کو نہ مقام پہنچا کر سنا یا تو پھر وہ مرا غصہ پیش ہوا کہہ طریق اس حالت میں ہے کہ جب خاندان ہرگز صورت کے پاس ہوا سکے۔ پھر جب کھول کر سنا گیا کہ سنیہ تہہ پرکاش میں یہ بیان لکھا ہے کہ ایسا مرد جو ہر قابل اور ہر بوسہ میں منہ ہو بھی داخل میں پڑھتے کہ نے پرتو پرے قادر میں گزرتی قابل اور وہ نہیں شگونی میں کپڑے نہیں یا پکی ہے۔ یہ نہیں لکھا کہ ایسا ہو کہ ہرگز محبت نہ کر سکتا ہو بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر وہ قابل اور ہو مگر لکھا ہی ہو رہتی ہوں تب بھی ننگ ہو گا تو یہ جو بے سکر وہ لوگ خاکوش ہو گئے ہوں میں سے ایک پشتہ کی ابدے کہ بے شک ایسی حالتوں میں ننگ کا لاکھ مضایقہ نہیں اور ہمیشہ ننگ پر ماضی ہیں غرض اس سے نتیجہ نکلا کہ عام ہمت وہ کیا رہی ہے کہ وہ ننگ ضرورتوں کے وقت جینی ہوں اور پیشوں سے ننگ کھلا کریں گوں ہر ہے کہ انسانی کاشنس میں کو قبول نہیں کہ اسفان کی فطرتی حقیقت اور صورت ہر روز لڑی سے اس کام پر اہستہ چھیتی ہے اسفان تو انسان ایک مرغ بھی اپنی مرغیوں کے لئے فطرت لکھا ہے۔ یہ حاصل کام ہے کہ اگر اس بلہ میں کوئی اور کہیہ صاحب بھی ہو کہ پابتنے ہیں تو ہم اپنے خود سے ان کو ان کی ذمہ داری پر سنا بیان میں لکھتے ہیں اور ہرگز

۱۹۱۵ء تک جلت ہے۔

دفعہ امینز اعلاہ احمد

۱۹۱۵ء قادیان ضلع گھنٹہ

کیا گیا ہے یعنی یہ کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں اور مکالمہ الہیہ سے مشرف ہوں۔ اور مامور من اللہ ہوں اور میری صداقت کا نشان یہ پیشگوئی ہے۔ اب آپ اگر کچھ بھی اللہ جل شانہ کا خوف رکھتے ہیں تو سمجھ سکتے کہ ایسی پیشگوئی جو منجانب اللہ ہونے کیلئے بطور ثبوت کے پیش کی گئی ہے اسی حالت میں سچی ہو سکتی تھی کہ جب درحقیقت یہ عاجز منجانب اللہ ہو۔ کیونکہ خدا تعالیٰ ایک مفتری کی پیشگوئی کو جو ایک جھوٹے دعوے کے لئے بطور شاہد صدق بیان کی گئی ہو گزرتی نہیں کر سکتا۔ وجہ یہ کہ اس میں خلق اللہ کو دھوکا لگتا ہے جیسا کہ اللہ جل شانہ خود مدعی صداقت کیلئے یہ علامت قرار دیکر فرماتا ہے

وان يك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم - اور فرماتا ہے فلا يظنوا على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول يره رسول كالقظ عام ہے جس میں رسول اور نبی اور محدث داخل ہیں۔ پس اس پیشگوئی کے الہامی ہونے کیلئے ایک مسلمان کیلئے یہ دلیل کافی ہے جو منجانب اللہ ہونے کے دعویٰ کے ساتھ یہ پیشگوئی بیان کی گئی اور خدا تعالیٰ نے اس کو سچی کر کے دکھا دیا اور اگر آپ کے نزدیک یہ ممکن ہے کہ ایک شخص دراصل مفتری ہو اور سر اسرار و غلوئی سے کہے کہ میں خلیفۃ اللہ اور مامور من اللہ اور مجدد وقت اور مسیح موعود ہوں اور میرے صدق کا نشان یہ ہے کہ اگر فلاں شخص مجھے اپنی بیٹی نہیں دینگا اور کسی دوسرے سے نکاح کرے گا تو نکاح کے بعد میں بس تک بلکہ اس سے بہت قریب فوت ہو جائے گا اور پھر ایسا ہی واقعہ ہو جائے تو برائے خدا اس کی نظیر پیش کرو۔ ورنہ یاد رکھو کہ مرنے کے بعد اس اتکار اور تکذیب اور تکفیر سے پوچھے جاؤ گے۔ خدا تعالیٰ صاف فرماتا ہے کہ ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب - سو چکر دیکھو کہ اس کے یہی معنی ہیں جو شخص اپنے دعویٰ میں کاذب ہو اسکی

۱۹ مومن: ۲۸ الجن: ۲۸ مومن: ۲۹

یہ حوالہ صفحہ 210 پر درج ہے

آئینہ کالات اسلام صفحہ 322، 323 مندرجہ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 322، 323 از مرزا قادیانی

پیشگوئی ہرگز پوری نہیں ہوتی۔ شیخ صاحب اب وقت ہے سمجھ جاؤ اور اُس دن سے ڈرو جس دن کوئی شیخی پیش نہیں جائے گی۔ اور اگر کوئی نجومی یا رمال یا جھڑی اس عاجز کی طرح دعویٰ کرے کہ کوئی پیشگوئی دکھلا سکتا ہے تو اس کی نظیر پیش کرو اور چند اخباروں میں درج کر دو۔ اور یاد رکھو کہ ہرگز پیش نہیں کر سکو گے اور ایسا نجومی ہلاک ہوگا۔ خدا تعالیٰ تو اپنے نبی کو فرماتا ہے کہ اگر وہ ایک قول جس اپنی طرف سے بتاتا تو اُس کی رگ جان قطع کی جاتی۔ پھر یہ کیونکر ہو کہ بجائے رگ جان قطع کی جانے کے اللہ جل شانہ اس عاجز کو جو آپ کی نظر میں کافر مفتری و جہاں کذاب ہے دشمنوں کے مقابل پر یہ عزت لے کہ تائید دعوئے میں پیشگوئی پوری کرے۔ کبھی دنیا میں یہ ہوا ہے کہ کاذب کی خدا تعالیٰ نے ایسی مدد کی ہو کہ وہ گیارہ برس سے خدا تعالیٰ پر یہ افترا کر رہا ہو کہ اُس کی وحی ولایت اور وحی محدثیت میرے پر نازل ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ اُس کی رگ جان نہ کاٹے بلکہ اُس کی پیشگوئیوں کو پورا کر کے آپ جیسے دشمنوں کو متفصل اور نام اور لاجواب کرے اور آپ کی کوشش کا نتیجہ یہ ہو کہ آپ کی تکفیر سے پہلے تو کل ۵، ۷ آدمی سالانہ جلسہ میں شریک ہوں اور بعد آپ کی تکفیر اور جانکاہی اور لوگوں کے روکنے کے تین سو ستائیس اصحاب اور مخلص جلسہ اشاعت حق پر دوڑے آویں۔ اب اس سے زیادہ کیا لکھوں میں اس خط کو انشاء اللہ چھاپ کر شائع کر دوں گا اور مجھے اس بات کی ضرورت نہیں کہ اس الہامی پیشگوئی کی آزمائش کے لئے بتالہ میں کوئی مجلس مقرر کروں مناسب ہے کہ آپ بھی اپنے اشاعت السنہ میں میرے اس خط کو شائع کر دیں اور یہ بات بھی ساتھ لکھ دیں کہ اب آپ کو قبول کرنے میں کیا عذر ہے خود منصف لوگ دیکھ لیں گے کہ وہ عذر صحیح یا غلط ہے۔

ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے مسح کیا۔ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رتھگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا

(اشتہار، فروری ۱۸۸۹ء مندرجہ تلخیص صامت جلد اول صفحہ ۵۹-۶۰۔ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ ۱۰۰ تا ۱۰۲)

۱۸۸۹ء

”پھر خدائے کریم نے مجھے بشارت دے کر کہا کہ تیرا گھر برکت سے بھرے گا اور میں اپنی نعمتیں تجھ پر پوری کروں گا اور خواتین مبارکہ سے جن میں سے تو بعض کو اس کے بعد پائے گا تیری نسل بہت ہوگی اور میں تیری ذریت کو بہت بڑھاؤں گا اور برکت دوں گا مگر بعض ان میں سے کم عمری میں فوت بھی ہوں گے اور تیری نسل کثرت سے ملکوں میں پھیل جائے گی اور ہر ایک شاخ تیرے جذبی بھائیوں کی کاٹی جائے گی اور وہ جلد لاولد رہ کر ختم ہو جائے گی۔ اگر وہ تو بہ نہ

لے یہ صرف پیشگوئی ہی نہیں بلکہ ایک عظیم الشان آسمانی پہنچائی ہوئے کریم جل شانہ نے ہمارے نبی کریم روضہ رحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و عظمت ظاہر کرنے کے لئے ظاہر فرمایا ہے اور درحقیقت یہ نشان ایک مردہ کے زندہ کرنے سے صد ہا درجہ اعلیٰ دانی و اکمل و افضل و اتم ہے کیونکہ مردہ کے زندہ کرنے کی حقیقت یہی ہے کہ جناب الہی میں دعا کر کے ایک روح واپس منگوا یا جاوے..... جس کے ثبوت میں معتز ضیاء کو بہت سا کلام ہے..... مگر اس جگہ بفضلہ تعالیٰ و احسانہ و بربکت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند کریم نے اس عاجز کی دعا قبول کر کے ایسی بابرکت روح بھیجے کا وعدہ فرمایا جس کی ظاہری و باطنی برکتیں تمام زمین پر پھیلیں گی۔ سو اگر یہ بظاہر یہ نشان احیاء موتی کے برابر معلوم ہوتا ہے مگر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ یہ نشان مردوں کے زندہ کرنے سے صد ہا درجہ بہتر ہے۔ مردوں کی بھی روح ہی دعا سے واپس آتی ہے اور اس جگہ بھی دعا سے ایک روح ہی منگائی گئی ہے مگر ان روحوں اور اس روح میں لاکھوں کوسوں کا فرق ہے۔“

(اشتہار، ۲۲ مارچ ۱۸۸۹ء روز دو شنبہ۔ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ ۱۱۳ تا ۱۱۵)

”جس وقت حضور نے دعویٰ کیا اس وقت آپ کے خاندان میں ستر کے قریب مرد تھے لیکن اب ان کے سوا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جسمانی یا روحانی اولاد ہیں ان ستر میں سے کسی ایک کی بھی اولاد موجود نہیں۔“

(حضرت خلیفۃ المسیح الثانی علیہ السلام، ۲۲ تا ۲۴ مورخہ ۱۱ جون ۱۹۳۳ء صفحہ ۱۱)

زندہ رہنے کا ہی حال معلوم نہیں۔ اور نہ یہ معلوم کہ اس عرصہ تک کسی قسم کی اولاد خواہ خواہ پیدا ہوگی، چہ جائیکہ لڑکا پیدا ہونے پر کسی اہل سے قطع اور یقین کیا جائے۔ اخیر یہ ہم پر بھی ظاہر کرتے ہیں۔ کہ اخبار مذکورہ بالا میں منشی محمد رمضان صاحب نے تہذیب سے گفتگو نہیں کی بلکہ دینی مخالفوں کی طرح جا بجا مشورہ افراہ پر دازوں سے اس عاجز کو نسبت دی ہے۔ اور ایک جگہ پر جہاں اس عاجز نے ۲۰ فروری ۱۸۸۹ء کے اشتہار میں یہ پیشگوئی خدائے تعالیٰ کی طرف سے بیان کی تھی۔ کہ اس نے مجھے بشارت دی ہے کہ بعض بابرکت عورتیں اس اشتہار کے بعد بھی تیرے نکاح میں آئیں گی اور ان سے اولاد پیدا ہوگی۔ اس پیشگوئی پر منشی صاحب فرماتے ہیں کہ اسام کئی قسم کا ہوتا ہے۔ نیکوں کو نیک باتوں کا اور زانیوں کو عورتوں کا۔ ہم اس جگہ کچھ کہنا نہیں چاہتے۔ ناظرین منشی صاحب کی تہذیب کا آپ اندازہ کریں۔ پھر ایک اور صاحب ہندم ذفرہ گزین صاحب ریلوے لاہور کے جو اپنا نام نبی بخش ظاہر کرتے ہیں۔ اپنے خط مرحلہ ۱۳ جون ۱۸۸۹ء میں اس عاجز کو لکھتے ہیں کہ تمہاری پیشگوئی جنونی نکلی اور دُختر پیدا ہوئی اور تم حقیقت میں بڑے فریبی اور ستار اور دروغ گو آدمی ہو۔ ہم اس کے جواب میں بجز اس کے کیا کہہ سکتے ہیں کہ بے خدائے قادر مطلق۔ یہ لوگ اندھے ہیں ان کو آنکھیں بخش یہ نادان ہیں ان کو سمجھ عطا کر۔ یہ شرارتوں سے بھرے ہوئے ہیں ان کو نیکی کی توفیق دے۔ بجلا کوئی اس بزرگ سے پوچھے کہ وہ فقرہ یا لفظ کہاں ہے جو کسی اشتہار میں اس عاجز کے قلم سے نکلا ہے جس کا یہ مطلب ہے کہ لڑکا اسی محل میں پیدا ہوگا۔ اس سے ہرگز تخلف نہیں کیے گا۔ اگر میں نے کسی جگہ ایسا لکھا ہے تو یہاں نبی بخش صاحب پر واجب ہے کہ اس کو کسی اخبار میں چھپا دیں۔ اس عاجز کے اشتہارات پر اگر کوئی منصف آنکھ کھول کر نظر ڈالے تو اسے معلوم ہوگا کہ ان میں کوئی بھی ایسی پیشگوئی درج نہیں جس میں ایک ذرہ خطی کی بھی گرفت ہو سکے بلکہ وہ سب سخی ہیں اور عقرب اپنے اپنے وقت پر ظہور پکڑ کر مخالفین کی ذلت اور رسوائی کا موجب ہوں گی۔ دیکھو ہم نے ۲۰ فروری ۱۸۸۹ء میں جو یہ پیشگوئی اجمالی طور پر لکھی تھی کہ ایک امیر نروارد پنجابی الاصل کو کچھ ابتلا درمیش ہے کیسی وہ سخی نکلی۔ ہم نے مسدا ہندوں اور مسلمانوں کو مختلف شہروں میں بتلا دیا تھا کہ اس شخص پنجابی الاصل سے مراد ویسپ سنگھ ہے جس کی پنجاب میں آنے کی خبر مشورہ ہو رہی ہے، لیکن اس ارادہ سکونت پنجاب میں وہ ناکام رہے گا۔ بلکہ اس سفر میں اس کی عزت و آسائش یا جان کا خطرہ ہے اور یہ پیشگوئی ایسے وقت میں لکھی گئی اور عام طور پر بتلائی گئی تھی۔ یعنی ۲۷ فروری ۱۸۸۹ء کو جبکہ اس ابتلا کا کوئی اثر و نشان ظاہر نہ تھا۔ بالآخر اس کو مطابق اسی پیشگوئی کے بہت عرج اور تکلیف اور لگی اور نجات اٹھانی پڑی اور اپنے مدعا سے محروم رہا۔ سو دیکھو اس پیشگوئی کی صداقت کیسی گل گئی۔ اسی طرح سے اپنے وقت پر سب پیشگوئیوں کی سچائی ظاہر ہوگی اور دشمن روسیہ نہ ایک دفعہ بلکہ کئی دفعہ رسوا ہوں گے یہ خدائے تعالیٰ کا فس ہے جو ابھی تک انہیں اندھا کر رکھا ہے۔ ان کے دلوں کو سخت کر دیا اور ہمارے دل میں درد اور خیر خواہی کا

۱۲ یہ صاحب بعد میں احراریت میں داخل ہو گئے اور بہت غمیں ثابت ہوئے (الترتیب)

ایک برس تک انتظار کریں۔ اور یا مباہلہ کر لیں۔ ستم۔ اور اگر ان باتوں میں سے کوئی بھی نہ کریں تو محمد سے

کیا تم میں ایک بھی سوچنے والا نہیں جو اس بات کو سوچے۔ کیا تم میں ایک بھی دل نہیں جو اس بات کو سمجھے۔ زمین نے عزت دی۔ آسمان نے عزت دی اور قبولیت پھیل گئی۔

**پانچواں سوال** وہ امر جو مباہلہ کے بعد میرے لئے عزت کا موجب ہوا۔ علم قرآن میں اتنا حجت ہے۔ میں نے یہ علم پا کر تمام مخالفوں کو کیا عبدالحق کا گروہ اور کیا بظاہری کا گروہ۔ غرض سب کو بلند آواز سے اس بات کے لئے مدعو کیا کہ مجھے علم حقائق اور معارف قرآن دیا گیا ہے۔ تم لوگوں میں سے کسی کی مجال نہیں کہ میرے مقابل پر قرآن شریف کے حقائق و معارف بیان کر سکے۔ سو اس اعلان کے بعد میرے مقابل ان میں سے کوئی بھی نہ آیا۔ اور اپنی جہالت پر جو تمام ذلتوں کی بڑ ہے انہوں نے ٹہر لگا دی۔ سو یہ سب کچھ مباہلہ کے بعد ہوا۔ اور اسی زمانہ میں کتاب کرامات الصادقین لکھی گئی۔ اس کرامت کے مقابل پر کوئی شخص ایک حرف بھی نہ لکھ سکا۔ تو کیا اب تک عبدالحق اور اس کی جماعت ذلیل نہ ہوئی۔ اور کیا اب تک یہ ثابت نہ ہوا۔ کہ مباہلہ کے بعد یہ عزت نہانے مجھے دی۔

**چھٹا سوال** مباہلہ کے بعد میری عزت اور عبدالحق کی ذلت کا موجب ہوا۔ ہے کہ عبدالحق نے مباہلہ کے بعد اشتہار دیا تھا کہ ایک فرزند اس کے گھر میں پیدا ہوگا۔ اور میں نے بھی خدا تعالیٰ سے الہام پا کر یہ اشتہار انوار اسلام میں شائع کیا تھا کہ خدا تعالیٰ مجھے لڑکا عطا کرے گا۔ سو خدا تعالیٰ کے فضل اور کرم سے میرے گھر میں تو لڑکا پیدا ہو گیا۔ جس کا نام شریف احمد ہے اور قریباً پونے دو برس کی عمر رکھتا ہے۔ اب عبدالحق کو ضرور پوچھنا چاہیے کہ اس کا وہ مباہلہ کی برکت کا لڑکا کہاں گیا۔ کیا اندھ ہی اندھ پیٹ میں تحصیل پا گیا یا پھر رجعت قہقری کر کے نطفہ بن گیا۔ کیا اس کے سو کسی اور چیز کا نام ذلت ہے کہ جو کچھ اس نے کہا وہ پورا نہ ہوا۔ اور جو کچھ میں نے خدا کے الہام سے کہا خدا نے اس کو پورا کر دیا۔ چنانچہ ضیاء الحق میں بھی اسی لڑکے کا ذکر لکھا گیا ہے۔

**ساتواں سوال** امر جو مباہلہ کے بعد میری عزت اور قبولیت کا باعث ہوا خدا کے راستباز بندوں کا وہ مخلصانہ پوش ہے جو انہوں نے میری خدمت کے لئے دکھ دیا۔ مجھے کبھی یہ طاقت نہ ہوگی کہ میں خدا کے ان انعامات کا شکر ادا کر سکوں۔ جو روحانی اور جسمانی طور پر مباہلہ کے بعد میرے دل و جان پر ہو گئے۔ روحانی انعامات کا نمونہ میں لکھ چکا

۱۳ جنوری ۱۹۰۶ء (۱) لَا يُقْبَلُ عَمَلٌ يَشْتَقُّ ذَرَّةً مِنْ غَيْرِ اتَّقْوَى (۲) زَلْزَلَةٌ  
الطَّاعَةِ وَنَهْدُهُ مَا يَعْمُرُونَ (۳) عَفَّتِ الذُّبَابُ كَذِكْرِي (۴) قُلْ مَا يَعْجَبُكُمْ رَبِّي  
قَوْلًا وَعَجَاذِكُمْ. (کاپی الہامات حضرت مسیح موعود علیہ السلام صفحہ ۵۴)

۱۳ جنوری ۱۹۰۶ء (۱) كَتَبَ اللهُ لِأَخِيْبَيْنِ أَنَا وَرَسُولِي (۲) سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ  
رَّبِّ رَجِيْنٍ (۳) ہم مگر میں مری گے یا مدینہ میں۔ (کاپی الہامات حضرت مسیح موعود علیہ السلام صفحہ ۵۵)  
(ترجمہ) خدا نے ابتدا سے معذور کر چھوڑا ہے کہ وہ اور اس کے رسول غالب رہیں گے (۲) خدا نے رحیم  
کتاب ہے کہ سلامتی ہے یعنی غائب و خاموشی کی طرح تیری موت نہیں ہے۔ اور یہ کلمہ کہ ہم مگر میں مری گے یا مدینہ  
میں اس کے یہی ہیں کہ قبل از موت مکی فتح نصیب ہوگی۔ جیسا کہ وہاں دشمنوں کو قہر کے ساتھ مغلوب کیا گیا  
تھا اسی طرح یہاں بھی دشمن تھری نشانوں سے مغلوب کئے جائیں گے۔ دوسرے یہ معنی ہیں کہ قبل از موت مدنی فتح  
نصیب ہوگی۔ خود بخود لوگوں کے دل ہماری طرف اٹل ہو جائیں گے۔ فقرو کتبت الله لأخيلين أنا ورسوليني  
تو کاکوت مثلاً کہ کتاب سے لاد فقرو مثلاً قَوْلًا مِّنْ رَّبِّ رَجِيْنٍ (۳) "۔  
(پر جلد ۲ نمبر ۲ مورخہ ۱۹ جنوری ۱۹۰۶ء صفحہ ۲۔ الحکم جلد ۱۰ نمبر ۲ مورخہ ۱۴ جنوری ۱۹۰۶ء صفحہ ۳)

۱۵ جنوری ۱۹۰۶ء "تزلزل در ایوان کسری فتاد"

(پر جلد ۲ نمبر ۲ مورخہ ۱۹ جنوری ۱۹۰۶ء صفحہ ۲۔ الحکم جلد ۱۰ نمبر ۲ مورخہ ۲۳ جنوری ۱۹۰۶ء صفحہ ۱)

۱) کوئی عمل تقویٰ کے بغیر ذرہ بھر قبول نہیں کیا جائے گا (۲) قیامت والا زلزلہ۔ اور جو عبادتیں بناتے  
ہائیں گے یہاں کوڑا تے ہائیں گے (۳) گھر مٹ جائیں گے جیسا کہ میں بنا چکا ہوں (۴) کہ دوسے کہ میرے رب کو تمہاری  
پرہیز کیا ہے اگر تم دشمنیں کرو گے۔

۲) (ترجمہ از مرتب) شاہ ایران کے محل میں زلزلہ پڑ گیا۔

(نوٹ از مرتب) چنانچہ اس المام کے بعد بالکل خلافت ترقی ایران میں جلد ہی شور و غلامتو برپا ہوا اور مرزا محمد علی شاہ  
ایران نے مجبوراً بتاريخ ۱۵ جولائی ۱۹۰۹ء روس کے سفارت خانہ میں پناہ لی۔ آخر وہ قحط سے معزول ہوا اور پارلیمنٹ  
بانی گئی۔ مفضل دیکھئے "دعوت الامیر" تصنیف حضرت سیدنا امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح الثانی ایڈوانسڈ لیکچر اور العزیز زاد  
پیشین نمبر ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵۔ فارسی ایڈیشن صفحہ ۲۲۶ تا ۲۲۹ میں دوسری پیشین گوئی۔

اور چوں نہیں کریں گے اور بخاری اور مسلم اور ابن ماجہ اور ابو داؤد اور نسائی اور موطا عرض تمام ذخیرہ حدیثوں کو جس طرح پر حضرات موحّدین مانتے ہیں سرعاً کا کر سب کو مان لیں گے اور اگر کوئی عرض کرے گا کہ حضرت آپ تو حکم ہو کر آئے ہیں کچھ تو ان علماء سے اختلاف کیجیے تو نہایت عاجزی اور مسکینی سے کہیں گے کہ حکم کیجئے۔ ہماری کیا مجال کہ ہم صلح بستہ کی کچھ مخالفت کریں۔ یا حضرت مولانا شیخ اہل نذیر حسین اور حضرت مولانا مولوی ابو سعید محمد حسین طبالوی اور یا حضرت مولانا امام المقلدین رشید احمد گنگوہی کے اجتہادات اور ان کے اکابر کی تشریحات کی مخالفت کریں۔ یہ حضرات جو کچھ فرمایا ہے سب ٹھیک اور بجا ہے۔ ہم کیا اور ہمارا وجود کیا۔ ظاہر ہے کہ جبکہ ہمدی اس طرح پر تسلیم محض ہو کر آئیں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ علماء اہل کو کافر کہیں یا ان کا نام دجال رکھیں۔ اکثر یہ لوگ جو مولوی کہلاتے ہیں عوام کا و نعام کے آگے محض دھوکا دہی کے طور پر یہ بیان کیا کرتے ہیں کہ دیکھو مسلم میں یہ کیسی واضح حدیث ہے کہ سیح موجود دمشق کے مشرقی منارہ کے نزدیک آسمان پر سے اترے گا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ اور اس پیشگوئی کے ظاہر الفاظ میں دمشق اور اس کے مشرقی طرف ایک منارہ کا بیان ہے جس کے نزدیک سیح موجود کا آسمان سے اترنا ضروری ہے۔ پس اگر ان تمام الفاظ کی تاویل کی جائے گی تو پھر پیشگوئی کچھ بھی نہ رہے گی۔ بلکہ مخالفت کے نزدیک ایک باعث تمسخر ہوگا۔ کیونکہ پیشگوئی کی تمام شوکت اور اس کا اثر اپنے ظاہر الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے اور پیشگوئی کرنے والے کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان علامتوں کو یاد رکھیں اور انہی کو مدعی صداق کا معیار ٹھہرائیں۔ مگر تاویل میں تو وہ سادے نشان مقرر کردہ گم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ امر مقبول اور مسلم ہے کہ نصوص کو ہمیشہ ان کے ظاہر پر عمل کرنا چاہیے اور ہر ایک لفظ کی تاویل مخالفت کو تسکین نہیں دے سکتی کیونکہ اس طرح تو کوئی مقدمہ فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا بلکہ اگر ایک شخص تاویل کے طور پر اپنے مطلب کے موافق کسی حدیث کے معنی کر لیتا ہے اور الفاظ کے معنی کو تاویل کے طور پر اپنے مطلب



کلمے اس کی طرف چڑھتے ہیں۔ ابراہیمؑ پر سلام یعنی اس عاجز پر ابراہیمؑ سے اُس سے محبت کی اور غم سے نجات دی ہم نے  
ہی یہ کیا۔ پس ابراہیمؑ کے قدم پر چلو۔ (اربعین نمبر ۱۹ صفحہ ۱۱۱ مطبوعہ ۱۹۳۳ء۔ روحانی خزائن جلد ۹ صفحہ ۳۵۵ تا ۳۶۸)

سُبْحَانَ اللَّهِ بَارِكُ وَتَعَالَى رَأْسُكَ بِنَقِيطَةِ أَبَاؤِكَ وَمِيذْرَمِكَ عَطْلَةَ لَغَيْرِ  
مَجْدُودٍ. سَلَامٌ تَوْلَا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ. وَقِيلَ بَعْدَ التَّلْوِيزِ الطَّالِبِينَ. تَرَى نَسْلًا  
بَعِيدًا أَوْ لَنْجِيئِكَ حَيَوَةً طَيِّبَةً. كَمَا يَتَّبِعُونَ حَوْلًا أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ أَوْ نَزِيدُ عَلَيْهِ  
بَيْنِنَا. وَكَانَ وَعْدُ اللَّهِ مَفْعُولًا. هَذَا مِنْ رَحْمَةِ رَبِّكَ: يَسْتَمِرُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ لِتَكُونَ  
أُمَّةً لِّلْمُؤْمِنِينَ. يَنْصُرُكَ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ. وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَتُوكِيرُهُ الْكَافِرُونَ.  
وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. أَلَا إِنَّ قُرْبَى اللَّهِ قُرْبَى الْقُرْبَى. أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ  
قُرْبَى. يَا أَيُّهَا مَنْ كُنَّ لِي جَعِيمِي. يَا تَوَكُّلًا مِنْ كُلِّ قَبْضِ عَمِيْقِي. يَنْصُرُكَ رَجَبُ  
نُورِي. أَيُّهَا مَنْ السَّمَاءِ. لَا تُبَدِّلُ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ. إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. هُوَ الَّذِي  
أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ وَتَهْدِيْبِ الْآخِلَاقِ. وَقَالُوا سَيُغْلِبُ الْأَمْرُ  
وَمَا كَانُوا عَلَى الْغَيْبِ مُطَّلِعِينَ. إِنَّا أَنبَأْنَاكَ الدُّنْيَا وَآخِرَتَيْنِ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَ  
إِنَّكَ مِنَ الْمُنصُورِينَ. وَإِنِّي جَاعِلٌ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ

لے (ترجمہ از قرب) وہ خدا بہت پاک اور بہت مبارک اور بہت اونچا ہے جس نے تیری بزرگی کو زیادہ کیا۔ وہ وقت  
آتا ہے کہ تیرے باپ دادا سے کا ذکر کوئی بھی نہیں کرے گا اور سلسلہ خاندان تجھ سے شروع ہوگا۔ یہ وہ عطا ہے جو کبھی  
منقطع نہیں ہوگی۔ تجھ پر خدا کا سلام جو رحیم ہے اور کہا جائے گا کہ ظالموں کے لئے ہلاکت ہے۔ تو دور کی نسل بھی  
دیکھے گا اور ہم تجھے خوش زندگی عطا کریں گے اسی سال یا اس کے قریب یا اس سے چند سال زیادہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ  
پورا ہو کر ہے گا۔ یہ تیرے رب کی رحمت سے ہے۔ وہ اپنی نعمت کو تجھ پر پورا کرے گا تاکہ مومنوں کے لئے نشان ہو  
اللہ تعالیٰ کئی معرکوں میں تیری نصرت کرے گا۔ اور اللہ اپنا نور پورا کرے گا اگرچہ کافرنا پسند کریں۔ اور وہ مکر کرتے  
ہیں۔ اللہ انہیں ان کے مکر کی سزا دے گا اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت تجھ سے  
قریب ہے۔ اس کی مدد تجھ سے قریب ہے۔ اس کی مدد ہر ایک مدد کی راہ سے تجھے پہنچے گی۔ دور کی راہ سے مدد  
کرنے والے آئیں گے۔ ایسے لوگ تیری مدد کریں گے جس پر ہم آسمان سے وحی نازل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں  
کو کوئی ٹکائیں سکتا۔ وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ خدا وہ خدا ہے جس نے اپنا رسول اپنی ہدایت، اپنے سچے  
دین اور اخلاق کی درستگی کے لئے بھیجا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ عنقریب یہ معاملہ درہم برہم کر دیا جائے گا مانا کہ انہیں  
غیب پر کوئی اطلاع نہیں۔ ہم نے تجھے دنیا اور تیرے رب کی رحمت کے خسران سے دیئے اور تو ان لوگوں میں

ہوسے میں اس قدر کافی سمجھا گیا ہے کہ وہ خارق عادت اور انسانی طاقتوں سے بالاتر ہوں یا یہ کہ کسی ایسے فیث پڑھتے ہیں جو انسانی پیش بینی سے بلند تر ہو۔ جب ایک پیشگوئی اس قدر عادت کے طور پر بیان کی جائے جس کے بیان کرنے کے وقت کسی عقل اور فہم کو یہ خیال نہ ہو کہ ایسا امر ہونے والا ہے اور مزاج وہ ایک غیر معمولی بات ہو جس کی گذشتہ صدیاں میں کوئی نظیر نہ پائی جائے اور نہ آئندہ اس کے ظہور کے لئے آثار ظاہر ہوں اور وہ پیشگوئی یہی تھکے تو عقل سلیم حکم دیتی ہے کہ ایسی پیشگوئی ضرور منجانب اللہ تفسیر کی جائے اور نہ تمام خبروں کی پیشگوئیوں سے انکار کرنا چاہیے۔ اب خدا کا ان کھول کر سن لو کہ آئندہ زلزلہ کی نسبت جو میری پیشگوئی ہے اس کو ایسا خیال کرنا کہ اس کے ظہور کی کوئی بھی حد متعین نہیں کی گئی یہ خیال سرسبز قطع ہے کہ جو عقل قلب تدبر اور کثرت تعصب اور جھوٹی باوری سے پیدا ہوا ہے۔ کیونکہ بار بار وحی الہی نے مجھے اطلاع دی ہے کہ وہ پیشگوئی میری زندگی میں اور میرے ہی ملک میں اور میرے ہی خاندان کے لئے ظہور میں آئیگی۔ اور اگر وہ صرف معمولی بات ہو جس کی نظیریں آگے چلے صدیاں موجود ہوں اور اگر کوئی ایسا خارق عادت امر نہ ہو جو قیامت کے آثار ظاہر کرے تو پھر بھی خود ظہور کی ہوں کہ اس کو پیشگوئی امت سمجھو۔ اس کو بقول اپنے تفسیر ہی سمجھ لو۔ اب میری عمر ستر برس کے قریب ہے اور میں برس کی مدت گند گئی کہ خدا تعالیٰ نے مجھے مزاج لفظوں میں اطلاع دی تھی کہ تیری عمر اسی برس کی ہوگی اور یہ کہ پانچ چھ سال زیادہ یا پانچ چھ سال کم۔ پس اس صورت میں اگر خدا تعالیٰ نے اس آفت شدیدہ کے ظہور میں بہت ہی تاخیر ڈال دی تو زیادہ سے زیادہ سو لہ سال میں اس سے زیادہ نہیں کیونکہ ضرور ہے کہ یہ حادثہ میری زندگی میں ظہور میں آجائے۔

✽ نورا تعلق کا مقام ایک یہ بھی ہے۔ پھر پہلا آئی خدا کی بات پھر یہی ہوئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زلزلہ موجودہ کے وقت پہلے کے دن ہونگے۔ اور جیسا کہ بعض علامات سے سمجھا جاتا ہے دنیا صبح کا وقت ہو گا یا اس کے قریب ہی ظہور وہ وقت نزدیک ہے جبکہ وہ پیشگوئی ظہور میں آجائے اور ممکن ہے کہ خدا اس میں کچھ تاخیر ڈال دے۔ منشاء

گرے دیل ٹوٹ نہ سکی۔ حافظ صاحب علم سے بے بہرہ ہیں۔ ان کو خبر نہیں کہ ہزار ہا نامی علماء اور اولیاء پیشتر اسی دلیل کو کفار کے سامنے پیش کرتے رہے اور کسی عیسائی یا یہودی کو حقیقت نہ پہنچی کہ کسی ایسے شخص کا نشان دے جس نے افتراء کے طور پر مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کر کے زندگی کے تمسیر میں پورے کئے ہوں۔ پھر حافظ صاحب کی کیا حقیقت اور سراپہ ہے کہ اس دلیل کو توڑ سکیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسی وجہ سے بعض جاہل اور نا فہم مولوی میری ہلاکت کے لئے طرح طرح کے جیلے مچھتے رہے ہیں تا یہ مدت پوری نہ ہونی پاوے جیسا کہ یہودیوں نے قنوز با اللہ حضرت مسیح کو رنج سے بے نصیب ٹھیرانے کے لئے صلیب کا میلہ سوچا تھا تا اس سے دلیل پکڑیں کہ عیسیٰ بن مریم کون صادقوں میں سے نہیں ہے جن کا رنج لی اللہ ہوتا رہا ہے۔ مگر خدا نے مسیح کو وعدہ دیا کہ میں تجھے صلیب سے بچاؤں گا اور اپنی طرف تیرا رنج کرونگا۔ جیسا کہ ابراہیم اور دوسرے پاک نبیوں کا رنج ہوا۔ سو اس طرح ان لوگوں کے منصوبوں کے برخلاف خدا نے مجھے وعدہ دیا کہ میں اتنی برس یا دو تین برس کم یا زیادہ تیری عمر کروں گا تا لوگ کی عمر سے کاذب ہونے کا نتیجہ نہ نکال سکیں۔ جیسا کہ یہودی صلیب سے نتیجہ عدم رنج کا نکالنا چاہتے تھے۔ اور خدا نے مجھے وعدہ دیا کہ میں تمہارا خبیث مرضوں سے بھی تجھے بچاؤں گا۔ جیسا کہ اندھا ہونا۔ تا اس سے بھی کوئی بد نتیجہ نہ نکالیں اور خدا نے مجھے اطلاع دی کہ بعض میں سے تیرے پر بد دعائیں بھی کرتے رہیں گے مگر میں کی بد دعائیں میں اپنی پر ڈالوں گا۔ اور وہ حقیقت لوگوں نے اس خیال سے کہ کسی طرح لو تعالیٰ کی نچے مجھے لے آئی منسوبہ بازی میں کچھ کی نہیں کی۔ بعض مولویوں نے قتل کے فتوے دیئے بعض مولویوں نے جھوٹے قتل کے مقدمات بنانے کے لئے میرے پر گواہیاں دیں۔ بعض مولوی

۴۔ ہمام اپنی ہتک کے بارے میں ہے تَنْزِيلُ الرَّحْمَةِ عَلَى ثَلَاثِ الْعَلَمِ وَعَلَى الْاَخْرَمِ۔ یعنی تیرے تین عضووں پر خدا کی رحمت نازل ہوگی۔ ایک آنکھ اور باقی دو اور۔ منہا۔

تلم آسمان پر احمد ہو گا۔ اور وہ حضرت مسیح کے رنگ میں جہانی طور پر دین کو پھیلائے گا ایسا ہی یہ آیت واتخذوا من مقام ابراهیم مصطفیٰ اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب امت محمدیہ میں بہت فرقے ہو جائیں گے تب آخر زمانہ میں ایک ابراہیم پیدا ہو گا اور ان سب فرقوں میں وہ فرقہ نجات پائیگا کہ اس ابراہیم کا پیرو ہو گا۔

اب ہم بطور نمونہ چند الہامات دوسری کتابوں میں سے لکھتے ہیں چنانچہ از اللہ اوہام میں صفحہ ۶۳۲ سے آخر تک اور نیز دوسری کتابوں میں یہ الہام ہیں جعلناک المسیح ابن مریم۔ ہم نے تجھ کو مسیح ابن مریم بنایا۔ یہ کہینگے کہ ہم نے پہلوں سے ایسا نہیں سنا موتوان کو جو اب دے کہ تمہارے معلومات وسیع نہیں تم ظاہر لفظ اور الہام پر قانع ہو۔ اور پھر ایک اور الہام ہے اور وہ یہ ہے الحمد للہ الذی جعلک المسیح ابن مریم انت الشیخ المسیح الذی لا یضع وقتہ کمثلک دتر لا یضع یعنی خدا کی سب حمد ہے جس نے تجھ کو مسیح ابن مریم بنایا۔ تو وہ شیخ مسیح ہے جس کا وقت ضائع نہیں کیا جاوے گا۔ تیرے جیسا موتی ضائع نہیں کیا جاتا۔ اور پھر فرمایا لنمیعنک جنود طیبۃ ثمانین حولاً او قریباً من ذالک۔ و تری نسلأ بعیداً منظر الحق والعلی

کات اللہ نزل من السماء یعنی ہم تجھے ایک پاک اور آرام کی زندگی عنایت کریں گے۔ اسی برس یا اس کے قریب قریب یعنی دو چار برس کم یا زیادہ اور تو ایک دور کی نس دیکھے گا۔ بلندی اور غلبہ کا منظر گویا خدا آسمان سے نازل ہوا۔ اور پھر فرمایا۔ یأتی قوم الانبیاء وامرک یتانی ما انت ان تتوکل الشیطان قبل ان تغلبہ۔ الغوق معک و التمت مع اعداءک۔ یعنی غیوں کا چاند پڑھے گا۔ اور تو کا نیاب ہو جائیگا۔ تو ایسا نہیں کہ شیطان کو چھوڑ دے قبل اس کے کہ اس پر غالب ہو۔ اور اوپر رہنا تیرے حصہ میں ہے اور نیچے رہنا تیرے دشمنوں کے حصہ میں۔ اور پھر فرمایا۔ انی مہین من اراد اهانک۔ وما کان اللہ لیتوکلک حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ سبحان اللہ انت وقارہ۔ کیف

رکھوں گا اور اُن میں ترقی اور عروج دوں گا۔  
 میں اس بات کا کیونکر انکار کر سکتا ہوں۔ میں بخوبی جانتا ہوں کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ ملکدار  
 تاجر اور ہر قسم کے معزز لوگ یہی ہوں گے۔ لوگوں کے نزدیک یہ انہونی بات ہے مگر میں یقیناً جانتا ہوں کہ  
 یہی ہو گا وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے بلکہ مجھے وہ بادشاہ دکھائے بھی گئے ہیں جو گھوڑوں پر سوار تھے۔  
 یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ جو اس سلسلہ میں داخل ہوتا ہے اب اس وقت کوئی اس کو باہر نہیں کر سکتا۔  
 لیکن میں جانتا ہوں کہ ایسا ہو گا۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دین و دنیا ان میں ہی آجائیں گے  
 اس وقت کسی کو خیال ہو سکتا تھا کیونکہ اتنے آدمی صرف آپ کے ساتھ تھے جو ایک چھوٹے جہرہ میں آجاتے تھے  
 اور لوگ ایسی باتوں کو سن کر اور گھر جا کر استہزاء کرتے تھے کہ گھر سے نکلنے کا موقع نہیں ملتا اور یہ دعوے ہیں۔ آخر  
 سب کو معلوم ہو گیا کہ جو فرمایا تھا وہ سچ تھا۔

ماہر اپنی ابتدائی حالت میں ہلال کی طرح ہوتا ہے۔ ہر ایک شخص اس کو نہیں دیکھ سکتا لیکن جو تیز نظر ہوتے  
 ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں اسی طرح پر سعید الفطرت مومنین ہر مورد کو اس کی ابتدائی حالت میں دیکھ لیتے ہیں وہ ابھی مخفی  
 رہتا ہے شناخت کر لیتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ماننے والوں کا نام سابقین رکھا ہے  
 لیکن جب بہت سے مسلمان فوج ورفوج اسلام میں داخل ہوئے تو ان کا نام صرف ناس رکھا گیا جیسے  
 فرمایا اِذَا جَاؤْكُمْ فَتَوَّأُوْا لِلّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا جَاؤْكُمْ فَسَلِّمُوْا عَلَيْهِمْ سَلَامًا كَمَا سَلَّمْتُمْ عَلَيْهِمْ فِيْ يَوْمِ الْوَدْعَانِ اِنَّهُمْ فِيْ حَالٍ مَّرْهُوْمٍ  
 حقیقت یہی ہے کہ جب حق کھل جاتا ہے پھر انکار کی گنجائش نہیں رہتی جیسے جب دن چڑھا ہوا تو پھر  
 بجز شہتر کے کون انکار کرے گا۔

اصل بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جن پر حق کھل جاتا ہے مگر دنیا کے تعلقات اور مجبوریوں کو اپنا  
 معبود بنا لیتے ہیں اور اس حق سے محروم رہتے ہیں۔ پس ہمیشہ خدا تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ان ظلموں  
 سے بچاتا رہے اور قبولِ حق کے لیے کوئی روک اس کے واسطے نہ ہو۔

نوب صاحب :- آپ میرے لیے ایمان کی دعا کریں۔ دنیا سے تو آخر ایک دن مر ہی جانا ہے۔  
 حضرت اقدس :- اچھائیں تو دعا کروں گا مگر آپ کو بھی ان آداب اور شرائط کا لحاظ رکھنا چاہیے جو دعا کے  
 واسطے ضروری ہیں۔ میرے دعا کرنے سے کیا ہو گا جب آپ توجہ نہ کریں۔ بیمار کو چاہیے کہ طبیب کی ہدایتوں  
 اور پرہیزوں پر بھی تو عمل کرے۔ پس دعا کرانے کے واسطے ضروری ہے کہ آدمی خود اپنی اصلاح بھی کرے۔  
 خیر امی :- کیا جناب کو یہ بھی اطلاع دی گئی ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہوگی۔

حضرت اقدس :- ہاں عمر کے تعلق مجھے الٹا یہ بتایا گیا تھا کہ وہ اتنی کے قریب ہوگی۔ اور حال میں ایک روٹیا کے ذریعہ

۵۳۸

یہ بھی معلوم ہوا کہ ۱۵ سال اور بڑھانے کے واسطے دعا کی ہے۔  
 (اس پر حضرت اقدس نے رویا سنایا جو الحکم میں درج ہو چکا ہے۔ ایڈیٹر  
 شیراعلیٰ:- جناب کی عمر کیا ہو گی؟  
 حضرت اقدس:- ۶۵ یا ۶۶ سال۔

جب ایک عقیدہ پُرانا ہو جاتا ہے اور دیر سے انسان اس پر رہتا ہے تو پھر اسے اس کے چھوٹنے  
 میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں۔ وہ اس کے خلاف نہیں کُن سکتا بلکہ خلاف مُسنے پر وہ خون تک  
 کرنے کو تیار ہو جاتا ہے کیونکہ پُرانی عادت طبیعت کے رنگ میں ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں جو کچھ  
 کتابوں اس کی مخالفت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک جیسے ہوتے خیال کو یہ لوگ چھوڑنا پسند  
 نہیں کرتے۔

شیراعلیٰ:- اصل میں یہ کام جو آپ کر رہے ہیں، ہے بھی عظیم الشان۔  
 حضرت اقدس:- یہ میرا کام نہیں ہے۔ یہ تو بخلت الہی ہے۔ جو میری مخالفت کرتا ہے وہ میری نہیں بلکہ اللہ  
 تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی اخلاقی اور عملی حالت بہت خراب ہو چکی ہے۔ خدا تعالیٰ  
 نے ارادہ کیا ہے کہ اس فسق و فجور کی آگ سے ایک جماعت کو بچائے اور منجس اور شنی گروہ  
 میں شامل کرے۔

یہ انقلاب عظیم الشان جو مسلمانوں کی اس حالت میں ہونے والا ہے اگر یہ انقلاب ہوا تو سمجھ لو کہ یہ  
 سلسلہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے ورنہ جھوٹا شہرے گا کیونکہ خدا تعالیٰ نے ایسا ہی ارادہ کیا ہے اور خدا  
 تعالیٰ کے کام کو کوئی روک نہیں سکتا۔

مسیح موجود جو نام رکھا ہے اور کبیر العلیب اس کا کام مقدر فرمایا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ عیسائیت کا  
 زمانہ ہو گا اور عیسائیت نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہو گا۔ چنانچہ اب دیکھ لو کہ تیس لاکھ کے قریب آہلی  
 مُرد ہو چکے ہیں۔ اور پھر ان مرتدین میں شیخ، سید، منگل، پٹھان ہر قوم ہر طبقہ کے لوگ ہیں۔ جو تیس لاکھ ہیں  
 اور مرد بھی ہیں اور بچے بھی ہیں۔ کوئی شہر نہیں جہاں ان کی چھاؤنی نہ ہو اور انہوں نے اپنا سکھ نہ ملایا ہو۔  
 یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ حقیقی خدا کو چھوڑ کر ایک بناوٹی اور مصنوعی خدا بنایا جاوے اور اس کی پرستش  
 ہو۔ پھر یہی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے سچے نبی اور افضل الرسل بشیر علی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئیں آپ  
 کی شان پاک میں ہر قسم کی گستاخیاں اور ہرزہ گوئیاں روا رکھی گئیں جن کو شکر بدن پر لوزہ پڑ جاتا ہے اور  
 کوئی نیک انسان ان کو سُن ہی نہیں سکتا۔ جب ہم ان باتوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو خدا تعالیٰ کی غیرت

دوران سر اور کئی خواب اور تشنچ دل کی بیماری دورہ کے ساتھ آتی ہے۔ اور دوسری چلو جو میرے نیچے کے حصہ بدن میں ہے وہ بیماری ذیابیطس ہے کہ ایک مدت سے دامگیر ہے اور بسا اوقات تو تو دفعہ رات کو یادن کو پیشاب آتا ہے اور اس قدر کثرت پیشاب سے جس قدر عوارض منعت وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب میرے مثال حال رہتے ہیں۔ بسا اوقات میرا یہ حال ہوتا ہے کہ نماز کے لئے جب زمین چڑھ کر اوپر جاتا ہوں تو مجھے اپنے ظاہر حالت پر امید نہیں ہوتی کہ زمین کی ایک سیرٹھی سے دوسری سیرٹھی پر پاؤں رکھتے تک میں زندہ رہوں گا۔ اب جس شخص کی زندگی کا یہ حال ہے کہ ہر لذت کا سامنا اس کے لئے موجود ہوتا ہے اور ایسے مریضوں کے انجام کی نظریں بھی موجود ہیں تو وہ ایسی خطرناک حالت کے ساتھ کیونکہ اکثر اہل جرات کر سکتا ہے اور وہ کس صحت کے بھروسے پر کہتا ہے کہ میری اتنی برس کی عمر ہوگی۔ حالانکہ ڈاکٹری تجارب تو اس کو موت کے پنجہ میں ہر وقت پھنسا ہوا خیال کرتے ہیں۔ ایسی مریضوں والے مدقوق کی طرح گداز ہو کر جلد مر جاتے ہیں یا کابینکل یعنی سرطان سے لگن کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر جس زور سے میں ایسی حالت پر خطر میں تبلیغ میں مشغول ہوں کیا کسی مفتری کا کام ہے۔ جب میں بدن کے اوپر کے حصہ میں ایک بیماری۔ اور بدن کے نیچے کے حصہ میں ایک دوسری بیماری دیکھتا ہوں تو میرا دل محسوس کرتا ہے کہ یہ وہی بد چار ہیں جن کی خبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔

میں محض نصیحتاً اللہ مخالف علماء اور ان کے ہم خیال لوگوں کو کہتا ہوں کہ گالیاں دینا اور بد زبانی کرنا طریق شرافت نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کی یہی طہنت ہے تو خیر آپ کی مرضی۔ لیکن اگر مجھے آپ لوگ کاذب سمجھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی تو اختیار ہے کہ مساجد میں اکٹھے ہو کر یا اللہ اللگ میرے پر بد دعائیں کریں

سیری طرف بناوٹ سے فسوس کر دیتا تو میں اُسے پکڑتا اور اُسکی رگ جان قطع کر دیتا۔ گویا یہ تمام آیات رسالہ قطع الوتین سے رد ہوئیں۔ لہذا اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ گویا یہ تمام عید خدا تعالیٰ کے جو اُور پر کی تمام آیتوں میں مغفرتوں کے متعلق ہیں یہ بالکل خلاف واقع باتیں تھیں اور یہ انبیاء علیہم السلام اگر نعوذ باللہ افتراء کر نیوالے ہوتے تب بھی بقول حافظ صاحب ہلاک نہ کئے جاتے تو گویا خدا کی گورنمنٹ میں مغفرتوں کیلئے کوئی انتظام نہیں اور وہاں ہر ایک فریب چل جاتا ہے۔ اور یہ امکان باقی رہتا ہے کہ اگر خدا پر کوئی نئی افتراء بھی کرتا تو دنیا کی زندگی میں اس کے لئے کوئی عذاب نہ تھا۔ گویا خدا کے قانون سے انسانی گورنمنٹ کے قانون بڑھ کر ہیں کہ ان میں جھوٹی دستاویز بنانے والے دست بدست پکڑے جاتے اور سزا پاتے ہیں۔ اس جگہ یہ مسئلہ بھی حل ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تکمیل تک جو تیس برس کی مدت تھی مہلت ملنا اور مخالفانہ کوششوں سے جو ہلاک کرنے کے لئے تھیں محفوظ رہنا اور زندگی پوری کر کے خدا کے حکم کے ساتھ جانا جیسا کہ میرے لئے بھی انشی جس کی زندگی کی پیشگوئی ہو جیتک میں سب کچھ پورا کر لوں یہ باتیں حافظ صاحب کی نظر میں معجزہ کے رنگ میں نہیں ہیں اور نہ ایسی پیشگوئیوں کے پورا ہونے پر کوئی شخص صادق سمجھا جاتا ہے۔ غرض کیا میں اور کیا؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حافظ صاحب کے مذہب کے رُو سے اس حفاظت اور عصمت الہی کو اپنی سچائی کی دلیل نہیں ٹھہرا سکتے بلکہ کاذب بھی اس میں شریک ہو سکتا ہے۔ مگر اس طرح پر تو قرآن شریف کا تمام بیان غلط ٹھہرتا ہے۔ کیونکہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ ہر ایک مغفرتی پکڑا جائیگا۔ ذلیل ہوگا۔ ہلاک ہوگا۔

بلکہ حافظ صاحب کے نزدیک جھوٹے پیغمبروں کی بھی اس قدر تائید ہو سکتی ہے کہ باوجود دشمنوں کی جان توڑ کوششوں کے وہ اسوقت تک زندہ رہ سکتے ہیں کہ اپنے دین کو زمین پر جمادیں۔ تو اس اصول سے سچے نبی سب خاک میں مل گئے اور جھوٹ اور سچ میں سخت گڑبڑ پڑ گیا۔ اور ظاہر ہے کہ ہزاروں دشمنوں کے صدمہ بار باروں اور فریبوں اور کوششوں کے مخالف ایک نامحدود زندہ رکھنا اور دین کو زمین پر جمادینا یہ خدا تعالیٰ کا بڑا معجزہ ہے جو سچے اور کامل نبیوں کو دیا جاتا ہے۔ پس جبکہ اس معجزہ میں مجھے کئی شریک ہیں تو اس صورت میں معجزہ بھی قابل اعتبار نہ رہا اور سچے نبی کی سچائی پر کوئی علامت قائم نہ رہی۔ وہی ۱۹۱۰ء حافظ صاحب آپ نے اس نام کا ہی خاکہ کیا حافظ



علا عبد اللہ آتھم صاحب کو ایک ہزار انعام کا وعدہ دیا گیا تھا۔ شرط یہ طور پر (تسلیم کیا گیا)۔ ۱۳۱  
عبد اللہ آتھم صاحب کو دو ہزار روپیہ کے انعام کا وعدہ دیا گیا۔ ۱۳۲ ایضاً تین ہزار ایضاً۔ ۱۳۳  
ایضاً چار ہزار ایضاً۔ ۱۳۴ انجام آتھم شائع کیا گیا (تسلیم ہوا) ۱۳۵ انجام آتھم میں مرزا صاحب نے  
پیش گوئی کی تھی کہ ۹ مولوی اور ۶۸ چھاپہ والے اگر سہارے پر ایمان نہیں لادیں گے تو مرزا صاحب کے  
(مرزا صاحب نے اس کو تسلیم نہیں کیا)۔ ۱۳۶ اس پیش گوئی میں لیکچرارام کے مرنے کی بابت وہ لوگوں  
کو بتلاتے ہیں کہ مباحہ کریں (تسلیم کیا گیا)۔ ۱۳۷ گنگا لیشن کو مباحہ کے واسطے بلایا گیا (تسلیم کیا گیا)  
۱۳۸ مولوی محمد حسین بٹالوی کو مباحہ کے واسطے بلایا گیا (تسلیم کیا گیا)۔ ۱۳۹ رستے جندرسنگھ کو مباحہ  
کے واسطے بلایا گیا (تسلیم کیا گیا)۔ ۱۴۰ پیشگوئی بابت مرنے لیکچرارام کی۔ (تسلیم کیا گیا)۔ ۱۴۱ نسبت

ساروں کے اپنی گروہ سے خرید کر دئے تھے اور آئندہ گورنمنٹ کو اس قسم کی مدد کا عند الضرورت  
وعدہ بھی دیا۔ سرد سرکار انگریزی کے حکام وقت سے جلد سے خدمات عمدہ عمدہ پیشیات  
خوشنودی مزاج ان کو ملی تھیں۔ چنانچہ سرپل گریں صاحب نے بھی اپنی کتاب تاریخ ڈیسیان  
پنجاب میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ عرض وہ حکام کی نظر میں بہت ہر دل عزیز تھے۔ اور بسا اوقات  
ان کی دلجوئی کے لئے حکام وقت ڈپٹی کمشنر کمشنران کے مکان پر ان کی ملاقات کرتے  
تھے۔ یہ مختصر میر سے خاندان کا حال ہے میں فردی نہیں دیکھتا کہ اس کو بہت طول دوں۔  
اب میرے ذاتی سوانح یہ ہیں کہ میری پیدائش ۱۸۵۶ء یا ۱۸۵۷ء میں سکھوں  
کے آخری وقت میں ہوئی ہے اور میں ۱۸۵۶ء میں سولہ برس کا یا سترھویں برس میں تھا۔  
اور ابھی ریش و بروٹ کا آغاز نہیں تھا۔ میری پیدائش سے پہلے میرے والد صاحب نے  
بڑے بڑے مصائب دیکھے ایک دفعہ ہندوستان کا پیادہ پاسر بھی کیا۔ لیکن میری پیدائش

نوٹ:- میں توام پیدا ہوا تھا ایک لڑکی جو میرے ساتھ تھی، وہ چند دن کے بعد فوت ہو گئی تھی۔ میں  
خیال کرتا ہوں کہ اس طرح پر خدا تعالیٰ نے امتیث کا مادہ مجھ سے بخل الگ کر دیا۔ مناد

کوئی کوشش مجھ پر حملہ کرنے کی نہیں کی تھی ۳۱ جولائی ۱۹۷۷ء کو اُس نے اقبال کیا تھا میں خاص اُس کام کے واسطے وہاں اس روز گیا تھا اور اُس کو کہا کہ سچ سچ بتلا۔ اُس نے اپنے آپکو دو چار دفعہ دلیا رام بھی بتلایا بعد میں اقبال کیا۔ بغیر کسی دباؤ اُس نے اقبال کیا تھا۔ اور کہا تھا کہ اگر مجھے کوئی خطرہ نہ ہووے تو بتلانا ہوں۔ اور پھر میرے وعدہ پر کہ تمہارا نقصان نہ ہوگا اقبال کیا تھا۔ پانچ آدمی موجود تھے۔ پریداس۔ وارث دین۔ عبدالرحیم۔ دیال چند اور ایک اور آدمی نام یاد نہیں۔ وارث دین میرے ماتحت نہیں ہے وہ عیسائی نہیں ہے۔ بیاس میں ہمارا کوئی کھانے کے کھانے والے کمرہ میں یہ گفتگو عبدالمجید سے ہوئی تھی اور اسی وقت اسکی قلم سے اقبال لکھوایا تھا۔ اسکی قلم کا لکھا ہوا بھی کاغذ ہم نے دیا تھا۔ اول ایک اور کاغذ بطور مسودہ لکھا تھا۔ پھر اس کاغذ حرف II پر نقل کیا تھا۔ جہاں تک مجھے علم ہے ہم نے یا ہمارے متعلقین نے کوئی لفظ یا حرف اُسکو نہیں بتلایا تھا۔ ۴ اور ۶ بجے شام کے درمیان کا یہ واقعہ ۵ بجے کے بعد بجے سے پہلے لکھا گیا تھا۔ تین کس دیگر تھے۔ ایک سب پوسٹاسٹر۔ پوسٹاسٹر و تار پابو بلائے گئے تھے۔ اور انکو کہا گیا تھا کہ اس نوجوان سے پوچھ لو۔ اور انہوں نے دریافت کیا تھا اور اُن سے کہا تھا کہ میں اپنی خوشی سے لکھتا ہوں اور یہ امر سچ ہے۔ یہ تینوں گواہ ہندو ہیں۔ ہم کو معلوم نہیں کہ آریہ ہیں یا نہ۔ چونی لال کو ہم پیش کریں گے۔ ہماری کوٹھی پر تینوں

آزادی حسرت کو ساتھ لیا گیا جس نے سمجھنا ہو گئے۔ میری عمر قریباً چونتیس یا پینتیس برس کے ہوگی جب حضرت والد صاحب کا انتقال ہوا۔ مجھے ایک خواب میں بتلایا گیا تھا کہ اب ان کے انتقال کا وقت قریب ہے۔ میں اس وقت لاہور میں تھا جب مجھے یہ خواب آیا تھا۔ تب میں ہلدی سے قادیلا پہنچا اور انکو مرض زحیر میں مبتلا پایا۔ لیکن یہ امید ہو گئی کہ وہ دوسرے دن میرے آنے سے فوت ہو جائیگا۔ کیونکہ مرض کی شدت کم ہو گئی تھی اور وہ بڑے استقلال سے بیٹھے رہتے تھے۔ دوسرے دن شدت دوپہر کے وقت ہم سب عین انکی خدمت میں حاضر تھے کہ مرزا صاحب نے مہربانی سے مجھے فرمایا کہ اسوقت تم ذرا آرام کر لو۔ کیونکہ جن کا عین تھا اور

آزادی  
حسرت  
کو  
ساتھ  
لیا  
گیا  
تھا

یہ بات غلط ہے بلکہ وارث دین عیسائی ہے۔ ۱۹۲

اس جماعت میں سے ایک آدم میں دنیا سے رخصت ہو جائے گا اور پیٹ پھٹ جائے گا اور شعبان کے مہینہ میں وہ فوت ہوگا۔  
(تمہ حقیقۃ الوحی صفحہ ۲۲)

۸ ستمبر ۱۹۰۶ء روایا۔ دیکھا کہ حضرت مولوی نور الدین صاحب نے ایک کاغذ بھیجا ہے جو پروت کی طرح ہے جو لاکے کر آیا ہے۔ وہ کتاب ہے کہ اس کے حاشیہ پر سطر ہے ذرا پڑھ لینا۔ اس کاغذ کے دائیں طرف کے حاشیہ پر لکھا ہے۔

دشمن نہایت اضطراب میں ہے

(بدرد جلد ۲ نمبر ۲۴ مورخہ ۱۲ ستمبر ۱۹۰۶ء صفحہ ۲۔ الحکم جلد ۱۰ نمبر ۳۲ مورخہ ۱۴ ستمبر ۱۹۰۶ء صفحہ ۱)

۱۵ ستمبر ۱۹۰۶ء " فرمایا۔ گھر میں ایک چوکھٹ کے اندر ایک قطعہ لگا ہوا ہے جس پر لکھا ہے۔

رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَخَادِمُكَ

ہم نے آج کشفی نگاہ میں دیکھا کہ وہ الفاظ ملے ہوئے ہیں مگر اس پر لکھا ہے۔ خیر۔

(بدرد جلد ۲ نمبر ۲۸ مورخہ ۲۰ ستمبر ۱۹۰۶ء صفحہ ۲۔ الحکم جلد ۱۰ نمبر ۳۲ مورخہ ۲۲ ستمبر ۱۹۰۶ء صفحہ ۱)

۱۶ ستمبر ۱۹۰۶ء " (۱) قَالَ رَبِّكَ إِنَّهُ نَزَّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَائِدِينَكَ وَمَا

نَسَزَلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ۔

(۲) قَدْ سَمِعَ اللَّهُ أٰجِبَتِ دَعْوَتِكَ۔ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ

هٰذَا يُخِصُّونَ۔

(۳) بَارَكَ اللّٰهُ فِي الْهٰمِيْكَ وَوَحِيْكَ وَرُوْيَاكَ۔

۱۔ یہ امام ۳۰ جہاں ۱۹۰۶ء کو ہوا تھا۔ دیکھئے صفحہ ۵۶۳۔ (ترجمہ)

۲۔ (ترجمہ از مرتبہ) (۱) تیرے رب نے فرمایا ہے کہ تیرے لئے آسمان سے وہ چیز اترنے والی ہے جو تجھے خوش کرے گی اور تم

تیرے رب کے حکم کے سوائے کبھی نازل نہیں ہوتے۔

۳۔ (ترجمہ) (۲) اللہ تعالیٰ نے تیری دعا قبول کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ اختیار کرتے

ہیں اور وہ جو تک کرتے ہیں۔

۳۔ (۳) برکت دی اللہ تعالیٰ نے تیرے علم میں اور تیری وحی میں اور تیری خوابوں میں۔

نشان آسمانی

۱۴

گلشنِ شرع را ہے یویم	گل دیں را بارے یتیم
----------------------	---------------------

یعنی اُس سے شریعت تازہ ہو جائیگی اور دین کے شگوفوں کو پھل لگیں گے۔ یہ اُس الہام کے مطابق ہے جو براہین احمدیہ کے صفحہ ۴۹۸ میں درج ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر ایک دین پر بذریعہ اس عاجز کے دین اسلام غالب کیا جائیگا اور پھر صفحہ ۴۹۱ براہین یہ الہام ہے کہ خدا تجھ کو ترک نہیں کریگا جیتک کہ خبیث اور پاک میں فرق کر کے دکھلاوے۔

تا پہل سال اے برادرِ من	دورِ آن شہسوار سے یتیم
-------------------------	------------------------

یعنی اُس روز سے جو وہ امام ملہم ہو کر اپنے تئیں ظاہر کریگا چالیس برس تک زندگی کریگا اب واضح رہے کہ یہ عاجز اپنی عمر کے چالیسویں برس میں دعوتِ حق کے لئے بالہام خاص مامور کیا گیا اور بشارت دی گئی کہ انہی برس تک یا اسکے قریب تیری عمر ہے سو اس الہام سے چالیس برس تک دعوت ثابت ہوتی ہے جن میں سے دس برس کامل گذر بھی گئے دیکھو براہین احمدیہ صفحہ ۲۲۸ واللہ علی کل شیء قدير اگرچہ اب تک حضرت قح کی طرح دعوتِ حق کے آثار نمایاں نہیں لیکن اپنے وقت پر تمام باتیں پوری ہونگی۔

عاصیاں از امام معصوم	نخل و شرمسار سے یتیم
----------------------	----------------------

اس بیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اُس امام کی جو چودھویں صدی کے سر پر آئیگا مخالف اور نافرمان بھی ہونگے جنکے لئے آخرِ خجالت اور شرمساری مقدر ہے اسی کی طرف اس الہام میں اشارہ ہے جو فیصلہ آسمانی میں چھپ چکا ہے اور وہ یہ ہے کہ میں قنار ہوں تجھے فتح دُونگا ایک عجیب نَد تو دیکھے گا اور سجدہ گا ہوں میں گریں گے یعنی مخالف لوگ یہ کہتے ہوئے کہ خدا یا ہمیں بخش کہ ہم خطا دار تھے۔

۲۴۳

یہ حوالہ صفحہ 219 پر درج ہے

نشان آسمانی صفحہ 14 مندرجہ روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 374 از مرزا قادیانی

یہ خیال گذرتا ہے۔ واللہ اعلم کہ کوئی شخص زناہ طور پر ٹکڑے کرے۔ یعنی مرد میدان بن کر اور وائی نہ کرے بلکہ چھپ کر عورتوں کی طرح کوئی نقصان پہنچانا چاہے جس کا نتیجہ آخر بریت ہو۔ مگر یہ صرف اجتہادی رائے ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس کے کیا معنی ہیں۔ ایک مردوں کی چال ہوتی ہے اور ایک زناہ چال ہوتی ہے جو گناہ ہو کر کوئی بدی کرتا ہے یا عورت کی طرح چھپ کر کوئی حملہ کرتا ہے۔ اور آخری فقرے کے یہ معنی ہیں کہ فرعون کے شر سے ہم نے بنی اسرائیل کو بچایا۔

(بدر جلد ۲ نمبر ۸ مورخہ ۲۳ فروری ۱۹۰۶ء صفحہ ۲۔ الحکم جلد ۱۰ نمبر ۲ مورخہ ۲۳ فروری ۱۹۰۶ء صفحہ ۱۱)

۱۹ فروری ۱۹۰۶ء ”دیکھا کہ منظور محمد صاحب کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے اور دریافت کرتے ہیں کہ اس لڑکے کا کیا نام رکھا جائے۔ تب خواب سے حالت الہام کی طرف چلی گئی اور یہ معلوم ہوا۔

”بشیر اللہ“

فرمایا: کئی آدمیوں کے واسطے دعا کی جاتی ہے معلوم نہیں کہ منظور محمد کے غلط سے کس کی طرف اشارہ ہے۔ ممکن ہے کہ بشیر اللہ کے لفظ سے یہ مراد ہو کہ ایسا لڑکا میاں منظور محمد کے پیدا ہوگا جس کا پید ہونا موجب خوشحالی اور دولت مند ہی ہو جائے۔ اور یہ بھی قرین قیاس ہے کہ وہ لڑکا خود اقبال مندا اور صاحب دولت ہو

بقیہ حاشیہ

نے قاضی صاحب کو بعض امور تحقیق طلب سے متعلق تفصیلات دریافت کرنے کے لئے لکھا۔ انہوں نے بعد تحقیق مفصل خط بھیج دیا جس میں چواندین کی بیوی کے متعلق بھی الفاظ ذیل لکھے ویسے: ”اس کی عورت پر لوگ یاری آشتانی کے الزام لگاتے تھے لیکن ہے کہ وہ اس کی زندگی میں ہی خواب ہو۔ یہ خط بدر ۱۹ اپریل ۱۹۰۶ء صفحہ ۲ میں شائع ہو گیا۔ اس خط کے شائع ہونے پر معافی نے قاضی صاحب کے خلاف بھی ہتک عورت کا مقدمہ کھڑا کرنا چاہا اور بیروی مقدمہ کے لئے ایک بڑی کمیٹی مقرر ہوئی اس پر قاضی صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں تفصیل دیتے ہوئے دعا کے لئے لکھا اور اس میں یہ بھی لکھا کہ ۱۹ فروری کا نام ”عورت کی چال۔ ایلی ایلی لسا بقتالی“ شدید ہی چال نہ ہو حضور اقدس نے اس خط پر اپنے دمت مبارک سے رقم فرمایا: ”اس خط کو بہت محفوظ رکھا جائے اور اس کا جواب لکھ دیا جائے کہ اب صبر سے خدا تعالیٰ پر توکل کریں۔ دعا کی جائے گی۔“

(پھر اس مقدمہ کے متعلق ہوا کہ میں اس تاریخ کو جس دن دہلوی ہونا تھا اور صبح تیار ہی ہر طرح سے مکمل ہو چکی تھی اس دن علی الصبح پتہ لگا کہ وہ عورت اپنے آشتانی کے ساتھ غائب ہو گئی اور اس طرح ان مخالفوں کی ساری کارستانی پر پانی پھر گیا اور میرے لئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قبولیت دعا اور حضور کی توجہ کی برکت کا ایک روشن نشان ظاہر ہوا۔ تفصیلی حالات کے لئے دیکھئے اصحاب احمد جلد ۹ صفحہ ۱۳۶ تا ۱۳۷۔)

۱۰ (عزیز از قرب) اے خدا! اے خدا! کوئی مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ بریت اور یاد کرو جب میں نے بنی اسرائیل سے دشمن کو باز رکھا۔

تذکرہ مجموعہ وحی والہامات طبع چہارم صفحہ 510، 511 از مرزا قادیانی یہ حوالہ صفحہ 220 پر درج ہے

لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ کب اور کس وقت یہ لڑکا پیدا ہو گا۔ خدا نے کوئی وقت ظاہر نہیں فرمایا۔ لیکن ہے کہ جلد ہو یا خدا اس میں کئی برس کی تاخیر ڈال دے۔“

(بدرد جلد ۲ نمبر ۹ مورخہ ۲۳ فروری ۱۹۰۶ء صفحہ ۲۔ الحکم جلد ۱۰ نمبر ۹ مورخہ ۲۳ فروری ۱۹۰۶ء صفحہ ۱)

۲۳ فروری ۱۹۰۶ء ”شد جان عشق بروئے آشکارا“ (کاپی الہامات حضرت سیح موعود علیہ السلام صفحہ ۵۸)

۲۵ فروری ۱۹۰۶ء (الف) ”وردناک دکھ اور دردناک واقعہ“

(بدرد جلد ۲ نمبر ۹ مورخہ ۲ مارچ ۱۹۰۶ء صفحہ ۲۔ الحکم جلد ۱۰ نمبر ۹ مورخہ ۲۳ فروری ۱۹۰۶ء صفحہ ۱)  
اب) نواب محمد علی خان صاحب رئیس کوٹہ مالیر کی نسبت میسر پر خدا تعالیٰ نے یہ ظاہر کیا کہ ان کی بیوی غریب فوت ہو جائے گی اور موت کی خبر دے کر یہ بھی فرمایا کہ

وردناک دکھ اور دردناک واقعہ

..... اور یہ اس زمانہ میں خدا تعالیٰ نے مجھے خبر دی تھی جبکہ نواب صاحب موصوف کی بیوی بہر طرح تندرست اور صحیح و سالم تھی۔ پھر گھنٹا چھ ماہ کے بعد نواب محمد علی خان صاحب کی بیوی کو بیل کی مرض ہو گئی..... آخر رمضان ۱۳۲۳ھ میں وہ مر مر اسی مرض سے اس تپا پائیدار دنیا سے گزر گئیں۔ اس پیش گوئی سے نواب صاحب کو بھی قبل از وقت خبر دی گئی تھی۔“ (تمتہ حقیقۃ الوحی صفحہ ۴۱۲۔ روحانی خزائن جلد ۲۲ صفحہ ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵)

۲۵ فروری ۱۹۰۶ء (ب) ”اس کے بعد رویا میں دیکھا کہ کوئی خادمہ عورت جو اپنے تعلق والوں میں سے کسی گھر کی ہے، آئی ہے اور کہتی ہے کہ میری بیوی بیکام نرگئی۔ یہ سن کر میں اٹھا ہوں کہ اپنے گھر میں اطلاع کروں کہ پہلا الہام پورا ہو گیا اور پگڑی اور عصا ہاتھ میں لیا اور چلنے کو تھا کہ بیداری ہو گئی۔“

(بدرد جلد ۲ نمبر ۹ مورخہ ۲ مارچ ۱۹۰۶ء صفحہ ۲۔ الحکم جلد ۱۰ نمبر ۹ مورخہ ۲۳ فروری ۱۹۰۶ء صفحہ ۱)

۲۵ فروری ۱۹۰۶ء ”اس الہام کے علاوہ معروفہ کے متعلق حضرت اقدس کو ایک الہام یہ بھی ہوا تھا کہ  
امتہ الحفیظ

۱۔ (ترجمہ از مرتب) عشق کا جان اس پر ظاہر ہوا۔

۲۔ کاپی الہامات صفحہ ۵۸ میں اس کی تاریخ ۲۳ فروری درج ہے۔ (مرتب)

۳۔ یعنی الہام ”وردناک دکھ دردناک واقعہ“ (مرتب) ۴۔ یعنی نواب محمد علی خان صاحب کی بیوی۔ (مرتب)

میرے ہاتھ میں آگیا اور اس نے اپنے تئیں میرے حوالہ کر دیا اور میں نے کہا کہ یہ ہمارا آسمانی رزق ہے جیسا کہ  
نبی اسرائیل پر آسمان سے رزق اتر کر آتا تھا۔

(مکتوب حضرت مسیح موعود علیہ السلام ۵ جون ۱۹۰۶ء مکتوبات احمدیہ جلد ہفتم حصہ اول صفحہ ۳۰ مرتبہ ملک  
صلاح الدین صاحب ایم۔ اے۔ قاریان)

۵ جون ۱۹۰۶ء (۱) مَا أَرْسِلَ نَبِيًّا إِلَّا أَخَذَىٰ بِهِ اللَّهُ قَوْمًا لَا يُؤْمِنُونَ۔

(۲) يُلْقِي الرُّوحَ عَلَيَّ مِنْ تَشَاءٍ مِنْ عِبَادِهِ۔

(۳) خدا کی فیلنگ اور خدا کی ٹھہرنے کتنا بڑا کام کیا۔

(ذکر جلد ۲ نمبر ۲۳ مورخہ ۵ جون ۱۹۰۶ء صفحہ ۲۰، الحکم جلد ۱۰ نمبر ۳۰ مورخہ ۱۰ جون ۱۹۰۶ء صفحہ ۱۱)

۵ جون ۱۹۰۶ء ” بذریعہ الہام الہی معلوم ہوا کہ میں منظور محمد صاحب کے گھر میں، یعنی محمدی بیگم  
کا ایک لڑکا پیدا ہو گا جس کے دو نام ہوں گے۔

(۱) بشیر اللہ اولہ (۲) قائم کباب

یہ دو نام بذریعہ الہام الہی معلوم ہوئے اور ان کی تعبیر اور تقسیم یہ ہے:-

(۱) بشیر اللہ اولہ سے یہ مراد ہے کہ وہ ہماری دولت اور اقبال کے لئے بشارت دینے والا ہو گا اس کے پیدا  
ہونے کے بعد ایاہں کے ہوش سنبھالنے کے بعد زلزلہ عظیم کی پیشگوئی اور دوسری پیشگوئیاں ظہور میں  
آئیں گی اور گروہ کثیر مخلوقات کا ہماری طرف رجوع کسے گا اور عظیم الشان فتح ظہور میں آئے گی۔

۱۔ (ترجمہ) (۱) کوئی نبی نہیں بھیجا گیا مگر خدا نے اس کی وجہ سے ایک قوم کو رسوا کیا جو ایمان نہیں لاتے تھے۔  
(۲) خدا اپنے بندوں سے جس کو چاہتا ہے نبوت کی روح اس پر ڈالتا ہے۔

۲۔ ” اس کے یہ معنی ہیں کہ خدا نے اس زمانہ میں محسوس کیا کہ یہ ایسا فاسد زمانہ آگیا ہے جس میں ایک عظیم الشان  
صلح کی ضرورت ہے اور خدا کی ٹھہرنے یہ کام کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا اس درجہ کو پہنچا کہ ایک  
پلو سے وہ اٹھتا ہے اور ایک پلو سے نبی کیونکہ اللہ جل شانہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب خاتم بنایا یعنی آپ کو  
خاتم کمال کے لئے ٹھہری جو کسی اور نبی کو ہرگز نہیں دیا گئی۔ یہی وجہ سے آپ کا نام خاتم النبیین ٹھہرا۔ یعنی آپ کی پیروی کمال  
نبوت بخشی ہے اور آپ کی توجہ روحانی ہی تماشہ ہے اور یہ قوت قدسیہ کسی اور نبی کو نہیں ملی۔“

(حقیقۃ الہی صفحہ ۹۷، ۹۸ حاشیہ۔ روحانی خزائن جلد ۲۲ صفحہ ۱۰۰، ۹۹)

☆ FEELING

یہ حوالہ صفحہ 220 پر درج ہے

تذکرہ مجموعہ وحی والہامات طبع چہارم صفحہ 533، 534 از مرزا قادیانی

۵۳۳

(۲) عالم کباب سے یہ مراد ہے کہ اس کے پیدا ہونے کے بعد چند باہک یا جب تک کہ وہ اپنی بُرائی بھلائی شناخت کرے دُنیا پر ایک سخت تباہی آئے گی۔ گویا دُنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اس لڑکے کا نام عالم کباب رکھا گیا۔ غرض وہ لڑکا اس لحاظ سے کہ ہماری دولت اور اقبال کی ترقی کے لئے ایک نشانی ہوگا بشیر القولہ کہلائے گا اور اس لحاظ سے کہ مخالفوں کے لئے قیامت کا نمونہ ہوگا عالم کباب کے نام سے موسوم ہوگا۔  
(بدو جلد ۲ نمبر ۲۳ مورخہ ۱۳ جون ۱۹۰۶ء صفحہ ۲۔ الحکم جلد ۱۰ نمبر ۲ مورخہ ۱۰ جون ۱۹۰۶ء صفحہ ۱)

۷ جون ۱۹۰۶ء "اس کے بعد معلوم ہوا کہ اس لڑکے کے دو نام اور ہیں (۱) ایک شادی خان کیونکہ وہ اس جماعت کے لئے شادی کا موجب ہوگا (۲) دوسرے کلمۃ اللہ خان کیونکہ وہ خدا کا کلمہ ہوگا جو ابتدا سے مقرر تھا اس زمانہ میں پورا ہو جائے گا اور ضرور ہے کہ خدا اس لڑکے کی والدہ کو زندہ رکھے جب تک یہ پیشگوئی پوری ہو اور گذشتہ الہام سے وارڈ اینڈ ٹو گرل ایسی پیشگوئی کو بیان کرتا ہے جس کے معنی ہیں ایک کلمہ اور دو لڑکیاں۔ کیونکہ میان منظور محمد کی دو لڑکیاں ہیں اور جب کلمۃ اللہ پیدا ہوگا تب یہ بات پوری ہو جائے گی ایک کلمہ اور دو لڑکیاں۔" (بدو جلد ۲ نمبر ۲۳ مورخہ ۱۳ جون ۱۹۰۶ء صفحہ ۲ حاشیہ)

۷ جون ۱۹۰۶ء " (۱) رَبِّ آيَاتِنَا نُورِكَ الْكَلِمَاتِ (۲) اِنِّي اَنْزَلْتُكَ وَ اَخْتَرْتُكَ (۳) وَ رَزَقْنَا نَارِكُ مِنَ السَّمَاءِ مَا يَرْضِيكَ (۴) وَ وُضِعَ لَكَ نَظَائِرُ مِثْلُكَ (۵) اِنَّكَ تَعَالَى اَسْمَاءِ كُو سَلَامَتِ رَكْعَتَا نِهِيں چاہتا۔ (یہ کس طرف اشارہ ہے)۔ (۶) اِنَّا اَخَذْنَا مِنْ عَذَابِ الْيَوْمِ (۷) ہذا تمہیں

۷ جون ۱۹۰۶ء ۱۲ فروری ۱۹۰۶ء اور الحکم ۳۱ جنوری ۱۹۰۶ء میں یہ الہام "اے دروازہ نو کر لڑ" (A word and two girls) اور اس کا اردو ترجمہ "ایک کلام اور دو لڑکیاں" درج ہے۔ (دیکھئے تہ کرہ صفحہ ۵۰۵) ۷ جون ۱۹۰۶ء (۱۲) اے میرے رب مجھے اپنے وہ انوار دکھا جو عیال کی ہوں (۶) میں نے تجھے روشن کیا اور تجھے برکزیہ کیا (۳) اور آسمان سے ایک ایسا امر اتارنے والا ہے جو تجھے خوش کرے گا۔ ۷ جون ۱۹۰۶ء (نوشہ از مرتب) اس میں سدا اللہ صیالوی اور ڈاکٹر ڈوٹی امریکن کی طاقت کی طرف اشارہ ہے چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں:-

"حاکم مشرق میں تو سدا اللہ صیالوی میری پیشگوئی اور جہاں کے بعد جنوری کے پہلے ہفتہ میں ہی نمودار ہو گیا۔ یہ تو پہلا نشان تھا اور دوسرا نشان اس سے بہت ہی بڑا ہوگا جس میں فتح عظیم ہوگی۔ سو وہ ڈوٹی کی موت ہے جو حاکم مشرقیہ میں نمودار ہوئی۔۔۔۔۔ اس سے خدا تعالیٰ کا وہ الہام پورا ہوا کہ میں دو نشان دکھاؤں گا۔"

(تعمیرت الہامی حاشیہ صفحہ ۵۳، روحانی خزائن جلد ۲ صفحہ ۵۰)

۷ جون ۱۹۰۶ء (۷) اے میرے رب، ہم اُسے دردناک عذاب کے ساتھ پکڑیں گے۔



(۲) عالم کباب سے یہ مراد ہے کہ اُس کے پیدا ہونے کے بعد چند باہر تک یا جب تک کہ وہ اپنی بڑائی بھلائی شناخت کرے دُنیا پر ایک سخت تباہی آئے گی۔ گویا دُنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اسی لڑکے کا نام عالم کباب رکھا گیا۔ غرض وہ لڑکا اس لحاظ سے کہ ہماری دولت اور اقبال کی ترقی کے لئے ایک نشان ہوگا بشیر الدولہ کہلائے گا اور اس لحاظ سے کہ مخالفوں کے لئے قیمت کا نمونہ ہوگا عالم کباب کے نام سے موسوم ہوگا۔  
(بدجلد ۲ نمبر ۲ مورخہ ۱۳ جون ۱۹۰۶ء صفحہ ۲۔ الحکم جلد ۱۰ نمبر ۲ مورخہ ۱۰ جون ۱۹۰۶ء صفحہ ۱)

۶ جون ۱۹۰۶ء "اس کے بعد معلوم ہوا کہ اس لڑکے کے دو نام آوریں (۱) ایک شادی خان کیونکہ وہ اس جماعت کے لئے شادی کا موجب ہوگا (۲) دوسرے کلمۃ اللہ خان کیونکہ وہ خدا کا کلمہ ہوگا جو ابتدا سے معتز تھا اس زمانہ میں پورا ہو جائے گا اور ضرور ہے کہ خدا اس لڑکے کی والدہ کو زندہ رکھے جب تک یہ پیشگوئی پوری ہو اور گذشتہ الامام سے وارڈ اینڈ ٹوگرل اسی پیشگوئی کو بیان کرتا ہے جس کے معنی ہیں ایک کلمہ اور دو لڑکیاں۔ کیونکہ میان منظور محمد کی دو لڑکیاں ہیں اور جب کلمۃ اللہ پیدا ہوگا تب یہ بات پوری ہو جائے گی ایک کلمہ اور دو لڑکیاں۔" (بدجلد ۲ نمبر ۲ مورخہ ۱۳ جون ۱۹۰۶ء صفحہ ۲ حاشیہ)

۶ جون ۱۹۰۶ء " (۱) رَبِّ آدِنِ اَنْوَارِكَ الْكَلِمَةَ (۲) اِنِّیْ اَنْزَلْتُكَ وَ اَخْتَرْتُكَ (۳) وَ رِزْقَهُ نَزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَا یُرِضُنِکَ (۴) دو نشان ظاہر ہوں گے (۵) اللہ تعالیٰ اُس کو سلامت رکھنا نہیں چاہتا۔ (یہ کسی طرف اشارہ ہے)۔ (۶) اِنَّا اَخَذْنَاہُ بِعَذَابٍ اَلِیْمٍ (۷) ہذا تمہیں

لے بدجلد ۲ فروری ۱۹۰۶ء اور الحکم ۳۱ جنوری ۱۹۰۶ء میں یہ الہام "اے ورڈ اینڈ ٹو گرلز" (A word and two girls) اور اس کا اردو ترجمہ "ایک کلام اور دو لڑکیاں" درج ہے۔ (دیکھئے صفحہ ۵۰۵) لے (ترجمہ از مرتب) (۱) اے میرے کلمت بچھپنے وہ انوار دکھ جو محیط گل ہوں (۲) میں نے تجھے روشن کیا اور تجھے بڑا زیادہ کیا (۳) اور آسمانی سے ایک ایسا امر اتارنے والا ہے جو تجھے خوش کر دے گا۔  
لے (نوٹ از مرتب) اس میں سعد اللہ جیلانی اور ڈاکٹر ڈوٹی امریکن کی ہلاکت کی طرف اشارہ ہے چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں۔

"ممالک مشرق میں تو سعد اللہ جیلانی میری پیشگوئی اذمبابیلہ کے بعد جنوری کے پہلے ہفتہ میں ہی نمودار ہو گیا ہے لڑکا یہ تو پہلا نشان تھا اور دوسرا نشان اس سے بہت ہی بڑا ہوگا جس میں فتح عظیم ہوگی سورہ ڈوٹی کی موت ہے جو ممالک مغربیہ میں نمودار ہوئی۔۔۔۔۔ اس سے خدا تعالیٰ کا وہ الہام ہے جو اُس کے دو نشان دکھاؤں گا۔"  
(تقریر توحیدی حاشیہ صفحہ ۴، مدد عالی خزانہ جلد ۲ صفحہ ۵۰۵)  
لے (ترجمہ از مرتب) ہم اُسے دو نشان عذاب کے ساتھ بخیر دینی گے۔

تذکرہ مجموعہ وحی والہامات طبع چہارم صفحہ 534 از مرزا قادیانی یہ حوالہ صفحہ 221 پر درج ہے

۵۲۷

۹ جولائی ۱۹۰۶ء "میاں منظور محمد صاحب کے اُس بیٹے کے نام جو بطور نشان ہوگا بذریعہ ہمام الہی مفصلہ ذیل معلوم ہوئے:-

(۱) کلمۃ العزیز (۲) کلمۃ اللہ خاں (۳) وارڈ (۴) بشیر الدولہ (۵) شادی خاں (۶) عالم کباب  
(۷) ناصر الدین (۸) فاتح الدین (۹) ہذا ایوم مبارک۔

ابد جلد ۲ نمبر ۲۵ مورخہ ۲۱ جون ۱۹۰۶ء صفحہ ۲۳ الحکم جلد ۱۰ نمبر ۲۲ مورخہ ۲۳ جون ۱۹۰۶ء صفحہ ۱۱

۸ جولائی ۱۹۰۶ء " (۱) اَدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكَ (۲) اِنِّيْ مَعَ الْاَفْوَاْجِ اَيْتِكَ بِنِعْمَةٍ  
(بد جلد ۲ نمبر ۲۶-۲۸ مورخہ ۱۲ جولائی ۱۹۰۶ء صفحہ ۲۰ الحکم جلد ۱۰ نمبر ۲۲ مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۶ء صفحہ ۱۰)

۸ جولائی ۱۹۰۶ء "میرالترک مبارک احمد خسرو کی بیماری سے سخت گھبراہٹ اور اضطراب میں تھا۔ ایک رات تو شام سے صبح تک تڑپ تڑپ کر اُس نے سبک کی اور ایک دم چند نہ آئی اور دوسری رات میں اُس سے سخت تر آثار ظاہر ہوئے اور بیہوشی میں اپنا بوٹیاں توڑتا تھا اور ہڈیاں کرتا تھا اور ایک سخت غارش بدن میں تھی۔ اس وقت میرادل درد مند ہوا اور الہام ہوا:-

اَدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكَ

تب معاذ اللہ کے بعد مجھے کشفی حالت میں معلوم ہوا کہ اس کے بستر پر چوہوں کی شکل پر بہت سے جانور پڑے ہیں اور وہ اُس کو کاٹ رہے ہیں اور ایک شخص اُٹھا اور اُس نے تمام وہ جانور اکٹھے کر کے ایک چادر میں باندھ دیئے اور کہا اس کو باہر پھینک آؤ اور پھر وہ کشفی حالت جاتی رہی اور میں نہیں جانتا کہ پہلے وہ کشفی حالت دُور ہوئی یا پہلے مرض دُور ہوگئی اور لڑکا فزیک آرام سے سویا رہا۔

(حقیقت الوحی صفحہ ۸۸، ۸۹ حاشیہ روحانی خزائن جلد ۲۲ صفحہ ۱۹، ۲۰ حاشیہ ۵)

۱ Word (کلمہ) ۲ (ترجمہ از مرتب) یہ مبارک دن ہے۔

۳ (ترجمہ ۱۱) مجھ سے دعا مانگ نہیں قبول کروں گا (۲۷) میں فرجوں سمیت تیرے پاس اچانک آؤں گا۔ (ہر دو الحکم)

۴ (ترجمہ از مرتب) میرے حضور دعا کرو و میں تماری دعا قبول کروں گا۔

۵ بد جلد ۲ نمبر ۲۶-۲۸ مورخہ ۱۲ جولائی ۱۹۰۶ء صفحہ ۲۰ الحکم جلد ۱۰ نمبر ۲۲ مورخہ ۲۳ جولائی ۱۹۰۶ء صفحہ ۱۱ پر یہ الہام

۸ جون ۱۹۰۶ء کا لکھا گیا ہے جو درست نہیں۔ صحیح تاریخ ۸ جولائی ۱۹۰۶ء ہے جو حقیقت الوحی میں درج ہے۔ (ترجمہ)

تذکرہ مجموعہ وحی والہامات صفحہ 537 طبع چہارم از مرزا قادیانی یہ حوالہ صفحہ 222 پر درج ہے

مُسْمَىٰ بِعَمْرٍأ نَصْرًا عَجِيبًا وَيَخْرُونَ عَلَى الْأَذْقَانِ -  
 کے زلزلہ کے ظہور میں ایک وقت متروک تاخیر کرونگے تب تو ایک عجیب مدد دیکھے گا اور تیرے مخالف ٹھوڑیوں پر گریں گے یہ کہتے  
 رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ - يَا نَسِيتَ اللَّهُ كُنْتُ لَا أَعْرِفُكَ -  
 ہوئے کہ اسے خدا ہمیں بخش اور ہمارے گناہ معاف کر ہم غلط تھے اور زمین کہے گی کہ اسے خدا کے نبی میں تجھے شناخت نہیں  
 لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ بِغَفْرِ اللَّهِ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ -  
 کرتی تھی اسے خطا کارو! آج تم پر کوئی ملامت نہیں خدا تمہارے گناہ بخش دے گا۔ وہ ارحم الراحمین ہے۔  
 كَلَّطَ بِالنَّاسِ وَتَرَحَّمْ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ بِمَنْزِلَةِ مُوسَى - يَأْتِي  
 لوگوں کے ساتھ نطف اور مدارات سے پیش آؤ تو مجھ سے بمنزلہ موسیٰ کے ہے۔ تیرے پر

لے پہلے یہ وحی اتری ہوئی تھی کہ وہ زلزلہ جو نمونہ قیامت ہوگا بہت جلد آنے والا ہے اور اس کے لئے یہ نشان دیا گیا تھا  
 کہ پیر منظور محمد کدھانوی کی بیوی محمدی بیگم کو لڑکا پیدا ہوگا اور وہ لڑکا اس زلزلہ کے ظہور کے لئے ایک نشان ہوگا اس لئے  
 اس کا نام بشیر اللہ ہوگا کیونکہ وہ ہماری ترقی سلسلہ کے لئے بشارت دے گا۔ اس طرح اس کا نام عالم کباب ہوگا کیونکہ اگر لوگ  
 توبہ نہیں کریں گے تو بڑی بڑی آفتیں دنیا میں آئیں گی۔ ایسا ہی اس کا نام کلمۃ اللہ اور کلمۃ العزیز ہوگا کیونکہ وہ خدا کا کلمہ ہوگا جو  
 وقت پر ظہور ہوگا اور اس کے لئے اور نام بھی ہوں گے مگر بعد اس کے میں نے دعا کی کہ اس زلزلہ نمونہ قیامت میں کچھ تاخیر ہوا  
 دی جائے۔ اس دعا کا اللہ تعالیٰ نے اس وحی میں خود ذکر فرمایا اور جواب بھی دیا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے رَبِّ اٰخِرَةُ وَقْتِ  
 هٰذَا - اٰخِرَةُ اللّٰهِ اِلٰى وَقْتِ مُسْمَىٰ - یعنی خدا نے دعا قبول کی کہ اس زلزلہ کو کسی اور وقت پر ڈال دیا ہے اور یہ  
 وحی اللہ تقریباً چار ماہ سے اخبار بدر اور انجم میں چھپ کر شائع ہو چکی ہے۔ اور چونکہ زلزلہ نمونہ قیامت آنے میں تاخیر ہو گئی  
 اس لئے ضرور تھا کہ لڑکا پیدا ہونے میں بھی تاخیر ہوئی۔ لہذا پیر منظور محمد کے گھر میں ۱۷ جولائی ۱۹۷۹ء میں بروز شنبہ لڑکی  
 پیدا ہوئی اور یہ دعا کی قبولیت کا ایک نشان ہے اور نیز وحی اللہ کی پچاسی کا ایک نشان ہے جو لڑکی پیدا ہونے سے تقریباً چار ماہ پہلے  
 شائع ہو چکی تھی مگر یہ ضرور ہوگا کہ درجہ کے زلزلے آتے رہیں گے اور ضرور ہے کہ زمین نمونہ قیامت زلزلہ سے رک رہے جب تک  
 وہ موعود لڑکا پیدا ہو۔ یاد رہے کہ یہ خدا تعالیٰ کی بڑی رحمت کی نشانی ہے کہ لڑکی پیدا کر کے آئندہ بلا یعنی زلزلہ  
 نمونہ قیامت کی نسبت تسلی دے دی کہ اس میں بموجب وعدہ اٰخِرَةُ اللّٰهِ اِلٰى وَقْتِ مُسْمَىٰ ابھی  
 تاخیر ہے۔ اور اگر ابھی لڑکا پیدا ہو جاتا تو ہر ایک زلزلہ اور ہر ایک آفت کے وقت سخت غم  
 اور اندیشہ دامنگیر ہوتا کہ شاید وہ وقت آگیا اور تاخیر کچھ اعتبار نہ ہوتا۔ اور اب تو تاخیر ایک شرط  
 کے ساتھ مشروط ہو کر معین ہو گئی۔ عنہ (حقیقۃ الہی صفحہ ۱۰۰ حاشیہ)۔ روحانی خزائن جلد ۲۲ صفحہ ۱۰۴ حاشیہ  
 لے نقل مطابق اصل (مرتب)

پھر ماسواہس کے اگر اس وجہ سے انکار کیا جاتا ہے کہ یہ امر خارق عادت ہے۔ تو کیا بوجب اصول آدیوں کے وید کے بعد اللہ مانی ہونا یہ خارق عادت امر نہیں ہے پس جبکہ لیکر ہم کی موت نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ وہ قادر خدا اس زمانہ میں بھی برخلات وید کے مقرر کردہ قانون قدرت کے اللہ مانی کرنا ہے تو وید کا سارا قانون قدرت دریا بڑ ہو گیا اس صورت میں وید کی بات کا کوئی بھی اعتبار نہ رہا۔ ظاہر ہے کہ جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا اور اگر لیکر ہم والی پیش گوئی سے تسلی نہیں ہوتی تو پھر درخواست کرنے سے اور کوئی ذریعہ تسلی کا پیدا ہو سکتا ہے اور خدا تسلے کی عدل اللہ مانی پیشگوئیاں جو پوری ہو چکی ہیں تسلی دے سکتی ہیں غرض وید کا قانون قدرت ایسا جھوٹا ثابت ہوا کہ ساتھ ہی وید کو بھی لے ڈوبا۔ پھر اسی بنا پر اعتراض کرنا صحیح سے بعید ہے۔ ظاہر ہے کہ وید نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کے بعد خدا کی قوت تکمیل ہمیشہ کے لئے مسلوب رہے گی مگر ہم نے چکے ہوئے نشانوں کے ساتھ ثابت کر دیا کہ وید نے جو کچھ دعویٰ کیا ہے اور جو کچھ آئندہ کے لئے خدا کے اللہ مانی کے بارہ میں لکھا ہے کہ وہ محال اور قانون قدرت کے برخلاف ہے وہ سہرا مہر جھوٹ اور خلاف حق ہے بلکہ خدا ہمیشہ اپنے بندوں کو اللہ مانی کرنا ہے تو پھر بتلاؤ کہ اس کے بعد بارہ اسی وید کو پیش کرنا جس کے قانون قدرت کا تو ہم دیکھ چکے ہیں۔ کس قدر خلاف حیا و شرم ہے۔

غرض لیکر ہم کی موت نے ثابت کر دیا کہ وید کی یہ تعلیم سہرا مہر غلط ہے کیا اس کے بعد اللہ مانی نہیں ہے تو پھر وید کے مقرر کردہ قانون قدرت پر اعتبار کیا رہا۔ خدا تعالیٰ کے کروڑوں قانون قدرت ابھی مخفی ہیں اور آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہے ہیں مگر افسوس ان لوگوں پر کہ دانستہ آنکھ بند کر لیتے ہیں اگر یورپ کا کوئی شخص یہ بات ظاہر کرے کہ میں تیر میں سے پانی نکال سکتا ہوں یا تمام تیر کو پانی بنا سکتا ہوں تو اس کے مقابل پر یہ لوگ دم بھی نہ ماریں اور فی غفور آمنتاً و صدقاً کہنے لگیں مگر خدا کے کلام نے جو کچھ بیان کیا اس کو نہیں مانتے۔

ترجمہ میں کیسے تمام تعریفیں اُس خدا کیلئے ہیں جو پابا ہے۔ اور درود اس رسول مقبول پر جو یوم الحساب کا شیعہ ہے اور نیز اس کی آل اور اصحاب پر۔ اور تم پر سلام اور ہر ایک پر جو راہ صواب میں گزشتہ کرنا والا ہو۔ اس کے بعد صحیح ہو کہ مجھے آپ کی وہ کتاب پہنچی جس میں مہالہ کیلئے جواب طلب کیا گیا ہے اور اگرچہ میں عدیم الفرست تھا تاہم میں نے اس کتاب کی ایک جُز کو جو حسن خطاب اور طریقی کتاب پر مشتمل تھی پڑھی ہے سوائے ہر ایک سے جو عزت تھی معلوم ہو کہ میں ابتداء سے تیرے لئے تعظیم کرنے کے مقام پر کھڑا ہوں۔ تا مجھے ثواب حاصل ہو اور کبھی میری زبان پر بجز تعظیم اور تکریم اور رعایت آداب کے تیرے حق میں کوئی کلمہ جاری نہیں ہوا۔ اور اب میں مطلع کیا ہوں کہ میں بلاشبہ تیرے نیک حال کا معترف ہوں۔ اور میں یقین رکھتا ہوں کہ تو خدا کے صالح بندوں میں سے ہے اور تیری سعی عند اللہ قابل شکر ہے جس کا اجر ملیگا اور خدا نے بخشیدہ بادشاہ کا تیرے پر فضل ہے۔ میرے عاقبت بالغیر کی دعا کرو اور میں آپ کے لئے انجام خیر و خوبی کی دعا کرتا ہوں۔ اگر مجھے طول کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں زیادہ لکھتا۔ والسلام علی من سلک سبیل الصواب۔ من مقام چھاپڑاں

## ایک پیشگوئی کا پورا ہونا

ہو کہ حدیث صحیح میں آپ کا ہے کہ ہمدی موعود کے پاس ایک بچی ہوئی کتاب ہوگی جس میں اس کے تین سو تیرہ<sup>۳۱۳</sup> صاحب کا نام درج ہوگا۔ اس لئے یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ وہ پیشگوئی آج پوری ہو گئی۔ یہ تو ظاہر ہے کہ پہلے اس سے اس امت مرحومہ میں کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا کہ جو ہمدویت کا مدعی ہوتا اور اس کے وقت میں چھاپہ خانہ بھی ہوتا۔ اور اس کے پاس ایک کتاب بھی ہوتی جس میں تین سو تیرہ نام لکھے ہوئے ہوتے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر یہ کام انسان کے اختیار میں ہوتا تو اس سے پہلے کئی بھونٹے اپنے تئیں اس کا مصداق بنا سکتے مگر اصل بات یہ ہے کہ خدا کی پیشگوئیوں میں ایسی فوق العادہ شرطیں ہوتی ہیں کہ کوئی مجھوٹا انسان نالذہ نہیں بنا سکتا۔ اور اس کو وہ مسلمان اور اسباب مظاہر نہیں کئے جاتے جو پچھلے کو عطا کئے جاتے ہیں۔

شیخ علی حمزہ بن علی بنک الطوسی اپنی کتاب خواہر الاسرار میں جو سنہ ۱۰۰۰ میں تالیف ہوئی تھی ہمدی موعود کے بارے میں مندرجہ ذیل عبارت لکھتے ہیں۔ "دار البین آئندہ است کہ خروج ہمدی

از قریبہ کہ غرہ باشد۔ قل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج المہدی من قریبۃ یقاتل اہلکد عمرو  
 یصدقہ اللہ تعالیٰ ویمجع اصحابہ من اقصى البلاد علی عدۃ اہل ید بثلاث مائۃ  
 وثلاثۃ عشر رجلاً ومعہ صحیفۃ مختومۃ (رای مطبوعت) فیہا عدد اصحابہ  
 باسمائہم وبلادہم وخیالہم یعنی ہدی اس گاؤں کھلیگا جس کا نام کہ ہے یہ نام دراصل تادیان  
 نام کو عرب کیا ہوا ہے اور پھر فرمایا کہ خدا اس ہدی کی تصدیق کریگا۔ اور دوسرے اس کے دوت جمع کریگا جو کاشان  
 کے شمار سے برابر ہوگا یعنی تین تو تیرہ ہونگے اور ان کے نام بقید مسکن وخصلت چھپی ہوئی کتاب میں درج ہوں گے۔  
 اب ظاہر ہے کہ کسی شخص کو پہلے اس سے یہ اتفاق نہیں ہوا کہ وہ ہدی کو خود ہونے کا دعویٰ کرے اور اس کے پاس  
 چھپی ہوئی کتاب جو میں اس کے دوستوں کے نام ہوں لیکن میں پہلے اس سے بھی ایسیہ کمالات اسلام میں تین تو تیرہ نام  
 درج کرچکا ہوں اور اب بارہا تمام حجت کھیلنے تو تیرہ نام قبل میں درج کرتا ہوں تاہر یک منصف کچھ لے کر یہ پیشگوئی بھی میر  
 ہی تھی میں پوری ہوئی اور بوجہ منشا حدیث کے یہ سنا کر دینا پہلے سے ضروری ہے کہ یہ تمام اصحاب خصلت صدق مسافر کھتے ہیں  
 اور حسب مراتب جن کے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے بعض بعض سے بخت اور انقطاع الی اللہ اور سرگرمی دین میں بخت لینگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ  
 سب کو نبی رضا کی راہوں میں ثابت قدم کرے اور وہ یہ ہیں۔

۱۱۔ منشی جلال الدین صاحب پشتر سابق میرنشی جریٹ	۲۱۔ مولوی غلام علی صاحب ڈی رہتاس۔ جہلم	۳۰۔ میاں جمال الدین سکوا گروہ پور صاحبیت
نمبر ۱۶۔ موضع بلانی کھدلیاں۔ ضلع گوجرات	۱۵۔ میاں نبی بخش حصار نوگر۔ امرتسر	۳۱۔ میاں خیر الدین
۱۷۔ مولوی حافظ فضل دین صاحب	۱۸۔ میاں عبدالحق صاحب	۳۲۔ میاں امام الدین
۱۸۔ میاں محمد دین شہواری بلانی	۱۹۔ میاں قطب الدین خٹک صاحب گرا	۳۳۔ میاں عبدالعزیز شہواری
۱۹۔ قاضی دوست علی نعمانی صاحبیت تیشہ صاحب	۲۰۔ مولوی ابوالیونس صاحب قیلاو دکن	۳۴۔ منشی غلام دین۔ رہتاس۔ جہلم
۲۰۔ میاں امین بیگ صاحب اہل بیت بہاولپور	۲۱۔ مولوی حاجی حافظ سکیم لور دین صاحب	۳۵۔ قاضی ضیاء الدین صاحب۔ قاضی کوئی
۲۱۔ مولوی تقی الدین صاحب بدولی سیالکوٹ	ہر روزہ۔ بھیرو۔ ضلع شاہ پور	۳۶۔ میاں عبدالرشید صاحب شہواری۔ سنوری
۲۲۔ منشی روزا صاحب۔ کپور تھلہ	۲۲۔ مولوی سید محمد حسن صاحب امرہ ضلع ملوٹا	۳۷۔ شیخ عبدالرحیم صاحب نو مسلم سابق
۲۳۔ میاں محمد رضا صاحب۔	۲۳۔ مولوی حاجی تقی محمد فضل دین صاحب بدولی گوجر	۳۸۔ لیس دقندار رسالہ ۱۲ چھاؤنی سیالکوٹ
۲۴۔ منشی قلم محمد صاحب۔	۲۴۔ صاحبزادہ محمد سرور صاحب جانی اعلیٰ تادیان	۳۸۔ مولوی مبارک علی صاحب امام
۲۵۔ منشی عبدالرحمن صاحب۔	سابق سرسوی صاحبہ اہلیت	۳۹۔ میرزا نذیر بیگ صاحب کلانوی
۲۶۔ منشی فیاض علی صاحب۔	۲۵۔ سید ناصر نوب صاحب بلوری۔ محل تادیان	۴۰۔ میرزا یعقوب بیگ صاحب
۲۷۔ مولوی عبدالکریم صاحب۔ سیالکوٹ	۲۶۔ صاحبزادہ فقار احمد صاحب سیالوی صاحبیت	۴۱۔ میرزا الوب بیگ صاحب صاحبہ اہلیت
۲۸۔ سید محمد شاہ صاحب	۲۷۔ صاحبزادہ منظور محمد صاحب اہلیت	۴۲۔ میرزا خدایت بخش صاحب۔ جہنگ
۲۹۔ منشی وزیر الدین صاحب کاکڑہ	۲۸۔ حافظہ صاحبی مولوی احمد شہ خان صاحبیت	۴۳۔ سرکار نوب محمد عظیم صاحب تادیان
۳۰۔ منشی گوہر علی صاحب جالندھر	۲۹۔ شیخ محمد الرحمن صاحب سیالوی صاحبیت	۴۴۔ سید محمد عسکری صاحب تادیان

انجام آقتم [ضمیمہ] صفحہ 41 مندرجہ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 324، 325 از مرزا قادیانی یہ حوالہ صفحہ 224 پر درج



ازالہ اوہام

۵۳۷

حصہ دوم

(۲۵) جی فی اللہ میاں عبدالحق خلف عبد السمیع۔ یہ ایک اولاد جوہر کا مخلص اور سچا ہمدرد اور محض شدت محبت رکھنے والا دوست اور فریب مزاج ہے۔ دین کو ابتداء سے غریبوں سے مناسبت ہے کیونکہ غریب لوگ تکبر نہیں کرتے اور پوری تواضع کے ساتھ حق کو قبول کرتے ہیں۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ دولت مندوں میں ایسے لوگ بہت کم ہیں کہ اس سعادت کا عشر بھی حاصل کر سکیں جس کو غریب لوگ کامل طور پر حاصل کر لیتے ہیں فطرتی لغزبہ میاں عبدالحق باوجود اپنے افلاس اور کمی قدرت کے ایک عاشق صادق کی طرح محض شدت خدمت کرتا رہتا ہے اور اس کی یہ خدمات اس آیت کا مصداق اس کو ظہر ازہی ہیں یو ثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصة۔

۸۰۵

(۲۶) جی فی اللہ شیخ رحمت اللہ صاحب گجراتی۔ شیخ رحمت اللہ جو ان مصالح بیک رنگ آدمی ہے۔ ان میں فطرتی طور پر مادہ اطاعت اور اخلاص اور حسن ظن اس قدر جس کی برکت سے وہ بہت سی ترقیات اس راہ میں کر سکتے ہیں۔ ان کی مزاج میں غربت اور زویب بھی از حد ہے اور ان کے بشرہ سے علامات سعادت ظاہر ہیں۔ حتی الوسع وہ خدمات میں لگے رہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کاشکاش مکروہات سے انہیں بچا کر اپنی محبت کی صلاوت سے حصہ وافر بخشے۔ آمین ثم آمین

(۲۷) جی فی اللہ عبدالحکیم خلیل جوان صالح ہے۔ علامات رشد و سعادت اس کے چہرے سے نمایاں ہیں۔ زیرک اور فہیم آدمی ہے۔ انگریزی زبان میں عمدہ مہارت رکھتے ہیں میں امید رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کئی خدمات اسلام ان کے ہاتھ سے پوری کرے۔ وہ باوجود زمانہ طالب علمی اور تفرقہ کی حالت کے ایک روپیہ ماہواری بطور چندہ اس سلسلہ کے لئے دیتے ہیں اور ایسا ہی ان کا دوست خلیفہ رشید الدین صاحب صاحب ایک اہل آدمی اور انہیں کے ہم رنگ ہیں اسی قدر چندہ محض قہی محبت کے جوش سے ماہ بساہ ادا کرتے ہیں۔ جزا ہم اللہ خیر الجواد۔

۱۰۱



بے خوف ہو کر اس پر جھوٹ باندھتا ہوں اور اس کی مخلوق کے ساتھ بھی میرا یہ معاملہ ہے کہ میں لوگوں کا مال بددیانتی اور حراغوری کے طریق سے کھاتا ہوں اور خدا کی مخلوق کو اپنی بدکرداری اور نفس پرستی کے جوش سے دکھاتا ہوں تو اس صورت میں تم آپ کو اراوں سے بڑھ کر نزل کے لائق ہوں تاوگ میرے قہذ سے نجات پاویں۔ اور اگر میں ایسا نہیں ہوں جیسا کہ میاں عبدالحکیم خان نے سمجھا ہے تو میں اُمید رکھتا ہوں کہ خدا مجھ کو ایسی ذات کی موت نہیں دیگا کہ میرے آگے ہی لعنت اور میرے پیچھے بھی۔ میں خدا کی آنکھ سے مخفی نہیں۔ مجھے کون جانتا ہے مگر وہی۔ اس لیے میں اس وقت دونوں پیشگوئیوں یعنی میاں عبدالحکیم خان کی میری نسبت پیشگوئی اور اس کے مقابل پر جو خدا نے میرے پر ظاہر کیا ذیل میں لکھتا ہوں اور اس کا انصاف خدا سے قادر پر چھوڑتا ہوں اور وہ یہ ہیں۔

میاں عبدالحکیم خان صاحب اسسٹنٹ سرجن پٹیالہ کی میری نسبت پیشگوئی جو انوریم مولوی نور الدین صاحب کی طرف اپنے خط میں لکھتے ہیں۔ ان کے اپنے الفاظ یہ ہیں۔

”مرزا کے خلاف ۱۲ جولائی ۱۹۰۶ء کو یہ اہامات ہوئے ہیں۔ مرزا صرف کذاب اور عیار ہے۔ صادق کے سامنے شرم بر فنا ہو جائے گا اور اس کی معاذ تین سال بتائی گئی ہے۔“

اس کے مقابل پر وہ پیشگوئی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے میاں عبدالحکیم خان صاحب اسسٹنٹ سرجن پٹیالہ کی نسبت مجھے معلوم ہوئی۔ جس کے الفاظ یہ ہیں۔

”خدا کے مقبولوں میں قبولیت کے نونے اور ملائیں ہوتی ہیں اور وہ سلامتی کے شہزادے کلاتے ہیں۔ ان پر کوئی غالب نہیں آسکتا فرشتوں کی کھینچی ہوئی تلوار تیرے آگے ہے۔ پھر تونے وقت کو پہنچانا نہ دیکھا“

۱۔ اس میں میاں عبدالحکیم خان نے خدا کے اس لفظ بیان نہیں کئے بلکہ یہ کہا کہ تین سال معاذ بتائی گئی۔ نہ

۲۔ خدا تعالیٰ کا یہ فقرہ کہ وہ سلامتی کے شہزادے کہتے ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے عبدالحکیم خان کے اس فقرہ کا رد ہے کہ جو بکے کذاب اور شریر قرار دیکر لکھتا ہے کہ صادق کے سامنے شرم بر فنا ہو جائیگا۔ گو میں کذاب ہوں اور وہ صادق اور وہ مرد صالح ہے اور میں شریر اور خدا تعالیٰ اس کے رد میں فرماتا ہے کہ جو خدا کے خاص لوگ ہیں وہ سلامتی کے شہزادے کلاتے ہیں۔ ذات کی موت اور ذات کا عذاب ان کو نصیب نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہو تو دنیا تباہ ہو جائے اور صادق اور کذاب میں کوئی افرار حق نہ رہے۔ نہ

۳۔ اس فقرہ میں عبدالحکیم خان مخاطب ہے اور فرشتوں کی کھینچی ہوئی تلوار سے آسمانی عذاب ملو رہے کہ جو بغیر ذریعہ انسانی ہاتھوں کے ظاہر ہوگا۔

۴۔ میں تونے یہ غور نہ کی کہ کیا اس زمانہ میں اور اس نازک وقت میں امت محمدیہ کے لیے کسی دجال کی ضرورت ہے یا کسی مصلح اور مجدد کی۔

خصوصیتِ اسلام

۳۲۶

پشتر معرفت

غلام دستگیر تھا اور میلو می کہلاتا تھا اُس نے مجھے کاذب ٹھہرا کر دُعا کے ذریعے سے میری ہلاکت چاہی اور جھوٹے پر خدا کا عذاب مانگا اور اس بارہ میں ایک رسالہ بھی لکھا مگر اس رسالہ کو ابھی شائع کرنا نہ پایا تھا کہ وہ اپنی اسی بددعا کے اثر سے ہلاک ہو گیا اور اُس کا تمام کارخانہ بگڑ گیا۔

ایسا ہی مسلمانوں میں سے ایک اور شخص اٹھا جس کا نام چمرانغ دین تھا اور جنہوں کا کہنے والا تھا اور اُس نے مجھے دجال ٹھہرایا اور میری ہلاکت کی خبر دی۔ تب خدا نے اپنی وحی سے مجھے مطلع کیا کہ وہ طاعون سے ہلاک کیا جائے گا اور ایسا ہوا کہ ابھی اُس نے اپنے مبارک کا مقصد لکھنے کے لئے کاتب کو دیا تھا کہ اسی رات طاعون میں مبتلا ہو کر اس جہان سے گزر گیا۔

ایسا ہی ایک شخص فقیر مرزا نام جو اپنے تئیں اولیاء اللہ میں سے سمجھتا تھا اور اُس کے بہت مرید تھے میرے مقابل پر کھڑا ہوا اور دعوت سے کیا کہ خدا نے مجھے عرش سے خبر دی ہے کہ آئندہ رمضان تک یہ شخص یعنی یہ عاجز طاعون سے ہلاک ہو جائے گا۔ پس جب رمضان کا مہینہ آیا تو خود طاعون سے ہلاک ہو گیا۔

اسی طرح ایک نہایت کینہ ور اور گندہ زبان شخص سعد اللہ نام لدھیانہ کا رہنے والا میری ایذا کے لئے کمر بستہ ہوا اور کسی کتاب میں نثر اور نظم میں گالیوں سے بھری ہوئی تالیف کر کے اور چھپوا کر میری توہین اور تکذیب کی غرض سے شائع کیں اور پھر اسی پر اکتفا نہ کر کے آخر کار مبارک کیا اور ہم دونوں فریق کو یعنی مجھے اور اپنے تئیں خدا کے سامنے پیش کر کے جھوٹے کی موت خدا سے چاہی آخر تھوڑے دن بعد ہی طاعون سے ہلاک ہوا۔

ایسا ہی کسی اور دشمن مسلمانوں میں سے میرے مقابل پر کھڑے ہو کر ہلاک ہوتے اور اُن کا نام و نشان نہ رہا۔ ہاں آخری دشمن اب ایک اور پیدا ہوا ہے جس کا نام عبدالحمید خان ہے اور وہ ڈاکٹر ہے اور ریاست پٹیالہ کا رہنے والا ہے جس کا دعویٰ ہے کہ میں

۳۲۷

]

اُس کی زندگی میں ہی ۲۱ اگست ۱۹۰۸ء تک ہلاک ہو جاؤں گا۔ اور یہ اُس کی سچائی کے لئے ایک نشان ہو گا۔ یہ شخص الہام کا دعویٰ کرتا ہے اور مجھے دعوائی اور کافر اور کذاب قرار دیتا ہے۔ پہلے اُس نے بیعت کی اور برابر ہمیشہ برس تک میرے مریدوں اور میری جماعت میں داخل ہوا پھر ایک نصیحت کی وجہ سے جو میں نے محض لٹا اُس کو کی تھی مرتد ہو گیا۔ نصیحت یہ تھی کہ اُس نے یہ مذہب اختیار کیا تھا کہ بغیر قبول اسلام اور پیروی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نجات ہو سکتی ہے۔ گو کوئی شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی خبر بھی رکھتا ہو۔ چونکہ یہ دعویٰ باطل تھا اور عقیدہ جمہور کے بھی برخلاف اس لئے میں نے منع کیا مگر وہ باز نہ آیا آخر میں نے اُسے اپنی جماعت سے خارج کر دیا۔ تب اُس نے یہ پیشگوئی کی کہ میں اُس کی زندگی میں ہی ۲۱ اگست ۱۹۰۸ء تک اُس کے سامنے ہلاک ہو جاؤں گا۔ مگر خدا نے اُس کی پیشگوئی کے مقابل پر مجھے خبر دی کہ وہ خود عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور خدا اُس کو ہلاک کرے گا اور میں اُس کے شر سے محفوظ رہوں گا۔ سو یہ وہ مقدمہ ہے جس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بلاشبہ یہ سچ بات ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی نظر میں صادق ہے خدا اُس کی مدد کرے گا۔

یہ تو بطور نمونہ وہ نشان لکھے گئے ہیں جو دشمنوں کے متعلق تھے لیکن میں مناسب دیکھتا ہوں کہ کچھ نمونہ کے طور پر وہ نشان بھی لکھے جائیں کہ جو دوستوں کے متعلق ہیں اور وہ یہ ہیں (۱)

ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ میرے ایک مخلص دوست ہیں جن کا نام ہے حافظ مولوی حکیم نور الدین ان کا ایک بیٹا تھا وہ فوت ہو گیا۔ تب ایک شریر دشمن نے اپنے ایک اشتہاد کے ذریعے سے اس لڑکے کی موت پر بڑی خوشی ظاہر کی اور مولوی صاحب ممدوح کا نام ابتر رکھا۔ میرا دل اس ایذا سے سخت بیقرار ہو گیا میں نے بہت تضرع سے جناب الہی میں مولوی صاحب موصوف کے لئے دعا کی تب مجھے الہام ہوا کہ ایک لڑکا پیدا ہو گا اور

ہونے لگے حضرت مسیح موعودؑ کی شروع کی کتابوں میں کسی ایسی تحریر کو پڑھیں جس میں لکھا ہو کہ میرے انکار سے کفر لازم نہیں آتا تو ہم کو دھوکا نہ کھانا چاہیے کیونکہ بعد میں حضرت مسیح موعودؑ کی اس رائے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے الہام سے بلدیابیس لکھ خود حضرت مسیح موعودؑ جہاں لکھنؤ میں آتے کے ایک خط کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں:-

”بہر حال جبکہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو مری عت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے اور خدا کے نزدیک قابل مواخذہ ہے تو یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ اب میں ایک شخص کے کہنے سے جس کا دل ہزاروں تارکیوں میں مبتلا ہے خدا کے حکم کو چھوڑوں۔ اس سے سہل تر بات یہ ہے کہ ایسے شخص کو اپنی جماعت سے خارج کرتا ہوں۔ اں اگر کسی وقت مرجع الفاظ میں اپنی توجہ شائع کریں اور اس غیث عقیدہ سے باز آجاویں تو رحمت الہی کا دروازہ کھلے گا۔ وہ لوگ جو میری دعوت کے رد کرنے کے وقت قرآن شریف کی نصیحت کو چھوڑتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے کھلے کھلے نشانوں سے منہ پھیرتے ہیں انکو راستباز قرار دینا اس شخص کا کام ہے جس کا دل شیطان کے پنجے میں گرفتار ہے“

حضرت مسیح موعودؑ کی اس تحریر سے بہت سی باتیں حل ہو جاتی ہیں اولیٰ یہ کہ حضرت صاحب کو اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعہ اطلاع دی کہ تیرا انکار کرنے والا مسلمان نہیں اور نہ صرف یہ اطلاع دنی بلکہ حکم دیا کہ تو اپنے منکروں کو مسلمان نہ سمجھو دوسرے یہ کہ حضرت صاحب نے جہاں لکھنؤ کو جماعت سے اس واسطے خارج کیا کہ وہ غیر احمدیوں کو مسلمان کہتا تھا۔ تیسرے یہ کہ مسیح موعودؑ کے منکروں کو مسلمان کہنے کا عقیدہ ایک غیث عقیدہ ہے چوتھے یہ کہ جو ایسا عقیدہ رکھے اسکے لئے رحمت الہی کا دروازہ بند ہے۔ پانچویں یہ کہ جو شخص مسیح موعودؑ کی دعوت کو رد کرتا ہے وہ قرآن شریف کی نصیحت کو چھوڑتا ہے اور خدا کے کھلے نشانوں سے منہ پھیرتا ہے۔ چھٹے یہ کہ جو مسیح موعودؑ کے منکروں کو راستباز قرار دیتا ہے اس کا دل شیطان کے پنجے میں گرفتار ہے۔ اب کون ہے جو مسیح موعودؑ کی پہلی تحریر کو پیش کر کے آپ کے انکار کی اہمیت کو گرا نا چاہے۔ کیا وہ ایسے شخص کے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
مُحَمَّدًا وَآلِهِ وَسَلَّمَ

## خدا سے کاحامی ہوؤ

امید

اس امر سے اکثر لوگ واقف ہوں گے کہ ڈاکٹر عبدالکیم خاں صاحب جو تینٹا میں برس تک میرے سرپرستوں میں داخل رہے، چند دنوں سے مجھ سے برگشتہ ہو کر سخت مخالف ہو گئے ہیں اور اپنے رسالہ مسیح الدجال میں میرا نام کذاب مکار، فیضانِ دجال، شریر، عوام خور رکھا ہے اور مجھے خائن اور کلم پرست اور نفس پرست اور مُفسد اور مغتری اور خدا پرست قرار کھانے والا قرار دیا ہے اور کوئی ایسا عیب نہیں ہے جو میرے ذمہ نہیں لگایا۔ گویا جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے ان تمام بدیوں کا مجموعہ میرے سوا کوئی نہیں گذرا۔ اور پھر اسی پر کفایت نہیں کی بلکہ پنجاب کے بڑے بڑے شہروں کا دورہ کر کے میری عیب شماری کے بارہ میں لیکچر دیتے اور لاہور اور امرتسر اور لہیا اور دوسرے مقامات میں افواہ و ہتھام کی بدیل عام جلسوں میں میرے ذمہ لگاتے اور میرے وجود کو دُنیا کے لیے ایک خطرناک اور شیطان سے بدتر ظاہر کر کے ہر ایک لیکچر میں مجھ پر ہنسی اور ٹھٹھا اڑایا۔ غرض ہم نے اُس کے ہاتھ سے وہ دکھ اٹھایا جس کے بیان کی حاجت نہیں۔ اور پھر میاں عبدالکیم صاحب نے اسی پر بس نہیں کی بلکہ ہر ایک لیکچر کے ساتھ یہ پیشگوئی بھی صد آدھوں میں شائع کی کہ مجھے خدا نے الام کیا ہے کہ یہ شخص تین سال کے عرصہ میں فنا ہو جائے گا اور اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا کیونکہ کذاب اور مغتری ہے۔ میں نے اس کی ان پیشگوئیوں پر مہربا مگر آج جو ۱۲ اگست ۱۹۷۲ء ہے۔ پھر اس کا خط ہمارے دوست فاضل جلیل مولوی نور الدین صاحب کے نام آیا۔ اس میں بھی میری نسبت کئی قسم کی عیب شماری اور گالیوں کے بعد لکھا ہے کہ ۲ جولائی ۱۹۷۲ء کو خدا تعالیٰ نے اس شخص کے ہاک ہونے کی خبر مجھے دی ہے کہ اس تاریخ سے تین برس تک ہلاک ہو جائے گا۔ جب اس حد تک نسبت پہنچ گئی تو اب میں بھی اس بات میں کچھ مضائقہ نہیں دیکھتا کہ جو کچھ خدا نے اس کی نسبت میرے پر ظاہر فرمایا ہے میں بھی شائع کروں اور درحقیقت اس میں قوم کی بھلائی ہے کیونکہ اگر درحقیقت میں خدا تعالیٰ کے نزدیک کذاب ہوں اور پچیس برس سے دن رات خدا پرست قرار کر رہا ہوں اور اس کی عظمت اور جلالت سے

۶۴۳

بے خوف ہو کر اس پر جھوٹ باندھتا ہوں اور اس کی مخلوق کے ساتھ بھی میرا یہ معاملہ ہے کہ میں لوگوں کا مان بدویا تھی اور جزا خوردی کے مرتبی سے کھاتا ہوں اور خدا کی مخلوق کو اپنی بد کرداری اور نفس پرستی کے جوش سے دکھاتا ہوں تو اس صورت میں تم آج بد کرداروں سے بڑھ کر سزا کے لائق ہوں تاہم میرے نعت سے نجات پادیں۔ اور اگر میں ایسا نہیں ہوں جیسا کہ میں عبدالحکیم خان سے سمجھ رہا ہوں کہ خدا مجھ کو ایسی ذلت کی موت نہیں دینگا کہ میرے آگے ہی لعنت اور میرے پیچھے بھی۔ میں خدا کی آنکھ سے غفلت نہیں۔ مجھے کون جانتا ہے مگر وہی۔ اس لیے میں اس وقت دونوں پیشگوئیوں یعنی میاں عبدالحکیم خان کی میری نسبت پیشگوئی اور اس کے مقابل پر جو خدا نے میرے پر ظاہر کیا ذیل میں لکھتا ہوں اور اس کا انصاف خدا سے تو درہم چھوڑتا ہوں اور وہ یہ ہیں۔

میاں عبدالحکیم خان صاحب سسٹنٹ سرجن پٹیلہ کی میری نسبت پیشگوئی

جو فریم مونی نور الدین صاحب کی طرف اپنے خط میں لکھتے ہیں۔ ان کے اپنے الفاظ یہ ہیں۔

"مرزا کے خلاف ۱۲ جولائی ۱۹۰۳ء کو یہ اہمات ہوئے ہیں۔ مرزا صرف کذاب اور عیار ہے۔ صادق کے سامنے شہر برفنا ہو جائے گا اور اس کی مید و تین سال بتائی گئی ہے۔"

اس کے مقابل پر وہ پیشگوئی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے میاں عبدالحکیم خان صاحب سسٹنٹ

سرجن پٹیلہ کی نسبت مجھے معلوم ہوئی۔ جس کے الفاظ یہ ہیں،

"خدا کے مقبولوں میں قبولیت کے نمونے اور علامتیں ہوتی ہیں اور وہ سلامتی کے شہزادے کے کلمات ہیں۔ ان پر کوئی غالب نہیں آسکتا۔ فرشتوں کی کھینچی ہوئی توار تیرے آگے ہے۔ پرتو نے وقت کو پہنچانا نہ دیکھا"

۱۔ اس میں میاں عبدالحکیم خان نے خدا کے اہل نطق بیان نہیں کئے بکہ یہ کہہ کر تین سال بعد بتائی گئی۔ نہ

۲۔ خدا تعالیٰ کا یہ فقرہ کہ وہ سلامتی کے شہزادے کہتے ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے عبدالحکیم خان کے اس فقرہ کا رد ہے کہ جو بکے

کاذب اور فریب قرار دیکر لکھا ہے کہ صادق کے سامنے شہر برفنا ہو جائیگا۔ گویا میں کاذب ہوں اور وہ صادق اور وہ مرد صالح ہے اور میں شریر

اور خدا تعالیٰ اس کے رد میں فرماتا ہے کہ جو خدا کے خاص لوگ ہیں وہ سلامتی کے شہزادے کہلاتے ہیں۔ ذلت کی موت اور ذلت کا عذاب ان کو

نصیب نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہو تو دنیا تباہ ہو جاتے اور صادق اور کاذب میں کوئی افراتفری نہ ہے۔ نہ

۳۔ اس فقرہ میں عبدالحکیم خان مخاطب ہے اور فرشتوں کی کھینچی ہوئی توار سے آسمانی عذاب ملو ہے کہ جو بغیر ذریعہ انسانی ہاتھوں

کے ظاہر ہوگا۔

۴۔ جتنی تو نے یہ نمونہ کی کہ کیا اس زمین اور اس نازک وقت میں امت محمدیہ کے لیے کسی وجہ کی ضرورت ہے یا کسی اصلاح اور

مجدد کی۔

مجموعہ اشتہارات جلد دوم صفحہ 672, 673, 674 از مرزا قادیانی

یہ حوالہ صفحہ 226 پر درج ہے

۶۷۴

تذکارِ فرق بین صادق و کاذب۔ انت ترویج محل مصلح و صادق

المشتمل: میرزا غلام احمد مسیح موعود قادیانی

۱۹ اگست ۱۹۰۳ء مطابق ۲۳ جمادی الثانی ۱۳۲۳ھ

(یہ اشعار ۲۶۲۲ کے دو صفحوں پر ہے)

مطبوعہ نوالہ میڈیکل پریس قادیان دارالان

اور تحقیقہ الوقف میں بھی درج ہے

یعنی اسے میرے خدا صادق اور کاذب میں فرق کر کے دکھانا تو جانتا ہے کہ صادق اور مصیغ کون ہے۔ جس فقرہ کے  
میں عبد الکریم خاں کے اس قول کا رد ہے جو کہتا ہے کہ صادق کے سامنے شریعت ہو جائیگی جس پر کہ وہ اپنے تئیں صادق ٹھہرا  
ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ تو صادق نہیں ہے۔ یہ صادق اور کاذب میں فرق کر کے دکھلاؤں گا۔

یہ حوالہ صفحہ 226 پر درج ہے

مجموعہ اشتہارات جلد دوم صفحہ 672، 673، 674 از مرزا قادیانی

ضمیمہ ۲۵۴

۲۲۶

پیشہ معرفت

اُس کی زندگی میں ہی ۲۴ اگست ۱۹۰۵ء تک ہلاک ہو جاؤں گا۔ اور یہ اُس کی سچائی کے لئے ایک نشان ہو گا۔ یہ شخص الہام کا دعویٰ کرتا ہے اور مجھے دجال اور کافر اور کذاب قرار دیتا ہے۔ پہلے اُس نے بیعت کی اور باجوہ ہمیش برس تک میرے مریدوں اور میری جماعت میں داخل ہوا پھر ایک نصیحت کی وجہ سے جو میں نے محض لٹڈ اُس کو کی تھی مرتد ہو گیا۔ نصیحت یہ تھی کہ اُس نے یہ مذہب اختیار کیا تھا کہ بغیر قبول اسلام اور پیروی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تجات ہو سکتی ہے۔ گو کوئی شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی خبر بھی رکھتا ہو۔ چونکہ یہ دعویٰ باطل تھا اور عقیدہ جمہور کے بھی برخلاف اس لئے میں نے منع کیا مگر وہ باز نہ آیا آخر میں نے اُسے اپنی جماعت سے خارج کر دیا۔ تب اُس نے یہ پیشگوئی کی کہ میں اُس کی زندگی میں ہی ۲۴ اگست ۱۹۰۵ء تک اُس کے سامنے ہلاک ہو جاؤں گا۔ مگر خدا نے اُس کی پیشگوئی کے مقابل پر مجھے خبر دی کہ وہ خود عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور خدا اُس کو ہلاک کرے گا اور میں اُس کے شر سے محفوظ رہوں گا۔ سو یہ وہ مقدمہ ہے جس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے بلاشبہ یہ سچ بات ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی نظر میں صادق ہے خدا اُس کی مدد کرے گا۔

یہ تو بطور نمونہ وہ نشان لکھے گئے ہیں جو دشمنوں کے متعلق تھے لیکن میں مناسب دیکھتا ہوں کہ کچھ نمونہ کے طور پر وہ نشان بھی لکھے جائیں کہ جو دوستوں کے متعلق ہیں اور وہ یہ ہیں (۱)

ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ میرے ایک مخلص دوست ہیں جن کا نام ہے حسانظہ مولوی حکیم نور الدین اُن کا ایک بیٹا تھا وہ فوت ہو گیا۔ تب ایک شریر دشمن نے اپنے ایک اشتہار کے ذریعے اس لڑکے کی موت پر بڑی خوشی ظاہر کی اور مولوی صاحب ممدوح کا نام ابتر رکھا۔ میرا دل اس ایذا سے سخت بیقرار ہو گیا میں نے بہت تضرع سے جناب الہی میں مولوی صاحب موصوف۔ کہ لئے دعا کی تب مجھے الہام ہوا کہ ایک لڑکا پیدا ہو گا اور



ہو جو تیرے رب نے تجھے دشمن نہیں پکڑا۔ اور پھر اردو میں فرمایا کہ ہر ایک حال میں تمہارے ساتھ موافق ہوں اور

تیرے منشاء کے مطابق۔ اور پھر فرمایا:

لَكُمْ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَيْرٌ وَلَنْ نُفِئَنَّكُمْ وَفَتْحُ الشَّعْءِ اللَّهُ تَعَالَى. وَضَعْنَا لَكَ  
وَذَرَكْنَا الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. إِيَّا مَعَكَ ذَكَرْتُكَ  
فَأَذَكُرْتَنِي بِوَسْعِ مَكَانِكَ حَانَ أَنْ تُعَانَ وَتُزْفَعَ بَيْنَ النَّاسِ إِيَّا مَعَكَ يَا إِبْرَاهِيمُ  
إِيَّا مَعَكَ وَمَعَ أَهْلِكَ إِنَّكَ مَعِي وَأَهْلُكَ إِيَّا أَنَا الرَّحْمَانُ فَانْتَظِرْ تَقُلْ  
يَا خُذْكَ اللَّهُ -

یعنی تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں بشارت ہے۔ تیرا انجام نیک ہے۔ خیر ہے اور نصرت اور  
فتح انشاء اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم تیرا بوجھ اُتار دیں گے جس نے تیری کمر توڑ دی اور تیرے ذکر کو اونچا کر دیں گے  
میں تیرے ساتھ ہوں۔ میں نے تجھے یاد کیا ہے۔ سو تو مجھے بھی یاد کر اور اپنے مکان کو وسیع کر دے۔ وہ  
وقت آتا ہے کہ تو مرد دیا جائے گا اور لوگوں میں تیرا نام عزت اور بندی سے لیا جائے گا۔ میں تیرے ساتھ  
ہوں اسے ابراہیم اور ایسا ہی تیرے اہل کے ساتھ اور تو میرے ساتھ ہے اور ایسا ہی تیرے اہل کے ساتھ  
رحمان ہوں۔ میری مدد کا منتظر رہو اور اپنے دشمن کو کہہ دے کہ خدا تجھ سے مواخذہ لے گا۔ اور پھر آخر میں اردو میں  
فرمایا کہ میں تیری عمر کو بھی بڑھا دوں گا۔ یعنی دشمن جو کہتا ہے کہ صرف جولائی ۱۹۰۷ء سے چودہ مہینے تک تیری عمر  
کے دن رہ گئے ہیں ایسا ہی چودہ مہرے دشمن پیشگوئی کرتے ہیں ان سب کو میں جھوٹا کروں گا اور تیری عمر کو  
بڑھا دوں گا تا موصوم ہو کہ میں خدا ہوں اور ہر ایک امر میرے اختیار میں ہے۔

یعنی عظیم انسان پیشگوئی ہے جس میں میری فتح اور دشمن کی شکست اور میری عزت اور دشمن کی ذلت اور  
میرا اقبال اور دشمن کا ادبار بیان فرمایا ہے اور دشمن پر غضب اور عقوبت کا وعدہ کیا ہے۔ مگر میری نسبت  
کہا ہے کہ دنیا میں تیرا نام بلند کیا جائے گا اور نصرت اور فتح تیرے شامل حال ہوگی اور دشمن جو میری موت  
چاہتا ہے وہ خود میری آنکھوں کے رو برد اصحاب انجیل کی طرح نابود اور تباہ ہوگا۔ خدا ایک قہری تہمت کرے گا  
اور وہ جو جھوٹا اور سوغی سے باز نہیں آتے ان کی ذلت اور تباہی ظاہر کرے گا۔ مگر میری طرف ایک دنیا کو  
جھکا دے گا اور میرا نام عزت کے ساتھ دنیا کے ہر ایک کنارہ میں پھیلا دے گا۔ سو چاہیے کہ میری جماعت  
کے لوگ اس پیشگوئی کے منتظر رہیں اور تعوی و طہارت سے پاک نمونہ دکھائیں۔

اس پیشگوئی کے ساتھ پیشگوئی بھی ہے کہ ایک سخت طاعون اس ملک میں اور دوسرے ممالک میں بھی آنے  
والی ہے جس کی نظیر پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ وہ لوگوں کو درپاز کی طرح کر دے گی معلوم نہیں کہ اس سال یا آئندہ  
سال میں ظاہر ہوگی۔ مگر خدا مجھے مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ میں تجھے اور تمام ان لوگوں کو جو تیری چار دیواری کے

۶۶۶

۲۷۵

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

## تمام جماعت احمدیہ کے لئے اعلان

چونکہ ڈاکٹر عبدالکحیم اسسٹنٹ سرجن پٹیالہ نے جو پہلے اس سلسلہ میں داخل تھانہ صرف یہ کام کیا کہ ہماری تعلیم سے اور ان باتوں سے جو خدا نے ہم پر ظاہر کیں سو نہ پھیر لیا بلکہ اپنے خط میں وہ سختی اور گستاخی دکھلائی اور وہ گندے اور ناپاک الفاظ میری نسبت استعمال کئے کہ بجز ایک سخت دشمن اور سخت کینہ ور کے کسی کی زبان اور قلم سے نکل نہیں سکتے اور صرف اسی پر کفایت نہیں کی بلکہ بیجا ہتھیں لگائیں اور اپنے صریح لفظوں میں مجھ کو ایک حرام خور اور بندہ نفس اور شکم پرور اور لوگوں کا مال فریب سے کھانے والا قرار دیا اور محض تکبر کی وجہ سے مجھے پیروں کے نیچے پامال کرنا چاہا اور بہت سی ایسی گالیاں دیں جو ایسے مخالف دیا کرتے ہیں جو پورے جوش عداوت سے ہر طرح سے دوسرے کی ذلت اور توہین چاہتے ہیں اور یہ بھی کہا کہ پیشگوئیاں جن پر ناز کیا جاتا ہے کچھ چیز نہیں مجھ کو ہزار ہا ایسے الہام اور خواہش آتی ہیں جو پوری ہو جاتی ہیں۔ غرض اس شخص نے محض توہین اور تحقیر اور دل آزاری کے ارادہ سے جو کچھ اپنے خط میں لکھا ہے اور جس طرح اپنی ناپاک بد گوئی کو انتہا تک پہنچا دیا ہے ان تمام تہمتوں اور گالیوں اور عیب گیریوں کے لکھنے کے لئے اس اشتہار میں گنجائش نہیں علاوہ اس کے میری تحقیر کی غرض سے جھوٹ بھی پیٹ بھر کے بولا ہے مگر مجھے ایسے مفتری اور بد گو لوگوں کی کچھ پرواہ نہیں کیونکہ اگر جیسا

یہ حوالہ صفحہ 229 پر درج ہے

مجموعہ اشتہارات جلد دوم صفحہ 667، 668 طبع جدید از مرزا قادیانی

۶۶۸

کہ مجھے اس نے دعا باز حرام خور مکار فرعی اور جھوٹ بولنے والا قرار دیا ہے اور طریق اس ماوردیانت اور ہردی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر مجھے کرنا چاہا ہے اور میرے وجود کو محض فضول اور اسلام کے لئے مضر ٹھہرایا ہے۔ بلکہ مجھے محض حکم پرور اور دشمن اسلام قرار دیا ہے۔ اگر یہ باتیں سچ ہیں تو میں اس کیزے سے بھی بدتر ہوں جو نجاست سے پیدا ہوتا اور نجاست میں ہی مرتا ہے لیکن اگر یہ باتیں خلاف واقعہ ہیں تو میں اُمید نہیں رکھتا کہ خدا ایسے شخص کو اس دنیا میں بغیر مواخذہ کے چھوڑے گا جو مرید ہو کر اور پھر مرتد ہو کر اس درجہ تک پہنچ گیا ہے کہ جو ذلیل سے ذلیل زندگی بسر کرنے والے جیسے چوہڑے اور چمار جو حکم پرور کہلاتے ہیں اور فردا بکھانے سے بھی عار نہیں رکھتے ان کی مانند مجھے بھی محض حکم پرست اور بندہ نفس اور حرام خور قرار دیتا ہے۔

اب میں ان باتوں کو زیادہ طول دینا نہیں چاہتا اور خدا کی شہادت کا مستحکم ہوں اور اس کے ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں اور اس اشارہ پر ختم کرتا ہوں اَللّٰهُمَّ اَنْفِكُوْا بَيْنِيْ وَبَيْنَ اَهْلِ الْاَيْمَانِ وَاعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۱

اب چونکہ یہ شخص اس درجہ پر میرا دشمن معلوم ہوتا ہے جیسا کہ عمرو بن ہشام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور جان کا دشمن تھا اس لئے میں اپنی تمام جماعت کو متنبہ کرتا ہوں کہ اس سے بکلی قطع تعلق کر لیں اس کے ساتھ ہرگز واسطہ نہ رکھیں ورنہ ایسا شخص ہرگز میری جماعت میں سے نہیں ہوگا اِنَّا نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۲

### المشتہر

خاکسار  
مرزا غلام احمد مسیح موعود  
از قادیان ضلع گورداسپور پنجاب  
(۱۹۰۶ء تا ۱۹۰۷ء)

۱۔ یوسف: ۸۷ ج ۱ الاعراف: ۹۰

۶۶۹

کتاب ہے اور بیچ بوتا اور پانی دینے وغیرہ کی محنت برداشت کرتا ہے۔ کیا اُسے کسی کفارہ کی ضرورت ہے ؟  
 نہیں بلکہ اُسے محنت اور عمل کی ضرورت ہے۔ اس بات کو ہم مانتے ہی نہیں کہ بزرگ کفارہ کے کوئی راہِ نجات  
 ہی نہیں۔ بلکہ کفارہ تو انسانی ترقیات کی راہ میں ایک سنگِ اہلچرخ ہے۔

سوال ۱۰۔ پاکیزگی سے کیا مراد ہے ؟

جواب ۱۰۔ پاکیزگی سے مراد ہے کہ انسان کو جو اس کے جذباتِ نفسانیہ خدا تعالیٰ سے روگرداں کر کے اپنی خواہشات  
 میں غرق کرنا چاہتے ہیں ان کا مغلوب نہ ہو۔ اور کوشش کرے کہ خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق اس کی رفتار ہو۔  
 یہاں تک کہ بنی کا کوئی قول فعل خدا تعالیٰ کی رضامندی کے بغیر سرزد ہی نہ ہو۔ خدا تعالیٰ قدوس اور پاک ہے  
 وہ اپنی صفات کے مطابق ہی انسان کو بھی چلانا چاہتا ہے۔ وہ رحیم ہے انسان سے بھی رحم چاہتا ہے۔  
 وہ کریم ہے انسان سے بھی کرم چاہتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی صفات خدا تعالیٰ کے قانونِ قدرت میں ظاہر ہیں  
 جہاں طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا مدت ہائے قدار سے چلی آتی ہے۔ ان کو تاریخ و پانی، لباس و روشنی  
 وغیرہ تمام حوائج ضروریہ اور لوازمِ انسانیہ ہمیشہ سے ہم پہنچاتا چلا آیا ہے اور ہمیشہ ہی اس کے رحم اور  
 کرم کی صفات اور اسامہ حسنہ کے تقاضے ساتھ ساتھ منقوش کی دستگیری کرتے چلے آئے ہیں۔ پس فرض ہے  
 ہے کہ خدا تعالیٰ انسان کو اپنی صفات کے رنگ میں رنگین کرنا چاہتا ہے۔

اس کے بعد پروفیسر اور یڈی نے حضرت اقدس علیہ السلام کا حکم لیا اور کہا کہ ہم شکر ہیں کہ  
 آپ نے گفتگو کی عزت بخشی اور ہماری معلومات میں ایک مفید اضافہ فرمایا اور بہرا وقت  
 بہت اچھی طرح سے گذرا۔

۱۹ مئی ۱۹۰۸ء

عبدالحکیم کی کتاب کا ذکر تھا کہ بہت سے اقربا  
 لکھے ہیں۔ فرمایا۔

عبدالحکیم پٹیالوی کا ذکر

ہم نے جو کچھ لکھا تھا کہ بچے۔ بھئی ہوگیں۔ کتابیں منقل کسی جاچکی ہیں۔ اب بحث میں پڑھا فضویوں میں  
 داخل ہے۔

۱۰۔ الحکم جلد ۱۲ نمبر ۴۵ صفحہ ۶۷۹، ۶۸۰ طبع جدید از مرزا قادیانی  
 ۲۰ مئی ۱۹۰۸ء

فرمایا:-  
 ہر ایک کی فطرت جدا ہوتی ہے۔ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کسی طرح کوئی شخص ایک آدمی کی بیس سال ٹریدی کرنے کے بعد اور اس کے ماتحت تطہیر حاصل کرنے کے بعد اور اس سے فائدہ اٹھانے کے بعد پھر اس کے حق میں ایسی گندی گالیاں بول سکتا ہے۔ ہماری تو سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ مگر ہر ایک شخص کی فطرت جدا ہوتی ہے۔  
 عرب صحابہ جدا لہمی نے فرعون کیا کہ میں پیالہ سے آیا ہوں۔ جدا الحکیم نے آپ کے متعلق چنگی لگا ہے کہ آنے والی اور ساون کو آپ کی وفات ہو جاوے گی۔ لیکن پیالہ کے لوگ خوب جانتے ہیں کہ وہ ایک جھوٹا آدمی ہے۔

حضرت نے فرمایا:-

عَنْ يَسَلُّ عَلَى شَاكِتِهِ رَجِي اسْرَائِيلَ ۱۰۰۱، اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا کہ راستباز کون ہے۔

دعویٰ رسالت کی ماہریت  
 فرمایا:-  
 ہم نے ان معنوں میں کوئی دعویٰ رسالت نہیں کیا جیسا کہ  
 تمناں لوگ لوگوں کو بکاتے ہیں اور جو کچھ ہمارا دعویٰ منہم اور متذہر ہونے کا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم  
 کی شریعت کی متابعت کا ہے وہی ہمیشہ سے ہے آج کوئی نئی بات نہیں۔ چوبیس سال سے یہ الہام ہے  
 جبرئیل اللہ فی حللی الاینبیاء

۳۰ مئی ۱۹۰۸ء

بوقت عصر

صلح کا فائدہ

صلح سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے صلح کی۔  
 اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب جنگ موقوف ہوئی تو مسلمانوں کے ساتھ کفار کا  
 میل جول ہو گیا اور انہیں اسلام کی صداقتوں پر نظر کرنے کا موقع مل گیا۔ پھر ان میں سے کئی سید رو میں  
 اسلام کے لیے تیار ہو گئے۔

۱۰ درجہ، نمبر ۱۹-۲۰ صفحہ ۶۷۲، مورخہ ۲۲ مئی ۱۹۰۸ء

۵۰

ضمیمہ تحفہ گولڑیہ

ملک پنجاب میں کفر کے لشکر کا ایک سپاہی تھا جو کام آیا۔ اب بن لوگوں میں سے اس کی مثل بھی کوئی نکلتا محال اور غیر ممکن ہے۔ اسے لوگو! تم یقیناً سمجھ لو کہ میرے ساتھ وہ ہاتھ ہے پورا وقت تک مجھ سے وفا کرے گا۔ اگر تمہارے مرد اور تمہاری عورتیں اور تمہارے جوان اور تمہارے بوڑھے اور تمہارے چھوٹے اور تمہارے بڑے سب بل کر میرے ہلاک کرنے کے لئے دعائیں کریں یہاں تک کہ سجدے کرتے کرتے ناک گل جائیں اور نہ مثل ہو جائیں تب بھی خدا ہرگز تمہاری دعا نہیں سُنے گا اور نہیں رُکے گا جب تک وہ اپنے کام کو پورا نہ کرے۔ اور اگر انسانوں میں سے ایک بھی میرے ساتھ نہ ہو تو خدا کے فرشتے میرے ساتھ ہونگے۔ اور اگر تم گواہی کو چھپاؤ تو فریب ہے کہ پتھر میرے لئے گواہی دیں۔ پس اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ کاذبوں کے اعدائے ہوتے ہیں اور صادقوں کے اور، خدا کسی امر کو بغیر فیصلہ کے نہیں چھوڑتا۔ میں اس زندگی پر لعنت بھیجتا ہوں جو جھوٹ اور افتراء کے ساتھ ہو۔ اور نیز اس حالت پر بھی کہ مخلوق سے دُکھ خالق کے امر سے کنارہ کشی کی جائے۔ وہ خدمت جو عین دقت پر خداوند قدیر نے میرے پردہ کی ہے اور اسی کے لئے مجھے پیدا کیا ہے ہرگز ممکن نہیں کہ میں اس میں سستی کروں مگر جو آفتاب ایک طرف سے اور زمین ایک طرف سے باہم ل کر کھینٹا چاہیں۔ انسان کیا ہے محض ایک کیرا۔ اور بشر کیا ہے محض ایک مضعہ۔ پس کیونکر میں حقیقی قیوم کے حکم کو ایک کیرے یا ایک مضعہ کے لئے ٹہل دوں۔ جس طرح خدا نے پہلے مامورین اور مکذبین میں آخر ایک ہی فیصلہ کر دیا اسی طرح وہ اس دقت بھی فیصلہ کرے گا۔ خدا کے مامورین کے لئے کسے بھی ایک موسم ہوتے ہیں اور پھر جانے کے لئے بھی ایک موسم پس یقیناً سمجھو کہ میں نہ بے موسم آیا ہوں اور نہ بے موسم جاؤں گا۔ خدا سے مت لڑو! یہ تمہارا کام نہیں کہ مجھے تباہ کر دو۔

اب اس اشتہار سے میرا یہ مطلب ہے کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے اور نشانوں میں

۱۲

نزول المسیح

۲۲۹

ہونگے تو پھر بلاشبہ ہمارا یہ دعویٰ باطل ہو جائیگا کہ اعجازی طاقت جو انشاء پر دازی اور نظم اور  
نثر میں ہے یہ بھی خدا کا ایک نشان ہے جو ہمارے مسیح موعود ہونے پر ایک گواہ ہے بلکہ ہم  
خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر حلفی وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اس عرصہ میں اسی تعداد کے لحاظ سے انہیں  
مضامین کی پابندی سے ان کے اشعار مقرر کردہ منصفوں کی شہادت سے جو اہل علم ہونگے  
ہمارے اشعار سے فصاحت بلاغت کے رُوسے بہتر ثابت ہوں تو دونوں مخاطبین کو ایک

**بقیہ حاشیہ** کتاب کے جواب ارادہ کرے گا وہی نامراد ہے۔ سوائس زیادہ کیا نامرادی ہے کہ وہ اپنی لغو  
کتاب کو چھاپ ہی نہ سکا اور مرگیا۔ اور پھر اس کے مُردار کو چھوڑ کر پیر مر علی نے اپنی کتاب  
میں کھایا اور وہ بھی نامراد رہا۔ کیونکہ مر علی کی غرض یہ تھی کہ اس کتاب کے لکھنے سے اپنی  
مشیخت ظاہر کرے کہ میں بھی عربی خوان ہوں اور ادیب ہوں مگر بجائے ناموری کے اس کا  
چور ہونا ثابت ہوا۔ کون اس سے تعجب نہیں کریگا کہ چور بھی ایسا دلیر چھو نکلا کہ مُردہ کی  
ساری کتاب کو نکل گیا اور ڈکار نہ لیا اور محمد حسن بد قسمت کا ایک دفعہ بھی ذکر نہ کیا۔  
اور ایک دوسرا نشان یہ ہے کہ اسی کتاب اعجاز المسیح کے صفحہ ۱۹۹ میں  
میں نے یہ دُعا کی تھی رب ان کنت تعلم ان اعدائی ہم الصادقون المخلصون  
فاهلكی کما تھنک الکذابون۔ وان کنت تعلم انی منک ومن  
حضرتک فقد لنصرتی۔ ترجمہ یعنی اے میرے خدا اگر تو جانتا ہے کہ میرے  
دشمن سچے ہیں اور مخلص ہیں پس تو مجھے ہلاک کر جیسا کہ تو جھوٹوں کو ہلاک کرتا ہے۔ اور  
اگر تو جانتا ہے کہ میں تیسری طرف سے ہوں تو دشمن کے مقابل پر میری مدد  
کرنے کے لئے تو کھڑا ہو جا۔ پس صاف ظاہر ہے کہ اس کتاب اعجاز المسیح کے  
شائع ہونے کے بعد محمد حسن بھیں مقابلہ کے لئے میدان میں نکلا۔ اس لئے بموجب  
اس مباہلہ کی دُعا کے مارا گیا۔

۷۳

یہ حوالہ صفحہ 232 پر درج ہے

نزول المسیح صفحہ 72 مندرجہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 449 از مرزا قادیانی

۴۸۳

ضرورت الامام

راہب عیسائی دین کے مرنے کے بعد اکثر ایسے ہی تھے۔

چھٹے کشوف اور الہامات کا سلسلہ ہے جو امام الزمان کیلئے ضروری ہوتا ہے۔ امام الزمان اکثر بذریعہ الہامات کے خدا تعالیٰ سے علوم اور حقائق اور معارف پاتے ہیں۔ اور اسکے الہامات دوسروں پر قیاس نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ وہ کیفیت اور کمیت میں اس اعلیٰ درجہ پر ہوتے ہیں جس سے بڑھ کر انسان کے لئے ممکن نہیں۔ اور انکے ذریعہ سے علوم کھلتے ہیں اور قرآنی معارف معلوم ہوتے ہیں اور دینی عقیدے اور معضلات حل ہوتے ہیں اور اعلیٰ درجہ کی پیشگوئیاں جو مخالف قوموں پر اثر ڈال سکیں ظاہر ہوتی ہیں۔ غرض جو لوگ امام الزمان ہوں انکے کشوف اور الہام صرف ذاتیات تک محدود نہیں ہوتی۔ بلکہ نصرت دین اور تقویت ایمان کیلئے نہایت مفید اور مبارک ہوتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ ان کو نہایت صفائی سے مکالمہ کرتا ہے اور انکی دعا کا جواب دیتا ہے۔ اور بسا اوقات سوال اور جواب کا ایک سلسلہ منعقد ہو کر ایک ہی وقت میں سوال کے بعد جواب اور پھر سوال کے بعد جواب اور پھر سوال کے بعد جواب ایسے صفا اور لذیذ اور فصیح الہام کے پیرایہ میں شروع ہوتا ہے کہ صاحب الہام خیال کرتا ہے کہ گویا وہ خدا تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اور امام الزمان کا ایسا الہام نہیں ہوتا کہ جیسے ایک کلوخ انداز پر پردہ ایک کلوخ پھینک جائے اور بھاگ جائے۔ اور معلوم نہ ہو کہ وہ کون تھا۔ اور کہاں گیا۔ بلکہ خدا تعالیٰ ان سے بہت قریب ہو جاتا ہے اور کسی قدر پردہ لپٹے پاک اور روشن چہرہ پر سے جو نور محض ہوتا رہتا ہے۔ اور یہ کیفیت دوسروں کو میسر نہیں آتی۔ بلکہ وہ تو بسا اوقات اپنے تئیں ایسا پاتے ہیں کہ گویا ان سے کوئی ٹھٹھا کر رہا ہے۔ اور امام الزمان کی الہامات پیشگوئیاں اظہار علی الغیب کا مرتبہ رکھتے ہیں۔ یعنی غیب کو ہر ایک پہلو سے اپنے قبضہ میں کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ چابک سوار گھوڑے کو قبضہ میں کرتا ہے اور یہ قوت اور انکشاف اسلئے انکے الہام کو دیا جاتا ہے کہ انکے پاک الہام شیطان الہامات سے مشتبہ نہ ہوں اور تا دوسروں پر حجت ہو سکیں۔ واضح ہو کہ شیطان الہامات ہونا حق ہے اور بعض نا تمام سالک لوگوں کو ہوا کرتے ہیں۔ اور حدیث النفس بھی ہوتی ہے جسکو اصغاث اعلام کہتے ہیں۔ اور جو شخص اس سے انکار کرے۔ وہ



تباہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک بڑے درخت کی طرح ہو جائیگا اور پھیل جائیگا اور اس میں بادشاہ ہو گئے اور جیسا کہ کوزرے اخراج شطاہ<sup>۱۱</sup> میں اشارہ ہے اور پھر فصاحت بلاغت کے بارہ میں فرمایا۔

بلسان عربی مبین<sup>۱۲</sup> اور پھر اسکی نظیر مانگی اور کہا کہ اگر تم کچھ کر سکتے ہو اسکی نظیر دو۔ پس عربی مبین کے لفظ سے فصاحت بلاغت کے سوا اور کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ خاص کر جب ایک شخص کہے کہ میں یہ تقریر ایسی زبان میں کرتا ہوں کہ تم اسکی نظیر پیش کرو۔ تو بجز اس کے کیا سمجھا جائیگا کہ وہ کمال بلاغت کا مدعی ہے اور مبین کا لفظ بھی اسی کو چاہتا ہے۔ بالآخر چونکہ ڈپٹی عبداللہ آتھم صاحب قرآن شریف کے معجزات سے عمداً منکر ہیں اور اسکی پیشینگوئی سے بھی انکاری ہیں اور مجھ سے بھی اسی مجلس میں تین بیمار پیش کر کے ٹھٹھا کیا گیا کہ اگر دین اسلام سچا ہے اور تم فی الحقیقت ملہم ہو تو ان تینوں کو اچھا کر کے دکھاؤ حالانکہ میرا یہ دعویٰ نہ تھا کہ میں قادر مطلق ہوں نہ قرآن شریف کے مطابق مواخذہ تھا۔ بلکہ یہ تو عیسائی صاحبوں کے ایمان کی نشانی ٹھہرائی گئی تھی کہ اگر وہ سچے ایماندار ہوں تو وہ ضرور لسنگروں اور اندھوں اور بہروں کو اچھا کریں گے۔ مگر تاہم میں اس کے لئے دعویٰ کرتا رہا اور

آج رات جو مجھ پر گھلا وہ یہ ہے کہ جب کہ میں نے بہت تضرع اور ابتہال سے جناب الہی میں دعا کی کہ تو اس امر میں فیصلہ کر اور ہم عاجز بندے سے میں تیرے فیصلہ کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تو اس نے مجھ پر یہ نشان بشارت کے طور پر دیا ہے کہ اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے

جو فریق عمداً جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور سچے  
 خدا کو چھوڑ رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنا رہا ہے۔  
 وہ انہی دنوں مباحثہ کے لحاظ سے یعنی فی دن ایک مہینہ  
 لیکر یعنی ۱۵ ماہ تک ہاویہ میں کرایا جاوے گا اور اسکو سخت  
 ذلت پہنچائی بشہر طیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے اور جو شخص  
 سچ پر پڑے اور سچے خدا کو ماننا ہو اسکی اس سے عزت ظاہر  
 ہوگی اور اسوقت جب یہ پیشینگوئی ظہور میں آویگی بعض  
 اندھے سو جا کھے کئے جائیں گے اور بعض لنگڑے چلنے  
 لگیں گے اور بعض بہرے سننے لگیں گے۔

اسی طرح پر جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے سو اللہ شد و المنہ کہ اگر یہ پیشینگوئی اللہ تعالیٰ  
 کی طرف سے ظہور نہ فرماتی تو ہمارے یہ پندرہ دن ضائع گئے تھے۔ انسان ظالم کی عادت ہوتی ہے  
 کہ باوجود دیکھنے کے نہیں دیکھتا اور باوجود سننے کے نہیں سنتا اور باوجود سمجھنے کے نہیں سمجھتا۔ اور  
 جرات کرتا ہے اور شوخی کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ خدا ہے لیکن اب میں جانتا ہوں کہ فیصلہ کا  
 وقت آگیا۔ میں حیران تھا کہ اس بحث میں کیوں مجھے آنے کا اتفاق پڑا۔ معمولی بحثیں تو اور  
 لوگ بھی کرتے ہیں۔ اب یہ حقیقت کھلی کہ اس نشان کیلئے تھا۔ میں اسوقت یہ اقرار کرتا ہوں

كان يسب نبي الله ويتكلم في شأنه بكلمات خبيثة قد عوت عليه فبشرني ربي بموته في ست سنة ان في ذلك لآية للطالبين-

ومنها ما وعدني ربي اذ جاءني رجل من المنتصرين الذي اسمه عبد الله اتهم الحبر سري انه كان اراد ان يشد جباة الحبل على دين النصارى ويوارى سواته فصال على الاسلام وكان من المتشددين - وبأحشني في حلقة مختصة بالانام مختصة بالزحام وزخرف مكائده لارضاء الكافرين - فثنيت اليه عنائي وابشنته من معارف بياني وجعلته من المفحمين -

فما وجه من قلة الحياء وكان يجمع في جمالاته ويسد رقي الفراء وامتدت المباحثة الى نصف الشهر وكنا نعدو اليه بعد صلوة الفجر ونرجع في وقت الهجير عند اشتد احمر الظهيرة وتركنا الاستراحة كالمجاهدين - فبينما انا في فكر لاجل ظفر الاسلام والفتح الليام فاذا ابشرني ربي بعد دعوتي بموته الى خمسة عشر اشهر من يوم نائمة البحث فاستيقظت وكنت من المطمئنين ثم جئتاه واجتمعت الحلقة وحضر الخامن العام واحضرت الدواة والاقلام فما لبثت ان قعدت وانبات من كل ما اخبرت من رب الارباب امليته في الكتاب ثم ارتحلت من دار غربتي وحسبت ذلك البحث افضل قربتي وحسبت ذلك النبوة نعمة من نعماء رب العالمين - فتفكر واعان الله ولا تجلرا في تكفيري ولا تسبوا ولا تقذروا وانكنتم في شك فانظروا هذه الانبياء المذكورة فانها معيار الصدق والكذب وان لم تنتهوا فقد تمت عليكم حجة الله وحجتي ولن تضروني شيئا وستستلون عند مالك يوم الدين وان تتوبوا وتقرؤا فان الله لا يضيع اجر المحسنين

بسم الله الرحمن الرحيم

شهر متعلق ۱۲۲۰ اسم سلطان محمد بن محمد بيك وخدمه بيك امين نظام الدين واسم عم بعلها محمود بيك وسم سكان قرية المسترة نقي في ضلع لاهور واسم ابيها مرزا احمد بيك توفى بعد الهامى هذا في ميخاد الالهام واسم بعلها سلطان محمد بن وبقى من ميخاد موته قريبا من السنة ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت

خير الناس اخبرني منه احمد شاه

جو فریق عمداً جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور سچے  
خدا کو چھوڑ رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنا رہا ہے۔  
وہ انہی دنوں مباحثہ کے لحاظ سے یعنی فی دن ایک مہینہ  
لیکر یعنی ۱۵ ماہ تک ہاویہ میں کرایا جاویگا اور اسکو سخت  
ذلت پہنچاگی بشرطیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے اور جو شخص  
سچ پر ہے اور سچے خدا کو مانتا ہے اسکی اس سے عزت ظاہر  
ہوگی اور اسوقت جب یہ پیشینگوئی ظہور میں آویگی بعض  
اندھے سو جا کھے کئے جائیں گے اور بعض لنگڑے چلنے  
لگیں گے اور بعض بہرے سننے لگیں گے۔

اسی طرح پر جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے سو اللہ شہد و المنہ کہ اگر یہ پیشینگوئی اللہ تعالیٰ  
کی طرف سے ظہور نہ فرماتی تو ہمارے یہ پندرہ دن ضائع گئے تھے۔ انسان ظالم کی عادت ہوتی ہے  
کہ باوجود دیکھنے کے نہیں دیکھتا اور باوجود سننے کے نہیں سنتا اور باوجود سمجھنے کے نہیں سمجھتا۔ اور  
جرات کرتا ہے اور شوخی کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ خدا ہے لیکن اب میں جانتا ہوں کہ فیصلہ کا  
وقت آگیا۔ میں حیران تھا کہ اس بحث میں کیوں مجھے آنے کا اتفاق پڑا۔ معمولی بحثیں تو آؤ  
لوگ بھی کرتے ہیں۔ اب یہ حقیقت کھلی کہ اس نشان کیلئے تھا۔ میں اسوقت یہ اقرار کرتا ہوں

کہ اگر یہ پیشینگوئی جھوٹی نکلی یعنی وہ فریق جو خدا تعالیٰ کے نزدیک جھوٹ پر ہے وہ پندرہ ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے بسزائے موت ہادیہ میں نہ پڑے تو میں ہر ایک سزا کے اٹھانے کے لئے تیار ہوں مجھ کو ذلیل کیا جاوے۔ رُوسیاہ کیا جاوے۔ میرے گلے میں رستہ ڈال دیا جاوے مجھ کو پھانسی دیا جاوے۔ ہر ایک بات کیلئے تیار ہوں اور میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ جزوہ ایسا ہی کریگا۔ ضرور کریگا۔ زمین آسمان ٹل جائیں پراس کی باتیں نہ ٹلیں گی +

اب ڈپٹی صاحب کے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ نشان پورا ہو گیا تو کیا یہ سب آپ کے فشار کے موافق کال پیشینگوئی اور خدا کی پیشینگوئی ٹھہریگی یا نہیں ٹھہریگی اور رسول اللہ صلعم کے سچے نبی ہونے کے بارہ میں جنکو اندرون بائبل میں دجال کے لفظ سے آپ نامزد کرتے ہیں محکم دلیل ہو جائیگی یا نہیں ہو جائے گی۔ اب اس سے زیادہ میں کیا لکھا سکتا ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی فیصلہ کر دیا ہے۔ اب تاحق ہنسنے کی جگہ نہیں اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے لئے سولی تیار رکھو۔ اور تمام شیطانوں اور بدکاروں اور لعنتیوں سے زیادہ مجھے لعنتی قرار دو۔ لیکن اگر میں سچا ہوں۔ تو انسان کو خدامت بناؤ۔ تورات کو پڑھو کہ اس کی اول اور کھلی تعلیم کیا ہے اور تمام نبی کیا تعلیم دیتے آئے اور تمام دنیا کس طرف جھک گئی۔ اب میں آپ کے رخصت ہوتا ہوں اس سے زیادہ نہ کہو گا۔ والسلام علی من اتبع الهدی +

دستخط بحروف انگریزی

ہنری مارٹن کلارک پریزیڈنٹ از جانب

عیسائی صاحبان

دستخط بحروف انگریزی

غلام قادر بیچ پریزیڈنٹ از جانب

اہل اسلام

تمام شد

کہ اگر یہ پیشینگوئی جھوٹی نکلی یعنی وہ قرین جو خدا تعالیٰ کے نزدیک جھوٹ پر ہے وہ پندرہ ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے بسزائے موت ہاویہ میں نہ پڑے تو میں ہر ایک سزا کے اٹھانے کے لئے تیار ہوں مجھ کو ذلیل کیا جاوے۔ رُو سیاہ کیا جاوے۔ میرے گلے میں رتہ ڈال دیا جاوے مجھ کو پھانسی دیا جاوے۔ ہر ایک بات کیلئے تیار ہوں اور میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرور ایسا ہی کریگا۔ ضرور کریگا۔ ضرور کریگا۔ زمین، آسمان ٹل جائیں پر اس کی باتیں نہ ٹلیں گی +

اب ڈپٹی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ نشانی پورا ہو گیا تو کیا یہ سب آپ کے غماز کے موافق کامل پیشینگوئی اور خدا کی پیشینگوئی ٹھہریگی یا نہیں ٹھہریگی اور رسول اللہ صلعم کے سچے نبی ہونے کے بارہ میں جنکو اندرونہ بائبل میں دجال کے لفظ سے آپ نامزد کرتے ہیں محکم دلیل ہو جائیگی یا نہیں ہو جائے گی۔ اب اس سے زیادہ میں کیا لکھا سکتا ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی فیصلہ کر دیا ہے۔ اب ناحق ہنسنے کی جگہ نہیں اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے لئے سولی تیار رکھو۔ اور تمام شیطانوں، اور بدکاروں اور لعنتیوں سے زیادہ مجھے لعنتی قرار دو۔ لیکن اگر میں سچا ہوں۔ تو انسان کو خدامت بناؤ۔ تو ریت کو پڑھو کہ اس کی اول اور کھلی تعلیم کیا ہے اور تمام نبی کیا تعلیم دیتے آئے اور تمام دنیا کس طرف جھک گئی۔ اب میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں اسکن زیادہ نہ کہو گا۔ والسلام علی من اتبع الهدی +

دستخط بحروف انگریزی ہنری مارٹن کلارک پریزیڈنٹ از جانب عیسائی صاحبان	دستخط بحروف انگریزی غلام قادر فصیح پریزیڈنٹ از جانب اہل اسلام
---	---

# تمام شد

کرتا ہے کہ خاص حالت کی باتیں ہیں انبیاء جنہوں نے لوگوں کیلئے اسوہ حسنہ بننا ہوتا ہے اور حقوق العباد کی بھی بہترین مثال قائم کرنی ہوتی ہے عموماً ایسا طریق اختیار نہیں کرتے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے میاں عبداللہ صاحب سنوری نے کہ جب تم کی سعادت میں صرف ایک دن باقی رہ گیا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مجھ سے اور میاں حامد علی مرحوم سے فرمایا کہ اتنے چنے دیجئے تعداد یاد نہیں رہی کہ کتنے چنے آپ نے بتائے تھے۔ لے لہا ران پر خلائ سورت کا وظیفہ اتنی تعداد میں پڑھو کہ مجھے وظیفہ کی تعداد بھی یاد نہیں رہی میاں عبداللہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ مجھے وہ سورت یاد نہیں رہی مگر اتنا یاد ہے کہ وہ کوئی چھوٹی سی سورت تھی جیسے الم متروک کیف فعل ربک باصفا الغیل الہم ہے اور ہم نے یہ وظیفہ تریباً ساری رات صرف کر کے ختم کیا تھا۔ وظیفہ ختم کرنے پر ہم وہ دن حضرت صاحب کے پاس لگئے۔ کیونکہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا۔ کہ وظیفہ ختم ہو گیا ہے میرے پاس لے آنا اسکے بعد حضرت صاحب ہم دونوں کو قادیان سے باہر غالباً شمال کی طرف لے گئے۔ اور فرمایا یہ دانے کسی غیر آباد کنوئیں میں ڈالے جائیگے۔ اور فرمایا کہ جب میں دانے کنوئیں پھینک دوں۔ تو ہم سب کو سرعت کیساتھ منہ پھیر کر واپس لوٹ آنا چاہیے اور مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت صاحب نے ایک غیر آباد کنوئیں میں ان دانوں کو پھینک دیا۔ اور پھر جلدی سے منہ پھیر کر سرعت کے ساتھ واپس لوٹ آئے۔ اور ہم بھی آپ کے ساتھ جلدی جلدی واپس چلے آئے اور کسی نے منہ پھیر کر دیکھے کہ طرف نہیں دیکھا۔

اس سعادت میں جس طرح دانوں کے ٹوپر وظیفہ پڑھنے۔ اور پھر ان دانوں کو کنوئیں میں ڈالنے کا ذکر ہے۔ اسکی تشبیح حصہ دوم کی روایت نمبر ۱۱۱ میں کی جا چکی ہے۔ جہاں پیر سرانج الحق صاحب مرحوم کی روایت سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ کام ایک شخص کی خواب کو ظاہر میں پورا کرنے کے لئے کر دیا گیا تھا۔ ورنہ ویسے اس قسم کا فعل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عادت اور سنت کے خلاف ہے اور حاصل ہاس خواب کے تصویری زبان میں ایک خاص معنی تھے۔ جو اپنے وقت پر پورے ہوئے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے میاں عبداللہ صاحب سنوری نے کہ ایک

(۱۶۰)

(۱۶۱)

الفضل  
بیت لیبیہ  
بیت لیبیہ  
بیت لیبیہ  
بیت لیبیہ

# الفصل

خمیس 19

THE DAILY ALFAZ LADIAN.

میلینون  
۱۹  
شعبان  
۱۹۴۰  
تاریخ  
۱۹۴۰

۱۹۴۰  
شعبان  
۱۹

۲۸  
۱۹  
۱۳  
۱۹  
۲۰  
۱۹  
۲۰  
۱۹  
۲۰  
۱۹  
۲۰  
۱۹  
۲۰



## قبولیت و دعائے خلاف ایک ٹریڈ کا جواب

از حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ بقدرہ العزیز  
فرمودہ ۱۲ مارچ ۱۹۴۰ء  
پندرہ عشر رمضان ۱۳۱۹ھ

<p>دعا کا جواب</p> <p>دعا کا جواب ہے۔ چنانچہ میں نے امر کو بیان کر چکا ہوں۔ کہ کسی شخص کا یہ دوسلے کرنا کہ اس کی نواں دعا فرمادہ قبول ہوگا۔ یہ سنت نہیں رکھتا۔ کہ اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ مشورہ کر کے اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجی اور عرض پڑھا کہ تم جو کچھ کہو۔ میں اس کو قبول کروں۔ تو اس عرض پر دعا سننے والی چنانچہ کوئی حقیقت</p> <p>رکنا ہے۔ تو تم باتوں میں کبھی آئی۔ اور دعا سے نشانہ رشتہ دار کو کبھی تکلیف پہنچا۔</p>	<p>یہ دعا فرض کرنا ہے۔ کہ ان کے مشق میں نے دعا میں لکھا۔ اور پھر آپ نے فرض کر لیا ہے۔ کہ میری دعا مانگا قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر آپ ہی تیرے نکل لیا ہے۔ کہ جو کچھ ان لوگوں کے مشق میری دعا میں قبول نہیں ہوتی اس لئے میرا دعا مانگا کہ ان کو اگر تم</p> <p>توصیہ کا اقرار کر کے مجھ سے دعا کی درخواست کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کے سامان پیدا کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تم بھی دعا کے ساتھ ہونے سے یہ دعا وصول ہوگی میری طرف سے ان</p>	<p>کا اصل جواب آپ کے نام میں مناسب سمجھتا ہوں۔ کہ آج میں نہیں لکھتا ہوں۔ بعض ایسے لوگوں کے ساتھ ہونے لگے ہیں۔ بیان کروں۔</p> <p>اسی ٹریڈ کا کہنے والا</p> <p>ایک ایسا شخص ہے۔ جو دین سے قطعاً ادا نہیں ہے۔ اور وہ اس کو خدا کی احکام پر خلاف مشفقوں سے کہ ان لوگوں کو مشقت نہیں۔ اس لئے اپنے اس ٹریڈ میں چند باتیں ایسی لکھتا ہے۔ جس کے مشق اس کا خیال ہے۔ کہ ان کے بارے میں میری دعا میں قبول نہیں ہوتی۔ مگر وہ دعائے اس قسم کے ہیں کہ ان کے بارے میں اس نے پھینچ</p>	<p>سندہ فاضل کتب کے بعد فرمایا۔</p> <p>ایک ٹریڈ</p> <p>کہا گیا ہے جس میں میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس لئے دعا مانگا کہ اس سے قطعاً ان کو مشق کی دعا مانگا۔ جو وہ جگہ کے مشق کی دعا مانگا۔ جس میں نے ذکر کیا تھا۔ کہ اگر ان کو کچھ سے دعا مانگا کہ اگر ان کے لئے دعا کی دعا مانگا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو دعا مانگا کہ ان کے بارے میں دعا مانگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو مشق کے سامان پیدا کر دے گا۔</p> <p>فدا تالی کی قدرت</p> <p>کہ کچھ دعا کے غلبہ میں دعا مانگا</p>
--	--	--	---

یہ حوالہ صفحہ 237 پر درج ہے (قادیانی خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود کی تقریر، روزنامہ الفضل قادیان 20 جولائی 1940ء)



روزنامہ عمل کا بیان دارالافتاء دارالافتاء اسلامیہ

جب رسول کریم سے اللہ جیہ کرم کا بیان  
 اور اہل سنت پر تو آپ نے نبی کریم  
 بن مخلوق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے  
 فرمایا کہ باپنے بھائی ثمن بن مخلوق  
 کے ہیں  
 فرض یعنی روایت کے مطابق رسول کریم  
 صلی اللہ علیہ وسلم کے جیہ وہ نیک وقت  
 ہوئے اور انہیں ہر جیہ کے تعلق پر رسول کریم  
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ انہیں کی  
 ہیں تو انہیں  
 اللہ تعالیٰ کی شہادت  
 غائب آئی اور وہی خود جو اس نے  
 چاہا تھا ایک وقت آپ پر شان سکویا  
 سے گزر رہے تھے کہ آپ نے ایک  
 بڑھیا کو دیکھا کہ وہ ایک قبر پر بیٹھی  
 ہیں نکل رہی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ  
 علیہ وسلم ان کے قریب گئے اور  
 فرمایا بڑھیا کی بیوی اس نے کہا میرا بچہ  
 فوت ہو گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ  
 وآلہ وسلم نے فرمایا بڑھیا صبر کرو اللہ  
 کی ہی شہادت تھی۔ بڑھیا نے شہادت فرم  
 یں آنکھ اشکبار تھیں دیکھا تھا کہ کوئی  
 شخص اس سے باتیں کر رہا ہے۔ اور کہیں  
 اور جیسے ہی کسی جلتی انسان کی آنکھوں  
 میں آنسو آئے ہوتے ہوتے ہیں اور وہ  
 اپنے سر کو جھکا کر ہونے لگتا ہے۔ یہ  
 نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا  
 تھا کہ کئی مہینوں کے لئے  
 شہادت ہو رہی ہے۔ اور میں کے دل کو  
 گھٹی ہے۔ یہی بات ہے کہ یہ مرد کی  
 صحت پر توجہ۔ اور ان کو صلی اللہ علیہ  
 وسلم نے فرمایا انہیں سے گیارہ وقت  
 پہنچے ہیں۔ اور یہ کہ آپ اپنے  
 مکان کی طرف تشریف لے گئے۔ یہی  
 کسی نے اسے بتایا کہ بڑھیا وہ تو  
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ پہنچتے  
 ہی دوڑ کر بولی آپ کے پاس پہنچے اور  
 کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے میرا بچہ  
 اپنے فریاد اللہ کو لکھا دھلیجے۔ میر  
 تو وہی ہے جو فرعون میں کیا جانے۔ وہ  
 بدھنہ کہ تو سب کے برابر ہے۔  
 ایک دفعہ آپ کا ایک فرساخت  
 ہو گیا۔ رسول کریم سے اللہ جیہ کرم سے

اسے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے  
 آنسو بہنے لگے۔ ایک مسلمان کہنے  
 لگا یا رسول اللہ آپ تو مردوں کو قبر  
 کی تفتیش کرتے ہیں۔ اور خود ہوتے  
 ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  
 نے فرمایا میری آنکھیں روتی ہیں۔ اور  
 یہ رحمت کی حالت ہے۔ اگر تمہارا  
 دل نہ تھا تو اسے نہ رحمت بنا دیا ہے تو  
 یہ کیا کروں؟  
 فرض اور آپ کے دل میں بھی  
 تھا۔ اور وہی وجہ سے کوئی نہیں کر  
 سکتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے  
 اپنے بھائی کے لئے رحمتیں نہیں کی پر گ  
 گو باوجود اس کے کہ رسول کریم صلی اللہ  
 علیہ وسلم نے ان جیہ مانگنے سے  
 روٹ نہیں لیں۔ آپ کے پیارے بچے فوت  
 ہو گئے۔ اور روایت میں اختلاف ہے  
 بعض یہ کہ تمہارا دکا دکا ہے  
 یہی فریاد تھے کہنے والے نے  
 میری بھی گیارہ دفعہ ایسی شاد کی ہیں  
 جو کہ خیال میں نہیں ہوتیں۔ اور  
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جی  
 جھارہ تھے ہی فوت ہونے لگے۔ اب  
 کیا یہ کہا جائے گا کہ آپ نے ان  
 کے تعلق و فانی نہیں کی تھیں۔ یا یہ  
 کہا جائے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ  
 وآلہ وسلم نے فانی تو نہیں مگر قبول  
 نہ فرمایا۔ حضرت سید محمد علی صاحب  
 مولوی عبد الکریم صاحب مرحوم کی تلمیذ  
 ہیں ان کی صحت کے لئے کئی دفعہ  
 کہیں ہمارے مسلو کے اخبارات کے  
 نامی ہیں۔ اور یہی۔ گویا مولوی صاحب  
 صاحب تندرست ہونے پر اور کیا ہی  
 کے یہ خدا آپ نے انہیں کیسے  
 ہے یا نہیں کہیے  
 قبولیت و نما کا سبب  
 یا گیا ہے۔ اور اس شان میں میر  
 کوئی مشاہد نہیں کر سکتا۔ اب کیا کوئی  
 حالت اگر میں بات پیش کرے کہ جب  
 مولوی عبد الکریم صاحب کے تعلق آپ  
 کی و ما قبول نہ ہوئی۔ تو آپ نے قبولیت  
 و نما کے تعلق میں مشاہد کرنے کا بیخ  
 کس طرح دے دیا۔ تو کیا اس کا سبب

مستقلی ہوئی۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ  
 آپ نے حضرت مولوی عبد الکریم صاحب  
 کی صحت کے لئے بہت دعا مانگی تھیں۔  
 اور آپ کو ان سے ہر قسم کا تعلق تھا  
 کہ جب وہ فوت ہوئے تو انہیں آپ کی  
 عادت میں یہ بات وہاں تھی۔ کہ آپ  
 جیش غریب کی نماز کے بر سید میں  
 بیٹھ جاتے۔ اور شہادت تک صحت وہی  
 سال پر باقی کرتے رہتے۔ اور وہی  
 میرا کرم صاحب، جو اسے وقت پر پیش  
 آپ کے دائرہ رحمت میں آگئے تھے  
 جب مولوی صاحب کی وفات ہو گئی تو  
 آپ نے غریب کے بر سید پر بیٹھنا  
 بند کر دیا۔ ایک دفعہ میں انہوں نے فرمایا  
 کیا کہ حضور پر غریب کے بر سید  
 میں تشریف لگنا کہتے تھے۔ اور  
 مختلف دینی مسائل  
 بیان کیا کرتے تھے۔ جس سے ہم نے  
 اسے جہانوں اور دوسرے لوگوں کو  
 بہت کچھ فائدہ ہوتا تھا۔ گویا حضور  
 نے بیٹھنا بند کر دیا ہے۔ ہماری خواہش  
 ہے کہ حضور پر اس مسلو کو جلدی فرمایا  
 کیونکہ لوگوں کو حضور کے نہ بیٹھنے  
 کی رو سے بہت تکلیف ہے۔ حضرت  
 سید محمد علی صاحب نے فرمایا کہ اللہ  
 فرمایا اب مجھ سے بیٹھنا اور شہادت  
 پر سکتا ہے کہ جب میری عمر اس وقت  
 جاتی ہے۔ جہاں مولوی عبد الکریم صاحب  
 بیٹھ کر رہتے تھے۔ تو میرے دل کو کثرت  
 نصیحت ہوتی ہے۔ اس طرح ہمارا چہرہ  
 بیانی  
 مبارک الحمد جب ہم اس  
 تو حضرت سید محمد علی صاحب نے فرمایا کہ  
 سے اس کے لئے کئی ہی دفعہ میں کہیں  
 ان دفعوں کے باوجود وہ فوت ہو گئے  
 کہیں کہ نہ ان کی شہادت ہی تھی۔ اب کیا  
 کوئی کہہ سکتا ہے کہ پہلے مولوی صاحب  
 صاحب کہنے آپ نے دعا مانگی کہ  
 گوارا قبول نہ ہوئی۔ اور مولوی صاحب  
 فوت ہو گئے۔ پھر مبارک اللہ کے لئے  
 آپ نے دعا مانگی کہ انہیں قبول  
 نہ ہوئی۔ اور مبارک اللہ فوت ہو گیا۔ یہی  
 حالت میں دنیا کو پہنچا دینے کے لئے کیا

ہوتے آئے۔ کس طرح مولوی صاحب کو آپ  
 کی دعا میں توجہ سنی جانے میں ایک برس  
 سے بھی بیٹھ  
 بشر اول وقت ہوا  
 اور آپ نے اس کے لئے بہت دعا  
 کی۔ اور آپ کو اس کی وفات پر  
 ہوا کہ میں اس کے لئے تعلق اللہ سے  
 کہ رحمت سے بیٹھتی ہے۔ یہی کہہ کر  
 بشر اول نہیں۔ لیکن جب تک وہ دنیا  
 رہا آپ کا یہ خیال تھا کہ وہی مولوی  
 لاکا ہے۔ اور آپ نے نہ صرف  
 اس کے لئے دعا مانگی کہ وہی مولوی  
 سے ہیں کہ وہی مولوی صاحب کی وفات  
 آخیر سے تعلق پیش گئی  
 کے وقت بہت کچھ دعا مانگی تھی وہ  
 ہم سے تعلق نہیں۔ میں اس وقت چھوٹا  
 بچہ تھا۔ اور میری عمر کوئی پانچ سال  
 پانچ سال کی تھی کہ مجھے وہ دنیا سے  
 یاد ہے۔ کہ جب آخیر کی شہادت کا  
 خبری ان آئے تھے کہ اب اور حضور  
 سے دعا مانگی نہیں۔ میں نے تو عمر  
 کا نام بھی بھی آج تک نہیں دیکھا۔  
 حضرت سید محمد علی صاحب ایک مرتبہ  
 مجھے مشورہ تھے۔ اور مولوی عبد الکریم صاحب  
 ایسے کے بعض اور بڑے گھمبیر  
 جی ہر دو دکا کر رہے تھے۔ اور تیسری  
 وقت یعنی جوانی میں ان کی وفات پر  
 یہ میں بڑا ہی غمگین تھا اور حضرت  
 خلیفہ الاولیٰ رضی اللہ عنہما نے طلب کیا کرتے  
 تھے۔ اور انہیں مولوی صاحب ان میں  
 بیٹھے ہیں۔ وہ ان کے ہونے اور میں  
 فرمایا کہ میں انہی میں اس طرح پہنچا  
 سے میں اسے شروع کر دیتے۔ ان کی  
 تین سو سو گز تک سنی جاتی تھی۔ اور ان  
 میں سے ہر ایک کی زبان پر یہ دعا جاری تھی  
 کہ اللہ اسے مردے سے بہت تفریق کرے۔  
 گویا کہ ہم اور وہ مولوی صاحب کی تینوں  
 تفریق تو نہ ہر۔ پھر کہ اس کے یہی ہیں  
 کہ جب ایسے حالات میں حضرت سید  
 محمد علی صاحب کی کہ انہیں قبول نہ ہوئی  
 تھیں تو کیا توجہ نہ تھا کہ ان کے تعلق میں  
 مشاہد کا پہنچا دینا جائز تھا۔

یہ حوالہ صفحہ 237 پر درج ہے (آذیانی خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود کی تقریر، روزنامہ الفضل قادیان 20 جولائی 1940ء)

اندازی پیشگوئیاں اپنی محنتی یا ظاہر شراط کی بناء پر مل ہی جاتی ہیں اسے ایک لمحہ بھر کے لئے بھی اپنے الہامات کی صداقت میں کوئی شبہ نہیں ہوتا۔

حضرت سید محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جب آتمہ وان پیشگوئی کی اور میعاد کے ختم ہونے کا دلنایا و مجھے وہ نقسارہ مبارک یاد ہے کہ آج کو جہاں حکیم مولوی قطب الدین صاحب کا مطلب ہے وہاں لوگ جمع ہونے اور چٹھیں مار مار کر دعائیں کرنے لگے کہ انہی پر پیشگوئی ضرور پوری ہو جلتے۔ ایک شخصانہ عبد العزیز پکا کرتا تھا وہ تو دیوار کے ساتھ بے تھک اپنا سر مارتا اور کہتا تھا یا اب یہ سورج نہ ڈوبے جب تک آتمہ نہ مر جائے۔ حضرت سید محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس کا علم ہوا تو آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا ان لوگوں کو کہا ہو گیا ہے کہ چٹھیں مار مار کر انہوں نے آسمان سر پر اٹھایا ہے اگر چھوٹے ہوں گے تو ہم ہوں سگران کو کس بات کا ٹکڑا ہے۔

اب دیکھو جماعت کے لوگ گھبرارہے تھے مگر حضرت سید محمد علیہ السلام کو کسی قسم کی گھبراہٹ نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ لوگوں نے حضرت سید محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زبان سے صرف کلام ثنا تھا تاکہ کے نزول کی وجہ سے جو ثبات قلب عطا کیا جاتا ہے وہ انکو حاصل نہیں تھا۔ لیکن حضرت سید محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قلب کو غیر معمولی ثبات حاصل تھا اور آپ سمجھتے تھے کہ جو چرچ و پکار یعنی بات ہے جس فدا کا کلام تجھ پر نازل ہوا ہے وہ اپنے کلام کو آپ پر لاکرے گا اور اگر کسی شرط کی وجہ سے وہ مل جائے گا تب بھی کیا ہوا اندازی پریشگوئیوں کے متعلق جو سنت جلی آرہی ہے بہر حال اسی کے مطابق ہوگا اس لئے گھبراہٹ اور فکر کی کوئی بات نہیں۔

پس اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ خواہ وہ بلا واسطہ نازل ہو فرشتوں کا آنا ضروری ہوتا ہے۔ مگر یہ خیالی کر لینا کہ ہر کلام کے ساتھ فرشتہ آکر یہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فلان بات پہنچاتا ہوں بالکل غلط ہے۔ حدیثوں میں بھی صرف پانچ سات ایسی مثالیں دیکھی ہیں جن میں آتانی جنس پرینڈ کے الفاظ آتے ہوں مگر اور کس جگہ یہ ذکر نہیں آتا یا یہ معنی کے متعلق آتا ہے کہ

ان ایام میں جب رسول آتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے مگر یہ صورت بالکل اور ہو۔ اس میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو ان کے ہر لفظ یاد رکھنا ضروری تھا۔ بال لوگ اگر قرآن کریم پڑھنے میں کوئی غلطی کرتے تو اور لوگ اس کی اصلاح کر سکتے تھے لیکن اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غلطی کرتے تو لوگ کس طرح دہشت کرتے وہ سمجھتے کہ شاید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی حد تک میرا کلام نازل ہو رہا ہے یا پہلے کلام میں کوئی تبدیلی ہو گئی ہے اس لئے خدا تعالیٰ نے جس میں کوئی سناغ بنا دیا تاکہ اگر تلاوت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلطی ہو جائے تو جبریل آپ کو بتادیں اور آپ اس کی اصلاح کر لیں۔ پس یہ صورت بالکل اور ہے اس سے یہ استدلال نہیں ہو سکتا کہ ہر کلام کے ساتھ اس رنگ میں فرشتے کا نازل ہونا ضروری ہے کہ وہ اگر کسی کے کلمے اللہ تعالیٰ نے فلاں بات آپ کو پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ اس طرح صرف بعض ایام میں اختیار کیا جاتا ہے بالی الہامات کے ساتھ فرشتوں کا نزول صرف اتنا مفہوم رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کلام فرشتوں کی حفاظت میں نازل فرماتا ہے۔

پھر ہم جب دیکھتے ہیں اَوْ قَوْلًا وَمِنْ مَثَلًا مِّمَّا نُنزِّلُ مِنْ عَسَىٰ اِنَّهُ كَذِبًا اَوْ قَوْلًا اَوْ حِجَابًا اَوْ نَسْمًا يَنْفَخُ الْاُكْبَادُ مِنْ اَتَانِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ اَنْتَوَاجِ مَا اَنْ حَصَلَ لَهٗ۔ یعنی یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر اور کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر وہ دوانستہ جھوٹ باندھے یا کہ کسی طرف وہی کی گئی ہے حالانکہ اس کی طرف کوئی وحی نہ ہوئی ہو۔ اس کے معنی یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ اِنَّهُ كَذِبًا مِمَّا نُنزِّلُ مِنْ عَسَىٰ اِنَّهُ كَذِبًا مِمَّا نُنزِّلُ مِنْ اَوْ حِجَابًا اَوْ نَسْمًا يَنْفَخُ الْاُكْبَادُ مِنْ اَتَانِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ اَنْتَوَاجِ مَا اَنْ حَصَلَ لَهٗ۔ یہ وہی شخص کے بارہ میں ہے جو وحی کے متعلق ہماری بیان کردہ فسوں میں سے کسی فن کے ماتحت آجلے اور وہی کرے کہ کلمہ پر فلاں قسم کی وحی نازل ہوتی ہے اَوْ حِجَابًا اَوْ نَسْمًا يَنْفَخُ الْاُكْبَادُ مِنْ اَتَانِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ اَنْتَوَاجِ مَا اَنْ حَصَلَ لَهٗ۔ یہ سوان نہیں ہوگا کہ فلاں قسم کی

اب یاد ہے کہ پیشگوئی میں فریق مخالف کے غلط سے جس کے لئے ہادیہ یا ذلت کا وعدہ تھا ایک گروہ مراد ہے جو اس بحث سے تعلق رکھتا تھا خواہ خود بحث کرنے والا تھا یا معاون یا حامی یا سرگروہ تھا۔ ہاں مقدم سب سے ڈیڑھ بجھا تھا۔ اہم تھا۔ کیونکہ وہی دوسرے عیسائیوں کی طرف سے منتخب ہو کر پندرہ دن بھگتا رہا اگر درحقیقت اس لفظ کے حصہ دار دوسرے معاون اور محرک اللہ کے سرگروہ بھی تھے کیونکہ عرفاً فریق اس تمام گروہ کا نام ہے جو ایک کام یا مقابل کرنے والا یا اس کام کا معاون یا اس کام کا ہانی یا مجوز یا حامی ہو اور پیشگوئی کی کسی عبارت میں یہ نہیں لکھا گیا کہ فریق سے مراد صرف بعد اٹھ اٹھم ہے۔ ہاں میں نے جہاں تک الہام کے معنی مجھے وہ پتے کر جو شخص اس فریق میں سے یا مقابل باطل کی تائید میں نفس خود بحث کرنے والا ہے اس کے لئے ہادیہ سے مراد منزلت موت ہے لیکن الہامی لفظ صرف ہادیہ ہے اور ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اور حق کی طرف رجوع نہ کرنے کی قید ایک الہامی شرط ہے جیسا کہ میں نے الہامی عبارت میں صاف لفظوں میں اس شرط کو لکھا تھا اور یہ بات باطل صحیح اور فیضی اور الہام کے مطابق ہے کہ اگر مشرک بعد اٹھ کا دل جیسا کہ پہلے تھا ویسا ہی توہین اور تحقیر اسلام پر قائم رہتا اور اسلامی عقلمت کو قبول کر کے حق کی طرف رجوع کرنے کا کوئی حصہ نہ لیتا تو اسی عباد کے اندر اسی کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا لیکن خدا تعالیٰ کے الہام نے مجھے بتلادیا کہ ڈیڑھ بجھا اٹھ اٹھم نے اسلام کی عقلمت اور اس کے مدد و کسب و کسب کے حق کی طرف رجوع کرنے کا کسی قدر حصہ لے لیا جس حصہ نے اس کے وعدہ موت اور کامل طور کے ہادیہ میں تاخیر ڈال دی اور ہادیہ میں تو گرا لیکن اس بڑے ہادیہ سے تمہارے دلوں کے لئے بچ گیا جس کا نام موت ہے اور یہ ظاہر ہے کہ الہامی لفظوں اور شرطوں میں سے کوئی ایسا لفظ یا شرط نہیں ہے جو پتہ بتا دے کہ کسی قدر موجود ہو جانا اپنی تاثیر پیدا کر کے ابتدا ضرور تھا کہ جس قدر مشرک بعد اٹھ اٹھم کے دل نے حق کی عقلمت کو قبول کیا اس کا فائدہ اس کو پہنچ جائے سو خدا تعالیٰ نے ایسا ہی کیا اور مجھے فرمایا: اطلع الله عن همه وعقوبه۔ ولن تجدن منهم تبديلا ولا تعجيلا ولا تحزنا ولا ينتمون الا للذين امنوا وبجنتي وجلاقتك استالاهم۔ ومنزق الامعاء محل مسزق ومكر اولاد حور وورثت كشف السور عن سائر يومئذ يفرح المؤمنون. ثلثة من الاولين وثلثة من الآخريين وهذا عهد كبرياؤ فمن شاء اتخذنا ذنبا ميسرا۔ ترجمہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کے ہمسو ظم پر اطلاع پائی اور اس کو ہمت دی جب تک کہ وہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور

نمبر ۱۰۵۳

# THE AL - AM

.....

سلسلہ الہامیہ کا سب سے پہلا اور مشہور و معروف رسالہ  
 اللہ کی رحمت سے ہمیں یہ سہولت حاصل ہو کہ

پیارے دوستوں! یہ ساری باتیں  
 جسے دیکھ کر آپ میں دلگہرائی ہو  
 اور شیخ مسعود کے تریبہ احمدی برقی

یہ سنہ ۱۳۲۱ھ سے ہر گزیری ماہ کی ۱۰-۱۱-۱۲ کو نکلا گیا ہے  
 ہر گزیری ماہ کی ۱۰-۱۱-۱۲ کو نکلا گیا ہے

---

<p>یہ رسالہ ہر ماہ نکلا جاتا ہے۔          ہر ماہ کی ۱۰-۱۱-۱۲ کو نکلا جاتا ہے۔          ہر ماہ کی ۱۰-۱۱-۱۲ کو نکلا جاتا ہے۔</p>	<p>ان سیاسی لیڈروں پر ہے          ہندوستان میں جو کہ خیالی اور فرضی ہیں          ان کے بارے میں جو کہ خیالی اور فرضی ہیں          ان کے بارے میں جو کہ خیالی اور فرضی ہیں</p>	<p>ان فریادوں سے دلگہرائی نصرت          سلاموں کی زندگی اور سو کا سوال          یہاں کی ساق ہے کہ ہندوستان کی          یہاں کی ساق ہے کہ ہندوستان کی</p>
<p>یہ رسالہ ہر ماہ نکلا جاتا ہے۔          ہر ماہ کی ۱۰-۱۱-۱۲ کو نکلا جاتا ہے۔          ہر ماہ کی ۱۰-۱۱-۱۲ کو نکلا جاتا ہے۔</p>	<p>ان فریادوں سے دلگہرائی نصرت          سلاموں کی زندگی اور سو کا سوال          یہاں کی ساق ہے کہ ہندوستان کی          یہاں کی ساق ہے کہ ہندوستان کی</p>	<p>یہ رسالہ ہر ماہ نکلا جاتا ہے۔          ہر ماہ کی ۱۰-۱۱-۱۲ کو نکلا جاتا ہے۔          ہر ماہ کی ۱۰-۱۱-۱۲ کو نکلا جاتا ہے۔</p>

”زمین صاحبان کے لئے ہر ماہ ۲۵ روپے“ کا مضمون ہے۔ جہاں ہر ماہ ۲۵ روپے ۳۴ جولائی ۱۹۲۳ء۔ یہ حوالہ نمبر 239 پر درج ہے

ذی القعدة من سنة 1292ھ

کہ تمام جو کتا غنا ہر کھانے سے باز رہتے۔  
 بارہ ماہ کی اس قدر سستی اور نعمت کے  
 سب کچھ حال تھا کہ میں دن کو کھانے سے باز رہتا  
 کہہ رہا تھا کہ آپ نام کرنا سب کو کھانے کی ضرورت نہیں  
 چنانچہ ان کی غریب و کمزور حالت میں کہنے دیا کہ ہر طرح  
 ان کی خدمت کرتے رہتے۔ اولاً آپ سے بہت ہی  
 خوش ہو گئے۔ بعد ازاں میں نے ان کی خدمت میں  
 سکا اور پھر تمام ماہ کے کھانے صاحب سے بکٹ بہاؤ  
 ہوا رہا تھا۔ والد صاحب فرمایا کہ جیسے کہ وہ آپ  
 سے دیا کرتا تھا۔

۵۔ تیسرا شخص جو کہ میں نے عبد اللہ صاحب سے  
 شکر کی کہ وہ آپ کو لایا تھا کہ صاحب قادیان تھے۔  
 فرمایا کرتے تھے کہ حضرت صاحب قادیان نے فرماتے تھے کہ  
 اتنا صبر و تدبیر نہیں ہو گا کہ تم مر جائو گے۔ اگر بے سوری  
 غریب ہو گیا تو لوگوں کے دل دوتے گئے۔ آپ فرماتے تھے  
 کہ مجھے اس وقت کوئی گھبراہٹ نہیں تھی ان فکر اور پریشانی  
 ضرور تھی۔ لیکن جس وقت حضور نے تقریر فرمائی اور بتاواں  
 ان کی حقیقت و سبب تو طبیعت میں بناشت اور اشرار صدمہ  
 پیدا ہو گیا اور ایمان تازہ ہو گیا۔ فرماتے تھے کہ میں نے  
 بہت سزا جہاد کیا تھا کہ تم کو خود کھانا دینا اور اسے ایک  
 گناہی شکر تھا کہ ہونے پر ہی لاہور و حجام سے باقاعدہ  
 میں نے شکر کیا۔ بعد میں ہی اسے دیکھ کر کھلیا کہ ہاتھ میں  
 اور وہاں سے وہاں سے اور کھانا ہے جسے میرے

سب کچھ ہونے پر وہ وقت پر وقت کا غلو کہ ہوا  
 میں تھا کہ میں نے اپنے ہاتھ میں دیکھا کہ  
 میں نے اپنے ہاتھ میں دیکھا کہ میں نے اپنے ہاتھ میں  
 میں تھا کہ میں نے اپنے ہاتھ میں دیکھا کہ میں نے اپنے ہاتھ میں  
 وہاں میں لکھی تھی اور یہ وقت کی طرف سے جو  
 تھے اور وہی لکھی تھی اور یہ وقت کی طرف سے جو  
 حاجت حاصل ہوئی کہ میں نے اس کے ملک کی حاجت کے  
 جو تمام وہاں اور ہر جہاں میں تھے اور یہ ملک  
 گھر کے اور دولت پر جانچ کر ایک حضور اللہ و فرشتہ  
 شکر میں نے اپنے ہم میں سے ایک شخص سے عرض کیا کہ حضور  
 کچھ تو نیکی ضرور ہے تو تو حاضر کی جاوے حضور نے فرمایا  
 کہ تم میں سے کون سا ہے کہ تم کو یہ کتاب کا ہے۔ یہ بھی فرمایا کرتے  
 تھے کہ جو وقت لڑی حیدر آباد کی عزائی کے ساتھ حضرت صاحب  
 کی خدمت میں گئے جو کئی ہی تو میں وہاں موجود تھا۔ حضرت  
 سے خود ہی یہ مسطورہ لکھا کہ میں نے 1292ھ کے 12  
 ذی القعدة میں وہ صاحب قادیان سے فرمایا کہ صاحب  
 میں کھانا کھانے سے منع فرمایا کہ میں نے کھانا کھانی  
 اور جو کئی اشیا میں چھاپ کر رکھا کہ زنا صاحب بہک  
 گئے۔ یہ صاحب سے تمہارا کتاب جگہ جگہ لفظ میں  
 میری خدمت میں حضور ہونے کے ساتھ میں نے اس سے ہاتھ  
 لے کر اسے اور وہاں سے رہی میں کئی کئی کئی

صاحب قادیان نے فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ میں  
 یہ وقت کی طرف سے جو  
 حاجت حاصل ہوئی کہ میں نے اس کے ملک کی حاجت کے  
 جو تمام وہاں اور ہر جہاں میں تھے اور یہ ملک  
 گھر کے اور دولت پر جانچ کر ایک حضور اللہ و فرشتہ  
 شکر میں نے اپنے ہم میں سے ایک شخص سے عرض کیا کہ حضور  
 کچھ تو نیکی ضرور ہے تو تو حاضر کی جاوے حضور نے فرمایا  
 کہ تم میں سے کون سا ہے کہ تم کو یہ کتاب کا ہے۔ یہ بھی فرمایا کرتے  
 تھے کہ جو وقت لڑی حیدر آباد کی عزائی کے ساتھ حضرت صاحب  
 کی خدمت میں گئے جو کئی ہی تو میں وہاں موجود تھا۔ حضرت  
 سے خود ہی یہ مسطورہ لکھا کہ میں نے 1292ھ کے 12  
 ذی القعدة میں وہ صاحب قادیان سے فرمایا کہ صاحب  
 میں کھانا کھانے سے منع فرمایا کہ میں نے کھانا کھانی  
 اور جو کئی اشیا میں چھاپ کر رکھا کہ زنا صاحب بہک  
 گئے۔ یہ صاحب سے تمہارا کتاب جگہ جگہ لفظ میں  
 میری خدمت میں حضور ہونے کے ساتھ میں نے اس سے ہاتھ  
 لے کر اسے اور وہاں سے رہی میں کئی کئی کئی

۱۔ ایک شخص نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھ میں  
 یہ وقت کی طرف سے جو  
 حاجت حاصل ہوئی کہ میں نے اس کے ملک کی حاجت کے  
 جو تمام وہاں اور ہر جہاں میں تھے اور یہ ملک  
 گھر کے اور دولت پر جانچ کر ایک حضور اللہ و فرشتہ  
 شکر میں نے اپنے ہم میں سے ایک شخص سے عرض کیا کہ حضور  
 کچھ تو نیکی ضرور ہے تو تو حاضر کی جاوے حضور نے فرمایا  
 کہ تم میں سے کون سا ہے کہ تم کو یہ کتاب کا ہے۔ یہ بھی فرمایا کرتے  
 تھے کہ جو وقت لڑی حیدر آباد کی عزائی کے ساتھ حضرت صاحب  
 کی خدمت میں گئے جو کئی ہی تو میں وہاں موجود تھا۔ حضرت  
 سے خود ہی یہ مسطورہ لکھا کہ میں نے 1292ھ کے 12  
 ذی القعدة میں وہ صاحب قادیان سے فرمایا کہ صاحب  
 میں کھانا کھانے سے منع فرمایا کہ میں نے کھانا کھانی  
 اور جو کئی اشیا میں چھاپ کر رکھا کہ زنا صاحب بہک  
 گئے۔ یہ صاحب سے تمہارا کتاب جگہ جگہ لفظ میں  
 میری خدمت میں حضور ہونے کے ساتھ میں نے اس سے ہاتھ  
 لے کر اسے اور وہاں سے رہی میں کئی کئی کئی

سب کچھ ہونے پر وہ وقت پر وقت کا غلو کہ ہوا  
 میں تھا کہ میں نے اپنے ہاتھ میں دیکھا کہ میں نے اپنے ہاتھ میں  
 میں نے اپنے ہاتھ میں دیکھا کہ میں نے اپنے ہاتھ میں  
 میں تھا کہ میں نے اپنے ہاتھ میں دیکھا کہ میں نے اپنے ہاتھ میں  
 وہاں میں لکھی تھی اور یہ وقت کی طرف سے جو  
 تھے اور وہی لکھی تھی اور یہ وقت کی طرف سے جو  
 حاجت حاصل ہوئی کہ میں نے اس کے ملک کی حاجت کے  
 جو تمام وہاں اور ہر جہاں میں تھے اور یہ ملک  
 گھر کے اور دولت پر جانچ کر ایک حضور اللہ و فرشتہ  
 شکر میں نے اپنے ہم میں سے ایک شخص سے عرض کیا کہ حضور  
 کچھ تو نیکی ضرور ہے تو تو حاضر کی جاوے حضور نے فرمایا  
 کہ تم میں سے کون سا ہے کہ تم کو یہ کتاب کا ہے۔ یہ بھی فرمایا کرتے  
 تھے کہ جو وقت لڑی حیدر آباد کی عزائی کے ساتھ حضرت صاحب  
 کی خدمت میں گئے جو کئی ہی تو میں وہاں موجود تھا۔ حضرت  
 سے خود ہی یہ مسطورہ لکھا کہ میں نے 1292ھ کے 12  
 ذی القعدة میں وہ صاحب قادیان سے فرمایا کہ صاحب  
 میں کھانا کھانے سے منع فرمایا کہ میں نے کھانا کھانی  
 اور جو کئی اشیا میں چھاپ کر رکھا کہ زنا صاحب بہک  
 گئے۔ یہ صاحب سے تمہارا کتاب جگہ جگہ لفظ میں  
 میری خدمت میں حضور ہونے کے ساتھ میں نے اس سے ہاتھ  
 لے کر اسے اور وہاں سے رہی میں کئی کئی کئی

صاحب قادیان نے فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ میں  
 یہ وقت کی طرف سے جو  
 حاجت حاصل ہوئی کہ میں نے اس کے ملک کی حاجت کے  
 جو تمام وہاں اور ہر جہاں میں تھے اور یہ ملک  
 گھر کے اور دولت پر جانچ کر ایک حضور اللہ و فرشتہ  
 شکر میں نے اپنے ہم میں سے ایک شخص سے عرض کیا کہ حضور  
 کچھ تو نیکی ضرور ہے تو تو حاضر کی جاوے حضور نے فرمایا  
 کہ تم میں سے کون سا ہے کہ تم کو یہ کتاب کا ہے۔ یہ بھی فرمایا کرتے  
 تھے کہ جو وقت لڑی حیدر آباد کی عزائی کے ساتھ حضرت صاحب  
 کی خدمت میں گئے جو کئی ہی تو میں وہاں موجود تھا۔ حضرت  
 سے خود ہی یہ مسطورہ لکھا کہ میں نے 1292ھ کے 12  
 ذی القعدة میں وہ صاحب قادیان سے فرمایا کہ صاحب  
 میں کھانا کھانے سے منع فرمایا کہ میں نے کھانا کھانی  
 اور جو کئی اشیا میں چھاپ کر رکھا کہ زنا صاحب بہک  
 گئے۔ یہ صاحب سے تمہارا کتاب جگہ جگہ لفظ میں  
 میری خدمت میں حضور ہونے کے ساتھ میں نے اس سے ہاتھ  
 لے کر اسے اور وہاں سے رہی میں کئی کئی کئی

تمام صاحب قادیان نے فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ میں  
 یہ حوالہ صفحہ 239 پر درج ہے۔ 7 نومبر 1923ء

ماسوا اس کے اگر محمد حسین کی دانست میں میرے اہامات میرے ہی اقترا تھے تو اس کو چاہیے تھا کہ بجائے ایسی بے ہودہ باتوں کے یہ مضمون لکھتا کہ گورنمنٹ کو یہ تحقیق کرنا چاہیے کہ یہ شخص ملہم من اللہ ہونے کے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا۔ اور طریق آزمائش یہ ہے کہ گورنمنٹ عام طور پر اس سے کوئی پیشگوئی مانگے پھر اگر وہ پیشگوئی اپنے وقت پر پوری نہ ہو تو گورنمنٹ یقین کر لے کہ یہ شخص جھوٹا اور مفتری ہے اور اس سے یہ نتیجہ نکال لے کہ لیکرام کا قاتل میں ہی ہو گا۔ کیونکہ ایک جھوٹا شخص جب کسی اپنی پیشگوئی میں دیکھتا ہے کہ میرا جھوٹ کھل جائے گا تو بے شک وہ ناہانز طریقوں کی طرف توجہ کرتا ہے اور اس کی خبیث ذات سے کچھ بعید نہیں ہوتا کہ ایسی ایسی ناپاک حرکات اسکی صادر ہوں۔ اگر اس تقریر کے ساتھ گورنمنٹ کو لیکرام کے مقدمہ میں میری نسبت توجہ دلاتا تو کچھ تعجب نہ تھا کہ یہ تقریر قبول کے لائق ٹھہرتی اور انصاف پسند لوگ بھی اس کو پسند کرتے اور مجھے بھی ایسے مواخذہ میں کچھ عذر نہیں ہو سکتا تھا۔ کیونکہ اگر میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوں اور میری پیشگوئیاں میری طرف سے نہیں ہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو بے شک میری بریت کے لئے اس قدر خدا تعالیٰ کی مدد چاہیے کہ وہ کسی الہامی پیش گوئی سے جو سچی نکلے گورنمنٹ کو اس کے مطالبہ کے وقت مطمئن کر دیوے اور وہ سمجھ جائے کہ درحقیقت یہ کاروبار خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے نہ انسان کی طرف سے۔

لیکن اس بات پر زور دینا کہ میں لیکرام کے قاتل کا نام بیان کروں صحیح نہیں ہے خدا تعالیٰ اپنے مصالح میں کسی کا محکوم نہیں ہو سکتا۔ اگر اسنے ایک بات کو مخفی کرنا چاہا ہے تو ہم اس پر زور نہیں ڈال سکتے کہ وہ ضرور اس بات کو ظاہر کرے۔ جو شخص خدا تعالیٰ پر ایسی حکومت چاہنا چاہتا ہے یا پھلانے کے لئے درخواست کرتا ہے تو وہ عبودیت کے آداب سے بالکل بے نصیب ہے۔ خدا علم غیب اپنی مرضی سے ظاہر کرتا ہے انسان کی مرضی سے ظاہر نہیں کرتا دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس پتہ کے لگانے کی کس قدر ضرورت تھی کہ ان کا بیٹا

نور احمد نے کہا کہ خدا کی قدرت سے کیا تعجب کہ وہ لڑکا دے۔ اس سے قریباً تین برس کے بعد جیسا کہ ابھی لکھتا ہوں دہلی میں میری شادی ہوئی اور خدا نے وہ لڑکا بھی دیا اور تین اور عطا کئے۔ اس بیان کی تمام یہ لوگ تصدیق کریں گے بشرطیکہ قسم نمونہ نمبر ۲ دے کر پوچھا جائے۔ اور حافظ نور احمد سخت مخالف ہے مگر نمونہ نمبر ۲ کی قسم اس کو بھی سچ بولنے پر مجبور کرے گی۔

۱۰ تخمیناً اٹھارہ برس کے قریب عرصہ گزرا ہے کہ مجھے کسی تقریباً مولوی محمد حسین بٹالوی ایڈیٹر رسالہ اشاعت السنۃ کے مکان پر جانے کا اتفاق ہوا۔ اُس نے مجھ سے دریافت کیا کہ آجکل کوئی الہام ہوا ہے؟ میں نے اسکو یہ الہام سنایا۔ جس کو میں کسی دفعہ اپنے مخلصوں کو سنا چکا تھا۔ اور وہ یہ ہے کہ بکر و شیبک۔ جس کے یہ معنی ان کے آگے اور نیز ہر ایک کے آگے میں نے ظاہر کئے کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ وہ دو عورتیں میرے نکاح میں لائے گا۔ ایک بکر ہوگی اور دوسری بیوہ۔ چنانچہ یہ الہام جو بکر کے متعلق تھا پورا ہو گیا۔ اور اسوقت بفضلہ تعالیٰ چارپہر اس بیوی سے موجود ہیں اور بیوہ کے الہام کی انتظار ہے۔ میں نہیں یقین کر سکتا کہ مولوی محمد حسین بوجہ شدت عناد اور تعصب اس پیشگوئی کی نسبت اپنی واقعیت بیان کر سکے۔ لیکن اگر حلف مطابق نمونہ نمبر ۲ دیجائے تو اس صورت میں اُمید ہے کہ سچ بول دے۔

۱۱ تخمیناً سولہ برس کا عرصہ گزرا ہے کہ میں نے شیخ حامد علی اور لالہ شرمپت کھتری ساکن قادیان اور لالہ ملاو امل کھتری ساکن قادیان اور جہان محمد مرحوم ساکن قادیان اور بہت سے اور لوگوں کو یہ خبر دی تھی کہ خدا نے اپنے الہام سے مجھے اطلاع دی ہے کہ

نہایت نجیب اور شریف اور عالی نسب..... بزرگوار خاندان سادات سے یہ تعلق قرابت اس عاجز کو پیدا ہوا اور اس نکاح کے تمام ضروری مصارف تیاری مکان وغیرہ تک ایسی آسانی سے خدا تعالیٰ نے بہم پہنچائے کہ ایک ذرہ بھی فکر کرنا نہ پڑا اور اب تک اس اپنے وعدہ کو پورے کئے چلا جاتا ہے۔ (شخص حق صفحہ ۲۲، ۲۳۔ روحانی خزائن جلد ۱ صفحہ ۲۸۲، ۲۸۳)

۱۸۸۱ء (قریباً) ”اس پیشگوئی کو دوسرے اہامات میں اور بھی تصریح سے بیان کیا گیا ہے یہاں تک کہ اُس شہر کا

نام بھی لیا گیا تھا جو دہلی ہے اور یہ پیشگوئی بہت سے لوگوں کو سنائی گئی تھی..... اور جیسا کہ لکھا گیا تھا ایسا ہی طور پر آیا کیونکہ بغیر سابق تعلقات قرابت اور رشتہ کے دہلی میں ایک شریف اور مشہور خاندان سیادت میں میری شادی ہوگی..... سوچو کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ میری نسل میں سے ایک بڑی بنیاد حمایت اسلام کی ڈالے گا اور اس میں سے وہ شخص پیدا کرے گا جو آسمانی روح اپنے اندر رکھتا ہوگا اس لئے اُس نے پسند کیا کہ اس خاندان کی لڑکی میرے نکاح میں لاوے اور اس سے وہ اولاد پیدا کرے جو اُن نوروں کو جن کی میرے ہاتھ سے تحریر می ہوئی ہے دنیا میں زیادہ سے زیادہ پھیلاوے اور عجیب اتفاق ہے کہ جس طرح سادات کی دادی کا نام شہر بانو تھا اسی طرح میری بیوی جو آئندہ خاندان کی ماں ہوگی اس کا نام نصرت جہاں بیگم ہے یہ اتفاق کے طور پر اس بات کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے تمام جہاں کی مدد کے لئے میرے آئندہ خاندان کی بنیاد ڈالی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ کبھی ناموں میں بھی اُس کی پیشگوئی مخفی ہوتی ہے۔ (تریاق القلوب صفحہ ۶۳، ۶۴۔ روحانی خزائن جلد ۱ صفحہ ۱۲۷، ۱۲۸)

۱۸۸۱ء (تخمیناً) ”تخمیناً اٹھارہ برس کے قریب عرصہ گزر رہا ہے کہ مجھے کسی تقریب سے مولوی محمد حسین شاہوی ایڈیٹر

رسالہ اشاعت السنۃ کے مکان پر جانے کا اتفاق ہوا۔ اُس نے مجھ سے دریافت کیا کہ آج کل کوئی اہام ہوا ہے یا نہیں اُس کو یہ اہام سنایا جس کو میں کئی دفعہ اپنے مخلصوں کو سننا چکا تھا اور وہ یہ ہے کہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جس کے یہ معنی ان کے آگے اور نیز ہر ایک کے آگے ہیں نے ظاہر کئے کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ وہ دو عورتیں میسر نکاح میں لائے گا ایک بکر ہوگی اور دوسری بیوہ۔ چنانچہ یہ اہام جو بکر کے متعلق تھا پورا ہو گیا اور اس وقت بفضلہ تعالیٰ چار پسر اس بیوی سے موجود ہیں اور بیوہ کے اہام کی انتظار ہے۔

(تریاق القلوب صفحہ ۳۳۔ روحانی خزائن جلد ۱ صفحہ ۷۰)

لے خاکسار کی ریلے میں یہ اہام الہی اپنے دونوں پہلوؤں سے حضرت اُن جان کی ذات میں ہی پورا ہوا ہے جو بکر یعنی کنواری عورتیں اور  
تیتب یعنی بیوہ رہ گئیں۔ واللہ اعلم۔ (مرتب)



یہ ہودہ گوئی اور حماقت ہے۔ اس مقدمہ کی یہ صورت تو نہیں ہے کہ پیشگوئی کے بعد لڑکا پیدا ہو گیا بلکہ وہ لڑکا جو اب موجود ہے پیشگوئی کے وقت میں پندرہ یا چودہ برس کا تھا اور اب تیس یا اسی برس کا ہو گا۔ پس جبکہ پیشگوئی کے زمانہ میں یہ لڑکا موجود تھا تو ایک عقلمند صاف سمجھ سکتا ہے کہ اس پیشگوئی کا یہ مطلب ہے کہ یہ لڑکا کالعدم ہو اور اسکے بعد نسل کا خاتمہ ہو اور یہی خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھے تفہیم ہوئی تھی۔ ظہر سے زیادہ کوئی الہام کے معنی نہیں سمجھ سکتا اور نہ کسی کا حق ہے جو اسکے مخالف کہے۔ پس جبکہ خدا تعالیٰ نے اس پیشگوئی کے یہی معنی کھولے کہ یہ لڑکا کالعدم ہے اور اسکے بعد سعادت کی نسل نہیں چلے گی اور اسی پر سعادت کی نسل کا خاتمہ ہو جائیگا تو پھر کس قدر ہٹ دھرمی ہے کہ یہ کہنا کہ سعادت اپنی موت کے بعد لڑکا چھوڑ گیا۔

اے نادان! یہ لڑکا تو پیشگوئی کے وقت موجود تھا اور محاورات عرب کو بالاستقصاء دیکھنے سے معلوم ہو گا کہ اتر کے لفظ میں شرط نہیں ہے کہ کوئی شخص صاحب اولاد اس حالت میں مرے کہ جب اس کی زندگی میں اس کی اولاد فوت ہو جائے بلکہ نسل کی جڑھ کٹ جانا شرط ہے جیسا کہ اتر کے معنی لغت عرب میں یہ لکھے ہیں کہ البتر استیصال الشیء قطعاً یعنی بتر کہتے ہیں کسی چیز کو جڑھ سے کاٹ دینے کو۔ پس اس صاف ظاہر ہے کہ یہ پیشگوئی آئندہ نسل کیلئے تھی یعنی یہ کہ موجودہ لڑکے سے آئندہ نسل نہیں چلیگی جیسا کہ ہم آئندہ تصریح سے بیان کرینگے پس جس شخص کی فطرت میں ایک ذرہ عقل اور حیا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا کسی کی نسبت یہ پیشگوئی کرنا کہ فلاں شخص منقطع النسل ہو جائیگا۔ اس پیشگوئی کیلئے یہ ضروری نہیں کہ اس کی زندگی میں وہ تمام نسل مرجائے کیونکہ اگر یہی شرط ہو تو پھر ایسی صورت میں القیوع نسل کا کیا نام رکھنا چاہیے کہ ایک انسان ایک یا دو ولد چھوڑ کر مر جائے اور بعد اسکے کسی وقت وہ لڑکے بھی مرجائیں اور کچھ نسل باقی نہ رہے کیا عرب کے محاورات میں بجز اتر کے لفظ کے ایسی صورت میں کوئی اور لفظ بھی موجود ہے اور کیا یہ کہنا جائز ہو گا کہ ایسا شخص منقطع النسل نہیں اور لفظ استیصال الشیء قطعاً اس پر لازم نہیں آتا پس ظاہر ہے کہ ایسا خیال حماقت اور دیوانگی ہے۔ اور زبان عرب میں اس قسم کے قطع نسل کے لئے

کیا گیا ہے یعنی یہ کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں اور مکالمہ الہیہ سے مشرف ہوں۔ اور مامور من اللہ ہوں اور پیری صداقت کا نشان یہ پیشگوئی ہے۔ اب آپ اگر کچھ بھی اللہ جل شانہ کا خوف رکھتے ہیں تو سمجھ سکتے کہ ایسی پیشگوئی جو منجانب اللہ ہونے کیلئے بطور ثبوت کے پیش کی گئی ہے اسی حالت میں سچی ہو سکتی تھی کہ جب درحقیقت یہ عاجز منجانب اللہ ہو۔ کیونکہ خدا تعالیٰ ایک مُفتری کی پیشگوئی کو جو ایک جھوٹے وعظ کے لئے بطور شاہد صدق بیان کی گئی ہو گزیر سکتی نہیں کر سکتا۔ وجہ یہ کہ اس میں خلق اللہ کو دھوکا لگتا ہے جیسا کہ اللہ جل شانہ خود مدعی صداقت کیلئے یہ علامت قرار دیکر فرماتا ہے

وان يك صادقاً يصيبكم بعض الذي يعدكم - اور فرماتا ہے فلا يظہر علی غیبہ احداً الا من ارتضى من رسول - پھر رسول کا لفظ عام ہے جس میں رسول اور نبی اور محدث داخل ہیں۔ پس اس پیشگوئی کے الہامی ہونے کیلئے ایک مسلمان کیلئے یہ دلیل کافی ہے جو منجانب اللہ ہونے کے دشمنی کے ساتھ یہ پیشگوئی بیان کی گئی اور خدا تعالیٰ نے اس کو سچی کر کے دکھلا دیا اور اگر آپ کے نزدیک یہ ممکن ہے کہ ایک شخص دراصل مُفتری ہو اور سر اسر دروغ گوئی سے کہے کہ میں خلیفۃ اللہ اور مامور من اللہ اور مجدد وقت اور مسیح موعود ہوں اور میرے صدق کا نشان یہ ہے کہ اگر فلاں شخص مجھے اپنی بیٹی نہیں دینگا اور کسی دوسرے سے نکاح کرے گا تو نکاح کے بعد تین برس تک بلکہ اس سے بہت قریب فوت ہو جائے گا اور پھر ایسا ہی واقعہ ہو جائے تو برائے خدا اس کی نظیر پیش کرو۔ ورنہ یاد رکھو کہ مرنے کے بعد اس انکار اور تکذیب اور تکفیر سے پوچھے جاؤ گے۔ خدا تعالیٰ صاف فرماتا ہے کہ ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب - سو چکر دیکھو کہ اس کے یہی معنی ہیں جو شخص اپنے دعویٰ میں کاذب ہو اسکی

۱۹: مومن، ۲۸: الجن، ۲۸: مومن، ۲۹:

پیشگوئی ہرگز پوری نہیں ہوتی۔ شیخ صاحب اب وقت ہے سمجھ جاؤ اور اُس دن سے ڈرو جس دن کوئی شیخی پیش نہیں جائے گی۔ اور اگر کوئی نجومی یا رمال یا جھڑکی اس عاجز کی طرح دعویٰ کرے کہ کوئی پیشگوئی دیکھ سکتا ہے تو اس کی نظیر پیش کرو اور چند اخباروں میں درج کرادو۔ اور یاد رکھو کہ ہرگز پیش نہیں کر سکو گے اور ایسا نجومی ہلاک ہوگا۔ خدا تعالیٰ تو اپنے نبی کو فرماتا ہے کہ اگر وہ ایک قول میں اپنی طرف سے بتاتا تو اُس کی رگ جان قطع کی جاتی۔ پھر یہ کیونکر ہو کہ بجائے رگ جان قطع کی جانے کے اللہ جل شانہ اس عاجز کو جو آپ کی نظر میں کافر مغتری و جہال کذاب ہے دشمنوں کے مقابل پر یہ عزت لے کہ تائید دعویٰ میں پیشگوئی پوری کرے۔ کبھی دنیا میں یہ ہوا ہے کہ کاذب کی خدا تعالیٰ نے ایسی مدد کی ہو کہ وہ گیارہ برس سے خدا تعالیٰ پر یہ افسر کر رہا ہو کہ اُس کی وحی ولایت اور وحی محدثیت میرے پر نازل ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ اُس کی رگ جان نہ کاٹے بلکہ اُس کی پیشگوئیاں کو پورا کر کے آپ جیسے دشمنوں کو متفعل اور نادم اور لاجواب کرے اور آپ کی کوشش کا نتیجہ یہ ہو کہ آپ کی تکفیر سے پہلے تو کل ۵، آدمی سالانہ جلسہ میں شریک ہوں اور بعد آپ کی تکفیر اور جانکا ہی اور لوگوں کے روکنے کے تین سو ستائیس اصحاب اور مخلص جلسہ اشاعتِ حق پر دوڑے آویں۔ اب اس سے زیادہ کیا لکھوں میں اس خط کو انشاء اللہ چھاپ کر شائع کر دوں گا اور مجھے اس بات کی ضرورت نہیں کہ اس الہامی پیشگوئی کی آزمائش کے لئے بمالہ میں کوئی مجلس مقرر کروں مناسب ہے کہ آپ بھی اپنے اشاعت السنہ میں میرے اس خط کو شائع کر دیں اور یہ بات بھی ساتھ لکھ دیں کہ اب آپ کو قبول کرنے میں کیا عذر ہے خود منصف لوگ دیکھ لیں گے کہ وہ عذر صحیح یا غلط ہے۔

حصہ دوم

۳۲۴

ازالہ اوہام

حدیثیں پیش کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سو برس کے بعد کوئی شخص زمین پر زندہ نہیں رہ سکتا۔ سو سنت جماعت کا یہ مذہب ہے کہ امام محمد حسدی فوت ہو گئے ہیں اور آخری زمانہ میں انہیں کے نام پر ایک اور امام پیدا ہوگا۔ لیکن محققین کے نزدیک حسدی کا آنا کوئی یقینی امر نہیں ہے۔

اس جگہ مجھے خور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ درحقیقت اس مسئلہ میں شیعہ اور سنت جماعت میں جو اختلاف ہے اس میں کسی تائیدی غلطی کو دخل نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ شیعہ کی روایات کی بعض رسومات کرام کے کشف لطیف پر بنیاد معلوم ہوتی ہے چونکہ ائمہ اثنا عشر نہایت حدیث کے مقدس اور راستباز اور ان لوگوں میں سے تھے جن پر کشف صحیح کے دروازے کھولے جاتے ہیں اس لئے ممکن اور بالکل قرین قیاس ہے جو بعض اگاہانہ نے خدا تعالیٰ سے الہام پا کر اس مسئلہ کو اسی طرز اور اسی اصل سے بیان کیا ہو جیسا کہ ملاکی کی کتاب میں ملاکی نے ایلیاہ نبی کے دوبارہ آنے کا حال بیان کیا تھا اور جیسا کہ مسیح کے دوبارہ آنے کا شور مچا ہوا ہے اور درحقیقت مراد جہاں کشف یہ ہوگی کہ کسی زمانہ میں اس امام کے ہم رنگ ایک اور امام آئے گا جو اس کا ہم نام اور ہم قوت اور ہم خاصیت ہوگا گویا وہی آئے گا۔ پھر یہ لطیف نکتہ جب جسمانی خیالات کے لوگوں میں پھیلا تو ان لوگوں نے موافق اپنی موٹی نگاہ کے یہی عقیدہ کر لیا ہوگا کہ وہ امام سد ہارس سے کسی فارسی چھپا ہوا ہے اور آخری زمانہ میں ماہر نکل آئے گا۔ مگر ظاہر ہے کہ ایسا خیال صحیح نہیں ہے۔ یہ عام محاورہ کی بات ہے کہ جب کوئی شخص کسی کا ہم رنگ اور ہم خاصیت ہو کر آتا ہے تو کہتے ہیں کہ گویا وہی آگیا۔ متقوفین بھی ان باتوں کے عام طور پر متائل ہیں اور کہتے ہیں کہ بعض اولیاء گذشتہ کی رو میں آئے کے بعد میں آئے والے ولیوں میں سماقی رہی ہیں اور اس قول سے انکا مطلب ہے کہ بعض ولی بعض اولیاء کی قوت اور طبع لیکر آتے ہیں گویا وہی ہوتے ہیں۔

دوسرے ہمدی کی ضرورت ہی کیا ہے اور یہ صرف امامین موصوفین کا ہی مذہب نہیں۔ بلکہ  
 ابن ماجہ اور حاکم نے بھی اپنی صحیح میں لکھا ہے لا مہدی الا عیسیٰ یعنی بجز عیسیٰ کے اس  
 وقت کوئی ہمدی نہ ہوگا۔ اور یوں تو ہمیں اس بہت کا اقترا ہے کہ پہلے بھی کئی ہمدی آئے  
 ہوں اور ممکن ہے کہ آئندہ بھی آویں اور ممکن ہے کہ امام محمد کے نام پر بھی کوئی ہمدی ظاہر  
 ہو سیکن جس طرز سے عمام کے خیال میں ہے اس کا ثبوت پایا نہیں جاتا۔ چنانچہ یہ صرف  
 ہماری ہی بات ہے نہیں اکثر محقق یہی راستے ظاہر کرتے آئے ہیں۔

بعض کہتے ہیں کہ اچھا ہمدی کا قصہ جلنے دو لیکن یہ جو بار بار حدیثوں میں بیان کیا گیا  
 ہے کہ عیسیٰ آئے گا۔ مسیح ابن مریم نازل ہوگا۔ ان صریح لفظوں کی کیوں تاویل کی جائے۔ اگر  
 اشد جلتانہ کے علم اور ازاہ میں ابن مریم سے مراد ابن مریم نہیں تھا تو اس نے لوگوں کو راستہ  
 ان مشکلات میں کیوں ڈالا اور سیدھا کیوں یہ کہہ دیا کہ کوئی مشیل مسیح آئے گا۔ بلکہ کون سی  
 ضرورت اس بات کی طرف داعی تھی جو ضرور مشیل مسیح آتا کوئی اور نہ آتا۔ اب کھلے کھلے لفظوں  
 سے کونکر انکار کریں یہ انکار تو دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے اور دہرہ  
 اس انکار کے یہ معنی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی غلط ہے۔

لیکن واضح ہو کہ یہ تمام اوہام باطلہ ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث میں بغرض تا زمانہ  
 خلق اللہ ایسے ایسے استعارات کا مستعمل ہونا کوئی انوکھی اور بے اصل بات نہیں اور  
 پہلی کتابوں میں ایسے استعارات کی نظیر موجود ہے فاستلوا اهل الذکر ان کتابکم  
 لا تعلمون۔ ایلیا کے قصہ کو دیکھو جس کو یہ خنا کہا گیا ہے۔ جبکہ قرآن کریم نے قطعاً اور  
 یقینی طور پر ظاہر کر دیا کہ حضرت مسیح ابن مریم فوت ہوئے۔ ہر تو اب اس سے بڑھ کر ضرورت  
 تاویل کے لئے اور کیا قرینہ ہوگا۔ مثلاً فرض کے طور پر بیان کرتا ہوں کہ مستند خط کے ذریعے  
 معلوم ہوا کہ ایک شخص کلکتہ میں رہنے والا عبد الرحمن نام جس کی شہادت کسی مقدمہ  
 کے لئے مؤثر تھی فوت ہو گیا ہے۔ پھر بعد اس کے ہم نے ایک ایسا کاغذ تکت دیکھا جس پر

لے محل ۱۴۴۴ھ

## مہدی کے متعلق عقیدے

یہ ضروری ہے کہ میں گورنمنٹ عالیہ انگلشیہ پر ظاہر کروں کہ مہدی مہمود کے بارے میں فرقہ دہاویہ کا جو اپنے تئیں اہل حدیث کے نام سے موسوم کرتے ہیں جن کا سرگروہ مولوی ابو سعید محمد حسین بٹالوی اپنے تئیں خیال کرتا ہے کیا عقیدہ ہے اور اس بارے میں میرا اور میری جماعت کا کیا عقیدہ ہے۔ کیونکہ اس تمام اختلاف اور باہمی عداوت کی جڑ یہی ہے کہ میں ایسے مہدی کو نہیں مانتا اس لئے میں ان لوگوں کی نظر میں کافر ہوں۔ اور میری نظر میں یہ لوگ غلطی پر ہیں۔ سو میں ذیل میں بمقابل اپنے عقیدہ کے ان لوگوں کا عقیدہ لکھتا ہوں جو مہدی کے بارے میں رکھتے ہیں۔ اگرچہ یہ عقیدہ جو مہدی کی نسبت اہل حدیث کا ہے جن کا اصلی نام دہاوی ہے ان کے صدیا رسالوں اور کتابوں میں پایا جاتا ہے لیکن میں مناسب دیکھتا ہوں کہ نواب صدیق حسن خان کی کتابوں میں سے اس عقیدہ کا کچھ حال بیان کروں۔ کیونکہ مولوی محمد حسین جو ان کا سرگروہ ہے صدیق حسن خان کو اس صدی کا مجدد مان چکا ہے (دیکھو اشاعت السنہ) اور اس کی کتابوں کو ایک مجدد کی ہدایات کی حیثیت سے ہر ایک اہل حدیث کے لئے واجب العمل سمجھتا ہے اور وہ یہ ہے:-

میرا اور میری جماعت کا عقیدہ  
مہدی کی نسبت

مہدی اور مسیح موعود کے بارے میں جو میرا عقیدہ اور میری جماعت کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کی تمام حدیثیں جو مہدی کے آنے کے بارے میں ہیں ہرگز قابل وثوق نہیں ہیں۔

ہمارے مخالف مولویوں کا عقیدہ  
مہدی کی نسبت

نواب صدیق حسن خان اپنی کتاب حج الکرامہ کے صفحہ ۳۷۳ میں اور نیز اس کا بیٹا سید نور الحسن خان اپنی کتاب اقرب الساعۃ کے صفحہ ۶۴ میں مہدی کی نسبت اہل حدیث کے عقیدہ کو منطرح کیا ہے

نہیں ہیں۔ میرے نزدیک ان پر تین قسم کا جرح ہوتا ہے یا یوں کہو کہ وہ تین قسم سے باہر نہیں۔ (۱) اول وہ حدیثیں کہ مرفوع اور غیر صحیح اور غلط ہیں اور ان کے راوی خیانت اور کذب متہم ہیں اور کوئی دیندار مسلمان ان پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ (۲) دوسری وہ حدیثیں ہیں جو ضعیف اور مجروح ہیں اور باہم تناقض اور اختلاف کی وجہ پائیدار اعتبار کے ساقط ہیں۔ اور حدیث کے نامی اماموں یا تو ان کا قطعاً ذکر ہی نہیں کیا اور یا جرح اور بے اعتباری کے لفظ کے ساتھ ذکر کیا ہے اور تو ثیق روایت نہیں کی یعنی راویوں کے صدق اور دیانت پر شک نہیں ہے۔ (۳) تیسری وہ حدیثیں ہیں جو درحقیقت صحیح تو ہیں اور طرق متعدد کے ان کی صحت کا ہر ملکا، لیکن یا تو وہ کسی پہلے زمانہ میں پوری ہو چکی ہیں اور مدت ہوئی کہ ان لڑائیوں کا خاتمہ ہو چکا ہے اور اب کوئی حالت منتظرہ باقی نہیں اور یا یہ بات ہے کہ ان میں ظاہری خلافت اور ظاہری لڑائیوں کا کچھ بھی ذکر نہیں ہے۔ اور ایک مہدی یعنی ہدایت یافتہ انسان کے آنے کی خوشخبری دی گئی ہے اور اشارات کے بلکہ مناسبات کے میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس کی ظاہری بادشاہت اور خلافت نہیں ہوگی اور نہ وہ لڑیگا اور نہ خودی

کرتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مہدی ظاہر ہوتے ہی اس قدر عیسائیوں کو قتل کرے گا کہ جو ان میں سے باقی رہ جائیں گے ان کو حکومت اور بادشاہت کا حوصلہ نہیں رہے گا۔ اور دیامت کی بولنے والے کے لئے نکل جائیگی۔ اور ذلیل ہو کر بھاگ جائیں گے۔ پھر اسی حج انکرامہ کے صفحہ ۲۴۴ میں لکھا ہے کہ "اس فتح کے بعد مہدی ہندوستان پر چڑھائی کرے گا اور ہندوستان کو فتح کرے گا اور ہندوستان کے بادشاہ کو گردن میں طوق ڈال کر اس کے سامنے حاضر کیا جائیگا اور تمام خزانے اور حکم عروج تک لوٹ جائیں گے۔" اور پھر اس کا زیادہ تشریح کرتے ہوئے اقرب الساقی کے صفحہ ۶۲ پر اس طرح کی ہے جو مندرجہ ذیل ہے: "تیرھویں صدی میں سمرقند اور ہندوستان کے بادشاہوں کو گردن میں طوق ڈال کر ان کے یعنی مہدی کے سامنے لائیں گے۔ ان کے خزانے بیت المقدس کا زبور کے جائیں گے۔" (پھر اس کے بعد اپنی رائے بیان کرتا ہے اور اس رائے کی تائید میں اس کے اپنے منہ کے لفظ یہ ہیں۔ "تین کہتا ہوں ہند میں اب تو کوئی بادشاہ بھی نہیں ہے۔ یہی چند رئیس ہنود یا مسلمان ہیں سو وہ کچھ حاکم مستقل نہیں ہیں۔ بلکہ برائے نام ہیں اس ولایت کے بادشاہ یورومین ہیں۔ غالباً اس وقت تک یعنی

ضمیمہ تحفہ گولڑویہ

۶۳

ہیں کہ یہ تو بھولتا افتراء ہے جو اس شخص نے کیا ہے۔ ہم نے اپنے باپ دادوں سے ایسا نہیں سنا۔ یہ تادان نہیں جانتے کہ کسی کو کوئی مرتبہ دینا خدا پر شکل نہیں۔ ہم نے انسانوں میں بعض کو بعض پر نصیحت دی ہے۔ پس اسی طرح اس شخص کو یہ مرتبہ عطا فرمایا تھا تا کہ مومنوں کیلئے نشان ہو۔ مگر خدا نے نشانوں سے لوگوں کو انکار کیا۔ دل تو مان گئے مگر انکار تکبر اور ظلم کی وجہ تھا۔ انکو کہہ دے کہ میرے پاس خاص خدا کی طرف سے گواہی ہے پس کیا تم مانتے نہیں۔ پھر ان کو کہہ دے کہ میرے پاس خاص خدا کی طرف سے گواہی ہے۔ پس کیا تم قبول نہیں کرتے۔ اور جب نشان دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو ایک معمولی امر ہے جو قدیم سے چلا آتا ہے۔ واضح ہو کہ آخری فقرہ اس الہام کا وہ آیت ہے جن کا یہ مطلب ہے کہ جب کفار نے شوق القمر دیکھا تھا تو یہی عذر پیش کیا تھا کہ یہ ایک کسوف کی قسم ہے ہمیشہ ہوا کرتا ہے کوئی نشان نہیں۔ اب اس پیشگوئی میں خدا تعالیٰ نے اس کسوف خسوف کی طرف اشارہ فرمایا جو اس پیشگوئی سے کئی سال بعد میں وقوع میں آیا جو کہ ہمدی مہرود کے لئے قرآن شریف اور حدیث وار قطعی میں بطور نشان مندرج تھا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اس کسوف خسوف کو دیکھ کر منکر لوگ یہی کہیں گے کہ یہ کچھ نشان نہیں۔ یہ ایک معمولی بات ہے۔ یاد رہے کہ قرآن شریف میں اس کسوف خسوف کی طرف آیت جمع الشمس والقمر میں اشارہ ہے۔ اور حدیث میں اس کسوف خسوف کے بارے میں امام باقر کی روایت ہے۔ جس کے یہ لفظ ہیں کہ ان لمہدینا ایتین۔ اور عجیب بات یہ کہ براہین ائمہ میں واقعہ کسوف خسوف سے قریباً پندرہ برس پہلے اس واقعہ کی خبر دی گئی اور یہ بھی بتلایا گیا کہ اس کے ظہور کے وقت ظالم لوگ اس نشان کو قبول نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ یہ ہمیشہ ہوا کرتا ہے۔ حالانکہ ایسی صورت جب سے کہ دنیا ہوئی کبھی پیش نہیں آئی کہ کوئی ہمدی کا دعویٰ کرنے والا ہو اور اس کے زمانہ میں کسوف خسوف ایک ہی مہینہ میں یعنی رمضان میں ہو۔ اور یہ فقرہ جو دو مرتبہ فرمایا گیا کہ قلی عندی شہادۃ من اللہ فهل انتم مؤمنون۔ وقل عندی شہادۃ من اللہ

۲۷

لے القیامۃ : ۱۰

یہ حوالہ صفحہ 246 پر درج ہے

تحفہ گولڑویہ ضمیمہ صفحہ 27 مندرجہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 63 از مرزا قادیانی



دینار الطاحی عن یونس عن الحسن ، عن ابی بکرۃ قال : قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم :  
 « إن اللہ عز وجل إذا تجلی لشیء من خلقه خشع له » تابعہ نوح بن قیس عن یونس  
 ابن عبید

۱۰ - حدثنا أبو سعید الأصطخری ثنا محمد بن عبد اللہ بن نوفل ثنا عبید بن یعیش ،  
 ثنا یونس بن بکر عن عمرو (۷) بن شمر عن جابر ، عن محمد بن علی قال : إن لہدینا آیتین لم  
 نکرنا منذ خلق السموات والأرض ، ینکسف القمر لأول لیلۃ من رمضان ، وتکسف  
 الشمس فی التصف منہ ، ولم تکونا منذ خلق اللہ السموات والأرض .

۱۱ - حدثنا ابن ابی داود ثنا أحمد بن صالح ومحمد بن سبۃ قالنا ابن وہب ، عن عمرو  
 ابن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثہ عن أبیہ ، عن عبد اللہ (۸) بن عمر عن رسول اللہ  
 صلی اللہ علیہ وسلم قال : « إن الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ینحسنان لموت أحد  
 ولا حیوان ، ولکنہما آیتان من آیات اللہ ، فإذا رأیتموہا فصنوا » .

الآخرۃ أعنی : ولکن اللہ إذا تجلی لشیء الخ وإنما فی سنن الترمذی من حدیث قبیصۃ اللہلالی  
 ومن حدیث النعمان بن بشیر ولفظہ : إن اللہ عز وجل إذا بد لشیء من خلقه خشع له ، وقد  
 أطال الحافظ ابن القیم الکلام فی معنی هذه الزیادۃ فی کتابہ مفتاح دار السعاده بما لامزید  
 علیہ . قولہ : عمرو (۷) بن شمر عن جابر ، کلاہما ضعیفان لا یحتج بہما . قولہ : عن عبد اللہ (۸)  
 ابن عمر ، الحدیث أخرجه الشیخان ، وأعلم أنه ثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الکسوف  
 والخسوف فی کل رکعۃ ب رکوع ، وفی کل رکعۃ رکوعان ، وفی کل رکعۃ ثلاث رکوعات ،  
 وأربعۃ رکوعات ، وخمسۃ رکوعات ، قال الحافظ فی فتح الباری : وجع بعضهم  
 بین هذه الاحادیث بتعدد الواقف ، وأن الکسوف وقع مراراً فیكون کل من هذه الأرجہ  
 جائزاً ، وإلى ذلك ذهب إسماعیل بن دہاریہ ، لکن لم یثبت عنہ الزیادۃ علی أربع رکوعات ،  
 وقال ابن خزیمۃ وابن المنذر والخطابی وغيرہم : يجوز العمل بجميع ما ثبت من ذلك ، وهو  
 من الاختلاف المباح ، وفواء النووی فی شرح مسلم ، واللہ أعلم .

( م ج ۲ - سنن الدارقطنی )

ایسا ہی ذرہ انصاف کرنا چاہیے کہ کس قوت اور چمک سے کسوت اور خسوف کی پیشگوئی پوری ہوئی۔ اور ہمارے دعویٰ پر آسمان نے گواہی دی۔ مگر اس زمانہ کے ظالم مولوی اس سے بھی منکر ہیں۔ خاص کر رئیس القجائین عبدالحق غزنوی اور اس کا تمام گروہ علیہم نعال لعن اللہ الفت متوقا۔ اپنے ناپاک شہتار میں نہایت اصرار سے کہتا ہے کہ یہ پیشگوئی بھی پوری نہیں ہوئی اس لیے پیدا مجال! پیشگوئی تو ہدی ہو گئی۔ لیکن تعصب کے غبار نے تجھ کو اندھا کر دیا۔ پیشگوئی کے اصل لفظ جو امام محمد باقر سے واقفانی میں مروی میں یہ ہیں: "ان المریدینا ایتمین لم تکنوا منذ خلق التھمت والارضین ینکسف القمر لاول لیلة من رمضان وتکسف الشمس فی التصف منہ الخ۔ یعنی ہمارے ہدی کی تائید اور تصدیق کے لئے دو نشان مقرر ہیں۔ اور جب کہ زمین و آسمان پیدا کئے گئے وہ دو نشان کسی ہدی کے وقت ظہور میں نہیں آئے۔ اور وہ یہ ہیں کہ ہدی کے اذکار کے وقت میں چاند کو اس پہلی رات میں گرہن ہوگا جو اس خسوف کی تین راتوں میں پہلی رات یعنی تیرھویں رات۔ اور سورج کو اس کے گرہن کے دنوں میں سے اُس دن گرہن ہوگا جو درمیان کا دن ہے یعنی اٹھائیس تاریخ کو اور جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے کسی ہدی کے تشبیہ اتفاق نہیں ہوا کہ اُس کے دہوی کی قوت میں خسوف کسوف رمضان میں ان تاریخوں میں ہوا۔ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا اس غرض سے نہیں تھا کہ وہ خسوف کسوف قانون قدرت کے برخلاف ظہور میں آئے گا۔ اور یہ حدیث میں کوئی ایسا لفظ ہے۔ بلکہ صرف یہ مطلب تھا کہ اُس ہدی سے پہلے کسی ہدی صادق یا کاذب کو یہ اتفاق نہیں ہوا ہوگا کہ اس نے ہدایت یا رسالت کا دعویٰ کیا ہو۔ اور اس کے وقت میں ان تاریخوں میں رمضان میں خسوف کسوف ہوا ہو۔ پس ان مولویوں کو چاہیے تھا۔ کہ اگر اس پیشگوئی کی صحت میں شک تھا تو ایسی کوئی نظیر سابق زمانہ میں سے جو کہ کسی کتاب کے پیش کرتے۔ جس میں لکھا ہوتا کہ پہلے ایسا دعویٰ ہو چکا ہے۔ اور اُس کے وقت میں ایسا خسوف کسوف بھی ہو چکا ہے مگر اس طرف تو انہوں نے رخ بھی نہیں کیا۔ اور یہ احمقانہ عذر پیش کر دیا ہے کہ اس پیشگوئی کے یہ معنی ہیں کہ چاند کو رمضان کی پہلی رات میں گرہن لگیگا۔ اور پندرہ تاریخ کو سورج گرہن ہوگا۔ لاجل لافوق۔ ان محققوں نے یہ معنی کس لفظ سے سمجھ لئے اسے نادانوں کی کھوس اندھوں! مولیت کو بدنام کرنے والا! ذرہ سوچ!

**اقول**۔ میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں وہ ہمدی ہوں جو مصداق من ولدہ فاطمہ و من عترتی وغیرہ ہے بلکہ میرا دعویٰ تو مسیح موعود ہونے کا ہے۔ اور مسیح موعود کسے کسی حدیث کا قول نہیں کہ وہ بنی فاطمہ وغیرہ میں سے ہوگا۔ ان ساتھ اس کے جیسا کہ تمام محدثین کہتے ہیں میں بھی کہتا ہوں کہ ہمدی موعود کے بارے میں جس قدر حدیثیں ہیں تمام مجروح اور مخدوش ہیں اور ایک بھی ان میں صحیح نہیں۔ اور جس قدر افتراء ان حدیثوں میں ہوا ہے کسی اور حدیث میں ایسا افتراء نہیں ہوا غلط افتراء عباسی وغیرہ کے ہمدی میں غلیفوں کو اس بات کا بہت شوق تھا کہ اپنے تئیں ہمدی موعود قرار دیں۔ پس اس وجہ سے بعض حدیثوں میں ہمدی کو نبی عباس میں سے قرار دیا۔ بعض میں بنی فاطمہ میں سے اور بعض حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ رجل من امتی کہ وہ ایک آدمی میری امت میں سے ہوگا۔ مگر دراصل تمام حدیثیں کسی اعتبار کے لائق نہیں یہ صرف میرا ہی قول نہیں بلکہ بڑے بڑے علماء اہل سنت ہی کہتے چلے آئے ہیں۔ اور ان حدیثوں کے مقابلہ پر یہ حدیث بہت صحیح ہے جو ابن ماجہ نے لکھی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ لا ہمدی الا عیسیٰ یعنی کوئی ہمدی نہیں صرف عیسیٰ ہی ہمدی ہے جو آنے والا ہے۔

**قولہ** پشین گوئیاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں علماء نے بھی تادیل کی ہے اکثر ایسی پائی جاتی ہیں جو بطور رد یا کے منکشف ہوئی ہیں۔ الخ

**اقول**۔ اس اعتراض کو میں نہیں سمجھ سکا اس لئے جواب سے مجبوری ہے۔  
**قولہ** مہل ظاہر تو چشم باطن نہیں رکھتے اس لئے ان لوگوں کا حضرت مسیح موعود کو نہ پہچانا کچھ تعجب نہیں۔ مگر جو لوگ اہل اللہ و اہل باطن میں ان لوگوں کو تو حضرت کو بذریعہ الہام وغیرہ پہچانا ضروری ہے جیسا کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مرحوم رسالہ تذکرۃ العادیل نام ہمدی موعود کے حال میں لکھتے ہیں کہ ابدال از شام و عصاب از عراق آمدہ باوے بہت گفتند۔  
**اقول**۔ یہ تمام اقوال اس بنا پر ہیں کہ ہمدی موعود بنی فاطمہ سے یا بنی عباس سے آئے گا اور ابدال اور قطب اس کی بیعت کریں گے مگر میں ابھی کچھ چکا ہوں کہ اگر محدثین کا یہی مذہب ہے

بعض اعتراضوں کے جواب

۲۰۲

حقیقۃ الوحی

ایک وہ وقت تھا کہ خدا کے بچے مسیح کو صلیب نے توڑا اور اس کو زخمی کیا تھا اور آخری زمانہ میں یہ مقدر تھا کہ مسیح صلیب کو توڑے گا۔ یعنی آسمانی نشانوں سے کفارہ کے عقیدہ کو دنیا سے اٹھا دے گا۔ حوض معاوضہ گلہ ندارد ۰

۲۔ نشان صحیح و اقطعی میں یہ ایک حدیث ہے کہ امام محمد باقر فرماتے ہیں انکم ہدیٰ یثاب ایتین لم تکنوا منذ خلق السموات والارض ینکسف القمر لاول لیلۃ من رمضان و تنکسف الشمس فی النصف منہ ترجمہ یعنی ہمارے مہدی کیلئے دو نشان ہیں اور جب کہ زمین و آسمان خدا نے پیدا کیا یہ دو نشان کسی اور مامور اور رسول کے وقت میں ظاہر نہیں ہوئے ان میں سے ایک یہ ہے کہ مہدی مہمود کے زمانہ میں رمضان کے مہینہ میں چاند کا گرہن اُسکی اول رات میں ہوگا یعنی تیرہویں تاریخ میں اور سورج کا گرہن اُسکے دنوں میں بیچ کے دن میں ہوگا یعنی اسی رمضان کے مہینہ کی اٹھائیسویں تاریخ کو اور ایسا واقعہ ابتدائے دنیا سے کسی رسول یا نبی کے وقت میں کبھی ظہور میں نہیں آیا صرف مہدی مہمود کے وقت اُس کا ہونا مقدر ہے۔ اب تمام انگریزی اور اردو اخبار اور جملہ ماہرین ہیئت اس بات کے گواہ ہیں کہ میرے زمانہ میں ہی جس کو عرصہ قریباً بارہ سال کا گذر چکا ہے اسی صفت کا چاند اور سورج کا گرہن رمضان کے مہینہ میں وقوع میں آیا ہے اور جیسا کہ ایک اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ گرہن دو مرتبہ رمضان میں واقع ہو چکا ہے۔ اول اس ملک میں دوسرے امریکہ میں اور دونوں مرتبہ انھیں تاریخوں میں ہوا ہے جن کی طرف حدیث اشارہ کرتی ہے اور چونکہ اس گرہن کے وقت میں مہدی مہمود ہونے کا مدعی کوئی زمین پر بجز میرے نہیں تھا اور نہ کسی نے میری طرح اس گرہن کو اپنی مہدویت کا نشان قرار دیکر صد با اشتہار اور رسالے اردو اور فارسی اور عربی میں دنیا میں شائع کئے اس لئے یہ نشان آسمانی میرے لئے متعین ہوا۔ دوسری اسپر دلیل یہ ہے کہ بارہ برس پہلے اس نشان کے ظہور سے خدا تعالیٰ نے اس نشان کے بارے میں مجھے خبر دی تھی کہ ایسا نشان ظہور میں آئے گا۔ اور وہ خبر براہین احمدیہ میں درج ہو کر قریب اس کے چوبیس نشان ظاہر ہو۔ لاکھوں آدمیوں میں مشتہر ہو چکی تھی۔

۲۰۲

یہ حوالہ صفحہ 252 پر درج ہے

حقیقۃ الوحی صفحہ 194 مندرجہ ذیل نمائش جلد 22 صفحہ 202 از مرزا قادیانی

اور بڑا افسوس ہے کہ ہمارے مخالف سراسر تعصب سے یہ اعتراض کرتے ہیں۔ اقل یہ کہ حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ چاند گرہن پہلی رات میں ہوگا اور سورج گرہن بیچ کے دن میں مگر ایسا نہیں ہوا یعنی اُن کے زعم کے موافق چاند گرہن شبِ ہلال کو ہونا چاہیے تھا جو قمری ہمینہ کی پہلی رات ہے اور سورج گرہن قمری ہمینہ کے پندرہویں دن کو ہونا چاہیے تھا جو ہمینہ کا بیچواں دن ہے۔ مگر اس خیال میں سراسر ان لوگوں کی نا سمجھی ہے کیونکہ دنیا جب سے پیدا ہوئی ہے چاند گرہن کیلئے تین راتیں خدا تعالیٰ کے قانون قدرت میں مقرر ہیں یعنی تیرہویں چودھویں پندرہویں۔ اور چاند گرہن کی پہلی رات جو خدا تعالیٰ کے قانون قدرت کے مطابق ہے وہ قمری ہمینہ کی تیرہویں رات ہے اور سورج کے گرہن کیلئے تین دن خدا کے قانون قدرت میں مقرر ہیں یعنی قمری ہمینہ کا ستائیسواں اٹھائیسواں اور اسیسواں دن۔ اور سورج کے تین دن گرہن میں سے قمری ہمینہ کے رُو سے اٹھائیسواں دن بیچ کا دن ہے۔ سواہی تاریخوں میں عین حدیث کے منشاء کے موافق سورج اور چاند کا رمضان میں گرہن ہوا۔ یعنی چاند گرہن رمضان کی تیرہویں رات میں ہوا اور سورج گرہن اسی رمضان کے اٹھائیسویں دن ہوا۔

اور عرب کے محاورہ میں پہلی رات کا چاند قمر بھی نہیں کہلاتا بلکہ تین دن تک اُس کا نام ہلال ہوتا ہے اور بعض کے نزدیک سات دن کا ہلال کہلاتا ہے۔ دوسرا یہ اعتراض ہے کہ اگر ہم قبول کر لیں کہ چاند کی پہلی رات سے مراد تیرہویں رات ہے اور سورج کے بیچ کے دن سے مراد اٹھائیسواں دن ہے تو اس میں خارق عادت کو نسا امر ہوا کیا رمضان کے ہمینہ میں کسی چاند گرہن اور سورج گرہن نہیں ہوا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان کے ہمینہ میں کسی یہ دونوں گرہن جمع نہیں ہوئے بلکہ یہ مطلب ہے کہ کسی مدعی رسالت یا نبوت کے وقت میں کسی یہ دونوں گرہن جمع نہیں ہوئے جیسا کہ حدیث کے ظاہر الفاظ اسی پر دلالت کر رہے ہیں۔ اگر کسی کا یہ دعویٰ ہو کہ کسی مدعی نبوت یا رسالت کے وقت میں یہ دونوں گرہن رمضان میں کسی کسی زمانہ میں جمع ہوئے ہیں تو اس کا فرض ہے کہ اس کا ثبوت ہے۔ خاص کر یہ امر کہ

اور بڑا افسوس ہے کہ ہمارے مخالف سرسمر تصدیق سے یہ اعتراض کرتے ہیں۔ اول یہ کہ حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ چاند گرہن پہلی رات میں ہو گا اور سورج گرہن بیچ کے دن میں مگر ایسا نہیں ہوا یعنی ان کے زعم کے موافق چاند گرہن شبِ ہلال کو ہونا چاہیے تھا جو قمری ہمینہ کی پہلی رات ہے اور سورج گرہن قمری ہمینہ کے پندرھویں دن کو ہونا چاہیے تھا جو ہمینہ کا بیچواں دن ہے۔ مگر اس خیال میں سرسمر ان لوگوں کی نابجھی ہے کیونکہ دنیا جب سے پیدا ہوئی ہے چاند گرہن کیلئے تین راتیں خدا تعالیٰ کے قانون قدرت میں مقرر ہیں یعنی تیرھویں چودھویں پندرھویں۔ اور چاند گرہن کی پہلی رات جو خدا تعالیٰ کے قانون قدرت کے مطابق ہے وہ قمری ہمینہ کی تیرھویں رات ہے اور سورج کے گرہن کیلئے تین دن خدا کے قانون قدرت میں مقرر ہیں یعنی قمری ہمینہ کا ستائیسواں اٹھائیسواں اور اسیسواں دن۔ اور سورج کے تین دن گرہن میں سے قمری ہمینہ کے رُو سے اٹھائیسواں دن بیچ کا دن ہے۔ سوا اسی تاریخوں میں عن حدیث کے منشا کے موافق سورج اور چاند کا رمضان میں گرہن ہوا۔ یعنی چاند گرہن رمضان کی تیرھویں رات میں ہوا اور سورج گرہن اسی رمضان کے اٹھائیسویں دن ہوا۔

اور عرب کے محاورہ میں پہلی رات کا چاند قمری نہیں کہلاتا بلکہ تین دن تک اس کا نام ہلال ہوتا ہے اور بعض کے نزدیک سات دن کا ہلال کہلاتا ہے۔ دوسرا یہ اعتراض ہے کہ اگر ہم قبول کر لیں کہ چاند کی پہلی رات سے مراد تیرھویں رات ہے اور سورج کے بیچ کے دن کو مراد اٹھائیسواں دن ہے تو اس میں خارق عادت کو نسا امر ہوا کیا رمضان کے ہمینہ میں کسی چاند گرہن اور سورج گرہن نہیں ہوا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان کے ہمینہ میں کسی یہ دونوں گرہن جمع نہیں ہوئے بلکہ یہ مطلب ہے کہ کسی مدعی رسالت یا نبوت کے وقت میں کسی یہ دونوں گرہن جمع نہیں ہوئے جیسا کہ حدیث کے ظاہر الفاظ اسی پر دلالت کر رہے ہیں۔ اگر کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ کسی مدعی نبوت یا رسالت کے وقت میں یہ دونوں گرہن رمضان میں کسی کسی زمانہ میں جمع ہوئے ہیں تو اس کا فرض ہے کہ اس کا ثبوت ہے۔ خاص کر یہ امر کہ

بے علمائے کفرین ان آثار اور اخبار کی نسبت کیا کہتے ہو جن کو امام جہد اولیٰ سب شہزادی اور دوسرے اکابر متقدمین نے اپنی اپنی کتابوں میں بسوٹا طور پر نقل کیا ہے۔ جن میں سے کچھ حقہ مولیٰ مدینہ حسن خاں بھوپالوی نے اپنی فارسی کتبوں میں صحیح النکاح وغیرہ میں بطور اختصار لکھا ہے کہ ہدی موعود کے چار نشان خاص ہیں جن میں اس کا نیز شریک نہیں

۱۔ یہ کہ ظہار اس کی تکفیر کریں گے اور اس کا نام کا فر اور دجال اور بے ایمان رکھیں گے اور تمام لی کر اس کی تکذیب کریں گے اور اس کی تکفیر اور سب و شتم کے لئے کمر باندھیں گے اور اس کی نسبت ہدایت سخت کینہ پیدا کریں گے اور اہل کو بھد اور مرتد خیال کریں گے اور اس کی نسبت مشہور کریں گے کہ یہ تو اسلام کی بیخ کنی کر رہا ہے یہ ہدی کیسا ہے۔ اور لعنت اور کافر کا فر کہنے کو موجب ثواب اور اجر سمجھیں گے اور اس کو اس زمانہ کے مولیٰ ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ مگر انہی دنوں میں جب اس کی حقیقت کھل جائے گی محض نفاق سے ان میں گے دل سے نہیں اور ہدی کو قبول کرنے والے اکثر علماء یا گوشہ گزریں یا پاک دل فقرا ہوں گے جو اپنی صحیح مکاشفات سے اس کو شناخت کر لیں گے۔ مگر مولیوں کو بجز اس کے اور کوئی حقہ نہیں ملے گا۔ کہ اس کو بے دین اور کافر اور دجال کہیں گے۔ اور اس وقت کے مولیٰ ان سب سے بدتر ہوں گے جو زمین پر رہتے ہیں۔ ان کی زیر کی اور فراست جلتی رہے گی وہ عیسیٰ باتوں کو کسٹن کر فی القور انکار کریں گے کہ یہ باتیں کہ ہمارے قدیم عقائد کے مخالف ہیں۔

۲۔ دیکھو نشان ہدی موعود کا یہ ہے کہ اس کے وقت میں ماہ رمضان میں خصوصاً

کسوف ہو گا اور پہلے اس سے جیسا کہ منطوق حدیث صاف بتا رہا ہے کبھی کسی رسول یا نبی یا محدث کے وقت میں خسوف کسوف کا اجتماع رمضان میں نہیں ہوا اور جب سے کہ دنیا پیدا ہوئی ہے کسی دعویٰ رسالت یا نبوت یا محدثیت کے وقت میں کبھی چاند گرہن اور سورج گرہن اکٹھے نہیں ہوئے۔ اور اگر کوئی کہے کہ اکٹھے ہوتے ہیں تو بار ثبوت اس کے ذریعے کہ حدیث کا مفہوم یہ نہیں کہ ہدی کے ظہور سے پہلے چاند گرہن اور سورج گرہن ماہ رمضان میں ہو گا۔ کیوں کہ اس صورت میں تو ممکنات میں سے تھا کہ چاند گرہن اور سورج گرہن کو ماہ رمضان میں دیکھ کر

ملے یہ کہنا ہے ہا ہر گاہ کہ ہمارے صحیف میں بعض حدیثات موجود ہیں یا حدیث حقیقہ اور مرسل ہے کہ کسی حدیث کی چنگنی مانی طور پر ہے ان کا یہ جہتی لیتیت صراح سے بھی بڑھ کر ہے کہ اس کی صداقت پر یہی طور پر ظاہر ہو گئی تھی جب حدیث کی چنگنی چنگنی کی ہے اس میں شک کہ مرتبا یہ وہ ہے۔

صرف کافر بلکہ کفر کہا گیا۔ ایسا ہی ممکن ہے کہ پہلے بھی کسی ہینڈ میں چاند گرہن اور سورج گرہن اکٹھے ہو گئے ہوں مگر یہ کبھی نہیں ہوا اور ہرگز نہیں ہوا کہ بجز ہمارے اس زمانہ کے دنیا کی ابتدا سے آج تک کبھی چاند گرہن اور سورج گرہن زمین کے ہینڈ میں ایسے طور سے اکٹھے ہو گئے ہوں کہ اس وقت کوئی مدنی رسالت یا نبوت یا وحدت بھی موجود ہو۔ ایسا ہی اگرچہ پہلے بھی نصاریٰ سے براہنات مذہبی ہوتے رہے ہیں لیکن جو نصاریٰ نے اب شوخیوں دکھلائی ہیں اور تمام ملک میں شیطان کی آوازیں سنائیں اور کہوں پر سوار ہوئے اور ہر وہ پبلک ایسی ہینڈ ہینڈ ان کی طرف سے کبھی ظہور میں نہیں آیا اور نہ اس استہزا کا بدل جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہونے والا ہے جو ربانی آواز ہے کبھی ایسا ظاہر ہوا جیسا کہ بعد اس کے ظاہر ہو گا۔ مگر اس سے پہلے بھی یاد رکھیں۔ ایسا ہی اگرچہ بعض مسلمان جو منافق طبع ہیں پادریوں کے ساتھ اس سے پہلے بھی مذاہرہ کے ساتھ پیش آتے رہے ہیں مگر جو اب مولویوں اور ان کے ناقص ہاسٹل چیسٹل نے ان پادریوں کو جانوں کی جان کے ساتھ جان ملائے اور ان کو قیام مسترد دیا اور ان کی خوشی کے ساتھ خوشی منائی اور شرمی اور چالاکی سے مدعا اشتہار لکھے اور اہل حق پر لعنتیں بھیجیں۔ اور ان لعنتوں سے نصاریٰ کو خوش کیا اور نصاریٰ کو غالب قرار دیا اس کی نظیر تیرہ سو برس میں کسی صدی میں نہیں پائی جاتی۔ پس یہ اسی پیشگوئی کا ظہور ہے کہ جو حدیثوں میں آیا ہے۔ کہ ستر ہزار مسلمان بکھارنے والے دجال کے ساتھ مل جائیں گے۔ اب علمائے مکرمین بتلا دیں کہ یہ باتیں پوری ہو گئیں یا نہیں۔ بلکہ یہ دو علمائیں یعنی ہدی ہمنے کے مدعی کہ شیعہ مذہب و شیعہ سے کافر اور دجال کہنا اور نصاریٰ کی حمایت کرنا اور ان کو قیام قرار دینا اپنے ہاتھ سے مولویوں نے ایسے طور سے پورے کتبوں کی نظیر پہلے زمانوں میں نہیں پائی جاتی۔ آدنی سے پہلے باہم مشہور کر کے سورج نہ یا کہ اس طرح سے تو ہم وہ نشانیوں کا آپ ہی ثبوت سے دیں گے جس شیعہ مذہب سے اس ماجرا کی تکفیر کی گئی ہے اگر پہلے بھی کسی ہدی ہمنے کے مدعی کی اس مذہب و شیعہ سے تکفیر ہوئی ہے اور یہ مسلمانوں کی بارش اور کافر اور دجال کہنا اور دین کا بیخ کن قرار دینا اور تمام ملک کے علمائے کا اس پر اتفاق کرنا اور تمام ملک میں اس کو شہرت دینا پہلے بھی وقوع میں آیا ہے تو اس کی نظیر پیش کریں جو طابق الفعل بالفعل کا معنی ہو ورنہ ہدی ہمنے کی ایک عام نشانی انہوں نے اپنے ہاتھ سے قائم کر دی اور اگر پہلے بھی ایسا اتفاق انہوں نے نصاریٰ سے کیا ہے اور ان کو غالب قرار دیا ہے تو اس کی بھی نظیر بتلا دیں۔ اور اگر پہلے بھی کسی ایسے شخص کے



اور بڑا افسوس ہے کہ ہمارے مخالف سراسر تعصب سے یہ اعتراض کرتے ہیں۔ اول یہ کہ حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ چاند گرہن پہلی رات میں ہوگا اور سورج گرہن بیچ کے دن میں مگر ایسا نہیں ہوا یعنی لکن کے زعم کے موافق چاند گرہن شبِ ہلال کو ہونا چاہیے تھا جو قمری ہجرت کی پہلی رات ہے اور سورج گرہن قمری ہجرت کے پندرہویں دن کو ہونا چاہیے تھا جو ہجرت کا بیچواں دن ہے۔ مگر اس خیال میں سراسر ان لوگوں کی نا سمجھی ہے کیونکہ دنیا جب سے پیدا ہوئی ہے چاند گرہن کیلئے تین راتیں خدا تعالیٰ کے قانون قدرت میں مقرر ہیں یعنی تیرہویں چودھویں پندرہویں۔ اور چاند گرہن کی پہلی رات جو خدا تعالیٰ کے قانون قدرت کے مطابق ہے وہ قمری ہجرت کی تیرہویں رات ہے اور سورج کے گرہن کیلئے تین دن خدا کے قانون قدرت میں مقرر ہیں یعنی قمری ہجرت کا ستائیسواں اٹھائیسواں اور اسیسواں دن۔ اور سورج کے تین دن گرہن میں سے قمری ہجرت کے رُوسے اٹھائیسواں دن بیچ کا دن ہے۔ سواہی تاریخوں میں عین حدیث کے مشابہ کے موافق سورج اور چاند کا رمضان میں گرہن ہوا۔ یعنی چاند گرہن رمضان کی تیرہویں رات میں ہوا اور سورج گرہن اسی رمضان کے اٹھائیسویں دن ہوا۔

۱۹۷۱

اور عرب کے معاہدہ میں پہلی رات کا چاند قمری نہیں کہلاتا بلکہ تین دن تک اس کا نام ہلال ہوتا ہے اور بعض کے نزدیک سات دن کا ہلال کہلاتا ہے۔ دوسرا یہ اعتراض ہے کہ اگر ہم قبول کر لیں کہ چاند کی پہلی رات سے مراد تیرہویں رات ہے اور سورج کے بیچ کے دن کو مراد اٹھائیسواں دن ہے تو اس میں خارق عادت کو نسا امر ہوا کیا رمضان کے ہجرت میں کسی چاند گرہن اور سورج گرہن نہیں ہوا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان کے ہجرت میں کسی یہ دونوں گرہن جمع نہیں ہوئے بلکہ یہ مطلب ہے کہ کسی مدعی رسالت یا نبوت کے وقت میں کسی یہ دونوں گرہن جمع نہیں ہوئے جیسا کہ حدیث کے ظاہر الفاظ اسی پر دلالت کرتے ہیں۔ اگر کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ کسی مدعی نبوت یا رسالت کے وقت میں یہ دونوں گرہن رمضان میں کسی کسی زمانہ میں جمع ہوئے ہیں تو اس کا فرض ہے کہ اس کا ثبوت ہے۔ خاص کر یہ امر کہ

بعض اعتراضوں کے جواب

۲۰۲

حقیقت الہوی

ایک وہ وقت تھا کہ خدا کے بچے مسیح کو صلیب نے توڑا اور اس کو زخمی کیا تھا اور آخری زمانہ میں یہ مقدر تھا کہ مسیح صلیب کو توڑے گا۔ یعنی آسمانی نشانوں سے کفارہ کے عقیدہ کو دنیا سے اٹھا دے گا۔ عوض مساوضہ گلہ ندارد۔

۲۔ نشان۔ صحیح دارقطنی میں یہ ایک حدیث ہے کہ امام محمد باقر فرماتے ہیں انتم مہدی یثا ایتین لم تکنوا منذ خلق السموات والارض ینکسف القمر لا اول لیلۃ من رمضان وتکسف الشمس فی النصف منہ ترجمہ یعنی ہمارے مہدی کیلئے دو نشان ہیں اور جب کہ زمین و آسمان خدا نے پیدا کیا یہ دو نشان کسی اور مامور اور رسول کے وقت میں ظاہر نہیں ہوئے ان میں سے ایک یہ ہے کہ مہدی مہود کے زمانہ میں رمضان کے مہینہ میں چاند کا گرہن اُسکی اول رات میں ہوگا یعنی تیرہویں تاریخ میں اور سورج کا گرہن اُسکے دنوں میں سے بیچ کے دن میں ہوگا یعنی اسی رمضان کے مہینہ کی اٹھائیسویں تاریخ کو اور ایسا واقعہ ابتدائے دنیا سے کسی رسول یا نبی کے وقت میں کسی ظہور میں نہیں آیا صرف مہدی مہود کے وقت اُس کا ہونا مقدر ہے۔ اب تمام انگریزی اور اردو اخبار اور جملہ ماہرین ہیئت اس بات کے گواہ ہیں کہ میرے زمانہ میں ہی جس کو عرصہ قریباً بارہ سال کا گذر چکا ہے اسی صفت کا چاند اور سورج کا گرہن رمضان کے مہینہ میں وقوع میں آیا ہے اور جیسا کہ ایک اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ گرہن دو مرتبہ رمضان میں واقع ہو چکا ہے۔ اول اس ملک میں دوسرے امریکہ میں اور دونوں مرتبہ انہیں تاریخوں میں ہوا ہے جن کی طوٹ حدیث اشارہ کرتی ہے۔ اور چونکہ اس گرہن کے وقت میں مہدی مہود ہونے کا مدعی کوئی زمین پر نچو میرے نہیں تھا اور نہ کسی نے میری طرح اس گرہن کو اپنی مہدویت کا نشان قرار دیکر صد ہا اشتہار اور رسالے اردو اور فارسی اور عربی میں دنیا میں شائع کئے اس لئے یہ نشان آسمانی میرے لئے متعین ہوا۔ دوسری اسیر دلیل یہ ہے کہ بارہ برس پہلے اس نشان کے ظہور سے خدا تعالیٰ نے اس نشان کے بارے میں مجھے خبر دی تھی کہ ایسا نشان ظہور میں آئے گا۔ اور وہ خبر براہین احمدیہ میں درج ہو کر قبل اسکے جو یہ نشان ظاہر ہو۔ لاکھوں آدمیوں میں مشہور ہو چکی تھی۔

۲۰۲

کا فراتے ہیں

نذار بعد نکتہ نغز گوشش چو زحمت بر بیند برآرد خودش  
یہ نادان نہیں جانتے کہ پیشگوئی ایک علم ہے اور خدا کی وحی ہے اس میں بعض وقت  
مشابہات بھی ہوتے ہیں۔ اور بعض وقت لہجہ تعبیر کرنے میں خطا کرتا ہے جیسا کہ حدیث  
ذہب دہلی اس پر شاہد ہے۔ پھر احمدیگ کے داماد کا اعتراض کرنا اور احمدیگ کی  
وفات کو بھول جانا کیا یہی ایمان داری ہے۔ اسجگہ تو پیشگوئی کی دو ٹائٹلوں میں سے ایک  
ٹائٹل ٹوٹ گئی اور ایک حصہ پیشگوئی کا یعنی احمدیگ کا میعاد کے اندر فوت ہو جانا  
حسب نشانے پیشگوئی صفائی سے پورا ہو گیا اور دوسرے کی انتظار ہے مگر یونس نبی کی قطعی  
پیشگوئی میں کونسا حصہ پورا ہو گیا، اگر شرم ہے تو اس کا کچھ جواب دو۔ آپ لوگ اگر  
بہت ہی کم فرست ہوں اور ان تمام نشانوں کو جو سو سے زیادہ ہیں خود سے نہ دیکھ سکیں  
تو نمونہ کے طور پر ایک نشان آسمان کا ہے یعنی مہینہ رمضان کا خسوف کسوف اور  
ایک نشان زمین کا یعنی لیکھرام کا پیشگوئی کے مطابق مارا جانا۔ اور پھر سورج لیں کہ نشان  
نمائی میں حقیقت یہ دو گواہیاں طالب صادق کے لئے کافی ہیں۔ ہاں اگر طالب صادق نہیں  
تو اس کے لئے تو ہزار معجزہ بھی کافی نہیں ہوگا۔ دیکھنا چاہیئے کہ چاند اور سورج کا  
رمضان شریف میں گرم ہونا کس قدر ایک مشہور پیشگوئی تھی۔ یہاں تک کہ جب ہندوستان  
میں یہ نشان ظاہر ہوا تو مکہ معظمہ کی ہر ایک گلی اور کوچہ میں اس کا تذکرہ تھا کہ ہمدی  
موجود پیدا ہو گیا۔ ایک روایت نے جو ان لوگوں میں مکہ میں تھا خط میں لکھا کہ جب مکہ والوں  
کو سورج اچھا نہ لگتا کہ رمضان میں حدیث کے الفاظ کے مطابق گرم ہو گیا  
تو وہ سب خوشی سے اچھلنے لگے کہ اب اسلام کی ترقی کا وقت آگیا اور ہمدی پیدا ہو گیا۔  
اور بعض نے قدیم جہادی غلیوں کی وجہ سے اپنے ہتھیار صاف کرنے شروع کر دیئے کہ اب  
کافروں سے لڑائیاں ہونگی۔ غرض متواتر سنا گیا ہے کہ نہ صرف مکہ میں بلکہ تمام بلاد اسلام

۳۳۲

نشان کو اس کے لئے خاص کر دیا جائے سو پیشگوئی کا بھی مفہوم یہی ہے کہ یہ نشان کسی دوسرے مدعی کو نہیں دیا گیا خواہ صادق ہو یا کاذب۔ صرف ہندی مولود کو دیا گیا ہے۔ اگر یہ نفل مولوی اس قسم کا خسوف کسوف کسی اور مدعی کے زمانہ میں پیش کر سکتے ہیں تو پیش کریں۔ اس سے بیشک میں بھوٹا بوجاؤں گا۔ ورنہ میری عداوت کے لئے اس قدر عظیم الشان معجزہ سے انکار نہ کریں۔

اے اسلام کے عار مولویو! ذرہ آنکھیں کھولو۔ اور دیکھو کہ کس قدر تم نے غلطی کی ہے۔ جہالت کی زندگی سے تو موت بہتر ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ اس حدیث میں کسوف خسوف کو بیظیر نہیں ٹھہرایا گیا بلکہ اس نسبت کو بیظیر ٹھہرایا گیا ہے جو ہندی کے ساتھ اس کو واقع ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ اس طور کا خسوف کسوف جو اپنی تاریخوں اور جہتوں کے لحاظ سے ہندی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ یہ تعلق اس کا پہلے اس سے کبھی کسی دوسرے کیساتھ نہیں ہوا۔ اور تفسیر اس قول کی اس طرح پر ہے کہ ان لم ھدینا ایستین لم تکنوا لاحد من ذلک الخلق السموات والارض پس اس جگہ غرض تو یہ ہے کہ یہ دو نشان اس خسوف کے ساتھ ہندی کو دیئے گئے ہیں پہلے اس سے کسی کو نہیں دیئے گئے اور لہر تگنوا کاللفظ ایستین کی تشریح کرتا ہے کہ وہ ہندی کے ساتھ خاص کئے گئے ہیں۔ خسوف کسوف کی کوئی نرالی حالت بیان کرنا منظور نہیں بلکہ اس عبارت میں دونوں نشانوں کی ہندی کے ساتھ تخصیص منظور ہے۔ نہ یہ کہ خسوف کسوف کی کوئی نرالی حالت بیان کی جائے۔ اور اگر نرالی حالت بیان کرنا منظور ہوتا۔ تو عبارت یوں چلیے تھی۔ کہ ینکسف القمر والشمس علیٰ انہما انکسفان ذلک الخلق السموات والارض یعنی ایسے طور سے چاند اور سورج کا گرہن ہوگا۔ کہ پہلے اس سے جب آسمان و زمین پیدا کئے گئے ہیں۔ ایسا خسوف کسوف کبھی نہیں ہوا۔ اب میں نے خوب تشریح کر کے اہل معنوں کو ننگا کر کے دکھلا دیا ہے۔ اب بھی اگر کوئی نہ سمجھے گا۔ تو وہ پاگل کہلائے گا۔

اور اگر پیشگوئی کے نفلوں کی یہ بات ہرگز نہیں نکلتی کہ خسوف کسوف کوئی نرالی طور پر ہوگا مگر خدا تعالیٰ نے ان مولویوں کا منہ کالا کرنے کے لئے اس خسوف کسوف میں بھی ایک لہر خارق عادت رکھا ہے چنانچہ مارچ ۱۸۹۲ء پالونیر اور سول ملٹری گورنٹ

۴۸

نزل المسیح

۱۸۳

منبر

علی زعم شائبة محتوفی ابتر  
بے اولاد و ہجو کی حالت میں قات پان جیسا کہ دشمن بدگو کا خیال ہے

لہ مثلنا وُلدنا الی یوم یحشر  
بلکہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے یہی طرح اور بھی طبع میں آتی ہے

فاتی ثبوت بعد ذلک یحضر  
پس اس سے بڑھ کر اور کونسا ثبوت ہے جو پیش کیا جائے۔

غسا القمر ان المشرق ان اتنکر  
میرے لئے چاند اور سورج دونوں کا اب کیا تو انکار کریگا۔

کذلک لی قول علی الکلم یبہر  
اسی طرح مجھے وہ کلام دیا گیا جو سب پر غالب ہے

عجبت فانی ظل بدر ینور  
میں تعجب کیا کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظلم ہوں

فماقیہ فی وجہی یلوح و یزہر  
پس وہ روشنی جو اُس میں ہے وہ مجھ میں چمک رہی ہے

ومن طینہ المعصوم طینی محطر  
اور اس کی پاک مٹی کا مجھ میں خمیر ہے۔

ولیس لنسب ذو صلاح معیر  
اس لئے سرزنش نہیں کر سکتے کہ اُسکی نسب اعلیٰ نہیں۔

لہم نسب کینا یھیج التفر  
تاکہ دیگروں کو اُنکی کسی نسب کا تصور کر کے نفرت پیدا نہ ہو

لہ حسب فهو الذنی المحقر  
اُس میں ذاتی صفات کچھ نہیں وہ کینا اور حقیر ہے۔

اتزعم ان رسولنا سید الوری  
کیا تو گمانی کرتا ہو کہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

فلا والذی خلق السماء لاجلہ  
مجھے اس کی قسم جس نے آسمان بنایا کہ ایسا نہیں ہے۔

وانا ورثنا مثل وُلد متاعہ  
اور مجھ نے اولاد کی طرح اس کی وراثت پائی۔

لہ خسف القمر المنیر وان لی  
اُس کے لئے چاند کے خسوف کا نشان ظہر ہوا اور

وکان کلام معجز آیة لہ  
اور اُس کے معجزات میں سے معجزانہ کلام بھی تھا۔

اذا القوم قالوا یدعی الوحی عامدا  
جب قوم نے کہا کہ یہ تو عمدہ وحی کا دعویٰ کرتا ہے۔

وانی لظلی ان ینخالف اصلہ  
اور سایہ کیونکر اپنے اصل سے مخالف ہو سکتا ہے

وانی لذو نسب کا صلہ اطیعہ  
اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ذو نسب ہوں

کفی العبد تقوی القلب عند صیبتہا  
اور بندہ کو دل کا تقویٰ کافی ہے۔ اور ایک صالح کو

ولکن قضی رب السماء لامتہ  
مگر خدا نے اماموں کے لئے چاہا کہ وہ ذو نسب ہوں

ومن کان ذالنسب کریم ولم یکن  
اور جو شخص اچھے نسب رکھتا ہے

[

۷۹

یہ حوالہ صفحہ 274 پر درج ہے

اعجاز احمدی صفحہ 71 مندرجہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 183 از مرزا قادیانی

نزول المسیح

۱۵۶

وَلَا تَقْرَأُ فِيهَا

فقد سترني في هذه الصور صورة  
پس لہے معتقد میں مجھے ایک طریق اچھا معلوم ہوا  
فألفت هذا النظم اعنى قصيدتى  
پس میں نے یہ نظم یعنی یہ قصیدہ اپنا تالیف کیا۔  
وهذا على اصصارة في سواله  
اور یہ قصیدہ اس کے اصصارہ مقابلہ پر بنایا گیا ہے۔

وليس علينا في الجواب جريمة  
اور اس جواب میں ہم پر کئی گناہ نہیں۔

فانك كذا باقيات بمثلها  
پس اگر میں مجھنا ہوں تو ایسا قصیدہ بنا لئے گا۔

وهذا قضاء الله بيني وبينهم  
اور یہ خدا کا فیصلہ ہے ہم میں اور انوں میں۔

قطعنا بهذا اذ ابر القوم كلهم  
ہم نے اس نشان سے سب کا فیصلہ کر دیا ہے۔

ارغى ارض مدق داريد تبارها  
میں مدق زمین دیکھتا ہوں کہ اس کا تبار ہے نزدیک انھوں۔

ايا تحسبني بالحق والجهل والرعاه  
اے تیرے میں اپنے حق اور جہالت اور رعایت کی طرح دیکھنے سے

انشتم بعد العون والمن والندى  
کیا تو ذرا احسان اور بخشش کے بعد گالیں دے گا

ترى كيف اغبرت السماء بآبها  
تو دیکھتا ہے کہ کس طرح آسمان نشاندہ کی تیز زود بدش کرنے لگا

ليدفع ربي كلما كان يحشر  
تا میرا خدا اس طوفان کو دور کرے جو اُسے اٹھایا ہے

ليخزي ربي كل من كان يهذر  
تا میرا خدا اُن لوگوں کو رسوا کرے جو بکواس کرتے ہیں

فكيف بهذا الشئل اغضى وانهر  
پس میں باوجود اس شے سے لالہ کیوں نہ ہوں جو اُسے اٹھایا ہے

فشهد على كالاكل ما كان يبيد  
اور ہم اُسکو ہرگز نہیں چیرے گا چلے ہی سے اُسے بویا تھا

وانك من ربي فيخشى ويثابر  
اور اگر میں خدا کی مخلوق ہوں تو تجھ پر پورے ذرا باجائے گا اور تیرا

ليظهر آيته وما كان يخبر  
تاپنے نشاندہ کی ظاہر کرے اور اُسے ان کو ظاہر کرے جو پہلے سوچتے تھے

وغادرهم ربي كغصن تجذر  
اور میرے اپنے انھوں سے اٹھ کر دیا جو کٹا رہے ہیں

وغادرهم ربي كغصن تجذر  
اور میرے اپنے انھوں سے اٹھ کر دیا جو کٹا رہے ہیں

رويدك لا تبطل صنيعةك وأخذ  
باز آجا تمہارے احسان کو باطل نہ کرے۔

اتنسى تدي مدد وما كنت تنصر  
کیونکہ میں نے تیرے مدد کو نہیں چھوڑا اور تیرے

اذا القوم آذوني وعابوا وغبروا  
جب قوم نے مجھے دکھ دیا اور عیب نکالا اور زرد اٹھائی۔

۵۲

افسوس کہ سادہ لوح حجرہ نشین مولویوں کی نظر محدود ہے انکو معلوم نہیں کہ پہلی کتابوں میں اسی ساحت کا وعدہ تھا جو طیطوس کے وقت یہودیوں پر وارد ہوئی اور قرآن شریف صاف کہتا ہے کہ عیسیٰ کی زبان پر ان پر لعنت پڑی اور عذاب عظیم کے واقعہ کو ساعت کے لفظ سے بیان کرنا نہ صرف قرآن شریف کا محاورہ ہے بلکہ یہی محاورہ پہلی آسمانی کتابوں میں پایا جاتا ہے اور بکثرت پایا جاتا ہے۔ پس نہ معلوم ان سادہ لوح مولویوں نے کہاں سے اور کس کس سے سن لیا کہ ساعت کا لفظ ہمیشہ قیامت پر ہی بولا جاتا ہے۔ افسوس یہ لوگ حیوانات کی طرح ہو گئے۔ قدم قدم پر اپنی غلطیوں سے ذلت اٹھاتے ہیں پھر غلطیوں کو نہیں چھوڑتے کیا غلطیوں کی کوئی حد بھی ہے۔ قرآن کے منشاء کو ہرگز یہ لوگ نہیں سمجھتے۔ آسمان پر تو حضرت عیسیٰ کو جس طرح دیا گیا اور جو الزام یہودیوں کا تھا اس کا کچھ جواب نہ دیا۔ خدا جو فرماتا ہے کہ یہود کہتے تھے۔ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَجَوَابِ دِيَّا هُوَ كَيْفَ نَحْنُ بَلْ كَمْ نَحْنُ بِمَنْعِهِ قَاتِلًا

سو سنو کہ یہودیوں کا بار بار یہ شور مچانا کہ ہم نے عیسیٰ کو صلیب کے ذریعہ سے مار دیا۔ انکا اس سے یہ مطلب تھا کہ وہ ملعون ہے اور اسکی روح مونس اور آدم کی طرح خدا کی طرف نہیں اٹھائی گئی پس خدا کا جواب یہ چاہیے تھا کہ نہیں درحقیقت اسکی روح کا رفع ہوا جس کا آسمان پر اٹھانا۔ یا نہ اٹھانا متنازعہ فیہ امر نہ تھا۔ پس نعوذ باللہ خدا کی یہ خوب سمجھ ہے کہ انکار تو روح کے رفع سے ہے جو خدا کی طرف ہوتا ہے۔ مگر خدا اس اعتراض کا یہ جواب دیتا ہے کہ میں نے عیسیٰ کو زندہ بحکم عنقریب دوسرے آسمان پر بٹھا دیا۔ خوب جواب ہے اور ابھی فرماؤ کہ بعض روح ہونا باقی ہے۔ خدا جانے بعد اسکے رفع روحانی ہو یا نہ ہو۔ جو اصل جھگڑے کی بات ہے۔

ایسا ہی یہ لوگ عقل کے پورے میری بعض پیشگوئیوں کا جھوٹا ٹکنا اپنے ہی دل سے فرض کر کے یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ جب بعض پیشگوئیاں جھوٹی ہیں یا اجتہادی غلطی ہے تو پھر سچیت کے دعویٰ کا کیا اعتبار شاید وہ بھی غلط ہو۔ اس کا اول جواب تو یہی ہے کہ لعنة الله على الكاذبين۔ اور مولوی شامہ اللہ نے موضع مذ میں بحث کے وقت یہی کہا تھا کہ سب پیشگوئیاں جھوٹی نکلیں اس لئے ہم انکو

مدعو کرتے ہیں اور خدا کی قسم دیتے ہیں کہ وہ اس تحقیق کیلئے قادیان میں آویں اور تمام پیشگوئیوں کی پڑتال کریں اور ہم قسم کھا کر وعدہ کرتے ہیں کہ ہر ایک پیشگوئی کی نسبت جو منہاج نبوت کی رو سے جھوٹی ثابت ہو ایک ایک سو روپیہ انکی نذر کریں گے۔ ورنہ ایک خاص تختہ لعنت کا انکے گلے میں رہے گا۔ اور ہم آبد و رفت کا خرچ بھی دینگے۔ اور کل پیشگوئیوں کی پڑتال کرنی ہوگی۔ تاآئندہ کوئی جھگڑا باقی نہ رہ جائے۔ اور اسی شرط سے روپیہ طینگا اور ثبوت ہمارے ذمہ ہوگا۔

یاد ہے کہ رسالہ نزول المسیح میں ڈیڑھ سو پیشگوئی تھیں نے لکھی ہیں تو گویا جھوٹ ہونے کی حالت میں پندرہ ہزار روپیہ مولوی شاد اللہ صاحب نے لے لی تھی اور در بدر گدائی کرنے سے نجات ہوگی۔ بلکہ ہم اور پیشگوئیاں بھی معہ ثبوت انکے سامنے پیش کر دینگے اور اسی وعدہ کے موافق فی پیشگوئی سو روپیہ دیتے جائیں گے۔ اس وقت ایک لاکھ سے زیادہ میری جماعت ہے۔ پس اگر میں مولوی صاحب موصوف کیلئے ایک ایک سو روپیہ بھی اپنے مریدوں کو لنگا تب بھی ایک لاکھ روپیہ ہو جائیگا وہ سب انکی نذر ہوگا جس حالت میں دودھ آنہ کیلئے وہ در بدر خراب ہوتے پھرتے ہیں اور خدا کا قہر نازل ہو اور مردوں کے کفن یا وعظ کے پیسوں پر گزارہ ایک لاکھ روپیہ حاصل ہو جانا ان کیلئے ایک بہشت ہے لیکن اگر میرے اس بیان کی طرف توجہ نہ کریں اور اس تحقیق کے لئے بیابندی شرائط مذکورہ جس میں شرط ثبوت تصدیق ورنہ تکذیب دونوں شرط ہیں۔ قادیان میں نہ آئیں تو پھر لعنت ہے اس لاف و گداز پر جو انہوں نے موضع مد میں مباحثہ کے وقت کی اور سخت بے حیائی سے جھوٹ بولا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا تَقْعُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ مگر انہوں نے بغیر علم اور پوری تحقیق کے عام لوگوں کے سامنے تکذیب کی کیا یہی ایمان داری ہے۔ وہ انسان گٹوں سے بدتر ہوتا ہے کہ جو بے وجہ بھونکتا ہے اور وہ زندگی لعنتی ہے جو بے شری سے گذرتی ہے۔

اور بعض کا یہ خیال ہے کہ اگر کسی الہام کے سمجھنے میں غلطی ہو جائے تو امان اٹھ جاتا ہے اور شک پڑ جاتا ہے کہ شاید اس نبی یا رسول یا محدث نے اپنے دعویٰ میں بھی دھوکا کھایا ہو۔



بھی اعتراض کرتے ہیں کہ وہ پوری نہیں ہوئیں۔ مگر یہ سراسر ان کا افتراء ہے اور واقعہ یہی بات ہے کہ میری کوئی ایسی پیشگوئی نہیں کہ جو پوری نہیں ہو گئی۔ اگر کسی کے دل میں شک ہو تو وہ سیدھی نیت سے ہمارے پاس آ جائے اور بالواجہ کوئی اعتراض کر کے اگرستانی کافی جواب نہ سنے تو ہم ہر ایک تاوان کے منزاوار ٹھہر سکتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ ایسے لوگ بخل سے اعتراض کرتے ہیں نہ انصاف سے۔ اگر یہ لوگ انبیاء علیہم السلام کے دفتوں میں ہوتے تو ان پر بھی ایسے ہی اعتراض کرتے جو مجھ پر کرتے ہیں۔ جو شخص سچ نہیں دیکھتا ہے اس کو ہم ماہ دکھا سکتے ہیں۔ مگر جو بخل اور خود غرضی اور تکبر سے اندھا ہو گیا ہو اس کو کیا دکھا سکتے ہیں۔ تین ہزار یا اس سے بھی زیادہ اس عاجز کے الہامات کی مبارک پیشگوئیاں جو امین عامہ کے مخالفت نہیں پوری ہو چکی ہیں۔ صد ہا نیک دل انسان گواہ ہیں۔ بیعت سی تحریریں پیش از وقت شائع ہو چکی ہیں۔ پھر بھی اگر کوئی بخل کی راہ سے خواہ لخواہ شکوک اور اعتراضات پیش کرتا ہے اور سیدھے طور پر صحبت میں رہ کر تجربہ نہیں کرتا۔ اور نہ اہل تجربہ سے دریافت کرتا ہے اور دجل اور خیانت کی راہ سے دھوکا دینے والے اعتراضات شہور کرتا ہے اور خیانت اور دغلگوئی سے باز نہیں آتا۔ وہ ان منکرین کا وارث ہے جو اس سے پہلے خدا کے پاک نبیوں کے مقابل پر گنہ چکے ہیں۔ خدا اپنے بندوں کو ایسے منصوبہ باز لوگوں کے بہتالوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اس بات کا کیا سبب ہے کہ یہ لوگ چمدوں کی طرح دور دور سے اعتراض کرتے ہیں اور صاف باطن لوگوں کی طرح بالقابل اگر اعتراض نہیں کرتے اور نہ جواب سنا چاہتے ہیں۔ اس کا یہی سبب ہے کہ یہ لوگ اپنے دجل اور بددیانتی سے واقف ہیں اور ان کا دل انکو ہر وقت جھٹکتا ہے کہ اگر تم نے ایسے یہودہ اور جہالت اور خیانت سے بھرے ہوئے اعتراض رد بردہ پیش کئے تو اس صورت میں تمہاری سخت پردہ دری ہوگی۔ اور تمہاری دھوکا دینے والی باتیں یکدم کا لعدم ہو جائیں گی۔ تب اس وقت ندامت اور نجالت اور روائی رہ جائیگی

مذکورہ ہیں اور خدا کی قسم دیتے ہیں کہ وہ اس تحقیق کیلئے قادیان میں آئیں اور تمام پیشگوئیوں کی پڑتال کریں اور ہم قسم کھا کر وعدہ کرتے ہیں کہ ہر ایک پیشگوئی کی نسبت جو منہاج نبوت کی رُو سے جھوٹی ثابت ہو ایک ایک سو روپیہ اتنی نذر کریں گے۔ ورنہ ایک خاص نذر لعنت کا انکے گلے میں دھرینگا۔ اور ہم آمد و رفت کا خرچ بھی دینگے۔ اور کل پیشگوئیوں کی پڑتال کرنی ہوگی۔ تا آنکہ کوئی جھگڑا باقی نہ رہ جائے۔ اور اسی شرط سے روپیہ طرہنگا اور ثبوت ہمارے ذمہ ہوگا۔

یاد رہے کہ رسالہ نزول المسیح میں ڈیڑھ سو پیشگوئیوں میں نے کھنسی ہو تو گویا جھوٹ ہونے کی حالت میں پندرہ ہزار روپیہ مولوی ثناء اللہ صاحب نے جمانگے اور در بدر گدائی کرنے سے نجات ہوگی۔ بلکہ ہم اور پیشگوئیاں بھی صحت ثبوت انکے سامنے پیش کر دینگے اور اسی وعدہ کے موافق فی پیشگوئی سو روپیہ دیتے جائینگے۔ اس وقت ایک لاکھ سے زیادہ میری جماعت ہے۔ پس اگر میں مولوی صاحب موصوف کیلئے ایک ایک روپیہ بھی اپنے مریدوں کو لٹکاتے ہیں ایک لاکھ روپیہ ہو جائیگا وہ سب اتنی نذر ہوگا جس حالت میں دودھ آنہ کیلئے وہ در بدر خراب ہوتے پھرتے ہیں اور خدا کا قہر نازل ہو اور مردوں کے گفن یا وعظ کے پسوں پر گزارہ، ایک لاکھ روپیہ حاصل ہو جاتا ان کیلئے ایک بہشت ہے لیکن اگر میرے اس بیان کی طرف توجہ نہ کریں اور اس تحقیق کے لئے پابندی شرائط مذکورہ جس میں بشرط ثبوت تصدیق ورنہ تکذیب دونوں شرط ہیں۔ قادیان میں نہ آئیں تو پھر لعنت ہو اس لاف و گداز پر جو انہوں نے موضع مذ میں مباشرت کے وقت کی اور سخت بے حیائی سے جھوٹ بولا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۗ

مگر انہوں نے بغیر علم اور پوری تحقیق کے عام لوگوں کے سامنے تکذیب کی کیا یہی ایمان داری ہے۔ وہ انسان گنہگاروں سے بدتر ہوتا ہے کہ جو بے وجہ جھوٹا ہو اور وہ زندگی لعنتی ہے جو بشری سے گذرتی ہے۔

اور بعض کا یہ خیال ہے کہ اگر کسی الہام کے سمجھنے میں غلطی ہو جائے تو ایمان اٹھ جاتا ہے اور شک پڑ جاتا ہے کہ شاید اس نبی یا رسول یا محدث نے اپنے دعویٰ میں بھی دھوکا کھایا ہو۔

مولوی ثناء اللہ صاحب اور اُنکے رفیقوں کو ناحق کے افتراؤں کی حاجت نہیں رہی اور  
مفت میں اُنکی فتح ہو جائیگی ورنہ اُنکا حق نہیں ہوگا کہ پھر کبھی مجھے جھوٹا کہیں یا میرے نشانوں  
کی تکذیب کریں۔ دیکھو میں آسمان اور زمین کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں کہ کج کی تاریخ سے اس  
نشان پر پھر رکھتا ہوں اگر میں صادق ہوں اور خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ میں صادق ہوں تو کبھی  
ممکن نہیں ہوگا کہ مولوی ثناء اللہ اور اُنکے تمام مولوی پانچ دن میں ایسا قصیدہ بنا سکیں  
اور اردو مضمون کا رد لکھ سکیں کیونکہ خدا تعالیٰ اُن کی قلموں کو توڑ دیگا اور اُنکے دلوں کو خمی  
کڑے گا۔ اور مولوی ثناء اللہ کو اس بدگمانی کی طرف راہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ قصیدہ پہلے سے  
بنارکھا تھا کیونکہ وہ ذرا اُنکے کھول کر دیکھے کہ مباحثہ مذکورہ میں ذکر ہے۔ پس اگر میں نے پہلے  
بنایا تھا تب تو انھیں ماننا چاہیے کہ میں عالم الغیب ہوں۔ یہ صورت یہ بھی ایک نشان ہے۔  
اس لئے اب انکو کسی طرف فرار کی راہ نہیں اور آج وہ الہام پورا ہوا جو خدا نے فرمایا تھا۔

”قادر کے کاروبار نمودار ہو گئے“

”کافر جو کہتے تھے وہ گرفتار ہو گئے“

اور واضح رہے کہ مولوی ثناء اللہ کے ذریعہ سے عنقریب تین نشان میرے ظاہر ہوں گے۔  
(۱) وہ قادیان میں تمام پیشگوئیوں کی پڑتال کیلئے میرے پاس ہرگز نہیں آئیں گے اور سچی  
پیشگوئیوں کی اپنے قلم سے تصدیق کرنا اُن کیلئے موت ہوگی (۲) اگر اس چیلنج پر وہ مستعد ہوئے  
کہ کاذب صادق کے پہلے مر جائے تو ضرور وہ پہلے مرینگے (۳) اور سب سے پہلے اس  
اردو مضمون اور عربی قصیدہ کے مقابلہ سے عاجز رہ کر جلد تر اُنکی روسیاسی ثابت ہو جائیگی۔  
اور چونکہ ان دنوں میں مولوی محمد حسین نے سائیں مہر علی گولڑی کی علمیت کی بے شاعرانہ  
میں بہت ہی تعریف کی ہے اور علی حائری صاحب شیعہ اپنی تعریف میں پھول رہے ہیں اس لئے میں اُنکو  
بھی اس مقابلہ کیلئے بلاتا ہوں۔ گالیاں دینے اور ٹھٹھا کرنے میں ان لوگوں کی زبان چالاک سے لیکر اب  
میں دیکھو تھا کہ خدا سوا انکو کس قدر مدد دل سکتی ہے۔ میں ان لوگوں کی نسبت بھی اس قصیدہ میں کچھ لکھا ہوتا  
انکی غیرت کو حرکت دوں یہ ایک آخری فیصلہ ہے شیعہ محمد حسین کو مدد ملیں اور گولڑی صاحب کسی اپنے

تَرْجِمَةٌ فَكُنَّا لِلَّهِ

ترجمہ خط کہ سوئے ثناء اللہ امرت سری نو شتر

الْأَرْضِ سِرِّي إِذْ جَاءَ قَلْدِيَانُ وَ

وقتے کہ بہ قادیان آمد

طَلَبَ رَفْعَ الشَّهَادَاتِ بِعَطَشٍ

بہ تشنگی دروغ ازالہ شہادت خود خواست

فَرِيءٌ وَكَانَ هَذَا عَاشِرَ شَوَّالٍ

و بود این تاریخ دهم شوال سنہ ۱۳۲۰ھ

إِذْ جَاءَ هَذَا الدَّجَالُ

چوں این دجال بہ قادیان آمد

بلغنی مکتوبک و ظہر مطلوبک اذک استذعیت ان ازیل شہادتک التی صلت  
مرانامہ تو رسید و مطلوب تو ظاہر گشت تو درخواست کردی کہ بعض شہادت تو کہ متعلق بعض  
بہا علی بعض انبائی الغیبیۃ فاعلم انک ان کنت جنتی بعتہ النیۃ و لیس فی  
پیشگوئیا ہستند دور کنم پس بدان کہ اگر بصحت نیت نزد من آمدی و نیت در  
قلبک شیء من المفسدۃ فلک ان تقبل بعض شروطی قبل هذا الاستفسار  
دل تو پیچہ از فساد پس بر تو واجب ست کہ قبل این استفسار بعض شرطہاے من قبول کنی  
و لا تخرج منها بل تثبت علیہا کالآخیار و ان کنت لا تقبل تلك الشرط  
و ازان شرطہا خارج نشوی بلکہ همچونیک مرداں بر آن ثابت بمانی و اگر تو آن شرطہا را قبول نمی کنی

دوسرا ثبوت نشانات ہیں جن سے بہت صفائی سے استنباط ہوتا ہے وہی ثبوت ہمارے ساتھ بھی ہیں اور جس قاعدہ سے خدا تعالیٰ نے یہ نشانات دکھلائے ہیں اگر اسی طرح شمار کریں تو یہ بیس لاکھ سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ **يَا تَتُونَ مِن كَلِّ فَتَجْعَلِيَّتِي** اور **يَا تَتِيكَ مِن كَلِّ فَتَجْعَلِيَّتِي** کی تحت میں اگر ہر ایک شخص جو ہمارے پاس آتا ہے ہر ایک ہدیہ اور نذر جو پیش ہوتی ہے ایک ایک نشان الگ الگ ہے مگر ہم نے صرف ایک سو پچاس نشان نزول المسح میں درج کئے ہیں جن کے ہزار ہا گواہ موجود ہیں۔ پھر دیکھو یہ کس وقت کی خبر ہے۔ قرآن کے نصوص، حدیث کی اخبار اور مکاشفات اور روایہ وغیر سب ہماری تائید میں ہیں۔ پھر اس کے علاوہ خدا تعالیٰ کے نشانات۔ پھر زمانہ کی موجوں ضرورت یہ سب ثبوت پیش کرنے کے قابل ہیں۔ اس وقت خدا تعالیٰ کا فشاء ہے کہ لوگوں کو غلطیوں سے نکالے اور تقویٰ پر قائم کرے۔ خدا تعالیٰ جس کو چاہے گا بلاتا جاوے گا۔ یہ اس کی طرف سے ایک دعوت ہے جو بلایا جاتا ہے۔ اسے فرشتے کھینچ کھینچ کر لے آتے ہیں۔

۱۰ جنوری ۱۹۰۳ء

### مولوی ثناء اللہ صاحب کا قادیان آگیا

عصر کے وقت خدا تعالیٰ کے برگزیدہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ خبر ہوئی کہ مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری قادیان آئے ہوئے ہیں مگر آپ نے اس کے متعلق صرف یہ فرمایا کہ ہزاروں لوگ راہرو آتے ہیں ہمیں اس سے کیا؟

مغرب کی نماز باجماعت ادا کر کے جب حضرت اقدس دولت سرا کو تشریف لے چلے تو ایک شخص نے ہاتھ میں قلم دوات لئے ہوئے حضرت اقدس کی خدمت میں کچھ کاغذات پیش کئے۔ اس قلم دوات سے اس کی یہ غرض تھی کہ حضرت سے رقم کی رسید لے کر حضرت نے توجہ نہ کی اور اس کے وہ کاغذات لے کر تشریف لے گئے اور جب عشاء کی نماز کے واسطے تشریف لائے تو فرمایا کہ

ایک ہی مضمون کے دو رقعے مولوی ثناء اللہ صاحب کی طرف سے پہنچے ہیں۔ نہ معلوم دو رقعوں

۱۰ جنوری ۱۹۰۳ء

۶۸۴

کی کیا غرض تھی۔

اس وقت یہ عقدہ حل ہوا کہ غالباً دوسرا رقعہ دستخط یعنی رسید رقعہ لینے کی غرض سے تھا۔ مگر قاصد کو رسید مانگنے کی جرأت نہ ہوئی اور وہ رقعہ اس وقت سید سرور شاہ صاحب کے حوالہ کیا گیا۔ کہ وہ اسے پڑھ کر اہل مجلس کو سنا دیں۔

اس کے بعد حضرت اقدس نے فرمایا ت۔

ہم تیار ہیں وہ ہفتہ عشرہ آرام سے سب باتیں سنے اور اگر اس کا فشاء مباحثہ کا ہو تو یہ اس کی غلطی ہے کیونکہ اب مدت ہوئی کہ ہم مباحثات کو بند کر چکے ہیں۔ اگر اس کو طلب حق کی ضرورت ہے تو وہ رفتی اور آہستگی سے اپنی غلطی دور کوائے۔ طالب حق کے لئے ہمارا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہاں جو شخص ایک منہ بول کر چلا جاتا چاہتا ہے اور اسے فتح اور شکست اور ہار اور جیت کا خیال ہے وہ مستفید نہیں ہو سکتا۔ بجوایے شخص کے جو نیک نیت بن کر آوے ہم تو دوسرے کے ساتھ کلام کرنا بھی تضرع اوقات خیال کرتے ہیں۔ ہمیں تعجب ہے کہ وہ کیوں تمہارے ہاں جا کر اترے۔ چاہیے تھا کہ مستفیدوں کی طرح آتا اور ہمارے سمان خانہ میں اترتا۔

پھر فرمایا۔ ہم اس رقعہ کا صبح کو جواب دیں گے۔

اس کے بعد حضرت اقدس نماز سے فارغ ہو کر تشریف لے چلے تو ثناء اللہ صاحب کے قاصد نے آواز دی کہ حضرت جی۔ مولوی ثناء اللہ صاحب کے رقعہ کا کیا جواب ہے حضرت نے فرمایا کہ صبح کو دیا جائے گا۔

قاصد نے کہا کہ میں اگر جواب لے جاؤں یا آپ بذریعہ ڈاک روانہ کریں گے۔ حضرت اقدس نے فرمایا۔ خواہ تم آکر لے جاؤ خواہ ثناء اللہ آکر لے جاوے۔ پھر آپ نے قاصد کا نام پوچھا۔ اس نے کہا محمد صدیق ہے۔

11 جنوری 1902ء بروز یکشنبہ

مولوی ثناء اللہ کے رقعہ کا جواب

پہر کی نماز کو جب حضرت اقدس تشریف لائے تو قبل از نماز آپ نے وہ رقعہ جو مولوی

نے الہد بلداہل نمبر ۳۰۲ مورخ ۱۱ جنوری ۱۹۰۲ء

کی کیا فرض تھی۔

اس وقت یہ عقد مل ہوا کہ غالباً وہ سارا رقعہ دستخط یعنی رسید رقعہ لینے کی غرض سے تھا۔ مگر قاصد کو رسید مانگنے کی جرأت نہ ہوئی اور وہ رقعہ اس وقت سید سرور شاہ صاحب کے حوالہ کیا گیا۔ کہ وہ اسے پڑھ کر اہل مجلس کو سنا دیں۔

اس کے بعد حضرت اقدس نے فرمایا۔

ہم بخیر ہیں نہ بندہ مشوا آرام سے سب باتیں سنے اور اگر اس کا فشاء مباحثہ کا ہو تو یہ اس کی قلعی ہے کیونکہ اب مدت ہوئی کہ ہم مباحثات کو بند کر چکے ہیں۔ اگر اس کو طلب حق کی ضرورت ہے تو وہ رفق اور آہستگی سے اپنی قلعی دور کروائے۔ طالب حق کے لئے ہمارا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہاں جو شخص ایک منبہ نہ کر چلا جانا چاہتا ہے اور اسے فتح اور شکست اور ہار اور جیت کا خیال ہے وہ مستفید نہیں ہو سکتا۔ بجوایے شخص کے جو نیک نیت بن کر توے ہم تو دوسرے کے ساتھ کلام کرنا بھی تفسیح اوقات خیال کرتے ہیں۔ ہمیں تعجب ہے کہ وہ کیوں گھمار کے ہاں جا کر اترے۔ چاہیے تھا کہ مستقبل کی طرح آنا اور ہمارے مہمان خانہ میں اترنا۔

پھر فرمایا۔ ہم اس رقعہ کا صحیح جواب دیں گے۔

اس کے بعد حضرت اقدس نماز سے فارغ ہو کر تشریف لے چلے تو ثناء اللہ صاحب کے قاصد نے گوازدی کہ حضرت جی۔ مولوی ثناء اللہ صاحب کے رقعہ کا کیا جواب ہے حضرت نے فرمایا کہ صحیح کو دیا جائے گا۔

قاصد نے کہا کہ میں اگر جواب لے جاؤں یا آپ بذریعہ ذاک روانہ کریں گے حضرت اقدس نے فرمایا۔ خواہ تم آکر لے جاؤ خواہ ثناء اللہ آکر لے جاوے۔ پھر آپ نے قاصد کا نام پوچھا۔ اس نے کہا محمد صدیق ہے۔

۱۱ جنوری سنہ ۱۹۰۲ء بروز یکشنبہ

مولوی ثناء اللہ صاحب کے رقعہ کا جواب

نہری نماز کو جب حضرت اقدس تشریف لائے تو قلمی از نماز آپ نے وہ رقعہ جو مولوی

نے اہم مدلول نمبر ۳۵۳ اور جنوری ۱۹۰۲ء

شاء اللہ صاحب کے رقعہ کے جواب میں تحریر فرمایا تھا۔ احباب کو سنایا۔ یہ رقعہ یہ تھا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ      نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

از طرف عالیہ شاہ احمد غلام احمد عاقلہ اللہ وایہ

بخدمت مولوی شاعر اللہ صاحب

آپ کا رقعہ پہنچا۔ اگر آپ لوگوں کی صدق دل سے یہ نیت ہو۔ کہ اپنے ٹھوک و شہات  
 دہنگوئیوں کی نسبت یا ان کے ساتھ اور امور کی نسبت بھی جو دعویٰ سے تعلق رکھتے ہوں رفع  
 کروایں تو یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہوگی اور اگرچہ میں کئی سال ہوئے کہ اپنی کتاب انجام  
 آہم میں شائع کر چکا ہوں۔ کہ میں اس گناہ مخالف سے ہرگز مباحثات نہ کروں گا کیونکہ اس کا  
 نتیجہ بجز کندی گالین اور اہواشانہ کلمات سننے کے اور کچھ نہیں ہوا مگر میں ہمیشہ طالب حق کے  
 شہادت دہر کرنے کے لئے تیار ہوں۔ اگرچہ آپ نے اس رقعہ میں دعویٰ تو کر دیا ہے کہ طالب حق  
 ہوں مگر مجھے تاہل ہے کہ اس دعویٰ پر آپ قائم رہ سکیں۔ کیونکہ آپ لوگوں کی عادت ہے کہ ایک  
 بات کو کشتاں کشتاں بے ہوش اور مباحثات کی طرف لے آتے ہیں اور میں خدا تعالیٰ کے سامنے  
 وعدہ کر چکا ہوں کہ ان لوگوں سے مباحثات ہرگز نہیں کروں گا۔ سو وہ طریق جو مباحثات سے بہت  
 دور ہے کہ آپ اس مرحلہ کو صاف کرنے کے لئے اول یہ اقرار کریں کہ آپ منہاج نبوت سے  
 باہر نہیں جائیں گے۔ اور وہی اعتراض کریں گے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یا حضرت عیسیٰ  
 پر یا حضرت موسیٰ پر یا حضرت یونس پر عائد نہ ہوتا ہو اور حدیث اور قرآن شریف کی دہنگوئیوں  
 پر زور نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہوگی کہ آپ نہانی بولنے کے مجاز نہ ہوں گے۔ صرف آپ مختصر ایک سطر  
 یا دو سطر تحریر دے دیں گے کہ میرا یہ اعتراض ہے۔ پھر آپ کو میں مجلس میں مفصل جواب سنایا  
 جائے گا۔ اعتراض کے لئے لہا لکھے کی صورت نہیں ایک سطر یا دو سطر کافی ہیں۔ تیسری یہ شرط  
 ہوگی کہ ایک دن میں صرف ایک ہی آپ اعتراض پیش کریں گے کیونکہ آپ اطلاع دے کر نہیں  
 آئے۔ چوبیس کی طرح آگے۔ اور ہم ان دنوں باعث کم فرصتی اور کام طبع کتاب کے تین گنتہ  
 سے زیادہ صرف نہیں کر سکتے۔ یاد رہے کہ یہ ہرگز نہ ہوگا کہ عوام کا لانعام کے رعبہ آپ واحد کی  
 طرح ہم سے گھنگو شروع کر دیں بلکہ آپ نے بالکل منہ بند رکھنا ہوگا۔ جیسے ہم بکھ یہ اس لئے کہ  
 تا گھنگو مباحثہ کے رنگ میں نہ ہو جاوے۔ اور صرف ایک دہنگوئی کی نسبت سوال کریں۔ میں  
 تین گنتہ تک اس کا جواب دے سکتا ہوں اور ایک ایک گنتہ کے بعد آپ کو متنبہ کیا جاوے گا۔  
 کہ اگر ابھی تسلی نہیں ہوئی تو اور لکھ کر پیش کرو۔ آپ کا کام نہیں ہوگا کہ اس کو سناویں ہم خود



پڑھ لیں گے۔ مگر چاہیے کہ دو تین سطر سے زیادہ نہ ہو۔ اس طرز میں آپ کا کچھ حرج نہیں ہے کیونکہ آپ تو شبہات دور کرانے آئے ہیں۔ یہ طریق شبہات دور کرانے کا بہت عمدہ ہے۔ میں اواز بلند لوگوں کو سناؤں گا کہ اس بیگلوئی کی نسبت مولوی ثناء اللہ صاحب کے دل میں یہ دوسو پیدا ہوا ہے اور اس کا یہ جواب ہے۔ اس طرح تمام دسواں دور کر دیئے جائیں گے۔ لیکن اگر چاہو کہ بحث کے رنگ میں آپ کو بات کا موقعہ دیا جاوے تو ہرگز نہ ہوگا۔ ۳ جنوری ۱۹۰۳ء تک میں اس جگہ ہوں۔ بعد میں ہمارے جنوری کو ایک مقدمہ پر جہلم جاؤں گا۔ سو اگرچہ بہت کم فرصتی ہے۔ لیکن ۳ جنوری تک آپ کے لئے تین گھنٹے تک حرج کر سکتا ہوں۔ اگر آپ لوگ کچھ نیک نیتی سے کام لیں تو یہ ایسا طریق ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ ورنہ ہمارا اور آپ لوگوں کا آسمان پر مقدمہ ہے خود خدا تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔ سوچ کر دیکھ لو کہ یہ بہتر ہوگا کہ آپ بذریعہ تحریر جو سطر دو سطر سے زیادہ نہ ہو ایک ایک گھنٹہ کے بعد اپنا شبہ پیش کرتے جاویں گے اور میں وہ دوسو دور کرتا جاؤں گا۔ ایسے ہی صدہا آدمی آتے ہیں اور دوسو دور کرا لیتے ہیں۔ ایک بھلا مانس شریف آدمی ضرور اس بات کو پسند کرے گا۔ اس کو دسواں دور کرانے ہیں اور کچھ غرض نہیں۔ لیکن وہ لوگ جو خدا سے نہیں ڈرتے ان کی تو نیتیں ہی اور ہوتی ہیں۔

میرزا غلام احمد

اور فرمایا کہ

یہ طریق بہت امن کا ہے۔ اگر یہ نہ کیا جاوے تو بد امنی اور بد نتیجہ کا اندیشہ ہے۔

پھر فرمایا کہ

### ایک روایا

ابھی فجر کو میں نے ایک خواب دیکھا۔

کہ میرے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے۔ اس کے ایک طرف کچھ اشتہار ہے اور دوسری طرف ہماری طرف سے کچھ لکھا ہوا ہے جس کا عنوان یہ ہے

### بقیۃ الطاعون

اس کے بعد فجر کی نماز ہوئی تو حضرت اقدس نے قلم و دوات طلب فرمائی اور فرمایا کہ تمہارا سا اور اس رقعہ پر لکھا ہے۔

اتنے میں مولوی ثناء اللہ صاحب کے قاصد پھر آ موجود ہوئے اور جواب طلب کیا۔

پڑھ لیں گے۔ مگر چاہیے کہ دو تین سطر سے زیادہ نہ ہو۔ اس طرز میں آپ کا کچھ صرح نہیں ہے کیونکہ آپ تو شبہات دور کرانے آئے ہیں۔ یہ طریق شبہات دور کرانے کا بہت عمدہ ہے۔ میں باوا زبند لوگوں کو سناؤں گا کہ اس مشکل کی نسبت مولوی ثناء اللہ صاحب کے دل میں یہ دوسرا پیدا ہوا ہے اور اس کا یہ جواب ہے۔ اس طرح تمام دساوس دور کر دیئے جائیں گے۔ لیکن اگر چاہو کہ بحث کے رنگ میں آپ کو بات کا موقعہ دیا جاوے تو ہرگز نہ ہوگا۔ ۱۳ جنوری ۱۹۹۳ء تک میں اس جگہ ہوں۔ بعد میں ۱۵ جنوری کو ایک مقدمہ پر جہلم جاؤں گا۔ سو اگرچہ بہت کم فرصتی ہے۔ لیکن ۱۳ جنوری تک آپ کے لئے تین گھنٹے تک خرچ کر سکتا ہوں۔ اگر آپ لوگ کچھ نیک نیتی سے کام لیں تو یہ ایسا طریق ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ ورنہ ہمارا اور آپ لوگوں کا آسمان پر مقدمہ ہے خود خدا تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔ سوچ کر دیکھ لو کہ یہ بہتر ہوگا کہ آپ بذریعہ تحریر جو سطر دو سطر سے زیادہ نہ ہو ایک ایک گھنٹہ کے بعد اپنا شبہ پیش کرتے جاویں گے اور میں وہ دوسرے دور کرتا جاؤں گا۔ ایسے ہی صدہا توی آتے ہیں اور دوسرے دور کرا لیتے ہیں۔ ایک بھلا مانس شریف آدمی ضرور اس بات کو پسند کرے گا۔ اس کو دساوس دور کرانے میں اور کچھ غرض نہیں۔ لیکن وہ لوگ جو خدا سے شمس ڈرتے ان کی تونٹیں ہی اور ہوتی ہیں۔

میرزا غلام احمد

اور فرمایا کہ

یہ طریق بہت امن کا ہے۔ اگر یہ نہ کیا جاوے تو بد امنی اور بد نتیجہ کا اندیشہ ہے۔

پھر فرمایا کہ

### ایک روایا

ابھی فجر کو میں نے ایک خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے۔ اس کے ایک طرف کچھ اشتہار ہے اور دوسری طرف ہماری طرف سے کچھ لکھا ہوا ہے جس کا عنوان یہ ہے

### بَقِيَّةُ الطَّاعُونَ

اس کے بعد فجر کی نماز ہوئی تو حضرت اقدس نے قلم روایات طلب فرمائی اور فرمایا کہ تمہارا اور اس رقعہ پر لکھا ہے۔ اتنے میں مولوی ثناء اللہ صاحب کے قاصد پھر موجود ہوئے اور جواب طلب کیا۔

(ملفوظات جلد دوم صفحہ 686 تا 688 طبع جدید از مرزا قادیانی) یہ حوالہ صفحہ 283 پر درج ہے

حضرت اقدس نے فرمایا کہ ابھی لکھ کر دیا جاتا ہے۔  
پھر بقیہ حصہ آپ نے لکھ کر اپنے خدام کے حوالہ کیا کہ اس کی نقل کر کے روانہ کر دو۔  
وہ حصہ رقعہ کا یہ ہے۔  
”بالآخر اس غرض کے لئے اب آپ اگر شرافت اور ایمان رکھتے ہیں تو قادیان سے بغیر تصفیہ  
کے خالی نہ جاویں۔“

وہ قسموں کا ذکر ہوتا ہے (۱) اول چونکہ میں انجام آتھم میں خدا سے قطعی عہد کر چکا ہوں کہ  
ان لوگوں سے قطعی بحث نہیں کروں گا۔ اس وقت پھر اسی عہد کے مطابق قسم کھاتا ہوں کہ میں  
زبانی آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ صرف آپ کو یہ موقعہ دیا جاوے گا کہ آپ اول ایک  
اعتراض جو آپ کے نزدیک سب سے بڑا اعتراض کسی ہنگامی پر ہو ایک سطر یا دو سطر یا حد تین سطر  
تک لکھ کر پیش کریں جس کا یہ مطلب ہو کہ یہ ہنگامی پوری نہ ہوئی اور منہاج نبوت کی رو سے  
قابل اعتراض ہے اور پھر چپ رہیں اور میں مجمع عام میں اس کا جواب دوں گا جیسا کہ مفصل لکھ  
چکا ہوں۔ پھر وہ سزے دن دوسری ہنگامی اسی طرح لکھ کر پیش کریں۔ یہ تو میری طرف سے  
خدا تعالیٰ کی قسم ہے کہ میں اس سے باہر نہیں جاؤں گا اور کوئی زبانی بات نہیں سنوں گا اور آپ  
کی مجال نہیں ہوگی کہ کوئی کلمہ بھی زبانی بول سکیں اور آپ کو بھی خدا تعالیٰ کی قسم دینا ہوں کہ اگر  
آپ سچے دل سے آئے ہیں تو اس کے پابند ہو جاویں اور ناحق قند و فساد میں عمر بسر نہ کریں۔ اب  
ہم دونوں میں سے ان دونوں قسموں میں سے جو شخص اعتراض کرے گا اس پر خدا کی لعنت ہو اور خدا  
کرے کہ وہ اس لعنت کا پھل بھی اپنی زندگی میں دیکھ لے۔ آمین۔ سو میں دیکھوں گا کہ آپ سنت  
نبویہ کے موافق اس قسم کو پورا کرتے ہیں یا قادیان سے نکلنے ہوئے اس لعنت کو ساتھ لے جاتے  
ہیں چاہیے کہ اول آپ اس عہد موکد قسم کے آج ہی ایک اعتراض دو تین سطر کا لکھ کر بھیج دیں  
اور پھر وقت مقرر کر کے مسجد میں مجمع کیا جائے گا۔ اور آپ کو بتلایا جاوے گا اور عام مجمع میں آپ  
کے شیطانی رساوس دور کر دئے جائیں گے۔“

رقعہ دے کر آپ تشریف لے گئے اور اندر سے حضور نے کہلا بھیجا کہ رقعہ وہاں ان کو جا کر  
سنا دیا جاوے اور پھر ان کے حوالہ کیا جاوے۔  
چنانچہ یہ رقعہ مولوی ثناء اللہ صاحب کو پہنچا دیا گیا۔ تھوڑے عرصہ کے بعد پھر مولوی ثناء اللہ  
صاحب کی طرف سے جواب الجواب آیا۔

۱۔ الہدیر جلد اول نمبر ۳ مورخہ ۱۲ جنوری ۱۹۳۳ء

یہ نامعتول اور اصل بحث سے بالکل دور جواب سکر حضرت اقدس کو بت رنج ہوا اور آپ نے فرمایا کہ

ہم نے جو اسے خدا کی قسم دی تھی اس سے قائم اٹھانا یہ نظر نہیں آتا۔ اب خدا کی لعنت لے کر واپس جانا چاہتا ہے۔ جس بات کو ہم بار بار لکھتے ہیں کہ ہم مباحثہ نہیں کرتے جیسا کہ ہم انجام آتھم میں اپنا عمد دنیا میں شائع کر چکے ہیں۔ تو اب اس کا منشا ہے کہ ہم خدا کے اس عمد کو توڑ دیں۔ یہ ہرگز نہ ہوگا۔ اور پھر اس رقعہ میں کس قدر افتراء سے کام لیا گیا ہے کیونکہ جب ہم اسے اجازت دیتے ہیں کہ ہر ایک گھنڈے کے بعد دو تین سطریں ہماری تقریر پر اپنے شبہات کی لکھ دوں تو اس طرح سے خواہ اس کی دن میں تین سطور ہو جاویں ہم کب گریز کرتے ہیں اور خواہ ایک ہی یہ سگولی پر وہ ہم سے دس دن تک سناتا رہتا اور اپنے دسوں اس طرز سے پیش کرتا رہتا۔ اسے اختیار تھا۔ پھر ایک دو سزا جھوٹ یہ بولا ہے۔ کہ لکھا ہے کہ آپ جمع پسند نہیں کرتے۔ بھلا ہم نے کب لکھا ہے کہ ہم جمع پسند نہیں کرتے بلکہ ہم تو عام جلسہ چاہتے ہیں۔ کہ تمام قادیان کے لوگ اور دوسرے بھی جس قدر ہوں جمع ہوں تاکہ ان لوگوں کی بے ایمانی کھلے کہ کس طرح یہ لوگوں کو فریب دے رہے ہیں۔ اگر اسے حق کی طلب ہوتی تو اسے ہمارے شرائط ماننے میں کیا عذر تھا مگر یہ بد نصیب واپس جاتا نظر آتا ہے۔

پھر مولوی محمد احسن صاحب کو حضور نے فرمایا کہ  
آپ اس کا جواب لکھ دیں مجھے فرصت نہیں۔ میں کتاب لکھ رہا ہوں۔  
یہ کہہ کر حضور تشریف لے گئے اور مولوی محمد احسن صاحب نے رقعہ کا جواب تحریر فرمایا اس کے بعد کوئی جواب مولوی ثناء اللہ صاحب کی طرف سے نہ آیا۔ اور وہ قادیان سے چلے گئے۔

۱۲ جنوری ۱۹۰۲ء بروز دوشنبہ

اللہ تعالیٰ کے راستے میں زمین دینے کا ایک طریق

عمر کے وقت ایک شخص نے حضرت اقدس سے عرض کی کہ میرے پاس کچھ زمین ہے۔

۱۲ جنوری ۱۹۰۲ء بروز دوشنبہ

یہ حوالہ صفحہ 283 پر درج ہے

ملفوظات جلد دوم صفحہ 686 تا 688 طبع جدید از مرزا قادیانی

کیا رہا وہ بے خبر اور تم نے دیکھا حال زار  
 نہ تھے میری صداقت پر براہیں ہمشیار  
 جب اکٹھے ہوں تو پھر ایماں اڑے جیسے غبار  
 بدگمانی زہر ہے اس سے بچو اے دیں شعار  
 جن کی عادت میں نہیں شرم و شکیب و اسطبار  
 پر عقیدہ کو بدل دینا ہے کس کے اختیار  
 مل توئی رکھتے ہیں ہم صدوں کی ہے ہم کو سہارا  
 ہاتھ تھیوں پر نہ ڈال سے رو بہ زلزلہ زلزلہ زلزلہ  
 پس نہ ہٹو میری رہ میں اسے شریان دیار  
 تا حیاں ہو کون پاک اور کون ہے مردار خواہ  
 تیغ کو کھینچے ہوئے اسپر کہ جو کرتا ہے وار  
 ہوش ہو جائیں خطا اور بھول جانے سب تقار  
 پھر شریر نفس ظالم کو کہاں جلے زرار  
 خود سحلی کا دم بھرتی ہے یہ باد بہار  
 ہو رہا ہے نیک طبعوں پر فرشتوں کا اتار  
 نبض پھر چلنے کی مردوں کی ناگہ زندہ وار  
 پھر ہوئے میں چشمہ توحید پر از جاں نثار  
 آئی ہے باد صبا گلزار سے مستانہ وار  
 گو کہ دیوانہ تیں کرتا ہوں اس کا انتظار

کیا خدا بھولا رہا تم کو حقیقت بل گئی  
 بدگمانی نے تمہیں مجنون داندھا کر دیا  
 جہل کی تاریکیاں اور سودن کی تند بلا  
 زہر کے پینے سے کیا انجام جز موت و فنا  
 کانٹے اپنی راہ میں بوتے ہیں ایسے بدگمان  
 یہ غلامی بشر کی بد نصیبی کی ہے جلا  
 سخت جاں میں ہم کسی کے بغض کی پروا نہیں  
 جو خدا کا ہے اُسے ٹھکانا اچھا نہیں  
 پتھر پر مرے وہ خود کھڑا مٹی کریم  
 سنت لٹھ ہے کہ وہ خود فرق کو دکھاتا ہے  
 مجھ کو روئے میں نظر آتا ہے اک میرا معین  
 دشمن غافل اگر دیکھے وہ بازو وہ سلاح  
 ہن جہاں کا کیا کوئی دلور نہیں اور دادگر  
 کیوں عجب کرتے ہو گریں آگیا ہو کر سیخ  
 آسمان پر دعوت حق کے لئے اک جوش ہے  
 آ رہا ہے اس طرف احرار یورپ کا مزاج  
 کہتے ہیں تیلیٹ کو اب اہل دانش اللواع  
 باغ میں ملت کے ہے کوئی گل رعنا کھلا  
 تہی ہے لب تو خوشبو میرے دوست کی مجھے

لنفسی۔ سبحان الله تبارک وتعالیٰ مراد مجذک

اپنے لئے چنا۔ خدائے پاک بڑا برکتوں والا اور بڑا بزرگ ہے وہ تیری بزرگی کو زیادہ کرے گا۔

يَنْقُطِعُ اِبَاءَكَ وَيَبْدَعُ مِنْكَ

تیرے باپ دادے کا ذکر منقطع ہو جائیگا اور تیرے بعد سلسلہ خاندان کا تجھ سے شروع ہو جائیگا۔

وما كان الله ليتركك حتى يميز الخبيث من الطيب

اور خدا ایسا نہیں کرے گا کہ تیرے باپ اور پلید میں فرق کر کے نہ دکھلا دے۔

اذا جاء نصر الله والفتح وتمت كلمة ربك بهذا

اور جب خدا تعالیٰ کی مدد اور فتح آئے گی اور خدا کا وعدہ پورا ہوگا تب کہا جائے گا کہ یہ

الذی كنتم به تستعجلون۔ ارددت ان استخلف فخلقت

وہی امر ہے جس کے لئے تم جلدی کرتے تھے۔ میں نے ارادہ کیا کہ اپنا خلیفہ بناؤں سو میں نے

آدم۔ ذنی فتدلی فكان قاب قوسین او ادنی۔

اس آدم کو پیدا کیا۔ وہ خدا سے نزدیک ہوا پھر مخلوق کی طرف بھگا اور خدا اور مخلوق کے درمیان ایسا

یحییٰ الذین ویقیم الشریعة۔ یا آدم اسکن انت

ہو گیا جیسا کہ دو قوسوں کے درمیان کا غلط ہوتا ہے دین کو زندہ کرے گا اور شریعت کو قائم کرے گا اے آدم

وزوجک الجنة۔ یا مریم اسکن انت وزوجک الجنة

تو اور تیرے دوست بہشت میں داخل ہو۔ اے مریم تو اور تیرے دوست بہشت میں داخل ہو۔

(حاشیہ یاد رہے کہ ظاہری بزرگی اور وجاہت کے لحاظ سے اس خاکسار کا خاندان بہت شہرت رکھتا

تھا بلکہ اس زمانہ تک بھی کہ اس خاندان کی دنیوی شوکت زوال کے قریب قریب تھی۔

میرے دادا صاحب کے اس نواح میں نبیاسی گاؤں اپنی ملکیت کے تھے اور پہلے اس سے وہ

والیان ملک کے رنگ میں بسر کرتے تھے اور کسی سلطنت کے ماتحت نہ تھے اور پھر رفتہ رفتہ حکمت اور

مشیت ایزدی سے کھٹوں کے زمانہ میں چند لڑائیوں کے بعد سب کچھ کھو بیٹھے اور صرف چھ

گاؤں ان کے قبضہ میں رہے اور پندرہ گاؤں اور ہاتھ سے جاتے رہے اور صرف چار گاؤں روگے

اتمامِ حجت کو کون جانتا ہے اس لئے اپنے نبی کریم کی سچائی ثابت کرنے کیلئے زمین و آسمان کو نشانوں سے بھر دیا ہے اور اب اس نماز میں جس خدا نے اس ناچیز خادم کو بھیج کر ہزار ہا نشان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے لئے ظاہر فرمائے ہیں جو بارش کی طرح برس رہے ہیں تو پھر اتمامِ حجت میں کونسی کسر باقی ہو۔ جس شخص کو مخالفت کرنے کی عقل ہو وہ کیوں موافقت کی راہ کو سوچ نہیں سکتا اور جرات کو دیکھتا ہے کیوں اسکو روز روشن میں نظر نہیں آتا۔ حالانکہ تکذیب کی راہوں کی نسبت تصدیق کی راہ بہت سہل ہے ہاں جو شخص مسلوبِ العقل کی طرح ہے اور انسانی قوتوں سے کم حصہ رکھتا ہے اس کا حساب خدا کے سپرد کرنا چاہیے اسکے بارہ میں ہم کلام نہیں کر سکتے۔ وہ ان انسانوں کی طرح ہے جو خورد سالی اور بچپن میں مر جاتے ہیں مگر ایک شریر مکذیب یہ عذر نہیں کر سکتا کہ میں نیک نیتی سے تکذیب کرتا ہوں۔ دیکھنا چاہیے کہ اسکے سوا اس میں لائق ہیں یا نہیں کہ مسئلہ تو حید اور رسالت کو سمجھ سکے۔ اگر معلوم ہوتا ہے کہ سمجھ سکتا ہے مگر شرارت سے تکذیب کرتا ہے تو وہ کیونکر معذور رہ سکتا ہے۔ اگر کوئی آفتاب کی روشنی کو دیکھ کر یہ کہے کہ دن نہیں بلکہ رات ہے تو کیا ہم اسکو معذور سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ دانستہ کج بھٹی کرتے ہیں اور اسلام کے دلائل کو توڑ نہیں سکتے کیا ہم خیال کر سکتے ہیں کہ وہ معذور ہیں۔ اور اسلام تو ایک زندہ مذہب ہے جو شخص زندہ اور مردہ میں فرق کر سکتا ہے وہ کیوں اسلام کو ترک کرتا اور مردہ مذہب کو قبول کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ اس زمانہ میں بھی اسلام کی تائید میں بڑے بڑے نشان ظاہر کرتا ہے اور جیسا کہ اس بارہ میں میں خود صاحبِ تجربہ ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ اگر میرے مقابل پر تمام دنیا کی قومیں جمع ہو جائیں اور اس بات کا بالمقابل امتحان ہو کہ کس کو خدا غیب کی خبریں دیتا ہے اور کس کی دعائیں قبول کرتا ہے اور کس کی مدد کرتا ہے اور کس کیلئے بڑے بڑے نشان دکھاتا ہے تو میں خدا

چہ جو شخص بے دلیل ایک انسان کو خدا بناتا ہے یا بے دلیل خدا کو خالق ہونے سے جواب دیتا ہے۔ کیا وہ اسلام کی سچائی کے صاف صاف دلائل سمجھ نہیں سکتا۔ منہ

کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ہی غالب رہوں گا۔ کیا کوئی ہے؟ یا اگر اس امتحان میں میرے مقابل پر آوے۔ ہزار ہا نشانِ خدا نے محض اس لئے مجھے دیتے ہیں کہ تا دشمین معلوم کرے کہ دینِ اسلام سچا ہے۔ میں اپنی کوئی عزت نہیں چاہتا بلکہ اسکی عزت چاہتا ہوں جس کے لئے میں بھیجا گیا ہوں۔ بعض نادان کہتے ہیں کہ فلاں فلاں پیشگوئی پوری نہیں ہوئی اور اپنی جہالت سے ایک دو پیشگوئیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ پوری نہیں ہوئیں جیسا کہ شریعہ آدمی پہلے نبیوں کے وقت میں ایسا ہی کرتے آئے ہیں۔ مگر وہ آفتاب پر تھوکتا چاہتے ہیں اور اپنے جھوٹ اور افتراء سے اپنی بات کو رنگ دیکر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ انکو خدا تعالیٰ کی سنت کی خبر نہیں۔ انکو خدا تعالیٰ کی کتابوں کا علم نہیں یا کسی کو علم ہے اور محض شہادت ایسا کہتا ہے۔ انکے نزدیک تو گویا یونس نبی بھی جھوٹا تھا جس کی قطعی پیشگوئی جس کے ساتھ کوئی شرط نہ تھی پوری نہ ہوئی۔ مگر میری دو پیشگوئیاں جن کو وہ بار بار پیش کرتے ہیں یعنی آتھم اور احمد بیگ کے داماد کی نسبت وہ اپنے شرط کے لحاظ سے پوری ہو گئی ہیں۔ کیونکہ ان کے ساتھ شرطیں تھیں۔ ان شرطوں کے لحاظ تاخیر ہوئی۔ ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ وعید کی پیشگوئیوں میں ضروری نہیں ہوتا کہ وہ پوری ہو جائیں۔ اس پر تمام انبیاء کا اتفاق ہے اور میں اس بارہ میں زیادہ لکھنا نہیں چاہتا کیونکہ اس کی تفصیل میں میری کتابیں بھری پڑی ہیں۔ آتھم تو بموجب پیشگوئی کے فوت ہو گیا اور احمد بیگ بھی بموجب پیشگوئی کے فوت ہو گیا۔ اب اس کے داماد کی نسبت روتے ہیں اور وعید کی پیشگوئیوں کی نسبت جو سنت اللہ ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ اگر شرم اور حیا اور انصاف ہے تو دو فرہیں بنا کر ایک فرد میں وہ پیشگوئیاں لکھیں جو انکی نسبت میں پوری نہیں ہوئیں اور دوسری فرد میں وہ پیشگوئیاں ہم تحریر کریں گے جن سے کوئی انکار نہیں کر سکتا تب انکو معلوم ہوگا کہ وہ ایک دریا کے مقابل پر جو نہایت معقلاً ہے ایک قطرہ پیش کرتے ہیں جو ان کے نزدیک مصفا نہیں۔



ان تین سال میں جو اخیر دسمبر ۱۹۰۲ء تک ختم ہو جائیں گے۔ کوئی ایسا نشان دکھلا جو انسانی ہاتھوں سے بالاتر ہو۔ جبکہ تو نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ میں تیری ہر ایک دعا کو قبول کروں گا مگر شرکاء کے بارے میں نہیں۔ تبھی سے میری رُوح دُعاؤں کی طرف دوڑتی ہے۔ اور میں نے اپنے لئے یہ قطعی فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر میری یہ دعا قبول نہ ہو تو میں ایسا ہی مردود اور ملعون اور کافر اور بے دین اور خائن ہوں جیسا کہ مجھے سمجھا گیا ہے۔ اگر میں تیرا مقبول ہوں تو میرے لئے آسمان سے ان تین برسوں کے اندر گواہی دے گا کہ میں امن اور صلح کاری پھیلے اور تالوگ یقین کریں کہ تو موجود ہے اور دُعاؤں کو سُنتا اور انکی طرف جو تیری طرف جھکتے ہیں جھکتا ہے۔ اب تیری طرف اور تیرے فیصلہ کی طرف ہر روز میری آنکھ ہے گی جب تک آسمان سے تیری نصرت نازل ہو۔ اور میں کسی مخالف کو اس اشتہار میں مخاطب نہیں کرتا اور نہ ان کو کسی مقابلہ کے لئے بلاتا ہوں۔

یہ میری دعا تیری ہی جناب میں ہے کیونکہ تیری نظر سے کوئی صادق یا کاذب غائب نہیں ہے۔ میری رُوح گواہی دیتی ہے کہ تو صادق کو ضائع نہیں کرتا اور کاذب تیری جناب میں کبھی عزت نہیں پاسکتا۔ اور وہ جو کہتے ہیں کہ کاذب بھی نبیوں کی طرح تمدی کرتے ہیں اور انکی تائید اور نصرت بھی ایسی ہی ہوتی ہے جیسا کہ راستباز نبیوں کی۔ وہ جھوٹے ہیں اور چلپتے ہیں کہ نبوت کے سلسلہ کو شائبہ کر دیں۔ بلکہ تیرا قہر تلوار کی طرح مُفتری پر پڑتا ہے اور تیرے غضب کی بجلی کذاب کو محسوس کر دیتی ہے۔ مگر صادق تیرے حضور میں زندگی اور عزت پاتے ہیں۔ تیری نصرت اور تائید اور تیرا فضل اور رحمت ہمیشہ ہمارے شامل حال رہے۔ آمین ثم آمین۔

المشتمر مرزا غلام احمد از قادیان ۵ نومبر ۱۸۹۹ء

تعداد ۳۰۰۰ مطبوعہ ضیاء الاسلام بریلیہ ناران

صلیوہ و لکن شبہ لہم (المزورہ سورہ نساء) اس آیت میں دونوں حملوں کا جو آپؐ اور  
غلامہ آیت کا یہ ہے کہ نہ تو عیسیٰ کی ناجائز ولادت ہے اور نہ وہ صلیب پر مرنا بلکہ دھوکے  
سے سمجھ لیا گیا کہ مر گیا ہے۔ اس لئے وہ مقبول ہے اور اس کا اور نبیوں کی طرح خدا کی طرف  
رفع ہو گیا ہے۔ اب کہاں ہیں وہ مولوی جو آسمان پر حضرت عیسیٰ کا جسم پہنچاتے ہیں یہاں تو  
سب جھگڑا ان کی رُوح کے متعلق تھا جسم سے اس کو کچھ علاقہ نہیں۔

غرض قرآن شریف نے حضرت مسیح کو سچا قرار دیا ہے لیکن افسوس کہ کہتا پڑتا ہے کہ  
ان کی پیشگوئیوں پر یہود کے سخت اعتراض ہیں جو ہم کسی طرح ان کو دفع نہیں کر سکتے۔ صرف  
قرآن کے سہارے سے ہم نے مان لیا ہے اور سچے دل سے قبول کیا ہے اور بجز اس کے  
ان کی نبوت پر ہمارے پاس کوئی بھی دلیل نہیں۔ عیسائی تو انہی خدائی گورنوں میں گھر یہاں  
نبوت بھی ان کی ثابت نہیں ہو سکتی۔ ہائے کس کے آگے یہ باتم لیجائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام  
کی تین پیشگوئیاں صاف طور پر چھوٹی بھگلیں اور آج کلن زمین پر ہے جو اس عقدہ کو حل کر کے  
ان لوگوں پر واویلا ہے جو میرے معاملہ میں سچ کو جھوٹ بنا رہے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ  
علیہ وسلم پر خدا تعالیٰ کا نہایت فضل ہو کہی وہ شخص لوگوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہوگا  
جو اس نبی مقبول کا سچا تابع ہے۔ میں ان نادانوں کو کیا کہوں اور کیونکر ان کے دل میں سچائی  
کی محبت ڈال دوں جو نقالوں کی طرح پھرتے ہیں اور ٹھٹھا اور ہنسی ان کا کام ہے اور مسخری  
ان کا شیوہ ہے۔ صد ہا نشان آفتاب کی طرح چمک رہے ہیں مگر ان کے نزدیک اب تک کوئی  
نشان ظاہر نہیں ہوا۔ میں نے سنا ہے بلکہ مولوی ثناء اللہ امرتسری کی دستخطی تحریر میں نے  
دیکھی ہے جس میں وہ یہ درخواست کرتا ہے کہ میں اس طور کے فیصلہ کیلئے بدل خواہشمند  
ہوں کہ فریقین یعنی میں اور وہ یہ دعا کریں کہ جو شخص ہم دونوں میں سے جھوٹا ہو وہ سچے کی  
زندگی میں ہی مارجائے اور نیز یہ بھی خواہش ظاہر کی ہو کہ وہ اعجاز المسیح کی مانند کتاب تیار  
کرے جو ایسی ہی فصیح بلغ ہو اور انہیں مقاصد پر مشتمل ہو۔ سو اگر مولوی ثناء اللہ صاحب نے

یہ خواہشیں دل سے ظاہر کی ہیں نفاق کے طور پر نہیں تو اس سے بہتر کیا ہو اور وہ اس امت پر اس تفرقہ کے زمانہ میں بہت ہی احسان کرینگے کہ وہ مرد میدان بنکر ان دونوں ذریعوں سے حق و باطل کا فیصلہ کر لیں گے۔ یہ تو انہوں نے اچھی تجویز نکالی اب اس پر قائم رہیں تو بات ہے۔ اگر ایک کذاب دنیا سے کوچ کر جائے اور باقی لوگوں کو ہدایت ہو جائے تو ایسے مقابلہ والا نبی کا اجر پائیگا۔ لیکن ہم موت کے مقابلہ میں اپنی طرف سے کوئی چیلنج نہیں کر سکتے کیونکہ حکومت کا معاہدہ ایسے چیلنج سے نہیں مانع ہے۔ ہاں مولوی ثناء اللہ صاحب اور دوسرے مخالفوں کو منع نہیں کہ ایسے چیلنج سے ہمیں جو اب دینے کیلئے مجبور کریں خواہ وہ مولوی ثناء اللہ ہوں یا اور کوئی ایسا مولوی ہو جو مشاہیر میں سے اور اپنی جماعت میں عزت رکھتا ہو جس بارے میں کم سے کم پچاس معزز آدمی اس کے اشتہار پر تصدیقی شہادت ثبت کر دیں اور چونکہ مولوی ثناء اللہ صاحب اپنی تحریر کے رُوسے ایسے چیلنج کے لئے طیار بیٹھے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ پس ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں کہ وہ ایسا چیلنج دیں بلکہ ہماری طرف سے ان کو اجازت ہے۔ کیونکہ ان کا چیلنج ہی فیصلہ کے لئے کافی ہے۔ مگر شرط یہ ہوگی کہ کوئی موت قتل کے رُوسے واقع نہ ہو بلکہ محض بیماری کے ذریعے ہو۔ مثلاً طاعون سے یا ہیضہ سے یا اور کسی بیماری سے تا ایسی کارروائی حکام کے لئے تشویش کا موجب نہ ٹھیرے۔ اور ہم یہ بھی دُعا کرتے رہیں گے کہ ایسی موتوں سے فریقین محفوظ رہیں۔ صرف وہ موت کاذبہ کو آوے جو بیماری کی موت ہوتی ہو اور یہی مسلک فریق ثانی کو اختیار کرنا ہوگا۔ اور یاد ہے کہ ہماری قتل کی پیشگوئی ایک خاص پیشگوئی تھی۔ جو لیکر امہ کے متعلق تھی۔ اس میں خدا نے یہی ظاہر کیا تھا کہ وہ قتل کے ذریعے سے مرے گا۔ اور ایسا ہی شائع کیا گیا۔ اور میں خیال کرتا ہوں کہ اسکے قتل کے چلنے کا بھید یہ تھا کہ اس نے سخت زبان درازی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نبیوں کی نسبت اختیاً کی۔ اور خدا نے دیکھا کہ اسکی زبان درازی انتہا تک پہنچ گئی ہے اور اس نے گائیاں دینے

۱۵

ظہور میں کریں۔ افسوس کا مقام ہے کہ میرے دعویٰ کی نسبت جوہ میں نے سید محمد ہودا کو دعویٰ کی مخالفتوں نے نہ آسانی نشانوں سے فائدہ اٹھایا اور ذہنی نشانوں سے کچھ ہدایت حاصل کی۔ خدا نے ہر ایک پہلو سے نشان ظاہر فرمائے پر دنیا کے فرزندوں نے ان کو قبول نہ کیا۔ اب خدا کی اور ان لوگوں کی ایک گشتی ہے یعنی خدا چاہتا ہے کہ اپنے بندہ کی جس کو اس نے بھیجا ہے بدشگون لوگ نشانوں کے ساتھ سچائی ظاہر کرے اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ تباہ ہو۔ اس کا انجام بد ہو اور وہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہلاک ہو۔ اور اس کی جماعت متفرق اور تابود ہو تب یہ لوگ نہیں اندر خوش ہوں اور ان لوگوں کو تسخیر سے دیکھیں جو اس سلسلہ کی حمایت میں تھے اور اپنے دل لکھیں کہ تجھے مبارک ہو کہ آج تو نے اپنے دشمن کو ہر گز ہوتے دیکھا اور اس کی جماعت کو تتر بتر ہوتے مشاہدہ کر لیا۔ مگر کیا ان کی مرادیں پوری ہو جائیں گی اور کیا ایسا خوشی کا دن ان پر آئے گا؟ اس کا یہی جواب ہے کہ اگر حق کے اٹھانے پر آیا تھا تو ان پر بھی آئیگا۔ بوجہل نے جب بید کی لڑائی میں یہ دعویٰ تھا کہ اللہ صر من کان منا کا ذبا قلحنہ فی ہذا اللوطن۔ یعنی اسے خدا ہم دونوں میں سے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ہوں جو شخص تیری نظر میں جوٹا ہے اس کو وہی موقع قتال میں نہ ملے گا۔ تو کیا اس دعا کے وقت اس کو گمان تھا کہ میں جوٹا ہوں اور جب لیکھرام نے کہا کہ میری بھی مرزا غلام احمد کی موت کی نسبت ایسی ہی پیشگوئی ہے جیسا کہ اس کی اور میری پیشگوئی پہلے پوری ہو جائیگی اور وہ مرے گا تو کیا اس کو اس وقت اپنی نسبت گمان

۴۔ ایسا ہی جب مولوی غلام دستگیر قصودی نے کتاب تالیف کر کے تمام پنجاب میں مشہور کروا دیا تھا کہ میں نے یہ طریق فیصلہ قرار دے دیا ہے کہ ہم دونوں میں سے جو جوٹا ہے وہ پہلے مر جائیگا تو کیا اس کو خبر تھی کہ یہی فیصلہ اس کے لئے لعنت کا نشانہ ہو جائے گا۔ اور وہ پہلے مر کر دوسرے ہم مشرکوں کا بھی منہ کاٹ کرے گا۔ اور آئندہ ایسے مقابلات میں ان کے منہ پر مہر لگا دے گا اور بدول بنا دے گا۔ منہ

یہ خواہشیں دل سے ظاہر کی ہیں نفاق کے طور پر نہیں تو اس سے بہتر کیا ہو اور وہ اس اُمت پر اس تفرقہ کے زمانہ میں بہت ہی احسان کرینگے کہ وہ مرد میدان بنکر ان دونوں ذریعوں سے حق و باطل کا فیصلہ کر لیں گے۔ یہ تو انہوں نے اچھی تجویز نکالی اب اسپر قائم رہیں تو بات ہے۔ اگر ایک کذاب دُنیا سے کوچ کر جائے اور باقی لوگوں کو ہدایت ہو جائے تو ایسے مقابلہ والا نبی کا اجر پائیگا۔ لیکن ہم موت کے مبادلہ میں اپنی طرف سے کوئی چیلنج نہیں کر سکتے کیونکہ حکومت کا معاہدہ ایسے چیلنج سے نہیں مانع ہے۔ ہاں مولوی ثناء اللہ صاحب اور دوسرے مخالفوں کو منع نہیں کہ ایسے چیلنج سے ہمیں جواب دینے کیلئے مجبور کریں خواہ وہ مولوی ثناء اللہ ہوں یا اور کوئی ایسا مولوی ہو جو مشاہیر میں سے اور اپنی جماعت میں عزت رکھتا ہو جس بارے میں کم سے کم پچاس معزز آدمی اس کے اشتہار پر تصدیقی شہادت ثبت کر دیں۔ اور چونکہ مولوی ثناء اللہ صاحب اپنی تحریروں کے رُوسے ایسے چیلنج کے لئے طیار بیٹھے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ پس ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں کہ وہ ایسا چیلنج دیں بلکہ ہماری طرف سے ان کو اجازت ہے۔ کیونکہ ان کا چیلنج ہی فیصلہ کے لئے کافی ہے۔ مگر شرط یہ ہوگی کہ کوئی موت قتل کے رُوسے واقع نہ ہو بلکہ محض بیماری کے ذریعے ہو۔ مثلاً طاعون سے یا میضہ سے یا اور کسی بیماری سے تا ایسی کارروائی حکام کے لئے تشویش کا موجب نہ ٹھیرے۔ اور ہم یہ بھی دُعا کرتے رہیں گے کہ ایسی موتوں سے فریقین محفوظ رہیں۔ صرف وہ موت کاذب کو آوے جو بیماری کی موت ہوئی ہو اور یہی مسلک فریق ثانی کو اختیار کرنا ہوگا۔ اور یاد ہے کہ ہماری قتل کی پیشگوئی ایک خاص پیشگوئی تھی جو نیکم ام کے متعلق تھی۔ اس میں خدا نے یہی ظاہر کیا تھا کہ وہ قتل کے ذریعے سے مرے گا۔ اور ایسا ہی شائع کیا گیا۔ اور میں خیال کرتا ہوں کہ اسکے قتل کے چلنے کا بھید یہ تھا کہ اُس نے سخت زبان درازی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نبیوں کی نسبت اختیاً کی۔ اور خدا نے دیکھا کہ اسکی زبان درازی انتہا تک پہنچ گئی، اور اُس نے گالیاں دینے

## مولوی ثناء اللہ صاحب کے ساتھ آخری فیصلہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُكَ يَا وَفِيَّ عَلَيَّ رَسُوْلِي الْكَرِيْمِ  
لِيَسْتَنْبُوْنَكَ اَحَقُّ هُوَ قَوْلُ اِي وَرَبِّي اِنَّهُ لَخَبِيْرٌ

بخدمت مولوی ثناء اللہ صاحب السلام علی من اتبع الهدی۔ مرت سے آپ کے پرچہ اجدید میں میری تکذیب اور تفسیق کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمیشہ مجھے آپ اپنے اس پرچہ میں مردود کذاب و جالی مفسد کے نام سے منسوب کرتے ہیں اور دنیا میں میری نسبت شہرت دیتے ہیں کہ یہ شخص مفسری اور کذاب اللہ و جالی ہے اور اس شخص کا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا سراسر افتراء ہے۔ میں نے آپ سے بہت دکھ اٹھایا اور سب کرنا ہوا، مگر چونکہ میں دیکھتا ہوں کہ میں حق کے پھیلانے کے لیے بہرہ ریز ہوں اور آپ بہت سے افتراء میرے پر کر کے دنیا کو میری طرف آنے سے روکتے ہیں اور مجھے ان گالیوں اور ان تسمیوں اور ان الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ کہ جن سے بڑھ کر کوئی لفظ سخت نہیں ہو سکتا اگر میں ایسا ہی کذاب اور مفسری ہوں جیسا کہ اکثر اوقات آپ اپنے ہر ایک پرچہ میں مجھے یاد کرتے ہیں تو میں آپ کی زندگی میں ہی ہجرت ہو جاؤں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسد اور کذاب کی بہت عمر نہیں ہوتی اور آخر وہ دولت اور حسرت کے ساتھ اپنے اشد دشمنوں کی زندگی میں ہی ناکام ہلاک ہو جاتا ہے اور اس کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہوتا ہے تا خدا کے بندوں کو تباہ نہ کرے۔ اور اگر میں کذاب اور مفسری نہیں ہوں اور خدا کے مکالمہ اور مخاطبہ سے شرف ہوں اور مسیح موعود ہوں تو میں خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ سخت اللہ کے مہاتق آپ کذبین کی سزا سے نہیں بچیں گے۔ پس اگر وہ سزا جو انسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے ہے جیسے طاعون، ایسٹرو وغیرہ ہلکے بیماریاں آپ پر میری زندگی میں ہی وارد نہ ہوتی تو میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں۔ یہ کسی الہام یا وحی کی بناء پر پیشگوئی نہیں محض دعا کے طور پر نہیں نے خدا سے فیصلہ چاہا ہے اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے مالک بصیر و قدیر جو علیم و خبیر ہے جو میرے دل کے حالات سے واقف ہے اگر یہ دعویٰ مسیح موعود ہونے کا محض میرے نفس کا افتراء ہے اور میں تیری نظریں مفسد اور کذاب ہوں اور دن رات افتراء کرنا میرا کام ہے تو اے میرے پیارے مالک میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہجرت کر اور میری موت

۵۳ یونس

مجموعہ اشتہارات جلد دوم صفحہ 705، 706 طبع جدید از مرزا قادیانی

یہ حوالہ صفحہ 287 پر درج ہے

سے ان کو اور ان کی جماعت کو خوش کردے آمین۔ مگر سے میرے کال اور صادق خدا۔ اگر مولوی ثناء اللہ ان تہمتوں میں جو مجھ پر لگا تا ہے حق پر نہیں تو میں عاجزی سے تیری جناب میں دُعا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں ہی ان کو نابود کر۔ مگر ناسانی ہاتھوں سے بلکہ ظالموں و ہیمنہ وغیرہ امراضی ہلکے سے بجز اس صورت کے کہ وہ کھلے کھلے طور پر میرے رُوبرو اور میری جماعت کے سامنے ان تمام گالیوں اور بزدلیوں سے تو یہ کہے جن کو وہ فرض کی سمجھ کر ہمیشہ مجھے ڈکھ دیتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ میں ان کے ہاتھ سے بہت متا یا گیا اور صبر کرتا رہا۔ مگر اب میں دیکھتا ہوں کہ ان کی بزدلی حد سے گذر گئی۔ وہ مجھے ان چہروں اور ڈاکوؤں سے بھی بدتر جانتے ہیں میں جن کا وجود دنیا کے لیے سخت نقصان رساں ہوتا ہے اور انہوں نے ان تہمتوں اور بزدلیوں میں آیت لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ بِالْحَقِّ بِرَبِّهِمْ أُولَئِكَ هُمْ يُرْسَلُونَ اور تمام دنیا سے مجھے بدتر سمجھ لیا اور دُور دُور ملکوں تک میری نسبت یہ پھیلا دیا کہ یہ شخص درحقیقت مُفسد اور مُکذِّب اور دوکاندار اور کذاب اور مغربی اور نہایت درجہ کا بد آدمی ہے۔ سو اگر ایسے کلمات حق کے ظالموں پر بد اثر نہ ڈالتے تو میں ان تہمتوں پر صبر کرتا۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ انہیں تہمتوں کے ذریعہ سے میرے سلسلہ کو نابود کرنا چاہتا ہے اور اس عمارت کو منہدم کرنا چاہتا ہے جو تو نے اے میرے آقا اور میرے بھیجنے والے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔ اس لیے اب میں تیرے ہی تقدس اور رحمت کا دامن پکڑ کر تیری جناب میں ہمتی ہوں کہ مجھ میں اور ثناء اللہ میں سچا فیصلہ فرما اور وہ جو تیری نگاہ میں درحقیقت مُفسد اور کذاب ہے اس کو صادق کی زندگی میں ہی دُنیا سے اٹھائے یا کسی اور نہایت سخت آفت میں جو موت کے برابر ہو متلا کر۔ اے میرے پیارے مالک تو ایسا ہی کر۔ آمین ثم آمین۔ رَبَّنَا انْفِخْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَانْتَ خَيْرُ الْفَاصِحِينَ۔ آمین۔

باقاخر مولوی صاحب سے اتنا اس ہے کہ وہ میرے اس تمام مضمون کو اپنے پرچہ میں چھاپ دیں اور جو چاہیں اس کے نیچے کھ دیں۔ اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔

التراقی

عبد اللہ الصمد میرزا غلام احمد المسیح الموعود عانا اللہ وایت

مرقوم تاریخ ۱۵ اپریل ۱۹۰۹ء مطابق یکم ربیع الاول ۱۳۲۵ء بروز دوشنبہ

۲۰۶

۱۳ اپریل ۱۹۰۷ء

(قبل عصر)

صدقتِ اسلام کیلئے طاعون کی تلوار  
ابوسید عرب صاحب نے ذکر کیا کہ زنگون میں  
بندروں میں بھی طاعون کی وبا پڑی تھی حضرت

نے فرمایا کہ :-

برائین کے نکلنے کے زمانے میں خدا تعالیٰ نے ہم کو اس طاعون کے پڑنے کی خبر دی تھی۔ بد قسمت کفار کی  
ہمیشہ سے یہ عادت ہے کہ وہ انبیاء کے مقابلہ میں اپنی موت کا نشان مانگا کرتے ہیں۔ اب ہمارے مخالفوں کا بھی  
یہی حال ہے۔ اس واسطے خدا تعالیٰ نے ان کے واسطے یہ تلوار بھیج دی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ برائین میں جو وہ نل  
کا دودھ دیا گیا تھا وہ پورا نہیں ہوا۔ حالانکہ برائین میں صدقتِ اسلام کے واسطے کئی لاکھ دلیل ہے۔ خدا تعالیٰ نے پیسے سے  
اس میں یہ باتیں نکھوادی ہیں۔ کیا ہی شان ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ پیسے زمانہ میں جس طرح آنحضرت صلی اللہ  
علیہ وسلم کے مخالفوں کو مراد اور ذلیل کر کے ہلاک کیا تھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہو رہا ہے۔ اس وقت شریروں کی مزا  
کے واسطے تلوار انھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دی گئی تھی اور اس زمانہ میں تلوار خدا خود چلا رہا ہے جو لوگ  
جناہ پر اعتراض کرتے ہیں وہ دیکھ لیں کہ بد قسمت کفار اس وقت بھی اپنی شامتِ اعمال کے سبب اسی طرح ہلاک  
ہوئے تھے جیسے کہ اب ہو رہے ہیں۔ دین اسلام کی خاطر اگر اس وقت تلوار چلی تھی تو اس وقت بھی دین اسلام ہی کی  
خاطر تلوار چلی رہی ہے۔

سب سے بڑی کرامتِ استجابتِ دعائے فریاد :-

یہ زمانہ کے مجاہدات ہیں۔ رات کو ہم سوتے ہیں تو  
کوئی خیال نہیں ہوتا کہ اچانک ایک امام ہوتا ہے اور پھر وہ اپنے وقت پر پورا ہوتا ہے۔ کوئی ہفتہ عشرتِ حق سے  
خالی نہیں جاتا۔ ثناء اللہ کے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے یہ دراصل ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے اس کی  
بنیاد رکھی گئی ہے۔ ایک دفعہ ہماری توجہ اس کی طرف ہوئی اور رات کو توجہ اس کی طرف تھی اور رات کو امام ہوا کہ  
أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ رَابِعَةَ ۱۸۰۱، سو فیاد کے نزدیک بڑی کرامتِ استجابتِ دعائے فریاد ہے۔ باتیں سب  
اس کی شاخیں ہیں۔



إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ۚ هَلْ آتَاكَ  
 عمل میں قبولیت پیدا ہوتی ہے خدا کے ساتھ ہوگا جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جو نیک کاموں میں مشغول ہیں کیا تجھے  
 حَدِيثُ الزَّلْزَلَةِ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۚ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ  
 آنے والے زلزلہ کی خبریں ملیں؟ یاد کر جبکہ سخت طور پر زمین ہلائی جائے گی۔ اور زمین جو کچھ اُس کے اندر ہے باہر  
 أَخْرَجَتْهَا ۚ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۚ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  
 پھینک دیگی اور انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا کہ یہ غیر معمولی بلا اس میں پیدا ہو گئی؟ اُس دن زمین اپنی باتیں بیان کرے گی کہ کیا اس پر  
 آوْحَىٰ لَهَا ۚ أَحْيَبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرُكُوا ۚ وَمَا يَأْتِيهِمْ إِلَّا بَغْتَةً ۚ  
 گزرا۔ خدا اس کیلئے اپنے رسول پر وحی اتارے گا کہ کیا یہ مصیبت پیش آئی ہے۔ کیا لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ زلزلہ نہیں آئیگا؟ ضرور آئیگا  
 يَسْأَلُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ ۚ وَلَا يُرَدُّ عَنْ  
 اور ایسے وقت میں کہ وہ بالکل غفلت میں ہو گئے اور ہر ایک اپنے وقت کے کام میں مشغول ہوگا کہ زلزلہ کی خبر ملے گی تو وہ کہیں گے کہ  
 قَوْمٍ يُعْرِضُونَ ۚ الْأَرْضُ يَدُورُ وَيَنْزِلُ الْقَضَاءُ ۚ لَسَوْ يَكُونُ الَّذِينَ  
 کیا ایسے بڑے کا اناج ہے کہ کھدائی تو اس سے ہلکا سا اناج ہے اور خدا سے بڑھ کر کوئی کام میں اس سے بڑھ کر نہیں کئے جاسکتے یعنی کوئی حکم  
 كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفِكِينَ ۚ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ  
 ہو جائے اور وہ کہیں گے کہ اگر تمہیں یہ تو قیامت نہیں ہے جو اس پہ پہنچ جائے گی تو اس سے ایک چٹکی توڑی جائے اور قیامت  
 الْبَيِّنَةُ ۚ أَلَمْ نَكُنْ نُبَيِّنْ لَكَ آيَاتِنَا فِي الْقُرْآنِ ۚ وَإِنَّا لَنُفَصِّلُهَا  
 نازل ہوگی جو لوگ ان کتاب اور مشرکوں میں سے تھے کہہ رہے تھے وہ بھی اس نشانِ عظیم کے بان بٹھانے سے گھبرا جائیں گے اور ان کو توڑنا میں نہ صرف  
 يُرِيكُمْ اللَّهُ ذَلْزَلَةَ السَّاعَةِ ۚ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۚ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ  
 بتائیں گے قیامت کا زلزلہ دکھاؤں گا خدا کی قیامت کا زلزلہ دکھائے گا۔ اُس دن وہ کہا جائیگا کہ کس کا ملک ہے؟ کیا اُس خدا کا ملک  
 چمک دکھلاؤں گا تم کو اس نشان کی پٹی بار۔ اگر چاہوں تو اس دن قیامت۔ اِنِّي لَحَافِظٌ  
 نہیں جو سب پر قابض ہوں اور میں اس زلزلہ کے نشان کی پٹی توڑ کر چمک دکھاؤں گا اگر چاہوں تو اُس دن دنیا کا خاتمہ کروں اور ہر ایک کی

بقیہ ماشیہ۔ زمین پر جو کچھ ہے ابہر کسی کے ساتھ جنگ کرے گا۔ منہ (حقیقۃً) ص ۹۷ ماشیہ روحانی خزائن جلد ۲ ص ۹۵ ماشیہ  
 نے اس وحی الہی سے علوم پرکے کہ پانچ زلزلے آئیں گے اور پہلے چار زلزلے کے ساتھ ہلکے اور خفیف ہوں گے اور دنیا ان کو معمول سمجھے گی اور  
 پھر پانچواں زلزلہ قیامت کا نمود ہوگا کہ لوگوں کو سہل اور دیوانہ کرے گا یہی ملک کہ وہ تمنا کریں گے کہ وہ اس دن سے پہلے مر جاتے۔ اب  
 یاد ہے کہ اس وحی الہی کے بعد اس وقت تک جو ۲۲ جولائی ۱۹۰۶ء ہے اس ملک میں تین زلزلے آچکے ہیں یعنی ۲۸ فروری ۱۹۰۶ء  
 اور ۲۹ فروری ۱۹۰۶ء اور ۲۲ جولائی ۱۹۰۶ء مگر غالباً خدا کے نزدیک یہ زلزلوں میں داخل نہیں ہیں کیونکہ بہت ہی خفیف ہیں شاید چار زلزلے  
 پہلے آئے ہوں گے جیسا کہ سہ اپریل ۱۹۰۵ء کا زلزلہ تھا اور پانچواں قیامت کا نمود ہوگا۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔ منہ

(حقیقۃً) ص ۹۷ ماشیہ۔ روحانی خزائن جلد ۲ ص ۹۶ ماشیہ)

یہ حوالہ صفحہ 291 پر درج ہے

تذکرہ مجموعہ وحی والہامات طبع چہارم صفحہ 552، 553 از مرزا قادیانی

كُنَّ مَنْ فِي الدَّارِ اُرِيكَ مَا يُرِيضِيكَ رَفِيقُونَ كوكہ دو کہ عجائب در عجائب کام  
جو تیرے گھر میں ہو گا ایسی مخالفت کرونگا اور میں تجھے وہ کثرت قدرت دکھاؤں گا جس کو خوش ہو جائیگا۔ فتوح کوكہ دو کہ  
و کھلانے کا وقت آ گیا ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيُغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ  
عجائب در عجائب کام دکھلانے کا وقت آ گیا ہے میں ایک عظیم فتح تجھ کو عطا کروں گا جو کئی کئی فتحوں سے زیادہ ہے  
مِنْ ذُنُوبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ اِنِّ اَنَا التَّوَّابُ مَنْ جَاءَكَ جَاءَ فِي سَلَامٍ عَلَيكَ  
گناہ بخشش سے جو پہلے ہیں اور پہلے ہیں میں تیرے قبول کرنے والا ہوں جو شخص تیرے پاس آئے گا وہ گویا میرے پاس آئے گا  
يُبَشِّرُهُ نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْكَ صَلَوةَ الْعَرَبِ اِلَى الْفَرَسِ مَنْ تَوَلَّكَ لَكَ  
تم پر سلام تم پاک ہو جو جری تعریف کرتے ہیں جو تیرے پروردگار سے ہیں۔ ایش سے فرشتے تمہارے پروردگار سے ہیں تیرے لئے  
وَلَكَ نُرِيْ اٰيَاتِ الْاَمْرَانِ تَشَاجِعُ وَالْفُرُوسِ تَضَاعُ وَمَا كَانَ اللهُ  
آزادوں اور تیرے لئے اپنے نشان دکھانے کا ملک میں میرا میں نہیں کی اور بہت جانیں مانع ہوں گی اور خدا ایسا نہیں ہے  
لِيُغَيِّرَ مَا يَقُوْمُ حَتَّىٰ يَغَيِّرُوْا مَا يَآئِنُ بِهٖمْ اِنَّهُ اَوْسَى الْقَرِيْبَةَ  
جو اپنی تقدیر کو بدلے جو ایک قوم پر نازل کی جائے وہ قوم اپنے دونوں کے نیابت کو بدل دے گا میں وہ اس قدر ہلکے کہ پہلے  
تَوَلَّ اِلَّا كَرَامًا لَهٗ لَكَ الْحَقَّ اِنِّ اُخَافُ كُلَّ مَنْ فِي الدَّارِ مَا كَانَ اللهُ  
پناہ میں لے گا۔ اگر مجھ تیری عزت کا پاس نہ ہو تو اس تمام گاؤں کو میں ہلاک کر دیتا ہوں ہر ایک کو جو اس حرکت کا پیروار کے اندر ہے  
لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ اِنَّهُمْ اَمْرٌ وَّرَمَكَ اِنْ مَحَبَّتِ سَرَّ اِنَّهُمُ اَبُوْ جَالٍ  
پہلوں کا کئی ایسی طاقتوں یا مجموعوں میں رہنا خدا ایسا نہیں کرے گا میں تو ہر ایک کو عذاب کرے ہمارا محبت کا گھر ہے

لے عالم انسان کا قاعدہ ہے کہ وہ خدا کے رسولوں اور نبیوں پر ہرگز ہمت نہیں کرتا ہے اور طرح طرح کے عیب ان میں نکالتا ہے گویا  
دنیا کے تمام مجبوروں اور غریبوں اور جرائم اور ملامتوں کا وہی مجبور ہیں۔ اب ان دماغوں کا کئی تک جواب دہا جائے جو نفس کی شرارت  
کے ساتھ مخلوط ہیں۔ اس لئے یہ سنت اللہ ہے کہ آخر ان تمام مجبوروں کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور کوئی ایسا عظیم نشان ظاہر  
کرتا ہے جس سے اس دنیا کی بریت ظاہر ہوتی ہے۔ پس لِيُغْفِرَ لَكَ اللهُ کے یہاں معنی ہیں۔ منہ

(حقیقۃ الہوی ص ۹۴ ماشیہ۔ روحانی خزائن جلد ۲۲ صفحہ ۹۷ ماشیہ)

لے اسی کا نظریہ کی زبان میں اس موقع پر استعمال پاتا ہے جبکہ کسی قدر تکلیف کے بعد کسی شخص کو اپنے پناہ میں لیا جائے  
جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اَلَّذِيْ يَجِدُكَ يَتِيْمًا قَاوِيًّا اَوْ يَتِيْمًا اِلَى زُبُوْقٍ ذَاتِ كَرَامٍ  
وَمُعِيْنٍ مَنْه (حقیقۃ الہوی ص ۹۴ ماشیہ۔ روحانی خزائن جلد ۲۲ صفحہ ۹۷ ماشیہ)

لاہوری نے آپکی چھاتی میں پستان کے پاس انجکشن یعنی دوائی کی پھکاری کی۔ جس سے وہ جگہ کچھ ابھرائی۔ مگر کچھ افادہ محسوس نہ ہوا۔ بلکہ بعض لوگوں نے برا منایا۔ کہ اس حالت میں آپ کو کیوں یہ تکلیف دی گئی ہے تھوڑی دیر تک فرغہ کا سلسلہ جاری رہا۔ اور ہر آن سانسوں کے درمیان کا وقفہ لمبا ہوتا گیا۔ حتیٰ کہ آپ نے ایک لمبا سانس لیا اور آپ کی روح رفیق اہل کی طرف پرواز کر گئی۔ اللہم صل علیہ وعلیٰ مطاعہ وحممہ وبارک وسلم۔ خاک رنے والدہ صاحبہ کی یہ روایت جو شروع میں درج کی گئی ہے جب دوبارہ والدہ صاحبہ کے پاس برائے تصدیق بیان کی۔ اور حضرت بیچ موعودؑ کی وفات کا ذکر آیا۔ تو والدہ صاحبہ نے فرمایا۔ کہ حضرت سچ موعود کو پہلا دست کھانا کھانے کے وقت آیا تھا۔ مگر اسکے بعد تھوڑی دیر تک ہم لوگ آپ کے پاؤں دباتے رہے۔ اور آپ آرام سے لیٹ کر سو گئے۔ اور میں بھی سو گئی۔ لیکن کچھ دیر کے بعد آپ کو پھر حاجت محسوس ہوئی اور غالباً ایک یا دو دفعہ رقع حاجت کے لیے آپ پاخانہ تشریف لے گئے اسکے بعد آپ نے زیادہ ضعف محسوس کیا۔ تو اپنے ماتے سے مجھے جگایا۔ میں اٹھی تو آپ کو اتنا ضعف تھا کہ آپ سیری چارپائی پر ہی لیٹ گئے اور میں آپکے پاؤں دبانے کے لیے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا۔ تم اب سو جاؤ۔ میں نے کہا۔ نہیں میں ڈبالی ہوں۔ اتنے میں آپکو ایک اور دست آیا۔ مگر اب اس قدر ضعف تھا۔ کہ آپ پاخانہ نہ جاسکتے تھے۔ اس لیے میں نے چارپائی کے پاس ہی انتظام کر دیا اور آپ وہیں بیٹھ کر فارغ ہوئے اور پھر اٹھ کر لیٹ گئے اور میں پاؤں دباتی رہی۔ مگر ضعف بہت ہو گیا تھا اسکے بعد ایک اور دست آیا اور پھر آپ کو ایک قے آئی۔ جب آپ قے سے فارغ ہو کر لیٹنے لگے۔ تو اتنا ضعف تھا کہ آپ لیٹتے لیٹتے پشت کے بل چارپائی پر گر گئے۔ اور آپ کا سر چارپائی کی لکڑی سے ٹکرایا اور حالت

دیگر گوں ہو گئی۔ اسپر میں نے گھبرا کر کہا "اسدیہ کیا ہونے لگا ہے" تو آپ نے فرمایا "یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا" خاک سار نے والدہ صاحبہ سے پوچھا "کیا آپ سمجھ گئی تھیں۔ کہ حضرت صاحب کا کیا منشا ہے؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا۔ "ہاں" والدہ صاحبہ نے یہ بھی فرمایا۔ کہ جب حالت خراب ہوئی اور ضعف بہت ہو گیا۔ تو میں نے کہا کیا مولوی صاحب (حضرت مولوی نور الدین صاحب) کو بتا لیں؟ آپ نے فرمایا بلا لویہ فرمایا۔ محمود کو جگا لڑ۔ پھر میں نے پوچھا محمد علی خان یعنی نواب صاحب کو بلا لوں۔ والدہ صاحبہ و ماہی ہیں۔ کہ مجھے یاد نہیں کہ حضرت صاحب نے اس کا کچھ جواب دیا یا نہیں اور دیا تو کیا دیا۔ خاک ر عمر میں کرتا ہی کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مرض موت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سخت کرب تھا۔ اور نہایت درجہ بے چینی اور گھبراہٹ اور تکلیف کی حالت تھی اور ہم سنے دیکھا ہے۔ کہ حضرت مسیح موعود کا بھی بوقت وفات قریباً ایسا ہی حال تھا۔ یہ بات ناواقف لوگوں کے لیے موجب تعجب ہو گی۔ کیونکہ دوسری طرف وہ یہ سنتے اور دیکھتے ہیں کہ صوفیاء اور اولیاء کی وفات نہایت اطمینان اور سکون کی حالت میں ہوتی ہے سو دراصل بات یہ ہے۔ کہ نبی جب فوت ہونے لگتا ہے۔ تو اپنی امت کے متعلق اپنی تمام ذمہ داریاں اسکے سامنے ہوتی ہیں۔ اور ان کے مستقبل کا فکر مزید برآں اسکے دامنگیر ہوتا ہے۔ تمام دنیا سے بڑھ کر اس بات کو نبی جانتا اور سمجھتا ہے کہ موت ایک دروازہ ہے جس سے گزر کر انسان نے خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ پس موت کی آمد جہاں اس لحاظ سے اس کو مسرور کرتی ہے۔ کہ وصال محبوب کا وقت قریب آن پہنچا ہے۔ وہاں اس کی عظیم الشان ذمہ داریوں کا احساس اور اپنی امت کے متعلق آئندہ کا فکر اور غیر معمولی کرب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ مگر صوفیاء اور اولیاء ان فکروں سے آزاد ہوتے ہیں۔ ان پر صرف ان کے نفس کا بار ہوتا ہے مگر نبیوں پر ہزاروں

بچہ خود دیکھے۔ بلکہ خود میری ذات اور میرے گھر والوں اور بچوں پر بیان کا اثر ہوا۔ زلزلہ کے وقت نہایت اندیشہ ہوا کہ خدا جانے کچھ اسمعیل کا کیا حال ہوا۔ ممکن ہے۔ زلزلہ میں کہیں کسی مکان کے نئے دب کر گیا ہو۔ حضرت صاحب فرمایا کہ مرا نہیں۔ مجھے الہام ہوا ہے۔ کہ ڈاکٹر محمد اسمعیل وہ ڈاکٹر ہو گا۔ محمد اسحاق کو دو دفعہ طاعون ہوا۔ آپ کی دعا سے اچھا ہوا۔ اور آپ نے پہلے ہی فرما دیا تھا۔ کہ یہ مر گیا۔ ایک دفعہ تین چار گھنٹہ میں بخار بھی جاتا رہا اور گلٹیاں بھی دوہ گئیں

دعائی میں علالت اور

حضرت کی دعا کی صحت

مجھے ایک دفعہ سخت گردہ کا درد ہوا۔ میں نے جب آپ کو بلا یا تو آپ نے فرما دیا کہ فرماؤں اور میں ہوں گے۔ تنہائی میں جا کر دعا شروع کر دی جس کا اثر فرما ہوا۔ اور یہ عاجز اچھا ہو گیا۔ ایک دفعہ ہم سب حضرت مرزا صاحب کے ہمراہ دلی گئے۔ وہاں میں سخت بیمار ہو گیا۔ ڈاکٹر یعقوب بیگ صاحب اور محمد اسمعیل میرا بیٹا سخت پریشان ہو گئے۔ حضرت صاحب نے مولوی حکیم مولوی نذیر الدین صاحب کو تار دیا۔ کہ فوراً چلے آؤ۔ وہ فوراً دلی چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا فرمادی۔ اور حضرت صاحب میرے تندرست ہونے سے بہت خوش ہوئے۔ ابتداً

حضرت اقدس کی خدمت

میں جب کہیں حضرت صاحب باہر تشریف لے جاتے تھے تو کچھ گھر کی حفاظت اور قادیان کی خدمت کے لئے چھوڑ جاتے تھے۔ اور خرمات میں جب کہیں سفر کرتے تھے اور گھر کے لوگ ہمراہ ہوتے تھے۔ تو بندہ بھی ہر گاہ ہوتا تھا۔ چنانچہ جب آپ لاہور میں تشریف لے گئے۔ جن سفر میں آپ کو سفر آخرت پیش آیا تب بھی بندہ آپ کے ہمراہ تھا۔ اور اس شام کی میری بھی خرابی تھا جس کے دوسرے روز آپ نے قبل از دوپہر انتقال فرمایا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون

اب بڑی اذیت تبدیلی میرے حال میں پیدا ہوئی۔ اور ایسی سخت مصیبت نازل ہوئی۔ کہ جس کی طافی بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا میری تکلیف کو کوئی نہیں جان سکتا۔ حضرت صاحب میں رات کو بیمار ہوئے۔ اس رات کو میں اپنے مقام پر جا کر سو چکا تھا۔ جب آپ کو بہت تکلیف ہوئی۔ تو مجھے بگایا گیا تھا۔ جب میں حضرت صاحب کے پاس پہنچا۔ اور آپ کا حال دیکھا تو آپ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا۔ میر صاحب مجھے دبانے بیٹھ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوئی ایسی صاف بات میرے خیال میں نہیں کہی۔ یہاں تک کہ دوسرے روز دس بجے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ ایک دن تو تم پر آپ کے

نزدک المسیح

۱۲۲

ضمیمہ

منظور ہو تو پرائیویٹ خطوط کے ذریعے سے اس کا تصفیہ کرنا ہو گا۔ اور پھر ایسے اشتہار مبالغہ پر کم سو کم پچاس معزز آدمیوں کے دستخط ثابت ہونے چاہئیں اور کم سو کم اس مضمون کا ساتھ ساتھ اشتہار ملک میں شائع ہونا چاہیے اور نہیں اشتہار بذریعہ رجسٹری مجھے بھی بھیج دیں۔

مجھے کچھ ضرورت نہیں کہ میں انہیں مبالغہ کیلئے چیلنج کروں یا ان کے بالتقابل مبالغہ کیوں ان کا اپنا مبالغہ جس کیلئے انہوں نے مستعدی ظاہر کی ہو میری صداقت کیلئے کافی ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے براہین احمدیہ کے زمانہ سے جسکی تالیف پر تخمیناً تیس سال گزر چکے ہیں میرے لئے یہ نشان قائم کر رکھا ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ اگر میں اس مقابلہ میں مغلوب رہا تو میری جماعت کو چاہیے جو ایک لاکھ سے بھی اب زیادہ ہو کہ سب مجھ سے بیزار ہو کر الگ ہو جائیں کیونکہ جب خدا نے مجھے مجھوٹا قرار دیکر ہلاک کیا تو میں مجھوٹے ہونے کی حالت میں کسی پیشوائی اور امامت کو نہیں چاہتا بلکہ اس حالت میں ایک یہودی سے بھی بدتر ہونگا اور ہر ایک کے لئے جانے مار و ننگ۔

اور جو شخص ایسے چیلنج سے فتنہ کو فرو کر گیا بشرطیکہ وہ صادق نکلے گا صفحہ روزگار میں بڑی عزت کے ساتھ اس کا نام منقوش رہیگا۔ اور جو شخص دجال بے ایمان مغتری ہو گا اسکی ہلاکت سے متوکل مشورہ کی روتے کہ جس کم جہاں پاک دنیا کو راحت حاصل ہوگی اس زیادہ میں کیا کلمہ سکتا ہوں اور اگر کوئی ضروری امر مجھ سے کہے گیا ہے جسکو انصاف چاہتا ہو تو مجھے اطلاع دیکر مجھے میں خوشی سے اسکو قبول کرونگا بشرطیکہ یہود نہ ہو اور حیلہ و بہانہ کی اس بد بونہ اکھے اور تقویٰ کی بنا پر ہو۔ نہ دنیا دہروں کی چال بازی کے رنگ میں۔ اور خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح میں کھل جائے۔ اگرچہ میں خدا کے نشانوں کو ایسا دیکھ رہا ہوں جیسے کہ کوئی آفتاب کو دیکھتا ہے اور میں خدا کی اس وحی پر ایسا ہی ایمان لاتا ہوں جیسے کہ قرآن شریف پر۔ مگر میں ہر ایک پہلو سے منکر پر اتھام محبت چاہتا ہوں۔ یا الہی تو جو ہمارے کاروبار کو دیکھ رہا ہو اور ہمارے دلوں کی تیری نظریں تیری محبت نگاہوں سے ہمارے اندر پوشیدہ نہیں۔ تو ہم میں اور مخالفوں میں فیصلہ کرنے۔ اور وہ جو تیری نظریں صادق سے۔ اس کو ضائع مت کر کہ صادق کے ضائع ہونے سے

۲۰

۱۱ اپریل ۱۹۷۷ء

دربت سیرا

غلام دستگیر تصوری کا مباحثہ  
 غلام دستگیر تصوری کے بارے میں ذکر تھا کہ بعض مخالفین  
 کہتے ہیں اس نے کب مباحثہ کیا؟

حضور نے فرمایا کہ :-

یہ جو اس نے کہا قطعاً ۱۵ اپروالفتوہ الذین ظلموا (الانعام: ۳۶۰) اس کا مصداق بنا۔ اس  
 فقرے کے اس کے سوا اور کیا معنی ہو سکتے ہیں کہ وہ ظالم کی ہلاکت کا خدا تعالیٰ سے خواستگار ہے اب اللہ تعالیٰ  
 کے فعل نے بتا دیا کہ ظالم کون ہے۔ قرآن مجید میں بھی کُنتَ اللہ مَلِكًا ذِي بِيْنٍ (کل سورن ۲۰۰) آیا ہے۔ یوں  
 کہوں کہ تو نہیں کہا گیا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر عذاب نازل ہو۔ گو اس کا منہمک یہی  
 ہے مگر یہ جلدت نہیں۔ ایسا ہی وہاں جو تصوری نے اپنی کتاب میں لکھا تو اس کا مطلب یہی تھا۔ پھر بطریق تنزیل  
 ہم مان لیتے ہیں کہ اس نے صرف ہمارے لیے بددعا کی مگر اب بتاؤ کہ اس کی دعا کا اثر کیا ہوا؟ کیا وہ الفاظ جو میرے  
 حق میں کے اور وہ دعا جو میرے برخلاف کی اُلٹی اس پر ہی پڑی؟ اب بتاؤ کہ کیا مقبولان الہی کا یہی نشان ہے  
 کہ جو دعا وہ نہایت تضرع و اجتناب سے کریں اس کا اُٹا اثر ہو اور اثر بھی یہ کہ خود ہی ہلاک ہو کر اپنے کا ذب بکنے  
 پر مُرنگا جاویں۔ خصوصاً ایسے شخص کے مقابل میں جسے وہ مفسری اور کیا کیا سمجھتا ہے۔ دراصل وہ مجمع ابھارنے والے  
 کی مثال دے کر خود اس کا قائم نام پتا چاہتا تھا اور اگر مجھے کوئی نقصان پہنچ جاتا تو بڑے بڑے بے اعتبار شایع  
 ہوتے لیکن خدا تعالیٰ نے دشمن کو باطل موقوف نہ دیا کہ وہ کسی قسم کی خوشی مناسے۔ اس بات کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اس  
 نے میرے برخلاف بددعا کی اور خدا تعالیٰ سے میری جڑ کے کٹ جانے کی درخواست کی۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس  
 کی جڑ کٹی اور مجھے روز افزوں ترقی حاصل ہوئی۔ کیا یہ متعصب ممانعت کے لیے عبرت کا مقام نہیں؟ انہوں نے  
 یہ لوگ ذرا بھی خود و فکر سے کام نہیں لیتے۔ قرآن مجید کی آیت یہاں کیسی صدق آ رہی ہے مَيْتْرَ بَعْضٍ يَكْتُمُ  
 اِنَّهٗ ذَا اِيْزٍ عَلَيْهِمْ ذَا اِيْزَةٍ اَلشُّوْبِ (التوبہ ۹۰۱) (تاکتے ہیں تم پر زمانے کی گردشیں انہی پر آوے کر ڈٹے ہوئی)  
 خدا تعالیٰ کے مامور کے جو مقابل میں آتا ہے سب دعائیں اور  
 لعنتیں اسی پر اُٹ کر پڑتی ہیں جیسا کہ نبی نے دیکھا۔ یہ آریہ  
 مامور کے مخالفین کا انجام

جو مزے ہیں خدا تعالیٰ نے پسند نہیں کیا کہ اس کے مرکز تمہیات میں کوئی ہم پر افتراء کرے۔ واقعی یہ بڑی خیانت کا  
 کام ہے کہ اپنی آنکھوں سے نشان دیکھیں اور پھر نہ صرف خود انکار کریں بلکہ اوروں کو بھی بے گناہیں۔ یہ سخت بُرا

۱۸۹۲ء

”بارہ اس عاجز کا نام مکاشفات میں غازی رکھا گیا ہے۔“

(نشان آسمانی صفحہ ۱۵۰۔ روحانی خزائن جلد ۱۱ صفحہ ۳۷۵)

۱۸۹۲ء

”یہ عاجز خدائے تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اس تکفیر کے وقت میں کہ ہر ایک

طرف سے اس زمانہ کے علماء کی آوازیں آرہی ہیں کہ لَسْتَ مُؤْمِنًا۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ زیادہ ہے کہ

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ

ایک طرف حضرات مولوی صاحبان کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح اس شخص کی بیعت مکی کرو۔ اور ایک طرف امام ہوتا ہے

يَا تَرْتَبُونَ عَلَيْكَ الذُّوَابُ عَلَيْهِمْ ذَاتُ أَيْمُرَةٍ السَّوِيَّةِ

اور ایک طرف وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس شخص کو سخت ذلیل اور رسوا کریں اور ایک طرف خدا وعدہ کر رہا

ہے۔

إِنِّي مِيهِنٌ مِّنْ أَرَادَ إِهَانَتِكَ . اللَّهُ اجْعَلْكَ . اللَّهُ يُعْطِيكَ جَلَالًا

اور ایک طرف مولوی لوگ فتوے پر فتوے لکھ رہے ہیں کہ اس شخص کی ہم عقیدگی اور پیروی سے انسان کافر ہو جاتا ہے

اور ایک طرف خدا تعالیٰ اپنے اس امام پر بتواتر زور دے رہا ہے۔

”قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ“

غرض یہ تمام مولوی صاحبان خدا تعالیٰ سے لڑ رہے ہیں۔ اب دیکھئے کہ فتح کس کی ہوتی ہے؟

(نشان آسمانی صفحہ ۲۸، ۲۹۔ روحانی خزائن جلد ۱۱ صفحہ ۳۹۸، ۳۹۹)

۲۵ جولائی ۱۸۹۲ء

”۲۵ جولائی ۱۸۹۲ء مطابق ۲۰ ذی الحجہ ۱۳۱۱ھ روز دو شنبہ۔ آج میں نے بوقت

۱۔ (ترجمہ از مرتب) کہ مجھے مامور کیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے بیعت لاتا ہوں۔

۲۔ (ترجمہ از مرتب) وہ تجھ پر حوادث کے نزول کا انتظار کر رہے ہیں۔ بڑی گردش انہی پر پڑے گی۔

۳۔ (ترجمہ از مرتب) جو تیری ذات چاہے میں اُسے ذلیل کروں گا۔ اللہ تیرا اجر ہے۔ اللہ تجھے تیرا جمال عطا کرے گا۔

نوٹ از مرتب: امام ایٰی میہین من اذ اذ عانتک حضرت اقدس کو ۱۸۹۲ء میں بمقام ناہور شیخ محمد حسین شاہی کی نسبت بھی

ہوا تھا۔ (دیکھئے الکر جلد نمبر ۹ مورخہ ۲۰ نومبر ۱۸۹۵ء صفحہ ۱۷)

۴۔ (ترجمہ از مرتب) کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو۔ اسی طرح وہ بھی تم سے محبت کرے گا۔



مجھے کوئی نشان نہیں دکھلاتے اور معقول جواب نہیں دیتے۔ حالانکہ بحث کیلئے یہ صاف طریق اسکے سامنے پیش کیا گیا کہ وہ ویدکی پابندی سے اوسا کی شرتیوں کے حوالہ سے بحث کرے اور ہم قرآن شریف کی پابندی سے اوسا کی آیتوں کے حوالہ سے بحث کریں۔ پس چونکہ وہ محض جاہل تھا اور یہ بھی اس میں طاقت نہیں تھی کہ ہر ایک مقام میں وید کی شرتی پیش کر سکے۔ اسلئے وہ پہلا کی سے ہمارے اصل مطالبہ کو تحریر میں ہی نہیں لاتا تھا۔ ہاں ٹھٹھے اور ہنسی سے بار بار آسمانی نشان مانگتا تھا۔ غرض ہم اس جگہ اپنا آخری خط نقل کر دیتے ہیں جو اُس کے آخری دفعہ کے جواب میں لکھا گیا تھا اور وہ یہ ہے :-

جناب پنڈت صاحب۔ آپ کا خط میں نے پڑھا۔ آپ یقیناً سمجھیں کہ ہمیں نہ بحث سے انکار تھا نہ نشان دکھلانے سے۔ مگر آپ سیدھی نیت سے طلب حق نہیں کرتے۔ بیجا شرائط زیادہ کر دیتے ہیں۔ آپ کی زبان بد زبانی سے ڈرتی نہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ اگر بحث نہیں کرنا چاہتے تو رب العرش خیر الما کرین سے میری نسبت کوئی آسمانی نشان مانگیں۔ یہ کس قدر ہنسی ٹھٹھے کے کلے ہیں گویا آپ اس خدا پر ایمان نہیں لاتے جو بیبکوں کو تنبیہ کر سکتا ہے۔ باقی رہا یہ اشارہ کہ خدا عرش پر ہے اور مگر کرتا ہے یہ خود آپ کی نا سمجھی ہے مگر لطیف اور مخفی تدبیر کو کہتے ہیں۔ جس کا اطلاق خدا پر ناجائز نہیں اور عرش کا کلمہ خدا تعالیٰ کی عظمت کیلئے آتا ہے۔ کیونکہ وہ سب اُوںچوں سے زیادہ اُوںچا اور جلال رکھتا ہے یہ نہیں کہ وہ کسی انسان کی طرح کسی تخت کا محتاج ہے خود قرآن میں ہے کہ ہر ایک چیز کو اُس نے تھا ما ہوا اور وہ قیوم ہے جسکو کسی

کا موجب ہو جاتے ہیں۔ قانون قدرت صاف گواہی دیتا ہے کہ خدا کا یہ فعل بھی دنیا میں پایا جاتا ہے کہ وہ بعض اوقات بے حیا اور سخت دل بھرموں کی سزا انکے ہاتھ سے دلو اتا ہے سو وہ لوگ اپنی ذلت اور تباہی کے سامان اپنے ہاتھ سے جمع کر لیتے ہیں۔ اور انکی نظر سے وہ امواس وقت تک مخفی رکھے جاتے ہیں جب تک خدا تعالیٰ کی قضا و قدر نازل ہو جائے۔ پس اس مخفی کارروائی کے لحاظ سے خدا کا نام ماکر ہے دنیا میں ہزاروں نمونے اسکے پائے جاتے ہیں۔ سو لیکھرام کے معاملہ میں خدا کا مکر یہ ہے کہ اقل اُمی کے مُرنے سے کہلوایا کہ میں خیر الما کرین سے اپنی نسبت نشان مانگتا ہوں۔ سو اس درخواست میں اس نے ایسا عذاب مانگا جسکے اسباب مخفی ہوں اور ایسا ہی وقوع میں آیا۔ کیونکہ جس شخص کو شہہ کرنے کے لئے اُس کا دل مقرر کیا تھا اور اتوار کے دن آریوں کا ایک خوشی کا جلسہ ڈار پایا تھا جیسا کہ عید کا دن ہوتا ہے۔ تا اُس شخص کو شہہ کیا جائے۔ سو وہ ہی خوشی کے اسباب اُس کیلئے اوسا کی قوم کیلئے ماتم کے اسباب ہو گئے اور خیر الما کرین کے نام کو خدا تعالیٰ نے تمام آریوں کو خوب سمجھا دیا۔ منہ



صبح صادق ساڑھے چار بجے دن کے خواب میں دیکھا کہ ایک حویلی ہے اس میں میری بیوی والدہ محمد اور ایک عورت بیٹھی ہے۔ تب میں نے ایک خشک سفید رنگ میں پانی بھرا ہے اور اس خشک کو اٹھا کر لایا ہوں اور وہ پانی لا کر ایک اپنے گھڑے میں ڈال دیا ہے۔ میں پانی کو ڈال چکا تھا کہ وہ عورت جو بیٹھی ہوئی تھی ایک کسرخ اور خوش رنگ لباس پہنے ہوئے میسر پاس آگئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جوان عورت ہے۔ پیروں سے نرتک سُرخ لباس پہنے ہوئے شاید جالی کا کپڑا ہے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ وہی عورت ہے جس کے لئے اشتہار دئے تھے لیکن اس کی صورت میری بیوی کی صورت معلوم ہوئی۔ گویا اس نے کہا یا دل میں کہا کہ میں آگئی ہوں نہیں نے کہا یا اللہ آجاوے اور پھر وہ عورت مجھ سے بغلیگر ہوئی۔ اس کے بغلیگر ہوتے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ فَأَحْسَدُ بِنْتِ عَلِيٍّ ذَالِكَ۔

اس سے دو چار روز پہلے خواب میں دیکھا تھا کہ روشن بی بی میرے دالان کے دروازہ پر آکھڑی ہوئی ہے اور میں دالان کے اندر بیٹھا ہوں۔ تب میں نے کہا کہ آروشن بی بی اندر آجا۔  
(رجسٹر متفرق یادداشتیں صفحہ ۲۲۲ از حضرت مسیح موعود علیہ السلام)

**ماہ اگست ۱۸۹۲ء** "مجھے تین چار روز ہوئے ایک متوحش خواب آئی تھی جس کی یہ تعبیر تھی کہ ہمارے ایک دوست پر دشمن نے حملہ کیا ہے اور کچھ ضرر پہنچا ہے مگر معلوم ہوتا ہے کہ دشمن کا بھی کام تمام ہو گیا۔"  
(مکتوب بنام حضرت خلیفۃ المسیح الاول کمزور ۲۶ اگست ۱۸۹۲ء مکتوبات احمدیہ جلد پنجم نمبر ۱۱۲۶ صفحہ ۱۱۲۶)

۱۔ (نوٹ از مرتب) یہ متوحش خواب حضرت خلیفۃ المسیح الاول کے متعلق تھی اور اس میں ایک دوست سے مراد بھی آپ ہی ہیں۔ چنانچہ حضرت اقدس اسی مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:-  
"کل کی ڈاک میں آن حکم کا محبت نامہ پہنچ کر بوجہ بشریت اس کے پڑھنے سے ایک حیرت دل پر طاری ہوئی مگر ساتھ ہی دل پر گھل گیا یہ خداوند حکیم و کریم کی طرف سے ایک ابتلاء ہے۔ انشاء اللہ تقدیر کوئی خون کی جگہ نہیں.....  
مجھے معلوم نہیں کہ ایسا پر اشتغال حکم کس اشتغال کی وجہ سے دیا گیا۔ کیا بد قسمت وہ ریاست ہے جس سے ایسے مبارک قدم نیک نخت اور سچے خیر خواہ نکالے جائیں اور معلوم نہیں کہ کیا ہونے والا ہے؟"

(مکتوب مذکور۔ مکتوبات احمدیہ جلد پنجم نمبر ۲ صفحہ ۱۲۱ تا ۱۲۳)

حضرت مولانا یعقوب علی صاحب عرفانیؒ اس پر اشتغال حکم کے سبب پر روشن ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت حکیم الامت اور مولوی محمد علی چشتی مرحوم پر ایک سیاسی الزام آپ کے دشمنوں نے لگایا تھا۔ راجہ امر سنگھ صاحب کو حضرت حکیم الامت سے بہت محبت تھی اور وہ آپ کی عملی زندگی اور صدقات پسندی کا عاشق تھا اور وہ ایک بدتر اور صائب اراستے نوجوان تھا۔ وہ سیاسی

سلامت رکھے (۸) يَنْصُرَكَ رِجَالٌ نُّوْحِي اِلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ (۹) يَا تَوَنُّونَ مِنْ كُلِّ فَتْحٍ  
عَمِيْقٍ - يَا تَيْبِكَ مِنْ كُلِّ فِتْحٍ عَمِيْقٍ (۱۰) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ (۱۱) وَلَا تَصْعِرْ لَخَلْقِ اللّٰهِ  
وَلَا تَسْفِهَنَّ اللّٰسِ

(بدر جلد ۲ نمبر ۲۳ مورخہ ۱۳ جون ۱۹۰۶ء صفحہ ۲ - الحکم جلد ۱۰ نمبر ۲ مورخہ ۱۰ جون ۱۹۰۶ء صفحہ ۱)

۷ جون ۱۹۰۶ء "اِنِّي اَرِيْكَ مَا يَرْضِيْكَ"

(الاستفتاء صفحہ ۶، طبع حقیقہ لوجی - روحانی خزائن جلد ۲۲ صفحہ ۷۰۲)

۱۱ جون ۱۹۰۶ء

رؤیا - دیکھا کہ پندرہ سولہ نوجوان عورتیں خوبصورت اور نہایت خوش لباس پہنے  
ہوئے میسر سامنے آئی ہیں میں نے اس خیال سے کہ یہ جوان عورتیں ہیں مگر ان سے پھیر لیا اور ان سے پوچھا  
کہ تم کیسے آئی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے پاس ہی آئی ہیں۔ پھر انہوں نے وہیں ہمارے داران میں  
ڈیرے لگا دیئے۔

فرمایا۔ رؤیا میں عورت سے مراد اقبال اور فتحمدی اور تائید الہی ہوتی ہے۔ اس رؤیا میں یہ بھی معلوم ہوا کہ  
انہیں عورتوں میں وہ بھی ایک عورت تھی جو پہلے کبھی آئی تھی۔ فرمایا اس میں اشارہ ایک پرانے رؤیا کی طرف تھا  
جو حضرت والد صاحب کی وفات کے چند یوم بعد میں نے دیکھا کہ میں ایک پیرھی پر بیٹھا ہوں تو ایک عورت  
نوجوان عمدہ لباس پہنے ہوئے تیس تیس سال کی میسر سامنے آئی اور اس نے کہا کہ میرا ارادہ اب اس گھر  
سے چلے جانے کا تھا مگر تمہارے لئے رہ گئی ہوں۔

(بدر جلد ۲ نمبر ۲۳ مورخہ ۱۳ جون ۱۹۰۶ء صفحہ ۲ - الحکم جلد ۱۰ نمبر ۲ مورخہ ۱۰ جون ۱۹۰۶ء صفحہ ۱)

۱۔ (ترجمہ از مرتب) (۸) وہ لوگ تیری مدد کریں گے جن کو ہم آسمان سے وحی کریں گے (۹) وہ ہر ایک دُور کی راہ سے آئیں گے  
ہر ایک دُور کی راہ سے تیرے پاس تھافت آئیں گے (۱۰) تم پر سلام ہو خوشحال رہو (۱۱) اور جو لوگ تیرے پاس آئیں گے تجھے  
پہنچائیں گے ان سے بدخلقی نہ کرے اور ان کی کثرت کو دیکھ کر تک نہ جائے۔  
۲۔ (ترجمہ از مرتب) میں تجھے وہ دکھاؤں گا جو تجھے راضی کر دے گا۔

۳۔ دیکھئے رؤیا (۱۸) تذکرہ صفحہ ۵۰۔ ازالہ اوہام صفحہ ۳۲۲۔ طبع اول۔ روحانی خزائن جلد ۳ صفحہ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ الحکم جلد ۹  
نمبر ۲۲ مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۶ء صفحہ ۱۲۔

سلامت رکھے (۸) يَنْصُرَكَ رَبَّالَّذِي تُوِجَّحُ الْيَهْلَمُ مِنَ السَّمَاءِ (۹) يَا تُونَّ مِنْ كُلِّ فَنَجِّهِ  
عَمِيْقِي يَا تَيْبِكَ مِنْ كُلِّ فَنَجِّهِ عَمِيْقِي (۱۰) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ (۱۱) وَلَا تُصَعِّرْ لِخَلْقِ اللّٰهِ  
وَلَا تُنَمِّمَنَّ مِنَ النَّاسِ“

(بدر جلد ۲ نمبر ۲۳ مورخہ ۱۳ جون ۱۹۰۶ء صفحہ ۲۔ الحکم جلد ۱۰ نمبر ۲ مورخہ ۱۰ جون ۱۹۰۶ء صفحہ ۱)

۷ جون ۱۹۰۶ء ”اِنِّي اُرِيكَ مَا يَرْضِيكَ“

(الاستفاد صفحہ ۶، طحہ حقیقہ لوجی۔ روحانی خزائن جلد ۲۷ صفحہ ۷۰۲)

۱۱ جون ۱۹۰۶ء

رویا۔ ”دیکھا کہ پندرہ سولہ نوجوان عورتیں خوبصورت اور نہایت خوش لباس پہنے  
ہوئے میسر سامنے آئی ہیں۔ میں نے اس خیال سے کہ یہ جوان عورتیں ہیں منہ اُن سے پھیر لیا اور اُن سے پوچھا  
کہ تم کیسے آئی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے پاس ہی آئی ہیں۔ پھر انہوں نے وہیں ہمارے داران میں  
ڈیرے لگا دیئے۔“

فرمایا۔ روایا میں عورت سے مراد اقبال اور فتمندی اور تائید الہی ہوتی ہے۔ اس روایا میں یہ بھی معلوم ہوا کہ  
انہیں عورتوں میں وہ بھی ایک عورت تھی جو پہلے کبھی آئی تھی۔ فرمایا اس میں اشارہ ایک پڑنے سے روایا کی طرف تھا  
جو حضرت والد صاحب کی وفات کے چند یوم بعد میں نے دیکھا کہ میں ایک پیرھی پر بیٹھا ہوں، تو ایک عورت  
نوجوان عمدہ لباس پہنے ہوئے تیس تیس سال کی میسر سامنے آئی اور اس نے کہا کہ میرا ارادہ اب اس گھر  
سے چلے جانے کا تھا مگر تمہارے لئے رہ گئی ہوں۔“

(بدر جلد ۲ نمبر ۲۳ مورخہ ۱۳ جون ۱۹۰۶ء صفحہ ۲۔ الحکم جلد ۱۰ نمبر ۲ مورخہ ۱۰ جون ۱۹۰۶ء صفحہ ۱)

۱۔ (ترجمہ از مرتب) (۸) وہ لوگ تیری مدد کریں گے جن کو ہم آسمان سے وحی کریں گے (۹) وہ ہر ایک دور کی راہ سے آئیں گے  
ہر ایک دور کی راہ سے تیرے پاس تھائیں آئیں گے (۱۰) تم پر سلام ہو، خوشحال رہو (۱۱) اور جو لوگ تیرے پاس آئیں گے، تجھے  
چاہیے کہ اُن سے بدخلقی نہ کرے اور ان کی کثرت کو دیکھ کر تک نہ جائے۔

۲۔ (ترجمہ از مرتب) میں تجھے وہ دکھاؤں گا جو تجھے ماضی کر دے گا۔

۳۔ دیکھے روایا ۱۸۷۱ء میں ۲۰ صفحہ ۱۰۰۔ انا لہا و ہام صفحہ ۲۱۳۲۱۳ طبع اول۔ روحانی خزائن جلد ۳ صفحہ ۲۰۵، ۲۰۶۔ الحکم جلد ۸  
نمبر ۲۳ مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۴ء صفحہ ۱۲۔

(۲۳۶)

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مرزا سلطان احمد صاحب کے کہ دادا صاحب نے طب کا علم حافظ روح احمد صاحب باغبانچودہ لاہور سے سیکھا تھا اس کے بعد وہی جا کر تکمیل کی تھی ۔

(۲۳۷)

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا نجمہ سے مولوی رحیم بخش صاحب ایم۔ ٹی نے کہا کہ مرزا سلطان احمد صاحب نے بیان کیا کہ دادا صاحب کی ایک لائبریری تھی جو بڑے بڑے چاروں میں رہتی تھی۔ اور اس میں بعض کتابیں ہمارے خاندان کی تاریخ کے متعلق بھی تھیں۔ میری حالت تھی کہ میں دادا صاحب اور والد صاحب کی کتابوں میں غور چوری نکال کر لے جایا کرتا تھا۔ چنانچہ والد صاحب اور دادا صاحب بعض وقت کہا کرتے تھے۔ کہ ہماری کتابوں کو یہ ایک چوڑا لگ گیا ہے ۔

(۲۳۸)

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاک در عرض کرتا ہے۔ کہ مرزا سلطان احمد صاحب سے مجھے حضرت سیح موعود کی ایک شعروں کی کاپی ملی ہے جو نہایت پرانی معلوم ہوتی ہے۔ غالباً نوجوانی کا کلام ہے۔ حضرت صاحب اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ بعض شعریں بلورنہ و درج ذیل ہیں ۔

عشق کا روگ ہو کیا پوچھتے ہو سکیا روا  
ایسے بھرا کا مرزا ہی دوا ہوتا ہے  
کو مرزا پاپا میری دل! ابھی کچھ پاؤ گے  
تم بھی کہتے ہو کہ الفت میں مرزا ہوتا ہے

ہاں گویں ہجر کے الم میں پرشے  
مفت بیٹھے۔ شام کو غم میں پرشے  
اسکے جانے صبر دل سے گیا  
ہوش بھی دوطہ عدم میں پرشے

سبب کوئی غذا و غذا بنا سے  
کسی صحت سے وہ شور و کلام ہے  
کرم فرما کے آ او میرے جانی  
بہت دہنے ہیں اب تم کو منساو کے  
کبھی نکلے گا آخر تنگ ہو کر  
وہ اک بار شور و غل چاڑھے

کریں گے تو خدا ان پر بلا نازل کرے گا یہاں تک کہ وہ نابود ہو جائیں گے انکے گھر بواؤں سے بھر جائیں گے اور ان کی دیواروں پر غضب نازل ہو گا لیکن اگر وہ رجوع کریں گے تو خدا رحم کے ساتھ رجوع کرے گا۔ خدا تیری برکتیں بارگاہ پھیلائے گا اور ایک اجڑا ہوا گھر تجھ سے آباد کرے گا اور ایک ڈراتا گھر برکتوں سے بھر دے گا۔ تیری ذریت منقطع نہیں ہوگی اور آخری دنوں تک سرسبز رہے گی۔ خدا تیرے نام کو اس روز تک جو دنیا منقطع ہو جائے عزت کے ساتھ قائم رکھے گا اور تیری دولت کو دنیا کے کناروں تک پہنچا دے گا یہیں تجھے اٹھاؤں گا اور اپنی طرف بلا لوں گا پر تیرا نام منقطع زمین سے کبھی نہیں اٹھے گا اور ایسا ہوگا کہ سب وہ لوگ جو تیری ذریت کی لشکر میں لگے ہوئے ہیں اور تیرے ناکام رہنے کے درپے اور تیرے نابود کرنے کے خیال میں ہیں وہ خود ناکام رہیں گے اور ناکامی اور نامرادی میں مریں گے لیکن خدا تجھے بکلی کامیاب کرے گا اور تیری ساری مرادیں تجھے دے گا۔ یہیں تیرے خاص اور دلی محبتوں کا گروہ بھی بڑھاؤں گا اور ان کے نفوس و اموال میں برکت دوں گا اور ان میں کثرت بخشوں گا اور وہ مسلمانوں کے اس دوسرے گروہ پر تابروز قیامت غالب رہیں گے جو مسلمانوں اور مخالفوں کا گروہ ہے۔ خدا انہیں نہیں بھولے گا اور فراموش نہیں کرے گا اور وہ علی حسب الاصلاح اپنا اپنا اجر پائیں گے۔ تو مجھے ایسا ہے جیسے انبیاء و بنی اسرائیل یعنی ظلی طور پر ان سے مشابہت رکھتا ہے، تو مجھ سے ایسا ہے جیسی میری توحید۔ تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں۔ اور وہ وقت آتا ہے بلکہ قریب ہے کہ خدا بادشاہوں اور امیروں کے دنوں میں تیری محبت ڈالے گا یہاں تک کہ وہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ اسے منکر اور حق کے مخالفو! اگر تم میرے بندہ کی نسبت شک میں ہو۔ اگر تمہیں اس فضل و احسان سے کچھ انکار ہے جو ہم نے اپنے بندہ پر کیا تو اس نشانِ رحمت کی مانند تم بھی اپنی نسبت کوئی نشانِ پیش کرنا اور اگر تم سچے ہو اور اگر تم پیش نہ کر سکو اور یاد رکھو کہ ہرگز پیش نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو کہ جو ناقرانوں اور جھوٹوں اور حد سے بڑھنے والوں کیلئے تیار ہے۔ فقط۔

(از اشتہار ۲۰ فروری ۱۸۸۹ء تبلیغ رسالت جلد اول صفحہ ۶۲، ۶۰، ۶۱ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ ۱۰۳، ۱۰۴)

۱۸۸۹ء "شاید چار ماہ کا عرصہ ہوا کہ بس عاجز پر ظاہر کیا گیا تھا کہ ایک فرزند توی الطافین کامل الکاہل ہوا ہے تم کو عطا کیا جائے گا سو اس کا نام بشیر ہوگا۔ اب تک میرا قیاسی طور پر خیال تھا کہ شاید وہ فرزند مبارک اسی اہلیہ

تذکرہ مجموعہ وحی والہامات طبع چہارم صفحہ 112، 113 از مرزا قادیانی یہ حوالہ صفحہ 297 پر درج ہے

سے ہو گا۔ اب زیادہ تر علماء اس بات میں ہوسہے ہیں کہ عنقریب ایک اور نکاح تمہیں کرنا پڑے گا اور جناب الہی میں یہ بات تسرار پا چکی ہے کہ ایک پارسلطیع اور نیک سیرت اہلیہ تمہیں عطا ہوگی۔ وہ صاحب اولاد ہوگی۔ اس میں تعجب کی بات یہ ہے کہ جب امام ہو تو ایک کشتی عالم میں چار پھل مجھ کو دئے گئے تین ان میں سے تو ام کے تھے مگر ایک پھل بزرگ بہت بڑا تھا۔ وہ اس جہان کے پھلوں سے مشابہ نہیں تھا۔ اگرچہ ابھی یہ الہامی بات نہیں مگر میرے دل میں یہ پڑا ہے کہ وہ پھل جو اس جہان کے پھلوں میں سے نہیں ہے وہی مبارک لڑکا ہے یونکہ کچھ شک نہیں کہ پھلوں سے مراد اولاد ہے۔ اور جبکہ ایک پارسلطیع اہلیہ کی بشارت دی گئی اور ساتھ ہی کشتی طور پر چار پھل دئے گئے جن میں سے ایک پھل الگ وضع کا ہے تو یہی سمجھا جاتا ہے۔ **وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصّٰوَابِ**

(از مکتوب مورخہ ۸ جون ۱۸۸۶ء بنام حضرت خلیفۃ المسیح اولیٰ مکتوبات احمدیہ جلد پنجم نمبر ۲ صفحہ ۶۵)

۱۸۸۶ء

ان دنوں میں اتفاقاً نئی شادی کے لئے دو شخصوں نے تحریک کی تھی مگر جب ان کی نسبت استفادہ کیا گیا تو ایک عورت کی نسبت جواب ملا کہ اس کی قسمت میں ذلت و محتاجی و بے عزتی ہے اور اس لائق نہیں کہ تمہاری اہلیہ ہو اور دوسری کی نسبت اشارہ ہوا کہ اس کی شکل اچھی نہیں۔ گویا یہ اس بات کی حریف اشارہ تھا کہ صاحب صورت و صاحب سیرت لڑکا جس کی بشارت دی گئی ہے وہ برعایت مناسبت ظاہری اہلیہ جمیلہ و پارسلطیع سے پیدا ہو سکتا ہے۔ **وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصّٰوَابِ**

(از مکتوب مورخہ ۸ جون ۱۸۸۶ء بنام حضرت خلیفۃ المسیح اولیٰ مکتوبات احمدیہ جلد پنجم نمبر ۲ صفحہ ۶۵)

مارچ ۱۸۸۶ء

”اس عاجز کے اشتہار مورخہ ۲۰ فروری ۱۸۸۶ء..... میں ایک پیشگوئی دوبارہ تو لہ ایک فرزند صالح ہے جو بصفات مندرجہ اشتہار پیدا ہوگا..... ایسا لڑکا بموجب وعدہ الہی تو بریں کے وعدہ تک ضرور

لہ (ا) ”جن صفات خاصہ کے ساتھ لڑکے کی شدت دی گئی ہے کسی عیال سے گزیری سے بھی روچند ہوتی اس کی عظمت اور شان میں کچھ فرق نہیں آسکتا بلکہ مزاج دلی انصاف ہر یک انسان کا شانہ دیتا ہے کہ ایسے عالی درجہ کی خبر جو ایسے نامی اور حق آدمی کے توفیق پر مشتمل ہے انسانی طاقتوں سے بالاتر ہے اور وہاکی قبولیت ہو کر ایسی خبر کا طلبے شک یہ بڑا بھاری آسمانی نشانی ہے نہ کہ صرف پیشگوئی ہے“ (اشتہار ۸۔ اپریل ۱۸۸۶ء تبلیغ رسالت جلد اول صفحہ ۷۹۔ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ ۱۱۶ و ۱۱۷)

(ب) ”..... خدا تعالیٰ کے وعدہ کے موافق اپنی عیال کے اندر ضرور پیدا ہوگا۔ زمین آسمان مل سکتے ہیں پر اس کے وعدوں کا ٹٹنا ممکن نہیں“ (سب اشتہار مورخہ یکم دسمبر ۱۸۸۶ء، حاشیہ تبلیغ رسالت جلد اول صفحہ ۱۲۔ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ ۱۷۰)

(ج) ”میں جانتا ہوں اور تم یقین سے جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اپنے وعدہ کے موافق مجھ سے معاملہ کرے گا اور اگر ابھی اس موعود لڑکے کے پیدا ہونے کا وقت نہیں آیا تو دوسرے وقت میں وہ طور پذیر ہوگا اور اگر قدرت مقررہ سے ایک دن بھی باقی



آسمانی کے طالب تھے۔ اور طریقہ اسلام سے انحراف اور عناد رکھتے تھے اور اب بھی رکھتے ہیں۔ چنانچہ ان کے ہاں  
 میں جو چشمہ نور امیرتسری میں ان کی طرف سے اشتہار چھپا تھا۔ یہ درخواست ان کی اس اشتہار میں بھی  
 مندرج ہے ان کو نہ محض مجھ سے بلکہ خدا اور رسول سے بھی دشمنی ہے۔ اور والد اُس دختر کا بیعت  
 شدت تعلق قرابت ان لوگوں کی رضا جوئی میں مو اور اُن کے نقش قدم پر دل و جان سے خدا  
 اور اپنے اختیارات سے قاصر و عاجز بلکہ انہیں کافر مانبردار ہو رہا ہے۔ اور اپنی لڑکیاں  
 انہیں کی لڑکیاں خیال کرتا ہے اور وہ بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں اور ہر باب میں اُس کے مدار الہام  
 اور بطور نفس باطلہ کے اُس کیلئے ہو رہے ہیں تبھی تو نقارہ بجا کر اُسکی لڑکی کے بارہ میں آپ ہی  
 شہرت لے دی یہاں تک کہ عیسائیوں کے اخباروں کو اس قصہ سے بھر دیا۔ آفریں بریں عقل  
 دانش۔ ماموں ہونے کا خوب ہی حق ادا کیا۔ ماموں ہوں تو ایسے ہی ہوں۔ غرض یہ لوگ جو  
 مجھ کو میرے دعویٰ الہام میں مکار اور دروغ گو خیال کرتے تھے۔ اور اسلام اور قرآن شریف  
 پر طرح طرح کے اعتراض کرتے تھے اور مجھ سے کوئی نشان آسمانی مانگتے تھے۔ تو اس وجہ سے  
 کئی دفعہ ان کے لئے دعا بھی کی گئی تھی۔ سو وہ دعا قبول ہو کر خدا تعالیٰ نے یہ تقریب  
 قائم کی کہ والد اُس دختر کا ایک اپنے ضروری کام کے لئے ہماری طرف مکتبی ہوا۔ تفصیل اسکی  
 یہ ہے کہ نامبروہ کی ایک ہمشیرہ ہمارے ایک چچا زاد بھائی غلام حسین نام کو بسا ہی گئی تھی۔  
 غلام حسین عرصہ پچیس سال سے کہیں چلا گیا ہے اور مفقود الخیر ہے۔ اس کی زمین ملکیت جس کا  
 ہمیں حق پہنچتا ہے۔ نامبروہ کی ہمشیرہ کے نام کا غلات سرکاری میں درج کرادی گئی تھی۔  
 اب حال کے بندوبست میں جو ضلع گورداسپورہ میں جاری ہے نامبروہ یعنی ہمارے خطہ کے  
 مکتوب الیہ نے اپنی ہمشیرہ کی اجازت سے یہ چاہا کہ وہ زمین جو چارہزار انا پچہزار روپیہ کی قیمت  
 کی ہے اپنے بیٹے محمد بیگ کے نام بطور ہبہ منتقل کرادیں چنانچہ ان کی ہمشیرہ کی طرف



ان ربك فقال لما يريد. انت معي وانا معك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا۔  
یعنی انہوں نے ہمارے نشانوں کو جھٹلایا اور وہ پہلے سے منسی کر رہے تھے سو خدا تعالیٰ ان  
سب کے تدارک کے لئے جو اس کام کو روک رہے ہیں تمہارا مددگار ہوگا اور انجا مکارا سکی اس لڑائی کو  
تمہاری طرف واپس لائیگا۔ کوئی نہیں جو خدا کی باتوں کو ٹال سکے۔ تیرا رب وہ قادر ہے کہ جو کچھ  
چاہے وہی ہو جاتا ہے۔ تو میرے ساتھ اور میں تیرے ساتھ ہوں اور عنقریب وہ مقام تجھے عطا  
کے گا جس میں تیری تعریف کی جائیگی یعنی گو اول میں اسحق اور نادان لوگ بد باطنی اور بد ظنی کی راہ سے  
بدگونی کرتے ہیں اور نالائق باتیں منہ پر لاتے ہیں لیکن آخر خدا تعالیٰ کی مدد کو دیکھ کر شرمندہ ہونگے  
اور سچائی کے کھلنے سے چاروں طرف سے تعریف ہوگی۔

راجگہ ایک اور اعتراض نور افشاں کا رفع دفع کرنے کے لائق ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ الہام خدا تعالیٰ  
کی طرف سے تھا اور اُس پر اعتماد کئی تھا تو پھر پوشیدہ کیوں رکھا اور کیوں اپنے خط میں پوشیدہ رکھنے کیلئے  
تاکید کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک خانگی معاملہ تھا اور جی کیلئے یہ نشان تھا انکو تو پہنچا دیا گیا تھا اور  
یقین تھا کہ والد اُس دشمن کا ایسی شاعری کے رنجیدہ ہوگا۔ اسلئے ہم نے دل شکنی اور رنج دہی سے گریز کی۔  
بلکہ یہ بھی نہ چاہا کہ درحالت رد و انکار وہ بھی اس امر کو شائع کریں اور گو ہم شائع کرنے کیلئے  
مامور تھے مگر ہم نے مصلحتاً دوسرے وقت کی انتظار کی۔ یہاں تک کہ اس لڑائی کے ماموں مرزا  
نظام الدین نے جو مرزا ابام الدین کا حقیقی بھائی ہے شدتِ غیظ و غضب میں آکر اس مضمون کو آپ ہی

✽ یہ الہام جو شرطی طور پر مکتوب الیہ کی موت پر دلالت کرتا تھا ہم کو بالطبع اسکی شاعری سے کراہت تھی بلکہ  
ہمارا دل یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس مکتوب الیہ کو مطلع کریں مگر اُس کے کمال اصرار سے جو اُس نے زبانی اور کئی  
انکس دی خطوں کے بھیجنے سے ظاہر کیا۔ ہم نے سرسری سچے غیر خواہی اور نیک نیتی سے اُس پر یہ امر سرسری ظاہر کر دیا  
پھر اُس نے اُداسکے عزیز مرزا نظام الدین نے اس الہام کے مضمون کی آپ شہرت دی۔ منہ

مشق کی ہی حالت ہو گئی تھی۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت سید سعید علیہ السلام کی حقیقی ہمیشہ مولد بی بی مرزا محمد بیگ ہرشیار پوری کے ساتھ بیاہی گئی تھیں۔ مگر مرزا محمد بیگ جلد فوت ہو گئے اور ہماری پھوپھی کو باقی ایام زندگی بیوگی کی حالت میں گنا سنے پڑے۔ ہماری پھوپھی صاحبہ روایا کشف تھیں۔ مرزا محمد بیگ مذکور کے چھوٹے بھائی مرزا احمد بیگ ہرشیار پوری کے ساتھ حضرت سید سعید علیہ السلام کے چھپے بھائی یعنی مرزا نظام الدین دہلوی کی حقیقی بہن عمر النساء، بیاہی گئی تھیں ان کے بطن سے محمدی بیگم پیدا ہوئی۔ مرزا نظام الدین و مرزا امام الدین وغیرہ پہلے درجہ کے بیہن اور ذہریہ طبع لوگ تھے۔ اور مرزا احمد بیگ مذکور ان کے سخت زیر اثر تھا اور انہیں کے رنگ میں رنگین رہتا۔ یہ لوگ ایک عرصہ سے حضرت سید سعید سے نشان آسمانی کے طالب بستہ تھے۔ کیونکہ اسلامی طریق سے انحراف اور عناد رکھتے تھے اور والد محمدی بیگم یعنی مرزا احمد بیگ ان کے ایشاہ پر چلتا تھا۔ اب واقعہ یوں ہوا کہ حضرت سید سعید کا ایک اور بی بی زاد معانی مرزا فاطمہ حسین تھا۔ جو عرصہ سے معقولہ الخیر ہو چکا تھا۔ اور اسکی جائداد ان کی بیوی امام بی بی کے نام پر رکھی تھی۔ امام بی بی مرزا احمد بیگ مذکور کی بہن تھی۔ اب مرزا احمد بیگ کو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ مسات امام بی بی اپنی جائداد اسکے لڑکے مرزا محمد بیگ برادر کلاں محمدی بیگم کے نام پر کرے۔ لیکن قانوناً امام بی بی اس جائداد کا بہہ بنام محمد بیگ مذکور بلا رضا مندی حضرت سید سعید نہ کر سکتی تھی۔ اسلئے مرزا احمد بیگ تمام عجز و انکساری حضرت سید سعید کی طرف تھی ہوا کہ آپ سے نارہ پر دستخط کر دیں۔ چنانچہ حضرت صاحب قریباً تیار ہو گئے۔ لیکن پھر اس خیال سے رُک گئے۔ کہ دریں بارہ مسنون استخارہ کر لینا ضروری ہے۔ چنانچہ آپ نے غلطی ہو بیگ کو یہی جواب دیا کہ میں استخارہ کرنے کے بعد دستخط کرنے ہو گئے۔ تو کر دو گھا۔ چنانچہ اسکے بعد مرزا احمد بیگ کے متواتر احوال سے استخارہ کیا گیا۔ وہ استخارہ کیا بتا گیا۔ اسانی نشان کے دکھانے کا وقت آن پہنچا تھا۔ جس کو خدا تعالیٰ نے اس پر ایسا برکت

ظاہر کر دیا۔ چنانچہ استخارہ کے جواب میں خداوند تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود سے یہ فرمایا کہ یہ اس شخص کی دختر نکاح کے لئے سلسلہ جنجابی کر اور ان کو کہہ سے کہ تمام سلوک اور مروت تم سے اسی شرط سے کیا جائیگا۔ اور یہ نکاح تمہارے لئے موجب برکت اور ایک رحمت کا نشان ہوگا۔ اور ان تمام برکتوں اور رحمتوں سے حصہ مانگے جو اکتوبر ۲۰ فروری ۱۸۸۶ء میں درج ہیں۔ لیکن اگر نکاح سے انحراف کیا تو اس لڑکی کا انجام نہایت ہی بُرا ہوگا۔ اور جس کسی دوسرے شخص سے بیاہی جائیگی وہ روز نکاح سے الٹائی سال تک اور ایسا ہی والد اس دختر کا تین سال تک فوت ہو جائیگا۔ اور ان کے گھر بد تقریر اور تنگی اور مصیبت پڑے گی۔ اور یہ بیانی زمانہ میں بھی اس دختر کے لئے کئی کراہت اور غم کے امر پیش آئیں گے۔ اس دختر نے بی بی کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نوٹ دیا کہ تین سال تک فوت ہو گا روز نکاح کے حساب سے ہے۔ مگر یہ ضروری نہیں کہ کوئی واقعہ اور حادثہ اس سے پہلے نہ آوے۔ بلکہ کاشفا کے رو سے مکتوب الیہ ولعینی مرزا احمد بیگ کا زمانہ حواش جن کا انجام معلوم نہیں نزدیک پایا جاتا ہے۔ واقتدا علم جب استخارہ کے جواب میں یہ وحی ہوئی تو حضرت مسیح موعود نے اسے شایع نہیں فرمایا۔ بلکہ صرف ایک پرائیویٹ خط کے ذریعہ سے والد محمد می سکیم کو اس سے اطلاع دیدی۔ کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ وہ اسکی اشاعت سے رنجیدہ ہوگا لہذا آپ نے اشاعت کے لئے مصلحتاً دوسرے وقت کی انتظار کی۔ لیکن جلد ہی خود لڑکی کے ماموں مرزا نظام الدین نے شدت غضب میں آکر اس معصوم کو آپ ہی شایع کر دیا اور علاوہ زبانی اشاعت کے اخباروں میں بھی اس خط کی خوب اشاعت کی۔ تب پھر حضرت مسیح موعود کو بھی اظہار کا عمدہ موقع مل گیا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار و عین خیر ہے کہ ہرمانے آبا میں سے وہ بزرگ جو ابتداؤ ہندوستان میں آکر آباد ہوئے ان کا نام مرزا ادوی بیگ تھا کہ ہندوستان میں آکر آباد ہوئے زیادہ سے زیادہ کے قریب کا معلوم ہوتا ہے یعنی ایسا پتہ چلتا ہے کہ یا تو وہ بابر بادشاہ کے ساتھ تھے یا کچھ عرصہ بعد۔ مرزا ادوی بیگ حاجی برلاس کی اولاد میں

بی ذریت و نسل ہوگا۔ خوبصورت پاک لڑکا تمہارا آسمان آتا ہے۔ اس کا نام عنوا تیل اور بشیر بھی ہے۔ اس کو مقدس رُوح دی گئی ہے اور وہ رحیم سے پاک ہے اور وہ نور اللہ ہے۔ مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے۔ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کیساتھ آئیگا وہ صاحب شکوہ اور ثلث اور دولت ہوگا۔ وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور رُوح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمۃ اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا عظیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا اور وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا، (اس کے مسیٰ سمجھ میں نہیں آئے) دو شنبہ ہے مبارک دو شنبہ۔ فرزند و بلند گرامی ارجمند منظر الاول و الآخر۔ منظر الحق و العطار کائنات اللہ نزل من السما۔ جس کا نزل بہت مبارک اور جلال الہی کے طور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے مسح کیا۔ ہم اس میں اپنی رُوح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ وہ جلد جلد بڑھے گا۔ اور اسیروں کی رشتگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کنوئیں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔

وَكَانَ امْرًا مَّقْضِيًّا

پھر خدا کے کریم جانشین نے مجھے بشارت دے کر کہا کہ تیرا گھر برکت سے بھرے گا۔ اور میں اپنی نعمتیں تجھ پر پوری کر دوں گا اور خواتین مبارک سے جن میں سے تو بعض کو اس کے بعد پائے گا۔ تیری نسل بہت ہوگی اور تیری ذریت کو بہت بڑھاؤں گا اور برکت دوں گا۔ مگر بعض ان میں سے کم عمری میں فوت بھی ہوں گے اور تیری نسل کثرت سے ملکوں میں پھیل جائے گی اور ہر ایک شاخ تیرے جدی بھائیوں کی کاٹی جائیگی اور وہ جلد لاپرواہ رہ کر ختم ہو جائے گی۔ اگر وہ توبہ نہ کریں گے تو خدا ان پر بڑا بڑا نازل کرے گا۔ یہاں تک کہ وہ نابود ہو جائیں گے۔ ان کے گھر بیواؤں سے بھر جائیں گے اور ان کی دیواروں پر غضب نازل ہوگا، لیکن اگر وہ رجوع کریں گے تو خدا رحم کے ساتھ رجوع کرے گا۔ خدا تیری برکتیں اور گرد پھیلتے گا اور ایک اُجڑا ہوا گھر تجھ سے آباد کرے گا۔ ایک ڈراڈنا گھر برکتوں سے بھر دے گا۔ تیری ذریت منقطع نہیں ہوگی اور آخری دنوں تک

یہ ایک پیشگوئی کی طرف اشارہ ہے جو دہم جولائی ۱۹۵۰ء کے اشتہار میں شایع ہوئی۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس عاجز کے مخالفت اور شکر رشتہ داروں کے حق میں نشن کے طور پر یہ پیشگوئی ظاہر کی ہے کہ ان میں سے جو ایک شخص امر بیگ نام ہے۔ اگر وہ اپنی بڑی لڑکی اس عاجز کو نہیں دے گا تو تین برس کے عرصہ تک بلکہ اس سے قریب فوت ہو جائے گا اور وہ جو نکاح کرے گا وہ روز نکاح سے اڑھائی برس کے عرصہ میں فوت ہوگا۔ اور آخر وہ عورت اس عاجز کی بیویوں میں داخل ہوگی۔ سو اس جگہ اُجڑے ہوئے گھر سے وہ اُجڑا ہوا گھر مراد ہے۔ ۱۲

زندہ رہنے کا ہی حال معلوم نہیں۔ اور نہ یہ معلوم کہ اس عرصہ تک کسی قسم کی اولاد خواہ خواہ پیدا ہوگی، چہ جائیکہ لڑکا پیدا ہونے پر کسی شکل سے قطع اور یقین کیا جائے۔ اخیراً ہم یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ اخبار مذکورہ بالا میں منشی محمد رمضان صاحب نے تہذیب سے گفتگو نہیں کی بلکہ دینی مخالفوں کی طرح جا بجا مشورہ افزا پر دازوں سے اس عاجز کو نسبت دی ہے۔ اور ایک جگہ پر جہاں اس عاجز نے ۲۰ فروری ۱۸۹۶ء کے اشتہار میں یہ پیشگوئی خدائے تعالیٰ کی طرف سے بیان کی تھی کہ اس نے مجھے بشارت دی ہے کہ بعض بابرکت عورتیں اس اشتہار کے بعد بھی تیرے نکاح میں آئیں گی اور ان سے اولاد پیدا ہوگی۔ اس پیشگوئی پر منشی صاحب فرماتے ہیں کہ الامام کی قسم کا ہوتا ہے۔ نیکوں کو نیک باتوں کا اور زانیوں کو عورتوں کا۔ ہم اس جگہ کچھ کہنا نہیں چاہتے۔ ناظرین منشی صاحب کی تہذیب کا آپ اندازہ کریں۔ پھر ایک اور صاحب ہدم و خیر بکس صاحب ریلوے لاہور کے جو اپنا نام نبی بخش ظاہر کرتے ہیں۔ اپنے خط ۱۳ جون ۱۸۹۶ء میں اس عاجز کو کہتے ہیں کہ تمہاری پیشگوئی جھوٹی نکلی اور دُختر پیدا ہوئی اور تم حقیقت میں بڑے فریبی اور متکار اور ددوخ گو آدمی ہو۔ ہم اس کے جواب میں بجز اس کے کیا کہہ سکتے ہیں کہ اسے خدائے قادر مطلق۔ یہ لوگ اندھے ہیں ان کو آنکھیں بخش دینا ان میں ان کو سمجھنا۔ یہ شرارتوں سے بھرے ہوئے ہیں ان کو نیکی کی توفیق دے۔ جلا کوئی اس بزرگ سے پوچھے کہ وہ فقرہ یا فقہ کہاں ہے جو کسی اشتہار میں اس عاجز کے قلم سے نکلا ہے جس کا یہ مطلب ہے کہ لڑکا اسی عمل میں پیدا ہوگا۔ اس سے ہرگز تخلف نہیں کیے گا۔ اگر میں نے کسی جگہ ایسا لکھا ہے تو یہاں نبی بخش صاحب پر واجب ہے کہ اس کو کسی اخبار میں چھپا دیں۔ اس عاجز کے اشتہارات پر اگر کوئی نصیحت آنکھ کھول کر نظر ڈالے تو اسے معلوم ہوگا کہ ان میں کوئی بھی ایسی پیشگوئی درج نہیں جس میں ایک ذرہ غلطی کی بھی گرفت ہو سکے بلکہ وہ سب سچی ہیں اور عنقریب اپنے اپنے وقت پر ظہور پکڑ کر مخالفین کی ذلت اور رسوائی کا موجب ہوں گی۔ دیکھو ہم نے ۲۰ فروری ۱۸۹۶ء میں جو یہ پیشگوئی اجمالی طور پر کی تھی کہ ایک امیر نزار و پنجابی الامل کو کچھ ابتلا پیش ہے کسی وہ سچی نکلی۔ ہم نے صد ہا ہندوں اور مسلمانوں کو مختلف شہروں میں بتلا دیا تھا کہ اس شخص پنجابی الامل سے مراد ولیپ سنگھ ہے جس کی پنجاب میں آنے کی خبر مشہور ہو رہی ہے، لیکن اس لڑاؤ سکونت پنجاب میں وہ ناکام رہے گا۔ بلکہ اس سفر میں اس کی عزت و آسائش یا جان کا خطرہ ہے اور یہ پیشگوئی ایسے وقت میں کہی گئی اور ماہِ طہ پر بتلائی گئی تھی۔ یعنی ۲۰ فروری ۱۸۹۶ء کو جبکہ اس ابتلا کا کوئی اثر نشان ظاہر نہ تھا۔ بالآخر اس کو مطابق اسی پیشگوئی کے جنت حرج اور تکلیف اور کجی اور نجات اٹھانی پڑی اور اپنے مدعا سے محروم رہا۔ سو دیکھو اس پیشگوئی کی صداقت کسی کھل گئی۔ اسی طرح سے اپنے اپنے وقت پر سب پیشگوئیوں کی سچائی ظاہر ہوگی اور دشمن روسیہ نہ ایک دفعہ بلکہ کئی دفعہ رسوا ہوں گے۔ یہ خدائے تعالیٰ کا نفل ہے جو ابھی تک انہیں اذہا کر رکھا ہے۔ ان کے دلوں کو سخت کر دیا اور ہمارے دل میں درد اور خیر خواہی کا

یہ صاحب بعد میں احریت میں داخل ہو گئے اور بہت مجلس ثابت ہوئے (المرتب)

۵۷۲

ومودة الاقارب وحقوق الوصلة وتجدني ناصر نوائبك وحامل انقائك  
فلا تضيق وقتك في الالباء ولا تستنكر حبك ولا تكونن من المصترين۔

وما انا كتبت مكتوبى هذا من امر ربي لا اعلن امرى فاحفظ مكتوبى هذا

في صدوقك فانه من صدوق امين والله يعلم انى فيه صادق و

كل ما وعدت فهو من الله تعالى وما قلت اذ قلت ولكن انطقى الله تعالى

بالهامه۔ وكانت هذه وصية من ربي فقضيتها ما كان لي حاجة اليك و

الى بنتك وما ضيق الله علي والنساء سواها كثيرة والله يتولى الصالحين۔

فلا تظن الى مكتوبى بعين الارتياب۔ فانه كعبته بالمحاض النصح والتزام

الصدق والى صواب۔ ودع الجدل وانتظر الاجال۔ فان مضى الاجل وما

صحص الصدق فاجعل حبلا في جيدي وسلاسل في ارجلي وعذبني

بعذاب لم يعذب به احد من العالمين۔ كنتم قد طلبتم آية من ربي

فهذه آية لكم انه ياخذ المشكرين من مكان قريب ويختار ما كان اقرب

التعذيبات في حقهم وادنى من افهامهم واشد اثرها في اعراضهم۔ و

اجسامهم ليرى المحتالين ضعفهم ويكسر كبر الضائمين۔ هذا ما كتبت الى

احمد بيك في سنة ۱۳۰۲ فاعرض والى وسكت وبكت وعان ووصلت وصلتي

وضاق ذرعا من نميقتى وكان من المعادين۔ ومعه عاداني قومه وعشيرته

الذين كانوا اقربين۔ وكانوا يعاقبون ان يزوجوا بناتهم اقارب مثل او

يزوجوا امرء تحتته امرأة اخرى وكانت بنته هذه المخطوبة جارية

حديثه السن عذراء وكنت حينئذ جاوزت الخمسين۔ وكان جذوة



ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے اپنی زیارت کی علامت فلاں فلاں پیشگوئی اور قبولیت دعا اور انکشاف حقائق و معارف کو بیان فرمایا۔ پھر بعد اس کے رسول نمائی کی دعوت کریں اور یہ عاجز حق کی تائید کی غرض سے اس بات کے لئے بھی حاضر ہے کہ میر صاحب رسول نمائی کا عجوبہ بھی دکھلاویں۔ قادیان میں آجائیں۔ مسجد موجود ہے۔ ان کے آنے جانے اور خوراک کا تمام خرچ اس عاجز کے ذمہ ہوگا اور یہ عاجز تمام ناظرین پر ظاہر کرتا ہے کہ یہ صرف لاف و گزاف ہے اور کچھ نہیں دکھلا سکتے۔ اگر میں گئے تو اپنی پردہ درسی کرائیں گے۔ عقلمند سوچ سکتے ہیں کہ جس شخص نے بیعت کی۔ مریدوں کے حلقہ میں داخل ہوا اور مدت دس سال سے اس عاجز کو خلیفہ اللہ اور امام اور مجدد و کھتار ہا اور اپنی خواہیں بتلاتا رہا۔ کیا وہ اس دعویٰ میں صادق ہے۔ میر صاحب کی حالت نہایت قابل افسوس ہے خدا ان پر رحم کرے۔ پیشگوئیوں کے منتظر رہیں جو ظاہر ہوں گی۔ ازالہ اوہام کے صفحہ ۸۵۵ کو دیکھیں ازالہ اوہام کے صفحہ ۶۲۵-۶۲۶ اور ۳۹۶ کو بغور مطالعہ کریں۔ اہستہ اہستہ دہم جولائی ۱۸۸۶ء کی پیشگوئی کا انتظار کریں۔ جس کے ساتھ یہ بھی الہام ہے ویسٹ لونگ احق ہو قل اے و ربی انا لحق وما انا بمعجزین۔ زوجنا کما لا مبدل لکلماتی۔ وان یروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر۔ اور تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات سچ ہے۔ کہہ ہاں مجھے اپنے رب کی قسم ہے کہ یہ سچ ہے اور تم اس بات کو وقوع میں آنے سے روک نہیں سکتے۔ ہم نے خود اس سوئیر عقد نکاح باندھ دیا ہے۔ میری باتوں کو کوئی بدلا نہیں سکتا۔ اور نشان دیکھ کر منہ پھیر لینگے اور قبول نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ یہ کوئی پکا فریب یا پکا جادو ہے۔

۱۱-۱۵-۲۳-۱-۲۸-۲-۲۶-۲-۲۶-۲-۱۳-۲۶-۲۸

۱۱-۱۳-۳۳-۱۱-۱۶-۲۶-۲۶-۲۸-۱-۱۰-۱۳-۲۶-۲-۱

۱-۱۰-۱۳-۲۳-۴-۱۳-۱۱-۲۳-۲۳-۲۳-۵-۱-۴

۲-۱۳-۱۰-۵-۴-۱-۲-۶-۱۳-۱-۱۶-۱۱-۲۳-۶-۱-۳۳-۴-۲۸-۵-۱۳

۴-۱-۲۸-۲-۱۳

والسلام علی من فہم اسلرنا و اتبع الملتہ۔

الناصر المشفق خاں غلام احمد قادیانی۔ ۲۷۔ دسمبر ۱۸۹۱ء

حساب اول

۳۰۵

ازالہ اوہام

راقم رسالہ ہذا اس مقام میں خود صاحب تجربہ ہے۔ عرضہ قریناً تبیین میں کا ہوا ہے کہ بعض تحریکات کی وجہ سے جن کا مفصل ذکر اشتہار دوم جولائی ۱۸۸۵ء میں مندرج ہے خدا نے تعالیٰ نے پیشگوئی کے طور پر اس عاجز پر ظاہر فرمایا کہ مرزا احمد بیگ ولد مرزا گامان بیگ ہشیار پوری کی دختر کلاں انجام کار ہمارے نکل میں آئے گی اور وہ لوگ بہت عداوت کریں گے اور بہت مانع آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو لیکن آخر کار ایسا ہی ہو گا اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے ہر طرح سے اس کو تمہاری طرف لائے گا باکرہ ہونے کی حالت میں یا بیوہ کیسے اور ہر ایک روک کو درمیان سے اٹھا دے گا اور اس کام کو سرور پورا کرے گا کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ چنانچہ اس پیشگوئی کا مفصل بیان مع اس کی میعاد خاص اور اس کے اوقات مستر مشدوم کے اور مع اس کے ان تمام لوازم کے جنہوں نے انسان کی طاقت سے اس کو باہر کر دیا ہے اشتہار دوم جولائی ۱۸۸۵ء میں مندرج ہے اور وہ اشتہار عام طبع ہو کر شائع ہو چکا ہے جس کی نسبت آریوں کے بعض منصف مزاج لوگوں نے بھی شہادت دی کہ اگر یہ پیشگوئی پوری ہو جاتے تو بلاشبہ یہ خدا تعالیٰ کا فعل ہے۔ اور یہ پیشگوئی ایک سخت مخالف قوم کے مقابل پر ہے جنہوں نے گویا دشمنی اور عناد کی تلواریں کھینچی ہوئی ہیں اور ہر ایک کو جو ان کے حال سے خیر ہوگی وہ اس پیشگوئی کی عظمت کو بد سمجھتا ہوگا۔ ہم نے اس پیشگوئی کو اس جگہ مفصل نہیں لکھا تاہاں ہر کسی متعلق پیشگوئی کی دشمنی نہ ہو لیکن جو شخص اشتہار پڑھے گا وہ گو کیسا ہی متعصب ہو گا اس کو استہزا کرنا پڑے گا کہ مضمون اس پیشگوئی کا انسان کی قدرت سے بالاتر ہے اور اس بات کا جواب بھی کامل اور مسکت طور پر ایسی شہادت سے ملے گا کہ خدا تعالیٰ نے کیوں یہ پیشگوئی بیان فرمائی اور اس میں کیا مصلح ہیں اور کیوں اور کس وسیلے سے یہ انسانی طاقتوں سے بلند تر ہے۔

۱۸۸۵ء اس جگہ مطلب یہ ہے کہ جب یہ پیشگوئی معلوم ہوئی اور ابھی پوری نہیں ہوئی تھی

جیسا کہ اب تک بھی ہو چکا ہے پوری نہیں ہوئی تو اس کے بعد اس عاجز کو ایک سخت بیماری آئی یہاں تک کہ قریب موت کے نوبت پہنچ گئی بلکہ موت کو سنبھالنے و بچھڑنے کی امید بھی کر دی گئی۔ اس وقت گویا پیشگوئی آنکھوں کے سامنے آگئی۔ اور یہ معلوم ہو رہا تھا کہ اب آخری دم ہے اور کل جنازہ نکلنے والا ہے۔ تب میں نے اس پیشگوئی کی نسبت خیال کیا کہ شاید اس کے اور معنی ہوں گے جو میں سمجھ نہیں سکا۔ تب اسی حالت قریب موت میں مجھے الہام ہوا الحق من ربك فلاق کونق من الممترین یعنی یہ بات تیرے رب کی طرف سے سچ ہے تو کیوں شک کرتا ہے۔ سو اس وقت مجھ پر یہ بعید کھلا کہ کیوں خدا تعالیٰ نے اپنے رسول کریم کو قرآن کریم میں کہا کہ تو شک مت کر۔ سو میں نے سمجھ لیا کہ حقیقت یہ آیت ایسے ہی نازک وقت سے خاص ہے جیسے یہ وقت تنگی اور نو میدی کا میرے پر ہے اور میرے دل میں یقین ہو گیا کہ جب نبیوں پر بھی ایسا ہی وقت آجاتا ہے جو میرے پر آیا تو خدا تعالیٰ تازہ یقین دلانے کے لئے ان کو کھتا ہے کہ تو کیوں شک کرتا ہے اور نصیبت نے مجھے کیوں ناامید کر دیا تو ناامید مت ہو۔

(۵) سوال۔ ابن مریم کے اترنے کا ذکر جو احادیث میں موجود ہے کسی نے سلف اور خلف میں سے اس کی یہ تاویل نہیں کی کہ ابن مریم کے لفظ سے جو ظاہر طور پر حضرت عیسیٰ مسیح سمجھا جاتا ہے درحقیقت یہ مراد نہیں ہے بلکہ کوئی اس کا شیل مراد ہے۔ اسوا اس کے اس بات پر اجماع ہے کہ نصوص کو ظاہر پر عمل کیا جائے اور بغیر قرآن تو یہ کہ باطن کی طرف نہیں پھیرنا چاہیے۔

امّا الجواب۔ پس واضح ہو کہ سلف اور خلف کے لئے یہ ایک ایمانی امر تھا جو پیشگوئی کو اجمالی طور پر بیان لیا جائے انہوں نے ہرگز یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم اس پیشگوئی کی تہ تک پہنچ گئے ہیں اور درحقیقت ابن مریم سے ابن مریم ہی مراد ہے۔ اگر لکن کی طرف سے اساد دعویٰ ہوتا تو وہ وہ جہاں کے فوت ہو جانے کے قائل نہ ہوتے اور نہ قرآن شریف کے

۵۷۲

فقلت له والله ما زاع قلبي وما مال. وما انا من الذين يحبون المال بل من الذين  
 يتذكرون المال والرجال. ولست شحيحاً على النعم كالذين هم كالنعم. وانني  
 ارحم عليك وساحسن اليك واعلم ان انفس القرابات تنفيس الكربات. وامن  
 اسباب النجاة - مواساة ذوى الحاجات - وكنت لنصرتك من المتأهبين.  
 ولكن ايم الله لقد عاهدت الله على اني لا اميل الى امر فيه شبهة. ولا  
 اضع قدماً في موضع فيه زلة ولا اتلو المتشابهات حتى او امر ربي فيها فالآن  
 افعل كذلك وارجو من الله خيراً فلا تكونن من القانطين. والى اري ان  
 المؤمنة اقرب للتقوى لان الوارث مفقود وما نتيقن انه مات او هو حي  
 موجود فلا يجوز ان يستعجل في ماله كمال الميتين فالاولى ان تقصر عن  
 القيل والقال. حتى او امر ربي عالم الغيب ذا الجلال. واستقرى سبيل  
 اليقين. قال ما مني خلاف. فلا يكن لوعدك اخلاف. قلت كل وعدى  
 مشروط بامر رب العلمين. قد هب وكان من وجدة الذي تيمه كالمعتلين.  
 فتيممت بحجرتي. والتزمت زاوية بقعتي. اتجشمت الى الله تعالى  
 ليظهر علي امره. ويفلق حب الحقيقة من نواتها ويرى لب الامر وقشره.  
 فوالله ما امسكت ريثما يعقد شمع. او يشد نسع. اذ الوسن اسرى الى آماقي.  
 والهمت من الله الباقي. وانبتت من اخبار ما ذهب وهل قط اليها وما  
 كنت اليها من المستدنين. فادسى الله الى ان اخطب صبي الكبيرة  
 لنفسك. وقل له ليصا هرك اولاً ثم ليقتبس من قبسك. وقل اني امرت  
 لاهبك ما طلبت من الارض وارضاً اخرى معها واحسن اليك

بإحسانات أخرى على أن تنكحني إحدى بناتك التي هي كبيرتها وذلك بيتي و  
بينك فإن قبلت فستجدني من المتقبلين. وإن لم تقبل فاعلم أن الله  
قد أخبرني أن انكاحها رجلاً آخر لا يبارك لها ولا لك فإن لم تنزجر  
فيصعب عليك مصائب و آخر المصائب موتك فتموت بعد النكاح إلى  
ثلاث سنين. بل موتك قريب ويرد عليك وانت من الغافلين. وكذلك  
يموت بعلمها الذي يصير زوجها إلى حولين وستة أشهر. قضاءً من الله  
فاصنع ما أنت صانعه وإلى لك لمن الناصحين. فعبس وتولى وكان من  
المعرضين. ثم كتبت إليه مكتوباً بإيماء مناتي. وإشارة رحماني. ونمقت فيه  
بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فاسمع أيها العزيز ذلك اتخذت جدتي عبثاً.  
وحسبت تبرى خبثاً. والله ما أريد أن أشق عليك وستجدني انشاء الله  
من المحسنين. وهما أنا أكتب بعهد موثق فإنك إن قبلت قولي على رغم انفع  
قبيلتي فافرض لك حصّة في ارضي وشميلتي. ويرتفع الخلاف والنزاع بهذه  
الوصلة من بيننا ويصلح الله قلوب شعبي وعشيرتي. وفي كل منيتك اقتنى  
صغوك وازيل قشفتك فتكون من الفائزين. لا من الفائزين

والحق والحق اقول اني اكتب هذا المكتوب بخلوص قلبي ووجداني. فان قبلت  
قولي وبياتي فقد صنعت لطفاً لي. وكان لك احساناً عليّ. ومعروفاً لدي.  
فاشكرك وادعوزيادة عمرك من ارحم الراحمين. واني اقيم معك عهدى.  
اني اعطى بنتك ثلثاً من ارضي ومن كل ما ملكته يدي. ولا تسألني خطة  
الا اعطيك اياها واني من الصادقين. ولن تجد مثلي في رعاية الصلة

له اي الهالكين. ثم

۵۷۲

با حسانات اخری علی ان تنکحنی احدی بناتک الی کبیرتها و ذلک بیعتی و  
 بینک فان قبلت فستجدنی من المتقبلین۔ وان لم تقبل فاعلم ان اللہ  
 قد اخبرنی ان انکاحہا رجلاً اخری لا یبارک لہا ولا لک فان لم تنس دجر  
 فیصیب علیک مصائب و آخر المصائب موتک فتموت بعد النکاح الی  
 ثلاث سنین۔ بل موتک قریب و یرد علیک وانت من الغافلین۔ وكذلك  
 يموت بعلمها الذي يصير زوجها الى حولين وستة اشهر۔ قضاءً من اللہ  
 فاصنع ما انت صانعه وانی لک لمن التاصحین۔ فعبس وتولى وكان من  
 المعرضین۔ ثم كتبت الیه مکتوباً بايماء منانی و إشارة رحمانی۔ و نمقت فيه  
 بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاسمع ايها العزيز مالک اتخذت جدی عبثاً۔  
 وحسبت تبرى خبثاً۔ و اللہ ما ارید ان اشق علیک و ستجدنی انشاء اللہ  
 من المحسنين۔ وها انا لکتب بعهد موثق فانک ان قبلت قولى على رغم انك  
 قبيلتى فاخض لك حصّة فى ارضى و خيلى۔ و يرتفع الخلات و النزاع بهذه  
 الوصلة من بيننا و يصلح اللہ قلوب شعبى و عشيرتى۔ و فى كل منيتك اقتنى  
 صفوك و ازيل قشفتك فتكون من الفائزين۔ لا من الفائزين

والحق و الحق اقول انى اکتب هذا المکتوب بخلوص قلبى و جناتى۔ فان قبلت  
 قولى و بياتى۔ فقد صنعت لطفاً لى۔ و كان لك احساناً عالى۔ و معروفاً لى۔  
 فاشکرك و ادعوزيادة عمرك من ارحم الراحمين۔ و انى اقيم معك عهدى۔  
 انى اعطى بنتک ثلاثاً من ارضى و من كل ما ملکتہ یدى۔ ولا تسئلى خطة  
 الا اعطیک اياها و انى من الصادقين۔ و لى تجد مثلى فى رعاية الصلة

له ای الها لکین۔ شمس

ومودة الاقارب وحقوق الوصلة وتجدني ناصر نوابك وحامل اثقالك  
فلا تضيع وقتك في الالباء ولا تستنكر حبك ولا تكون من المصائب.

وما انا كتبت مكتوبى هذا من امر ربي لا اعلن امرى فاحفظ مكتوبى هذا

في صندوقك فانه من صدوق امين والله يعلم اننى فيه صادق و

كل ما وعدت فهو من الله تعالى وما قلت اذ قلت ولكن انطقني الله تعالى

بالحمامه. وكانت هذه وصية من ربي فقضيتها ما كان لي حاجة اليك و

الى بنتك وما ضيق الله علي والنساء سواها كثيرة والله يتولى الصالحين.

فلا تنظر الى مكتوبى بعين الارتياح. فانه كتبت به با محاض النصح والتزام

الصدق والصواب. ودع الجدال وانتظر الاجال. فان مضى الاجل وما

حصص الصدق فاجعل حبلا في جيدي وسلاسل في ارجلي وعذبني

بعذاب لم يعذب به احد من العالمين. كنتم قد طلبتم آية من ربي

فهذه آية لكم انه ياخذ المشكرين من مكان قريب ويختار ما كان اقرب

التعذيبات في حقهم وادنى من افعالهم واشد اثرها في اعراضهم. و

اجسامهم ليروى المحتالين ضعفهم ويكسر كبر الضامئين. هذا ما كتبت الى

احمد بيك في سنة ۱۳۰۴ فاعرض وابي وسكت وبكت وعان ووصلتى وصلتى

وضاق ذرعا من نميقتى وكان من المعادين. ومعه عاداني قومه وعشيرته

الذين كانوا اترابين. وكانوا يعاقبون ان يزوجوا بناتهم اقارب مثلى او

يزوجوا امرء تحت امرأة اخرى وكانت بنته هذه المخطوبة جارية

حديثه السن عذراء وكنت حينئذ جاوزت الخمسين. وكان جذوة

حجت نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ آپ لوگ مسیح کے معجزے اس رنگ میں تسلیم کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ کا یہ بھی ایمان ہے کہ جس شخص میں ایک الٰہی کے برابر بھی ایمان ہو وہ وہی کچھ دکھا سکتا ہے۔ جو مسیح دکھاتا تھا۔ پس میں آپ کا بڑا فکری گناہ ہوں کہ آپ نے مجھے اندھوں اور بہروں اور لنگڑوں کی تلاش سے بچا لیا اب آپ ہی کا تحفہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ اندھے بہرے اور لنگڑے حاضر ہیں۔ اگر آپ میں ایک الٰہی کے برابر بھی ایمان ہے تو مسیح کی سنت پر آپ انکو اچھا کریں۔ میرا صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت صاحب نے جب یہ فرمایا۔ تو پاور یوں کی ہوا یاں اڑ گئیں اور انہوں نے جھٹ اشارہ کر کے ان لوگوں..... کو وہاں سے رخصت کرا دیا۔ میرا صاحب بیان کرتے ہیں کہ وہ نظارہ بھی نہایت عجیب تھا۔ کہ پہلے تو عیسائیوں نے اتنے شوق سے ان لوگوں کو پیش کیا اور پھر ان کو خود ہی اور اصرار دیکھ پانے لگ گئے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے خلیفہ نور الدین صاحب عجمی نے کہ آتم کے مباحثہ میں میں بھی کہنے والوں میں سے تھا آخری دن جب حضرت سید موعود علیہ السلام نے آتم کے متعلق پیشگوئی کا اعلان فرمایا۔ تو آتم نے خوف زدہ ہو کر کاؤں کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دانتوں میں انگلی لی اور کہا کہ میں نے تو دجال نہیں کہا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب کو ایک دفعہ میاں دینے خلیفہ مسیح ثانی، دالان کے دروازے بند کر کے چڑیاں پکڑ رہے تھے کہ حضرت صاحب نے جمعہ کی نماز کیلئے باہر جاتے ہوئے انکو دیکھ لیا اور فرمایا۔ میاں گھر کی چڑیاں نہیں پکڑا کرتے۔ جس میں رحم نہیں اس میں ایمان نہیں۔ خاکسار عرض کرتا ہے۔ کہ بعض باتیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ مگر ان سے کہنے والے کے اخلاق پر بڑی روشنی پڑتی ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے میاں عبدالمد سنوری نے کہ ایک دفعہ حضرت صاحب جالندھر جا کر قریباً ایک ماہ ٹھہرے تھے۔ اور ان دنوں میں محمدی بیگم کے ایک حقیقی ماموں نے محمدی بیگم کا حضرت صاحب کے رشتہ کرا دینے کی کوشش کی تھی۔ مگر کامیاب نہیں ہوا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب محمدی بیگم کا والد مرزا احمد بیگ



ہو شیاری پوری زندہ تھا۔ لہذا بی محمدی سلیم کا منہ اس سلطان محمد سے رشتہ نہیں ہوا تھا۔ محمدی سلیم کا یہ  
 ناموں جانہ مراد ہوشیار پور کے درمیان یکے میں آیا بلکہ آتا تھا۔ اور وہ حضرت صاحب کے کچھ انعام  
 کا بھی خواہاں تھا۔ اور چونکہ محمدی سلیم کے بھلے کا عقدہ زیادہ تر اسی شخص کے ہاتھ میں تھا اس  
 لئے حضرت صاحب نے اس سے کچھ انعام کو وہ بھی کر لیا تھا خاکسار عرض کرتا ہے کہ یہ شخص اس  
 معاملہ میں بد نیت تھا۔ اور حضرت صاحب کے فقط کچھ روپیہ اڑانا چاہتا تھا۔ کیونکہ بعد میں یہی شخص  
 اور اس کے دوسرے ساتھی اس لڑائی کے دوسری جگہ گیا ہے۔ جانے کا موجب ہوئے مگر جسے ملا  
 صاحب سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت صاحب نے بھی اس شخص کو روپیہ دینے کے متعلق بعض حکیمانہ  
 احتیاطیں ملحوظ رکھی ہیں۔ والد صاحب نے یہ بھی بیان کیا کہ اسکے ساتھ محمدی سلیم کا بڑا بھائی بھی شریک تھا  
 خاکسار عرض کرتا ہے کہ بعض لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ جب خدا کی طرف سے پیشگوئیاں تھیں تو  
 حضرت صاحب خود ان کے پورا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ مگر یہ ایک محض جہالت کا اثر ہی  
 ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں گذرا جس نے باوجود عدلی و عدول کے اپنی پیشگوئیوں کو پورا کرنے کیلئے ہر جائز  
 طریق پر کوشش نہ کی ہو۔ دراصل خدا کے ارادوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنے سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ  
 خود باللہ خدا انسان کی امداد کا محتاج ہے بلکہ اس سے بعض اور باتیں مقصود ہوتی ہیں۔ مثلاً  
 اقول۔ اگر انسان خود ماتمہ پر ماتمہ رکھ کر بیٹھ جاوے اور یہ سمجھ لے کہ خدا کا وعدہ ہے  
 وہ خود پورا کرے گا۔ اور باوجود طاقت رکھنے کے کوشش نہ کرے تو یہ بات خدا کے  
 استغنائے ذاتی کو بانگیت کرنے کا موجب ہوتی ہے اور یہ وہ مقام ہے جس سے  
 انبیاء تک کا پتہ ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ ایک محبت کا طبعی تقاضا ہوتا ہے کہ انسان اپنے  
 محبوب کے ارادوں کے پورا کرنے میں اپنی طرف سے کوشش کرے اور یہ محبت کا جذبہ  
 استمد طاقت رکھتا ہو کہ باوجود اس علم کے کہ خدا کو انسانی نصرت کی ضرورت نہیں ہے  
 انسان پہلا نہیں بیٹھ سکتا۔ تیسرے یہ کہ خدا کے تمام ارادوں میں دین کا غلبہ مقصود  
 ہوتا ہے۔ اسلئے نبی اپنے فرض منصبی کے لحاظ سے بھی اس میں ماتمہ ہاؤں ہلانے سے باز  
 نہیں رہ سکتا۔ چوتھے۔ خدا کی یہ سنت ہے کہ سوچنے بالکل استثنائی صورتوں کے  
 اپنے کاموں میں اسباب کے سلسلہ کو ملحوظ رکھتا ہے۔ پس نبی کی کوشش بھی اس سلسلے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
سُحُودًا وَنَعْلًا

لَا یَحِیْتُ اللّٰهُ الْجَمْعُ بِالسُّؤْرِیْنَ اِنَّ مَنْ قَلِبَهُ وَحَانَ اللّٰهُ سَمِیْعًا عَلِیْمًا

اشتہار نصرت دین و قطع تعلق

از اقارب مخالف دین

عَلٰی مِلَّتِ اِبْرٰهٰیْمَ حَنِیْفًا

پہلے بدندان تو کرے او افساد ہو آن نہ وندانی یکن ای اوستاد  
ناخوشی کو یاد ہو گا کہ اس عاجز نے ایک اپنی خصومت کے پیش آجانے کی وجہ سے ایک نشان کے مطالب  
کے وقت اپنے ایک قریبی میرزا احمد بیگ ولد میرزا گاماں بیگ ہوشیار پوری کی دختر کمال کی نسبت بگھو  
المام الہی یہ اشتہار دیا تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہی مقدر اور قرار یافتہ ہے کہ وہ لڑکی اس عاجز کے  
نکاح میں آئے گی۔ خواہ پہلے ہی باکرہ ہونے کی حالت میں آجائے اور یہ خدا تعالیٰ بیوہ کر کے اس کو میری طرف  
لے آوے۔ چنانچہ تفصیل ان کل امور مذکورہ بالا کی اس اشتہار میں درج ہے۔ اب باعث تحریر اشتہار بنایا  
ہے کہ میرزا بشا سلطان احمد نام جو نائب تحصیلدار لاہور میں ہے اور اس کی تالی صاحبہ جنہوں نے اس کو بیٹا  
بنایا ہوا ہے وہی اس مخالفت پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ اور یہ سارا کام اپنے ہاتھ میں لے کر اس تجویز میں ہیں کہ  
عید کے دن یا اس کے بعد اس لڑکی کا کسی سے نکاح کیا جائے۔ اگر یہ اوروں کی طرف سے مخالفت کا ردوائی  
ہوتی تو ہمیں درمیان میں دخل دینے کی کیا ضرورت اور کیا فرض تھی۔ امر ربی تھا۔ اور وہی اس کو اپنے فضل و کرم  
سے ظہور میں لاتا۔ مگر اس کام کے مدارالہام وہ لوگ ہو گئے جن پر اس عاجز کی اطاعت فرض تھی اور ہر چند  
سلطان احمد کو سمجھایا اور بہت تاکید کی خط لکھے کہ تو اور تیری والدہ اس کام سے الگ ہو جائیں۔ ورنہ میں تم سے  
جدا ہو جاؤں گا اور تمہارا کوئی حق نہیں رہے گا۔ مگر انہوں نے میرے خط کا جواب تک نہ دیا۔ اور کئی بار سے  
بیزاری ظاہر کی۔ اگر ان کی طرف سے ایک تیز تومر کا بھی بچے زخم پہنچتا تو بخدا میں اس پر صبر کرتا، لیکن انہوں  
نے دینی مخالفت کر کے اور دینی مقابلے سے آذر و سے کہ بے بہت ستایا۔ اور اس حد تک میرے دل کو توڑ دیا

۱۳۹

کہ میں یہ بیان نہیں کر سکتا اور عہد چاہا کہ میں سخت ذلیل کیا جاؤں۔ سلطان احمد ان دو بڑے گناہوں کا مرتکب ہوا  
 بول یہ کہ اُس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مخالفت کرنی چاہی۔ اور یہ چاہا کہ دین اسلام پر  
 تمام مخالفتوں کا حملہ ہو۔ اور یہ اپنی طرف سے اس نے ایک بنیاد رکھی ہے اس امید پر کہ یہ جھوٹے ہو جائیں گے  
 اور دین کی چٹک ہوگی۔ اور مخالفتوں کی فتح۔ اس نے اپنی طرف سے مخالفتانہ تموار چلانے میں کچھ فرق نہیں  
 کیا لہذا اس نادان نے نہ سمجھا کہ خداوند قدیر و خیر اور اس دین کا حامی ہے اور اس عاجز کا بھی حامی۔ وہ اپنے بندہ  
 کو کبھی ضیاع نہ کرے گا۔ اگر سادا جان بھے برباد کرنا چاہے تو وہ اپنی رحمت کے ہاتھ سے بچو کہ تمام لے گا۔  
 کیونکہ میں اس کا ہوں اور وہ میرا۔ دوم سلطان احمد نے مجھے جو میں اس کا باپ ہوں سخت ناچیز قرار دیا اور  
 میری مخالفت پر کربانڈھی اور تولی اور فعلی طود پر اس مخالفت کو کمال تک پہنچایا۔ اور میرے عینی مخالفتوں کو  
 مددی اور اسلام کی ہتک بدل و جان منظور رکھی۔ سو چونکہ اس نے دونوں طور کے گناہوں کو اپنے اندر جمع  
 کیا۔ اپنے خدا کا تعقیب بھی توڑ دیا اور اپنے باپ کا بھی۔ اور ایسا ہی اس کی دونوں والدہ نے کیا۔ سو جبکہ انہوں  
 نے کوئی تعقیب مجھ سے باقی نہ رکھا۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اب ان کا کسی قسم کا تعلق مجھ سے باقی رہے اور وہ  
 ہوں کہ ایسے دینی دشمنوں سے پیوند رکھنے میں مصیبت نہ ہو۔ لہذا میں آج کی تاریخ کو دوسری ہی سلسلہ ہے۔  
 حرام اور حرام پر بدیہ اشتہار ہذا تھا ہر کتابوں کہ اگر لوگ اس ارادہ سے باز نہ آتے۔ اور وہ تجویز جو اس لڑکی کے  
 ناطہ اور نکاح کرنے کی اپنے ہاتھ سے یہ لوگ کر رہے ہیں اس کو موقوف نہ کر دیا۔ اور میں شخص کو انہوں نے نکاح  
 کے لیے تجویز کیا ہے اس کو رد نہ کیا بلکہ اسی شخص کے ساتھ نکاح ہو گیا تو اسی نکاح کے دن سے سلطان احمد عاق  
 اور محروم اللہ ہو گا اور اسی روز سے اس کی والدہ پر میری طرف سے طلاق ہے۔ اور اگر اس کا بھائی فضل احمد  
 جس کے گھر میں مرزا احمد بیگ والد لڑکی کی بھانجی ہے اپنی اس بیوی کو اسی دن جو اس کو نکاح کی خبر ہو اور طلاق نہ  
 دیے تو پھر وہ بھی طاق اور محروم اللہ ہو گا۔ اور آئندہ ان سب کا کوئی حق میرے پر نہیں رہے گا۔ اور اس نکاح کے  
 بعد تمام تعلقات خیریشی و قرابت و ہمدردی دور ہو جائے گی۔ اور کسی نیکی۔ جہی۔ منج و راحت۔ شادی اور نام میں ان  
 سے شراکت نہیں رہے گی۔ کیونکہ انہوں نے آپ تعقیب توڑ دیتے اور توڑنے پر راضی ہو گئے۔ سو اب ان سے کچھ تعقیب  
 رکھنا قطعاً حرام اور ایمانی غیوری کے برخلاف اور ایک ذیوثی کا کام ہے۔ مومن و توث نہیں ہوتا۔

چوں نہ بود خویش را دیانت و تقویٰ قطع رحم بہ از مودت قرینے

دانتہر علی من اشیع اللہ سے

اللہ

مرزا غلام احمد لویانہ  
 حوالہ نمبر 389

(۳۵) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے مولوی شیر علی صاحب نے کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام قادیان سے گورکھ پور جاتے ہوئے بٹالہ ٹھیکے سے واپس آئے اور آپ کی تلاش میں قادیان سے ہوتا ہوا بٹالہ واپس آتا تھا آپ کے پاس کچھ پھل بطور تحفہ لایا۔ پھلوں میں انگور بھی تھے۔ آپ نے انگور کھائے۔ اور فرمایا انگور میں ترشی ہوتی ہے۔ مگر یہ ترشی تڑا کے لیے مضر نہیں ہوتی۔ پھر آپ نے فرمایا ابھی میرا دل انگور کو چاہتا تھا۔ سو خدا نے یہ سچ دینے فرمایا۔ کئی دفعہ میں نے تجربہ کیا ہے۔ کہ جس چیز کو دل چاہتا ہے۔ اللہ اُسے ہیا کر دیتا ہے۔ پھر ایک واقعہ سنایا۔ کہ میں ایک سفر میں جا رہا تھا۔ کہ میرے دل میں پونڈے لگنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ مگر وہاں راستہ میں کوئی گنا میسر نہیں تھا۔ مگر اللہ کی قدرت کہ بھوڑی دیر کے بعد ایک شخص ہم کو مل گیا جس کے پاس پونڈے تھے۔ اس نے ہم کو پونڈے ملے۔

(۳۶) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ اہل میں ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو سنت دوزر پڑا۔ کسی نے مرزا سلطان احمد اور مرزا افضل احمد کو یہی اطلاع دی۔ اور وہ دو ذلیل آگے۔ پھر ان کے سامنے بھی حضرت صاحب کو دوزر پڑا۔ والدہ صاحبہ فرماتی ہیں۔ اس وقت میں نے دیکھا۔ کہ مرزا سلطان احمد تو آپہلی چار پائی کے پاس خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے۔ مگر مرزا افضل احمد کے چہرہ پر ایک رنگ آتا تھا۔ اور ایک جاتا تھا اور وہ کبھی اصرع بھاگتا تھا۔ اور کبھی اصرع کبھی اپنی بچڑی اتار کر حضرت صاحب کی ٹانگوں کو باندھتا تھا۔ اور کبھی پاؤں دبانے لگ جاتا تھا۔ اور گھبراہٹ میں اس کے اللہ کا پتے تھے۔

(۳۷) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ جب محمدی بیگم کی شادی دوسری جگہ ہو گئی اور قادیان کے تمام کشتہ داروں نے حضرت صاحب کی سخت مخالفت کی اور خلاف کوشش کرتے رہے اور صاحب نے

احمد بیگ والد محمدی بیگم کا ساتھ دیا اور خود کو کشش کر کے لڑکی کی شادی میری  
 جگہ کرادی۔ تو حضرت صاحب نے مرزا سلطان احمد اور مرزا فضل احمد مدوں کو  
 الگ الگ خط لکھا کہ ان سب لوگوں نے میری سخت مخالفت کی ہے اب انکے  
 ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا۔ اور ان کے ساتھ اب ہماری قبریں بھی اکٹھی  
 نہیں ہو سکتیں لہذا اب تم اپنا آخری فیصلہ کرو اگر تم نے میرے ساتھ تعلق رکھنا  
 ہے۔ تو پھر ان سے قطع تعلق کرنا ہوگا اور اگر ان سے تعلق رکھنا ہے تو پھر میرے  
 ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں رہ سکتا۔ میں اس صورت میں تم کو عاق کرتا ہوں۔  
 والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ مرزا سلطان احمد کا جواب آیا کہ مجھ پر تالی صاحبہ کے  
 احسانات ہیں۔ ان سے قطع تعلق نہیں کر سکتا۔ مگر مرزا فضل احمد نے لکھا  
 کہ میرا تو آپ کے ساتھ ہی تعلق ہے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حضرت صاحب  
 نے مرزا فضل احمد کو جواب دیا کہ اگر وہ دہت ہے تو اپنی بیوی بنت مرزا علی شہر کو  
 جو سخت مخالف تھی اور مرزا احمد بیگ کی بھانجی تھی، طلاق دے دو۔ مرزا  
 فضل احمد نے فوراً طلاق نامہ لکھ کر حضرت صاحبہ کے پاس روانہ کر دیا۔ والدہ  
 صاحبہ فرماتی ہیں۔ کہ پھر فضل احمد باہر سے آکر ہائے پاس ہی ٹھہرتا تھا مگر اپنی  
 دوسری بیوی کی فتنہ پردازی سے آخر پھر آہستہ آہستہ اودھر جا ملا۔ والدہ  
 صاحبہ فرماتی ہیں۔ کہ فضل احمد بہت شہر سیلا تھا۔ حضرت صاحبہ کے سامنے  
 ہانکے نہیں اٹھاتا تھا۔ حضرت صاحبہ اسکے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ فضل احمد  
 سیدھی طبیعت کا ہے۔ انداس میں بہت کا ادھ ہے۔ مگر وہ سروں کے پستھ  
 سے اودھر جا ملا ہے۔ نیز والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ جب فضل احمد کی وفات کی  
 خبر آئی۔ تو اس رات حضرت صاحبہ قریباً ساری رات نہیں سوئے۔ اور دو تین دن  
 تک منوم سے رہے۔ خاک ارنے پوچھا کہ کیا حضرت صاحبہ نے کچھ فرمایا ہی  
 تھا؟ والدہ صاحبہ نے کہا کہ صرف اس قدر فرمایا تھا۔ کہ ہمارا اسکے ساتھ تعلق تو  
 نہیں تھا۔ مگر مخالف اسکی موت کو بھی اعتراض کا نشانہ بنا لینگے خاک ادریں

اور میں نے بہت استغفار پڑھا۔ یہ قصہ سنا کر میں نے خواہ صاحب سے کہا کہ خواہ صاحب! آپ کی عزت بھی کہیں اسی طریق کی نہ ہو۔ چنانچہ میں آپ کو سنا تا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہی آتا ہے کہ آپ کزہ ایمان والوں اور منافقوں کی بہت خاطر توامنع کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن آپ نے کچھ مال تقسیم کیا مگر ایک ایسے شخص کو چھوڑ دیا جس کے متعلق سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ وہ میرے خیال میں گن تھا۔ اور ان لوگوں کی نسبت زیادہ حدار تھا۔ جن کو آپ نے مال دیا چنانچہ سعد نے اسکی طرف آپ کو توجہ دلائی۔ مگر آپ خاموش رہے۔ پھر توجہ دلائی۔ مگر آپ پھر خاموش رہے۔ سعد نے پھر تیسری دفعہ توجہ دلائی۔ اس پر آپ نے فرمایا سعد تو ہم سے جھگڑا کرتا ہے۔ خدا کی قسم بات یہ ہے کہ بعض وقت میں کسی کو کچھ دیتا ہوں۔ حالانکہ میری کمانچے اس سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ مگر میں اسے ایلئے دیتا ہوں کہ کہیں وہ نمنہ کے بل آگ میں نہ جا پڑے۔ یعنی تالیف قلب کے طور پر دیتا ہوں۔ کہ کہیں اسے ابتلاؤ نہ آجائے قلنی صاحب نے بیان کیا کہ جسکے ایمان کی حالت مطمئن ہو اسے ظاہری عزت اور خاطر عادات کی ضرورت نہیں ہوتی اسکے ساتھ اہل طریق پر معاملہ ہوتا ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اوائل سے ہی مرزا فضل احمد کی والدہ سے جن کو لوگ عام طور پر پیچھے دی ماں کہا کرتے تھے بے تعلقی سی تھی جس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت صاحب کے رختہ وادوں کو دین کو سخت بے رغبتی تھی اور انکا انکی طرف میلان تھا اور اسی رنگ میں رنگین تھیں۔ ایلئے حضرت مسیح موعود نے ان سے مباشرت ترک کر دی تھی ان آپ اخراجات وغیرہ باقاعدہ دیا کرتے تھے۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ میری شادی کے بعد حضرت صاحب نے انہیں کہلا بھیجا کہ آجنگ تو جس طرح ہوتا رہتا رہتا رہتا اب میں نے دوسری شادی کر لی ہے ایلئے اب اگر دونوں بیویوں میں برابری نہیں کہنگا تو میں گنہگار ہونگا۔ ایلئے اب دو باتیں ہیں۔ یا تو تم مجھ سے طلاق لے لو اور یلئے اپنے حقوق چھوڑ دو۔ میں تم کو خرچ دینے ہاؤنگا۔ انہوں نے کہا بیجا کباب میں

بڑا ہے میں کہا طلاق لوں گی۔ میں نے خرچ کرتا ہے۔ میں اپنے باقی حقوق چھوڑتی ہوں۔  
والدہ صاحبہ فرماتی ہیں۔ چنانچہ پھر ایسا ہی ہوتا رہا۔ حتیٰ کہ محمدی بیگم کا سوال اٹھا اور  
آپ کے رشتہ داروں نے مخالفت کر کے محمدی بیگم کا نکاح دوسری جگہ کرادیا اور  
فضل احمد کی والدہ نے ان سے قطع تعلق نہ کیا۔ بلکہ ان کے ساتھ رہیں۔ تب حضرت  
صاحب نے ان کو طلاق دیدی خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت صاحب کا یہ طلاق  
دینا آپ کے اس اشتہار کے مطابق تھا۔ جو آپ نے ہر مئی ۱۹۹۱ء کو شائع کیا تھا  
اور جسکی سرخی تھی "اشتہار نصرت دین و قطع تعلق از اقارب مخالف دین" یہ  
اس میں آپ نے بیان فرمایا تھا کہ اگر مرزا سلطان احمد ان کی والدہ اس امر میں  
مخالفت کو کشش سے الگ نہ ہو گئے۔ تو پھر آپ کی طرف سے مرزا سلطان احمد عاق  
اور محروم الارث ہو گئے اور ان کی والدہ کو آپ کی طرف سے طلاق ہوگی والدہ صاحبہ  
فرماتی تھیں کہ فضل احمد نے اس وقت اپنے آپ کو عاق ہونے سے بچا لیا۔ نیز والدہ  
صاحبہ نے فرمایا کہ اس واقعے کے بعد ایک دفعہ مرزا سلطان احمد کی والدہ بیمار ہوئیں  
تو چونکہ حضرت صاحب کی طرف سے مجھے اجازت تھی۔ میں انہیں دیکھنے کے لئے  
گئی۔ وہیں آکر میں نے حضرت صاحب سے ذکر کیا۔ کہ پتھے کی ماں بیمار ہے۔  
اور یہ تکلیف ہے۔ آپ خاموش رہے۔ میں نے دوسری دفعہ کہا تو فرمایا میں تمہیں  
دو گولیاں دیتا ہوں۔ یہ دے آؤ۔ مگر اپنی طرف سے دینا میرا نام نہ لینا۔ والدہ صاحبہ  
فرماتی تھیں کہ اللہ بھی بعض اوقات حضرت صاحب نے اشارہ کناہیہ مجھ پر ظاہر  
کیا کہ میں ایسے طریق پر کہ حضرت صاحب کا نام درمیان میں نہ آئے اپنی طرف  
سے کبھی کچھ مدد کر دیا کروں سو نہیں کرنا کرتی تھی۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے شیخ عبدالرحمن صاحب مصری نے  
کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نماز ظہر کے بعد مسجد میں بیٹھ گئے۔ ان  
دفعوں میں آپ نے شیخ سعد اللہ صیغی انوی کے متعلق لکھا تھا کہ یہ ابتر رہیگا  
انداس کا بیٹا جو اب موجود ہے۔ وہ نامرد ہے۔ گویا اس کی اولاد آگے نہیں چلیگی

(۴۲)

۵۴۷

و منع بی من النعم الظاهرة والباطنة وجعلني من المجذوبين - و كنت شاباً  
وقد شغفت وما استفتحت باباً الا فتحت - وما سألت من نعمة الا اعطيت  
وما استكثفت من امر الا كشفت - وما ابتهلت في دعا والاحييت -  
وكل ذلك من حبي بالقرآن وحب سيدي وامامي سيد المرسلين - اللهم  
صل وسلم عليه بعدد نجوم السموات وذرات الارضين ومن اجل هذا المحب  
الذي كان في فطرتي كان الله معي من اول امري حين ولدت وحين كنت  
ضرباً عند ظمري وحين كنت اقرئ في العلمين - وقد حيب الي منذ فوات  
العشرين ان انصر الدين - واجادل اليراهمة والقسيسين - وقد الفت  
في هذه المناظرات بصنفاً عديدة - ومؤلفات مفيدة منها كتاب  
اليراهمين - كتاب نادر ما نسج على منواله في ايام خالية فليقر به من كان  
من امرتايين - قد سللت فيه صوارم الحجج القطعية على اقوال الملحدين  
ورميت بشبهها الشياطين المبطنين - قد خفض هام كل معاند بذالك  
السيف المسلول - وتبينت فيه حجتهم بين ارباب المنقول والمقول - وبين  
المعتقين - فيه دقائق العلوم وشواردها والالهامات الطيبة الصريحة و  
الكشوف الجلية وماردها - ومن كل ما يجلي خرد مطرب الدين المتين ولي  
كتب اخرى تشابهه في الكمال - منها الكحل والتوضيح والازالة وفتح الاسلام  
وكتاب آخر سبق كلها الفقه في هذه الايام اسمه دافع الوسوس هو نافع جداً  
الذين يريدون ان يروموا حسن الاسلام - ويكفون ازواج المنافقين - تلك كتب  
ينظر اليها كل مسلم يعين المحب - والمودة ويتفح من مطارفتها ويقبل في ويصدق



۵۴۸

دعوتی۔ الاخریۃ البغایا الذین ختم اللہ علی قلوبہم فہم لا یقبلون۔ ولما  
 بلغت اشد عمری وبلغت اربعین سنۃ جاء تنی نسیم الوحي بریا عنایات  
 ربی لایزید معی فتی ویقیننی ویرتفع حجبی واکون من المستیقنین فاؤل ما  
 فتح علی بابہ هو المرؤیا الصالحۃ فکنت لا اری رؤیا الا جاءت مثل فلق  
 الصبح وانی رايت فی تلك الايام رؤیا صالحۃ صادقة قریباً من الغین او  
 اکثر من ذالک۔ منها محفوظاتی ما فطقت وکثیر منها نسیتها۔ ولعل  
 اللہ یکررہا فی وقت اخری ونحو من الآملین۔ ورايت فی غلواء شبابی  
 وعند دواعی التصابی کانی دخلت فی مکان وفیہ حقدتی وخذمی فقلت  
 طهر وافر اشق فان وقتی قد جاء ثم استیقظت وخصیت علی نفسی  
 وذهب وعلی الی انسی من المائتین۔ ورايت ذات لیلۃ وانا غلام  
 حدیث السن کالی فی بیت لطیف نظیف یذکر فیہا رسول اللہ صلی اللہ  
 علیہ وسلم فقلت آیتہا الناس ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاشاروا  
 الی حجرۃ فدخلت مع الداخلین۔ فیس فی حین واقیتہ۔ وحيانی بأحسن  
 ما حییتہ وما انسی حسنه وجمالہ وملاحته وتمننتہ الی یومی هذا۔ شغنی  
 حبل وجد بنی بوجه حسین قال ما هذا بيمينک یا احمد فنظرت فاذا  
 کتاب بیدی الیمنی وخطر بقلبی انه من مصنفاتی قلت یا رسول اللہ  
 کتاب من مصنفاتی قال ما اسم کتابک فنظرت الی الکتاب مرة اخرى  
 وانا کالمتحیرین۔ فوجدته يشابه کتابا کان فی دار کتبی واسمہ  
 قطبی قلت یا رسول اللہ اسمہ قطبی قال ارنی کتابک القطبی فلما

۱۹۰

ماہ اگست ۱۸۹۲ء

"میں نے رات کو جن قدر آل مکرم کے لئے دعا کی اور جس حالت پر سوز میں دعا کی اس کو خداوند کریم خوب جانتا ہے..... دعا کی حالت میں یہ الفاظ سبب اللہ زبان پر جاری ہوئے :-

لَوِیْ عَلَیْهِ (اَوْ) لَا وِلَیَّ عَلَیْهِ

اور یہ خدا تعالیٰ کا کلام تھا اور اسی کی طرف سے تھا!

(مکتوب بنام حضرت خلیفۃ المسیح الاول مورخہ ۲۹ اگست ۱۸۹۲ء مکتوبات احمدیہ جلد پنجم نمبر ۶ صفحہ ۱۱۲۲)

۱۳ اگست ۱۸۹۲ء

۱۳ اگست ۱۸۹۲ء مطابق ۲۰ محرم ۱۳۰۹ء - "آج خواب میں میں نے دیکھا کہ محمدی (پیغمبر) جس کی نسبت پیشگوئی ہے باہر کسی تیکہ میں مہر چند گس کے بیٹھی ہوئی ہے اور سر اس کا شاید منڈا ہوا ہے اور بدن سے ننگ ہے اور نہایت مکروہ شکل ہے میں نے اس کو تین مرتبہ کہا ہے کہ تیرے سر منڈی ہونے کی یہ تعبیر ہے کہ تیرا خاوند مر جائے گا اور میں نے دونوں ہاتھ اس کے سر پر آتا ہوں اور پھر خواب میں میں نے یہی تعبیر کی ہے اور اسی رات والدہ محمد نے خواب میں دیکھا کہ محمدی (پیغمبر) سے میرا نکاح ہو گیا ہے اور ایک کاغذ میرا ان کے ہاتھ میں ہے جس پر ہزار روپیہ رقم لکھا ہے اور شیرینی منگوائی گئی ہے اور پھر میرے پاس وہ خواب میں کھڑی ہے" (رجسٹر متفرق یادداشتیں صفحہ ۲۲۲ از حضرت مسیح موعود علیہ السلام)

۲۰ اگست ۱۸۹۲ء

"آج رات بوقت ڈوبنے میں نے دیکھا کہ ایک سانپ صاحب جان مرحوم کے گھروں میں پھرتا ہے۔ پھر وہ زمین پر بیٹھ گیا اور محمد سعید نے اس کے سر پر انگلی رکھی تا اس کو قتل کرے۔ پھر میں نے بھی انگلی رکھی تب اس کے سر میں آگ لگ گئی مگر مجھے معلوم ہوا کہ میری انگلی کو اس نے کاٹا ہے۔ انگلی دہنی طرف کی سبب تھی متورم ہو گئی اور اندیشہ رہا کہ اس کا اثر دل کو نہ پہنچے مگر پہنچنا معلوم نہیں ہوا اور اسی خواب میں معلوم ہوا کہ کچھ تکلیف بقیہ عاشقہ :-

جماعت جو مدار بر پرتاب سنگھ کی حالت سے واقف اور ای پر قابو یافت تھی انہیں یہ شبہ تھا کہ کسی بھی وقت مدار بر پرتاب سنگھ کو سزول کر دیا جائے گا اور اس کی جگہ مدار بر پرتاب سنگھ ہو جائیں گے۔ یہ دراصل سیاسی اور اقتصادی جنگ تھی اور اس کو مذہب کا رنگ دیا گیا کہ حضرت مولوی صاحب راجہ امر سنگھ کو جب وہ مدار بر پرتاب سنگھ کے مسلمان کر لیں گے۔ اسی قسم کی سازش کر کے آپ کو مولوی بریلوی پرستی کو جوں سے نکل جانے کا حکم دے دیا گیا۔ آپ نے حضرت اقدس کو اطلاع دی۔ اس کے جواب میں حضرت اقدس نے..... خط لکھا (حیات احمدیہ جلد چہارم صفحہ ۱۳۲۲)

لہ (ترجمہ اندر شب) اس پر سرمان ہوا (یا) اس کے مقابلہ میں کوئی دوست نہیں۔

یہ حوالہ صفحہ 321 پر درج ہے

تذکرہ مجموعہ وحی والہامات طبع چہارم صفحہ 160 از مرزا قادیانی

سودھ کا جواب اسلام کی مخالفت کا ثبوت دینا ہے نہ نیک لوگوں پر تو اور چلانا۔ لہذا خدا تعالیٰ انہیں  
 مسلمانوں کی حالت کے ہر رنگ پا کر ان کے لئے حضرت مسیح کی مانند خیر سینہ و سنان کے مصلح بھیجا  
 اور ان مصلح کو بتلائی کے لئے مقرر کیا۔ حضرت مسیح نے صرف آسمانی حربہ دیا اور جیسا کہ عیسیٰ عند منارۃ دمشق کے  
 لفظوں سے ظہور سکا وہ مفہوم ہوتا ہے جو مہینے میں جو وہ مہینے میں جس کی خبر پر آیا اور جیسا کہ  
 انگریزوں نے منہ لگایا تھا اور انہیں کے مدد سے وہ ان کے لئے ہیں ایسی زمانہ میں وہ اصلاح خلق  
 کے لئے طیار کیا گیا۔ اور جیسا کہ قرآن کریم نے بشارت دی کہ اموح فتن نصاریٰ کے وقت  
 میں مصلح ہوگا ایسا ہی اُسکا ظہور ہوا اور کئی بندگان خدا نے الہام پا کر اُس کے ظہور سے پہلے  
 اُس کے کہنے کی خبر دی بلکہ بعض نے بیس برس پہلے اُس کے ظہور کو اُسکا نام بتلایا اور یہ کہہ کر مسیح  
 موعود بھی ہے اور اصل عیسیٰ فوت ہو چکا ہو اور جیسا کہ صاحب مکاتیب نے جو دعویٰ اُسکی  
 کو مسیح موعود کے آئینا مانہ قرار دیا اور اپنے الہامات کہہ گئے۔ اب اسکے بعد ایسے امور میں  
 جو ان کے خلاف ہیں ان کی بھی کچھ گنجائش رکھ لینا چاہیے اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے۔

پھر اسوالت کے بعض اور عظیم الشان نشان ہیں جو اس کی طرف سے معرض احتمال میں ہیں  
 جیسا کہ پیش ہے۔ شد آتم صاحب امر تسمیٰ کی نسبت پیشگوئی جسکی میعاد ۱۸۹۲ء سے  
 ہندو پیدہ تک اور انڈیا لیکھرام پتاری کی موت کی نسبت پیشگوئی جسکی میعاد ۱۸۹۲ء سے  
 چھ سال تک ہے اور پھر مرزا احمد علی ہوشیار پور کے داماد کی موت کی نسبت پیشگوئی جو یہی  
 مصلح کا ہور کا باشندہ ہے جسکی میعاد آج کی تاریخ سے جو اکیس ستمبر ۱۸۹۲ء ہے قریباً گیارہ مہینے  
 باقی رہ گئی ہے یہ تمام امور جو انسانی طاقتوں سے بالکل بالاتر ہیں ایک جہادق یا کاذب کی مخالفت  
 کے لئے کافی ہیں کیونکہ ایسا ہمارے دلائل خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہیں اور جیسا کہ کوئی شخص  
 نہایت درجہ کا مقبول نہ ہو خدا تعالیٰ اُسکی خاطر کسی اُسکے دشمن کو اُسکی دعا سے ہلاک نہیں کر سکتا  
 خصوصاً ایسے موقع پر کہ وہ شخص اپنے تئیں منجانب اللہ قرار دے اور اپنی اس کراحت کو اپنے  
 منافق ہونے کی دلیل ٹھہرائے۔ سو پیشگوئیاں کوئی معمولی بات نہیں کوئی ایسی بات نہیں جو

۲۹۷

اپنی اپنی عادات کی طرف پھر رجوع کریں۔ یہ سنت اللہ ہے کہ قرآن کریم اور دوسری انہی کتابوں سے بہت بہتر ہے کہ  
 چونکہ یہ سنت مستورہ اور عادت تحریر حضرت بدریہ رضی اللہ عنہا کی ہے جس کا ذکر اس کی تمام کتابوں میں پایا جاتا ہے اس لیے  
 انذار اور تحویف کے انامات میں کچھ ضرور نہیں ہوتا کہ شرط کے طور پر اس سنت اللہ کا انام میں ذکر بھی کیا جائے۔  
 کیونکہ کوئی انام اس سنت اللہ کے مخالف ہو ہی نہیں سکتا جو خدا تعالیٰ کی پاک کتابوں میں دائمی طور پر پائی جاتی ہے۔  
 وجہ یہ کہ ہر ایک انام کے لیے کتاب الہی بطور امام اور مسین کے ہے اور ضرور ہے کہ انام اپنے امام کی سن اور درود  
 سے تجاوز نہ کرے ورنہ وہ امام الہی نہیں ہو سکتا۔

اب بعد اس تمہید کے جاننا چاہیے کہ یہ پیشگوئی بھی بطور انذار اور تحویف کے تھی۔ اور بہت کا وہ بھی  
 بطور عذاب کے وعدہ کے تھا۔ کیونکہ اس کی بنیاد یہ تھی کہ جو دختر احمدیگ سنی سلطان محمد سے بیابھی گئی۔ اس کا والد  
 اور اس کے اقارب اور عزیز بہت بدین تھے اور کذب سنی میں حد سے بڑھے ہوتے تھے اور ایک ان میں سے  
 سخت دہرہ تھا جو اسلام سے مڑتا ہو کر اسلام کے مخالف اشتراک چھپاتا اور خدا تعالیٰ کے پاک دین کی بے ادبیوں  
 کرتا تھا اور دوسرے سب اس کے موافق اور محبت تھے۔ سو ایسا اتفاق ہوا کہ ایک مرتبہ اس نے اشتراک چھپایا اور  
 اسلام کی بہت توہین کی اور اس عاجز سے اسلام کی ہدایت کے لیے نشان چاہا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عجزت  
 پر شٹھا کیا اور دوسرے اس سے انک تھیں ہوئے بلکہ اس کے ساتھ رہے اس لیے خدا تعالیٰ نے چاہا کہ ان کو نشان  
 دکھلاوے جس سے وہ ذلیل ہوں پس اس نے اس تمام گمراہی کے حق میں بے مخلصی کے لیے کہا کہ گدہ تو اپنی اپنی  
 ذکاوت سے پیدا ہوتا ہے نہ خدا کا فضل ہے۔ **وَمَنْ يَرْجُ خَالَاتِكُمْ اللَّهُ وَ مَرْجُو خَالَاتِكُمْ لَا تَبْدِيلُ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ إِنَّهُ**  
**فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ**۔ یعنی ان لوگوں نے ہمارے نشانوں کی کذب کی اور ان سے شٹھا کیا۔ سو خدا ان کے شرور  
 کرنے کے لیے تیرے لیے کان بولا اور انہیں نشان دکھلائے گا کہ احمدیگ کی بڑی لڑکی ایک جگہ بیابھی جائے  
 گی اور خدا اس کو پھر تری طرف واپس لاتے گا یعنی آخر وہ تیرے نکل میں آئے گی۔ اور خدا سب دیکھ رہا ہے  
 سے اٹھاوے گا۔ خدا کی باتیں ٹل نہیں سکتیں۔ تیرا رب ایسا قادر ہے کہ جس کام کا وہ ارادہ کرے اس کام کو وہ اپنے

نوٹ ۱۔ اس مروت اللہ سے تو سارا قرآن اور پی سادھی کتابیں ہمیں ہیں کہ عذاب کی پیشگوئیوں کی عادت تو باہر استفادہ  
 سے اور حق کی حکمت کا خوف اپنے دل پر ڈالنے سے ملتی رہی ہے۔ جیسا کہ یونس نبی کا قصہ ہی اس پر شہید ہے۔ جس کی قوم کو  
 یقینی طور پر بغیر بیان کی شرط کے چالیس دن کی عذاب بتائی گئی تھی، لیکن حضرت قوم سے نے کہنا ہے نبی صلعم جگہ میں کوئی تکبر کی  
 نبی کے عذاب میں نہیں ہے گی اور وہ کسی زبان کتاب میں اس کا پتہ ہے گا کہ کسی شخص یا کسی قوم نے خدا کی خبر سن کر اور اس کی عذاب سے  
 مطلع ہو کر قبل نزول عذاب تو بہ اور خوف الہی کی طرف رجوع کیا ہوا اور پھر بھی ان پر پھر عذاب سے ہوا یا اللہ کسی عذاب سے وہ  
 ہلکے گئے ہوں اور اگر کسی کی نظر میں کوئی بھی تفسیر ہو تو پیش کہہ اور ہو سکے کہ وہ ہرگز کسی زبان کتاب سے پیش نہیں کر سکے گا  
 پس ہر حق ایک تفسیر عذاب سے انکار کر کے اپنے تئیں جنم کا بندھن بنائیں۔ نہ

نشا کے موافق ضرور پورا کرتا ہے۔ سو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ اس قوم کے لیے نشان تھا جو میاکی اور نافرینی اور  
 ٹھٹھے میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تھے اور اس امام کی تئیں یعنی فقو فسلیکینکم اٹھ کی شرح دوسرے اماموں سے  
 یہ معلوم ہوتی تھی کہ خدا تعالیٰ احمدیگ کو نکاح سے تین سال کے اندر بیکہ بہت قریب موت دے گا اور اس کے  
 داماد کو اٹھائی سال کے اندر روز نکاح سے وفات دے گا اور جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں احمدیگ میعاد کے  
 اندر یعنی روز نکاح سے چھ ماہ بعد وفات پا گیا اور اس نے ڈرنے والے امام کی کیفیت دیکھ لی جو اس کو  
 ستایا گیا تھا۔ ویسا ہی اس کے مدین اقارب کو اس کے مرنے کا مدد کال طور پر پہنچی گیا۔ لیکن اس کا داماد  
 جو زحانی سال کے اندر فوت نہ ہوا تو اس کی یہی وجہ تھی جو اس عبرت انگیز واقعہ کے بعد جو احمدیگ اس کے  
 خسر کی وفات تھی ایک شدید خوف اور حزن اس کے دل پر وارد ہو گیا۔ اور نہ صرف اس کے دل پر بلکہ اس کے تمام  
 متعلقین کو اس خوف اور حزن نے گھیر لیا اور یہ بات ظاہر ہے کہ جب دو آدمی کی موت ایک ہی پیشگوئی میں بیان  
 کی گئی ہو اور ایک ان میں سے میعاد کے اندر مر جائے تو وہ جو دوسرا باقی ہے اس کی بھی کڑوٹ جاتی ہے کیونکہ ایک  
 ہی موت کے دونوں بیٹے تھے۔ پس جو زہرہ رہ گیا ہے وہ جب ایسی موت کو دیکھتا ہے ایک ایسا جانکام غم اس کو  
 پکڑ لیتا ہے کہ اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ یعنی وہ بھی قریب قریب میت ہی کے ہوتا ہے۔ سو ایک داماد سوچ  
 سکتا ہے کہ احمدیگ کے مرنے کے بعد جس کی موت پیشگوئی کی ایک جزو تھی وہ سری جزو اسے کا کیا حال ہوا ہوگا  
 گویا وہ جینا ہی مر گیا ہوگا۔ چنانچہ اس کے بزرگوں کی طرف سے دو خطا ہیں۔ پہلے جو ایک حکیم صاحب باشندہ  
 دہر کے ہاتھ سے لکھے ہوئے تھے جن میں انہوں نے اپنے توبہ اور استغفار کا حال لکھا ہے سو ان تمام  
 قرآن کو دیکھ کر میں یقین ہو گیا تھا کہ تاریخ وفات سلطان محمد قائم نہیں رہ سکتی کیونکہ ایسی تاریخیں جو تعریف  
 اور انذار کے نشانوں میں سے ہوتی ہیں ہمیشہ بطور تقدیر معلق کے ہوتی ہیں اور سلطان محمد اور اس کے اقارب  
 اس لیے جمع ٹھہر گئے کہ انہوں نے یہ گناہ کیا کہ ان کو ہم نے بار بار بساطت بعض مخلصوں اور نیز خطوط کے ذریعہ  
 سے بہت کھول کر سنا دیا تھا کہ یہ پیشگوئی ایک قوم سرکش کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے تم ان کے ساتھ مل کر  
 ویسے ہی مستوجب مذاب مت بنو مگر چونکہ وہ بھی سخت دل اور دنیا پرست تھے اس لیے انہوں نے نہ مانا اور  
 اسی طرح ٹھٹھا اونٹنی کی اور اپنی میاکی سے اس رشتہ سے دستکش نہ ہوئے۔ مگر احمدیگ کی وفات کے بعد  
 ان کے دلوں پر سخت رعب طاری ہوا اور انہوں نے ربانی پیشگوئی کے خوف و غم کو کسی قدر اپنے دلوں پر  
 قابو کر لیا۔ اور اگرچہ سخت دل بہت تھے لیکن احمدیگ کے مرنے نے ان کی کمر توڑ دی اور اسی وجہ سے ان کی طرف  
 سے عند اللہ شہانی کے خط بھی پہنچے اللہ جگہ وہ اپنے دلوں میں بہت ڈرے اور سخت ہل ساں ہوتے پس ضرور تھا  
 کہ خدا تعالیٰ اپنی سنت قدیم کے موافق ہمیں مذاب کو گئی اور موقع پر ظالم دسے یعنی ان دنوں پر جبکہ وہ لوگ اپنی  
 حالت میاکی اور کبر اور غفلت کی طرف کال طور سے رجوع کر میں کیونکہ مذاب کی میعاد ایک تقدیر معلق ہوتی ہے

جو خوف اور رجوع سے دوسرے وقت پر جا پڑتی ہے جیسا کہ تمام قرآن اس پر شاہد ہے۔ لیکن نفس پیشگوئی یعنی اس عورت کا اس عاجز کے نکاح میں آنا یہ تقدیر مبرا ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتی۔ کیونکہ اس کے لیے اہم الٹی میں یہ فقرہ موجود ہے کہ لا تبدل لکلمات اللہ یعنی میری یہ بات ہرگز نہیں ٹلے گی۔ پس اگر ٹل جائے تو خدا تعالیٰ کا کلام باطل ہوتا ہے۔ سو ان دنوں کے بعد جب خدا تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں کو دیکھے گا کہ سخت ہو گئے اور انہوں نے اس ڈیل اور ملت کا قدر نہ کیا جو چند روز تک ان کو دی گئی تھی تو وہ اپنی پاک کلام کی پیشگوئی پوری کرنے کے لیے توجہ ہوگا اور اسی طرح کریگا جیسا کہ اس نے فرمایا کہ میں اس عورت کو اس کے نکاح کے بعد واپس لاؤں گا اور تجھے دوں گا اور میری تقدیر کبھی نہیں بدے گی اور میرے آگے کوئی بات انہونی نہیں اور میں سب روکوں کو اٹھا دوں گا جو اس حکم کے تعاوضے سے مانع ہوں۔ اب اس عظیم نشان پیشگوئی سے ظاہر ہے کہ وہ کیا کرے گا اور کون کون سی قہری قدرت دکھلائے گا اور کس کس شخص کو روک کی طرح سمجھ کر اس دنیا سے اٹھائے گا۔ یہ وہ پیشگوئی ہے جو قریباً سات برس سے شروع ہو چکی ہے اور اس وقت سے بذریعہ اشتہارات شائع ہے جبکہ احمد بیگ کی دختر کا سلطان محمد سے ناٹھ بھی نہیں ہوا تھا بلکہ کسی کے خیال میں بھی نہیں تھا کہ اس جگہ ناٹھ ہوگا۔ سو خدا نے نذر رکھی تو اس عورت کے نکاح کے بعد اٹھائیں یعنی احمد بیگ اور اس کی دو ہمشیرہ کو جو سخت مانع تھی اس دنیا سے اٹھایا۔ باقی جو کچھ خدا تعالیٰ کریگا لوگ دیکھیں گے۔ یہ نشان ہے جو ایسے لوگوں کو دیا جائے گا جو ہمارے قوم اور کتب سے خدا سے اور خدا کے دین سے حکر اور اس غفلت خانہ سے محبت لگائے بیٹھے ہیں، لیکن اب ہتیرے جاہل اس میعاد گزرنے کے بعد سہی کریں گے اور اپنی بدنہی سے صادق کا نام کاذب رکھیں گے لیکن وہ دن جلد آتے جاتے ہیں کہ جب یہ لوگ شرمندہ ہوں گے اور حق ظاہر ہوگا اور سچائی کا نور چلے گا اور خدا تعالیٰ کے غیر متبدل وعدے پورے ہو جائیں گے۔ کیا کوئی زمین پر رہے جو ان کو روک سکے؟ بد بخت انسان بدلتی کی طرف جلدی کرتا ہے۔ اور عظیم طبیعت اور عمیق فکر کے ساتھ نہیں سوچتا۔

اسے بد فطرتو! اپنی فطرتیں دکھلاؤ۔ لعنتیں بھیجو، ٹھٹھے کرو اور صادقوں کا نام کاذب اور درد منگو رکھو، لیکن عنقریب دیکھو گے کہ کیا ہوتا ہے۔ تم ہم پر لعنت کرو تا فرشتے تم پر لعنت کریں۔ میں نے

لے نوٹ ہے۔۔ جاننا چاہیے کہ اسوی پیشگوئیاں میں منجملہ صدی علوم کے ایک عظیم نشان ہے جو زبانی کتاب کی سنتوں اور عقول سے باہر نہیں ہو سکتیں اور جو لوگ ان کی نسبت کچھ مائے ظاہر کریں ان پر فریض ہے کہ چلے زبانی کتاب کا علم ان کو حاصل ہو کیونکہ چنگوئیوں الی کتاب کے زیر سایہ چلتی ہیں۔ نہ

۱۶۲

وتواترت ریح دفر کم۔ فہمت ان النصح لا یأخذ فیکم ولا ینفعکم قول قاصح کما لا ینفع المتمردين۔ فتأوتت أمة الشکلان وعینای تحملان ودعوت الله ایاماً مجدداً وقیاماً وخررت امام حضرتہ واستطرحت بین یدیه مبتغياً الیه اذیال وسیلتہ ورفعت صرخی کحقیرة المتألمین۔

فری الله برحائی واعتداء اعدائی وقله اخلائی وبشرنی بفتوحات و آیات و کرامات و منق علی بتأییدہ المبین۔ فمنها ما وعدنی ربی فی عشیرتی الاقربین۔ انهم كانوا یکنون بآیات الله وكانوا بها یستهزؤون ویكفرون بالله ورسوله وقالوا لا حاجة لنا الی الله ولا الی کتابه ولا الی رسوله خاتم النبیین وقالوا لا تقبل آیه حتی یرینا الله آیه فی انفسنا وانا لانومن بالفرقان ولا نعلم ما الرسالة وما الا یمن وانا من الکافرين فدعوت ربی بالتضرع والابتهال ومددت الیه ایدی السوال فالهمنی ربی وقال ساریهم آیه من انفسهم واخبرنی وقال اننی سأجعل بنتاً من بناتهم آیه لهم۔ فسماها وقال انها سيجعل ثیبة ویموت بعلمها و ابرها الی ثلث سنة من یوم النکاح ثم نردها الیک بعد موتها ولا یكون احد هما من العاصین وقال انک اترادوها الیک لا تبدل لکلمات الله بن ربک فقال لما یرید لقد ظهر احد وعده و مات ابو عافی وقت موعود فکونوا الوعدہ الآخر من المنتظرین فتاملوا فی هذا تامل المنتقد وانظروا بالمصباح المنتقد هل هو فعل الله تعالی اذ کید المفسرین۔ وهل یجوز ان یتجیب الله دعاء لحد کافر کما یتجیب دعاء المقبولین۔ وكيف یخفی امر رجل یمیت الله لاجل اعزازہ واجلاله رجلین ویمجله فی انبأه الغیبیة من الصادقین ان الله لا ینظر علی غیبه احد الا من ارتضى من رسول الذي ارسله لاصلاح المخلوق فی زمی الانبیاء والمهدثین۔ ومنها ما وعدنی ربی واستجاب دعائی فی رجل مفسد عدو الله ورسوله السمی لیکهرام الفشاردی واخبرنی انه من الهالکین۔ انه

۳۲۲

فکر رہیہ کہ اللہ جل شانہ، خوب جانتا ہے کہ میں اپنے دعویٰ میں صادق ہوں نہ مفتری ہوں نہ دجال نہ کذاب۔ اس زمانہ میں کذاب اور دجال اور مفتری پہلے اس سے کچھ تصور سے نہیں تھے تا خدا تعالیٰ صدی کے سر پر بھی بجائے ایک مجدد کے جو اسکی طرف سے مبعوث ہو۔ ایک دجال کو قائم کر کے اور بھی فتنہ اور فساد ڈال دیتا مگر جو لوگ سچائی کو نہ سمجھیں اور حقیقت کو دریافت نہ کریں اور تکفیر کی طرف دوڑیں میں اُنکا کیا علاج کرؤں۔ میں اُس بیمار دار کی طرح جو اپنے عزیز بیمار کے غم میں مبتلا ہوتا ہے اس ناشناس قوم کے نئے سخت اندوہگین ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اسے قادر ذوالجلال خدا۔ اسے ہادی اور رہنما ان لوگوں کی آنکھیں کھول اور آپ ان کو بصیرت بخش اور آپ ان کے دلوں کو سچائی اور راستی کا الہام بخش اور یقین رکھتا ہوں کہ تیری ذناب میں خطا نہیں جائیں گی۔ کیونکہ میں اُس کی طرف سے ہوں اور اُس کی طرف بلاتا ہوں یہ سچ ہے کہ اگر میں اُس کی طرف سے نہیں ہوں اور ایک مفتری ہوں تو وہ بڑے عذاب سے مجھ کو ہلاک کرے گا۔ کیونکہ وہ مفتری کو کبھی وہ عزت نہیں دیتا کہ جو صادق کو دیتی ہے۔ میں نے جو ایک پیشگوئی چسپراپ نے میرے صادق اور کاذب ہونے کا حصر کر دیا آپکی خدمت میں پیش کی ہے یہی میرے صادق اور کذاب کی شناخت کیلئے ایک کافی شہادت ہے کیونکہ ممکن نہیں کہ خدا تعالیٰ کذاب اور مفتری کی مدد کرے۔ لیکن ساتھ اس کے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اس پیشگوئی کے متعلق دو پیشگوئی اور ہیں جن کو میں اسی شہادت ۱۸۸۸ء میں شائع کر چکا ہوں جن کا مضمون یہی ہے کہ خدا تعالیٰ اُس عورت کو بیوہ کر کے میری طرف رد کرے گا۔ اب انصاف سے دیکھیں کہ نہ کوئی انسان اپنی حیات پر اتماد کر سکتا ہے اور نہ کسی دوسرے کی نسبت دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ فلاں وقت تک زندہ رہے گا۔ یا فلاں



وقت تک مرجائیگا۔ مگر میری اس پیشگوئی میں نہ ایک بلکہ چھ دعوے ہیں۔ اول نکاح کے وقت تک میرا زندہ رہنا۔ دوم نکاح کے وقت تک اس لڑکی کے باپ کا یقیناً زندہ رہنا۔ سوم پھر نکاح کے بعد اس لڑکی کے باپ کا جلدی سے مرنا جو تین برس تک نہیں پہنچے گا۔ چہاں ہم اس کے خاوند کا اڑھائی برس کے عرصہ تک مر جانا۔ چہنچہم اس وقت تک کہ میں اس سے نکاح کروں اس لڑکی کا زندہ رہنا۔ ششم پھر آخر یہ بیوہ ہونے کی تمام رسموں کو توڑ کر باوجود سخت مخالفت اُسکے اقارب کے میرے نکاح میں آجانا۔ اب آپ ایمانائے کہیں کہ کیا یہ باتیں انسان کے اختیار میں ہیں اور ذرہ اپنے دل کو تھام کر سوچ لیں کہ کیا ایسی پیشگوئی سچے ہو جانے کی حالت میں انسان کا فعل ہو سکتی ہے۔ پھر اگر اس پیشگوئی پر جو لڑکی کے باپ کے متعلق ہے جو بہر ستمبر ۱۹۵۲ء کو پوری ہو گئی آپ کا دل نہیں ٹھہرتا تو آپ اشاعرہ السنہ میں ایک اشتہار حسب اپنے اقرار کے دیدیں کہ اگر یہ دوسری پیشگوئیاں بھی پوری ہو گئیں تو اپنے ظنون باطلہ سے توبہ کرونگا اور دعوے میں سچا سمجھ لوں گا اور ساتھ اس کے خدا تعالیٰ سے ڈر کر یہ بھی اقرار کر دیں کہ ایک تو ان میں سے پوری ہو گئی اور اگر اس پیشگوئی کے پورا ہو جانے کا آپ کے دل میں زیادہ اثر نہ ہو تو اس قدر تو ضرور چاہیے کہ جب تک اخیر ظاہر نہ ہو کف انسان اختیار کریں جب ایک پیشگوئی پوری ہو گئی تو اُسکی کچھ تو ہمیت آپ کے دل پر چاہیے۔ آپ تو میری ہلاکت کے منتظر اور میری رسوائی کے دنوں کے انتظار میں ہیں اور خدا تعالیٰ میرے دعویٰ کی سچائی پر نشان ظاہر کرتا ہے اگر آپ اب بھی نہ مانیں تو میرا آپ پر زور ہی کیسا ہے لیکن یاد رکھیں کہ انسان اپنے اوائل ایام انکار میں باعث کسی اشتباہ کے معذور ٹھہر سکتا ہے لیکن نشان دیکھنے پر ہرگز معذور نہیں

۲۸۷

شاہی خاندان ہے اور بنی فارس اور بنی فاطمہ کے خون سے ایک سجدون مرکب ہے۔ یا شہرت عام کے لحاظ سے یوں کہو کہ وہ خاندان مغلیہ اور خاندان سیاد سے ایک ترکیب یافتہ خاندان ہے۔ مگر میں اسپر ایمان لاتا اور اسی پر یقین رکھتا ہوں کہ ہمارے خاندان کی ترکیب بنی فارس اور بنی فاطمہ سے ہے۔ کیونکہ اسی پر الہام الہی کے تواتر نے مجھے یقین دلایا ہے اور گواہی دی ہے۔

۵۰ ایک دفعہ جس کو قریباً اکیس برس کا عرصہ ہوا ہے مجھ کو یہ الہام ہوا اشکر نعمتی ربیت خدیجتی انک الیوم لذو حظ عظیم۔ ترجمہ۔ میری نعمت کا شکر کر۔ تو نے میری خدیجہ کو پایا آج تو ایک حظ عظیم کا مالک ہے۔ براہین احمدیہ صفحہ ۵۵۸۔ اور اسی زمانہ کے قریب ہی یہ بھی الہام ہوا تھا بکر و ثیب یعنی ایک کنواری اور ایک بیوہ تمہارے نکاح میں آئے گی۔ یہ مؤخر الذکر الہام مولوی محمد حسین بٹالوی ایڈیٹر اشاعت السنۃ کو بھی سنا دیا گیا تھا۔ لیکن الہام مذکورہ بالا جس میں خدیجہ کے پانے کا وعدہ ہے۔ براہین احمدیہ کے صفحہ ۵۵۸ میں درج ہو کر نہ صرف محمد حسین بلکہ لاکھوں انسانوں میں اشاعت پانچا تھا۔ ہاں شیخ محمد حسین مذکور ایڈیٹر اشاعت السنۃ کو سب سے زیادہ اس پر اطلاع ہے۔ کیونکہ اُس نے براہین احمدیہ کے چاروں حصوں کا ریویو لکھا تھا اور اسکو خوب معلوم تھا کہ ان صفات کی ایک بکرہ بیوی کا وعدہ دیا گیا ہے۔ جو خدیجہ کی اولاد میں سے یعنی سید ہوگی۔ جیسا کہ الہام موصوفہ بالا میں آیا ہے۔ کہ تو میرا شکر کر اس لئے کہ تو نے خدیجہ کو پایا یعنی تو خدیجہ کی اولاد کو پائے گا۔ اسی کی تائید میں وہ الہام ہے جو براہین احمدیہ کے صفحہ ۴۹۲ حاشیہ دوم اور صفحہ ۴۹۶ میں درج ہے اور وہ یہ ہے۔ ارددت ان استخلف فخلقت آدم۔

۱۵۹

یہ حوالہ صفحہ 325 پر درج ہے

تریاق القلوب صفحہ 159 مندرجہ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 287 از مرزا قادیانی

انسان کے اختیار میں ہو بلکہ محض اللہ جل شانہ کے اختیار میں ہیں سو اگر کوئی طالب حق ہے تو ابن پیشگوئیوں کے وقتوں کا انتظار کرے۔ یہ تینوں پیشگوئیاں ہندوستان اور پنجاب کی تینوں بڑی قوموں پر حاوی ہیں یعنی ایک مسلمانوں سے تعلق رکھتی ہو اور ایک ہندوؤں سے اور ایک عیسائیوں سے اور انہیں سو وہ پیشگوئی جو مسلمان قوم سے تعلق رکھتی ہو بہت ہی عظیم الشان ہو کیونکہ اسکے اجزایہ میں (۱) کہ مرزا احمد بیگ ہو شیار پوری تین سال کی میعاد کے اندر فوت ہو (۲) اور پھر داماد اس کا جو اسکی دختر کلاں کا شوہر ہے اڑھائی سال کے اندر فوت ہو (۳) اور پھر یہ کہ مرزا احمد بیگ تاروڑ شادی دختر کلاں فوت نہ ہو (۴) اور پھر یہ کہ وہ دختر بھی تانکھ اور تا ایام بیوہ ہونے اور نکاح ثانی کے فوت نہ ہو (۵) اور پھر یہ کہ یہ عاجز بھی ان تمام واقعات کے پورے ہونے تک فوت نہ ہو (۶) اور پھر یہ کہ اس عاجز سے نکاح ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تمام واقعات انسان کے اختیار میں نہیں۔

اور اگر اب بھی یہ تمام ثبوت میاں عطا محمد صاحب کے لئے کافی نہ ہوں تو پھر طریق پہلے سے کہ اس تمام رسالہ کو غور سے پڑھنے کے بعد بذریعہ کسی چھپے ہوئے اشتہار کے مجھ کو اطلاع دیں کہ میری تسلیٰ ابن امور سے نہیں ہوئی اور میں ابھی تک افترا سمجھتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ میری نسبت کوئی نشان ظاہر ہو تو میں انشاء اللہ القدر انکے بارہ میں توجہ کرونگا اور میں یقین رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کسی مخالف کے مقابل پر مجھے مغلوب نہیں کریگا کیونکہ میں اسکی طرف سے ہوں اور انکے دین کی تجدید کیلئے انکے حکم سے آیا ہوں لیکن چاہئے کہ وہ اپنے اشتہار میں مجھے عام اجازت میں کہیں طور سے نہیں انکے حق میں الہام پاؤں اسکو شائع کرادوں اور مجھے تعجب ہے کہ جس حالت میں مسلمانوں کو کسی جتدو کے ظاہر ہونے کے وقت خوش ہونا چاہیے یہ تیغ و تاب کیوں ہو اور کیوں انکو برا لگا کہ خدا تعالیٰ نے اپنے دین کی محبت پوری کرنے کیلئے ایک شخص کو مامور کر دیا ہے لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ حال کے اکثر مسلمانوں کی ایمانی حالت نہایت ردی ہو گئی ہو اور فلسفہ کی موجودہ زہرنے انکے اعتقاد کی بیگنی کر دی ہو انکی زبانوں پر بیشک اسلام ہو لیکن دل اسلام سے بہت دور جا رہے

لہذا اللہ سے لیکر رکھتی ہے کہ طبع بار دوم میں موجود نہیں۔ شمس

اگر اب بھی عیسائی باز نہ آویں تو بہتر ہے کہ ہم اور ان کے چند سرگروہ مباحلہ کے طور پر میدان میں آکر خدا کے انصاف سے فتویٰ لے لیں۔ جھوٹے پر بغیر تعین کسی فریق کے لعنت کرنا کسی مذہب میں ناجائز نہیں۔ نہ ہم میں نہ عیسائیوں میں نہ یہودیوں میں۔ یہی وجہ ہے کہ پادری و ایٹ بریخت شمد جانے سے کچھ عرصہ پہلے چند اپنے عیسائیوں کے ساتھ قادیان میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ آتم نہیں مہا میں نے کہا کہ اس نے اسلامی پیشگوئی سے ڈر کر پیشگوئی کی شرط سے نادمہ اٹھایا۔ اور خود اقرار کیا کہ میں ڈرتا ہوں اور ان حملوں کا ثبوت نہ دے سکا تو ڈرنے کی وجہ ٹھہرائی۔ وایٹ نے کہا کہ لعنت اللہ علیٰ کاذبین۔ یعنی جھوٹوں پر لعنت ہو۔ میں نے کہا کہ بیشک جھوٹوں پر لعنت وارد ہوگی۔ اگر آتم جھوٹا ہے یا میں تو خدا اس کا فیصلہ کر دیگا۔ چنانچہ تھوڑے عرصہ کے بعد اس لعنت کا اثر آتم پر وارد ہو گیا۔

کہ اب میں کذاب کہلا کر اپنی قوم کی طرف واپس نہیں جاؤں گا اور دوسری راہ لی۔ دیکھو تفسیر و منشور تحت تفسیر آیت مغاضباً۔ اور دیکھو صفحہ ۱۱۱ اشتہار چہارم انعامی چلو ہزار روپیہ۔ ہم اب بڑے حضرت مسیح کے ہی نصف ٹھہرتے ہیں کہ کیا آپ کہہ سکتے ہیں۔ کہ خدا کا یہ ایہام جھوٹا نکلا اور غوراً باقتضیٰ کذاب تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا علم اکثر لوگوں سے جا تا رہا ہے اور نظائر بحیثیت بھی کہلاتے ہیں۔ مگر حدیثوں کے مغز سے ناواقف ہیں۔ ہم بار بار لکھ چکے ہیں۔ کہ انہی قصوں کے خلف سے اہل سنت کا یہ عام عقیدہ ہے کہ وعید کی میعاد کی تاخیر کسی سبب تو بہ یا خوف کی وجہ سے جائز ہے۔ کس قدر خسوں کی بات ہے کہ مسلمان کہلا کر ادا ان احادیث کو پڑھ کر پھر اس پیشگوئی کی تکذیب کی جائے جو اس کی پیشگوئی سے ہم شک ہے اور ایسے امد میں اس عاجز کو کذاب ٹھہرایا جائے

ہمیں میں دوسرے ذہنی ذہنی شریک ہیں

میں بار بار کہتا ہوں کہ نفس پیشگوئی داماد احمد بیگ کی تقدیر میرے ہے امن کی انتظار کرو۔ اور اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیشگوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آجائے گی۔ اور اگر میں سچا ہوں تو خدا تعالیٰ ضرور اس کو سچا ہی پوری کر دے گا جیسا کہ احمد بیگ اس آتم کی پیشگوئی پوری ہو گئی۔ اصل دعا تو نفس مفہوم ہے۔ اور دوسروں میں تو کسی مستند کامی دل ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنی بعض پیشگوئیوں میں دنوں کے سال نائے گئے ہیں جو بہت خدا کی ہوت سے ٹھہر چکی ہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ نہ شرم کنی چاہئے کہ جس حالت میں خود احمد بیگ اس پیشگوئی کے مطابق میعاد کے اندر فوت ہو گیا اور وہ پیشگوئی کے اول نیرے تھا تو پھر اگر خدا کا خوف ہو تو اس پیشگوئی کے نفس مفہوم میں شک کیا جاوے۔ کیونکہ ایک وقوع یا قہر امر کی۔ دوسری ٹی ہے۔ جس حالت میں خدا اور رسول

۴۴۰  
تفسیر

ان اللہ علیٰ عقبائک ۱۸۸۶ء میں ہوا تھا اس میں صریح شرط توبہ کی موجود تھی۔ اور الہام کتباً تو ابائتسنا اس شرط کی طرف ایسا کر رہا تھا۔ پس جبکہ بغیر کسی شرط کے یونس کی قوم کا عذاب نازل گیا۔ تو شرطی پیشگوئی میں ایسے خوف کے وقت میں کیوں تاخیر ظہور میں نہ آتی۔ یہ اعتراض کیسی بے ایمانی ہے جو تعصب کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ میں نے نیبوں کے حوالے بیان کر دیئے۔ حدیثوں اور آسمانی کتابوں کو آگے رکھ دیا۔ مگر یہ نابکار تو ہم بھی تک حیا اور شرم کی طرف رخ نہیں کرتا۔

یاور کھو کہ اس پیشگوئی کی دوسری جز پوری نہ ہوئی تو میں ہر یک بد سے

بدتر ٹھہروں گا۔ اسے احمقو ایہ انسان کا افترا نہیں۔ یہ کسی خبیث مغتری کا کاروبار نہیں۔ یقیناً کچھ کر یہ خدا کا سچا وعدہ ہے وہی خدا جس کی باتیں نہیں ملتیں۔ وہی رب ذوالجلال جس کے ازادوں کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس کی سنتوں اور طریقوں کا تم میں علم نہیں رہا۔ اس لئے تمہیں یہ ابتلا پیش آیا۔

براہین احمدیہ میں بھی اس وقت سے سترہ برس پہلے اس پیشگوئی کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔

جو اس وقت میرے پرکھ لایا گیا ہے اور وہ یہ الہام ہے جو براہین کے صفحہ ۲۹۶ میں مذکور ہے۔

یا آدم اسکن انت و زوجک الجنة۔ یا مریم اسکن انت و زوجک الجنة۔

یا احمد اسکن انت و زوجک الجنة۔ اس جگہ تین جگہ زوج کا لفظ آیا۔ اور تین نام اس

عاجز کے رکھے گئے۔ پہلا نام آدم۔ یہ وہ ابتدائی نام ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے اس عاجز

کو روحانی وجود بخشا۔ اس وقت پہلی زوجہ کا ذکر فرمایا۔ پھر دوسری زوجہ کے وقت میں مریم نام رکھا

کیونکہ اس وقت مبارک اولاد دی گئی جس کو مسیح سے مشابہت ملی۔ اور نیز اس وقت مریم کی طرح کئی

ابتلا پیش آئے جیسا کہ مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت یہودیوں کی بدظنیوں کا ابتلا پیش آیا

اور عیسوی زوجہ جس کی انتظار ہے۔ اس کے ساتھ احمد کا لفظ شامل کیا گیا۔ اور یہ لفظ احمد اس

بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت احمد اور تعریف ہمگی۔ نیز ایک چھپی ہوئی پیشگوئی ہے۔ جس کا ہنر

اس وقت خدا تعالیٰ نے مجھ پر کھول دیا۔ غرض یہ تین مرتبہ زوج کا لفظ تین مختلف نام کے ساتھ

جو بیان کیا گیا ہے وہ اسی پیشگوئی کی طرف اشارہ تھا۔

کو نہیں سمجھتے کہ انسان کی قہر میں یہ بھی ایک خاصہ ہے کہ وہ باوجود شقی ازلی ہونے کے شدت خوف اور ہول کے وقت میں خدا تعالیٰ کی طرت رجوع کرتا ہے لیکن اپنی شقاوت کی وجہ سے پھر بلا سے رہائی پا کر اس کا دل سخت ہو جاتا ہے جیسے فرعون کا دل ہر یک ربانی کے وقت سخت ہوتا رہا سو ایسے رجوع کا نام خدا تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں منافقانہ رجوع نہیں رکھا کیونکہ منافق کے دل میں کوئی سچا خوف نازل نہیں ہوتا اور اس کے دل پر حق کا رعب اثر نہیں ڈالتا لیکن اس شقی کے دل میں وہ است کی عظمت کو خیال میں لاکر ایک سچا خوف چنگوٹی کے مننے کے وقت میں نال ہال میں پھر جاتا ہے مگر جو کہ شقی ہے اس لئے یہ خوف اسی وقت تک رہتا ہے جب تک کہ نازل غلب کا اس کو اندیشہ ہوتا ہے اس کی مثالیں قرآن کریم اور ماہل میں بجزرت ہیں جو کہ ہم نے رسالہ انوار الاسلام میں تفصیل لکھ چاہے غرض منافقانہ رجوع کی حقیقت رجوع نہیں ہے لیکن جو خوف کے وقت میں ایک شقی کے دل میں دفنی طور پر ایک ہر ایک اماندیشہ پیدا ہو جاتا ہے اس کو خدا تعالیٰ نے رجوع میں ہی داخل رکھا ہے اور سنت اللہ نے ایسے رجوع کو ذیوی غلب میں تاخیر کرنے کا موجب بنا دیا ہے گو انہوی غلب ایسے رجوع سے نکل نہیں سکتا مگر ذیوی غلب ہمیشہ ٹھنڈا ہے اور دوسرے وقت پر پڑتا رہتا ہے قرآن کو غلب سے دیکھو وہ چہالت کی باتیں مت کرو وہ زیادہ ہے کہ آیتہ من یؤخر اللہ عنہ فمما عنہم من یشاء لیس لہم علیہ جہالت کی باتیں اس آیت کا فہم علیہ ہے کہ جب تقدیر میرم آجاتی ہے تو نہیں سکتی مگر اس جگہ بحث تقدیر معنی میں ہے جو مشرک و شرکاء کے ہے جبکہ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں آپ فرماتا ہے کہ میں اتنا روز مضرب اور غیر خوف کے وقت میں عذاب کو گنار کے سر پر سے نال دیتا ہوں اور اتنا ہوں میں اس سے بڑھ کر سچا گواہ اور کون ہے جس کی تہادت قبول کی جائے۔

۱۷۱ ساتواں اعتراض یہ ہے اگر رجوع کے بعد عذاب نل نکلتا ہے تو یہ بھی

کذاب ٹھہر چکا۔ جبکہ وہ سُن چکے تھے کہ قوم نے توبہ کی اور ایمان لے آئی۔ پس اگر یہ شرط بھی ان کی دہی میں داخل ہوتی تو ان کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ پیشگوئی پوری ہوتی نہ یہ کہ وہ وطن چھوڑ کر ایک بھاری مصیبت میں اپنے تئیں ڈالتے۔ قرآن کا لفظ لفظ اسی پر دلالت کر رہا ہے کہ وہ سخت ابتلا میں پڑے اور حدیث نے کیفیت ابتلا کی یہ بتلائی۔ پس اب بھی اگر کوئی شیخ و شاب منکر ہو تو یہ صریح اس کی گردن کشی ہے۔

اور ہم اس سمنوں کو اس پر خستہ کرتے ہیں کہ اگر ہم سچے ہیں تو خدا تعالیٰ ان پیشگوئیوں کو پورا کر دے گا اور اگر یہ باتیں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہیں تو ہمارا انجام نہایت بد ہو گا۔ اور ہرگز یہ پیشگوئیاں پوری نہیں ہوں گی وَبِتَّافَتْحِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَارِجِينَ۔ اور میں بالآخر دعا کرتا ہوں کہ اسے خدا سے قادر و عظیم اگر اہم کا عذاب مسک میں گرفتار ہونا اور احمد بیگ کی دختر کلال کا آخر اس عاجز کے نکاح میں آنا۔ یہ پیشگوئیاں تیری طرف سے ہیں تو ان کو ایسے طور سے ظاہر فرما جو خلق اللہ پر حجت ہو اور کوہ باطن ماسدوں کا منہ بند ہو جائے اور اگر اسے خداوند یہ پیشگوئیاں تیری طرف سے نہیں ہیں تو مجھے نامرادی اور ذلت کے ساتھ ہلاک کر۔ اگر تیری نظر میں مردود اور طعون اور دجال ہی ہوں جیسا کہ مخالفوں نے سمجھا ہے اور تیری رحمت میرے ساتھ نہیں جو تیرے بندہ ابراہیم کے ساتھ اور اسحق کے ساتھ اور اسمعیل کے ساتھ اور یعقوب کے ساتھ اور موسیٰ کے ساتھ اور داؤد کے ساتھ اور عیسیٰ کے ساتھ اور خیر الانبیاء محمد صلعم کے ساتھ اور اس اُمت کے اویں کرام کے ساتھ تھی تو مجھے فنا کر ڈال اور ذلتوں کے ساتھ مجھے ہلاک کر دے اور ہمیشہ کی معصوموں کا نشانہ بنا اور تمام دشمنوں کو خوش کر اور ان کی دعائیں قبول فرما، لیکن اگر تیری رحمت میرے ساتھ ہے اور تو ہی ہے جس نے مجھ کو مخاطب کر کے کہا أَنْتَ بَجِينَةٌ فِي حَضْرَتِي بِخَيْرَتِكَ لِنَفْسِي اور تو ہی ہے جس نے مجھ کو مخاطب کر کے کہا يَتَحَدَّثُكَ اللهُ مِنْ حَضْرَتِي۔ اور تو ہی ہے جس نے مجھ کو مخاطب کر کے کہا يَا عِيسَى الَّذِي لَا يُضَاعُ وَقَتُّهُ۔ اور تو ہی ہے جس نے مجھ کو مخاطب کر کے کہا - أَلَيْسَ اللهُ بِكَابٍ عَبْدًا اور تو ہی ہے جس نے مجھ کو مخاطب کر کے کہا قُلْ إِنِّي أَمْرٌ وَأَنَا أَذَلُّ الْمُؤْمِنِينَ اور تو ہی ہے جو غالباً مجھے ہر روز کتا رہتا ہے أَنْتَ مَعِي وَأَنَا مَعَكَ تو میری مدد کر اور میری حمایت کے لیے کھڑا ہو جا۔ وَإِنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَ خَيْرُ

راقہ . حصار غلام احمد از قادیان ضلع گورداسپور

۲۷ اکتوبر ۱۸۹۳ء

(تعداد اشاعت ۳۰۰) ریاض بندھتر (یہ اشتہار ۱۹۲۰ء کے ۱۶ نمبروں پر ہے)

۳۳۷

کھتی تھی کہ ان لوگوں کو احمد بیگ کی وفات کے بعد اپنے عزیز داماد کی موت کا فکر کھانے لگتا۔ اور اس طرح ہر سال ہو کر حرم الی الحق کرتے۔ کیا انسان میں یہ خاصیت نہیں کہ چشم دید تجربہ اس پر سخت اثر ڈالتا ہے سو درحقیقت ایسا ہی ہوا۔ احمد بیگ کی موت نے اس کے وارثوں کو خاک میں ملادیا۔ اور ایسے غم میں ڈاکا کہ گویا وہ مر گئے اور سخت خوف میں پڑ گئے اور دعائیں اور تضرع میں لگ گئے۔ سو ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ اس جگہ بھی تاخیر ڈالتا۔ جیسا کہ آختم کے متعلق کی پیشگوئی میں تاخیر ڈالی۔ ہم عربی مکتوب میں لکھ چکے ہیں کہ یہ پیشگوئی بھی مشروط بہ شرط تھی اور ہم یہ بھی بار بار بیان کر چکے ہیں کہ وعید کی پیشگوئی بغیر شرط کے بھی تخلف پذیر ہو سکتی ہے جیسا کہ یونس کی پیشگوئی میں ہوا۔

سو چاہیے تھا کہ ہمارے نادان مخالف انجام کے منتظر رہتے اور پہلے ہی سے اپنی بد گوہری ظاہر کرتے۔ بھلا جس وقت یہ سب باتیں پوری ہو جائیں گی۔ تو کیا اس دن یہ اتنی مخالف جیتے ہی رہیں گے اور کیا اس دن یہ تمام لڑنے والے سچائی کی تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جائیں گے ان یوقول کو کوئی بھگنے کی جگہ نہیں رہے گی۔ اور نہایت صفائی سے ناک کٹ جائے گی۔ اور ذات کے سیاہ داغ ان کے مخوس چہروں کو بندروں اور سوزوں کی طرح کر دیں گے۔ سنو! اور یاد رکھو! کہ میری پیشگوئیوں میں کوئی ایسی بات نہیں کہ جو خدا کے نبیوں اور رسولوں کی پیشگوئیوں میں ان کا نمونہ نہ ہو۔ بیشک یہ لوگ میری تکذیب کریں۔ بیشک گالیاں دیں۔ لیکن اگر میری پیشگوئیاں نبیوں اور رسولوں کی پیشگوئیوں کے نمونہ پر ہیں تو ان کی تکذیب انہیں پر رخصت ہے۔ چاہیے کہ اپنی جانوں پر رحم کریں اور دوسریا ہی کے ساتھ نہ مریں۔ کیا یونس کا قصہ انہیں یاد نہیں کہ کیونکر وہ مذاب مل گیا۔ جس میں کوئی ششما بھی نہ تھی۔ اور اس جگہ تو شرطیں موجود ہیں۔ اور احمد بیگ کے اصل وارث جن کی تفسیر کے لئے نشان تھا اس کے مرثیے بعد پیشگوئی سے ایسے متاثر ہوئے تھے کہ اس پیشگوئی کا نام لے لیکر روتے تھے اور پیشگوئی کی غفلت دیکھ کر اس گاؤں کے تمام مرد عورت کانپ اٹھتے تھے اور عورتیں صغیریں مار کر کہتی تھیں کہ ہائے وہ باتیں سچ نکلیں چنانچہ وہ لوگ اس دن تک غم اور خوف میں تھے جب تک ان کے داماد سلطان کی میعاد گند گئی پس اس تاخیر کا یہی سبب تھا جو خدا کی قدیم سنت کے موافق ظہور میں آیا۔ خدا کے البسام میں جو قوی توبی

یہ اس پیشگوئی کی تصدیق کے لئے جناب سلطان علی رضا علیہ السلام نے بھی یہی کہا ہے۔ یعنی یہ سچ ہے۔  
یہی کہتا ہے اور نیزہ صاحب لاد بوگا۔ اب ظاہر ہے کہ تدریج اور اولاد کا ذکر کرنا عام لہجہ پر مقصود نہیں کیونکہ عام طور پر ہر ایک شای کاتب اور اولاد ان کے شہادت کا جواب دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ آئیں ضرور پوری ہو گی۔

یہ حوالہ صفحہ 330 پر درج ہے

انجام آختم صفحہ 337 مندرجہ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 337 از مرزا قادیانی



ان اہل اسلام علی عقبہ ۱۳۳۶ھ میں ہوا تھا اس میں نہ تو شرط توبہ کی موجود تھی۔ اور الہام کذا ہوا یا لیتنا اس شرط کی طرف ایسا کرنا تھا پس جبکہ بغیر کسی شرط کے یونس کی قوم کا عذاب نازل گیا۔ تو شرطی پیشگوئی میں ایسے خوف کے وقت میں کیوں تاخیر ظہور میں نہ آتی۔ یہ اعتراض کیسی بے ایمانی ہے جو تہمت کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ میں نے انہیوں کے حوالے لے بیان کر دیئے۔ حدیثوں اور آسمانی کتابوں کو آگے رکھ دیا۔ مگر یہ تاہم تو ہم بھی حکم دیا اور شرم کی طرف متوجہ نہیں کیا۔

یاد رکھو کہ اس پیشگوئی کی دوسری جز پوری نہ ہوئی تو میں ہر ایک بد سے بدتر ٹھہروں گا۔ اسے احمقو! یہ انسان کا اقترا نہیں۔ یہ کسی خبیث مغتری کا کاروبار نہیں۔ یقیناً سمجھو کہ یہ خدا کا سچا وعدہ ہے وہی خدا جس کی باتیں نہیں ملتیں۔ وہی رب ذوالجلال جس کے ارادوں کو کوئی روک نہیں سکتا اس کی سنتوں اور طریقوں کا تم میں علم نہیں رہا اس لئے تمہیں یہ ابتلا پیش آیا۔

یزین احمدیہ میں بھی اس وقت سے شروع ہوا پہلے اس پیشگوئی کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ جو اس وقت میرے پرکھ لایا گیا ہے اور وہ یہ الہام ہے جو یزین کے صفحہ ۲۹۶ میں مذکور ہے۔  
یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة۔ یا منیم اسکن انت وزوجک الجنة۔  
یا احمد اسکن انت وزوجک الجنة۔ اس جگہ تین جگہ زوج کا لفظ آیا۔ اور تین نام اس عاجز کے رکھے گئے۔ پہلا نام آدم۔ یہ وہ ابتدائی نام ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے اس عاجز کو روحانی وجود بخشا۔ اس وقت پہلی زوجہ کا ذکر فرمایا۔ پھر دوسری زوجہ کے وقت میں مریم نام رکھا کیونکہ اس وقت مبارک اولاد ملی جس کو مسیح سے مشابہت ملی۔ اور نیز اس وقت مریم کی طرح کہی اور پیش آئے جیسا کہ مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت یہودیوں کی بظنیوں کا ابتلا پیش آیا اور عیسوی زچہ تیس کی انتظار ہے۔ بس کے ساتھ احمد کا لفظ شامل کیا گیا۔ اور یہ لفظ احمد اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت احمد اور تعریف ہوگی۔ یہ ایک چھپی ہوئی پیشگوئی ہے۔ جس کا بہتر اس وقت خدا تعالیٰ نے مجھ پر کھول دیا۔ غرض یہ تین مرتبہ زوج کا لفظ تین مختلف نام کے ساتھ جو بیان کیا گیا ہے وہ اسی پیشگوئی کی طرف اشارہ تھا۔

رکتی تھی کہ ان لوگوں کو احمد بیگ کی وفات کے بعد اپنے عزیز داماد کی موت کا خبر کھانے لگتا اور اس طرح ہر ماں ہو کر روع الی المتی کرتے۔ کیا انسان میں یہ خاصیت نہیں کہ چشم دید تجربہ اس پر سخت اثر ڈالتا ہے۔ سو درحقیقت ایسا ہی ہوا۔ احمد بیگ کی موت نے اس کے وارثوں کو خاک میں ملا دیا۔ اور ایسے غم میں ڈنکا کرنا وہ مر گئے اور سخت خوف میں پڑ گئے اور دماغ میں اور تصرف میں لگ گئے۔ سو ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ اس جگہ بھی تاخیر ڈالتا۔ جیسا کہ آئتم کے متعلق کی پیشگوئی میں تاخیر ڈالی۔ ہم عربی مکتوب میں لکھ چکے ہیں کہ یہ پیشگوئی بھی مشروط بہ شرط تھی اور ہم یہ بھی بار بار بیان کر چکے ہیں کہ وحید کی پیشگوئی بغیر شرط کے بھی تخلف پذیر ہو سکتی ہے جیسا کہ رنس کی پیشگوئی میں ہوا۔

سو چاہیے تھا کہ ہمارے نادان مخالف انجام کے منتظر رہتے اور پہلے ہی سے اپنی بدگہری ظاہر کرتے۔ بھلا جس وقت یہ سب باتیں پوری ہو جائیں گی۔ تو کیا اس دن یہ الحق مخالف جیتے ہی رہیں گے اور کیا اس دن یہ تمام لڑنے والے سچائی کی تلوار سے محوئے بخشے نہیں ہو جائیں گے ان پر تو کوئی بھلا گئے کی جگہ نہیں رہے گی۔ اور نہایت صحیفائی سے ناک کٹ جائے گی۔ اور ذات کے سیاہ داغ ان کے مخوس چہروں کو بندروں اور سوزوں کی طرح کر دیں گے۔ سنو! اور یاد رکھو کہ میری پیشگوئیوں میں کوئی ایسی بات نہیں کہ جو خدا کے نبیوں اور رسولوں کی پیشگوئیوں میں ان کا نمونہ نہ ہو۔ بیشک یہ لوگ میری تکذیب کریں۔ بیشک لیاں دیں۔ لیکن اگر میری پیشگوئیاں نبیوں اور رسولوں کی پیشگوئیوں کے نمونہ پر ہیں تو ان کی تکذیب انہیں پر رخت ہے۔ چاہیے کہ اپنی جانوں پر رحم کریں اور ڈوسیا ہی کے ساتھ نہ مریں۔ کیا رنس کا حقہ انہیں یاد نہیں کہ کیوں کہ وہ مناب مل گیا جس میں کوئی شمشاد بھی نہ تھی۔ اور اس جگہ تو شرطیں موجود ہیں۔ اور احمد بیگ کے مثل وارث جن کی تنبیہ کے لئے یہ نشان تھا اس کے مرنے کے بعد پیشگوئی سے ایسے متاثر ہوئے تھے کہ اس پیشگوئی کا نام لے لیکر روتے تھے اور پیشگوئی کی عظمت دیکھ کر کہاں گاؤں کے تمام مرد عورت کانپ اٹھتے تھے اور عورتیں جنہیں یاد کر کہتی تھیں کہ کھائے وہ باتیں سچ نکلیں چنانچہ وہ لوگ اس دن تک غم اور خوف میں تھے جب تک ان کے داماد سلطان کی میعاد گذر گئی پس اس تاخیر کا یہی سبب تھا جو خدا کی قدیم سنت کے موافق ظہور میں آیا۔ خدا کے الہام میں جو قوی توجی

اس پیشگوئی کی تصدیق کے لئے ہر مذہب میں مذکور ہے۔ ایک پیشگوئی فرمائی ہے کہ یترتو ج و ولولہ۔ یعنی یہ سچا ہے۔ اور نیز وہ صاحب بلاد ہو گا۔ بظاہر ہے کہ توحید اور لادوا کا ذکر کا عام طور پر تصور نہیں کیا کہ عام طور پر بریکٹ ہی کر کے اور اور ان کے لئے ہر کتاب کا باب ۱ سے ۱۰۰ اور نیز وہ صاحب بلاد ہو گا۔ بظاہر ہے کہ توحید اور لادوا کا ذکر کا عام طور پر تصور نہیں کیا کہ عام طور پر بریکٹ ہی کر کے اور اور ان کے لئے ہر کتاب کا باب ۱ سے ۱۰۰

یہ حوالہ صفحہ 331 پر درج ہے

انجام آتم صفحہ 337 مندرجہ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 337 از مرزا قاسم بانی

جو خوف اور جوع سے دوسرے وقت پر جا پڑتی ہے جیسا کہ تمام قرآن اس پر شاہد ہے لیکن نفس پیشگوئی یعنی اس عورت کا اس عاجز کے نکاح میں آنا یہ تقدیر مبرم ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتی کیونکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ میں یہ فقرہ موجود ہے کہ تبدیلی لکھمات اللہ یعنی میری یہ بات ہرگز نہیں ٹلے گی۔ پس اگر ٹل جائے تو خدا تعالیٰ کا کلام باطل ہوتا ہے۔ سو ان دنوں کے بعد جب خدا تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں کو دیکھے گا کہ سخت ہو گئے اور انہوں نے اس ڈیل اور ملت کا قدر نہ کیا جو چند روز تک ان کو دی گئی تھی تو وہ اپنی پاک کلام کی پیشگوئی پوری کرنے کے لیے توجہ ہو گا اور اسی طرح کریگا جیسا کہ اس نے فرمایا کہ میں اس عورت کو اس کے نکاح کے بعد واپس لاؤں گا اور تجھے دوں گا اور میری تقدیر کبھی نہیں بدے گی اور میرے آگے کوئی بات انہونی نہیں اور میں سب روکوں کو اٹھا دوں گا جو اس حکم کے نفاذ سے مانع ہوں۔ اب اس عظیم الشان پیشگوئی سے ظاہر ہے کہ وہ کیا کیا کرے گا اور کون کون سی قہری قدرت دکھلائے گا اور کس کس شخص کو روک کی طرح سمجھ کر اس دنیا سے اٹھائے گا۔ یہ وہ پیشگوئی ہے جو قرآن و احادیث سے شائع ہو چکی ہے اور اس وقت سے بذریعہ اشتہارات شائع ہے جبکہ احمد بیگ کی دختر کا سلطان محمد سے ناٹھ بھی نہیں ہوا تھا بلکہ کسی کے خیال میں بھی نہیں تھا کہ اس جگہ ناٹھ ہو گا۔ سو خدا نے اور روکیں تو اس عورت کے نکاح کے بعد اٹھائیں یعنی احمد بیگ اور اس کی دو ہمشیرہ کو جو سخت مانع تھی اس دنیا سے اٹھایا۔ باقی جو کچھ خدا تعالیٰ کریگا لوگ دیکھیں گے۔ یہ نشان ہے جو ایسے لوگوں کو دیا جائے گا جو ہماری قوم اور کتبہ سے خدا سے اور خدا کے دین سے کفر اور اس غفلت خانہ سے محبت لگائے بیٹھے ہیں لیکن اب ہتیرے جاہل اس میعاد گزرنے کے بعد ہنسی کریں گے اور اپنی بدنصیبی سے صادق کا نام کا زب رکھیں گے لیکن وہ دن جلد آتے جاتے ہیں کہ جب یہ لوگ شرمندہ ہوں گے اور حق ظاہر ہو گا اور سچائی کا نور چمکے گا اور خدا تعالیٰ کے غیر متبدل وعدے پورے ہو جائیں گے۔ کیا کوئی زمین پر رہے جو ان کو روک سکے؟ بد بخت انسان بد نظمی کی طرف جلدی کرتا ہے۔ اور حلیم طبیعت اور محقق فکر کے ساتھ نہیں سوچتا۔

اسے بد نظرتو! اپنی نظرتیں دکھلاؤ۔ یعنی بیجو، ٹھٹھے کرو اور صادقوں کا نام کا زب اور دروغوں کو رکھو، لیکن عنقریب دیکھو گے کہ کیا ہوتا ہے۔ تم ہم پر لعنت کرو تا فرشتے تم پر لعنت کریں۔ میں نے

۱۔ نوٹ ہے:- جانتا چاہیے کہ اسلامی پیشگوئیاں بھی منجملہ سماوی علوم کے ایک شعبہ ہیں۔ جو زبان کتاب کی سنتوں اور قانون سے باہر نہیں ہو سکتیں اور جو لوگ ان کی نسبت کچھ مائے ظاہر کریں ان پر فرض ہے کہ چھ زبان کتاب کا نام ان کو حاصل ہو کیونکہ وہ پیشگوئیاں الٰہی کتاب کے زیر سایہ چلتی ہیں۔ منہ

۶۱۸۹۳ " وَهَتَّأَى رِبِّي وَقَالَ -

إِنَّا مُهِنُكُوا بَعْلَمَا كَمَا أَهْلَكْنَا آبَاءَهُمْ وَإِنَّا نَكُونُ مِنْ  
الْمُسْتَضْرِبِينَ. وَمَا تَوْجُوهُ إِلَّا إِلَى رَجَبٍ مَعْدُودٍ. قُلْ تَرَبَّعُوا لِيَجْلٍ وَاِنِّي مَعَكُمْ  
مِنَ الْمُسْتَضْعِمِينَ. وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْحَقِّ أَهَذَا الَّذِي كَذَّبْتُمْ بِهِ أَزْكَنْتُمْ عَيْنَكُمْ  
(آئینہ کلمات اسلام صفحہ ۵۷۹- روحانی خزائن جلد ۵ صفحہ ۵۷۹)

۶۱۸۹۲

الرَّادِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنِّي أَسْرَجْتُ بِمَوَادِي لِبَعْضِ مَرَادِي وَمَا أَدْرِي أَيَّنَ  
تَأَقُّبِي وَآئِي أَمْرٍ مَطْلَبِي. وَكُنْتُ أَحْسَنُ فِي قَلْبِي أَنِّي لَأَمْرٍ مِنَ الْمَشْغُوفِينَ -  
فَأَمْتَطَيْتُ أَجْرَدِي بِاسْتِصْعَابِ بَعْضِ السِّلَاحِ مُتَوَكِّلًا عَلَى اللَّهِ كَتَمْتُ أَهْلِي الْمَسَاحِ -  
وَلَمَّا كُنْتُ كَالْمَتَّبَعِ طَبِيعِي. ثُمَّ وَجَدْتُ شَيْئًا كَأَنِّي عَزَزْتُ عَلَى خَيْلٍ قَصْدًا وَمَتَّلِحِينَ  
دَارِي لِإِهْلَاكِ وَتَبَارِي وَكَانَهُمْ يَجِينُونَ لِخُضَارِي مُنْخَرِطِينَ وَكُنْتُ وَجِيدًا أَوْصَةً  
ذَلِكَ رَأَيْتُني أَنِّي لَا أَلْبَسُ مِنْ خَوْفٍ غَيْرِ مَهْدٍ وَجَدْتُهَا مِنْ اللَّهِ كَعُودٍ. وَقَدْ أَيْضًا  
أَنَّ الْكُونَ مِنَ الْقَاعِدِينَ وَالْمُتَخَلِّفِينَ الْخَائِبِينَ فَانْطَلَقْتُ مُجِدًّا إِلَى جَهَنَّمَ مِنَ الْجَهَامَاتِ -

لے (ترجمہ از مرتب) اور میرے رب نے مجھے مبارکباد دی اور فرمایا۔ ہم اس کے خاوند کو (بھی) ہلاک کریں گے  
جیسا کہ ہم نے اس کے باپ کو ہلاک کیا اور اس (لاٹکی) کو تیری طرف کوٹائیں گے تیرے رب کی طرف سے یہ اچھ ہے۔  
میں ٹوٹک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ اور ہم اسے صرف گنتی کی بدت کے لئے تاخیر کریں گے۔ کہ اس عرصہ کی انتظار کرو  
اور میں (بھی) تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور جب خدا کا وعدہ آئے گا تب کہا جائے گا کیا یہ وہی ہے جس کو  
تم نے جھٹلایا تھا یا تم اندھے تھے۔

لے (ترجمہ از مرتب) اور (ایک مرتبہ) میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میں نے کسی مقصد کے لئے جانے کی غرض سے اپنے گھوڑے  
پر زین ڈالی ہے اور یہ بات میں نہیں جانتا تھا کہ گھوڑا کس مقصد کے لئے جانے کی تیاری کر رہا ہوں۔ ہاں میں اپنے دل میں یہ محسوس  
کر رہا تھا کہ میں کسی خاص بات کے شغف اور اشتیاق کی وجہ سے تیاری کر رہا ہوں۔ اور میں نے کچھ ہتھیار لگائے اور صالحین کے طریق  
کے مطابق اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے چستی کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے ایسا محسوس کیا کہ گویا مجھے کچھ  
پتہ لگاتے ہوئے ہیں اور مجھے ہلاک کرنے کی غرض سے میرے مکان پر چڑھائی کر کے آئے ہیں اور میں تکی تہا ہوں اور ان (خبروں) سے  
سوا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے پناہ کے طور پر دئے گئے تھے کوئی خود وغیرہ بچاؤ کا سامان میرے پاس نہیں تھا۔ اور میدانِ مقابلہ  
سے پیچھے ہٹ رہنا اور ڈر کر اندر بیٹھے رہنا بھی گوارا نہ ہوا اس لئے میں اپنے اس اہم مقصد کے لئے جو میرے پیشین نظر

مِنَ الطَّيِّبِ. أَنْظِرْنِي يُونُسَ وَأَقْبَالِهِ. وَاللَّهُ فَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. أَرَأَيْتَ إِنْ اسْتَخْلِفْتَ فَخَلَقْتَ أَدَمَ لِيُقِيمَ الشَّرِيْعَةَ وَيُحْيِي الَّذِينَ فِي كِتَابِ الْوَقْفَاءِ ذُو الْعُقَارِ عَلِيِّ. وَتَوَكَّأَ الْإِيْمَانُ مَعْلَقًا بِأَلْتُرْيَالِنَا لَهُ رَحْلٌ مِّنْ أَبْنَاءِ الْفَارِسِ. يَكَادُ زَيْتُهُ يُضْفَى وَوَلْوَلَهُ تَمَسَّنُهُ نَارٌ. حَبْرِيُّ اللَّهِ فِي حُلِيِّ الْمُرْسَلِينَ. قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. وَصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ وَلَدِ أَدَمَ وَخَائِمِ النَّبِيِّينَ. يَرْحَمُكَ رَبُّكَ وَيُعِصِمُكَ مِنْ عُنْدِهِ وَإِنْ لَمْ يَعِصِمِكَ النَّاسُ. يَعِصِمُكَ اللَّهُ مِنْ عُنْدِهِ وَإِنْ لَمْ يَعِصِمِكَ أَحَدٌ مِّنْ أَهْلِ الْأَرْضِينَ. تَبَّتْ يَدَا إِبْنِ لَهَبٍ وَتَبَّتْ مَا كَانَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ نِيهَا الْأَخَائِثَ وَمَا آصَابَكَ فَمِنَ اللَّهِ وَعَلِمَهُ أَنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ. وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. إِنَّا سَنُرِيهِمْ آيَةً مِنْ آيَاتِنَا فِي الشَّجَبَةِ وَنَرُوهُمَا لِيَكْ أَمْرٌ مِّنْ لَّدُنَّا إِنَّا كُنَّا نَاعِلِينَ. إِنَّهُمْ كَانُوا يُكْذِبُونَ بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مِنَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. فَبَشِّرْهُ لَكَ فِي الْفِكَاحِ. الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُسْتَعْرَبِينَ. إِنَّا زَوْجُنَا كَلِمَاتِ اللَّهِ. وَإِنَّا زَادُوا هَذَا إِلَيْكَ إِنْ رَبُّكَ

کریا اور طیب میں فرق کر کے نہ دکھلاوے۔ یونس اور اس کے اقبال کی طرف دیکھو۔ اللہ تعالیٰ اپنے امر پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں کہ پاپا کریں غلیف بناؤں پس میں نے آدم کو پیدا کیا تاکہ وہ شریعت کو قائم کرے اور دین کو زندہ کرے۔ ولی کی کتاب علی کی ذوالفقار ہے۔ اور اگر ایمان شریعت سے ٹکا ہوتا تو ابنایہ فارس میں سے ایک شخص اُسے وہاں سے بھی لے آتا۔ قریب ہے کہ اس کا تیسل روشن ہو جائے اگر پر آگ اُسے چھوئی بھی نہ ہو۔ اللہ کا رسول تمام رسولوں کے لباس میں۔ کہ اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو تو آدم میری پیروی کرو تا خدا بھی تم سے محبت رکھے۔ اور محمد پر اور محمد کی آل پر درود بھیج جو تمام بنی آدم کا سردار اور خاتم النبیین ہے۔ تیسرا زب تہ پر رحمت کرے گا اور اپنی جناب سے تیسری حفاظت کا سامان کرے گا اگر پر رگ تیری حفاظت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے تیری حفاظت کرے گا اگر پر روتے زمین کے لوگوں میں سے کوئی بھی تیری حفاظت نہ کرے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ اس کام میں (یعنی تکفیر اور تکذیب میں) دخل دیتا مگر روتے ہوئے جو تجھ پر آئے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جان لے کہ نیک انجام متقیوں کا ہوتا ہے۔ اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو آنے والے عذاب سے ڈراہم انہیں اس پر وہ کے متعلق بھی اپنا ایک نشان دکھائیں گے اور اسے تیری طرف لوٹائیں گے یہ امر ہماری جناب سے متقدّم ہو چکا ہے اور ہم ہی کہنے والے ہیں۔ یہ لوگ میرے نشانوں کو بھٹلاتے تھے اور مجھ پر تمسخر کرتے تھے۔ پس تجھے نکاح کے متعلق بشارت ہو۔ یہ بات تیرے زب کی طرف سے حق ہے پس تو شک کرنے والوں میں سے مت ہو۔ ہم نے اس کو تیرے ساتھ ملا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتیں مل نہیں سکتیں اور ہم اسے

سے نکل گیا۔ اب فریضے شیخ حنی ابھی تسلی ہوئی یا کچھ کسر بے ظاہر ہے کہ اگر وحی قطعاً عذاب کی تہ ہوئی اور کوئی دوسرا پہلا ایمان لانے کا قدم کو بتلایا ہوتا تو وہ میدان میں رسی دردناک صورت اپنی نہ بتاتے بلکہ شرط کے ایفاد پر عذاب مل جانے کے وعدہ پر مطمئن ہوتے ایسا ہی اگر حضرت یونس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے علم ہوتا کہ ایمان لانے سے عذاب مل جائے گا تو وہ کیوں کہتے کہ اب میں اس قوم کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ میں ان کی نظر میں کتاب ٹھہر چکا جبکہ وہ سن چکے تھے کہ قوم نے توبہ کی اور ایمان لے آئی پس اگر یہ شرط بھی ان کی وحی میں داخل ہوتی تو ان کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ پیشگوئی پوری ہوئی کہ وہ وطن چھوڑ کر ایک بھاری مصیبت میں اپنے تئیں ڈالتے قرآن کا لفظ لفظ اسی پر دلالت کر رہا ہے کہ وہ سخت ابتلا میں پڑے اور حدیث نے کیفیت ابتلا کی یہ بتلائی پس اب بھی اگر کوئی شیخ و ثناب منکر ہو تو یہ صریح اس کی گردن کشی ہے۔

اور ہم اس مضمون کو اس پر ختم کرتے ہیں کہ اگر ہم سچے ہیں تو خدا تعالیٰ ان پیشگوئیوں کو پورا کر دے گا۔ اور اگر یہ باتیں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہیں تو ہمارا انجام تہابیت بد ہو گا اور ہرگز یہ پیشگوئیاں پوری نہیں ہوں گی۔

وینالتم بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر العاقبتین اور میں بالآخر دعا کرتا ہوں کہ اسے خدا سے قاور و علیم اگر مستحکم کا عذاب ہلک میں گرفتار ہونا اور احمدیہ کی دختر کلاں کا آخر اس عاجز کے نکاح میں آنا یہ پیشگوئیاں تیری طرف سے ہیں تو ان کو ایسے طور پر ظاہر فرما جو خلق اللہ پر رحمت ہو اور کو باطن حاسدوں کا منہ بند

یقیناً عاشرہ: اپنے انجمن کو نہیں سوتیا اور بلو ہے کہیں مقلد سے عیسائوں کے کھار کی بھونج کئی بگڑا کو کیوں کی قوم ہنر اپنی تو بعد انکسار سے بگڑا کیوں تو ہی چاہتا تھا کہ ان پر عذاب نازل ہو منہ

ہو جائے۔ اور اگر اے خداوند یہ پیشگوئیاں تیری طرف سے نہیں ہیں تو مجھے  
 نامراد ہی اور دولت کے ساتھ ہلاک کر اگر میں تیری نظر میں مردود اور ملعون اور حیا  
 ہی ہوں جیسا کہ مخالفوں نے سمجھا ہے اور تیری وہ رحمت میرے ساتھ  
 نہیں جو تیرے بندہ ابراہیم کے ساتھ اور اسحاق کے ساتھ اور اسمعیل کے ساتھ اور  
 یعقوب کے ساتھ اور موسیٰ کے ساتھ اور داؤد کے ساتھ اور سلیمان کے ساتھ اور  
 خیر اللہ نبیاء محمد صلعم کے ساتھ اور اس رحمت کے اولیاء کریم کے ساتھ تھی تو مجھے فنا  
 کر ڈال اور ذلتوں کے ساتھ مجھے ہلاک کر دے اور ہمیشہ کی لعنتوں کا نشانہ بنا اور  
 تمام شیعوں کو خوش کر اور ان کی دعائیں قبول فرما لیکن اگر تیری رحمت میرے  
 ساتھ ہے اور تو ہی ہے جس نے مجھ کو مخاطب کر کے کہا انت وجیہ فی حضرتی  
 اخترتک لنفسی اور تو ہی ہے جس نے مجھ کو مخاطب کر کے کہا یا حمدک اللہ  
 من عرشہ اور تو ہی ہے جس نے مجھ کو مخاطب کر کے کہا یا عیسیٰ الذی لا  
 یضاع وقتہ اور تو ہی ہے جس نے مجھ کو مخاطب کر کے کہا ایس اللہ بہکات  
 عیدہ اور تو ہی ہے جس نے مجھ کو مخاطب کر کے کہا قل انی امرت وانا اول التائبین  
 اور تو ہی ہے جو غالباً مجھے ہر روز کہتا رہتا ہے انت حمی وانا معک تو میری مدد کر  
 اور میری حمایت کے لئے کھڑا ہو جا دانی مغلوب غنا تصرف

دائم خاکسار علامہ احمد ازاد دایان ضلع گورداسپور

۲۶۔ اکتوبر ۱۸۹۴ء

بَرِيْدٌ وَتَنْظِيْمًا لِنُورِ اللهِ بِأَقْرَابِهِمْ وَاللَّهُ مَعَهُمْ نُورًا وَتُرْكُوهَ الْكَافِرِينَ  
 یہاں سے لے کر آج تک کے تواریخوں کی جو کتبیں شیعہ تہذیب نے لکھی ہیں ان میں سے ایک ہے

# منظور الہی

سیدنا و مرشدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی  
 سچ موعود و مہدی مہود مجدد صدی چہار دہم علیہ الصلوٰۃ والسلام  
 کے ملفوظات بہ ترتیب تاریخ  
 مرتبہ و شائع کردہ

خاکسار محمد منظور الہی میرا احمدیہ انجمن اشاعت اسلام

احمدیہ پبلشرز لاہور

۱۳۲۲ھ

تعداد اولیاد: مانفرد

مطبوعہ مفید عام پریس لاہور، تمام لاء مولتی رام بیچر جی

یہ حوالہ صفحہ 334 پر درج ہے

اخبار اکبر 5 دیاں 10 اگست 1901ء صفحہ 14 کا 3 کتاب منگوانی صفحہ 244 تا 246 اور منگوانی قادیانی



۲۴۷

نہیں کر سکتا جس کے لئے میں بھیجا گیا ہوں۔ برسات میں تو راستہ گزرنے کے قابل ہی نہیں ہوتا۔  
 مطبخ کے پروت اور کاپیاں میں خود ہی دیکھتا ہوں۔ کاپی پر وازوں کو دن میں چار پانچ مرتبہ میری بیوی  
 لایا کرتی ہے۔ اس دیوار کی وجہ سے پابندی نہیں ہو سکتی جس سے حرج ہوتا ہے کام میں توقف ہوتا ہے  
 میرے لنگر خانہ کا چھج کبھی ہزار کبھی پندرہ سو اور کبھی دو ہزار روپیہ مالمانہ ہوتا ہے۔ اور مطبخ کا مستقل  
 چھج از معائنہ سو روپیہ ماہوار ہے۔ قبل از تعمیر دیوار میرے باہر جانے کا راستہ اسی طرف سے تھا۔ جہاں  
 دیوار ہے۔ میں زمانہ نجانہ سے عموماً نہیں گذرتا ہوں کیونکہ دل بھان عورتیں موجود ہوئی ہیں اس لحاظ  
 سے کہ ممکن ہے۔ عورتیں کسی حال میں بول رہی ہیں اور سے ہی آتا ہوں۔ مدعا علیہم کو میرے ساتھ  
 قریباً انیس بیس سال سے عداوت ہی عداوت کی ایک وجہ یہ ہے۔ کہ میرزا امام الدین کی ہمیشہ میرزا  
 اعظم بیگ کے اور کے مرزا اکبر بیگ سے بیابانی گئی تھی۔ اور میرزا اعظم بیگ قادیان کی اراضی کا چھوٹا  
 بڑا تھا اس لئے ان لوگوں کے جتنے حیدر سے۔ جو یہ تھل تھے۔ ایک وجہ عداوت کی یہ بھی ہے جو بڑی  
 وجہ ہے۔ کہ مرزا امام الدین قند اور رسوں کے خدمت کتابیں لکھتا ہے۔ چنانچہ دید حق مقدمہ ہو و کافر۔  
 جس میں محلو اور محمد حسین شالوسی و ذرن کو کافر قرار دیا ہے۔ اور محفل تنگفت وغیرہ کتابیں لکھی  
 ہیں۔ میں نے جو کتاب براہین احمدیہ لکھی ہے۔ اس میں چھوٹی مسجد کا ذکر ہے۔ اس کے حاشیہ در حاشیہ  
 میں اسی مسجد کا ذکر ہے۔ یہ کتاب ششہ اخیر میں لکھی تھی۔ ششہ حق بھی میری کتاب ہے۔ آریوں کے  
 خلاف ہے۔ سب پکن اور آریہ و عمر میری تفسیف ہے۔ یہ اشتہار مورخہ و ہم جولائی ۱۸۹۵ء  
 میرا ہی ہے۔ جو مرزا نظام الدین کے خلاف ہے۔ یہ اشتہار ۱۸۹۵ء اہمات المؤمنین  
 کے متعلق میں نے گوشت میں بھیجا تھا۔ اور شائع کیا تھا۔ مدرسہ سوال مدعا علیہم پر کہا۔ کبھی میر کو جاتا ہوں  
 اور کبھی نہیں جاتا۔ عموماً صبح کے وقت جاتا ہوں۔ شام کو کبھی شافو ناد رہی جاتا ہوں۔ میری بیوی کو  
 مراق کی بیماری ہے۔ کبھی کبھی وہ میرے ساتھ ہوتی ہے۔ کیونکہ طبی اصول کے مطابق اس کے لئے چھل قری  
 مفید ہے۔ ان کے ساتھ چند خادم عورتیں بھی ہوتی ہیں اور پردہ کا پورا التزام ہوتا ہے۔ خادم عورتوں  
 مراد خدمتگار عورتیں ہیں۔ پندرہ سولہ عورتیں ہیں۔ چند خدمتگار عورتیں ہیں۔ یہ بات  
 عام نہیں ہے۔ بلکہ علاج کے طور پر ہے۔ اس میں دو چار مرتبہ ایسا اتفاق ہوتا ہے۔ کبھی کوئی اور ضعیف  
 عورتیں بھی ساتھ چلی جاتی ہیں۔ تو ہم مل نہیں ہوتے۔ ہم باغ میں عورتوں کو نہیں لیا کرتے۔ جہاں  
 علمائوں کے لڑکوں کو حکم دین کر وہ ہٹھاپاں لیا دیں۔ ہم باغ تک جاتے ہیں۔ اور پھر واپس آ جاتے  
 ہیں۔ احمد بیگ کی دفتر کی نسبت جو پیشگوئی ہے وہ اشتہار میں مدج ہے اور ایک مشہور امر ہے

۲۲۵

وہ مرزا امام الدین کی ہمشیرہ زادی ہے۔ جو خط بنام مرزا احمد بیگ کا مکمل نسل رحمانی میں ہے۔ وہ میرا ہے۔ اور ہے۔ وہ عورت میرے ساتھ بیاتی نہیں گئی۔ مگر میرے ساتھ اسکا بیاد منور ہوگا۔ جیسا کہ پیشگوئی میں درج ہے۔ وہ سلطان محمد سے بیاتی گئی جیسا کہ پیشگوئی میں تھا۔ میں قہر کہتا ہوں کہ اسی عدالت میں جہاں ان باڈوں پر جو سیری طرقت سے نہیں ہیں بلکہ وہ انکی طرقت سے ہیں منہسی کی گئی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ عجیب شہر چڑیگا۔ اور سب کے نامت سے سر چھپو گے۔ پیشگوئی کے اظہار سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ اور یہی پیشگوئی تھی۔ کہ وہ دوسرے کے ساتھ بیاتی جائیگی۔ اس کی کے باپ کے مرنے اور خاندان کے مرنے کی پیشگوئی شرطی تھی۔ اور شرط تو یہ اور جس اے اللہ کی تھی۔ لڑکی کے باپ نے توبہ کی۔ اسلئے وہ بیاہ کے بعد چند مہینوں کے اندر مر گیا۔ اور پیشگوئی کی دوسری جز پوری ہو گئی۔ اسکا خوف اسکے خاندان پر پڑا۔ اور خصوصاً شوہر پر پڑا۔ جو پیشگوئی کا ایک جز تھا انہوں نے توبہ کی۔ چنانچہ اسکے رشتہ داروں اور عزیزوں کے خط بھی آئے۔ اسلئے خدا تعالیٰ نے اسکو مہلت دی۔ عورت اب تک زندہ ہے۔ میرے نکاح میں نہ عورت ضرور آئیگی۔ یہی کسی یقین کا ل ہے۔ یہ خدا کی باتیں ہیں۔ مٹتی نہیں۔ سو کر منگی۔ اٹھا جو فریل کی نسبت موت کا الہام تھا۔ عبد اللہ اللہ انعم۔ لیکھرام۔ احمد بیگ۔ سلطان محمد۔ ان میں سے اب صرف سلطان محمد زندہ ہے۔ عبداللہ استم اگر چہ ظاہری نگاہ میں میعاد کے اندر نہیں مگر اسکی نسبت شرطیہ الہام تھا۔ چونکہ اسنے ظاہری میعاد کے اندر توبہ کر لی اسکو مہلت دی گئی۔ اس کے بعد اسنے اختفائے حق کیا۔ پھر میرے اشتہار کے بعد وہ بہت جلد مر گیا۔ اب آتم کہاں ہے۔ اسے لاؤ۔ احمد بیگ اپنی میعاد کے اندر مر گیا۔ لیکھرام بھی میعاد کے اندر مر گیا۔

میں نے مسٹر ڈوٹی کے سامنے لکھا دیا تھا کہ آئندہ کسی کی نسبت موت کا الہام شائع نہیں کروں گا۔ جب تک کہ وہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سے اجازت نہ لے لیوے۔ جو آریہ جز کا نام میرے اشتہار میں متعلقہ پیشگوئی مرزا نظام الدین درج ہے۔ ان کا نام یاد نہیں ہے۔ ایک شایہ رشید اس ہے وہ میرے کا نام شہید بجا رائل ہے۔ بعض علما نے میری نسبت کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ اور بہتوں نے مجھے قبول کیا ہے۔ اور ان میں سے بھی جنہوں نے کفر کا فتویٰ دیا تھا۔ بعض توبہ کر کے میرے پاس آتے جاتے ہیں۔ الحکم علیہ ص ۲۹۔

مندرجہ بالا بیان نے جتنے کے بعد جب آپ کمر عدالت سے باہر تشریف لائے تو فرمایا :-  
معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس پیشگوئی کے پورا ہونے کا زمانہ آگیا۔ اگر ہم ہزار روپیہ بھی خرچ کرتے اور آرنو

کہتے۔ کہ یہ عدالت کے کاغذات میں درج ہو جاوے۔ اور اس طرح پرتین ڈیڑھی گواہ ہو جاویں تو کبھی بھی نہ ہوتا۔ یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے۔ اور دوسری باتیں عجیب ہوتی ہیں۔ اب عدالت کے کاغذات سے کون اوسکوٹا سکے گا۔ جب یہ میٹنگونی پوری ہوگی۔ کیا ان ڈپٹیوں پر اس کا اثر نہ پڑے گا۔ ضرور ہی پڑے گا جیسے بیکرام کی پیشگوئی کی بہت شہرت ہو گئی تھی۔ اسی طرح اسکی شہرت ہو گئی ہے۔ اور یہ بہت ہی اچھا ہوا۔ کہ عدالت کے کاغذات میں درج ہو گئی۔ (الحکم جلد ۵ صفحہ ۲۵)۔

اسی دن شام کو سیر کے وقت ڈاکٹر فینن کا صاحب نے عرض کی۔ کہ مہدی حسن صاحب سٹیٹ لائبریری اور نئے چند دوست آپ سے کچھ دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اجازت ہو۔ تو وہ شام کے بعد آ جائیں آپنے فریڈاٹاں بیک ان کول ٹو مغرب و عشا کی نمازیں چھ کر کے پڑھ لینے کے بعد مہدی حسن صاحب تھیلڈار صاحب صاحب۔ مرزا سررشتہ دار ڈاکٹر کٹ جی دانشی نیشنل انجمن صاحب ڈپٹی سیکریٹری کلرک و دو ایک اور کے ہمراہ آئے (الحکم جلد ۵ صفحہ ۲۵)۔ اپنے عوامی پرسنلہ گفتگو شروع کرنے سے پیشتر آئے فرمایا:۔ دونوں سے مجھے بہت تکلیف ہو چکی ہے۔ اگرچہ میں اس قابل نہ تھا۔ کہ کوئی گفتگو کر سکوں۔ مگر زندگی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اسی لئے میں نے سب سمجھا۔ کہ آپ کو اپنی شہادت دور کرنے میں مددوں اور وہ بات آپ تک پہنچا دوں جو میں نیکر بنا ہوں۔ بل میں بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے کام و قسم کے مرنے ہیں۔ ایک توبہ جو ہر روز لوگوں کی نظریں ہوتے ہیں۔ اور جسکو وہ دیکھتے ہیں۔ اور دوسری ایک اور قسم بھی خدا تعالیٰ کے کاموں کی بنا ہے۔ جو کبھی نظر نہ ہوتی ہے۔ چونکہ وہ کام کبھی بھی برتے ہیں۔ اسلئے لوگوں کی نظریں میں عجیب ہوتے ہیں۔ عدالت کا سمجھنا لوگوں کے لئے مشکل نظر آتا ہے۔ مگر سمجھدار آدمی تعویب سے خالی ہو کر ان پر غور کرتے ہیں۔ تو خدا تعالیٰ نے بھی ان کے لئے ایک راہ پیدا کر دی ہے۔ اور وہ ان کو سمجھ لیتے ہیں۔ اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ گناہوں۔ مندرجہ اور متعویب ان پر توجہ نہیں کرتے۔ اور خدا تعالیٰ کے ثبوت کو نظر نہ کرنا ان پر نہ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ کہ وہ ان قوم سے محروم رہ جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ان عجیب و غریب کاموں میں سے سب سے بڑا کام اسکے نبیوں۔ رسولوں اور موروں کا آنا ہے۔ یہ لوگ۔ اسی میں پہنچتے پھرتے ہیں۔ اور عام آدمیوں کی طرح شہری حوزہ اور کمزریوں سے مستثنیٰ نہیں ہوتے۔ کوئی اوپری اور لوگنی بات ان میں ایک زمانہ تک پائی نہیں جاتی۔ اسلئے جب وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ کہ ہم خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ ہم سے کلام کر رہا ہے۔ یہ وہ واقعات آئندہ کے شہدائے خدا تعالیٰ سے خبر نہ کر کے بولتے ہیں۔ تو لوگ ان کی ان باتوں پر تعجب کرتے ہیں۔ رسالت مندا اور رشید لوگ

عہد اپنے ایمان کو برباد کرنا نہیں چاہتا۔ پھر اگر ایسی سازش میں بغرض مجال کوئی فرید شریک ہو تو تمام فریدوں میں یہ بات کیونکر پوشیدہ رہ سکتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہماری جماعت میں بڑے بڑے معزز داخل ہیں بی اے۔ اور ایم اے اور تحصیلدار اور ڈپٹی کلرک اور اسٹرا اسٹنٹ اور بڑے بڑے تاجر۔ اور ایک جماعت علماء و فضلاء۔ تو کیا یہ تمام لچوں اور بد معاشوں کا گروہ ہے؟ ہم باواز بلند کہتے ہیں کہ ہماری جماعت نہایت تریک چلن اور ہذب اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ کہاں ہے کوئی ایسا پلید اور لعنتی ہمارا فرید جس کا یہ دعویٰ ہو کہ ہم نے اُس کو لیکھرام کے قتل کے لئے مامور کیا تھا؟ ہم ایسے مُرشد کو اور ساتھ ہی ایسے فرید کو کتوں سے بدتر اور نہایت ناپاک زندگی والا خیال کرتے ہیں کہ جو اپنے گھر سے پیشگوئیاں بنا کر پھر اپنے ہاتھ سے اپنے گھر سے اپنے فریب سے ان کے پوری ہونے کے لئے کوشش کرے اور کراوے ۵

پس افسوس کہ اخبار پنجاب سماچار مطبوعہ۔ مارچ میں سازش کا الزام جو ہم پر لگایا ہے یہ کس قدر سچائی کا خون ہے۔ میں صاحب اخبار سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں میں بھی بڑے بڑے اوتار گذرے ہیں۔ جیسے راجہ راجندر صاحب۔ اور راجہ کرشن صاحب۔ کیا آپ لوگ ان کی نسبت یہ گمان کر سکتے ہیں کہ انہوں نے پیشگوئی کر کے پھر اپنی عزت رکھنے کے لئے ایسا حیلہ کیا ہو کہ کسی اپنے حیلہ کی منت خوشامد کی ہو کہ اُس کو اپنی کوشش سے پوری کر کے میری عزت رکھ لے اور پھر ان کے حیلے ان کو اچھا آدمی سمجھتے ہوں۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک بد معاش ڈاکو کے ساتھ اور چند بد معاش جمع ہوں اور ایسے کام خفیہ طور پر کریں۔ لیکن اس میرے فریدوں کے سلسلے میں جسکے ساتھ ہدی ٹوٹو اور مسیح موجود ہونے کا دعویٰ بھی بڑے زور سے ہے یہ حرام زندگی کے کام میلان نہیں کھا سکتے۔ ہر ایک فرید اس بلند دعویٰ کو دیکھ کر نہایت اعلیٰ سے اعلیٰ پرہیزگاری کا نمونہ دیکھنا چاہتا ہو۔ پس کیونکر ممکن ہے کہ دعویٰ تو یہ ہو کہ میں وقت کا عیسے ہوں اور جھوٹی پیشگوئیوں کو اس طرح پر پورا کرنا چاہے کہ فریدوں کے آگے ہاتھ جوڑے کہ مجھ سے قصور ہو گیا میری پردہ پوشی کو جاؤ آپ مرو اور کسی طرح میری پیشگوئی سچی کرو۔ کیا ایسا مُردار ایک پاک جماعت

پنجا بھلا پھر تھا لیکن آسمان پر اس کے لیے ہلاکت کا حکم ہو چکا تھا۔ اس واسطے یہ بات ایسے طور پر بیان کی گئی کہ یہ کام ہو چکا ہے۔ پہلے ایک معاملہ آسمان پر ہو جاتا ہے اور پھر زمین پر اس کا تصور ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہمارا الحام عقبت الہدیٰ یاد دالا تھا یعنی مسنگے ٹھہر۔ اگر چہ گیارہ ماہ پہلے یہ زلزلہ کی پیشگوئی تھی؛ تاہم چونکہ آسمان پر یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ زلزلہ ضرور آئے گا اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مکانات عارضی اور مستقل سب گر گئے اور نشان بٹھ گئے جو لوگ مشغلہ میدانوں کے بہرہ نگار وغیرہ اعتراض کرتے ہیں وہ اس حادثہ سے ناواقف اور جاہل ہیں یا جان بوجھ کر تعصب کے ساتھ بند کرتے ہیں اور نہ یہ حادثہ سب زبانوں میں پایا جاتا ہے۔ آسمان کے متعلق جب ہم نے پیشگوئی کی تھی تو اس لیے ہی مجلس میں کہا تھا کہ میں تو مر گیا۔ یا جو دیسائی ہونے کے وہ ادب کا بیسے لہلا رہتا تھا اور یہی سبب تھا کہ وہ ڈنڈا مارا اور میدان کے اندر مرنے سے بچ گیا۔ اب سب کے متعلق معاشہ پیشگوئی کر میں کی گئی تھی کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ حالانکہ وہ جنگ بدر کے بعد طاعون سے مرا تھا۔

نسباً

روح دریکان سے مراد ہر قسم کی آسائش اور آسودگی ہوتی ہے۔

## مبارک منہ کے مبارک الفاظ معنی

(مردہ شرح عبدلیم ص ۵۷)

وقت آئے آپ باہر تشریف لے گئے۔ شیخ رحمت اللہ صاحب نوادر اور مولیٰ صاحبان اور دیگر احباب  
محل موجود تھے۔ ادھر ادھر کی باتوں میں آپ نے فرمایا کہ:

ہم خدا کے مرتبین اور انجمنوں میں بزدلی نہیں ہوا کرتے بلکہ پتے مومن میں بزدلی نہیں ہوتے بزدلی ایمان کی  
بیزودی کی نشانی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم پر مصیبتوں نے باہر باہر کے گراہوں نے کبھی بزدلی نہیں دکھائی۔ خدا  
تعالیٰ ان کی نسبت فرماتا ہے۔ مَن مِّنْهُمْ مَّقِينٌ مَّقِينٌ تَحْتِیْ تَحْتِیْہٖ ذَرِّیَّتُہُمْ یُؤْتُوْنَہُمْ مِّنْہٗ لَیْسَ لَہُمْ اِلَیْہَا شَیْءٌ مِّنْہٗ اِلَّا  
یعنی جس ایمان پر انہوں نے کھربستے یا یہی تھی اس کو بعض نے زنجار یا اور بعض منتظر میں کہ کب موٹھے اور

۱۔ بلند جلد نمبر ۱۸ صفحہ ۲۵ مورخہ ۲۵ مئی ۱۹۰۵ء۔ (بجز معلوم ہوتا ہے یہ پرچہ ۲۸ مئی کے بعد شائع ہوا ہے)

یہ دو جہے کہ ۲۰۲۲ مئی کی ڈائری اس میں لکھی ہے۔ (مرتب)

۲۔ اس ڈائری پر تاریخ نہیں لکھی۔ اتفاقاً ۲۰۲۲ مئی ۱۹۰۵ء کی معلوم ہوتی ہے۔ ان دونوں میں شیخ رحمت اللہ

صاحب قاریان میں موجود تھے۔ (مرتب)

فروری ۱۸۹۲ء

حضرت مولانا نور الدین صاحب خلیفہ اوس بیان فرماتے تھے کہ:-

” ایک دفعہ کس بحث کے دوران میں حضرت مسیح موعود سے کسی شخص نے کوئی حوالہ طلب کیا.... حضرت صاحب نے بخاری کا ایک نسخہ منگایا اور یونہی اس کی ورق گردانی شروع کر دی اور جلد جلد ایک ایک ورق اس کا اٹمانے لگے اور آخر ایک جلد پہنچ کر آپ ٹھہر گئے اور کہ لویہ لکھ لو۔ دیکھنے والے سب تیراں تھے کہ کیا جڑا ہے اور کسی نے حضرت صاحب سے دریافت بھی کیا جس پر حضرت صاحب نے فرمایا کہ ”جواب میں نے کتاب ہاتھ میں سے کرورق اٹانے شروع کئے تو مجھے کتاب کے صفحات ایسے نظر آتے تھے کہ گویا وہ خالی ہیں اور ان پر کچھ نہیں لکھا ہوا اس لئے میں نے کو جلد بند اٹانا گیا۔ آخر مجھے ایک صفحہ ملا جس پر کچھ لکھا ہوا تھا اور مجھے یقین ہوا کہ یہ وہی حوالہ ہے جس کی مجھے ضرورت ہے۔“ (سیرت المدنی حصہ دوم روایت ۲ صفحہ ۳۱۲)

۱۸۹۲ء

(الف) حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح الثانی ایده اللہ بنصرہ العزیز نے خطبہ جمعہ میں فرمایا:

”ملکہ وکٹوریہ کے زمانہ میں خدا تعالیٰ نے خبر دے دی:-“

”سلطنت برطانیہ تاہشت سال ۶ بعد از ان صنف وفساد واخلال“

اور یہ آٹھ سال جا کر ملکہ وکٹوریہ کی وفات پہنچے ہو گئے۔“ (انفصل جلد ۱۹ نمبر ۸، مورخہ ۵ اپریل ۱۹۲۹ء صفحہ ۵)

(ب) حافظ حامد علی صاحب نے مجھ سے کہا کہ..... ان دنوں میں حضرت صاحب کو امام ہوا ہے۔

”سلطنت برطانیہ تاہشت سال ۶ بعد از ان ایام ضعف واخلال“

(سیرت المدنی حصہ اول صفحہ ۷۵ روایت نمبر ۹۶ یدیش دوم)

اے مسکرم شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی لکھتے ہیں: جوں تک میری یاد مسامتہ کرتی ہے..... یہ واقعہ لاہور میں ہوا تھا مولوی عبدالحکیم صاحب کلازوری سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ”محدثیت اور نبوت“ پر بحث ہوئی تھی..... حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے محدثیت کی حقیقت بیان کرتے ہوئے بخاری کی اس حدیث کا حوالہ دیا جس میں حضرت عمرؓ کی محدثیت پر استدلال تھا۔ مولوی عبدالحکیم صاحب کے مدگاروں میں سے مولوی احمد علی صاحب نے حوالہ کا مطالبہ کیا اور بخاری خود بھیج دی۔

مولوی محمد احسن صاحب نے حوالہ نکالنے کی کوشش کی مگر نہ نکلا۔ آخر حضرت مسیح موعود نے خود نکال کر پیش کیا.....

جب حضرت صاحب نے یہ حدیث نکال کر دکھادی تو فریق مخالف پر گویا ایک ثروت وارد ہو گئی..... اس پر مباحثہ ختم کر دیا۔“

(سیرت المدنی حصہ سوم صفحہ ۶۱۵)

اے ملکہ وکٹوریہ کا انتقال ۲۲ جنوری ۱۸۹۲ء میں ہوا۔ (ترتیب)

سے قادر خدا!

اس گورنمنٹ عالیہ انگلشیہ کو ہماری طرف سے نیک جزا دے اور  
ہم سے نیکی کر جیسا کہ اس نے ہم سے نیکی کی۔  
آمین۔

# کَشْفُ الْغَطَاءِ

یعنی

ایک اسلامی فرقہ کے پیشوا مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف سے  
بھننور گورنمنٹ عالیہ اس فرقہ کے حالات اور خیالات کے بارے میں اطلاع اور  
نیز اپنے خاندان کا کچھ ذکر اور اپنے مشن کے اصولوں اور ہدایتوں اور تعلیموں کا بیان اور  
نیز ان لوگوں کی خلاف واقعہ باتوں کا رد جو اس فرقہ کی نسبت غلط خیالات پھیلاتے  
چاہتے ہیں

اور یہ مولف

تلح عزت جناب ملکہ معظمہ قیسرہ ہند دام اقبالہا کا واسطہ ڈال کر  
بخدمت گورنمنٹ عالیہ انگلشیہ کے اعلیٰ افسروں اور معزز حکام کے باورپ گدارش  
کتاب ہے کہ براہ غریب پروردی دکر گسٹری اس رسالہ کو اول سے آخر تک پڑھا جائے یا سن لیا جائے۔

یہ رسالہ تالیف ہو کر ۲۷ دسمبر ۱۸۹۸ء کو مطبع ضیاء اسلام قادیان میں باہتمام حکیم فضل الدین صاحب  
ملک مطبع کے منبوع ہوا۔

تعداد ۳۵۰

## ضمیمہ رسالہ ہذا

## قابل توجہ گورنمنٹ

مجھے اس رسالہ کے لکھنے کے بعد محمد حسین شاہ صاحب اشاعت السنہ کا انگریزی میں ایک رسالہ ملا جس کو اُس نے مطبع دکن پریس لاہور میں چھاپ کر باہر اکتوبر ۱۸۹۸ء میں شائع کیا ہے۔ اس رسالہ کے دیکھنے نے مجھے بہت افسوس ہوا کیونکہ اس نے اس میں میری نسبت گورنر اپنے اعتقاد بہدی کے آنے کی نسبت نہایت قابل مہم جھوٹے کام لیا ہے اور ہر امر افتراء سے کوشش کی ہے کہ مجھے گورنمنٹ عالیہ کی نظر میں باغی ٹھہرے۔ لیکن اس صحیح اور پختے مقولہ کے دوسرے کہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں جو آخر ظاہر نہ ہو۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ ہماری زیرک اور روشن دماغ گورنمنٹ جلد معلوم کر لے گی کہ اصل حقیقت کیا ہے۔

اول امر جو محمد حسین نے خلاف واقعہ چھاپا اس رسالہ میں میری نسبت گورنمنٹ میں پیش کیا ہے یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ عالیہ کو اطلاع دیتا ہے کہ یہ شخص گورنمنٹ عالیہ کیلئے خطرناک ہے یعنی بغاوت کے خیالات دل میں رکھتا ہے۔ لیکن میں زور سے کہتا ہوں کہ اگر میں ایسا ہی ہوں تو اس ننگرامی اور بغاوت کی زندگی سے اپنے لئے موت کو ترجیح دیتا ہوں۔ میں ادب سے توجہ دیتا ہوں کہ گورنمنٹ عالیہ میری نسبت اور میری تہمیل کی نسبت جہاں تک ممکن ہو کالی تحقیقات کرے اور میری جماعت کے اہل معزز عہدہ داروں اور دیسی افسروں اور رئیسوں اور دوسرے معزز اور تعلیمیافتہ لوگوں سے جن کی کڑی سوتگ تعداد ہے



سلفاً دریافت کرے کہ میں نے پاس محسن گورنمنٹ کی نسبت کیا کیا پڑائیں ان کو دی ہیں اور کس کس  
تائید سے اس گورنمنٹ کی اطاعت کے لئے وصیتیں کی ہیں اور نیز گورنمنٹ اس مولوی یعنی محمد حسین کی  
اس شہادت کو غور سے دیکھے جو اس نے اپنی اشاعت السنہ میں جس کا ذکر اس سالہ میں ہو چکا ہے  
میری کتاب برائین احمدیہ کے ریویو کی تقریب پر میرے خیالات اور میرے والد صاحب مرزا غلام منشی  
کے خیالات کی نسبت جو گورنمنٹ انگریزی کے متعلق ہیں اپنے ہاتھ سے لکھی ہے۔ اور نیز میری ان  
تحریروں کو جو بربرائیں سال سے گورنمنٹ عالیہ کی تائید میں شائع ہو رہی ہیں غور سے ملاحظہ  
فرمادے اور ہر ایک پہلو سے میری نسبت تحقیقات کرے۔ پھر اگر میرے خیالات گورنمنٹ کی نظر  
میں مستحکم ہوں تو میں بدل چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ سخت سے سخت مرزا مجھ کو دیدے لیکن اگر میرے  
اس حالات کے برخلاف یہ تمام رپورٹیں گورنمنٹ میں محمد حسین مذکور نے پہنچائی ہیں تو میں ایک  
دخادار اور غیر خواہ جلاں شاد رحمت ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ عالیہ میں تمام تر ادب داد خواہ ہوں  
کہ محمد حسین سے مطالبہ ہو کہ کیوں اس نے ان صحیح واقعات کے برخلاف گورنمنٹ کو خبر دی۔  
جن کو وہ اپنے ریویو برائین احمدیہ میں تسلیم کر چکا ہے۔ یہاں تک کہ اس نے بارہ سال تک برابر  
اس پہلی رائے کے برخلاف کوئی رائے ظاہر نہ کی اور اب دشمنی کے ایام میں مجھے باغی قرار دیتا ہے  
حالانکہ میں نے اس محسن گورنمنٹ کی غیر خواہی میں انیس سال تک اپنے ظلم سے وہ کام لیا ہے  
اور ایسے طور سے ممالک دور دراز تک گورنمنٹ کی انصاف منشی کی تعریفوں کو پہنچایا ہے کہ  
میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ اس کا ردوائی کی نظیر دوسروں کے کارناموں میں ہرگز نہیں ملے گی۔  
میرے پاس وہ الفاظ نہیں جن سے میں اپنی عاجزانہ عرض گورنمنٹ پر ظاہر کروں کہ مجھے اس شخص  
کے ان خلاف واقعہ کلمات سے کس قدر صدمہ پہنچا ہے اور کیسے درد رسان زخم لگے ہیں۔ انھوں  
کہ اس شخص نے عدا اور دانستہ گورنمنٹ کی خدمت میں میری نسبت نہایت ظلم سے بھرا ہوا  
جھوٹ بولا ہے۔ اور میری تمام خدمات کو بریلا کرنا چاہا ہے۔ اس دعوے کی میرے پاس بیختم  
دبوات اور کمال شہادتیں اور گواہ موجود ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ بوجہ اس کے کہ میں ایک

دخدار خاندان میں سے ہوں۔ جنہوں نے اپنے مال سے اور جان سے گورنمنٹ پر اپنی اطاعت ثابت کی ہے۔ میری اس دردناک فریاد کو یہ محسن گورنمنٹ غور سے توجہ فرمایا مگر اور جھوٹ بولنے والے کو تنبیہ کرے گی۔

دوسرا امر جو اسی رسالہ میں محمد حسین نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ گویا میں نے کوئی الہام اس مضمون کا شائع کیا ہے کہ گورنمنٹ عالیہ کی سلطنت آٹھ سال کے عرصہ میں تباہ ہو جائے گی۔ میں اس بہتان کا جواب بجز اس کے کیا لکھوں کہ خدا جھوٹے کو تباہ کرے۔ میں نے ایسا الہام ہرگز شائع نہیں کیا۔ میری تمام کتابیں گورنمنٹ کے سامنے موجود ہیں میں باادب گزارش کرتا ہوں کہ گورنمنٹ اس شخص سے مطالبہ کرے کہ کس کتاب یا خط یا اشتہار میں میں نے ایسا الہام شائع کیا ہے؟ اور میں اُمید رکھتا ہوں کہ گورنمنٹ عالیہ اس کے اس مزید سے خبردار رہے گی کہ یہ شخص اپنے اس جھوٹے بیان کی تائید کے لئے یہ تدبیر نہ کرے کہ اپنی جماعت اور اپنے گروہ میں سے ہی جو مجھ سے اختلاف مذہب کی وجہ سے دنی عناد رکھتے ہیں جھوٹے بیان بطور شہادت گورنمنٹ تک پہنچا دے۔ اس شخص اور اس کے ہم خیال لوگوں کی میرے ساتھ کچھ آمد و رفت اور ملاقات نہیں تائیں نے ان کو کچھ ذبانی کہا ہو۔ میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اپنی کتابوں میں اور اشتہاروں میں شائع کرتا ہوں۔ اور میرے خیالات اور میرے الہامات معلوم کرنے کے لئے میری کتابیں اور اشتہارات شکرل میں اور میری جماعت کے معززین گواہ ہیں۔ غرض میں باادب التماس کرتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ عالیہ اس خلاف واقعہ مجبری کا اس شخص سے مطالبہ کرے۔ پاکستان ڈاکس صاحب سابق ڈپٹی کمشنر ضلع گورداسپور مقدمہ ڈاکٹر کلارک میں جو میرے پردائز ہوا تھا لکھ چکے ہیں کہ یہ شخص مجھ سے عداوت رکھتا ہے اسی لئے جھوٹ بولنے سے کچھ بھی پرہیز نہیں کرتا۔

تیسرا امر جو اسی رسالہ میں محمد حسین نے لکھا ہے یہ ہے کہ یہ شخص مسیح موجود ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کے جواب میں اتنا لکھنا کافی ہے کہ جس طرح انبیاء علیہم السلام

وزنت کے پتوں کی طرف دیکھئے کیسے خوشنما ہیں۔ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ تیرا اس وقت دیکھا کہ آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔

(۹۶)

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا ہم سے حاجی عبدالمجید صاحب نے کہ ایک دفعہ جب ازالہ اہام شائع ہوئی ہے۔ حضرت صاحب کدھیانہ میں باہر چلے گئے تشریف لے گئے۔ میں اور حافظ حامد علی ساتھ تھے۔ راستہ میں حافظ حامد علی نے مجھ سے کہا کہ آج رات یا کہا ان دنوں میں حضرت صاحب کو الہام ہوا ہے کہ سلطنت برطانیہ تاہشت سال بعد ازاں ایام ضعف و اختلال، خاکسار عرض کرتا ہے کہ اس مجلس میں جس میں حاجی عبدالمجید صاحب نے یہ روایت بیان کی میاں عبد اللہ صاحب سنوری نے بیان کیا کہ سیر فی خیال میں یہ الہام اس زمانہ سے بھی پڑا ہے حضرت صاحب نے خود مجھے اور حافظ حامد علی کو یہ الہام سنایا تھا۔ اور مجھے الہام اس طرح پڑا ہے: "سلطنت برطانیہ تاہفت سال۔ بعد ازاں تخت خلافت و اختلال" میاں عبد اللہ صاحب بیان کرتے تھے کہ دوسرا مصرع تو مجھے تھم کی لکیر کی طرح یاد ہو کر ہی تھا۔ اور ہفت کا لفظ بھی یاد ہے۔ جب یہ الہام ہمیں حضرت صاحب نے سنایا تو اس وقت مولوی محمد حسین بٹالوی مخالف نہیں تھا۔ شیخ حامد علی نے اسے بھی جاسنایا۔ پھر جب وہ مخالف ہوا۔ تو اس نے حضرت صاحب کے خلاف گورنمنٹ کو بظن کرنے کے لئے اپنے رسالہ میں شائع کیا۔ کہ مرزا صاحب نے یہ الہام شائع کیا ہے خاکسار عرض کرتا ہے۔ کہ میاں عبد اللہ صاحب اور حاجی عبدالمجید صاحب کی روایت میں جو اختلاف ہے۔ وہ اگر کسی صاحب کے ضعف و حافظہ پر مبنی نہیں۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ الہام حضور کو دو وقتوں میں دو مختلف قرائتوں پر ہوا ہو۔ داسدا علم۔ نیز خاکسار عرض کرتا ہے کہ اس الہام کے مختلف معنی کئے گئے ہیں۔ بعضوں نے تاریخ الہام سے میعاد شمار کیا ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ مکہ دکھور یہ کی وفات کے بعد سے اسکی میعاد شمار ہوئی ہے۔ کیونکہ مکہ کے لئے حضور نے بہت دعائیں کی تھیں۔ بعض اور معنی کرتے ہیں۔ میاں عبد اللہ صاحب کہتے تھے۔ کہ میرے نزدیک آغاز صدی بیسویں سے اسکی میعاد شروع ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ کہتے تھے کہ واقعات اسکی تصدیق کرتے ہیں۔ اور

واقعات کے ظہور کے بعد ہی میں نے اسکے یہ معنی سمجھے ہیں۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ میرے نزدیک یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ حضرت صاحب کی وفات سے اسکی میعاد شمار کی جاوے۔ کیونکہ حضرت صاحب نے اپنی ذات کو گورنمنٹ برطانیہ کے لئے بطور حزد کے بیان کیا ہے۔ پس حزد کی موجودگی میں میعاد کا شمار کرنا میرے خیال میں درست نہیں۔ اس طرح جنگ عظیم کی ابتداء اور ہفت یا ہشت سالہ میعاد کا اختتام آپس میں مل جاتے ہیں۔ واسد اعلم۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ گورنمنٹ برطانیہ کے ہم درجوں پر بڑے احسانات ہیں۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے نعمتوں و محفوزات کے (نیز اس روایت کی مزید تشریح کے لئے دیکھو حصہ دوم۔ روایت ۳۱۴) ✕

بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان کیا مجھ سے میاں عبدالصاحب نے کہ جب حضرت یحییٰ موعود علیہ السلام نے ۱۸۸۹ء میں لڑھیانہ میں حیات کا اعلان کیا تو بیعت لینے کے پہلے آپ شیخ مہر علی رئیس ہوشیار پور کے گھرانے پر اسکے لڑکے کی شادی پر ہوشیار پور تشریف لے گئے۔ میں اور میر عباس علی اور شیخ مہر علی ساتھ تھے۔ رات میں بیکہ چھٹو نے ہم کو اپنے اس جلد کا حال سنایا جس میں آپ نے بار چھ ماہ تک دندنے کے لئے حضرت صاحب فرماتے ہوئے کہ میں ایک چھینکار کھا ہوا تھا۔ لمبے میں اپنے چوہے سے نیچے لٹکا دیتا تھا۔ تو اس میں میری روٹی رکھی جاتی تھی۔ پھر آئیں اور پیر کھینچ لیتا تھا یہاں عبدالصاحب کہتے تھے کہ شیخ مہر علی نے یہ انتظام کیا تھا۔ کہ دعوت میں کھانیکے وقت رڈ سا کیواسلے الگ کرہ تھا۔ اقدان کے ساتھیوں اور خدام کیواسلے الگ تھا مگر حضرت صاحب کا یہ قاعدہ تھا کہ اپنی ساتھ والوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے۔ چنانچہ اس موقع پر بھی آپ ہم تینوں کو اپنے داخل ہونے سے پہلے کرہ میں داخل کرتے تھے اور پھر خود داخل ہوتے تھے۔ اور اپنے دائیں بائیں ہم کو بٹھاتے تھے۔ اہی دنوں میں ہوشیار پور میں مولوی محمود شاہ خیمہ ہزاروی کا وعظ تھا۔ جو نہایت مشہور اور نامور اور مقبول وافظ تھا۔ حضرت صاحب نے میرے ہاتھ بیعت کا اشتہار دیکھا نہیں کہا بسی اگر آپ اپنی بیکہ کی وقت کسی مناسب موقع پر میرا یہ اشتہار بیعت پڑھ کر سنا دیں اور میں خود بھی آپ کے

(۹۷)

وزنت کے پتل کی طرف دیکھئے کیسے خوشنما ہیں۔ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ تیرا اس وقت دیکھا کہ آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔

(۹۹)

۱۶۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا ہے حاجی عبدالجید صاحب نے کہ ایک دفعہ جب ازالہ نام شائع ہوئی ہے۔ حضرت صاحب کرمیاء میں باہر چلے گئے تشریف لے گئے۔ میں اور حافظ حامد علی ساتھ تھے۔ راستہ میں حافظ حامد علی نے مجھ سے کہا کہ آج رات یا کیا ان دنوں میں حضرت صاحب کو الہام ہوا ہے کہ سلطنت برطانیہ تاہشت سال بعد ازاں پیام ضعف و اختلال ہوگا۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ اس مجلس میں جس میں حاجی عبدالجید صاحب نے یہ روایت بیان کی میاں عبد اللہ صاحب سنوری نے بیان کیا کہ میری خیال میں یہ الہام اس زمانہ سے بھی پڑا ہے حضرت صاحب نے خود مجھے اور حافظ حامد علی کو یہ الہام سنایا تھا۔ اور مجھے الہام اس طرح پڑا ہے۔ سلطنت برطانیہ تاہشت سال۔ بعد ازاں تخت خلافت و اختلال ہوگا۔ میاں عبد اللہ صاحب بیان کرتے تھے کہ دو سر امرعہ تو مجھے پھر کی لکیر کی طرح یاد ہی کہی تھی۔ اور ہفت کا لفظ بھی یاد ہے۔ جب یہ الہام ہمیں حضرت صاحب نے سنایا تو اس وقت مولوی محمد حسین بٹالوی مخالف نہیں تھا۔ شیخ حامد علی نے اسے بھی جان لیا۔ پھر جب وہ مخالف ہوا۔ تو اس نے حضرت صاحب کے خلاف گورنمنٹ کو بظن کرنے کے لئے اپنے رسالہ میں شائع کیا۔ کہ مرزا صاحب نے یہ الہام شائع کیا ہے خاکسار عرض کرتا ہے۔ کہ میاں عبد اللہ صاحب اور حاجی عبدالجید صاحب کی روایت میں جو اختلاف ہے۔ وہ اگر کسی صاحب کے ضعف حافظ پر مبنی نہیں۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ الہام حضور کو دو وقتوں میں دو مختلف قرائتوں پر ہوا ہو۔ واسطہ علم۔ نیز خاکسار عرض کرتا ہے کہ اس الہام کے مختلف معنی کئے گئے ہیں۔ بعضوں نے تاریخ الہام سے میعاد شمار کیا ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ ملک دکن کی وفات کے بعد سے اسکی میعاد شمار ہوتی ہے۔ کیونکہ ملک کے لئے حضور نے بہت دعائیں کی تھیں۔ بعض اور معنی کرتے ہیں۔ میاں عبد اللہ صاحب کہتے تھے کہ میرے نزدیک آغا محمد علی بیویں سے اسکی میعاد شروع ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ کہتے تھے کہ واقعات اسکی تصدیق کرتے ہیں۔ اور

وزنت کے پتوں کی طرف دیکھئے کیسے خوشنما ہیں۔ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میں اس وقت دیکھا کہ آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں +

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا ہم سے حاجی عبدالمجید صاحب نے کہ ایک دفعہ جب ازالہ دارام شایع ہوئی ہے۔ حضرت صاحب کدھیانہ میں باہر چلے گئے تشریف لے گئے۔ میں اور حافظ حامد علی ساتھ تھے۔ راستہ میں حافظ حامد علی نے مجھ سے کہا کہ آج رات یا کہا ان دنوں میں حضرت صاحب کو الہام ہوا ہے کہ سلطنت برطانیہ تاہفت سال بعد ازاں ایام ضعف و اختلال ہوگا۔ خاک روضہ میں ہے کہ اس مجلس میں جس میں حاجی عبدالمجید صاحب نے یہ روایت بیان کی میاں عبد اللہ صاحب سنوری نے بیان کیا کہ میری خیال میں یہ الہام اس زمانہ سے بھی پرانا ہے حضرت صاحب نے خود مجھے اور حافظ حامد علی کو یہ الہام سنایا تھا۔ اور مجھے الہام اس طرح پر یاد ہے کہ سلطنت برطانیہ تاہفت سال۔ بعد ازاں تخت خلافت و اختلال ہوگا۔ میاں عبد اللہ صاحب بیان کرتے تھے کہ دوسرا مصرع تو مجھے پتھر کی لکیر کی طرح یاد ہی کہ یہی تھا۔ اور ہفت کا لفظ بھی یاد ہے۔ جب یہ الہام ہمیں حضرت صاحب نے سنایا تو اس وقت مولوی محمد حسین بٹالوی مخالف نہیں تھا۔ شیخ حامد علی نے اسے بھی جاسنایا۔ پھر جب وہ مخالف ہوا۔ تو اس نے حضرت صاحب کے خلاف گورنمنٹ کو خط لکھنے کے لئے اپنے رسالہ میں شایع کیا۔ کہ مرزا صاحب نے یہ الہام شایع کیا ہے خاک روضہ میں ہے کہ میاں عبد اللہ صاحب اور حاجی عبدالمجید صاحب کی روایت میں جو اختلاف ہے۔ وہ اگر کسی صاحب کے ضعف و مانظ پر مبنی نہیں۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ الہام حضور کو دو وقتوں میں دو مختلف قراتوں پر ہوا ہو۔ واسد اعلم۔ نیز خاک روضہ میں ہے کہ اس الہام کے مختلف معنی کئے گئے ہیں۔ بعضوں نے تاریخ الہام سے مینا و شام کی ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ ملکہ دکنویہ کی وفات کے بعد سے اسکی مینا و شام ہوتی ہے۔ کیونکہ ملکہ کے لئے حضور نے بہت دعائیں کی تھیں۔ بعض اور معنی کرتے ہیں۔ میاں عبد اللہ صاحب کہتے تھے کہ میرے نزدیک آغاز صدی بیسویں سے اسکی مینا و شروع ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ کہتے تھے کہ واقعات اسکی تصدیق کرتے ہیں۔ اقد

فروری ۱۸۹۲ء

حضرت مولانا نور الدین صاحب خلیفہ اولیٰ بیان فرماتے تھے کہ :-

” ایک دفعہ کسی بحث کے دوران میں حضرت سیح موعودؑ سے کسی مخالف نے کوئی حوالہ طلب کیا... حضرت صاحب نے بخاری کا ایک نسخہ منگایا اور یہی اس کی ورق گردانی شروع کر دی اور جلد جلد ایک ایک ورق اس کا اُٹانے لگے اور آخر ایک جگہ پہنچ کر آپ ٹھہرے اور کہا ویہ لکھ لو۔ دیکھنے والے سب حیران تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے اور کسی نے حضرت صاحب سے دریافت بھی کیا جس پر حضرت صاحب نے فرمایا کہ ”جب میں نے کتاب ہاتھ میں لے کر ورق اُٹانے شروع کئے تو مجھے کتاب کے صفحات ایسے نظر آتے تھے کہ گویا وہ خالی ہیں اور ان پر کچھ نہیں لکھا ہوا اسی لئے میں نے کوئی جگہ اُٹاتا گیا۔ آخر مجھے ایک صفحہ ملا جس پر کچھ لکھا ہوا تھا اور مجھے یقین ہوا کہ یہ وہی حوالہ ہے جس کی مجھے ضرورت ہے۔“ (سیرت الہدیٰ حصہ دوم روایت نمبر ۳۱۲ صفحہ ۳۱۲)

۱۸۹۲ء

(الف) حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ بنصرہ العزیز نے خطبہ جمعہ میں فرمایا:

”ملکہ وکٹوریہ کے زمانہ میں خدا تعالیٰ نے خبر دے دی :-

”سلطنتِ برطانیہ تباہ شدت سال ۶ بعد از ان ضعف و فساد و احتمال“

اور یہ آٹھ سال جا کر ملکہ وکٹوریہ کی وفات پر پورے ہو گئے۔“ (الفضل جلد ۱۹ نمبر ۷، سورہ ۵ اپریل ۱۹۲۹ء صفحہ ۵)

(ب) حافظ حامد علی صاحب نے مجھ سے کہا کہ..... ان دنوں میں حضرت صاحب کو الٹام ہوا ہے۔

”سلطنتِ برطانیہ تباہ شدت سال ۶ بعد از ان آیام ضعف و احتمال“

(سیرت الہدیٰ حصہ اول صفحہ ۷۵ روایت نمبر ۹۶ ایشین دوم)

مگر شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی لکھتے ہیں: جہاں تک میری یاد مساعدت کرتی ہے..... یہ واقعہ لاہور میں ہوا تھا مولوی عبدالحکیم صاحب کلانوری سے حضرت سیح موعود علیہ السلام کی ”محدثیت اور نبوت“ پر بحث ہوئی تھی... حضرت سیح موعود علیہ السلام نے محدثیت کی حقیقت بیان کرتے ہوئے بخاری کی اس حدیث کا حوالہ دیا جس میں حضرت عمرؓ کی محدثیت پر استدلال تھا۔ مولوی عبدالحکیم صاحب کے مدعا روں میں سے مولوی احمد علی صاحب نے حوالہ کا مطالبہ کیا اور بخاری خود بھیج دی۔

مولوی محمد احسن صاحب نے حوالہ نکالنے کی کوشش کی مگر نہ نکلا۔ آخر حضرت سیح موعودؑ نے خود نکال کر پیش کیا.....

جب حضرت صاحب نے یہ حدیث نکال کر دکھادی تو فریق مخالف پر گویا ایک قوت وارد ہو گئی..... اسی پر مباحثہ ختم کر دیا۔“

(سیرت الہدیٰ حصہ سوم صفحہ ۶۱۵)

ملکہ وکٹوریہ کا انتقال ۲۲ جنوری ۱۹۰۱ء میں ہوا۔ (ترتیب)

۶۵۱

(ج) میاں عبداللہ صاحب سنوری نے بیان کیا کہ :-

”مجھے (یہ) الہام اس طرح فریاد ہے :-

”سلطنت برطانیہ تاہفت سال بعد ازاں باشد خلافت و اختلال“

(سیرت المہدی حصہ اول صفحہ ۷۵، روایت نمبر ۹۶، ایڈیشن دوم)

(د) صاحبزادہ پیر سراج الحق صاحب نعمانی نے بیان کیا :-

”میں نے حضرت سے یہ الہام اس طرح پر سنا ہے :-

”توت برطانیہ تاہشت سال بعد ازاں ایام ضعف و اختلال“

(سیرت المہدی حصہ دوم صفحہ ۹، روایت نمبر ۲۱۳)

غالباً ۱۲ جولائی ۱۸۹۲ء (خواب میں) ”لَهُ تَبٌّ وَ مَسٌّ وَ افْتِصَاحٌ“

(جی بی بیاض حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

۱۲ اکتوبر ۱۸۹۲ء ”يُصَلِّحُ اللَّهُ جَمَاعَتِي اِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى“

(جی بی بیاض حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

۲۱ مارچ ۱۸۹۳ء ”کل شب کو ایک خواب اور کچھ تحریری طور پر لکھا ہوا پیش ہوا۔ لکھا ہوا تو سوائے

ن و ض کے اور کچھ پڑھا نہ گیا اور خواب بھی سارا یاد نہیں رہا آخری فقرہ یاد رہا وہ یہ تھا :-

”اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِحِكْمِكُمْ“

(از مکتوب مرزا خدابخش صاحب مندرجہ ”صحاب احمد“ مؤلف ملک صلاح الدین صاحب ایم۔ اے حصہ دوم صفحہ ۱۱۱)

لے (ترجمہ از مرتب) اس کے لئے ہلاکت اور گالیاں اور ذلت ہے۔

میں نے یہ جی بی بیاض عبدالرحمن صاحب شاگرد کارکن ہمدانجمن احمدیہ ربوہ کے پاس موجود تھی جو ان کے والد مرحوم ہاشم نعمت اللہ صاحب

کو مرزا محمود بیگ صاحب ات پٹی نے دی تھی اور ان کا بیان ہے کہ یہ بیاض انہیں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا

فرمائی تھی۔ اس کی فوٹو کاپی خلافت لاہوری میں موجود ہے۔ (مرتب)

۳۔ (ترجمہ از مرتب) اللہ تعالیٰ میری جماعت کی اصلاح کر دے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

۴۔ (ترجمہ از مرتب) یقیناً اللہ تعالیٰ علیکم حکیم ہے۔



پس اگر ہم محمد حسین کی طرح یہ اعتقاد رکھیں کہ ہم صرف پوشیل طور پر اور ظاہری معلومت کے لحاظ سے  
یعنی منافقانہ طور پر انگریزوں کے مطیع ہیں ورنہ دل ہمارے سلطان کے ساتھ ہے کہ وہ  
خلیفہ اسلام اور دینی پیشوا ہے اس کے خلیفہ ہونے کے انکار سے اور اس کی نافرمانی سے  
انسان کافر ہو جاتا ہے تو اس اعتقاد سے بلاشبہ ہم گورنمنٹ انگریزی کے چھپے باغی اور  
خدا تعالیٰ کے نافرمان ٹھہریں گے۔ تعجب ہے کہ گورنمنٹ ان باتوں کی تہ تک کیوں نہیں پہنچتی  
اور ایسے منافق پر کیوں اعتبار کیا جاتا ہے کہ جو گورنمنٹ کو کچھ کہتا ہے اور مسلمانوں کے  
کانوں میں کچھ پھونکتا ہے۔ یہی گورنمنٹ عالیہ کی خدمت میں لوب سے عرض کرتا ہوں کہ  
گورنمنٹ عالیہ غور سے اس شخص کے حالات پر نظر کرے یہ کیسے منافقانہ طریقوں پر چل رہا ہے  
اور جن باغیانہ خیالات میں آپ مبتلا ہے وہ میری طرف منسوب کرتا ہے۔

بالآخر یہ بھی لکھنا ضروری ہے کہ جس قدر اس شخص نے مجھے گندی گالیاں دیں اور  
محمد بخش جعفر زلی سے دلایں اور طرح طرح کے افتراء سے میری ذلت کی اس میں میری  
فریاد جناب الہی میں ہے جو دونوں کے خیالات کو جانتا ہے۔ اور جس کے ہاتھ میں ہر ایک کا  
انصاف ہے۔ میں خدا سے یہی چاہتا ہوں کہ جس قسم کی میری ذلت جھوٹے بہتانوں سے  
اس شخص نے کی۔ یہاں تک کہ گورنمنٹ عالیہ کی خدمت میں مجھے باغی ٹھہرانے کے لئے  
خلافت واقعہ باتیں بیان کیں وہی ذلت اس کو پیش آدے۔ میرا ہرگز یہ مدعا نہیں  
ہے کہ بجز طریق جزاء سیدئۃ بمشاہد کے کسی اور ذلت میں یہ مبتلا ہو۔ بلکہ میں  
منظوم ہونے کی حالت میں یہی چاہتا ہوں کہ جو کچھ میرے لئے اس نے ذلت کے سامان  
کئے ہیں اگر میں ان تہمتوں سے پاک ہوں تو وہ ذلتیں اس کو پیش آدیں۔ اگرچہ میں  
جانتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ بہت حلیم اور حتی المقدور چشم پوشی کرنے والی ہے لیکن اگر میں بقول  
محمد حسین باغی ہوں یا جیسا کہ میں نے معلوم کیا ہے کہ خود محمد حسین کے ہی باغیانہ خیالات ہیں  
تو گورنمنٹ کافر ہے کہ کامل تحقیقات کر کے جو شخص ہم دونوں میں سے درحقیقت مجرم ہے

یہ گورنمنٹ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس مسئلہ میں اس شخص کے کھانے کے دانت اور اور دکھانے کے اور ہیں۔ اپنے بجنس مولویوں پر ان کے خیال کے موافق اپنا عقیدہ ظاہر کرتا ہے اور پھر جب گورنمنٹ کے دکھانے کے لئے تحریر کرتا ہے تو وہاں گورنمنٹ کو خوش کرنے کے لئے یہ عقیدہ بیان کر دیتا ہے کہ "میں نہیں مانتا کہ کوئی بہدی آئیگا اور لڑائیاں کرے گا۔" لیکن اگر یہ بہدی کو نہیں مانتا تو دوسرے مولویوں کا جو مانتے ہیں کیونکر مرگروہ اور ایڈوکیٹ کہلاتا ہے؟ ان باتوں کا انصاف گورنمنٹ عالیہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے نزدیک گورنمنٹ ہم دونوں کی اعلیت تک اس صورت میں سامانی پہنچے گی کہ ہم دونوں کے اپنے روبرو اور دوسرے مولویوں کے روبرو اس مقدمہ میں دظہار لے۔ اس وقت جو منافقانہ طرز کا آدمی ہوگا اس کی تمام حقیقت کھل جائیگی لہذا

### بادب التماس ہے

کہ یہ فیصلہ ضرور کیا جائے جبکہ یہ فاش جھوٹ اس نے اختیار کیا ہے تو کیونکر اطمینان ہو کہ جو دوسری باتیں گورنمنٹ تک پہنچاتا ہے ان میں سچ بولتا ہے۔ منہ

— — — — —

میں کہ بار بار یہی کہتا ہوں کہ ہمارا طریق تو یہ ہے کہ نئے برسے سے مسلمان بنو۔ پھر اللہ تعالیٰ اصل حقیقت خود  
کھول دے گا۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اگر وہ امام جن کے ساتھ یہ اس قدر محبت کا غلو کرتے ہیں زندہ ہوں، تو ان سے  
سخت بیزاری ظاہر کریں۔

جب ہم ایسے لوگوں سے اعراض کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا اعتراض کیا، جس کا جواب نہ آیا اور پھر  
بعض اوقات اشتہار دیتے پھرتے ہیں۔ مگر ہم ایسی باتوں کی کیا پروا کر سکتے ہیں۔ ہم کو تو وہ کرنا ہے جو ہمارا کام ہے۔  
اس لیے یاد رکھو کہ پُرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو۔ اب نئی خلافت لو۔ ایک زندہ علی تم میں موجود ہے اس  
کو چھوڑتے ہو اور مردہ علی کی تلاش کرتے ہو۔

۸ دسمبر ۱۹۰۰ء

فرمایا: کل رات میری انگلی کے پونے میں درد تھا اور اس  
شدت کے ساتھ درد تھا کہ مجھے خیال آیا تھا کہ رات کیونکر بسر

ایک اہام اور اپنی وحی پر یقین

ہوگی۔ آخر ذرا سی غنودگی ہوئی اور اہام ہوا۔ کوئی بڑا آد سلاٹا۔ اور سلاٹا کا لفظ ابھی ختم نہ ہونے پایا  
تھا کہ معاذ اللہ جاتا رہا ایسا کہ کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔

نیز فرمایا کہ :

ہم کو تو خدا تعالیٰ کے اس کلام پر جو ہم پر وحی کے ذریعہ نازل ہوتا ہے۔ اس قدر یقین اور علی وجہ البصیرۃ یقین  
ہے کہ میت اللہ میں بکرا کر کے جس قبم کی چاہو۔ قسم دے دو۔ بلکہ میرا تو یقین یہاں تک ہے کہ اگر میں اس بات کا  
انکار کروں، یا دہم بھی کروں کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں تو معاذ اللہ کافر ہو جاؤں گا۔

۱۳ دسمبر ۱۹۰۰ء

اپنی بخش لاہوری مخالف کی کتاب "عصائے موسیٰ" تمام و کمال  
پڑھ کر حضرت اقدس نے فرمایا:

نصرت الہی فیصلہ کن قاضی ہے

اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کی فتویٰ کو چھوڑ کر چند گھنٹوں کا کام ہے اس کا جواب دے دینا، لیکن میں

۱۔ الحکمہ جلد ۴ نمبر ۴ صفحہ ۱۰۲ مورخہ ۱۰ دسمبر ۱۹۰۰ء

۲۔ الحکمہ جلد ۴ نمبر ۴ صفحہ ۱۰ مورخہ ۱۰ دسمبر ۱۹۰۰ء

یہ حوالہ صفحہ 350 پر درج ہے

ملفوظات جلد اول صفحہ 400 طبع جدید از مرزا قادیانی

کام بھی انہیں مولویوں میں سے بعض سے ظہور میں آئے۔ میرے پر محبوبی مخبریاں بھی لکھیں اور خواہ مخواہ گورنمنٹ کو خلاف واقعہ باتوں کے ساتھ اکسایا گیا۔ مگر کچھ خبر ہے کہ اسکا نتیجہ تو کچھ نہیں ہوا۔ یہ پتہ ہے کہ میں ترقی کرتا گیا۔ جب یہ لوگ میری تکفیر اور تکذیب کے لئے کھڑے ہوئے اور خود خود پیشگوئیاں کیں کہ جلد ترہم اس شخص کو نابود کر دینگے۔ اُس وقت میرے ساتھ کوئی بڑی جماعت نہ تھی بلکہ صرف چند آدمی تھے جن کو انگلیوں پر گن سکتے تھے۔ بلکہ براہین احمدیہ کے زمانہ میں سب براہین احمدیہ چھپ رہی تھی۔ میں صرف اکیلا تھا۔ کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ اُس وقت میرے ساتھ کوئی ایک تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جبکہ خدائے تعالیٰ نے پچاس سے زیادہ پیشگوئیوں میں مجھے خبر دی تھی کہ اگرچہ تو اس وقت اکیلا ہو مگر وہ وقت آتا ہے کہ تیرے ساتھ ایک دنیا ہوگی۔ اور پھر وہ وقت آتا ہے جو تیرا اس قدر عروج ہوگا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے کیونکہ تو برکت دیا جائیگا۔ خدا پاک ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وہ تیرے سلسلہ کو اور تیری جماعت کو زمین پر پھیلائیگا اور انہیں برکت دیگا اور بڑھائے گا اور انکی عزت زمین پر قائم کرے گا جیتک کہ وہ اسکے عہد پر قائم ہونگے۔ اب بھیکو براہین احمدیہ کی ان پیشگوئیوں کا جن کا ترجمہ کیا گیا وہ زمانہ تھا جبکہ میرے ساتھ دنیا میں ایک ہی نہیں تھا جبکہ خدانے مجھے یہ دعا سکھائی کہ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ یعنی اے خدا مجھے اکیلا مت چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ یہ دعا الہامی براہین میں بھی ہے۔ غرض اس وقت کے لئے تو براہین احمدیہ خود گواہی دے رہی ہے کہ میں اُس وقت ایک گناہم آدمی تھا۔ مگر آج باوجود مخالفتوں کوششوں کے ایک لاکھ سے بھی زیادہ میری جماعت مختلف مقامات میں موجود ہے۔ پس کیا یہ معجزہ ہے یا نہیں کہ میری مخالفت اور میرے گرانے میں ہر قسم کے فریب خراج کے منصوبے کئے مگر یہ سب مولوی اور انکے رفیق چھوٹے بڑے سب کے سب نامراد ہے۔ اگر یہ معجزہ نہیں تو پھر معجزہ کی تعریف نہ کہ مجتہد پوش خود ہی کریں کہ کس چیز کا نام ہے۔ مگر میں صاحب معجزہ نہیں تو جھوٹا ہوں۔ اگر قرآن سے ابن مریم کی وفات ثابت نہیں تو میں جھوٹا ہوں۔ اگر حدیث معراج نے ابن مریم کو مردہ روح میں نہیں بٹھا دیا تو میں جھوٹا ہوں۔ اگر قرآن نے سورہ نور میں نہیں کہا کہ اس آیت کے نیلے اسی آیت میں

ہونگے تو میں جھوٹا ہوں۔ اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں۔ اے خانی انسانو! ہیشیا رہ جاؤ۔ اور سوچو کہ مجزیکے مجزہ کیا ہوتا ہے کہ اس قدر مخالفوں کے جنگ و جدل کے بعد آخر براہین احمدیہ کی وہ پیشگوئیاں سچی نکلیں جو آج سے بائیس برس پہلے کی گئی تھیں۔ تم ثابت نہیں کر سکتے کہ اس زمانہ میں ایک فرد انسان بھی میرے ساتھ تھا مگر اس وقت اگر میری جماعت کے لوگ ایک جگہ آباد کئے جاویں تو میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ شہر آترس سے بھی کچھ زیادہ ہوگا۔ حالانکہ براہین کے زمانہ میں جب یہ پیشگوئی کی گئی تھی میں صرف اکیلا تھا۔ پھر اگر مولویوں کی مزاحمت درمیان نہ ہوتی۔ تو براہین احمدیہ کی پیشگوئی پر دوہرا رنگ نہ چڑھتا لیکن اب تو مولویوں اور انکے تابعداروں کی مخالفانہ کوششوں نے اس اعجاز پر دوہرا رنگ چڑھا دیا اور بجائے اسکے کہ حسب مضمون ان آیات کا ذکر باقاعدگی کیجئے یہ مجھے صرف صادق ہونے کی وجہ سے اس آیت کی مقرر کردہ علامت سے بریت مل جاتی۔ اب تو اسکے علاوہ براہین احمدیہ کی عظیم الشان پیشگوئیاں جو اس زمانہ سے میں بائیس برس پہلے دنیا میں شائع ہو چکی ہیں وہ پوری ہو گئیں اور ہزار ہا اہل فضل و کمال میرے ساتھ ہو گئے۔ اب دوسرا جز اس آیت کا دیکھو **وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ** یہ معیار بھی کیسا اعجازی رنگ میں پورا ہوا۔ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ اِنِّیْ مَہِیْنٌ مِّنْ اِرَادَاہَا نَتَاکَ ہر ایک شخص جو تیری امانت کرے گا وہ نہیں مرے گا جب تک وہ اپنی امانت نہ دیکھ لے۔ اب ان مولویوں سے پوچھ لو کہ انہوں نے میرے مقابل خدا کے حکم کو کوئی ذلت بھی دیکھی ہے یا نہیں۔ اب کون میری توہین کرے گا اور اسے بل سکتا ہے کہ قرآن کی یہ پیشگوئی جو یصیبکم بعض الذی یعدکم ہے میری تائید کیلئے ظہور میں نہیں آئی بلکہ قرآن شریف نے بعض کے لفظ سے جتلا دیا کہ وعید کی پیشگوئی کیلئے بعض کا نمونہ کافی ہے اور اس جگہ نمونے تھوڑے نہیں۔ کیا مخالفوں کی اس میں کچھ تھوڑی ذلت ہے کہ غلام دستگیر اپنی کتاب فتح رحمانی میں یعنی صفحہ ۲۶ میں میرے پر عام لفظوں میں بڑے عاقل یعنی فریقین میں سے کاذب پر بڑے عاقل کے خود ہی چند روز کے بعد مر گیا۔ محمد حسن

اے دیکھو کہ کیا یہ مجزہ نہیں کہ جس مولوی نے لڑکے کے بعض نادان ملازموں سے میرے پر فتویٰ لکھوا دیا تھا۔ وہ مبالغہ کر کے خود ہی مر گیا۔ منہ

پھر ماسوا اس کے اگر اس وجہ سے انکار کیا جاتا ہے کہ یہ امر خارق عادت ہے۔ تو کیا بموجب اصولی باتوں کے وید کے بعد الہام الہی ہونا یہ خارق عادت امر نہیں ہے پس جبکہ لیکچر ام کی موت نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ وہ قادر خدا اس زمانہ میں بھی برخلات وید کے مقرر کردہ قانون قدرت کے الہام کرتا ہے تو وید کا سارا قانون قدرت دریا برد ہو گیا اس صورت میں وید کی بات کا کوئی بھی اعتبار نہ رہا۔ ظاہر ہے کہ جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا اور اگر لیکچر ام والی پیش گوئی سے تسلی نہیں ہوئی تو پھر درخواست کرنے سے اور کوئی ذریعہ تسلی کا پیدا ہو سکتا ہے اور خدا تعالیٰ کی صمد الہامی پیشگوئیاں جو پوری ہو چکی ہیں تسلی دے سکتی ہیں غرض وید کا قانون قدرت ایسا جھوٹا ثابت ہوا کہ ساتھ ہی وید کو بھی لے ڈوبا۔ پھر اسی بنا پر اعتراض کرنا صحیح سے بعید ہے۔ ظاہر ہے کہ وید نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کے بعد خدا کی قوت تکمیل ہمیشہ کے لئے مسلوب رہے گی مگر ہم نے چکے ہوئے نشانیوں کے ساتھ ثابت کر دیا کہ وید نے جو کچھ دعویٰ کیا ہے اور جو کچھ آئندہ کے لئے خدا کے الہام کے بارہ میں لکھا ہے کہ وہ محال اور قانون قدرت کے برخلاف ہے وہ ہر امر جھوٹ اور خلاف حق ہے بلکہ خدا ہمیشہ اپنے بندوں کو الہام کرتا ہے تو پھر بتلاؤ کہ اس کے بعد بار بار اسی وید کو پیش کرنا جس کے قانون قدرت کا نمونہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ کس قدر خلاف حیا و شرم ہے۔

۲۲۲

غرض لیکچر ام کی موت نے ثابت کر دیا کہ وید کی یہ تعلیم ہر امر غلط ہے کہ اس کے بعد الہام نہیں ہے تو پھر وید کے مقرر کردہ قانون قدرت پر اعتبار کیا رہا۔ خدا تعالیٰ کے کرڈا قانون قدرت ابھی معنی ہیں اور آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہے ہیں مگر افسوس ان لوگوں پر کہ دانستہ آنکھ بند کر لیتے ہیں اگر یورپ کا کوئی شخص یہ بات ظاہر کرے کہ میں تھر میں سے پانی نکال سکتا ہوں یا تمام تھر کو پانی بنا سکتا ہوں تو اس کے مقابل پر یہ لوگ دم بھی نہ ماریں اور فی الفور آہٹا و صدقہ کہنے لگیں مگر خدا کے کلام نے جو کچھ بیان کیا اس کو نہیں مانتے۔

ہونے کا دعویٰ کر کے قوم کا صلح قرار نہیں دیتا اور نہ نبوت اور رسالت کا مدعی بنتا ہے۔ اور محض ہنسی کے طور پر یا لوگوں کو اپنا رموز جتنے کے لئے دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے یہ خواب آئی۔ اور یا اللہم بھنا اور جھوٹ بولتا ہے یا اس میں جھوٹ ملتا ہے وہ اس نجاست کے کپڑے کی طرح ہے جو نجاست میں ہی پیدا ہوتا ہے اور نجاست میں ہی مر جاتا ہے۔ ایسا خبیث اس واقعہ نہیں کہ خدا اس کو یہ عزت دے کہ تو نے اگر میرے پر افتراء کیا تو میں تجھے ہٹاک کر دین گا بلکہ وہ بوجہ اپنی نہایت درجہ کی ذلت کے قابل التفات نہیں کوئی شخص اس کی پیروی نہیں کرتا کوئی اس کو نبی یا رسول یا مہر من اللہ نہیں سمجھتا۔ ماسوا اس کے یہ بھی ثابت کرنا چاہئے کہ اس معتربانہ عادت پر برائیاں برس گئے۔ میں حافظ محمد یوسف صاحب کی بہت کچھ واقفیت نہیں مگر یہ بھی امید نہیں۔ خدا ان کے اندوخی اعمال بہتر جانتا ہے۔ ان کے دو قول تو ہمیں یاد ہیں۔

۱۔ مٹتا ہے کہ اب وہ ان سے انکار کرتے ہیں (۱) ایک یہ کہ چند سال کا عرصہ گزرا ہے کہ بڑے بڑے جلسوں میں انہوں نے بیان کیا تھا کہ مولوی عبداللہ غزنوی نے میرے پاس بیان کیا کہ آسمان کے ایک نوہ فلکیاں پر گرا اور میری لود اس سے بے نصیب رہ گئی۔ (۲) دوسرے یہ کہ خدا تعالیٰ نے انسانی تشل کے طور پر ظاہر ہو کر ان کو کہا کہ مرزا غلام احمد حق پر ہے کیوں لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اب مجھے خیال آتا ہے کہ اگر حافظ صاحب ان دو واقعات سے اب انکار کرتے ہیں جن کو بار بار بہت سے لوگوں کے پاس بیان کر چکے ہیں تو نعوذ باللہ بے شک انہوں نے خدا تعالیٰ پر افتراء کیا ہے۔ کیونکہ جو شخص سچ کہتا ہے اگر وہ مر بھی جائے تب بھی انکار نہیں کر سکتا

\* میں ہرگز قبول نہیں کرتا کہ حافظ صاحب میں ہر دو واقعات کے انکار کرتے ہیں۔ ان واقعات کا گواہ نہ صرف میں ہوں بلکہ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت گواہ ہے اور کتاب نزالہ اولیاء میں ان کی زبانی مولوی عبداللہ صاحب کا کشف صبح پرچکا ہے۔ میں تو یقیناً جانتا ہوں کہ حافظ صاحب ایسا کذب مزیح ہرگز نہیں کہتا ہے کہ قوم کی طرف سے ایک بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں۔ ان کے بھائی محمد یعقوب نے تو انکار نہیں کیا تو وہ کیونکر کرینگے۔ جھوٹ بولنا مرد ہونے سے کم نہیں۔ منہا

۶۰

عجیب قدرت دکھلاتا ہے کہ جب امام مذکور بحالت زار نزار گھر واپس آیا تو اثر الہام  
برعکس پایا یعنی لڑکے کے آثار و بصحت دیکھے غرض کہ مومنہ منحوس سے یہ کلمہ نکلنا ہی تھا  
کہ دم بدم لڑکے کو آرام ہونے لگا۔ جب لوگوں نے عجیب الدعوات صاحب راہیہ دہی  
لفظ ہندو کی لیاقت کا ہے، کی بنی اڑانی تو جواب دیا کہ الہام غلط نہیں ہو سکتا۔  
دائم یہ بچہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ تمام بڑا قصہ پراقترا آریہ کا۔

اب دیکھنا چاہیے کہ وہ کنج جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی تھوٹ بولتے ہوئے  
شرکتے ہیں مگر اس آریہ میں اس قدر بھی شرم باقی نہ رہی جس قوم میں اس جنس کے  
شریف و امین لوگ ہیں وہ کیا کچھ ترقیاں نہیں کریں گے۔ اب اس نیک ذات آریہ پر  
غرض ہے کہ ایک جلسہ کرا کر ہمارے روبرو اس بہتان کی تصدیق کراوے تا اصل راوی  
کو حلف سے پوچھا جائے اور اس بے اصل بہتان کے لئے نہ صرف ہم اس راوی کو حلف  
دیں گے بلکہ آپ بھی حلف اٹھائیں گے فریقین کے حلف کا یہ مضمون ہو گا کہ اگر  
پچ پچ اپنے حافظ کی پوری یادداشت سے بلا ذرہ کم و بیش میں نے بیان نہیں کیا تو  
اے خدائے قادر مطلق اور اے پریشہ سرشت شکتی مان ایک سال تک اپنے قہر عظیم سے  
ایسی میری بیخ کنی کرا اور ایسا ہیبت ناک عذاب نازل فرما کہ دیکھنے والوں کو عبرت ہو  
اور پھر اگر ایک سال تک آسمانی عذاب سے اصل راوی محفوظ رہا تو ہم اپنے جھوٹا ہونے کا خود شہاد  
دیدیں گے۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خداتعالیٰ ایسے بہتان صریح کو بے فیصلہ نہیں چھوڑے  
گا۔ یہ تو ہمارے لئے اور ایک ملہم من اللہ کے لئے ممکن بلکہ کثیر الوقوع ہے جو کوئی  
تو اب یا الہام شتیبہ طور پر معلوم ہو جس کی احتمالی طور پر کئی معنی کئے جائیں مگر پراقترا  
کہ قطعی طور پر یہی الہام ہو گیا کہ دین محمد جان محمد کا لڑکا اب مرے گا اس کی قبر کھودو

۲۸۶

یہ حوالہ صفحہ 351 پر درج ہے

شخص حق صفحہ 60 مندرجہ روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 386 از مرزا قادیانی



معلوم نہیں کہ کہاں تک خدا تعالیٰ کے علم میں میرے ایام دعوت کا سلسلہ ہوا اسلئے یہ لوگ باوجود مولوی کہلانے کے یہ کہتے ہیں کہ ایک خدا پر افترا کر نیوالا اور جھوٹا طہم ہنسنے والا اپنے ابتدائے افترا سے تیس سال تک بھی زندہ رہ سکتا ہے اور خدا اس کی نصرت اور تائید کر سکتا ہے اور اسکی کوئی نظیر پیش نہیں کرتے۔ اسے میاں لڑکوں! جھوٹ بولنا اور گویا کھانا ایک برابر ہے۔ جو کچھ خدا نے اپنے لطف و کرم سے میرے ساتھ معاملہ کیا یہاں تک کہ اس مدت دراز میں ہر ایک دن میرے لئے ترقی کا دن تھا۔ اور ہر ایک مقدمہ جو میرے تباہ کرنے کے لئے اٹھایا گیا خدا نے دشمنوں کو رسوا کیا۔ اگر اس مدت اور اس تائید اور نصرت کی تمہا سے پاس کوئی نظیر ہے تو پیش کرو۔ ورنہ بموجب آیت لوت قول علینا یہ نشان بھی ثابت ہو گیا اور تم اسکی پوچھے جاؤ گے۔

۱۹۔ انیسواں نشان یہ ہے کہ خواجہ غلام فرید صاحب نے جو نواب بہاولپور کے پیر تھے میری تصدیق کے لئے ایک خواب دیکھا جس کی بنا پر میری محبت خدا تعالیٰ نے اُنکے دل میں ڈال دی اور اسی بنا پر کتاب اشارات فریدی میں جو خواجہ صاحب موصوف کے طفوظات میں جا بجا خواجہ صاحب موصوف میری تصدیق فرماتے ہیں۔ اہل فکر کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ظاہری جھگڑوں میں بہت کم پڑتے ہیں اور جو کچھ خدا تعالیٰ کی طرف سے اُنکو بذریعہ خواب یا کشف یا الہام پتہ ملتا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ پس چونکہ خواجہ غلام فرید صاحب پیر صاحب العلم کی طرح پاک باطن تھے اسلئے خدا نے اُن پر میری سچائی کی حقیقت کھول دی اور کئی مولوی جیسے مولوی غلام دستگیر خواجہ صاحب کو میرا مکتب بنانے کیلئے آپکے گاؤں میں بھیجے جیسا کہ کتاب اشارات فریدی میں خواجہ صاحب نے خود یہ حالات بیان کئے ہیں اور بعض غزنویوں کا بھی خواجہ صاحب موصوف کے پاس خط پہنچا مگر آپ نے

۲۰۔ یہ یاد ہے کہ اگر میرے زمانہ الہام کو اس تاریخ سے لیا جائے جب اول حصہ براہین احمدیہ کا لکھا گیا تھا تب تو اس سال سے میرے الہام کے زمانہ کو ستائیس سال کے قریب ہوتے ہیں اور جب براہین احمدیہ کے چہارم حصہ سے شمار کیا جائے تو تب پچیس سال گزرنے لگے ہیں اور جب وہ زمانہ لیا جائے کہ جب پہلے الہام شروع ہوا تب تیس سال ہوتے ہیں۔ ص ۲۱۵

کا نزول ہے وہ دمشق میں واقع ہے بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منارہ سے اُس مسجد اقصیٰ کا منارہ مراد لیا ہے جو دمشق سے شرقی طرف واقع ہے یعنی مسیح موعود کی مسجد جو حال میں وسیع کی گئی ہے اور عمارت بھی زیادہ کی گئی۔ اور یہ مسجد فی الحقیقت دمشق سے شرقی طرف واقع ہے اور یہ مسجد صرف اس غرض سے وسیع کی گئی اور بنائی گئی ہے کہ تادمشقی مفسد کی اصلاح کرے اور یہ منارہ وہ منارہ ہے جس کی ضرورت احادیث نبویہ میں تسلیم کی گئی۔ اور اس منارہ المسیح کا خرچ دس ہزار روپیہ سے کم نہیں ہے۔ اب جو دوست اس منارہ کی تعمیر کے لیے مدد کریں گے میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بھاری خدمت کو انجام دیں گے اور میں یقیناً جانتا ہوں کہ ایسے موقع پر خرچ کرنا ہرگز ہرگز ان کے نقصان کا باعث نہیں ہوگا۔ وہ خدا کو فرض دیں گے اور معہ سود واپس لیں گے۔ کاش ان کے دل سمجھیں کہ اس کام کی خدا کے نزدیک کس قدر عظمت ہے جس نے انہیں منارہ کا حکم دیا ہے اس نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ اسلام کی مردہ حالت میں اسی گد سے زندگی کی روح پھونکی جائے گی اور یہ نفع نمایاں کا میدان ہوگا مگر یہ فتح ان ہتھیاروں کے ساتھ نہیں ہوگی جو انسان بناتے ہیں بلکہ آسمانی حربہ کے ساتھ ہے جس حربے سے فرشتے کام لیتے ہیں۔ آج سے انسانی جہاد جو تلوار سے کیا جاتا تھا خدا کے حکم کے ساتھ بند کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو شخص کافر پر تلوار اٹھاتا اور اپنا نام غازی رکھتا ہے وہ اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانی کرتا ہے جس نے آج سے تیرہ سو برس پہلے فرمایا دیا ہے کہ مسیح موعود کے آنے پر تمام تلوار کے جہاد ختم ہو جائیں گے۔ سواب میرے ظہور کے بعد تلوار کا کوئی جہاد نہیں۔ ہماری طرف سے امان اور صلہ کاری کا سفید جھنڈا بلند کیا گیا ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف دعوت کرنے کی ایک راہ نہیں۔ پس جس راہ پر نادان لوگ اعتراض کر سکیں یہ خدا تعالیٰ کی حکمت اور مسلمات نہیں پابندی کہ کسی راہ کو پھر اختیار کیا جائے اس کی ایسی ہی نشان ہے کہ جیسے جنی نشانوں کی پہلے تکذیب ہو چکی وہ پھر سے سید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دینے گئے۔ لہذا مسیح موعود اپنی فوج کو اس ممنوع مقام سے پیچھے ہٹ جانے کا حکم دیتا ہے۔ جو بدی کا بدی کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اپنے تئیں شریر کے حملہ سے بچاؤ مگر خود شریرانہ مقابلہ مت کرنا۔ جو شخص ایک

۲۰۱

نور احمد نے کہا کہ خدا کی قدرت سے کیا تعجب کہ وہ لڑکا دے۔ اس سے قریباً تین برس کے بعد جیسا کہ ابھی لکھتا ہوں۔ پہلی میں میری شادی ہوئی اور خدا نے وہ لڑکا بھی دیا اور تین اور عطا کئے۔ اس بیان کی تمام یہ لوگ تصدیق کریں گے بشرطیکہ قسم نمونہ نمبر ۲ دے کر پوچھا جائے۔ اور حافظ نور احمد سخت مخالف ہے مگر نمونہ نمبر ۲ کی قسم اس کو بھی سچ بولنے پر مجبور کرے گی۔

۱۰ تخمیناً اٹھارہ برس کے قریب عرصہ گزرا ہے کہ مجھے کسی تقریب سے مولوی محمد حسین بٹالوی ایڈیٹر رسالہ اشاعت السنۃ کے مکان پر جانے کا اتفاق ہوا۔ اُس نے مجھ سے دریافت کیا کہ آجکل کوئی الہام ہوا ہے؟ میں نے اسکو یہ الہام سنایا۔ جس کو میں کئی دفعہ اپنے مخلصوں کو سنا چکا تھا۔ اور وہ یہ ہے کہ بکر و شیب و جس کے یہ معنی اُن کے آگے اور نیز ہر ایک کے آگے میں نے ظاہر کئے کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ وہ دو عورتیں میرے نکاح میں لائے گا۔ ایک بکر ہوگی اور دوسری بیوہ۔ چنانچہ یہ الہام جو بکر کے متعلق تھا پورا ہو گیا۔ اور اسوقت بفضلہ تعالیٰ چار پسر اس بیوی سے موجود ہیں اور بیوہ کے الہام کی انتظار ہے۔ میں نہیں یقین کر سکتا کہ مولوی محمد حسین بوجہ شدتِ عناد اور تعصب اس پیشگوئی کی نسبت اپنی واقفیت بیان کر سکے۔ لیکن اگر حلف مطابق نمونہ نمبر ۲ دی جائے تو اس صورت میں اُمید ہے کہ سچ بول دے۔

۱۱ تخمیناً سو برس گزرے ہیں کہ میں نے شیخ حامد علی اور لالہ شرمبیت کھتری ساکن قادیان اور لالہ ملاوعل کھتری ساکن قادیان اور جان محمد مرحوم ساکن قادیان اور بہت سے اور لوگوں کو یہ خبر دی تھی کہ خدا نے اپنے الہام سے مجھے اطلاع دی ہے کہ

۳۵

۷۲

ہمارا کوئی الہام پیش کرنا چاہیے۔ اجتہادی غلطی نبیوں اور رسولوں سے بھی ہو جاتی ہے۔  
 اسپر وہ قائم نہیں رکھے جاتے۔ ذرہ صحیح بخاری کو کھولو اور حدیث ذہب دہلی کو خود  
 سے پڑھو۔ ایسا اعتراض کرتا جو دوسرے پاک نبیوں پر بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی  
 وہی اعتراض آئے۔ مسلمانوں اور نیک آدمیوں کا کام نہیں ہے بلکہ لعنتیوں اور شیطانوں  
 کا کام ہے۔ اگر بدل میں فساد نہیں تو قوم کا فرقہ دُور کرنے کے لئے ایک جلسہ کرو۔ اور  
 مجلس عام میں میرے پر اعتراض کرو کہ فلاں پیشگوئی جھوٹی نکلی۔ پھر اگر حاضرین نے قسم کھا کر  
 کہہ دیا کہ فی الواقع جھوٹی نکلی اور میرے جواب کو مستکر مدلل بیان اور شرعی دلیل سے رد  
 کر دیا تو اسی وقت میں تو بکرونگا۔ ورنہ چاہیے کہ سب توبہ کر کے اس جماعت میں داخل  
 ہو جائیں اور وہ ننگی اور بند بانی چھوڑ دیں۔

۱۵۰ اے مسلمانوں کی ذریت! میں نے آپ لوگوں کا کیا گناہ کیا ہے کہ آپ لوگ انواع  
 و اقسام کے منصوبوں سے میری ایذا کے درپے ہو گئے تم میں سے جو مولوی ہیں وہ ہر وقت یہی  
 وعظ کرتے ہیں کہ یہ شخص کافر بدین و جہاں ہے اور انگریزوں کی سلطنت کی مدد سے زیادہ  
 تعریف کرتا ہے اور رومی سلطنت کا مخالف ہے۔ اور تم میں سے جو ملازمت پیشہ ہیں وہ  
 اس کوشش میں ہیں کہ مجھے اس محسن سلطنت کا باغی ٹھہراویں۔ میں سنتا ہوں کہ ہمیشہ خلاف  
 واقعہ خبریں میری نسبت پہنچانے کے لئے ہر طرف سے کوشش کی جاتی ہے حالانکہ آپ  
 لوگوں کو خوب معلوم ہے کہ میں باغیانہ طریق کا آدمی نہیں ہوں۔ میری عمر کا اکثر حصہ سلطنت  
 انگریزی کی تائید اور حمایت میں گزرا ہے اور میں نے مخالفت جہاد اور انگریزی مداخلت کے  
 بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہار شائع کئے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں لکھی  
 کی جائیں تو پچاس الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔ میں نے ایسی کتابیں کو تمام ممالک عرب اور  
 مصر اور شام اور کابل اور روم تک پہنچایا ہے۔ میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس  
 سلطنت کے بچے غیر خواہ ہو جائیں اور ہمدی نونی اور مسیح تونی کی بے اصل روایتیں اور جہاد کے

بوش دلانے والے مسائل جو احمقوں کے دلوں کو خراب کرتے ہیں۔ انکے دلوں سے معدوم ہو جائیں پھر کیونکر ممکن تھا کہ میں اس سلطنت کا بڑا خواہ ہوتا یا کوئی نابھائز یا غیازہ منصوبے اپنی جماعت میں پھیلاتا جبکہ میں بیس برس تک یہی تعلیم اطاعت گورنمنٹ انگریزی کی دیتا رہا۔ اور اپنے مریدوں میں یہی ہدایتیں جاری کرتا رہا۔ تو کیونکر ممکن تھا کہ ان تمام ہدایتوں کے برخلاف کسی بغاوت کے منصوبے کی میں تعلیم کر دوں۔ حالانکہ میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے میری اور میری جماعت کی پناہ اس سلطنت کو بنا دیا ہے۔ یہ امن جو اس سلطنت کے زیر سایہ ہمیں حاصل ہے نہ یہ امن کہ معتز میں مل سکتا ہے نہ مدینہ میں۔ اور نہ سلطان روم کے پارہ تخت قسطنطنیہ میں۔ پھر میں خود اپنے آرام کا دشمن بنوں۔ اگر اس سلطنت کے بارے میں کوئی باغیازہ منصوبہ بدل میں مخفی رکھوں اور جو لوگ مسلمانوں میں سے ایسے بد خیال جہاوا اور بغاوت کے دلوں میں مخفی رکھتے ہوں میں انکو سخت نادم اور بد قسمت ظالم سمجھتا ہوں۔ کیونکہ ہم اس بات گواہ ہیں کہ اسلام کی دوبارہ زندگی انگریزی سلطنت کے امن بخش سایہ سے پیدا ہوئی ہے۔ تم چاہو دل میں مجھے کہہ دو۔ گالیاں نکالو۔ یا پھیلے کی طرح کانفر کا فتویٰ لکھو۔ مگر میرا اصول یہی ہے کہ ایسی سلطنت سے دل میں بغاوت کے نیالٹ رکھنا۔ یا ایسے خیال میں سے بغاوت کا احتمال ہوسکے سخت بد ذاتی اور خدا تعالیٰ کا گناہ ہے۔ بہتر سے ایسے مسلمان ہیں جن کے دل کبھی صاف نہیں ہوں گے جب تک ان کا یہ اعتقاد نہ ہو کہ خونِ محمدی اور خونِ مسیح کی حد نہیں تمام نساہ اور کہانیاں ہیں۔

اے مسلمانو! اپنے دین کی ہمدردی تو اختیار کرو مگر سچی ہمدردی۔ کیا اس مستحویت کے زمانہ میں دین کے لئے یہ بہتر ہے کہ ہم تلوار سے لوگوں کو مسلمان کرنا چاہیں۔ کیا جبر کرنا اور زور اور تعدی سے اپنے دین میں داخل کرنا اس بات کی دلیل ہو سکتی ہے کہ وہ دین خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے؟ خدا سے ڈرو اور یہ بیہودہ الزام دین اسلام پر مت لگاؤ کہ اس نے جہاد کا مسئلہ سکھایا ہے اور زبردستی اپنے مذہب میں داخل کرنا اسکی تعلیم ہے۔ معاذا اللہ ہرگز

اور فتویٰ دینے والے کا نام جس نے اول فتویٰ دیا ہمان۔ پس تعجب نہیں کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ ہمان اپنے کفر پر مرے گا لیکن فرعون کسی وقت جب خدا کا ارادہ ہو کہے گا امنت انہ لا الہ الا الحق امنت به بنو اسرائیل اور پھر فرمایا کہ یہ فتنہ خدا کی طرف سے ہو گا تا وہ تجھ سے بہت محبت کرے جو دائمی محبت ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگی اور خدا میں تیرا اجر ہے خدا تجھ سے راضی ہوگا اور تیرے نام کو پورا کریگا۔ بہت ایسی باتیں ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لئے اچھی نہیں اور بہت ایسی باتیں ہیں کہ تم نہیں چاہتے اور وہ تمہارے لئے اچھی ہیں۔ اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تکفیر ضروری تھی۔ اور اس میں خدا کی حکمت تھی۔ مگر انسوں ان پر بھی کے قد یہ سے یہ حکمت اور مصلحت الہی پوری ہوئی۔ اگر وہ پیدا نہ ہوتے تو اچھا تھا۔

اس قدر الہام تو ہم نے بطور نمونہ کے براہین احمدیہ میں سے لکھے ہیں۔ لیکن اس ایکس برس کے عرصہ میں براہین احمدیہ سے لیکر آج تک میں نے چالیس کتابیں تالیف کی ہیں۔ اور ساٹھ ہزار کے قریب اپنے دعویٰ کے ثبوت کے متعلق اشتہارات شائع کئے ہیں اور وہ سب میری طرف سے بطور چھوٹے چھوٹے رسالوں کے ہیں۔ اور ان سب میں میری مسلسل طور پر یہ عادت رہی ہے کہ اپنے جدید الہامات ساتھ ساتھ شائع کرتا رہا ہوں اس صورت میں ہر ایک عقلمند سوچ سکتا ہے کہ یہ ایک مدت دراز کا زمانہ ابتداء دعویٰ مامور من اللہ ہونے سے کچھ تک کیسی شبہا روزی سرگرمی سے گزرا ہے۔ اور خدا نے نہ صرف اس وقت تک مجھے زندگی بخشی بلکہ ان تالیفات کے لئے رحمت بخشی مال عطا کیا۔ وقت عنایت فرمایا۔ اور الہامات میں خدا تعالیٰ کی مجھ سے یہ عادت نہیں کہ صرف معمولی مکاتیب الہیہ ہو بلکہ اکثر الہامات میرے پیشگوئیوں سے بھرے ہوئے ہیں اور دشمنوں کے بد ارادوں کا ٹن میں جواب ہے۔ مثلاً چونکہ خدا تعالیٰ جانتا تھا کہ دشمن میری موت کی تمنا کریں گے تا یہ نتیجہ نکالیں کہ جھوٹا تھا تبھی جلد مر گیا۔ اس لئے پہلے ہی سے اُس نے

علاؤ کو وہ بجائے خود اپنے تئیں معذور سمجھتے تھے کیونکہ ان کی بائبل کے ظاہری الفاظ پر نظر تھی۔ افسوس کہ ہمارے مسلمان بھائی بھی اسی گرداب میں پڑے ہوئے ہیں اور حضرت مسیح کی نسبت یہودیوں کی طرح ان کے دلوں میں بھی یہی خیال جما ہوا ہے کہ ہم انہیں سچے آسمان سے اترتے دیکھیں گے اور یہ عجوبہ ہم بحشم خود دیکھیں گے کہ حضرت مسیح زرد رنگ کی پوشاک پہنے ہوئے آسمان سے اترتے چلے آئے ہیں اور دائیں بائیں فرشتے ان کے ساتھ ہیں اور تمام بازاری لوگ اور دیہات کے آدمی ایک بڑے میلہ کی طرح اکٹھے ہو کر دُوبے سے ان کو دیکھ رہے ہیں اور

فیدہ اختلافاً کثیراً۔ قل لو اتبع الله اهلها لفسدت السموات والارض  
من فيهن ولبطلت حكمته وكان الله عز وجل حكيماً۔ قل لو كان البحر  
مداً للحمات لبرى لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله  
مدداً۔ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وكان الله غفوراً  
رحيماً۔ پھر اس کے بعد الہام کیا گیا کہ ان علماء نے میرے گھر کو بدل ڈالا۔ میری عبادت گاہ

میں ان کے چولے ہیں میری پرستش کی جگہ میں ان کے پیالے اور ٹھوٹھیاں رکھی ہوئی ہیں اور  
چوہوں کی طرح میرے نبی کی حدیثوں کو کتر رہے ہیں (ٹھوٹھیاں وہ چھوٹی پیالیاں ہیں جن کو ہندوستان  
میں گوریاں کہتے ہیں۔ عبادت گاہ سے مراد اس الہام میں زمانہ حال کے اکثر مولویوں کے دل ہیں جو دنیا سے  
بھرے ہوئے ہیں) اس جگہ مجھے یاد آیا کہ جس روز وہ الہام مذکورہ ہوا جس میں قاریاں میں نازل ہونے کا  
ذکر ہے پوچھا اس درود کشنی طور پر میں نے دیکھا کہ میرے بھائی صاحب مرحوم میرزا غلام قادر میرے  
قریب بیٹھ کر باہر بلند قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے انہیں نے بان نقرات کو پٹھا کہ  
انا انزلنہ قریناً من القادحیاں تو میں نے شکر بہت تعجب کیا کہ کیا قاریاں کا نام ہی قرآن شریف  
میں لکھا ہوا ہے؟ تب انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو لکھا ہوا ہے نبی نے نظر ڈال کر جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ  
فی الحقیقت قرآن شریف کے دائیں صفحہ میں شاید قریب نصف کے موقع پر یہی الہامی عبارت لکھی ہوئی موجود  
ہے تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ ہاں واقعی طور پر قاریاں کا نام قرآن شریف میں درج ہے اور میں نے کہا  
کہ تم مشہوروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے کہ اور درجہ اور قاریاں یکشف تھا

(۱۴۹)

## قابل توجہ گورنمنٹ از طرف مہتمم کاروبار تجویز تعطیل جمعہ

میرزا غلام احمد از قادیان ضلع گورداسپور پنجاب

چونکہ قرین معلومت ہے کہ سرکار انگریزی کی غیر خواہی کے لیے ایسے ناہم مسلمانوں کے نام بھی نقشہ جات میں درج کئے جاتیں جو در پردہ اپنے دلوں میں برٹش انڈیا کو دارالحرب قرار دیتے ہیں اور ایک جھپٹی ہوئی بغاوت کو اپنے دلوں میں رکھ کر اسی اندرونی بیماری کی وجہ سے فریفت جمعہ سے منکر ہو کر اس کی تعطیل سے گریز کرتے ہیں۔ لہذا یہ نقشہ اسی غرض کے لیے تجویز کیا گیا کہ اس میں ان ناہم شناس لوگوں کے نام محفوظ رہیں کہ جو ایسے باغیانہ سرشت کے آدمی ہیں۔ اگرچہ گورنمنٹ کی خوش قسمتی سے برٹش انڈیا میں مسلمانوں میں ایسے آدمی بہت ہی تھوڑے ہیں جو ایسے مفسدانہ عقیدہ کو اپنے دل میں پوشیدہ رکھتے ہوں، لیکن چونکہ اس امتحان کے وقت بڑی آسانی سے ایسے لوگ معلوم ہو سکتے ہیں جن کے نہایت مخفی ارادے گورنمنٹ کے برخلاف ہیں اس لیے ہم نے اپنی محسن گورنمنٹ کی پولیسک خیر خواہی کی نیت سے اس مبارک تقریب پر یہ چاہا کہ جہاں تک ممکن ہو ان شریر لوگوں کے نام ضبط کئے جاتیں جو اپنے عقیدہ سے اپنی مفسدانہ حالت کو ثابت کرتے ہیں کیونکہ جمعہ کی تعطیل کی تقریب پر ان لوگوں کا شناخت کرنا ایسا آسان ہے کہ اس کی مانند ہمارے ہاتھ میں کوئی بھی ذریعہ نہیں۔ وجہ یہ کہ جو ایک ایسا شخص ہو جو اپنی نادانی اور جہالت سے برٹش انڈیا کو دارالحرب قرار دیتا ہے۔ وہ جمعہ کی فریفت سے ضرور منکر ہو گا اور اسی علامت سے شناخت کیا جائے گا کہ وہ درحقیقت اس عقیدہ کا آدمی ہے، لیکن ہم گورنمنٹ میں باادب اطلاع کرتے ہیں کہ ایسے نقشے ایک پولیسک راز کی طرح اس وقت تک ہمارے پاس محفوظ رہیں گے جب تک گورنمنٹ ہم سے طلب کرے۔ اور ہم اُمید رکھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ حکیم مزاج بھی ان نقشوں کو ایک ملکی راز کی طرح اپنے کسی دفتر میں محفوظ رکھے گی۔ اور یا فعل یہ نقشے جن میں ایسے لوگوں کے نام مندرج ہیں گورنمنٹ میں نہیں بھیجے جائیں گے۔ صرف اطلاع وہی کے طور پر ان میں سے ایک سادہ نقشہ چھپا ہوا جس پر کوئی نام درج نہیں فقط یہی مضمون درج ہے ہمراہ درخواست بھیجا جاتا ہے اور ایسے لوگوں کے نام معہ پتہ و نشان یہ ہیں:-







۴۳۲ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ :- مولوی غلام حسین صاحب ڈنگوی سابق کراک محکمہ ریلوے لاہور نے بواسطہ مولوی عبدالرحمن صاحب مبشر بذریعہ تقریر بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک دفعہ ایک سفر میں لاہور اسٹیشن پر اترے تو ایک مسجد میں جو ایک چوڑے کی شکل میں تھی آرام کے لئے بیٹھ گئے۔ یہ مسجد اس جگہ تھی جہاں اب پلیٹ فارم نمبر ۳ ہے۔ پنڈت لیکھرام وہاں آیا اور اس نے حضرت صاحب کو جھک کر سلام کیا تو حضور نے اس سے منہ پھیر لیا۔ دوسری مرتبہ پھر اس نے اسی طرح کیا۔ پھر بھی آپ نے توجہ نہ فرمائی۔ اس پر بعض خدام نے عرض کیا کہ حضور! پنڈت لیکھرام سلام کے لئے حاضر ہوا ہے آپ نے فرمایا ہمارے سید و مولیٰ محمد مصطفیٰ کو گایاں دینے والے کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ اسی طرح وہ سلام کا جواب حاصل کرنے میں ناکام چلا گیا۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ اسی واقعہ کا ذکر روایت شیخ یعقوب علی صاحب عاقانی کی روایت نمبر ۴۳۲ میں بھی ہو چکا ہے۔

۴۳۵ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ :- مولوی غلام حسین صاحب ڈنگوی نے بواسطہ مولوی عبدالرحمن صاحب مبشر بذریعہ تقریر بیان کیا کہ ایک دفعہ شیخ رحمت اللہ صاحب مرحوم تاجر لاہور نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعوت کی۔ اور دعوت کا اہتمام خاکسار کے چکر دیا۔ پلاؤ نرم بچا غفلت باور چیلوں کی متنی شیخ صاحب کھانا کھانے کے وقت عذر خواہی کرنے لگے کہ بھائی غلام حسین کی غفلت سے پلاؤ خراب ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ گوشت چا دل۔ مصالحہ اور گھی سب کچھ اس میں ہے۔ اور میں گلے ہوئے چاؤ لول کو پسند کرتا ہوں۔ یہ آپ کی ذرہ فوازی کی دلیل ہے۔ کہ فعلی پر بھی خوشی کا اظہار فرمایا۔ ممکن ہے کہ حضور دانے وار پلاؤ کو پسند فرماتے ہوں۔ لیکن خاکسار کو ملامت سے بچانے کے لئے ایسا فرمایا ہو۔

۴۳۶ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ :- مرزا دین محمد صاحب ساکن لنگوال ضلع گورداسپور نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مجھے صبح کے قریب جگایا۔ اور فرمایا کہ مجھے ایک خواب آیا ہے۔ میں نے پوچھا کیا خواب ہے۔ فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ میرے تخت پوش کے چاروں طرف تنگ چٹنا ہوا ہے۔ میں نے تیسرے پوچھی تو کتاب دیکھ کر فرمایا کہ کہیں سے بہت سارے پیرے آٹھلے اس کے بعد میں چاروں طرف ہاں رہا میرے سامنے ایک منی آرڈر آیا جس میں ہزار سے زائد پوٹیاں

مجھے اصل رقم یاد نہیں۔ جب مجھے خواب سناٹی۔ تو ملا واصل اور شرن پت کو بھی بلا کر سنائی۔ جب منی آرڈر آیا۔ تو ملا واصل و شرن پت کو بلا یا۔ اندر فرمایا۔ کہ لو بھی یہ منی آرڈر آیا ہے جا کر ڈاکخانہ سے لے آؤ۔ ہم نے دیکھا تو منی آرڈر بھیجنے والا کا پتہ اس پر درج نہیں تھا۔ حضرت صاحب کو بھی پتہ نہیں لگا کہ کس نے بھیجا ہے۔

خاکسار عرض کرتا ہے کہ آجکل کے قواعد کے سوسے رقم ارسال کنندہ کو اپنا پتہ درج کرنا ضروری ہوتا ہے مگر ہے اس زمانہ میں یہ قاعدہ نہ ہو۔ یا مرزا دین محمد صاحب کو پتہ نہ لگا ہو۔

۴۲۷  
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ میاں خیر الدین صاحب سیکھوانی نے بذریعہ تحریر مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ میں اپنے گاؤں سیکھواں سے قادیان آیا۔ حضور علیہ السلام کی عادت تھی۔ کہ گرم موسم میں عشاء شام کے وقت مسجد مبارک کے شاہ نشین پر تشریف فرما ہوتے اور حضور صاحب بھی حاضر رہتے۔ اس روز عشاء کی نماز کے بعد آپ شاہ نشین پر تشریف فرما ہوئے۔ میرزا ناصر نواب صاحب نے قادیان کے بعض گھمراہ طبقہ کی صحبت کا ذکر کیا۔ اور کہا کہ لوگ حضرت صاحب سے کوئی خاص تعلق پیدا نہیں کرتے مولوی عبد اکرم صاحب نے میرزا صاحب موصوف کے کلام کے جواب میں کہا۔ کہ دیہاتی لوگ اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ اسی اثنا میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی توہر ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے مولوی صاحب نے میرزا صاحب اوسان کی گفتگو کا تذکرہ کر دیا۔ اس پر حضرت صاحب نے مولوی صاحب کی تائید فرمائی اور فرمایا کہ میرزا صاحب دیہات کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میں اس وقت مجلس میں اپنی کمزوریوں کو یاد کر کے اور یہ خیال کر کے کہ میں بھی دیہاتی ہوں مخموم و مخزون بیٹھا ہوا تھا لیکن اسی وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا۔ کہ میاں جمال الدین و میاں امام الدین و میاں خیر الدین تو ایسے نہیں ہیں جب حضور نے ہم تین بھائیوں کو امام دیہاتیوں سے سٹھنے کر دیا۔ تو میرے مقام ہوم دور ہو گئے۔ اور میرا دل خوشی سے بھر گیا۔

خاکسار عرض کرتا ہے۔ کہ حضرت صلح کے زمانہ میں بھی اعراب لوگوں کا ایمان اسی طرح کا ہوتا تھا۔ مگر ان سے وہ لوگ مستثنیٰ ہوتے ہیں جو نبی کی صحبت سے مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ اور خدا کے فضل سے ہماری جماعت کے اکثر دیہاتی نہایت مخلص ہیں۔ دراصل ایمان کی شکل کا عارضہ شہری یا دیہاتی ہونے پر نہیں بلکہ صحبت اور استغاضہ اور پھر علم و عرفان پر ہے۔ لیکن جو نگرانی سے دور رہنے والے

یہ چند احکام بطور نمونہ ہم نے لکھے ہیں اس میں ایک تھوڑی سی عقل کا آدمی بھی سوچ سکتا ہے کہ بظاہر یہ تمام خطاب صحابہ کبریٰ کی ہیں لیکن درحقیقت تمام مسلمان ان احکام پر عمل کرنے کے لئے مامور ہیں نہ یہ کہ صرف صحابہ مامور ہیں و بس۔ غرض قرآن کا اصلی اور حقیقی اسلوب جس سے سارا قرآن بھرا پڑا ہے یہ ہے کہ اسکے خطاب کے مور و حقیقی اور واقعی طور پر تمام مسلمان ہیں جو قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے گو بظاہر صورت خطاب صحابہ کبریٰ راجح معلوم ہوتا ہے پس جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ یہ وعدہ یا وعید صحابہ تک ہی محدود ہے وہ قرآن کے عام محاورہ سے عدول کرتا ہے اور جب تک پورا ثبوت اس دعویٰ کا پیش نہ کرے تب تک وہ ایسے طریق کے اختیار کرنے میں ایک ملحد ہے۔ کیا قرآن صرف صحابہ کے واسطے ہی نازل ہوا تھا۔ اگر قرآن کے وعدہ اور وعید اور تمام احکام صحابہ تک ہی محدود ہیں تو گویا جو بعد میں پیدا ہوئے وہ قرآن سے بکلی بے تعلق ہیں۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ هَذِهِ الْخُرَافَاتِ۔

اور یہ کہنا کہ حدیث میں آیا ہو کہ خلافت تیس سال تک ہوگی عجیب فہم ہے جس حالت میں قرآن کریم بیان فرماتا ہو کہ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ تو پھر اس کے مقابل پر کوئی حدیث پیش کرنا اور اسکے معنی مخالف قرآن قرار دینا معلوم نہیں کہ کس قسم کی سمجھ ہے اگر حدیث کے بیان پر اعتبار ہو تو پہلے ان حدیثوں پر عمل کرنا چاہیے جو صحت اور وثوق میں اس حدیث پر کئی درجہ بڑھی ہوئی ہیں مثلاً صحیح بخاری کی وہ حدیثیں جن میں آخری زمانہ میں بعض خلیفوں کی نسبت خبر دی گئی ہے خاص کر وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہو کہ آسمان سے اسکی نسبت آواز آئیگی کہ هَذَا خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِيِّ۔ اب سوچو کہ یہ حدیث کس پایہ اور مرتبہ کی ہو جو ایسی کتاب میں درج ہو جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہو لیکن وہ حدیث جو معترض صاحب نے پیش کی ہو علماء کو اس میں کئی طرح کا جرح ہو اور اسکی صحت میں کلام ہو کیا معترض نے غور نہیں کیا جو آخری زمانہ کی نسبت بعض خلیفوں کے ظہور کی خبریں دی گئی ہیں کہ حادث آئیگا مہدی آئیگا۔ آسمانی خلیفہ آئیگا۔ یہ خبریں حدیثوں میں ہیں یا کسی اور کتاب میں۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہے کہ زمانے میں ہیں۔

۵۲۷

و منع بی من النعم الظاهرة والباطنة وجعلنی من المجذوبین۔ و کنت شاباً  
وقد شخنت وما استفتحت باباً الا فتحت۔ وما سألت من نعمة الا اعطيت  
وما استكشفت من امر الا كشفت۔ وما ابتهلت في دعاء الا اجيبت۔  
و كل ذاك من حبى بالقرآن وحب سیدی و اما می سید المرسلین۔ اللهم  
صل وسلم عليه بعدد نجوم السموات و ذرات الارضین، ومن اجل هذا المحب  
الذی کان فی فطرتی کان الله معی من ازل امری حین ولدت و حین كنت  
ضریعاً عند ظمیری و حین كنت اقرء فی المتعلمین۔ و قد حبب الی منذ ذنوت  
العشرين ان انصر الدين۔ و اجادل البراهمة والقسيسین۔ و قد الفت  
فی هذه المناظرات مصنفات عديدة۔ و مؤلفات مفيدة منها كتابي  
**البراهين**۔ كتاب نادر مانع على منواله فی ايام خالية فليقرء من كان  
من امرتائین۔ قد سللت فيه ضوارم الحجج القطعية على اقوال الملحدين۔  
و رميت بشبهها الشياطين المبطلين۔ قد خفض هام كل معاند بذالك  
السيف المسلول۔ و تبينت فضيحتهم بين ارباب المنقول والمعقول۔ و بين  
المصنفين۔ فيه دقائق العلوم و شواردها و الالهامات الطيبة الصريحة و  
الكثوف الجليئة و مواردها۔ و من كل ما يجلى درر معارف الدين المتين و لی  
كتب اخرى تشابهه فی الكمال۔ منها الكحل و التوضيح و الازالة و فتح الاسلام  
و كتاب آخر سبق كلها الفته فی هذه الايام اسمه دافع الوسوس هو نافع جداً  
للذين يريدون ان يروا حسن الاسلام۔ و يكفون افواه المخالفين۔ تلك كتب  
ينظر اليها كل مسلم بعين المحبة و المودة و ينتفع من معارفها و يقبلني و يصدق

دعوتی۔ الاذریۃ البغایا الذین ختم اللہ علی قلوبہم فہم لا یقبلون۔ ولما  
 بلغت اشد عمری وبلغت اربعین سنۃ جاء تنی نسیم الوحی بریا عنایات  
 ربی لیزید معرفتی و یقینی و یرتفع حجبی و اکون من المستیقنین فاؤل ما  
 فتح علی بابہ هو الرؤیا الصالحۃ فکنت لا اری رؤیا الا جاءت مثل فلق  
 الصبح و انی رايت فی تلك الايام رؤیا صالحۃ صادقة قریباً من القین او  
 اکثر من ذالک۔ منها محفوظۃ فی حافظتی و کثیر منها نسیتها۔ ولعل  
 اللہ یکررہا فی وقت اخر و نحن من الآملین۔ و رايت فی غلواء شبابی  
 و عند دواعی التصابی کافی دخلت فی مکان و فیہ حقدتی و خدعی فقلت  
 طہروا فرأشئ فان وقتی قد جاء ثم استیقظت و خشیت علی نفسی  
 و ذهب و هلی الی انی من المائتین۔ و رايت ذات لیلۃ و انا غلام  
 حدیث السن کافی فی بیت لطیف نظیف یذکر فیہا رسول اللہ صلی اللہ  
 علیہ وسلم فقلت ایہا الناس این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاشاروا  
 الی حجرٍ قد دخلت مع الداخلین۔ نبش بی حین و اقیته۔ و حیانی باحسن  
 ما حییتہ و ما انسی حسنه و جماله و ملاحظته و تحننه الی یومی هذا۔ شغفنی  
 حباً و جذبنی بوجه حسین قال ما هذا بیمنک یا احمد فنظرت فاذا  
 کتاب بیدی الیمنی و خطر بقلبی انه من مصنفاتی قلت یا رسول اللہ  
 کتاب من مصنفاتی قال ما اسم کتابک فنظرت الی الکتاب مرۃ اخرى  
 و انا کالمتحیرین۔ فوجدته بشابہ کتاباً کان فی دار کتبی و اسمہ  
 قطبی قلت یا رسول اللہ اسمہ قطبی قال ارنی کتابک القطبی فلما

(۲۵) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے مولوی شیر علی صاحب نے کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام قادیان سے گورداسپور جاتے ہوئے بٹالہ ٹھیرے وہاں کوئی بہانہ جو آپ کی تلاش میں قادیان سے ہوتا ہوا بٹالہ واپس آیا تھا آپ کے پاس کچھ پھل بطور تحفہ لایا۔ پھلوں میں انگور بھی تھے۔ آپ نے انگور کھائے۔ اور فرمایا انگور میں ترشی ہوتی ہے۔ مگر یہ ترشی نزلہ کے لیے مضر نہیں ہوتی۔ پھر آپ نے فرمایا ابھی میرا دل انگور کو چاہتا تھا۔ سو خدا نے بھیج دیئے۔ فرمایا۔ کئی دفعہ میں نے تجربہ کیا ہے۔ کہ جس چیز کو دل چاہتا ہے۔ اللہ اُسے ہنسا کر دیتا ہے۔ پھر ایک واقعہ سنایا۔ کہ میں ایک سفر میں جا رہا تھا۔ کہ میرے دل میں پونڈے لگنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ مگر وہاں راستہ میں کوئی گنا میسر نہیں تھا۔ مگر اللہ کی قدرت کہ لٹوڑی دیر کے بعد ایک شخص ہم کو مل گیا جس کے پاس پونڈے تھے۔ اس سے ہم کو پونڈے لگنے۔

(۲۶) بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ اہل میں ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو سخت دُور و پُرا۔ کسی نے مرزا سلطان احمد اور مرزا افضل احمد کو بھی اطلاع دی۔ اور وہ دونوں آگئے۔ پھر ان کے سامنے بھی حضرت صاحب کو دُور و پُرا۔ والدہ صاحبہ فرماتی ہیں۔ اس وقت میں نے دیکھا۔ کہ مرزا سلطان احمد تو آپنی چار پائی کے پاس غاسوشی کے ساتھ بیٹھے رہے۔ مگر مرزا افضل احمد کے چہرہ پر ایک رنگ آتا تھا۔ اور ایک جاتا تھا اور وہ کبھی اُدھر بھاگتا تھا۔ اور کبھی اُدھر کبھی اپنی بگڑی اُتار کر حضرت صاحب کی ٹانگوں کو باندھتا تھا۔ اور کبھی پاؤں دبانے لگ جاتا تھا۔ اور گھبراہٹ میں اسکے ہاتھ کانپتے تھے۔

(۲۷) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ جب محمدی بیگم کی شادی دوسری جگہ ہو گئی اور قادیان کے تمام رشتہ داروں نے حضرت صاحب کی سخت مخالفت کی اور فلان کو شمش کرتے رہے اور سب نے



احمد بیگ والد محمدی بیگم کا ساتھ دیا اور خود کو کشش کر کے لڑکی کی شادی دوسری جگہ کرادی۔ تو حضرت صاحب نے مرزا سلطان احمد اور مرزا فضل احمد دونوں کو الگ الگ خط لکھا کہ ان سب لوگوں نے میری سخت مخالفت کی ہے اب انکے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا۔ اور ان کے ساتھ اب ہماری تیزیں بھی کبھی نہیں ہو سکتیں لہذا اب تم اپنا آخری فیصلہ کر دو اگر تم نے میرے ساتھ تعلق رکھنا ہے۔ تو پھر ان سے قطع تعلق کرنا ہوگا اور اگر ان سے تعلق رکھنا ہے تو پھر میرے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں رہ سکتا۔ میں اس صورت میں تم کو عاق کرتا ہوں۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ مرزا سلطان احمد کا جواب آیا کہ مجھ پر تائی صاحبہ کے احسانات ہیں۔ ان سے قطع تعلق نہیں کر سکتا۔ مگر مرزا فضل احمد نے لکھا کہ میرا تو آپ کے ساتھ ہی تعلق ہے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حضرت صاحب نے مرزا فضل احمد کو جواب دیا کہ اگر یہ دہشت ہے تو اپنی بیوی بنت مرزا علی شہیر کو جو سخت مخالف تھی اور مرزا احمد بیگ کی بھانجی تھی (طلاق دے دو۔ مرزا فضل احمد نے فوراً طلاق نامہ لکھ کر حضرت صاحب کے پاس روانہ کر دیا۔ والدہ صاحبہ فرماتی ہیں۔ کہ پھر فضل احمد باہر سے آکر ہائے پاس ہی ٹھیرتا تھا مگر اپنی دوسری بیوی کی فتنہ پر دازی سے آخر پھر آہستہ آہستہ اودھر جا ملا۔ والدہ صاحبہ فرماتی ہیں۔ کہ فضل احمد بیت شہیر لکھا۔ حضرت صاحب کے سامنے آئے کہ نہیں آٹھاتا تھا۔ حضرت صاحب اسکے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ فضل احمد سیدھی طبیعت کا ہے۔ اور اس میں محبت کا مادہ ہے۔ مگر دوسروں کے پھسکنے سے اودھر جا ملا ہے۔ نیز والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ جب فضل احمد کی وفات کی خبر آئی۔ تو اس رات حضرت صاحب تقریباً ساری رات نہیں سوئے۔ اور دو تین دن تک مغموم سے رہے۔ خاک سارنے پوچھا کہ کیا حضرت صاحب نے کچھ فرمایا ہی تھا؟ والدہ صاحبہ نے کہا کہ صرف اس قدر فرمایا تھا۔ کہ ہمارا اسکے ساتھ تعلق تو نہیں تھا۔ مگر مخالف اسکی موت کو بھی اعتراض کا نشانہ بنا لینگے۔ خاک سار عرض

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
حَمْدًا وَنَعْمَةً

لَا بُحْبُوحَةَ لِّلْجَنَّةِ بِالشُّؤْبِ مِنْ الْقَوْمِ إِلَّا مَنْ خَلَّصَهُ رَحْمَتُ اللّٰهِ سَمِعْنَا عَلِيمًا

اشتہار نصرت دین و قطع تعلق

از اقارب مخالف دین

عَنْ مِلَّتِ اِبْرٰهٖمَ حَنِیْفًا

پہلے بدندان تو کرے او اُفتاب و آن نہ دندان یکن امی اوستاد  
ماہرین کو یلہ ہوگا کہ اس عاجز نے ایک دینی خصوصیت کے پیش آجانے کی وجہ سے ایک نشان کے مطابق  
کے وقت اپنے ایک قوی میرزا احمد بیگ ولد غیرزا گاماں بیگ ہوشیار پوری کی دختر کاں کی نسبت بگم  
المام الہی یہ اشتہار دیا تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہی مقدر اور قرار یافتہ ہے کہ وہ لڑکی اس عاجز کے  
نکاح میں آئے گی۔ خواہ پہلے ہی باکرہ ہونے کی حالت میں آجائے اور یا خدا تعالیٰ یہ وہ کرے اس کو میری طرف  
لے آوے۔ چنانچہ تفصیل ان کل امور مذکورہ بالا کی اس اشتہار میں درج ہے۔ اب باعث تحریر اشتہار بتایا  
ہے کہ میرا بیٹا سلطان احمد نام جو نائب تحصیلدار لاہور میں ہے اور اس کی مالی صاحبہ جنوں نے اس کو بیٹا  
بنایا ہوا ہے وہی اس مخالفت پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ اور یہ سارا کام اپنے ہاتھ میں لے کر اس تجویز میں ہیں کہ  
مید کے دن یا اس کے بعد اس لڑکی کا کنی سے نکاح کیا جائے۔ اگر یہ اوروں کی طرف سے مخالفت کا رد ہوتی  
ہوتی تو میں درمیان میں دخل دینے کی کیا ضرورت اور کیا غرض تھی۔ امر ربی تھا۔ اور وہی اس کو اپنے فضل و کرم  
سے ظہور میں لاتا۔ مگر اس کام کے مدارالمام وہ لوگ ہو گئے جن پر اس عاجز کی اطاعت فرض تھی اور ہر چند  
سلطان احمد کو سمجھایا اور بہت تاکید کی خط لکھے کہ تو اور تیری والدہ اس کام سے الگ ہو جائیں۔ ورنہ میں تم سے  
جدا ہو جاؤں گا اور تمہارا کوئی حق نہیں رہے گا۔ مگر انہوں نے میرے خط کا جواب تک نہ دیا۔ اور کئی بھروسے  
بیزاری ظاہر کی۔ اگر ان کی طرف سے ایک تیز تلوار کا بھی مجھے زخم پہنچتا تو بخدا میں اس پر صبر کرتا، لیکن انہوں  
نے دینی مخالفت کر کے اور دینی مقابلے سے آزار دے کر مجھے بہت ستایا۔ اور اس حد تک میرے دل کو توڑ دیا

ل النساء: ۱۳۹

یہ حوالہ صفحہ 361 پر درج ہے

مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 186، 187 از مرزا قادیانی

کہ میں بیان نہیں کر سکتا اور عہد چاہا کہ میں سخت ذلیل کیا جاؤں۔ سلطان احمد ان دو بڑے گناہوں کا ترکیب ہوا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مخالفت کرنی چاہی۔ اور یہ چاہا کہ دین اسلام پر تمام مخالفتوں کا حملہ ہو۔ اور یہ اپنی طرف سے اس نے ایک بنیاد رکھی ہے اس امید پر کہ یہ جھوٹے ہو جائیں گے اور دین کی ہتک ہوگی۔ اور مخالفتوں کی فتح۔ اس نے اپنی طرف سے مخالفت تلواریں پلانے میں کچھ فرق نہیں کیا اور اس نادان نے نہ سمجھا کہ خداوند قدیر و غیور اس دین کا حامی ہے اور اس عاجز کا بھی حامی۔ وہ اپنے بندہ کو کسی ضیاع نہ کرے گا۔ اگر سارا جہان مجھے برباد کرنا چاہے تو وہ اپنی رحمت کے ہاتھ سے مجھ کو بچائے گا۔ کیونکہ میں اس کا ہوں اور وہ میرا۔ دوم سلطان احمد نے مجھے جو میں اس کا باپ ہوں سخت ناہنجیر قرار دیا اور میری مخالفت پر کمر باندھی اور تولی اور فعلی طور پر اس مخالفت کو کمال تک پہنچایا۔ اور میرے دینی مخالفتوں کو حدودی اور اسلام کی ہتک بدل و جان منتور رکھی۔ سو چونکہ اس نے دونوں طور کے گناہوں کو اپنے اندر جمع کیا۔ اپنے خدا کا تعلق بھی توڑ دیا اور اپنے باپ کا بھی۔ اور ایسا ہی اس کی دونوں والدہ نے کیا۔ سو جبکہ انہوں نے کوئی تعلق مجھ سے باقی نہ رکھا۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اب ان کا کسی قسم کا تعلق مجھ سے باقی رہے اور ڈرتا ہوں کہ ایسے دینی دشمنوں سے پیوند رکھنے میں معصیت نہ ہو۔ لہذا میں آج کی تاریخ کو دوسری مئی سنہ ۱۹۰۷ء ہے۔ حرام اور خواص پر بذریعہ اشتہار ہذا ظاہر کرتا ہوں کہ اگر یہ لوگ اس ارادہ سے باز نہ آئے۔ اور وہ تجویز جو اس لڑکی کے ناطہ اور نکاح کرنے کی اپنے ہاتھ سے یہ لوگ کر رہے ہیں اس کو موقوف نہ کر دیا۔ اور جس شخص کو انہوں نے نکاح کے لیے تجویز کیا ہے اس کو رد نہ کیا بلکہ اسی شخص کے ساتھ نکاح ہو گیا تو اسی نکاح کے دن سے سلطان احمد عاق اور محروم اللہ ہوگا اور اسی روز سے اس کی والدہ پر میری طرف سے طلاق ہے۔ اور اگر اس کا بھائی فضل احمد جس کے گھر میں مرزا احمد بیگ والد لڑکی کی بھانجی ہے اپنی اس بیوی کو اسی دن جو اس کو نکاح کی خبر ہو اور طلاق نہ دیوے تو پھر وہ بھی ماق اور محروم اللہ ہوگا۔ اور آئندہ ان سب کا کوئی حق میرے پر نہیں رہے گا۔ اور اس نکاح کے بعد تمام تعلقات خویشی و قربت و ہمدردی دور ہو جائے گی۔ اور کسی نیکی۔ بدی۔ رنج و راحت، شادی اور ماتم میں ان سے شراکت نہیں رہے گی۔ کیونکہ انہوں نے آپ تعلق توڑ دینے اور توڑنے پر راضی ہو گئے۔ سو اب ان سے کچھ تعلق رکھنا قطعاً حرام اور ایمانی غیوری کے برخلاف اور ایک ذلوتی کام ہے۔ مومن و توبت نہیں ہوتا۔

پہوں نہ بود خویش را در امانت و تقویٰ و طبع رعم بہ از مودت قریبے

والتلا من اتبع الحدی

المش

مرزا غلام احمد لویانہ  
دہلی

حفاظی پریس لویانہ

تحفہ گولڑویہ

۱۵۳

اور جس تاریخ میں لیکھرام کا قتل ہوا بیان کیا گیا تھا اسی طرح سے لیکھرام قتل ہوا اور کئی سو لوگوں نے گواہی دی کہ وہ پیشگوئی بہت صفائی سے پوری ہو گئی۔ چنانچہ اب تک وہ محضر نامہ میرے پاس موجود ہے جس پر ہندوؤں کی گواہیاں بھی ثبت ہیں دیا ہی پیشگوئی کے مطابق میرے گھر میں چار لڑکے پیدا ہوئے اور پسر چہارم کی پیدائش تک پیشگوئی کے مطابق عبدالحق غزنوی زندہ رہا۔ اس میں کسی قدرت الہی پائی جاتی ہے ایسا ہی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ مگرسی انور مولوی حکیم نور الدین صاحب کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا بدن پھوڑوں سے بھرا ہوا تھا اور وہ پھوڑے ایک سال سے بھی کچھ زیادہ دنوں تک اس لڑکے کے بدن پر رہے جو بڑے بڑے اور خطرناک اور بد نما اور موٹے اور ناقابل علاج معلوم ہوتے تھے جن کے اب تک داغ موجود ہیں۔ کیا یہ طاقتیں بجز خدا کے کسی اور میں بھی پائی جاتی ہیں؟ پھر یہ پیشگوئیاں کچھ ایک دو پیشگوئیاں نہیں بلکہ اسی قسم کی سو سے زیادہ پیشگوئیاں ہیں جو کتاب تریاق القلوب میں درج ہیں۔ پھر ان سب کا کچھ بھی ذکر نہ کرنا۔ اور بار بار احمدیہ کے داماد یا آتم کا ذکر کرتے رہنا کس قدر مخلوق کو دھوکہ دینا ہے۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے کہ مثلاً کوئی شریر النفس ان تین ہزار معجزات کا کبھی ذکر نہ کرے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہور میں آئے اور حدیثیہ کی پیشگوئی کو بار بار ذکر کرے کہ وہ وقت اندازہ کر رہے پر پوری نہیں ہوتی۔ یا مثلاً حضرت مسیح کی سان اور صریح پیشگوئیوں کا کبھی کسی کے پاس نام تک نہ لے اور بار بار منسی ٹھٹھے کے طور پر لوگوں کو یہ کہے کہ کیوں صعب کیا وہ وعدہ پورا ہو گیا جو حضرت مسیح نے فرمایا تھا کہ ابھی تم میں سے کئی لوگ زندہ ہونگے جو میں پھر واپس آؤنگا۔ یا مثلاً شرارت کے طور پر داؤد کا تخت دوبارہ قائم کرنے کی پیشگوئی کو بیان کر کے پھر ٹھٹھے سے کہے کہ کیوں صاحب کیا یہ سچ ہے کہ حضرت مسیح بادشاہ بھی ہو گئے تھے اور داؤد کا تخت ان کو مل گیا تھا۔ شیخ سعدی رحیل کی نسبت

۶۷

یہ حوالہ صفحہ 364 پر درج ہے

تحفہ گولڑویہ صفحہ 67، مندرجہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 153 از مرزا قادیانی

شہرت دی جائیگی۔ اور تو اس سے کیوں تعجب کرتا ہے کہ خدا ایسا کرے گا۔ کیا تیرے پر وہ وقت نہیں آیا کہ تو محض معدوم تھا اور تیرے وجود کا دنیا میں نام و نشان نہ تھا۔ پھر کیا خدا کی قدرت سے یہ بعید ہے کہ تیری ایسی تائیدیں کرے۔ اور یہ وعدے پورے کر کے دکھا دے۔ اور تو ان لوگوں کو جو ایمان لائے یہ خوشخبری سنا کہ ان کا قدم خدا کے نزدیک صدق کا قدم ہے۔ سو ان کو وہ وحی سنا دے جو تیری طرف تیرے رب سے ہوئی۔ اور یاد رکھ کہ وہ زمانہ آتا ہے کہ لوگ کثرت سے تیری طرف رجوع کریں گے۔ سو تیرے پر واجب ہے کہ تو ان سے بدخلقی نہ کرے اور تجھے لازم ہے کہ تو ان کی کثرت کو دیکھ کر تھک نہ جائے۔ اور ایسے لوگ بھی ہونگے جو اپنے دطنوں سے ہجرت کر کے تیرے جموں میں آکر آباد ہونگے۔ وہی ہیں جو خدا کے نزدیک اصحاب الصفا کہلاتے ہیں۔ اور تو جانتا ہے کہ وہ کس شان اور کس ایمان کے لوگ ہونگے جو اصحاب الصفا کے نام سے موسوم ہیں وہ بہت قوی ایمان ہونگے۔ تو دیکھے گا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونگے۔ وہ تیرے پروردگار سے سچیں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے خدا! ہم نے ایک آواز دینے والے کی آواز سنی جو ایمان کی طرف بلاتا ہے۔ سو ہم ایمان لائے ان تمام پیشگوئیوں کو تم لکھ لو کہ وقت پر واقع ہونگی۔

بن چند سطروں میں جو پیشگوئیاں ہیں وہ اس قدر نشانات پر مشتمل ہیں جو دس لاکھ سے زیادہ ہونگے اور نشان بھی ایسے کھلے کھلے ہیں جو اول درجہ پر خارق عادت میں سوہم قول صفائی بیان کے لئے ان پیشگوئیوں کے اقسام بیان کرتے ہیں بعد اس کے یہ ثبوت دیں گے کہ یہ پیشگوئیاں پوری ہو گئی ہیں۔ اور درحقیقت یہ خارق عادت نشان ہیں اور اگر بہت ہی سخت گیری اور زیادہ سے زیادہ احتیاط سے بھی ان کا شمار کیا جائے تب بھی یہ نشان جو ظاہر ہوئے دس لاکھ سے زیادہ ہونگے۔

پیشگوئیوں کے اقسام میں سے اول وہ پیشگوئی ہے جس کی طرف وحی الہی و امتحانی اموال زمان الینا میں اشارہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مخالف لوگ ہلاکت پر گئے

میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں کیونکہ کثرت وحی اور کثرت امور غیبیہ اس میں شرط ہے اور وہ شرط ان میں پائی نہیں جاتی اور ضرورت تھا کہ ایسا ہوتا تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی صفائی سے پوری ہو جاتی کیونکہ اگر دوسرے صلحاء جو مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں وہ بھی اسی قدر مکالمہ و مخاطبہ الہیہ اور امور غیبیہ سے حصہ پالیتے تو وہ نبی کہلانے کے مستحق ہو جاتے تو اس صورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی میں ایک رخنہ واقع ہو جاتا اس لئے خدا تعالیٰ کی مصلحت نے ان بزرگوں کو اس نعمت کو پورے طور پر پانے سے روک دیا جیسا کہ احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ ایسا شخص ایک ہی ہو گا وہ پیشگوئی پوری ہو جائے اور یاد رہے کہ ہم نے محض نمونے کے طور پر چند پیشگوئیاں اس کتاب میں لکھی ہیں مگر دراصل وہ کئی لاکھ پیشگوئی ہیں جن کا سلسلہ ابھی تک ختم نہیں ہوا اور خدا کا کلام ہمیں قدر مجھ پر ہوا ہے کہ اگر وہ تمام لکھا جائے تو بیس اجز سے کم نہیں ہو گا۔ اب ہم اسی قدر پر کتاب کو ختم کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے چاہتے ہیں کہ اپنی طرف سے اس میں برکت ڈالے۔ اور لاکھوں دلوں کو اسکے ذریعہ سے ہماری طرف کھینچے۔ آمین ۛ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین ۛ

## تَمَّتْ

خدا کے کلام میں یہ امر قرار یافتہ تھا کہ دوسرا حصہ اس اُمت کا وہ چوگا جو سچ موعود کی جماعت ہوگی۔ اسی لئے خدا تعالیٰ نے اس جماعت کو دوسروں سے علیحدہ کر کے بیان کیا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے: **وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ** یعنی اُمت محمدیہ میں سے ایک اور فرقہ بھی ہے جو بعد میں آخری زمانہ میں آئیے والے ہیں اور حدیث صحیح میں ہے کہ اس آیت کے نزول کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سلمان فارسی کی پشت پر مارا اور فرمایا: **لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ مَحْلَقًا بَالْتِرْيَانِ لَأَنَا لِرَجُلٍ مِّنْ فَارِسٍ** اور یہ میری نسبت پیشگوئی تھی۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے براہین احمدیہ میں اس پیشگوئی کی تصدیق کیلئے وہی حدیث بطور وحی میرے پرنازل کی اور وحی کی رو سے مجھ سے پہلے اس کا کوئی مصداق معین نہ تھا اور خدا کی وحی نے مجھ میں کر دیا۔ فالحمد لله

مض جاہل اس سے دھوکا بھی کھاتے ہیں۔ لیکن حکیم مطلق نے سونے میں ایک امتیازی نشانی رکھا ہے جس کو حرافت فی الفور شناخت کر لیتے ہیں۔ اور بہتیرے سفید اور چمکتے ہوئے پتھر ایسے ہیں کہ جو ہیرے سے بہت ہی مشابہ ہیں اور بعض نادان ان کو ہیرا سمجھ کر ہزار ہا روپیہ کا نقصان اٹھاتے ہیں۔ لیکن صانع عالم نے ہیرے کے لئے ایک امتیازی نشان رکھا ہوا ہے جس کو ایک دانشمند جوہری شناخت کر سکتا ہے۔ ایسا ہی دنیا کے کل جوہرات اور عمدہ چیزوں کو دیکھ لو کہ اگرچہ بظاہر نظر کئی دوی اور دوتی درجہ کی چیزیں ٹن سے مثل میں مل جاتی ہیں مگر ہر ایک پاک اور قابل قدر جوہر اپنے امتیازی نشان سے اپنی خصوصیت کو ظاہر کر دیتا ہے۔ لہذا اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا میں اندھیرا پڑ جاتا۔ اور خود انسان کو دیکھو کہ اگرچہ وہ صورت میں بہت سے حیوانات سے مشابہت رکھتا ہے جیسا کہ بندہ سے قائم اس میں ایک امتیازی نشان ہے جس کی وجہ سے ہم کسی بندہ کو انسان نہیں کہہ سکتے۔ پھر جبکہ اس لادوی دنیا میں جو ناپائیدار اور بے ثبات ہے اور جس کا نقصان بھی بمقابل آخرت کے کچھ چیز نہیں ہے ہر ایک عمدہ اور نفیس جوہر کیلئے حکیم مطلق نے امتیازی نشان قائم کر دیا ہے جس کی وجہ سے وہ جوہر سہولت شناخت کیا جاتا ہے۔ تو پھر مذہب جس کی غلطی جہنم تک پہنچاتی ہے لہذا ایسا ہی ایک راستہ لہذا الہی اللہ کا وجود میں کا انکار عقابوت ادبی کے گڑھے میں ڈالتا ہے کیونکہ یقین کیا جائے کہ ٹن کی شناخت کے لئے کوئی بھی یقینی اور قطعی نشان نہیں پس ایسے شخص سے زیادہ کون الحق لہذا تلوں ہے کہ جو خیال کرتا ہے کہ بچے مذہب اور بچے راستباز کس لئے کوئی امتیازی نشان خدا نے قائم نہیں کیا۔ حالانکہ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں آپ فرماتا ہے کہ کتاب اللہ جو مذہب کی بنیاد ہے امتیازی نشان اپنے اللہ رکھتی ہے جس کی نظیر کوئی چیز نہیں کر سکتا۔ لہذا نیز فرماتا ہے کہ ہر ایک مومن کو فرقان عطا ہوتا ہے یعنی امتیازی نشان جس سے وہ شناخت کیا جاتا ہے پس یقیناً سمجھو کہ سچا مذہب اللہ حقیقی راستباز فرود اپنے ساتھ امتیازی نشان رکھتا ہے لہذا ہی کا نام دوسرے نفلوں میں معجزہ اور کرامت اور خلق عادت امر ہے۔

عبارتیں طالمود کی پیش کی ہیں جو بجنسہ بغیر کسی تغیر تبدل کے انجیل میں موجود ہیں اور یہ عبارتیں طالمود  
ایک دوسرے نہیں ہیں بلکہ ایک بڑا حصہ انجیل کا اور دوسری فقرات اور وہی عبارتیں ہیں جو انجیل  
میں موجود ہیں اور اس کثرت کے وہ عبارتیں ہیں جن کے دیکھنے سے ایک محتاط آدمی بھی شک میں  
پڑے گا کہ یہ کیا معاملہ ہے اور بدل میں ضرور کہیگا کہ کہاں تک اسکو توار و پھیل کرنا جاؤں اور اس  
یہودی فاضل نے اسی پر بس نہیں کی بلکہ باقی حصہ انجیل کی نسبت اسے ثابت کیا ہے کہ یہ عبارتیں  
دوسرے بیبل کی کتابوں میں سے لگتی ہیں اور بعینہ وہ عبارتیں بائبل میں سر نکال کر پیش کی ہیں۔ اور  
ثابت کیا ہے کہ انجیل سب کی سب مسروکہ ہے اور یہ شخص خدا کا نبی نہیں ہے بلکہ ادھر ادھر سے  
فقرے چرا کر ایک کتاب بنالی اور اس کا نام انجیل رکھ لیا۔ اور اس فاضل یہودی کی طرف سے  
یہ اس قدر سخت حملہ کیا گیا ہے کہ اب تک کوئی پوری پاس کا جواب نہیں دے سکا۔ یہ کتاب ہمارے  
پاس موجود ہے جو ابھی ملی ہے۔ آپ چونکہ یہ ثابت شدہ امر ہے کہ حضرت مسیح نے ایک یہودی استاد  
سے سبقاً سبقاً توریت پڑھی تھی اور طالمود کو بھی پڑھا تھا اس لئے ایک شکی مزاج کے انسان کو  
اس شہ سے نکلنا مشکل ہے کہ کیوں اس قدر عبارتیں پہلی کتابوں کی انجیل میں بلقلم داخل ہو گئیں  
اور نہ صرف وہی عبارتیں جو خدا کی کلام میں تھیں بلکہ وہ عبارتیں بھی جو انسانوں کے کلام میں تھیں  
مگر اس سنت اللہ پر نظر کرنے سے جسکو ابھی ہم لکھ چکے ہیں یہ شبہ ہیج ہے کہ کیونکہ خدا تعالیٰ باعث  
اپنی مالکیت کے اختیار رکھتا ہے کہ دوسری کتابوں کی بعض عبارتیں اپنی جدید وحی میں داخل کرے  
اسپر کوئی اعتراض نہیں چنانچہ براہین احمدیہ کے دیکھنے سے ہر ایک پر ظاہر ہوگا کہ اکثر قرآنی آیتیں اور  
بعض انجیل کی آیتیں اور بعض اشعار کسی غیر طہم کے اس وحی میں داخل کئے گئے ہیں جو بڑے حد تک مشکوکوں  
سے بھری ہوئی ہے جس کے منجانب اللہ ہونے پر یہ قوی شہادت ہے کہ تمام پیشگوئیاں اسکا آج پوری  
ہو گئیں اور پوری ہو رہی ہیں۔ غرض خدائے تعالیٰ کی یہ قدیم سے عادت ہے کہ وہ اپنی وحی کی عبارتوں اور  
مضمونوں کو دوسرے مقام سے بھی لے لیتا ہے اور پھر جاہلوں کو اعتراض پیدا ہوتے ہیں چنانچہ ان  
دنوں میں ایک اور شخص نے تالیف کی ہے جس سے وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ توریت کی کتاب پیدا نہیں ہو گیا



اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا۔ اور یہ صفت ہمدیت اگرچہ تمام نبیوں میں پائی جاتی ہے کیونکہ وہ سب خدا تعالیٰ کے شاگرد ہیں لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خاص طور پر اور اکل اور اتم تھی۔ وجہ یہ کہ دوسرے نبیوں نے انسانوں سے بھی تعلیم پائی ہے چنانچہ حضرت موسیٰ نے گویا شاہزادگی کی حیثیت میں زیر نگرانی فرعون تعلیم پائی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا استاد ایک یہودی تھا جس سے انہوں نے ساری بائبل پڑھی اور لکھنا بھی سیکھا۔ ایسا ہی اگر ایک انسان ہمدی اور خدا سے تعلیم پانے والا ہو لیکن روحانی بیماریوں کے دور کرنے کے لئے اس کو روح القدس عطا نہ کیا گیا ہو تب بھی وہ لوگوں پر رحمت پوری نہیں کر سکتا اور روح القدس کی تائید کا مقدمہ بالزمانہ نمونہ حضرت مسیح میں۔ سو اس زمانہ میں عقلی پہلو سے بھی روح القدس کی تائید کی ضرورت ہے کیونکہ ہر ایک انسان طبعاً عقلی اور نقلی دلائل سے ایسا متاثر ہو جاتا ہے کہ اگر ان کے مخالف کوئی معجزہ بھی دکھایا جائے تو کچھ اثر نہیں کرتا۔ اس لئے کامل صلح کیلئے ہمیشہ سے یہ ضروری شرطیں ہیں کہ وہ ان دونوں صفتوں سے متصف ہو یعنی وہ خدا کا خاص شاگرد ہو اور پھر ہر ایک میدان میں روح القدس سے تائید پاتا ہو۔ لہذا ہمدی آخر الزمان کیلئے جسکا دوسرا نام

یاد رہے کہ اگرچہ ہر ایک نبی میں ہمدی ہونے کی صفت پائی جاتی ہے کیونکہ سب نبی مایذ الرحمن ہیں اور نیز اگرچہ ہر ایک نبی میں مؤید بروح القدس ہونے کی صفت بھی پائی جاتی ہے کیونکہ تمام نبی روح القدس سے تائید یافتہ ہیں لیکن پھر بھی یہ دو نام دونوں کچھ خصوصیت رکھتے ہیں یعنی ہمدی کا نام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص ہے۔ اور مسیح یعنی مؤید بروح القدس کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ خصوصیت رکھتا ہے۔ گو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کے رد سے بھی نائق ہیں کیونکہ ان کو شدید القوی کا دائمی انعام دیا گیا ہے لیکن روح القدس کے مرتبہ میں جو شدید القوی سے کم مرتبہ ہے حضرت

۴۳۰

۹ مئی ۱۹۰۳ء

فرمایا۔ روایا میں کسی نے بیرون کا ایک ڈھیر چار پائی پر لا کر رکھ دیا ہے۔  
(البدرد جلد ۲ نمبر ۱۸، مورخہ ۱۹ مئی ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۰، ایشیہ۔ الحکم جلد ۸ نمبر ۱۶، مورخہ ۱۹ مئی ۱۹۰۳ء صفحہ ۵)

۹ مئی ۱۹۰۳ء

فرمایا۔ روایا میں ایک جنت دکھائی گئی۔ پھر الہام ہوا:

(۱) مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ لِيُزَادُوا فِيهَا

(۲) لِيُزَادُوا فِيهَا حَسَنَاتٌ مِمَّا كُنْتُمْ

(البدرد جلد ۲ نمبر ۱۸، مورخہ ۱۹ مئی ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۰، ایشیہ۔ الحکم جلد ۸ نمبر ۱۶، مورخہ ۱۹ مئی ۱۹۰۳ء صفحہ ۵)

۱۰ مئی ۱۹۰۳ء

دُخْتِ كِرَامٍ

(البدرد جلد ۲ نمبر ۱۸، مورخہ ۱۹ مئی ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۰، ایشیہ۔ الحکم جلد ۸ نمبر ۱۶، مورخہ ۱۹ مئی ۱۹۰۳ء صفحہ ۵)

۱۵ مئی ۱۹۰۳ء

(۱) أَنْتَ مَعِينٌ وَأَنَا مَعَكَ (۲) إِنِّي مَعَكَ يَا أَمَامَ رَفِيعِ الْقَدْرِ

(۳) رَبِّ اجْزِهِ جَزَلًا أَوْقِي (۴) شَوْخًا وَشَنْبًا لَّا كَإِذَا هُوَ كَا (۵) إِنَّهُ فَقَالَ لِيَا بَرِيدُ

(البدرد جلد ۲ نمبر ۱۸، مورخہ ۱۹ مئی ۱۹۰۳ء صفحہ ۱۰، ایشیہ۔ الحکم جلد ۸ نمبر ۱۶، مورخہ ۱۹ مئی ۱۹۰۳ء صفحہ ۵)

۱۔ ترجمہ از مرتب (۱) اس جنت کی مثال جس کا پر ہیزگاروں کو وعدہ دیا گیا ہے۔

۲۔ بد میں لیسزاد اذوا کی بجائے لفظ لیسزاد اذوا لکھا ہے۔ (مرتب)

۳۔ ترجمہ از مرتب (۱) تیرے حسن کے ساتھ انہیں بھی حسن میں بڑھانا چاہیے۔

۴۔ ترجمہ از مرتب (۱) کریم آباد کی لڑکی۔ (نوٹ از مرتب) الہام دُخْتِ كِرَامٍ کی مصداق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صاحبزادی

استرا لخصیظ بیگم صاحبہ ہیں جو ۲۵ جولائی ۱۹۰۳ء کو پیدا ہوئیں اور نواب محمد عبدالقادر خان صاحب کے عقد میں آئیں۔

۵۔ ترجمہ از مرتب (۱) تو میرے ساتھ ہے اور میں تیرے ساتھ ہوں۔ (۲) اسے عالی قدر الہام میں تیرے

ساتھ ہوں۔ (۳) اسے میرے رب سے پوری پوری جزا دے۔ (۴) چست اور ہوشیار لڑکا پیدا ہوگا۔ (۵) یقیناً

خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

یہ حوالہ صفحہ 367 پر درج ہے

تذکرہ مجموعہ وحی والہامات طبع چہارم صفحہ 430 از مرزا قادیانی

عاجز کو رسول کر کے پکارا گیا ہے۔ پھر اسکے بعد اسی کتاب میں میری نسبت یہ وحی اللہ ہے۔  
جرى الله في حلل الانبياء یعنی خدا کا رسول نبیوں کے حلوں میں (دیکھو براہین احمدیہ  
۵۰۴) پھر اسی کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی یہ وحی اللہ ہے محمد رسول الله  
والذین معه اشداء على الكفار وجاء بينهم اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا  
اور رسول بھی۔ پھر یہ وحی اللہ ہے جو ۵۵۷ براہین میں درج ہے۔ "دنیا میں ایک نذر  
آیا۔ اس کی دوسری قرأت یہ ہے کہ دنیا میں ایک نبی آیا۔ اسی طرح براہین احمدیہ میں  
اور کئی جگہ رسول کے لفظ سے اس عاجز کو یاد کیا گیا۔ سو اگر یہ کہا جائے کہ آنحضرتؐ تو  
خاتم النبیین ہیں۔ پھر آپ کے بعد اور نبی کس طرح آسکتا ہے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ  
بیشک اس طرح سے تو کوئی نبی نیا ہو یا پڑانا نہیں آسکتا۔ جس طرح سے آپ لوگ  
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری زمانہ میں اتارتے ہیں اور پھر اس حالت میں انکو نبی بھی  
مانتے ہیں۔ بلکہ چالیس برس تک سلسلہ وحی نبوت کا جاری رہنا اور زمانہ آنحضرت  
صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ جانا آپ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ بیشک ایسا عقیدہ تو  
معصیت ہے اور آیت ولكن رسول الله وخاتم النبیین اور حدیث لا نبی  
بعدي اس عقیدہ کے کذب صریح ہونے پر کامل شہادت ہے۔ لیکن ہم اس قسم کے  
عقاید کے سخت مخالف ہیں۔ اور ہم اس آیت پر سچا اور کامل ایمان رکھتے ہیں جو فرمایا کہ  
ولكن رسول الله وخاتم النبیین اور اس آیت میں ایک پیشگوئی ہے جس کی  
ہمارے مخالفوں کو خبر نہیں اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ آنحضرت  
صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیشگوئیوں کے دروازے قیامت تک بند کر دیئے گئے۔  
اور ممکن نہیں کہ اب کوئی ہندو یا یہودی یا عیسائی یا کوئی رسمی مسلمان نبی کے لفظ کو  
اپنی نسبت ثابت کر سکے۔ نبوت کی تمام کھڑکیاں بند کی گئیں مگر ایک کھڑکی سیرۃ صدیقی  
کی کھلی ہے یعنی فتاویٰ الرسول کی۔ پس جو شخص اس کھڑکی کی راہ سے خدا کے پاس آتا ہے

### ضلع مظفرنگر میں مباحثہ

پہلی پر، رزوری کو مولوی عمر الدین صاحب دہلی سے تشریح لائے۔ اور مولوی جمال الدین صاحب شمس قائم شیخ سے تشریح لیا جو کہ مولانا کاویا صاحب نے لکھا یعنی 1908ء اور 1909ء میں لکھا۔

اول مولوی عمر الدین صاحب کے مقابلہ پر یکے بعد دیگرے مولوی محمد امین دیوبندی، مولوی سید عالم دیوبندی، مولوی عبدالقدوس دیوبندی، مولوی ہوشیار علی دیوبندی، مولوی معتمد علی دیوبندی، مولوی فضل رحم کے ساتھ مولوی عمر الدین صاحب بڑی اعتراض کو ایسا لڑا جیسا کہ جیسے وہی کو پیسہ ہے جس میں کا اعتراض اہل قرآن نے بھی کیا۔

دوسرے مولوی جمال الدین صاحب شمس کے مقابلہ پر مولوی عبداللطیف مولوی خاضل شمس خاں مولوی آبدی کھرا اور مولوی جمال الدین صاحب نے صداقت سے انکار اور برزائی داخل قائم کئے مگر ان کے مقابل کے مولوی خاضل صاحب نے جواب دیا کہ وہ ہرگز ہرگز مولوی صاحب سے نہیں لڑتا اور اس شخص میں صداقت نہ تھی۔ اور اس سے کہا جائے کہ یہ مولوی صاحب سے لڑتا ہے۔ تو سن کر کہ مولوی صاحب نے جواب دے سکتے۔ آخر انہوں نے اس سے لڑنا جواب نہ دیا۔ بلکہ مولوی جمال الدین صاحب نے ان کے اٹھائیس جھوٹ کھولے۔ جو انہوں نے اپنی نظر میں لائے تھے جس کا اس کو ایک رنگ میں لڑا کرنا چاہی جس کا اثر صاحب پر بہت گہرا پڑا اور مولوی صاحب نے اس کی بہت تڑپ لیا اور اس کو کہا کہ آپ تو ہم کو بہت ذلیل کر دیا ہے۔ بہتر یہ تھا کہ آپ کچھ نہ کہتے، ہمارے

میر جیسے شخص نے مولوی کو مولوی جمال الدین نے سنا ہے کہ مولوی جمال الدین صاحب کے جھوٹ گوارا ہے۔ اور کہا کہ میں شمس نے تفریح میں

### خصیصہ مسیح مرعویہ ایک نامکتاب

۱۰ رزوری کے نامکتاب میں جو درختیات میں ہیں اور جو کہ سلسلہ لائے ہیں اور صاحب نامکتاب نے یہ لکھا ہے جو نہ وہ ذیل ہے۔

فصل مطہر اصل ۱۰ لفظ ہے

انعام لایہ۔ دفتر مولوی دہلی۔ بکریہ اور مولوی محمد حسین صاحب لکھنؤ مولوی دہلی

۱۰ رزوری کے نامکتاب میں جو درختیات میں ہیں اور جو کہ سلسلہ لائے ہیں اور صاحب نامکتاب نے یہ لکھا ہے جو نہ وہ ذیل ہے۔

فصل مطہر اصل ۱۰ لفظ ہے

انعام لایہ۔ دفتر مولوی دہلی۔ بکریہ اور مولوی محمد حسین صاحب لکھنؤ مولوی دہلی

۱۰ رزوری کے نامکتاب میں جو درختیات میں ہیں اور جو کہ سلسلہ لائے ہیں اور صاحب نامکتاب نے یہ لکھا ہے جو نہ وہ ذیل ہے۔

فصل مطہر اصل ۱۰ لفظ ہے

انعام لایہ۔ دفتر مولوی دہلی۔ بکریہ اور مولوی محمد حسین صاحب لکھنؤ مولوی دہلی

اس قدر عجیب ہے کہ وہ کیا تک کہا اور ایسا خوار ہو سکتا ہے۔ یہ سب کہ مولوی کھرا اور مولوی شمس صاحب کے ایک مطالبہ کا جواب لکھیں یا۔

ہو اسے سفر خان کے۔ آخر اسی طرح اس نے یہ لکھا ہے کہ لکھنے کے واسطے مناظرہ بند تھا۔ اور بعد ظہر کے مولوی جمال الدین صاحب نے شیخ پر تفریح لکھی کہ مولوی صاحب کے جھوٹ گوارا ہے۔ اور انہوں نے اسے تفریح لکھی ہے۔ جو کہ اس نے اس وقت لکھی ہے۔ لہذا کل نہیں جھوٹ ہو گئے۔ مولوی صاحب شمس سے لکھی تھی کہ جیسے کہ مولوی جمال الدین صاحب نے لکھا ہے کہ مولوی صاحب نے مولوی جمال الدین صاحب کے جھوٹ گوارا ہے۔ اور انہوں نے اسے تفریح لکھی ہے۔ جو کہ اس نے اس وقت لکھی ہے۔ لہذا کل نہیں جھوٹ ہو گئے۔ مولوی صاحب شمس سے لکھی تھی کہ جیسے کہ مولوی جمال الدین صاحب نے لکھا ہے کہ مولوی صاحب نے مولوی جمال الدین صاحب کے جھوٹ گوارا ہے۔ اور انہوں نے اسے تفریح لکھی ہے۔ جو کہ اس نے اس وقت لکھی ہے۔ لہذا کل نہیں جھوٹ ہو گئے۔

اس منظر نگار نے مولوی جمال الدین صاحب سے لکھی تھی کہ جیسے کہ مولوی جمال الدین صاحب نے لکھا ہے کہ مولوی صاحب نے مولوی جمال الدین صاحب کے جھوٹ گوارا ہے۔ اور انہوں نے اسے تفریح لکھی ہے۔ جو کہ اس نے اس وقت لکھی ہے۔ لہذا کل نہیں جھوٹ ہو گئے۔

### حضرت خلیفۃ المسیح کی ڈائری

(۳ جون ۱۹۲۲ء)

نیا پارک آج دیا میں کا پورے دن ایک بھر رہا۔ آج یہاں سے جہان آباد کے متعلق ملی ہیں جس میں انہوں نے ایک خط لکھا ہے۔ جو میری زبان پر جاری تھا۔

نیا پارک کے لوگ خود باغی کر رہے ہیں۔ انہوں نے فرزندوں کو بھی ساتھ لے کر شام ۵ بجے دریا میں ایک باغی خانہ بنا کر رکھا ہے۔ اس کا نام ہے "سکرار"۔

نیا پارک میں ایک باغی خانہ بنا کر رکھا گیا ہے۔ اس کا نام ہے "سکرار"۔ اس کے ساتھ ایک باغی خانہ بنا کر رکھا گیا ہے۔ اس کا نام ہے "سکرار"۔

نیا پارک میں ایک باغی خانہ بنا کر رکھا گیا ہے۔ اس کا نام ہے "سکرار"۔ اس کے ساتھ ایک باغی خانہ بنا کر رکھا گیا ہے۔ اس کا نام ہے "سکرار"۔

نیا پارک میں ایک باغی خانہ بنا کر رکھا گیا ہے۔ اس کا نام ہے "سکرار"۔ اس کے ساتھ ایک باغی خانہ بنا کر رکھا گیا ہے۔ اس کا نام ہے "سکرار"۔

نیا پارک میں ایک باغی خانہ بنا کر رکھا گیا ہے۔ اس کا نام ہے "سکرار"۔ اس کے ساتھ ایک باغی خانہ بنا کر رکھا گیا ہے۔ اس کا نام ہے "سکرار"۔

کوئی ملاکت باگہ ہیرا س کے ہم لہو لباس پر ہے۔ لڑا ہمسات آدمی کے اقد سے پیر کا ناچار ہے۔ ہندو ہیرا دل کتاب کے لڑکی کی چوٹی کھائی رہا ہے۔ سوال تھا۔ کہ چندہ اور سکے کے اقد کی کوئی کتاب لکھا ہے۔ نیا پارک میں ایک باغی خانہ بنا کر رکھا گیا ہے۔ اس کا نام ہے "سکرار"۔

سوال تھا۔ کہ چندہ اور سکے کے اقد کی کوئی کتاب لکھا ہے۔ نیا پارک میں ایک باغی خانہ بنا کر رکھا گیا ہے۔ اس کا نام ہے "سکرار"۔

نیا پارک میں ایک باغی خانہ بنا کر رکھا گیا ہے۔ اس کا نام ہے "سکرار"۔ اس کے ساتھ ایک باغی خانہ بنا کر رکھا گیا ہے۔ اس کا نام ہے "سکرار"۔

نیا پارک میں ایک باغی خانہ بنا کر رکھا گیا ہے۔ اس کا نام ہے "سکرار"۔ اس کے ساتھ ایک باغی خانہ بنا کر رکھا گیا ہے۔ اس کا نام ہے "سکرار"۔

نیا پارک میں ایک باغی خانہ بنا کر رکھا گیا ہے۔ اس کا نام ہے "سکرار"۔ اس کے ساتھ ایک باغی خانہ بنا کر رکھا گیا ہے۔ اس کا نام ہے "سکرار"۔

نیا پارک میں ایک باغی خانہ بنا کر رکھا گیا ہے۔ اس کا نام ہے "سکرار"۔ اس کے ساتھ ایک باغی خانہ بنا کر رکھا گیا ہے۔ اس کا نام ہے "سکرار"۔

ایسا مصلحت کو آنتا کر کے دکھاتے ہیں۔ کہ بڑے دلیر اور شخصیت کا وہ بڑا ہے۔ اور خاص میں جیسا برقی ہے کہ میں کی ایسی ہی بنا چاہئے۔ مگر مسلمان جو مسیحا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء کے ناکہ کو پہن کر بائیں سر پہ رکھا ہے۔ کہ ہمارے اس مصلحت بڑے ٹکے سے ہندو نے جو طریق اختیار کیا وہ درست ہے۔ کہ نہ ہندی کی طرف مڑنا تکا بندہ نسلوں پہ لڑنے والا جانے کہ ہمارے مصلحت کے ہلکانے ہی مصلحت کی یہ سدا ہے۔ اس لیے ہمیں ان روایات کو منظور رکھنا ہے۔ اس آیت

یہ باطل صحیح بات ہے کہ ہندو روایات میں کاسی میں لڑنے کے لئے کہ بڑے سے بڑے ہندو پاسکتا ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لڑ سکتا ہے۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہندو میں سب سے آگے بڑھ گئے۔ اور خدا نے آئندہ کے مصلحت بھی گواہی دی کہ آپ آئندہ آنے والی نسلوں سے پہلے آئے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ یہی ہے۔

میں نے لکھا کہ ہندو نے ہندو کو ہندو ہی کہہ کر رسول کریم کے جنتا مصلحت میں نہیں سکتا ہے۔ اور مسیح جو عروج پہنچا ہے۔ اس کی کہہ کر کہیں۔ یہ دلیل بہتر تو گویا ہندو سے خلافت جبر کا سکتے ہے۔ مگر آئندہ ہندو میں ہندو کو کھانا ہندو ہی کہہ کر کہہ کر ہندو مسلمان ترقی کی تمام راہیں جو پر بند ہیں تو اسلام کا پھر ہندو نہیں۔ کہ میرا اس میں کوئی فرق نہیں۔ کہ ایک کو بلا خدا دیا جائے۔ ہندو ہندو کو بڑھتے دیا جائے۔ ان غلطیوں سے کہ سب کو دیا جائے پھر آگے بڑھ جائے۔

نیا پارک میں ایک باغی خانہ بنا کر رکھا گیا ہے۔ اس کا نام ہے "سکرار"۔ اس کے ساتھ ایک باغی خانہ بنا کر رکھا گیا ہے۔ اس کا نام ہے "سکرار"۔

نیا پارک میں ایک باغی خانہ بنا کر رکھا گیا ہے۔ اس کا نام ہے "سکرار"۔ اس کے ساتھ ایک باغی خانہ بنا کر رکھا گیا ہے۔ اس کا نام ہے "سکرار"۔

## کلمۃ الفصیل

جلد ۱۲

۱۵۸

معرض کا یہ خیال ہے کہ کلمہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک اس غرض سے رکھا گیا ہے کہ وہ آخری نبی ہیں تبھی تو یہ اعتراض کرتا ہے کہ اگر محمد رسول اللہ کے بعد کوئی اور نبی ہے تو اس کا کلمہ بناؤ نادان اتنا نہیں سوچتا کہ محمد رسول اللہ کا نام کلمہ میں تو اس لئے رکھا گیا ہے کہ آپ نبیوں کے سر تاج اور خاتم النبیین ہیں اور آپ کا نام لینے سے باقی سب نبی خود اندر آجاتے ہیں ہر ایک کا علیحدہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے ہاں حضرت مسیح موعود کے آنے سے ایک فرق ضرور پیدا ہو گیا ہے اور وہ یہ کہ مسیح موعود کی بعثت سے پہلے تو محمد رسول اللہ کے مفہوم میں صرف آپ کے پہلے گزرے ہوئے انبیاء شامل تھے مگر مسیح موعود کی بعثت کے بعد محمد رسول اللہ کے مفہوم میں ایک اور رسول کی زیادتی پر گئی لہذا مسیح موعود کے آنے سے نود باسہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ باطل نہیں ہوتا بلکہ اور بھی زیادہ شان سے چمکنے لگ جاتا ہے۔ غرض اب بھی اسلام میں داخل ہونے کے پہلے ہی کلمہ ہے صرف فرق اتنا ہے کہ مسیح موعود کی آمد نے محمد رسول اللہ کے مفہوم میں ایک رسول کی زیادتی کر دی ہے اور بس۔ علاوہ اسکے اگر ہم بغرض حال یہ بات مان بھی لیں کہ کلمہ شریف میں نبی کریم کا اسم مبارک اس لئے رکھا گیا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں تو تب بھی کوئی مرجع واقع نہیں ہوتا اور ہم کہیں کلمہ کی ضرورت پیش نہیں آتی کیونکہ مسیح موعود نبی کریم سے کوئی الگ چیز نہیں ہے جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے صاسر وجوی وجود کانیز من فراق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی و ما سرتی اہ یہ اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا جیسا کہ آیت آخرین منہم سے ظاہر ہے پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لئے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔ اس لئے ہم کو کسی نے کلمہ کی ضرورت نہیں لائی اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی۔ قدر واد

چھٹا اعتراض یہ ہے کہ لافراق بین احد من رسالہ کے لفظ رسول کے مفہوم میں صرف وہی رسول شامل ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گند چکے ہیں اور اس کا ثبوت یہ دیا جاتا ہے کہ سجدۃ بقر کے پہلے رکوع میں قسمی کی شان میں

یہ حوالہ صفحہ 368 پر درج ہے

کلمۃ الفصیل صفحہ 158 از مرزا بشیر احمد ایم اے ابن مرزا قادیانی

۲۵ اکتوبر ۱۹۰۶ء

# شعرو سخن نظم راز اکمل آف گوپیکے

غلام احمد ہوا دارالامان میں  
مکان اس کا ہے گویا لامکان میں  
شریٹ پایا ہے نوع انس و جان میں  
بروز مصطفیٰ ہو کہ جہان میں  
بلا شک جائیگا باغ جنان میں  
یہ ہے اعجاز احمد کی زبان میں  
خدا اک قوم کا مارا - جہان میں  
کہاں طاقت تھی یہ سیت و ستان میں

امام اپنا عزیز و اس زمان میں  
غلام احمد ہے عرش رب اکرم  
غلام احمد رسول اللہ ہے برحق  
غلام احمد میا سے ہے افضل  
غلام احمد کا خادم ہے جو دل سے  
تسلی دل کو ہو جاتی ہے حاصل  
بجلا اس مجزے سے بڑھ کے کیا ہو  
قلم سے کام جو کر کے دکھایا

اور آگے سے ہیں بڑے ہر اپنی سلسل میں  
غلام احمد کو دیکھے قادیان میں  
یہ رتبہ تو نے پایا ہے جہان میں  
کہ سب کچھ لکھ دیا راز بہان میں

محمد محمد انرا کے ہیں ہم میں  
محمد دیکھے ہوں جس نے اکمل  
غلام احمد مختار ہو کر  
ترقی مدحت سرانی بچھتے کیا ہو

خدا ہے تو - خدا چھپے ہے وہ اللہ  
تراز تہ نہیں آتا بیان میں

## انصار بدر

حکیم فضل دین صاحب قادیان حال دارہ بھیرہ - بدر اخبار کے حال پر پیشہ جہان کی نظر  
دکھاتے ہیں اور اسکے واسطے تو حارسہ انکس، کاکس، کاکس - رات کے اسم

آپ کو دیکھ کر کوئی بھی خوبی کسی دوسرے نبی میں ایسی نہیں جو کہ آپ کو نہ دی گئی ہو۔

انچھ خویاں ہمہ وارند تو تنسا واری

کیا تم یہ قبول کرتے ہو کہ ایک کے ہاں بہت سے مہمان ہوں تو ان میں سے ایک کو وہ تکلف کھانا پلاؤ وغیرہ دیوے اور دوسرے کو معمول کھانا شور بیاہونی وغیرہ تو باقی مہمان کہیں گے کہ کاش ہم اس گھر میں مہمان نہ ہوتے۔ اسی طرح ایک لاکھ پوہیں ہزار پیسے جو گذرے ہیں انہوں نے کیا گناہ کیا کہ جو فضیلت اور رتبہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیا جاتا ہے ان میں سے ایک کو بھی وہ نہ ملا۔ ان سب کو فوت منتے ہو اور ایک عیسیٰ کو زندہ اور وہ بھی آسمان پر۔

قرآن فرماتا ہے رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا دطه : ۱۱۵ اور حضرت تو اس دعا کو برابر مانگتے رہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ۶۳ برس کی ہونے۔ دوسرے تمام پیغمبروں کو گھٹانا اور شیخ کو سب سے بڑھ کر فضیلت دینا ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کوئی فضیلت شیخ کو دوسروں پر ہے؛ انہوں نے نہ ساری دنیا کی اصلاح کا دعویٰ کیا۔ نہ کوئی دیکھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کو پہچاننے مقابلہ کی نوبت آئی۔ نہ کوئی شکست اٹھانی پڑی۔ چند آدمی صرف ایمان لائے وہ بھی پختے گئے۔ اس کے مقابلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو آپ کا دعویٰ کل جہان کے لیے اور سخت سے سخت دیکھ اور تکالیف آپ کو پہنچے۔ جنگیں بھی آپ نے کیں۔ ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ آپ کی زندگی میں موجود تھے پھر ان باتوں کے ہوتے ہوئے جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ایسا کلمہ زبان پر لائے گا جس سے آپ کی ہتک ہو وہ حرامی نہیں تو اور کیا ہے؟ ان کم بختوں سے کوئی پوچھے کہ پھر تم محمد رسول اللہ کیوں کہتے ہو عیسیٰ رسول اللہ ہی کہو۔

اب تم کو پتا چلے کہ جانتک ہو کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دو۔ اگر تم یہ کہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر زندہ ہیں تو ہم آج مانتے ہیں مگر جس سے تم کو فیض اور فائدہ کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اس کو ہمہ امتیازات سے تم کو کیا حاصل؟

تمام فیضوں کا سرچشمہ قرآن ہے نہ انجیل نہ تورات۔ جو قرآن کو چھوڑ کر ان کی طرف جھکتا ہے وہ مرد ہے اور کافر مگر جو قرآن کی طرف جھکتا ہے وہ مسلمان ہے۔ کیا ان کو شرم نہیں آتی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مخالفت پیش آئی تو خدا تعالیٰ نے آپ کو فار میں جگہ دی اور عیسیٰ کو جب وہ موقع پیش آیا تو آسمان پر ہاٹھایا۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ۶۳ برس کی کہتے ہیں اور عیسیٰ کو اب تک زندہ مانتے ہیں۔ ان تمام باتوں کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ عیسائیوں کا دین غالب ہے۔ آج مسلمان کم ہیں اور عیسائی زیادہ۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہی دلائل بیان کر کے پادریوں نے مسلمانوں کو عیسائی بنایا ہے۔

خدا تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ عیسیٰ مر گیا فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كَيْفَ مَرَّجُوهُ۔ اگر تمہارا مذہب قرآن ہے تو اس پر



۱۱۔ عبداللہ آتھم صاحب کو ایک ہزار انعام کا وعدہ دیا گیا تھا۔ شرط یہ ٹھوہر پر تسلیم کیا گیا۔ ۱۲۔ عبداللہ آتھم صاحب کو دو ہزار روپیہ کے انعام کا وعدہ دیا گیا۔ ۱۳۔ ایضاً تین ہزار ایضاً۔ ۱۴۔ ایضاً چار ہزار ایضاً۔ ۱۵۔ انجام آتھم شائع کیا گیا (تسلیم ہوا) ۱۶۔ انجام آتھم میں مرزا صاحب نے پیش گوئی کی تھی کہ ۹ مولوی اور ۶۸ چھاپہ والے لکڑہارے پر ایمان نہیں لائیں گے تو مرزا صاحب نے (مرزا صاحب نے اس کو تسلیم نہیں کیا)۔ ۱۷۔ اس پیش گوئی میں لیکچرارم کے مرنے کی بابت وہ لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ مباحہ کریں (تسلیم کیا گیا)۔ ۱۸۔ گنگا لیشن کو مباحہ کے واسطے بلایا گیا (تسلیم کیا گیا)۔ ۱۹۔ مولوی محمد حسین بٹالوی کو مباحہ کے واسطے بلایا گیا (تسلیم کیا گیا)۔ ۲۰۔ رائے جند سنگھ کو مباحہ کے واسطے بلایا گیا (تسلیم کیا گیا)۔ ۲۱۔ پیشگوئی بابت مرنے لیکچرارم کی۔ (تسلیم کیا گیا)۔ ۲۲۔ نسبت

ساروں کے اپنی گروہ سے خرید کر دئے تھے اور آئندہ گورنمنٹ کو اس قسم کی مدد کا عند الضرورت وعدہ بھی دیا۔ اور سرکار انگریزی کے حکام وقت سے جلد سے خدمات عمدہ عمدہ چٹھیاں خوشنودی مزاج ان کو ملی تھیں۔ چنانچہ سرسپل گریفن صاحب نے بھی اپنی کتب تاریخ دیہان پنجاب میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ غرض وہ حکام کی نظر میں بہت ہر دل عزیز تھے۔ اور بسا اوقات ان کی دلجوئی کے لئے حکام وقت ڈپٹی کمشنر، سٹیشن کے مکان پر ان کی ملاقات کرتے تھے۔ یہ مختصر میرے خاندان کا حال ہے میں ضروری نہیں دیکھتا کہ اس کو بہت طویل دوں۔ اب میرے ذاتی سوانح یہ ہیں کہ میری پیدائش ۱۸۳۹ء یا ۱۸۴۰ء میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی ہے اور میں ۱۸۵۶ء میں سولہ برس کا یا سترھویں برس میں تھا۔ اور ابھی ریش و برودت کا آغاز نہیں تھا۔ میری پیدائش سے پہلے میرے والد صاحب نے بڑے بڑے مصائب دیکھے۔ ایک دفعہ ہندوستان کا پیادہ پاسیر بھی کیا۔ لیکن میری پیدائش

۴۔ نوٹ: میں تم پیدا ہوا تھا ایک لڑکی جو میرے ساتھ تھی وہ چند روز کے بعد فوت ہو گئی تھی۔ میں خیال کرتا ہوں کہ اس طرح پر خدا تعالیٰ نے اثبیت کا مادہ مجھ سے جلی الگ کر دیا۔ ۵۔



تاریخ موسم عیسوی	تاریخ چاند حسن بھری	دن	تاریخ ہندی ہمدیہ حسن بھری
۹ فروری ۱۸۳۸ء	۲۰ ذیقعدہ ۱۲۵۳ھ	جمعہ	۷ پھانگن ۱۸۹۳ء بکرم
یکم فروری ۱۸۳۹ء	۱۵ ذیقعدہ ۱۲۵۳ھ	جمعہ	۲ پھانگن ۱۸۹۵ء بکرم
۲۱ فروری ۱۸۳۹ء	۱۶ ذیقعدہ ۱۲۵۳ھ	جمعہ	۳ پھانگن ۱۸۹۶ء بکرم

اس کے لئے دیکھو توفیقات الہامیہ معری اور تقویم بھری ہندی

اس نقشہ کی رو سے ۱۸۳۲ء عیسوی کی تاریخ بھی درست سمجھی جاسکتی ہے۔ مگر دوسرے قرائن و جن میں سے بعض اوپر بیان ہو چکے ہیں۔ اور بعض آگے بیان کئے جائیں گے صحیح ہی ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیدائش ۱۸۳۵ء عیسوی میں ہوئی تھی۔ پس ۱۳ فروری ۱۸۳۵ء عیسوی مطابق ۱۴ شوال ۱۲۵۵ھ بھری بروز جمعہ والی تاریخ صحیح قرار پاتی ہے۔ اور اس حساب کی رو سے وفات کے وقت جو ۲۲ ربیع الثانی ۱۳۲۶ھ بھری (اخبار الحکم ضمیرہ مورخہ ۲۸ مئی ۱۹۰۵ء میں ہوئی) آپ کی عمر پورے ۷۵ سال ۶ ماہ اور دس دن کی بنتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اب جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ معین طور پر معلوم ہو گئی ہے۔ ہمارے احباب اپنی تحریر و تقریر میں ہمیشہ اسی تاریخ کو بیان کیا کریں گے۔ تاکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تاریخ پیدائش کے متعلق کوئی ابہام اور اشتباہ کی صورت نہ ہے اور ہم لوگ اس بارہ میں ایک معین بنیاد پر قائم ہو جائیں۔

اس نوٹ کے ختم کرنے سے قبل یہ ذکر بھی ضروری ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو الہام الہی میں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کی عمر اسی یا اس سے پانچ چار کم یا پانچ چار زیادہ ہوگی (صفحہ ۱۹۶) اگر اس الہام الہی کے نقلی معنی لئے جائیں۔ تو آپ کی عمر پچتر چھتر۔ یا اسی یا۔ چھتر اسی پچاشی سال کی ہونی چاہیے۔ بلکہ اگر اس الہام کے معنی کرنے میں زیادہ نقلی پابندی اختیار کی جائے تو آپ کی عمر پورے ساڑھے پچتر (۷۵) یا اسی یا ساڑھے چھتر (۷۸) سال کی ہونی چاہیے۔ اور یہ ایک عجیب قدرت نانی ہے کہ مندرجہ بالا تحقیق کی رو سے آپ کی عمر پورے ساڑھے پچتر (۷۵) سال کی بنتی ہے۔

اسی ضمن میں یہ بات بھی قابل نوٹ ہے کہ ایک دوسری جگہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی پیدائش کے متعلق بحث کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم سے لیکر ہزار ششم میں سے ابھی گیارہ سال باقی رہتے تھے کہ میری ولادت ہوئی۔ اور اسی جگہ یہ بھی تحریر فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا

۷۲

حضرت صاحب سے اس بارہ میں بات کروں گا۔ چنانچہ والد صاحب، حضرت صاحب سے ملے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شیخ صاحب ہم نے آپ کے بیٹے کو یہاں رہنے کے لئے کہا ہے۔ کیونکہ میاں حامد علی کے والد نے بھی ان کو یہاں ہی چھوڑ دیا ہے۔ والد صاحب نے عرض کیا کہ جناب جس مکان میں چھ سات چراغ مل رہے ہوں اگر وہاں سے ایک اٹھا لیا جائے۔ تو وہاں بددستی میں کوئی خاص کمی واقع نہ ہوگی اور جس گھر میں فقط ایک چراغ ہو۔ اور اس کو اٹھا دیا جائے تو بالکل اندھیرا ہو جائیگا۔ اس طرح میرے والد صاحب نے ہنس کر بات ٹال دی۔ کیونکہ میاں حامد علی کے پانچ چھ بھائی تھے۔ اور میں گھر میں والد کا ایک ہی بیٹا تھا۔ لیکن مجھ کو اس بات پر سخت افسوس ہوا اور اب تک ہے۔ کہ والد صاحب نے حضرت کی بات کو قبول کیوں نہ کر لیا۔ اور مجھے اس موقع سے مستفید کیوں نہ ہونے دیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تاریخ پیدائش اور عمر بوقت وفات کا سوال ایک عرصہ سے زیرِ غور چلا آتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تصریح فرمائی ہے۔ کہ حضور کی تاریخ پیدائش معین صورت میں محفوظ نہیں ہے۔ اور آپ کی عمر کا صحیح اندازہ معلوم نہیں (دیکھو ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ۱۹۳) کیونکہ آپ کی پیدائش سکوں کی حکومت کے زمانہ میں ہوئی تھی۔ جبکہ پیدائشوں کا کوئی ریکارڈ نہیں رکھا جاتا تھا۔ البتہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بعض ایسے امور بیان فرمائے ہیں۔ جن سے ایک حد تک آپ کی عمر کی تعیین کی جاسکتی ہے۔ ان اندازوں میں سے بعض اندازوں کے لحاظ سے آپ کی پیدائش کا سال ۱۸۳۳ء بتاتا ہے۔ اور بعض کے لحاظ سے ۱۸۳۵ء تک پہنچتا ہے۔ اور اسی لئے یہ سوال ابھی تک زیرِ بحث چلا آیا ہے۔ کہ مسیح تاریخ پیدائش کیا ہے؟

میں نے اس معاملہ میں کئی جہت سے غور کیا ہے اور اپنے اندازوں کو سیرۃ المہدی کے مختلف حوالوں میں بیان کیا ہے لیکن حق یہ ہے کہ مجھے یہ خیال غالب رہا ہے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیدائش کا سال ۱۸۳۳ء عیسوی یا اس کے قریب قریب ہے۔ مگر ابھی تک کوئی تاریخ معین نہیں کی جاسکتی ہے لیکن اب بعض حوالے اور بعض روایات ایسی ملی ہیں۔ جن سے معین تاریخ کا پتہ لگ گیا ہے۔ جو بروز جمعہ ۱۳ شوال ۱۲۵۰ھ ہجری مطابق ۱۳ فروری ۱۸۳۳ء عیسوی مطابق یکم پھاگن ۱۸۹۱ء بکری ہے اس تعیین کی وجوہ یہ ہیں۔

یہ حوالہ صفحہ 370 پر درج ہے

سیرت المہدی، جلد سوم صفحہ 74 از مرزا بشیر احمد ایم اے

۳۶

کا وقت تھا۔ اور عمری حساب سے چاند کی چودھویں رات تھی۔ یہی بات انہی مکی حضرت ڈاکٹر مفتی محمد صادق صاحب نے اپنی کتاب "ذکر حبیب" کے صفحہ ۲۳۱ پر لکھی ہے۔ جس کو ناظرین دیکھ سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ بات مجھے یاد بھی تھی۔ لیکن حال میں "ذکر حبیب" کے مطالعہ سے مجھے معذرت کیسے موجود علیہ السلام کا وہ بیان مستحضر ہو گیا۔ اور میں نے تحقیق کرنا شروع کر دی۔ کیونکہ میرے دل میں تحقیق کرنے کی زور سے تحریک پیدا ہوئی۔ خوش قسمتی سے میری مرتبہ کتاب تقویم عمری جو ایک سو پچیس برس کی جبری کے نام سے بھی موسوم ہے، میرے سامنے آئی اور میں نے خود سے اس کا مطالعہ کیا۔ کتاب بھی نہیں لے ان دنوں میں ہی چھپائی تھی۔ جب براہین احمدیہ چھپائی تھی۔ یہ اجتماع اور تطابق جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی ولادت کے سالِ دو وقت کے متعلق فرمایا ہے۔ اس کی تلاش سے یہ نتیجہ حاصل ہوا کہ آپ کی ولادت جس جمعہ کو ہوئی تھی وہ ۱۴ ماہ رمضان المبارک ۱۱۳۰ ہجری کا دن تھا۔ اور حساب سمت بکرمی یکم چھانگن سمت ۱۱۸۸ کے مطابق تاریخ تھی جو عیسوی سن کے حساب سے ۱۸ فروری ۱۸۶۷ء کے مطابق ہوتی ہے۔ پس اس طریق سے حضور موصوف کی عمر ہر ایک حساب سے حسب ذیل ثابت ہوتی ہے۔

(الف) بحساب سمت ہندی بکرمی آپ یکم چھانگن ۱۱۸۸ء بکرمی کو پیدا ہوئے اور عیدِ میلادِ بکرمی کو آپ کا رفع ہوا۔ گویا ہندی بکرمی سالوں کی زد سے آپ کی عمر ۷۷ سال چار ماہ ہوئی۔

(ب) عیسوی سال، اور فروری ۱۸۶۷ء کو آپ کی ولادت ہوئی اور ۲۹ مئی ۱۹۰۵ء کو آپ اپنے خاتونِ حقیقی رفیقِ اعلیٰ سے جا ملے۔ پس اس حساب سے آپ نے ۷۷ سال دو ماہ اور ۹ دن عمر پائی۔ (ج) سنِ بکرمی مقدس کے مطابق آپ ۱۴ ماہ رمضان المبارک ۱۱۳۰ء کو پیدا ہوئے اور ربیع الثانی ۱۲۰۰ء کو خاندان سے جا ملے۔ اس حساب سے آپ کی عمر ۷۸ سال ۵ ماہ اور ۲۵ دن جوئے۔ یعنی ۷۸ سال ہوئی۔

اس سے اب صاف طور پر واضح ہوتا ہے۔ کتنا حضور کی عمر الہی الہام کے مطابق ۸۰ سال کے قریب ہوئی؟

خاکسار عرض کرتا ہے کہ میں اپنی تحقیق روایت ۱۱۳۰ء میں درج کر چکا ہوں۔ میاں معراج الدین صاحب عمر کی تحقیق اس سے مختلف ہے لیکن چونکہ دوستوں کے سامنے ہر قسم کی رائے آجانی چاہیے

۱۹۴

سید احمد علی صاحب نے درج کیا ہے۔ اس کے مطابق آپ کی تاریخ پیدائش ۱۸۳۳ء بنتی ہے اور مولوی شاد اللہ صاحب کے حوالوں سے ۱۸۲۹ء اور ۱۸۳۲ء پیدائش کے سن نکلتے ہیں۔ لیکن میرے نزدیک ان سے بڑھکر جس مخالفت کا علم ہونا چاہیے۔ وہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی ہیں۔ جن کو بچپن سے ہی آپ سے ملنے کا موقع ملتا رہا ہے۔ ان کے اشاعت السنہ ۱۸۹۲ء کے حوالے سے آپ کی پیدائش ۱۸۳۳ء کے قریب بنتی ہے۔

غرض ۱۸۳۳ء انتہائی حد ہے۔ اس کے بعد کا کوئی سن ولادت تجریر نہیں کیا جاسکتا۔ بحیثیت مجموعی زیادہ تر میلان ۱۸۳۲ء اور ۱۸۳۳ء کی طرف معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ شرف مکالمہ خاں صاحب کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ معین ہیں۔ اور یہ واقعی ایک اہم واقعہ ہے۔ جس پر تاریخ پیدائش کی بنیاد رکھی جاسکتی ہے۔ ۱۸۲۹ء ایک معین تاریخ ہے اور اس حساب سے ۱۸۳۳ء کی پیدائش ثابت ہوتی ہے۔ دوسرا اہم واقعہ آپ کے والد ماجد کا انتقال کا ہے۔ انسانی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت کے متعلق جو رائے ہے وہ بھی زیادہ وزن دار سمجھی جاسکتی ہے۔ سوس کے متعلق آپ واضح الفاظ میں فرماتے ہیں کہ والد ماجد کی وفات کے وقت آپ کی عمر چالیس سال کے قریب تھی۔ اور اپنے والد صاحب کی وفات ۱۸۶۲ء میں معین فرمادی۔ خلاصہ میرے نزدیک یہ نکلا کہ ۱۸۳۳ء صحیح سن ولادت قرار دیا جاسکتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس جگہ درج کیا گیا مضمون ختم ہوا۔

خاکسار عرض کرتا ہے کہ مکرمی مولوی عبدالرحیم صاحب ورد ایم اے سے مبلغ لندن نے یہ مضمون حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عمر اور تاریخ پیدائش کی تعیین کے متعلق لندن سے ارسال کیا تھا اور یہ مضمون اخبار الفضل ۲۲ ستمبر ۱۸۳۳ء میں شائع ہو چکا ہے۔ مضمون بہت محنت اور تحقیق کے ساتھ لکھا ہوا ہے مگر جیسا کہ میں روایت ۱۸۳۳ء میں لکھ چکا ہوں مجھے اس تحقیق سے اختلاف ہے کیونکہ میری تحقیق میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تاریخ پیدائش ۱۳ فروری ۱۸۳۵ء بنتی ہے۔ اور مددگار نے جو ہمارے دادا صاحب کی تاریخ وفات ۱۸۶۲ء لکھی ہے۔ یہی میری تحقیق میں درست نہیں۔ بلکہ صحیح تاریخ ۱۸۶۵ء ہے جیسا کہ حضرت صاحب نے سرکاری ریکارڈ کے حوالے سے کشف الظہار میں لکھی ہے۔ لیکن ایسے تحقیقی معنایں میں رائے کا اختلاف بھی بعض لحاظ سے مفید ہوتا ہے اس لیے

سیرت المہدی، جلد سوم صفحہ 194 از مرزا بشیر احمد ایم اے

یہ حوالہ صفحہ 370 پر درج ہے

میں جو دو سنا اور ہمان نوازی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اپنے شہر کے غریب و مسکین کا خیر و عافیت سے خیال رکھتی تھیں۔ اور غریبوں کو کفن ان کے ہاں سے ملتا تھا۔

بن بھائی حضرت مرزا غلام احمد صاحب سب بنا کر پانچ بن بھائی تھے۔ سب سے بڑی آپ کی ہمشیرہ مراد بی بی صاحبہ تھیں جن کی شادی مرزا محمد بیگ ہوشیار پوری سے ہوئی تھی۔ مگر وہ عین جوانی میں ہی یہ ہو گئی تھیں۔ وہ نہایت عابدہ اور زاہدہ تھیں اور تمام عمر یاد آگئی میں گزار دی۔ ان سے بعض خوارق و کرامات کا نظارہ بھی ہوا۔ مراد بی بی صاحبہ سے چھوٹے مرزا غلام قادر صاحب تھے ان سے چھوٹا ایک اور لڑکا تھا جو بچپن میں ہی فوت ہو گیا۔ ان سے چھوٹی بنت بی بی تھی جو حضرت صاحب کے ساتھ قوام پیدا ہوئی تھیں اور پیدا ہوتے ہی فوت ہو گئی تھیں۔ گویا بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹے حضرت مرزا غلام احمد صاحب تھے۔

## ولادت طفولیت اور تعلیم

سنہ ولادت حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی سنہ ولادت کے متعلق کوئی تحریری یادداشت تو ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ اس لئے اس امر میں اختلاف ہونا لازمی امر تھا۔ مگر تحقیقات سے سنہ ولادت ۱۸۳۵ء صحیح معلوم ہوتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ آپ نے کتاب البریہ میں اپنی پیدائش کا سنہ ۱۸۳۹ء یا ۱۸۴۰ء لکھا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ آپ نے یہ کسی تحریری یادداشت کی بنا پر نہیں لکھا محض تخمینہ یا اندازہ سے قیاس کر کے ایسا لکھ دیا۔ اسی لئے کوئی سنہ متعین نہیں کیا۔ ورنہ ۱۸۳۶ء یا ۱۸۳۷ء کیا معنی؟ آپ کو ایک سنہ متعین کر کے لکھنا چاہئے تھا۔ اور پھر اسی کتاب البریہ میں اسی سلسلہ مضمون میں آگے چل کر آپ تحریر فرماتے ہیں: "غرض میری زندگی قریب قریب چالیس برس کے زیر سایہ والد بزرگوار کے گزری۔ اب یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ کے والد بزرگوار کی وفات ۱۸۴۶ء میں ہوئی تو اس سے پھر یہ نتیجہ نکلا کہ آپ کا سنہ ولادت تخمیناً ۱۸۳۶ء تھا۔ ووم حضرت اقدس مرزا صاحب نے کتاب التبلیغ آئینہ کمالات اسلام میں لکھا ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب کی والدہ محترمہ آپ کو منی طلب کر کے فرمایا کرتی تھیں کہ تمہارے خاندان کے معیشت کے دن تیری ولادت کے ساتھ پھر گئے تھے اور فراخی میسر آگئی تھی۔ اور اسی لئے وہ آپ کی پیدائش کو مبارک سمجھا کرتی تھیں۔ اب قطعی طور پر یقینی بات ہے کہ راجہ رنجیت سنگھ کے زمانہ میں اس خاندان کے مصائب کے دن دور ہو کر فراخی شروع ہوئی تھی۔ اور قاریان اور اس کے ارد گرد کے بعض مراضعات

ایک معجزہ کہ گھر میں ملا نہیں ہوتی دوسری شادی کر نہیں سکتا کہ عید کی رو سے حرام ہے آخر شوگر کی ٹھہرتی ہے پارو صحت مشورہ دیتے ہیں کہ لالہ صاحب شوگر کرا لے اور بہت ہو جائیگی ایک لیل اٹھتا ہے کہ ہر شوگر جو ای مجلس میں رہتا ہے اس کام کہ بہت ہوتی ہے لالہ پہلی لیل نے اس سے شوگر کیا تھا شوگر پیدا ہو گیا لالہ شوگر پیدا ہونے کا نام شوگر بلانے ہو گیا۔ لالہ صاحب آپ ہی نے سب کام کرنے میں تو ہر شوگر کا واقف بھی نہیں۔ سہارا شریہ النفس لولے کہ ہاں ہم سمجھا دیں گے رات کو آج لے گا۔ ہر شوگر کو ٹھہری گئی وہ محلہ میں ایک مشہور قمارباز اول نمبر کا بر معاش اور حرام کار تھا۔ سنتے ہی بہت خوش ہو گیا اور انہیں کاموں کو وہ پہتا تھا پھر اس سے زیادہ اس کو کیا چاہیے تھا۔ ایک نوجوان عورت اور پھر خوبصورت شام ہوتے ہی آج وہ لالہ صاحب پہلے ہی ملا عورتوں کی طرح ایک کوٹھری میں نرم بستر کھینچا رکھا تھا اور کچھ دو دو اور ملا بھی دو تینوں میں سڑنے کی ملاقات میں رکھا یہ تھا تاکہ یہ جوتا کو صحت جو تو کھانی لیں پھر کیا تھا آتے ہی بیچ جانے لگا وراثت کے نام واپس کا شیشہ توڑ دیا اور وہ بد بخت عورت تمام رات اس سے منہ کا کراچی رہی اور اس بلیڈ نے جو شوگر کا ملا تھا نہ رات قابل شرم اس عورت سے کرکتیں کیں اور لالہ صاحب کے دل ان میں سونے اور تمام ہمت اپنے کانوں سے چھینائی کہ میں سنتے ہے بلکہ عورتوں کی دواؤں سے مشاہدہ بھی کرتے رہے صبح و صیبت بھی طرح لالہ کی تاک کھٹ کر کوٹھری سے باہر نکلا لالہ تو منتظر ہی تھے کہ کس کی طرف دوش سے اور کسے وہاں سے اس بلیڈ پر حاش کو کہا سو اور صاحب مات کیا کیفیت گندی اس شوگر اگر جلدک باودی اور شادوں میں جتا دیا کہ غسل نہ ہو گیا لالہ ذہب شوگر بہت خوش ہونے لگا کہ مجھے تو اسی دن سے آپ پر تین ہو گیا تھا جبکہ میں نے پہلی لال کے گھر کی کیفیت طبعی تھی اور پھر کیا وہ حقیقت میں دیا سے بھرا ہوا ہے کیا عمدہ تدبیر لکھی ہے جو غلط نہ گئی۔ ہر شوگر نے کہا کہ ہاں لالہ صاحب سب کچھ ہے کیا عید کی آگیا کسی غلطی بھی جاتی ہے میں تو انہی باتوں کے خیال سے وید کو ست عیازوں کا پشنگ ہاتا ہوں اور دراصل ہر شوگر ایک شہرت پرست آدمی تھا۔ اس کو کسی وید شاستر اور شرتی شلوک کی پرانا نہ تھی اور نہ ان دنوں قیصر جو ہم نے کہہ دیا تھی نہیں اس میں ہر شوگر کی ہر وہی کاریں لے ہم نے ہر کوئی قیصر بنا کر رکھ دیا ہے۔



پر کچھ اعتقاد رکھتا تھا اُس نے صرف اللہ و ربّ کی حماقت کی باتیں سُنا کر اُس کے خوش کرنے کے لئے اُس  
 میں اُن ملاوی لگا پنے دل میں بہت ہنسنا کہ اس وقت کی پتھر لینے کے لئے کہاں تک نوبت پہنچ گئی  
 پھر اس کے بعد ہر سنگ تو رخصت ہوا اور لالہ گھر کی طرف خوش خوش آیا اور اُسے یقین تھا کہ اُس کی  
 اسی رام دہی بہت ہی خوشی کی حالت میں ہوگی کیونکہ مراد پوری ہوئی۔ لیکن اُس نے اپنے گمان کے  
 برخلاف اپنی عورت کو روٹے پلایا اور اس کو دیکھ کر تو وہ بہت ہی روٹی رہا تنگ کہ چیخیں نکل گئیں۔  
 اور چپکی تانی شروع ہوئی۔ لالہ نے حیران سا ہو کر اپنی عورت کو کہا کہ "ہے بھاگو ان آج تو خوشی کا دن  
 ہے کہ دل کی مرادیں پوری ہوئیں اور بیچ ٹھہر گیا پھر تو روتی کیوں ہے اور بولنی میں کیوں نہ روؤں تو نے  
 سارے کتبے میں میری مٹی پلیدی کی اور اپنی ناک کاٹ ڈالی اور ساتھ ہی میری بھی اس سے بہتر تھا کہ  
 میں پہلے ہی مر جاتی۔ لالہ ویٹ بولا کہ یہ سب کچھ ہوا مگر اب بچہ ہونے کی بھی کس قدر خوشی ہوگی وہ  
 خوشیاں بھی تو تو ہی کرے گی مگر رام دہی شاید کوئی نیک اہل کی تھی اُس نے تڑت جواب دیا کہ حرام  
 کے بچہ کوئی حرام کا ہی ہو تو خوشی سناوے لالہ تیز ہو کر بولا کہ ہے بے کیا کہہ دیا یہ تو ویرا گیا ہے  
 عورت کو یہ بت سن کر آگ لگ گئی بولی میں نہیں سمجھ سکتی کہ یہ کیسا اوید ہے جو بدکاری سکھاتا اور نانا  
 کاہی کی تعلیم دیتا ہے یوں تو دنیا کے مذاہب ہزاروں باتوں میں اختلاف رکھتے ہیں مگر کبھی نہیں سنا  
 کہ کسی مذہب نے وید کے ساتھ تعلیم بھی دی ہو کہ اپنی پاک ناموں کو دوسروں سے بہتر کراؤ۔ آخر  
 مذہب پاک کی سکھانے کے لئے یہاں ہے نہ بدکاری اور جرائم کاری میں ترقی دینے کے لئے۔ جب  
 رام دہی یہ سب باتیں کہہ چکی تو لالہ نے کہا کہ چپ رہو اب جو ہا سو ہو ایسا نہ ہو کہ شریک سُنیں اور  
 میرا تک لائیں۔ رام دہی نے کہا کہ اے بیجا کیا ابھی تک تیرا تک تیرے منہ پر باقی ہے ساری رات  
 تیرے شریک نے ہوتا ہوا یہ اور تیرا نکا دشمن ہے تیری منہوں کی سیاہتا اور عورت کے خاندان والی  
 سے تیرے ہی بستر پر چڑھ کر تیرے ہی گھر میں خرابی کی اور ہر ایک ٹپک حرکت کے وقت جتا بھی دیا کہ  
 میں نے خوب بدایا سو کیا اس بے فیرتی کے بعد بھی تو جیتا ہے۔ کاش تو اس سے پہلے ہی مرا ہوتا  
 اب وہ شریک اور پھر دشمن باتیں نہ نہ اور بٹھا کرنے سے کب باز رہے گا بلکہ وہ تو کہہ گیا ہے

کہ میں اس فتح عظیم کو چھپا نہیں سکتا کہ جو آج و سوا اہل کے مقابل پر مجھے حاصل ہوئی۔ میں ضرور رام دئی کا سا رانقتہ محلہ کے لوگوں پر ظاہر کروں گا سو یاد رکھ کہ وہ ہر ایک مجلس میں تیرا ناک کاٹے گا اور ہر ایک لڑائی میں یہ قصہ تجھے چستکے گا اور اس سے کچھ تعجب نہیں کہ وہ دعوے کر دے کہ رام دئی میری ہی عورت ہے کیونکہ وہ اشارہ سے یہ کہہ بھی گیا ہے کہ آئندہ بھی میں تجھے کبھی نہیں چھوڑ دوں گا۔ نالہ و تہمت نے کہا کہ نکاح کا دعویٰ ثابت ہونا تو مشکل ہے البتہ یارانہ کا اظہار کرے تو کرے تاہم ہری اور بھی رسوائی ہو بہتر تو یہ ہے کہ ہم دلش ہی چھوڑ دیں۔ بیٹا ہونے کا خیال تھا وہ تو ایشرنے دے ہی دیا بیٹے کا نام سٹکر عورت زہر خندہ منسی اور کہا کہ تجھے کس طرح اور کیونکر یقین ہوا کہ ضرور بیٹا ہوگا اول تو بیٹہ ہونے میں ہی شک ہے اور پھر اگر ہو بھی تو اس بات پر کوئی دلیل نہیں کہ لڑکا ہی ہوگا کیا بیٹا ہونا کسی کے اختیار میں ہے کیا ممکن نہیں کہ حمل ہی خطا بلنے یا لڑکی پیدا ہو لالہ و تہمت بولے کہ اگر حمل غلط گیا تو میں کہہ کر سنگہ کو جو اسی محلہ میں بہت ہے نیوگ کے لئے بلاؤں گا عورت نہایت غصہ سے ہوئی کہ اگر کہہ کر سنگہ بھی کچھ نہ کر سکا تو پھر کیا کریگا لالہ بولا کہ تو جانتی ہے کہ نرائن سنگہ بھی ہون دونوں سے کہ نہیں اس کو بلا لاؤں گا۔ پھر اگر ضرورت پڑی تو جیتل سنگہ۔ بہنا سنگہ۔ بڑا سنگہ۔ جیوں سنگہ۔ صوبانگہ۔ خزان سنگہ۔ راجن سنگہ۔ رام سنگہ۔ کشن سنگہ۔ دیال سنگہ سب اس محلہ میں رہتے ہیں اور زہد اور قوت میں ایک دوسرے سے بڑھ کر میں میرے کہنے پر سب حاضر ہو سکتے ہیں عورت دہلی کہ میں اس سے بہتر تجھے صلاح دیتی ہوں کہ بچے بالا میں ہی بننا دے تب دش میں کیا ہزاروں لاکھوں آ سکتے ہیں منہہ کالا جو ہونا تھا وہ تو ہر کا گریا دیکھ کہ بیٹا ہونا پھر بھی اپنے بس میں نہیں اور ان کو بھی تو تجھے اس سے کیا جس کا وہ نطفہ ہے آخر وہ اسی کا ہوگا اور اسی کی خوبولہے گا کیونکہ وہ حقیقت وہ اسی کا بیٹا ہے اس کے بعد رام دئی نے کچھ سوچ کر پھر بدنام شروع کیا اور دھڑ دھڑ تک آواز گئی اور آواز سن کر ایک پنڈت نہال چند نام دولا آیا اور آتے ہی کہا کہ لالہ شکہ تو ہے یہ کیسی رونے کی آواز آئی۔ لالہ ناک کٹا ہوتا تو نہیں تھا کہ نہال چند کے آگے قصہ بیان کرے مگر اس خوف سے کہ رام دئی اس وقت غصہ میں ہے اگر میں بیان نہ کروں تو وہ ضرور بیان کر دے گی کچھ کھسیلا سا ہو کر زبان دبا کر

کہنے لگا کہ ہمارے آپ جانتے ہیں کہ وید میں وقت ضرورت نیوگ کیلئے آگیا ہے۔ سو  
میں نے بہت دنوں سوچ کر رات کو نیوگ کر لیا تھا مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے نیوگ کے لئے  
مہر سنگہ کو بلا لیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ میرے دشمن کر م سنگہ کا بیٹا اور نہایت شریر آدمی ہے وہ مجھے  
اور میری ستری کو ضرور خراب کریگا اور وہ وعدہ کر گیا ہے کہ میں یہ ساری کیفیت خوب شایع کروں گا  
نہال چند لہجہ کہ درحقیقت بڑی غلطی ہوئی اور پھر لو کہ وسا قابل تیری سمجھ نہایت ہی افسوس ہے  
کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ نیوگ کے لئے پہلا حق پر ہمنوں کا ہے اور غالباً یہ بھی تجھ پر پوشیدہ نہیں ہوگا  
کہ اس محلہ کی تمام کھترانی عورتیں مجھ سے ہی نیوگ کراتی ہیں اور میں دن رات اسی سیدھا میں لگا ہوا  
ہوں پھر اگر تجھے نیوگ کی ضرورت تھی تو مجھے بلا لیا ہوتا سب کام سدا ہو جاتا اور کوئی بات نہ نکلتی  
اس محلہ میں اب تک تین ہزار کے قریب ہندو عورتوں نے نیوگ کر لیا ہے مگر کیا کبھی تم نے اس کا ذکر  
بھی سنا ہے پرہ کی باتیں ہیں سب کچھ ہوتا ہے پھر ذکر نہیں کیا جاتا لیکن مہر سنگہ تو ایسا نہیں کریگا  
ذرا دو چار گھنٹوں تک دیکھنا کہ سارے شہر میں رام دئی کے نیوگ کا شور و غوغا ہوگا۔ لالہ دیوت  
نہا کہ درحقیقت مجھ سے سخت غلطی ہوئی اب کیا کروں۔ اس وقت شریر پنڈت نے جو باعث نہ  
ہونے رسم پرہ کے رام دئی کو دیکھ چکا تھا کہ جہاں اور خوش شکل ہے نہایت بیجا بی بی کا جواب دیا کہ  
اگر اسی وقت رام دئی مجھ سے نیوگ کرے تو میں ذمہ دار ہونا ہوں کہ مہر سنگہ کے فتنہ کو میں لہجہ  
لوں گا اور پہلا حمل ایک لگی بات ہے اب بہرحال یقینی ہو جائے گا تب وسا قابل دروٹ تو اس  
بات پر بھی راضی ہو گیا مگر رام دئی نے سُنکر سخت گالیاں اُس کو نکالیں تب وسا قابل نے پنڈت  
کو کہا کہ ہمارا حال اس کا یہی حال ہے ہرگز نیوگ کرنا نہیں چاہتی پہلے بھی شکل سے کر لیا تھا جس کو  
نیوگ کے بتک ردی ہے کہ میرا منہ کا کیا اسی سے تو اس نے جینیں ماری تھیں جن کو آپ سُنکر  
صدمے لگے تب وہ شہوت پرست پنڈت وسا قابل کی یہ بات سُن کر رام دئی کی طرف متوجہ ہوا اور  
کہا نہیں بھاگوں نیوگ کو نہیں ماننا چاہیے یہ دیکھا گیا ہے مسلمان بھی تو عورتوں کو طلاق دیتے  
ہیں اور عورتیں کسی دوسرے سے نکاح کر لیتی ہیں سو جیسے طلاق جیسے نیوگ بات ایک ہی ہے

الْأَمْرِ. وَأَنْتَ مِنْ مَّاءِنَا وَهَمَّ مِنْ فَشَلٍ. إِذَا التَّقَى الْفِئَتَانِ. فَإِنِّي مَعَ الرَّسُولِ  
 أَقُومُ. وَيَنْصُرُهُ الْمَلَائِكَةُ. إِنِّي أَنَا الرَّحْمَنُ ذُو الْمَجْدِ وَالْعَلِيِّ. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ  
 إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. أَرَدْتُ أَنْ أَسْتَخْلِفَ فَخَلَقْتُ آدَمَ. وَبَلَّغْتُ الْاَمْرَ مِنْ قَبْلُ وَ  
 مِنْ بَعْدُ. يَا عَبْدِي لَا تَخَفْ. أَلَمْ تَرَ أَنَا نَاتِي الْأَرْضَ تَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا. أَلَمْ تَرَ كَلَّمَ  
 أَنْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. (الفتح نمبر ۲۳ صفحہ ۳۶۳-۳۶۴۔ روحانی خزائن جلد ۱، صفحہ ۲۷۹ تا ۲۸۵)

۱۹۰۰ء فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي  
 أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (الحکم جلد ۳ نمبر ۳ مورخہ ۲۳ اگست ۱۹۰۰ء صفحہ ۷)

۱۹۰۰ء الف "تحفہ گوڑویر میں بڑے بڑے دقائق معارف بیان فرمائے ہیں آج فرماتے تھے خدا تعالیٰ  
 کی طرف سے ایک الہام ہوا ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ یہ رسالہ بڑا بابرکت ہو گا، اسے پورا کرو۔ اور پھر الہام ہوا:  
 قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

(از مکتوب مولانا عبدالکرم صاحب مورخہ ۲۲ ستمبر ۱۹۰۰ء مندرجہ الحکم جلد ۱ نمبر ۲ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۰ء صفحہ ۹)  
 (ب) "اس رسالہ میں عجیب عجیب نکات و اسرار لکھے جا رہے ہیں اور اس تحفہ کی نسبت یہ وحی حضرت اقدس

نفس پر قائم ہے۔ زندہ خدا کا منظر۔ اور تو میری طرف سے امر مقصود کا مبدیہ ہے۔ اور تو ہمارے پانی میں سے ہے اور  
 وہ فحل سے ہیں۔ جب دو گروہ آمنے سامنے ہوں گے۔ تو میں اپنے رسول کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور طاقت اس کی مدد  
 کریں گے۔ میں بھی رحمان ہوں بزرگی اور بلندی والا۔ اور وہ اپنی خواہش کے ماتحت نہیں ہوتا بلکہ وحی کا تابع ہے جو نازل  
 کی جاتی ہے۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں خلیفہ بناؤں پس میں نے آدم کو پیدا کیا۔ اور شروع میں ہی اور بعد میں بھی اللہ ہی کی حکومت  
 ہے۔ اسے میرے بندے مت ڈرو کیا تو نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے کم کرتے چلے آتے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ  
 اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔

۱۰ (ترجمہ از مرتب) میرے رب کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہوں گے جب تک تجھے اپنے تمام جملگوں میں حکم نہ دیاں۔ پھر جو تو فیصد  
 کرے اس سے اپنے دلوں میں کوئی تلخی نہ پائیں اور اسے بتاؤ کہ اسے تسلیم کریں۔  
 ۱۰ (تحفہ گوڑویر۔ الحکم ۱۰ ستمبر ۱۹۰۰ء صفحہ ۱۰۔ (مرتب)

۱۰ (نوٹ از مرتب) یہ ترجمہ حضرت سید محمد علی رضا قاسم کا ہے۔ (دیکھئے از بعین نمبر ۳۲ صفحہ ۳۲۔ روحانی خزائن جلد ۱ صفحہ ۲۷۵)

۱۸۹۸ء (الف) ”وَأَوْحَىٰ إِلَيَّ رَبِّي وَوَعَدَنِي أَنَّهُ سَيُنْصِرُنِي حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَمْرِي  
مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا. وَتَسْمُوجُ بِحُورِ الْحَقِّ حَتَّىٰ يُعْجِبَ النَّاسَ حَبَابُ  
غَوَارِبَهَا“  
(ترجمہ انوار صفحہ ۶۷۔ روحانی خزائن جلد ۱۶ صفحہ ۳۰۸)

(ب) حضرت اقدس امام اقران سلمہ الرحمن کو اللہ کریم نے وعدہ دیا ہے کہ  
میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا  
میں دیکھتا ہوں کہ اس مقدس امام کے پورا ہونے کی بہت سی صورتیں نکلتی آتی ہیں۔  
(الحکم جلد ۲ نمبر ۵، مورخہ ۲۷ مارچ ۱۹۹۸ء، پریل ۱۹۹۸ء صفحہ ۱۳)  
(الحکم جلد ۲ نمبر ۲۳، مورخہ ۲۰ اگست ۱۹۹۸ء صفحہ ۱۳)

۱۲ جنوری ۱۸۹۸ء ”میں نے تجھ میں اس کے متعلق حکاکی تو اللہ ہوا۔“  
إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَ حَتَّىٰ يُغَيِّرَ مَا بِأَنْفُسِهِمْ  
اب خیال ہوتا ہے کہ وہ اللہ جو ہوا تھا کہ  
کون کہہ سکتا ہے اسے بجلی! آسمان سے مت گر  
شاید اس سے متعلق ہو۔  
(الحکم جلد ۵ نمبر ۲۶، مورخہ ۲۳ جولائی ۱۹۰۱ء صفحہ ۱)

۱۔ (ترجمہ از مرتب) میرے رب نے میری طرف وحی بھیجی اور وعدہ فرمایا کہ وہ مجھے مدد دے گا یہاں تک کہ  
میرا کلام مشرق و مغرب میں پہنچ جائے گا اور راستی کے دریا مجمع میں آئیں گے یہاں تک کہ اس کی موجوں کے  
جواب لوگوں کو تعجب میں ڈالیں گے۔  
۲۔ یعنی ایڈیٹر اسکم۔ (مرتب)  
۳۔ یعنی طاعون کے متعلق۔ (مرتب)  
۴۔ نوب محمد علی خان صاحب آف مایر کوئٹہ کی ڈائری سے معلوم ہوتا ہے کہ اس امام کے نزول کی تاریخ ۱۲ جنوری ہے۔  
دیکھئے اصحاب احمد ص ۵۲۵۔ (مرتب)

بعض اعتراضوں کے جواب

۲۰۰

حقیقۃ الہی

اُس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ یہ پچیس برس کا اہام ہے جو براہین احمدیہ میں لکھا گیا۔ اور ان دنوں میں پورا ہو گا۔ جس کے کان سننے کے ہیں وہ سننے۔

یہ تو ہم نے وہ دو تین پیشگوئیاں لکھی ہیں جن پر ہمارے مخالف مولوی اور انہیں کانیا چیلہ عبدالحکیم خان بار بار اعتراض کرتے ہیں۔ اب ہم ان کے مقابل یہ دکھلانا چاہتے تھے کہ خدا تعالیٰ کے آسمانی نشان ہماری شہادت کیلئے کس قدر ہیں لیکن افسوس کہ اگر وہ سب کے سب لکھے جائیں تو ہزار جزو کی کتاب میں بھی انکی گنجائش نہیں ہو سکتی اس لئے ہم محض بطور نمونہ کے ایک سو چالیس نشان ان میں سے لکھتے ہیں۔ ان میں سے بعض وہ پہلے نبیوں کی پیشگوئیاں ہیں جو میرے حق میں پوری ہوئیں۔ اور بعض اس امت کے اکابر کی پیشگوئیاں ہیں اور بعض وہ نشان خدا تعالیٰ کے ہیں جو میرے ہاتھ پر ظہور میں آئے اور چونکہ میری پیشگوئیوں پر ان پیشگوئیوں کو تقدیم زمانی ہے اس لئے مناسب سمجھا گیا کہ تحریری طور پر بھی انہیں کو مقدم رکھا جائے اور یہ تمام پیشگوئیاں ایک ہی سلسلہ میں نمبر وار لکھی جائیں گی اور وہ یہ ہیں:-

۱) پہلا نشان۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل ماۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ رواہ ابو داؤد یعنی خدا ہر ایک صدی کے سر پر اس امت کے لئے ایک شخص مبعوث فرمائے گا جو اس کیلئے دین کو تازہ کرے گا۔ اور اب اس صدی کا چوبیسواں سال جاتا ہے اور ممکن نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ میں تخلف ہو۔ اگر کوئی کہے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو بارہ صدیوں کے مجددوں کے نام بتلاویں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث

مہمہ خدا تعالیٰ نے مجھے صرف ہی خبر نہیں وہاں کہ پنجاب میں زلزلے وغیرہ آفات آئیں گی کیونکہ میں صرف پنجاب کے لئے مبعوث نہیں ہوا بلکہ جہاں تک دنیا کی آبادی ہے ان سب کی اصلاح کیلئے مامور ہوں پس میں سچ کہتا ہوں کہ یہ آفتیں اور یہ زلزلے صرف پنجاب سے مخصوص نہیں ہیں بلکہ تمام دنیا ان آفات سے حصہ لے گی اور جیسا کہ امریکہ وغیرہ کے بہت سے تباہ ہو چکے ہیں ہی گھڑی کسی دن یورپ کے لئے درپیش ہو گا پھر یہ ہولناک دن پنجاب اور ہندوستان اور ہر ایک حصہ ایشیا کے لئے مقدر ہے جو شخص زندہ رہے گا وہ دیکھ لے گا۔ منہ

یہ حوالہ صفحہ 376 پر درج ہے

حقیقۃ الہی صفحہ 193 مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 200 از مرزا قادیانی

علماء اُمت میں مسلم علی آئی ہے اب اگر میرے دعوے کے وقت اس حدیث کو وضعی بھی قرار دیا جائے تو ان مولوی صاحبوں سے یہ بھی سچ ہے بعض اکابر محدثین نے اپنے اپنے زمانہ میں خود مجدد دہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ بعض نے کسی دوسرے کے مجدد بنانے کی کوشش کی ہے۔ پس اگر یہ حدیث صحیح نہیں تو انہوں نے دیانت سے کام نہیں لیا اور ہمارے لئے یہ ضروری نہیں کہ تمام مجددین کے نام ہمیں یاد ہوں یہ علم محیط تو خاصہ خدا تعالیٰ کا ہے ہمیں عالم الغیب ہونے کا دعویٰ نہیں مگر اسی قدر جو خدا بتلاوے ماسوا اسکے یہ اُمت ایک بڑے حقہ دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور خدا کی مصلحت کسی ملک میں مجدد پیدا کرتی ہے اور کبھی کسی ملک میں۔ پس خدا کے کاموں کا کون پورا علم رکھ سکتا ہے اور کون اُس کے غیب پر احاطہ کر سکتا ہے۔ بھلا یہ تو بتلاؤ کہ حضرت آدم سے لیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ایک قوم میں نبی کتنے گزرے ہیں۔ اگر تم یہ بتلا دو گے تو ہم مجدد بھی بتلا دیں گے۔ ظاہر ہے کہ عدم علم سے عدم شے لازم نہیں آتا۔ اور یہ بھی اہل سنت میں متفق علیہ امر ہے کہ آخری مجدد اس اُمت کا مسیح موعود ہے جو آخری زمانہ میں ظاہر ہو گا۔ اب تنقیح طلب یہ امر ہے کہ یہ آخری زمانہ ہے یا نہیں یہود و نصاریٰ دونوں قومیں باہر اتفاق رکھتی ہیں کہ یہ آخری زمانہ ہے اگر چاہو تو پوچھ کر دیکھ لو۔ مری پڑ رہی ہے زلزلے آرہے ہیں۔ ہر ایک قسم کی خارق عادت تباہیاں شروع ہیں پھر کیا یہ آخری زمانہ نہیں؟ اور صلحاء اسلام نے بھی اس زمانہ کو آخری زمانہ قرار دیا ہے اور چودھویں صدی میں سے بھی تیس سال گزر گئے ہیں۔ پس یہ قوی دلیل اس بات پر ہے کہ یہی وقت مسیح موعود کے ظہور کا وقت ہے اور وہ ایک شخص ہوں جسے اس صدی کے شروع ہونے سے پہلے دیکھی گیا۔ اور میں ہی وہ ایک شخص ہوں جس کے دعوے پر پچیس برس گزر گئے اور اب تک زندہ موجود ہوں۔ اور میں ہی وہ ایک ہوں جسے عیسائیوں اور دوسری قوموں کو خدا کے نشانوں کے ساتھ لازم کیا۔ پس جب تک میرے اس دعوے کے مقابلہ پر انہیں صفات کے ساتھ کوئی دوسرا مدعی پیش نہ کیا جائے تب تک میرا یہ دعویٰ ثابت ہے کہ وہ مسیح موعود جو آخری زمانہ کا مجدد ہے وہ میں ہی ہوں۔ زمانہ میں خدا نے نوبتیں رکھی ہیں۔

بعض وحشی مسلمانوں کو خوش کیا گیا۔ اور میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ میں تمام مسلمانوں میں سے اول درجہ کا خیر خواہ گورنمنٹ انگریزی کا ہوں۔ کیونکہ مجھے تین باتوں نے خیر خواہی میں اول درجہ پر بنا دیا ہے۔ (۱) اہل والد مرحوم کے اترنے (۲) دوم اس گورنمنٹ عالیہ کے احسانوں نے (۳) تیسرے خدا تعالیٰ کے اہم آنے۔ اب میں اس گورنمنٹ محنت کے زیر سایہ ہر طرح سے خوش ہوں۔ صرف ایک رنج اور درد و غم ہر وقت مجھے لاحق حال ہے جس کا استغاثہ پیش کرنے کے لیے اپنی محنت گورنمنٹ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اور وہ یہ ہے کہ اس ملک کے مولوی مسلمان اور ان کی جماعتوں کے لوگ حد سے زیادہ مجھے ستاتے اور دکھ دیتے ہیں۔ میرے قتل کے لیے ان لوگوں نے فتوے دیتے ہیں۔ مجھے کافر اور بے ایمان ٹھہرایا ہے اور بعض ان میں سے جیا اور شرم کو ترک کر کے اس قسم کے اشتہار میرے مقابل پر شائع کرتے ہیں کہ یہ شخص اس وجہ سے بھی کافر ہے کہ اس نے انگریزی سلطنت کو سلطنتِ روم پر ترجیح دی ہے اور ہمیشہ سلطنت انگریزی کی تعریف کرتا ہے اور ایک باعث یہ بھی ہے کہ یہ لوگ مجھے اس وجہ سے بھی کافر ٹھہراتے ہیں کہ میں نے خدا تعالیٰ کے سچے الہام سے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور اس خونی ہمدی کے آنے سے انکار کیا ہے جس کے یہ لوگ منتظر ہیں۔ بیشک میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے ان لوگوں کا بڑا نقصان کیا ہے کہ میں نے ایسے خونی ہمدی کا آنا سراسر جھوٹ ثابت کر دیا ہے جس کی نسبت ان لوگوں کا خیال تھا کہ وہ آکر بے شمار روپیہ ان کو دے گا مگر میں معذور ہوں۔ قرآن اور حدیث سے یہ بات بسا پتہ ثبوت نہیں پہنچتی کہ دنیا میں کوئی ایسا ہمدی آئے گا جو زمین کو خون میں غرق کر دے گا۔ پس میں نے ان لوگوں کا بجز اس کے کوئی گناہ نہیں کیا کہ اس نیالی لوٹ مار کے روپیہ سے میں نے ان کو محروم کر دیا ہے میں خدا سے پاک الہام پا کر یہ چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے اطلاق اچھے ہو جائیں اور وحشیانہ حادثوں دور ہو جائیں اور نفسانی جذبات سے ان کے سینے دھوئے جائیں اور ان میں آہستگی اور سنجیدگی اور علم اور میانہ روی اور انصاف پسندی پیدا ہو جائے اور یہ اپنی اس گورنمنٹ کی ایسی اطاعت کریں کہ دوسروں کے لیے نمونہ بن جائیں اور یہ ایسے ہو جائیں کہ کوئی بھی فساد کی رگ ان میں باقی نہ رہے۔ چنانچہ کسی قدر یہ مقصود مجھے حاصل بھی ہو گیا ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ دس ہزار یا اس سے بھی زیادہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو میری ان پاک تعلیموں کے دل سے پابند ہیں۔ اور یہ نیا فرقہ مگر گورنمنٹ کے لیے نہایت مبارک فرقہ برٹش انڈیا میں زور سے ترقی کر رہا ہے اگر مسلمان ان تعلیموں کے پابند ہو جائیں تو میں قسم کھا کر

نے میں نے اپنی کسی کتاب میں لکھا تھا کہ میری جماعت تین سو آدمی ہیں لیکن اب دو شمار بست بڑھ گیا ہے کیونکہ زور سے ترقی ہو رہی ہے۔ اب میں یقین رکھتا ہوں کہ میری جماعت کے لوگ دس ہزار سے بھی کچھ زیادہ ہوں گے۔ اور میری فراست یہ پیشگوئی کرتی ہے کہ تین سال تک ایک لاکھ تک میری اس جماعت کا عدد پہنچے گا۔



وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفر والى يوم القيمة. انك اليوم  
 لدينا مكيين امين. انت متى بمنزلة توحيدى وتفريدى فحان ان تعان و  
 تعرف بين الناس ويعلمك الله من عنده تقيم الشريعة. وتحي الدين  
 انا جعلناك المسيح بن مريم. والله يعصمك من عنده ولو لم يعصمك  
 الناس. والله ينصرك ولو لم ينصرك الناس. الحق من ربك فلا تكونن من  
 الممترين. يا احمدى انت مرادى ومعنى. انت وجهه فى حضرتى. اخترتك  
 لنفسى. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم و  
 رحم عليكم وهو ارحم الراحمين. هذه نبذة من الهاماتى. ومن جملتها الهام  
 انا جعلناك المسيح بن مريم. والله قد كنت اعلم من ايام مديدة  
 اننى جعلت المسيح ابن مريم وانى نازل فى منزله ولكن اخفيتة نظراً  
 الى تأويله. بل ما بدلت عقيدتى وكنت عليها من المستمسكين وتوقفت  
 فى الاظهار عشر سنين. وما استعجلت وما بادرت وما اخبرت حياً ولا  
 عدواً ولا احداً من الحاضرين. وان كنتم فى شك فاسئلوا علماء الهند  
 كم مضت من مدة على الهامى. يا عيسى انى متوفيك. اراقى والبراهين  
 وكنت انتظر الخيرة والرضاء وامر الله تعالى حتى تكرر ذلك  
 الالهام. ورفع الظلام. وتواتر الاعلام. وبلغ الى عدة يعلمها  
 رب العلمين. وخطبت للاظهار بقوله. فاصدع بما تؤمر. وظهرت  
 علامات تعرفها حاسة الاولياء. وعقل ارباب الاصطفاء وجلى الصبح  
 واكد الامر. وشرح الصدر. واطمان الجنان. وافقى القلب. وتبين انه

یا قوم لم تتعالمون وانتم تبصرون۔ ولم تتجاہلون وانتم تعلمون۔ اما علمتم عاقبة الذين كانوا يستهزؤن۔ تلذخون كالزنبور۔ وتوذون رجلاً اعتم كالسراج بالنور۔ وتهترون بروية البدر۔ وابدرو الصلحاء وانشتم تظلمون۔ وجاء الناس وانتم تهربون۔ وكف من مستهزء اخبروا بموتى كانتهم اليهوامن الله العلام۔ واصروا عليه واشاعوه في الاقوام۔ فاذا الامر بالصد۔ ورد الله مزاحم عليهم كالمجد۔ وما توانى اشرع وقت بعد الهامهم وتركوا حشيش ندامة وذلة لانعامهم۔

وَسُرَّتْ مَوْذِمًا اذ وني الا ليظهر الله بهم بعض الايات۔ وقد قصصنا قصصهم في حقیقۃ الوحی لتكون تبصرة للطالبين والطالبات۔ واقرب القصص من هذا الوقت قصة رجل مات في ذى القعدة۔ وكان يلعننى ويسبى وكان اسمه سعد الله وكان سببه كالصعدة۔ واذا بلغ شتمه الى منتهاه <sup>۳۶</sup> وسبق في الايداء كل من سواه۔ اوخى الى ربى في امر موته وخزيه وقطع نسله بما قضاه وقال ان شانك هو الابتر۔ فاشعت بين الناس ما اوخى ربى الاكبر۔ ثم بعد ذلك صدق الله الهامى۔ فاردت ان افصله في كلامي۔ واشيع ما صنع الله بذلك القتان۔ وعدت عباد الله الرحمن۔ فمنعنى من ذلك وكيل حبان من جماعتى وخوفنى من ارادة اشباعنى۔ وقال لو اشغتها لا تأمن مقت الحكام ويجرك القانون الى الانام۔ ولا سبيل الى الخلاص۔ ولات حين مناص۔ وتلزمك المصائب ملازمة الغريم۔ والمال معلوم بعد التعب العظيم۔ وليست الحكومة تارك المجرمين۔ فالخير فى اخفاء هذا الوحى كالمحتاطين۔ فقلت انى ادع الصواب فى تعظيم الالهام۔ وان الاخفاء معصية عندى ومن سبب اللئام وما كان لاحد ان يضرم من دون بارئ الانام۔ ولا ابالى بعد تهديد الحكام۔

یہی مسئلہ پیش کیا۔ کہ آپ کی بعض تحریروں سے ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس لئے لوگوں کو شوکر لگتی ہے۔ حضرت صاحب نے اسکی تشریح فرمائی۔ کہ میری مراد اسکی کیا ہے۔ جسپر ان مولوی صاحب نے کہا۔ کہ اچھا آپ تحریر کر دیں۔ کہ آپ کی تحریرات میں جہاں کہیں نبوت کا لفظ ہے، وہ ایسا نہیں۔ کہ جو ختم نبوت کے منافی ہو۔ اور اس سے مراد محدثیت ہے۔ حضرت صاحب نے فرمایا۔ کہ بیشک میں لکھ دیتا ہوں۔ چنانچہ اسی وقت حضور نے ایک تحریر لکھ کر مولوی صاحب کو دیدی۔ جو کہ انہوں نے اپنے پاس رکھ لی۔ تاکہ ان لوگوں کو دکھائیں۔ جو اس وجہ سے حضرت صاحب پر کفر کا فتویٰ لگاتے تھے۔ انہی دنوں میں ایک دن بعض شریر لوگ مخالف مولویوں کے بہکانے سے اس مکان پر حملہ کر کے آگئے۔ جہاں پر ہم ٹھیرے ہوئے تھے۔ اور مکان کے اوپر زانہ میں گھسنا چاہتے تھے۔ مگر چند احمدیوں نے جو ساتھ تھے۔ بڑی ہمت سے سیڑھیوں میں کھڑے ہو کر ان لوگوں کو روکا۔ اور بعد میں پولیس کے پہنچ جانے سے وہ لوگ منتشر ہوئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے امر تسر جانے کی خبر سے بعض اور احباب بھی مختلف شہروں سے وہاں آگئے۔ چنانچہ کپور تھلہ سے محمد خاں صاحب مرحوم اور منشی ظفر احمد صاحب بہت دنوں وہاں ٹھیرے رہے۔ گرمی کا موسم تھا۔ اور منشی صاحب اور میں ہر دو نحیف البدن اور چھوٹے قد کے آدمی ہونے کے سبب ایک ہی چارپائی پر دونوں لیٹ جاتے تھے۔ ایک شب دس بجے کے قریب میں تھیٹر میں چلا گیا۔ جو مکان کے قریب ہی تھا۔ اور تماشہ ختم ہونے پر دو بجے رات کو واپس آیا صبح منشی ظفر احمد صاحب نے میری عدم موجودگی میں حضرت صاحب کے پاس میری شکایت کی۔ کہ مفتی صاحب رات تھیٹر چلے گئے تھے حضرت صاحب نے فرمایا۔ ایک دفعہ ہم بھی گئے تھے۔ تاکہ معلوم ہو۔ کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ اس کے سوا اور کچھ نہیں فرمایا منشی ظفر احمد صاحب نے خود ہی مجھ سے ذکر کیا کہ میں تو حضرت صاحب کے پاس آئی شکایت لیکر گیا تھا۔ اور میرا خیال تھا۔ کہ حضرت صاحب آپکو بلا کر تنبیہ کریں گے۔ مگر حضور نے تو صرف یہی فرمایا۔ کہ ایک دفعہ ہم بھی گئے تھے۔ اور اس کے معلومات حاصل ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ

کہ باوجود صد ہا عوائل اور موانع کے محض خدا تعالیٰ کی نصرت اور مدد نے اس حصہ کو خلعت و جوڑنشا۔ چنانچہ اس حصہ کے چند اوائل ورق کے ہر ایک صفحہ کے سر پر نصوت الحق لکھا گیا مگر پھر اس خیال سے کہ تا یا د دلایا جائے کہ یہ وہی برائین احمدیہ ہے جس کے پہلے چار حصے طبع ہو چکے ہیں بعد کے ہر ایک سر صفحہ پر برائین احمدیہ کا حصہ پنجم لکھا گیا۔ پہلے پچاس حصے لکھنے کا ارادہ تھا مگر پچاس سے پانچ پر کتناہ کیا گیا۔ اور چونکہ پچاس اور پانچ کے عدد میں صرف ایک نقطہ کا فرق ہے اسلئے پانچ حصوں سے وہ وعدہ پورا ہو گیا۔

دوسرا سبب اس التوا کا جو تین برس تک حصہ پنجم لکھا نہ گیا یہ تھا کہ خدا تعالیٰ کو منظور تھا کہ ان لوگوں کے دل خیالات ظاہر کرے جن کے دل میں بدگمانی میں مبتلا تھے اور ایسا ہی ظہور میں آیا۔ کیونکہ امتداد دیر کے بعد علم طبع و لک بدگمانی میں بڑھ گئے۔ یہاں تک کہ بعض ناپاک فطرت گاہیوں پر اتر آئے اور چار حصے اس کتاب کے جو طبع ہو چکے تھے کچھ تو مختلف قیمتوں پر فروخت کئے گئے تھے اور کچھ مفت تقسیم کئے گئے تھے پس جن لوگوں نے قیمتیں دی تھیں اکثر نے گالیاں بھی دیں اور اپنی قیمت بھی واپس لی۔ اگر وہ اپنی جلد بازی سے ایسا نہ کرتے تو ان کے لئے اچھا ہوتا۔ لیکن اس قدر دیر سے ان کی فطرتی حالت آگیاں گئی۔

اس دیر کا ایک یہ بھی سبب تھا کہ تا خدا تعالیٰ اپنے بندوں پر ظاہر کرے کہ یہ کاروبار اس کی مرضی کے مطابق ہے اور یہ تمام الہام جو برائین احمدیہ کے حصوں سابقہ میں لکھے گئے ہیں یہ اسی کی طرف سے ہیں نہ انسان کی طرف سے۔ کیونکہ اگر یہ کتاب خدا تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نہ ہوتی اور یہ تمام الہام اس کی طرف سے نہ ہوتے تو یہ امر خدا نے عادل امتدادوں کی عادت کے برخلاف تھا کہ جو شخص

۱۳۸

کے لئے ایک حکایت بھی بیان کیا کرتے تھے کہ ایک دفعہ مہاراجہ شیر سنگھ نے اپنے ایک باورچی کو کھانے میں نمک زیادہ ڈالنے کی تہذیب میں حکم دیا۔ کہ اس کی سبب جائیداد ضبط کر کے اسے قید خانہ میں ڈال دیا جائے۔ اس پر کسی ہانکار نے حاضر ہو کر عرض کیا۔ کہ مہاراجہ اتنی سی بات پر عذابت سخت ہے راجہ کہنے لگا۔ کہ تم نہیں جانتے۔ یہ صرف نمک کی تہذیب نہیں۔ اس کم نعت نے میرا تو بکا مضم کیلے ہے۔  
 پسّم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا۔ کہ ایک دفعہ گر میں

میں مسجد مبارک میں مغرب کی نماز پیر سراج الحق صاحب نے پڑھائی۔ حضور علیہ السلام بھی اس نماز میں شامل تھے۔ تیسری رکعت میں رکوع کے بعد انہوں نے بجائے مشہور دعاؤں کے حضور کی ایک نئی نظم پڑھی جس کا یہ مصرع ہے۔ اے خدا اے چارہ آزار مانا

خاکسار عرض کرتا ہے کہ یہ فارسی نظم نہایت اعلیٰ درجہ کی مناجات ہے جو روحانیت سے پر ہے مگر معروف مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں صرف مسنون دعائیں بالجمہر پڑھنی جائیں۔ باقی دل میں پڑھنی چاہئیں پس اگر یہ روایت درست ہے تو حضرت صاحب نے اس وقت خاص کیفیت کے رنگ میں اس پر قرآن نہیں فرمایا ہو گا۔ اور چونکہ ویسے بھی یہ واقعہ صرف ایک منفرود واقعہ ہے اس لئے میری رائے میں حضرت صاحب کا یہ منشاء ہرگز نہیں ہو گا۔ کہ لوگ اس طرح کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت صاحب نے اس وقت سکوت اختیار کر کے بعد میں پیر صاحب کو علیحدہ طور پر سمجھا دیا ہو۔ کہ یہ مناسب نہیں۔ کیونکہ پیر صاحب کی طرف سے اس کی تکرار ثابت نہیں۔ واللہ اعلم۔

پسّم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی عبداللہ صاحب مولوی فاضل سابق مدرس ڈیرہ بابائیک نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے حضرت شیخ مومنان علیہ السلام کا مندرجہ ذیل خط شیخ فتح محمد صاحب کے پاس دیکھا تھا۔ یہ خط حضرت مولوی نور الدین صاحب خلیفہ اول کے نام تھا۔ مگر خط کا مضمون شیخ فتح محمد صاحب کے متعلق تھا۔ اور لغافہ پر حضرت خلیفہ اول کا جنوں والا پتہ درج تھا۔

مکرمی انوریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔  
 فتح محمد حصولی بشارت کے لئے دو رکعت نماز وقت عشاء پڑھ کر اکتالیس دنوں سورہ فاتحہ پڑھا اور اس کے اقل اور آخر گیارہ گیارہ دنوں درود شریف پڑھے اور اپنے مقصد کے لئے دعا کو کہے اور بقصد بادھن سورہ ہے۔ جس دن سے شروع کریں۔ اسی دن تک اس کو ختم کریں۔ انشاء اللہ العزیز۔

۹۷  
 اے مرے پیارے مرے عین مرے پردہ گار  
 وہ زباں لاؤں کہاں جس سے ہو یہ کاویا  
 کر دیا دشمن کو اک حملہ سے مغلوب اور خوار  
 مجھ سے کیا دیکھا کہ یہ لطف و کرم ہے بار بار  
 کس عمل پر مجھ کو دی ہے خلعتِ قرب و جوار  
 ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار  
 دہنہ درگہ میں تیری کچھ کم نہ تھے نہ مست گار  
 پر نہ چھوڑا ساتھ تو نے اے میرے عا برار  
 بس ہے تو میرے لئے بھگو نہیں تجھ بن بکار  
 پھر خدا جانے کہاں یہ پھینکے گی جانی خبار  
 میں نہیں پاتا کہ تجھ سا کوئی کرتا ہو پیار  
 گو میں تیری راہ میں مثل طفل شیر خوار  
 تیرے بن دیکھا نہیں کوئی بھی یا غمگسار  
 میں تو نالائق بھی ہو کر یا گیا مدگہ میں باد  
 جس کا شکل ہے کہ تا روز قیامت ہو شمار  
 چاند لود موج ہے میرے لئے تار یک و تار  
 تا وہ پورے ہوں نشانی جو میں سچائی کا مدار  
 ساری تدبیروں کا خاکہ اڑ گیا مثل خبار  
 جیسے بھٹے برق کا اک دم میں ہر جا انتشار

اے خدا اے کار ساز و عیب پوش و کردگار  
 کس طرح تیرا کردل اے ذوالطنش و شکر و سپاس  
 بدگمانوں سے بچایا مجھ کو خود بن کر گواہ  
 کام جو کرتے ہیں تیری راہ میں پاتے ہیں جزا  
 تیرے کاموں مجھے حیرت کئے میرے کریم  
 کرم خاکی ہوں مہے پیارے نہ آدم زاد ہوں  
 یہ سر بہر فضل و احسان، کہ میں آیا پسند  
 دوستی کا دم جو بھرتے تھے وہ سب دشمن ہوئے  
 اے مہے یار یگانہ اے مری جاں کی پتہ  
 میں تو مر کر خاک ہوتا گر نہ ہوتا تیرا طبع  
 اے خدا ہو تیری راہ میں میرا جسم جان و دل  
 ابتدا سے تیرے ہی سایہ میں میری دن کٹے  
 نسل انسان میں نہیں دیکھی وہ نا جو تجھ میں ہے  
 لوگ کہتے ہیں کہ نالائق نہیں ہوتا قبول  
 اس قدر مجھ پر ہو میں تیری عنایات و کرم  
 آسمان میرے لئے تو نے بنایا اک گواہ  
 تو نے طاعون کو بھی بھیجا میری نصرت کیلئے  
 ہو گئے بیکار سب جیلے جب آئی وہ بلا  
 سر زمین ہند میں ایسی ہے شہرت مجھ کو دی

اور کر سوچو جس قدر چاہو پھر یاد رکھو کہ عنقریب خدا تمہیں دکھلا دے گا کہ اُس کا ہاتھ غالب ہے۔ نادان کہتا ہے کہ میں اپنے منسوبوں سے غالب ہو جاؤں گا۔ مگر خدا کہتا ہے کہ اے لعنتی دیکھ میں تیرے سارے منسوبے خاک میں ملا دوں گا۔ اگر خدا چاہتا تو ان مخالف مولوں اور ان کے پیروؤں کو آنکھیں بخشتا اور وہ ان وقتوں اور مومنوں کو پہچان لیتے جن میں خدا کے مسیح کا آنا ضروری تھا۔ لیکن ضرور تھا کہ قرآن شریف اور احادیث کی وہ پیشگوئیاں پوری ہوتیں جن میں لکھا تھا کہ مسیح موعود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھ اٹھائیں گے۔ وہ اس کو کافر قرار دیں گے اور اس کے قتل کے لئے فتوے دیئے جائیں گے اور اس کی سخت توہین کی جائیگی اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا۔ سو ان دنوں میں وہ پیشگوئی انہی مولوں نے اپنے ہاتھوں سے پوری کی۔ افسوس یہ لوگ سوچتے نہیں کہ اگر یہ دعویٰ خدا کے امر اور ارادہ سے نہیں تھا تو کیوں اس مدعی میں پاک اور صادق بیوں کی طرح بہت سے سچائی کے دلائل جمع ہو گئے؟ کیا وہ رات ان کیلئے نام کی رات نہیں تھی جس میں میرے دعوے کے وقت رمضان میں خسوف کسوف عین پیشگوئی کی تاریخوں میں وقوع میں آیا۔ کیا وہ دن ان پر معصیت کا دن نہیں تھا جس میں لیکھرام کی نسبت پیشگوئی پوری ہوئی۔ خدا نے بارش کی طرح نشان برمائے مگر ان لوگوں نے آنکھیں بند کر لیں تا ایسا نہ ہو کہ دیکھیں اور ایمان لائیں۔ کیا یہ سچ نہیں کہ یہ دعویٰ غیر وقت پر نہیں بلکہ عین صدی کے سر پر اور عین ضرورت کے دنوں میں ظہور میں آیا۔ اور یہ امر قدیم سے اور جب سے کہ بنی آدم پیدا ہوئے سنت اللہ میں داخل ہے کہ عظیم الشان صلح صدی کے سر پر اور عین ضرورت کے وقت میں آیا کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد ساتویں صدی کے سر پر جبکہ تمام دنیا تاریکی میں پڑی تھی ظہور فرما ہوئے اور جب سات کو دگنا کیا جائے

۴۳

نصہ پر خود قابض ہو گئے۔ مرزا غلام حسین کی چونکہ نسل نہیں چلی اسلئے ان کا حقہ پسران مرزا غلام مرتضیٰ صاحب و پسران مرزا غلام محی الدین کو آگیا۔

فاک ر عمرض کرتا ہے۔ کہ اس وقت مرزا تصدق جیلانی اور مرزا قائم بیگ کی تمام شلخ معدوم ہو چکی ہے۔ علیٰ ہذا القیاس مرزا غلام حیدر کی بھی شلخ معدوم ہے۔ ہمارے تایا مرزا غلام قادر صاحب اور مرزا امام الدین اور مرزا کمال الدین بھی اولاد فوت ہوئے۔ ہاں مرزا نظام الدین کا ایک لڑکا مرزا گل محمد موجود ہے۔ مگر وہ احمدی ہو کر حضرت صاحب کی ردعانی اولاد میں داخل ہو چکا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ۔ ینقطع ابائک و یبدأ منک اللہ یہ الہام اس وقت کا ہے۔ جب آپکے شجرہ خاندانی کی یہ تمام شاخیں سرسبز تھیں۔

(۴۹۱) بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا تجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ ایک دفعہ اپنی جوانی کے زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام تہا سے دادا کی نیشن وصول کرنے گئے تو بچے بچے مرزا امام الدین بھی چلا گیا۔ جب آپ نے نیشن وصول کر لی۔ تو وہ آپ کو پھسلا کر اور دھوکہ دیکر بجائے قادیان لانے کے باہر لیگیا اور ادھر ادھر پھرتا رہا پھر جب اسنے سارا روپیہ اڑا کر ختم کر دیا تو آپ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا حضرت مسیح موعود اس شرم سے واپس مگر نہیں آئے۔ اور چونکہ تہا سے دادا کا منشا رہتا تھا کہ آپ کہیں ملازم ہو جائیں اس لیے آپ سیالکوٹ شہر میں ڈپٹی کشنر کی کچھری میں قلیل تنخواہ پر ملازم ہو گئے۔ اور کچھ عرصہ تک وہاں ملازمت پر رہے۔ پھر جب تہا کی دادی بیمار ہوئیں۔ تو تہا سے دادا نے آدمی بھیجا۔ کہ ملازمت چھوڑ کر آ جاؤ۔ جس پر حضرت صاحب فوراً روانہ ہو گئے۔ امرتسر پہنچ کر قادیان آنے کے واسطے یکہ کراہ پر لیا۔ اس موقع پر قادیان سے ایک اور آدمی بھی آپ کے لینے کے لیے امرتسر پہنچ گیا۔ اس آدمی نے کہا یکہ جلدی چلاؤ کیونکہ ان کی حالت بہت نازک تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا۔ بہت ہی نازک حالت تھی جلدی کرو کہیں فوت نہ ہو گئی ہوں۔ والدہ صاحبہ بیان کرتی تھیں کہ حضرت صاحب فرماتے تھے۔ کہ میں ہاں

یہ حوالہ صفحہ 383 پر درج ہے

سیرت المہدی، جلد اول صفحہ 43، 44 از مرزا بشیر احمد ایم اے ابن مرزا قادیانی



وقت سمجھ گیا۔ کہ دراصل والدہ فوت ہو چکی ہیں۔ کیونکہ اگر وہ زندہ ہوتیں تو وہ شخص ایسے الفاظ نہ بولت۔ چنانچہ قادیان پہنچے تو پتہ لگا کہ واقعی وہ فوت ہو چکی تھیں۔ والدہ جنا بیان کرتی ہیں کہ حضرت صاحب فرماتے تھے۔ کہ ہمیں چھوڑ کر پھر مرزا امام الدین ادھر ادھر پھرتا رہا۔ آخر کس نے پائے کے ایک قافلہ پر ڈاکہ مارا اور پکڑا گیا مگر مقدمہ میں رہا ہو گیا۔ حضرت صاحب فرماتے تھے۔ کہ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری وجہ سے ہی اسے قید سے بچا لیا ورنہ خواہ وہ خود کیسا ہی آدمی تھا ہمارے مخالف یہی کہتو کہ ان کا ایک چچا زاد بھائی جیل خانہ میں رہ چکا ہے۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیالکوٹ کی ملازمت <sup>میں</sup> کا واقعہ ہے۔

(اس روایت سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا سیالکوٹ میں ملازم ہونا اس وجہ سے تھا۔ کہ آپ سے مرزا امام الدین نے داد صاحب کی فیشن کاروبار دھوکا دے کر اڑا لیا تھا۔ کیونکہ جیسا کہ خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تصنیفات میں تصریح کی ہے۔ آپ کی ملازمت اختیار کرنیکی وجہ صرف یہ تھی۔ کہ آپ کے والد صاحب ملازمت کے لیے زور دیتے رہتے تھے۔ ورنہ آپ کی اپنی رائے ملازمت کے خلاف تھی۔ اسی طرح ملازمت چھوڑ دینے کی بھی اصل وجہ یہی تھی۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ملازمت کو ناپسند فرماتے تھے۔ اور اپنے والد صاحب کو ملازمت ترک کر دینے کی اجازت کے لیے کہتے رہتے تھے۔ لیکن داد صاحب ترک ملازمت کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ مگر بالآخر جب مادی صاحبہ بیمار ہوئیں۔ تو داد صاحب نے اجازت بھجوا دی۔ کہ ملازمت چھوڑ کر آ جاؤ۔)

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار عرض کرتا ہے۔ کہ طبابت کا علم ہمارا خاندانی علم ہے۔ اور ہمیشہ سے ہمارا خاندان اس علم میں ماہر رہا ہے۔ داد صاحب نہایت ماہر اور مشہور عازق طبیب تھے۔ تا یا صاحب نے بھی طب پڑھی تھی۔ حضرت مسیح موعود بھی علم طب میں خاصی دسترس رکھتے تھے۔ اور گھر میں ادویہ کا ایک ذخیرہ رکھا کرتے تھے

(۵۰)

اس لئے دعا کی گئی۔ ۵ مارچ ۱۹۰۵ء کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص جو فرشتہ معلوم ہوتا تھا میرے سامنے آیا اور اس نے بہت سا روپیہ میرے دامن میں ڈال دیا میں نے اس کا نام پوچھا۔ اس نے کہا نام کچھ نہیں میں نے کہا آخر کچھ تو نام ہوگا۔ اس نے کہا میرا نام جو ٹیپی۔ ٹیپی۔ پنجابی زبان میں وقت مقررہ کو کہتے ہیں یعنی عین ضرورت کے وقت پر آنیوالا۔ تب میری آنکھ کھل گئی۔ بعد اس کے خدا تعالیٰ کی طرف سے کیا ڈاک کے ذریعے سے اور کیا براہ راست لوگوں کے ہاتھوں سے اس قدر مالی فتوحات ہوئیں جن کا خیال و گمان نہ تھا اور کئی ہزار روپیہ آگیا چنانچہ جو شخص اسکی تصدیق کیلئے صرف ڈاک خانہ کے رجسٹر ہی ۵ مارچ ۱۹۰۵ء کو آخر سال تک دیکھے اس کو معلوم ہوگا کہ کس قدر روپیہ آیا تھا۔

یاد رہے کہ خدا تعالیٰ کی مجھ سے یہ عادت ہے کہ اکثر جو نقد روپیہ آنیوالا ہو۔ یا اور چیزیں تحائف کے طور پر ہوں ان کی خبر قبل از وقت بذریعہ الہام یا خواب کے مجھ کو دیدیتا ہے اور اس قسم کے نشان بچاس ہزار سے کچھ زیادہ ہوں گے۔

۴۸ نشان۔ ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ میں نعمت اللہ ولی کا وہ قصیدہ دیکھ رہا تھا جس میں اس نے میرے آنے کی بطور پیشگوئی خبر دی ہے اور میرا نام بھی لکھا ہے اور بتلایا ہے کہ تیرہویں صدی کے اخیر میں وہ مسیح موعود ظاہر ہوگا اور میری نسبت یہ شعر لکھا ہے کہ:-

مہدی وقت و عیسیٰ دوران ہر دورا شہسوار می بینم  
یعنی وہ آنیوالا مہدی بھی ہوگا اور عیسیٰ بھی ہوگا دونوں ناموں کا مصداق ہوگا اور دونوں طور کے دعوے کرے گا۔ پس اس اثنا میں میں شعر پڑھ رہا تھا عین پڑھنے کی وقت مجھے یہ الہام ہوا:-

ازپئے آل محمد حسن را تارک روزگار می بینم  
یعنی میں دیکھتا ہوں کہ مولوی سید محمد حسن امر وہی اسی غرض کیلئے اپنی نوکری سے ہجرت کر کے بمبالی میں تھی علیحدہ ہو گئے تا خدا کے مسیح موعود کے پاس حاضر ہوں اور اسکے دعوے کی تائید کے لئے خدمت بجالائے اور یہ ایک پیشگوئی تھی جو بعد میں نہایت صفائی سے ظہور میں آئی۔

وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ (۱) ایک وہ جو دوسروں کی اصلاح کے لئے مامور نہیں ہوتے بلکہ ان کا کاروبار اپنے نفس تک ہی محدود ہوتا ہے۔ اور ان کا کام صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر دم اپنے نفس کو ہی زہد اور تقویٰ اور اخلاص کا معقل لیتے رہتے ہیں اور حتیٰ الوسع خدا تعالیٰ کی ادق سے ادق رضامندی کی راہوں پر چلتے اور اس کے باریک وصایا کے پابند رہتے ہیں۔ اور ان کے لئے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کسی ایسے عالی خاندان اور عالی قوم میں سے ہوں جو علو نسب اور شرافت اور نجابت اور امارت اور ریاست خاندان ہو بلکہ حسب آیت کریمہ ان اکرمکم عند اللہ اتقکم صرف ان کی تقویٰ دیکھی جاتی ہے گو وہ دراصل جو ہڑوں میں سے ہوں یا چاروں میں سے۔ یا مثلاً کوئی ان میں سے ذات کا کنج ہو جس نے اپنے پیشہ سے توبہ کر لی ہو۔ یا ان قوموں میں ہو۔ جو اسلام میں دوسری قوموں کے خادم اور نیچی قومیں سمجھی جاتی ہیں۔ جیسے حجام۔ مورچی۔ تیلی۔ ڈوم۔ میر آسی۔ سقے۔ قصائی۔ جو لاسے۔ کجری۔ تنبولی۔ دھوبی۔ مچوے۔ بھڑ بھونچے۔ نانپائی وغیرہ۔ یا مثلاً ایسا شخص ہو کہ اسکی ولادت میں ہی شک ہو کہ آیا حلال کا ہے یا حرام کا۔ یہ تمام لوگ توبہ نصوح سے لولیاہ اللہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ وہ درگاہ کریم ہے اور فیضان کی موجیں ٹپے جوش سے جاری ہیں۔ اور اس قدوس ابدی کے دریائے محبت میں غرق ہو کر طبع طرح کے میلوں والے ان تمام میلوں سے پاک ہو سکتے ہیں جو عت اور عبادت کے طور پر ان پر لگائے جاتے ہیں۔ اور پھر بعد اس کے کہ وہ اس خدائے قدوس مل گئے۔ اور اس کی محبت میں محو ہو گئے اور اسکی رضا میں کھوئے گئے۔ سخت بد ذاتی ہوتی ہے کہ ان کی کسی نیچ ذات کا ذکر بھی کیا جائے۔ کیونکہ اب وہ وہ نہیں رہے اور انھوں نے اپنی شخصیت کو چھوڑ دیا اور خدا میں جملے اور اس لائق ہو گئے کہ

وہ ترجمہ۔ تم میں سے خدا تعالیٰ کے نزدیک ہے زیادہ بزرگ جو سب سے زیادہ تقویٰ کی راہوں پر چلتا ہے۔ منہ

اس لئے دعا کی گئی۔ ۵ مارچ ۱۹۰۵ء کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص جو فرشتہ معلوم ہوتا تھا میرے سامنے آیا اور اس نے بہت سا روپیہ میرے دامن میں ڈال دیا۔ میں نے اس کا نام پوچھا۔ اس نے کہا نام کچھ نہیں میں نے کہا آخر کچھ تو نام ہوگا۔ اس نے کہا میرا نام جو ٹیپی۔ ٹیپی۔ پنجابی زبان میں وقت مقررہ کہتے ہیں یعنی عین ضرورت کے وقت پر آنی والا۔ تب میری آنکھ کھل گئی۔ بعد اس کے خدا تعالیٰ کی طرف سے کیا ڈاک کے ذریعے سے اور کیا براہ راست لوگوں کے ہاتھوں سے اس قدر مالی فتوحات ہوئیں جن کا خیال و گمان نہ تھا اور کئی ہزار روپیہ آگیا چنانچہ جو شخص اسکی تصدیق کیلئے صرف ڈاک خانہ کے رجسٹر ہی ۵ مارچ ۱۹۰۵ء کو اخیر سال تک دیکھے اس کو معلوم ہوگا کہ کس قدر روپیہ آیا تھا۔

یاد رہے کہ خدا تعالیٰ کی مجھ سے یہ عبادت ہے کہ اکثر جو نقد روپیہ آنی والا ہو۔ یا اور چیزیں تحائف کے طور پر ہوں ان کی خبر قبل از وقت بذریعہ الہام یا خواب کے مجھ کو دیدیتا ہے اور اس قسم کے نشان بچاس ہزار سے کچھ زیادہ ہوں گے۔

۴۸ نشان۔ ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ میں نعمت اللہ ولی کا وہ قصیدہ دیکھ رہا تھا جس میں اس نے میرے آنے کی بطور پیشگوئی خبر دی ہے اور میرا نام بھی لکھا ہے اور بتلایا ہے کہ تیرہویں صدی کے اخیر میں وہ مسیح موعود ظاہر ہوگا اور میری نسبت یہ شعر لکھا ہے کہ:-

مہدی وقت و عیسیٰ دوران ہر دورا شہسوار می بینم  
یعنی وہ آنی والا مہدی بھی ہوگا اور عیسیٰ بھی ہوگا دونوں ناموں کا مصداق ہوگا اور دونوں طور کے دعوے کریں گے۔ اس اثناء میں میں یہ شعر پڑھ رہا تھا عین پڑھنے کی وقت مجھے یہ الہام ہوا:-

ازپئے آل محمد حسن را تارک روزگار می بینم  
یعنی میں دیکھتا ہوں کہ مولوی سید محمد حسن امر وہی اسی غرض کیلئے اپنی نوکری سے جو بیامت بموہالی میں تھی طبعاً ہونگے تا خدا کے مسیح موعود کے پاس حاضر ہوں اور اسکے دعوے کی تائید کے لئے خدمت بجالاتے اور یہ ایک پیشگوئی تھی جو بعد میں نہایت صفائی سے ظہور میں آئی۔

وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ (۱) ایک وہ جو دوسروں کی اصلاح کے لئے مامور نہیں ہوتے بلکہ ان کا کاروبار اپنے نفس تک ہی محدود ہوتا ہے۔ اور ان کا کام صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر دم اپنے نفس کو ہی زہد اور تقویٰ اور اخلاص کا معقل دیتے رہتے ہیں اور حتیٰ الوسع خدا تعالیٰ کی ادق سے ادق رضامندی کی راہوں پر چلتے اور اس کے باریک و صابا کے پابند رہتے ہیں۔ اور ان کے لئے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کسی ایسے عالی خانہ ان اور عالی قوم میں سے ہوں جو علو نسب اور شرافت اور نجابت اور امارت اور ریاست کا خاندان ہو بلکہ حسب آیت کریمہ ان اکرمکم عند اللہ اتقکم صرف انکی تقویٰ دیکھی جاتی ہے گو وہ دراصل جو ہرول میں سے ہوں یا چارول میں سے۔ یا مثلاً کوئی ان میں سے ذات کا کنجیر ہو جس نے اپنے پیشہ سے توبہ کر لی ہو۔ یا ان قوموں میں ہو۔ جو اسلام میں دوسری قوموں کے خادم اور بیچی قومیں سمجھی جاتی ہیں۔ جیسے حجام۔ مویجی۔ تیلی۔ ڈوم۔ میر آسی۔ سقے۔ قصائی۔ جو لاسے۔ کنجری۔ تنبولی۔ دھوبلی۔ مچھوے۔ بھڑ بھونجے۔ نانیاں وغیرہ۔ یا مثلاً ایسا شخص ہو کہ اسکی ولادت میں ہی شک ہو کہ آیا حلال کا ہے یا حرام کا۔ یہ تمام لوگ توبہ نصوح سے اولیام اللہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ وہ درگاہ کریم ہے اور فیضان کی موجیں ٹپسے جوش سے جاری ہیں۔ اور اس قدوس ابدی کے دریائے محبت میں غرق ہو کر طبع طرح کے نیلوں والے ان تمام نیلوں سے پاک ہو سکتے ہیں جو عفت اور عبادت کے طور پر ان پر لگائے جاتے ہیں۔ اور پھر بعد اس کے کہ وہ اس خدانے قدوس مل گئے۔ اور اس کی محبت میں محو ہو گئے اور اسکی رضا میں کھوئے گئے۔ سخت بد ذاتی ہوتی ہے کہ ان کی کسی نیچ ذات کا ذکر بھی کیا جائے۔ کیونکہ اب وہ وہ نہیں رہے اور انھوں نے اپنی شخصیت کو چھوڑ دیا اور خدا میں جاملے اور اس لائق ہو گئے کہ

۳۱ ترجمہ۔ تم میں سے خدا تعالیٰ کے نزدیک بہا زیادہ بزرگ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ کی راہوں پر چلتا ہے۔ منہ

نشان آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ اور اُن ہدایتوں کے بھیجنے والے کے مُنہ پر ہمیشہ کے لئے ٹہر لگ گئی ہے۔ میں ہانتا ہوں کہ ہر ایک انسان جو سچی بھوک اور پیاس خدا تعالیٰ کی طلب میں رکھتا ہے وہ ایسا خیال ہرگز نہیں کریگا۔ اس لئے ضروری ہے کہ سچے مذہب کی یہی نشانی ہو کہ زندہ خدا کے زندہ نمونے اور اُس کے نشانوں کے چمکتے ہوئے نور اُس مذہب میں تازہ بہ تازہ موجود ہوں۔ اگر ہماری گورنمنٹ عالیہ ایسا جلسہ کرے تو یہ نہایت مبارک ارادہ ہے۔ اور اس سے ثابت ہو گا کہ یہ گورنمنٹ سچائی کی حامی ہے۔ اور اگر ایسا جلسہ ہو تو ہر ایک شخص اپنے اختیار سے اور ہنسی خوشی سے اس جلسہ میں داخل ہو سکتا ہے۔ قوموں کے پیشوا جنہوں نے مقدس کہلا کر روٹا روٹا روپیہ قوموں کا کھا لیا ہے۔ ان کے تقدس کو آزمانے کے لئے اس سے بڑھ کر اور کوئی عمدہ طریق نہیں جو اُنکا یا اُن کے مذہب کا خدا کے ساتھ رشتہ ہے اس رشتہ کا زندہ ثبوت مانگا جائے۔ یہ عاجز اپنے دلی جوش سے جو ایک پاک جوش ہے یہی چاہتا ہے کہ ہماری محسن گورنمنٹ کے ہاتھ سے یہ فیصلہ ہو۔ خدا یا اس عالی مرتبہ گورنمنٹ کو یہ الہام کر۔ تا وہ اس قسم کے جلسوں میں سبکے پیچھے آکر سبکے پہلے ہو جائے۔ اور میں چونکہ مسیح موعود ہوں۔ اس لئے حضرت مسیح کی عادت کارنگ مجھ میں پایا جانا ضروری ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام وہ انسان تھے جو مخلوق کی بھلائی کے لئے صلیب پر چڑھے۔ گو خدا کے رحم نے اُن کو بچا لیا۔ اور مریم عیسیٰ نے اُن کے زخموں کو اچھا کر کے آخر

مریم عیسیٰ ایک نہایت مبارک مریم ہے جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زخم اچھے ہونے تھے جبکہ اپنے خدا تعالیٰ کے فضل سے شعل سے نجات پائی تو صلیب کی کلیوں کے جو زخم تھے جن کو آپ نے حواریوں کو بھی دکھلایا تھا وہ اسی مریم سے اچھے ہوئے تھے۔ یہ مریم طبیب کی ہزار کتاب میں درج ہے اور قانونِ بوعلی سینا میں بھی مندرج ہے اور رومیوں اور یونانیوں اور عیسائیوں اور یہودیوں اور مسلمانوں غرض تمام فرقوں کے طبیبوں نے اس مریم کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ منہ

کشمیرِ جنتِ نظیر میں اُن کو پہنچا دیا۔ سو انھوں نے سچائی کے لئے صلیب سے پیار کیا۔ اور اس طرح اُس پر چڑھ گئے جیسا کہ ایک بہادر سوار خوش عنان گھوڑے پر چڑھتا ہے۔ سو ایسا ہی میں بھی مخلوق کی بھلائی کے لئے صلیب سے پیار کرتا ہوں۔ اور میں یقین رکھتا ہوں کہ جس طرح خدا تعالیٰ کے فضل اور کرم نے حضرت مسیح کو صلیب سے بچالیا۔ اور انکی تمام رات کی دعا جو باغ میں کی گئی تھی قبول کر کے اُنکو صلیب اور صلیب کے نیچوں سے نجات دی۔ ایسا ہی مجھے بھی بجائے گا۔ اور حضرت مسیح صلیب سے نجات پا کر نصیبین کی طرف آئے اور پھر افغانستان کے ملک میں ہوتے ہوئے کوہِ نعمان میں پہنچے۔ اور جیسا کہ اُس جگہ شہزادہ نبی کا چوترا اب تک گواہی دے رہا ہے۔ وہ ایک مدت تک کوہِ نعمان میں رہے۔ اور پھر اس کے بعد پنجاب کی طرف آئے۔ آخر کشمیر میں گئے اور کوہِ سلیمان پر ایک مدت تک عبادت کرتے رہے۔ اور سکھوں کے زمانہ تک اُن کی یادگار کا کوہِ سلیمان پر کتبہ موجود تھا آخر سرینگر میں ایک سو پچیس برس کی عمر میں وفات پائی اور خان یار کے محلہ کے قریب آپ کا مقدس مزار ہے۔ غرض جیسا کہ اس نبی نے سچائی کے لئے صلیب کو قبول کیا ایسا ہی میں بھی قبول کرتا ہوں۔ اگر اس جلسہ کے بعد جس کی گورنمنٹ محسنہ کو ترغیب دیتا ہوں ایک سال کے اندر میرے نشانِ تمام دنیا پر غالب نہ ہوں تو میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں۔ میں راضی ہوں کہ اس جرم کی سزا میں شولی دیا جاؤں اور میری ہڈیاں توڑی جائیں۔ لیکن وہ خدا جو آسمان پر ہے جو دل کے خیالات کو جانتا ہے جس کے الہام سے میں نے اس عریضہ کو لکھا ہے۔ وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اور میرے ساتھ ہے۔ وہ مجھے اس گورنمنٹ عالیہ اور قوموں کے سامنے شرمندہ نہیں کریگا۔ اُسی کی روح ہے جو میرے اندر بولتی ہے۔ میں نہ اپنی طرف سے بلکہ اُس کی طرف سے یہ پیغام پہنچا رہا ہوں تا سب کچھ جو اتمامِ محبت کیلئے چاہیے

کہ حضرت مسیح موعود کا نام احمد تھا۔ اور ہم پر جو اعتراض کئے جاتے ہیں وہ صرف دکھانے کے دانت ہیں اور ان کے کھانے کے دانت اور ہیں +

نواں ثبوت حضرت مسیح موعود کا نام احمد ہونے کا یہ ہے کہ خود اپنے اس آیت  
نواں ثبوت کا مصداق اپنے آپ کو قرار دیا ہے۔ چنانچہ آپ انار اولام جلد ۲ ص ۶۷

اپڈیشن اول میں تحریر فرماتے ہیں :-

”اور اس آیت کے کلمے کا نام جو احمد رکھا گیا ہے وہ بھی اس کے متبیل ہونے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ محمد جلالی نام ہے اور احمد جلال۔ اور احمد اور محمدی اپنے جلالی معنوں کے رو سے ایک ہی ہیں۔ اسی کی طرف یہ اشارہ ہے وَمَبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقط احمد ہی نہیں بلکہ محمد بھی ہیں یعنی جامع جلال و جمال ہیں۔ لیکن آخری زمانہ میں بطریق پیشگوئی مجدد احمد جو اپنے اندر حقیقت عیسویت رکھتا ہے بھیجا گیا۔“ +

اس عبارت سے ظاہر ہے کہ آپ اس آیت کا مصداق اپنے آپ کو ہی قرار دیتے ہیں کیونکہ آپ نے اس میں دلیل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ مراد ہوتے تو محمد و احمد کی پیشگوئی ہوتی۔ لیکن یہاں صرف احمد کی پیشگوئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی اور شخص ہے جو مجدد احمد ہے پس یہ حوالہ صاف طور پر ثابت کر رہا ہے کہ آپ احمد تھے بلکہ یہ کہ اس پیشگوئی کے آپ ہی مصداق ہیں اور اگر کسی دوسری جگہ پر آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس آیت کا مصداق قرار دیا ہے تو اس کے یہی معنی ہیں کہ جو اس کے کہ کل فیضان جو حضرت مسیح موعود کو پہنچا ہے آپ ہی سے پہنچا ہے اس لئے جو خبر آپ کی نسبت دی گئی ہے اس کے مصداق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرور ہیں کیونکہ جو خبریاں نفل میں ہوں اہل میں ضرور ہوتی چاہئیں پس عکس کی خبر دینے والا ساتھ ہی اصل کی خبر بھی دیتا ہے پس اس آیت میں ضمنی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خبر دی گئی ہے اور اس بیان سے یہ واجب نہیں آتا کہ اس پیشگوئی کے مصداق حضرت مسیح موعود نہ ہوں۔ اس کے اصل مصداق حضرت مسیح موعود ہیں اور اس لحاظ سے کہ آپ کے سب کمالات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کئے ہوئے ہیں



مدینہ منورہ

۱۲/۱۱/۴۷

تاریخ ۱۵ اہ بھرت۔ سیدنا حضرت امیر المومنین فیضان المسیح اشفاق برادر نے  
بغیر التوریک کے شوق پورے جنگ شام کی اطلاع منبر ہے۔ کہ جو اس کی بیعت  
مذاق کے لئے نہیں ہے۔ اچھی ہے اللہ مدد  
منبت ام المومنین زکریا العالیان اکھنڈ برکت ہے۔ درسم ۲۰۰  
کی بھی شکر ہے۔ اجاب وہ لے صحت فرماں۔



۱۱۶ ۱۹۴۷ ۱۲/۱۱/۴۷ ۱۱۶

## حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الثانی اہ تاج اکا سے آپ کی جماعت کی طرف سے وقفہ ادا اور وقفہ آمد کی رپورٹ کیوں نہیں آتی؟

رقم فرودہ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ

بولدرہن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ  
دن گزر رہے ہیں وقت گزر رہا ہے۔ لیکن وقفہ ادا اور وقفہ آمد کی رپورٹ اب تک آپ کی جماعت کی طرف سے نہیں آئی  
یا آپ جماعت سے ملگ رہتے ہیں۔ تو آپ نے اپنا وعدہ نہیں بھجویا۔  
وہ قربانی جو پہلے بنیاد کی جماعتوں نے کی اس کا بہت بڑا حصہ آپ سے طلب کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ اس کمزوری دکھائی گئے  
اس وقت کئی گاؤں اور شہر یہ قربانی پیش کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دینگے کہ وہ قربانی جو آپ ہی کے زمانہ میں آپ  
ہی کے ملک میں آپ ہی کے سے حالت میں آپ کے جماعتوں نے پیش کی۔ آپ وہ پیش نہ کر سکے۔  
یاد رکھیں کہ صرف کسی نامکمل فرست کا بھروسہ کافی نہیں ضروری ہے کہ سو فی صدی اسٹیکم آئے یہ ضروری نہیں کہ ہر فرد  
جماعت سے لینے والا ہو۔ مگر ہر شخص کا نام فرست میں جو حصہ لینے والے ہوں۔ انکے ناول کے آگے نکھا ہو۔ کہ جائز ہو یا نہیں یا ایکسٹرا ادا  
کیجے یا ایسے ایسے کی آڈٹنگ اور جو انکار ہو اسے اسے نکھا ہو۔ کہ یہ حصہ نہیں لینا چاہتے۔ اور جس نے معذرت کی ہو۔ اسکے آگے نکھا ہو کہ یہ حصہ  
معذوری ظہر کرتے ہیں۔ تاہم یہ سال سے کل یا جزوی معافی کی درخواست کی گئی ہے۔  
اس طرح متفرق افراد کو یا حصہ لینا چاہیے یا معذرت کرنی چاہیے کسی نہ کسی رنگ میں ہر فرد کو اقرار دے کر کہنا ہو گا۔ خواہ اقرار اثبات میں  
ہو یا نفی میں۔  
اللہ تعالیٰ جماعت کی ماضی ملاحظہ ہو۔ ایمان کے اسلئے کہ آپ نے اپنے لئے کسی کو توبہ بخشے اور ہر امتحان میں کیا ہے۔ بیٹھ کر غائب ہو کر ہر فرد کو  
بہتر اور صحت مند بنا کر پیش کرنے والا ہے۔ یہاں تک کہ یہ جماعتوں کے لئے ہے۔

ایڈیٹور۔ رخصتین شہر

یہ حوالہ صفحہ 390 پر درج ہے

قادیانی خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود کی تقریر، روزنامہ الفضل قادیان 16 مئی 1947ء صفحہ 2





### اپنی اولادوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بناؤ نہ کہ پیکر اور پسر وغیرہ کے

ہوں ہے وہ سب اولاد ہیں جو اس سے  
سے سب اولاد ہیں جو اس سے  
ہیں سب اولاد ہیں جو اس سے  
وہ ہمارے ساتھ ہیں جو اس سے  
عدوت بائبل کا مذہب جو جاتی ہے جس سے  
پتہ چلتا ہے کہ انہیں عزت و احترام سے کوئی  
مستحق نہیں ہے۔ اور عدوت مذہبی اور  
ظالمی اور برائی ہے۔

اور یہ صاف ہے کہ یہ نہیں تو ہیں اگر  
صرف ہندوستان میں ہی رحمت کو مان  
لیں۔ تو اتنی رضا کا اتنا کوئی سزا نہیں  
ہندوستان میں ہی رحمت کو مان  
اور اس سے اور یہ خدا بہت سزا کا کام ہے  
مگر جنت یہ ممکن کام ہے۔ اس کے لیے اس  
کے تاج کی شہنشاہی ہے۔ اتنی صحت و طاقت  
اور کھیل میں جس کے ان پر جنتی برائی  
عدوت میں بنائی جائے یہ سکتی ہے۔ مگر  
سارا ہندوستان احمدی ہو جائے۔ تو  
باقی دنیا کو احمدی بنانے کے لئے ایک  
احمدی کے حصہ میں صرف تین چار افراد  
آئے ہیں جس سے وہ جنت آسانی سے  
پہنچا جاسکتا ہے۔ اور کوئی مشکل نہیں

کے تحت ذہن صاف کرنا چاہیے اور وہ سارا  
تازہ رکھنا ہے۔ تو خدا تعالیٰ کے نزدیک  
مذہب کا اور جو مذہب ہوگا۔ کیا کہ جہاد میں اس  
کے لئے جو کام متروک کیا گیا ہے انہوں نے  
لگا دیا۔ جس کو کوئی شخص علم کے تحت  
لی۔ اسے ایم۔ اسے پا کر کہتا ہے تو قرآن  
کا سن ہے۔ اور سچا ہے۔ لیکن لکھنؤ کی  
کروری کی وجہ سے یہ سچا کہہ لیا  
لہذا مجھے لسنے کا راستہ بتائیے۔ تو وہ  
جو کہ سن نہیں۔ جو شخص دل میں کہہ لیا  
رکتا ہے۔ وہ دین کا بہار و سہاویہ کی  
طرح میں لکھتا ہے۔ ہر انسان پر اتنا اور  
بقیوں کے لئے ہے۔ تو سچ ہے۔ اور لکھنؤ  
کو لہنا ہے۔ دل میں کہہ لیا کہ سچ دیکھ  
تو ہو سکتا ہے کہ کسی وقت وہ سچ آگ  
پڑے۔ اور اسے نقصان پہنچائے۔ پھر  
یہ سچ خور کہ علم میں پڑے والے جو  
دولت اللہ علیہ وسلم کے نام سے  
اور علم دنیا پڑھنے والے پیکر و مجسمہ کے  
پہرے ہو۔ کہ ان کا مذہب سچا ہے۔  
وہ افضل اور بہتر ہے۔  
یہ وہ مذہب ہے جو حضور ابراہیم علیہ السلام  
نے۔ یہ وہ مذہب ہے جس میں علم و عقل  
میں فریاد۔ ہذا فریاد میں کا فرض ہے۔  
کہ یہ ان الفاظ کو پڑھنے کے بعد علم  
انکم ایک طلب علم اور احمدیہ میں چلے  
اس نام اور فریاد کے بیچ سے جو  
انہوں اور چھٹی نسلوں میں اسے اس وقت  
اشافی پڑے۔ جبکہ بعض لوگ خدا تعالیٰ کے  
عزت۔ یہ جاب دیکھ کر کہ ہمارے خدا  
پر تو ایمان لائے کہ پیکر ہوتے ہو گئے۔  
نے نہیں بتایا ہی نہیں۔ کہ وہ چاہا اور چاہا  
انہوں نے اپنی ہمت کے لئے سوچا جو چاہا۔  
ہیں اب جنت کی کوئی شہادت اور چاہا۔  
اب وقت ہی رحم و شادمانی کی روح کو لیا  
وہ روز یا وہ کھو کہ خدا اور وہ نے جو  
جوت کے وقت تم اپنے نام کے پتھر  
کو کھو تو کہہ دینا کہ وہ پتھر کھیں گے۔

سایا کی قبل اللہ تعالیٰ نے  
حضور ابراہیم علیہ السلام کو الہام فرمایا  
کہ میں تمہاری تخلیق تو زمین کے کھدوں  
میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہاں میں اب رہتا ہوں  
سے پر اور ہوا ہے۔ ان کا ثبوت ان  
سببوں میں ہے جو احمدیہ کا مذہب ہے جو  
ظہر مالک میں جا کر احمدیہ مذہب اسلام  
کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ سچا اور جو کہ دنیا  
کے ہر ملک میں احمدی شہنشاہ ہیں۔ پھر  
یہی جنت سے ملنے والے ایسے ہیں جہاں  
پھر سے سفینیں ہیں ایک نئے پہلے۔ اور  
یہی وہ زمین ہے جسے کہ سارا  
پس اپنی تمام احمدی سفینیں سوار ہیں۔ کہ  
من کو ہر جہاں پہنچا سکتے۔ اور یہ ہماری کھد  
ہے۔ جس کو اللہ کو کجا جنت کے ہر ایک  
کو کہ فرض ہے۔ حضرت الصلی اللہ علیہ وسلم  
غیبا کیسے لکھا یہ اللہ تعالیٰ نے ہی  
کا علم بیان فرمایا ہے۔ کہ ہر سال  
احمدیہ میں کم از کم سولہ طلب علم آتے ہیں  
اور وہی کا آسمان فرقی پہنچا۔ کہ پڑھنا  
یہ جہاد کو ہے کہ اس نے جہاد کم از کم ایک  
طلب علم احمدیہ میں ہے۔  
مگر حسین لوگ نہیں کہہ دے کہ جنت  
یہ کہہ دیتے ہیں۔ کہ متعدد تو دین کی خدمت  
کر رہے۔ اور وہی۔ اسے یا ایم۔ اسے ہر  
میں انسان کو سکتا ہے۔ مگر ان کا یہ جہاد  
اس وقت تک بائبل قابل اوقات نہیں  
پہنچتا۔ جب تک کہ وہ سولہ طلب علموں کی  
قدار کو پورا نہ کر لیں۔ چنانچہ حضور ابراہیم  
علیہ السلام فرماتے ہیں کہ  
- اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں علم دین  
کی سہولت علم دنیا میں نے پڑھی کہ اگر  
مجھے دین کی خدمت کرنے میں کامیابی نہ  
میلے تو صرف اسے یا ایم۔ اسے سہولت  
دے دے کہ کوئی کوئی روٹی کا توبہ بڑا  
ہے لیکن اگر علم کے تحت اور دنیاوی  
علم حاصل کرنا ہے تو ہمارے۔ اور جو کہ  
میں لکھا ہے۔ اگر یہ شخص علم

بہر حال ہم چاہتے ہیں کہ احمدیہ مذہب  
پہنچے اور ساری قومیں ہندو شیعہ و دیگر  
میں۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو ہم مسلمانوں  
کو ساتھ دینگے۔ اگر وہ جنت کے گوشے  
میں گرنے کو چاہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ہونگے  
اور ہماری وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی  
پہنچا لے گا۔ میں یہ تو نہیں چاہتا کہ ان کی  
جنت کے ساتھ ہماری جنت ہوگی۔ پھر یہ  
اللہ تعالیٰ احمدیہ کو پاک نہیں کر سکتا  
البتہ یہ کہنا صحیح ہوگا۔ کہ ان کی جنت  
ہمارے لئے بہت ضروری ہوگی۔ مگر ہمارے  
ساتھ ہونے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی  
کوئی سزا دے گا۔ ہم نے تو ہر ماہ  
پہنچا ہی ہے۔ ہمارے فضل وہ ہماری جنت  
اور ان کے بعد حضور نے اس وقت  
کہ جو ایشیائی ممالک کی کاغذ میں  
شامل ہوئے وہ انہیں گان کو خدا مان  
آنے کی دعوت دینے کے لئے دیا گیا  
گیا۔ تاکہ ان کے عشق و رافت فرمایا  
جو ساری ممالک میں پہنچا  
سہولتے بیان کیا۔ کہ اکثر خاندان  
میں ساری ممالک کے ہر مذہب  
کا اظہار کیا ہے۔ جناب جو ہر مذہب میں  
فار صاحب جو حضور کے ساتھ سند پر  
تشریف فرمائے۔ نے فرمایا کہ میں نے بعض  
خاندانوں کو اپنے مکان پر دعوت دلی  
دی۔ میں میں انہوں نے بطیب خاطر  
شرکت کی۔ مگر وہ بہت زیادہ معروفا تھے  
انہوں نے اسے سمجھنے کے بائیکاٹ  
نہ نہ خاندانوں سے غفلت برتنے کے ذکر  
پر حضور نے علم لگائے اس کو یہ کہ  
نالیہ ہذا انہوں نے علم لگائے کوئی نہایت  
علم صرف تھا کہ ان ملک کی جہاد میں  
کرتا۔ اور وہ ہر نصیحت میں انہیں فریاد  
مگر اسے ہر قوم کو مشاعرہ کرنا ہے۔  
نہرا ہمیں

ذہنیت میں ہے کہ ہندوستان میں  
سینہ میں جن قوم کوئی بنائے۔ اس  
کی کامیابی میں کوئی شک نہیں رہتا اور  
یہ اس مشیت سے ہے کہ ہر مذہب احمدیہ کے  
نے اتنی وسیع ہیں جہاں کہیں پڑھتے  
کہ وہ سارا ہندوستان کو ایک سچ  
پر لے کر آتا ہے۔ اور سب کے لئے  
میں احمدیہ کو جہاد لانا چاہتا ہے۔  
تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہندو  
سوال اللہ جانے۔ اور ساری قومیں ہندو  
جو کہ ہیں۔ تاکہ کے لئے ہر مذہب  
بہت تک یہ کام بہت مشکل ہے۔ مگر  
اس کے سچ میں بہت شادمانی ہیں۔  
اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ کہ ساری قومیں متحد  
ہوں۔ تا احمدیہ اس سچ میں پڑتی کہ  
چنانچہ اس روای میں اس طرف اعلان ہے  
میں سے ہر مذہب کو انہوں نے  
اور کوئی وقت کے لئے وہ لوگ تو نہیں ہوا  
ہو اور اس سچ میں حلیت ہوتی ہوگی۔ اور  
جس کو کوشش کرنی چاہیے کہ جہاد  
پہنچا۔  
اگر خدا کا نام ہے اس صورت میں ہمارے  
تو ہم مسلمانوں کے ساتھ ہم تھے۔ ہر حال  
ان کو ہر چاہنا جن لوگ اعتراض کرتے  
ہیں کہ سارا ہندوستان ہم پر بہت مظالم ڈھائے  
ہیں۔ ہمیں ان سے نہیں مانا جائیے۔  
میں ان کو ہمیں اب دیکھنا چاہیے۔  
احمدیہ میں وہ ذہن و عقل جو ہے  
مظاہرہ میں ہر قدر ترقی حاصل

قادیانی خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود کی تقریر، روزنامہ افضل قادیان 15 اپریل 1947ء صفحہ 3

شایع ہونے کے باعث سے کم فہم لوگوں کے لیے بڑی بڑی دقتیں پیش آئی ہیں۔ سوسفاتی تقریروں نے تو سب کو  
کی جانب میں طرح طرح کی پیچیدگیوں پیدا کر دی ہیں۔ جو امور نہایت معقولیت میں تھے وہ ان کی آنکھوں  
سے چھپ گئے ہیں۔ جو باتیں بغایت درجہ نامعقول ہیں ان کو وہ اعلیٰ درجہ کی صداقتیں سمجھ رہے ہیں۔ وہ  
حرکات جو نشان انسانیت سے متاثر ہیں ان کو وہ تذبذب خیال کئے بیٹھے ہیں۔ اور جو حقیقی تہذیب ہے  
اس کو وہ نظر استغاف واستحقار سے دیکھتے ہیں۔ پس ایسے وقت میں اور ان لوگوں کے علاج کے لیے جو اسپنہری  
گھر میں محقق بن بیٹھے ہیں اور اپنے ہی منہ سے میاں مٹھو کلاتے ہیں۔ ہم نے کتاب براہین احمدیہ کو جو تین سو  
براہین قطعیہ عقلیہ پر مشتمل ہے بغرض اثبات حقانیت قرآن شریف جس سے یہ لوگ کبھی نجات نہ پھیر رہے  
ہیں، تالیف کیا ہے۔ کیونکہ یہ بات اہل بیہات ہے جو سرگشتہ عقل کو عقل ہی سے تسلی ہو سکتی ہے اور جو عقل  
کا ہر ذرہ ہے وہ عقل ہی کے ذریعہ سے راہ پر آ سکتا ہے۔

اب ہر ایک مومن کے لیے خیال کرنے کا مقام ہے کہ جس کتاب کے ذریعہ سے تین سو دلائل عقل حقیقت  
قرآن شریف پر شائع ہو گئیں اور تمام مخالفین کے شبہات کو دفع اور دور کیا جائے گا۔ وہ کتاب کب کب  
بندگان خدا کو فائدہ پہنچائے گی اور کب فروغ اور جاہ و جلال اسلام کا اس کی اشاعت سے چلے گا۔ ایسے  
ضروری امر کی اعانت سے وہی لوگ کا پروردار ہوتے ہیں۔ جو حالت موجودہ زمانہ پر نظر نہیں ڈالتے اور مفاسد منشرہ  
کو نہیں دیکھتے اور عواقب سوچتے یا وہ لوگ کہ جن کو دین سے کچھ غرض ہی نہیں اور خدا اور رسول سے  
کچھ محبت ہی نہیں۔ اسے عزیز و اہل اس پر آشوب زمانہ میں دین اسی سے برپا رہ سکتا ہے۔ جو بقابلہ زور  
طوفان گمراہی کے دین کی سچائی کا زور بھی دکھایا جائے۔ اور ان بیرونی حملوں کے جو چاروں طرف سے ہو رہے ہیں  
حقانیت کی قوی طاقت سے واقفیت کی جائے۔ یہ سخت تہذیبی جو چہرہ زمانہ پر چھا گئی ہے۔ یہ تب ہی دور  
ہوگی کہ جب دین کی حقیقت کے براہین دنیا میں بکثرت چلیں اور اس کی صداقت کی شعاعیں چاروں طرف سے  
چھوٹی نظر آویں۔ اس پر گندہ وقت میں وہی منظرہ کی کتاب درمانی جمعیت بخش سکتی ہے کہ جو بذریعہ تحقیق حقیقت کے  
اہل ماہیت کے باریک دقیقہ کی تہ کو کھوتی ہو۔ اور اس حقیقت کے اس فرار گاہ تک پہنچانی ہو کہ جس کے  
جاننے پر دلوں کی تشنگی موقوف ہے۔

اسے بزرگو! اب یہ وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جو شخص بغیر اعلیٰ درجہ کے عقلی ثبوتوں کے اپنے دین کی خیر منافی چاہے  
تو یہ خیال محال اور طبع خام ہے۔ تم آپ ہی نظر اٹھا کر دیکھو جو کسی طبیعتیں خود ارادی اختیار کرتی جاتی ہیں اور کیسے  
خیالات بگڑتے جاتے ہیں۔ اس زمانہ کا ترقی علوم عقلیہ نے ہی الٹ اثر کیا ہے۔ حال کے تہذیب یافتہ لوگوں کی  
جانب میں ایک عجیب طرح کی آزاد منشی بڑھتی جاتی ہے۔ اور وہ سعادت جو سادگی اور غربت اور صفا یعنی میں ہے وہ  
ان کے مفرد دلوں سے باکل جاتی رہی ہے اور جن جن خیالات کو وہ دیکھتے ہیں۔ وہ اکثر ایسے ہیں کہ جن سے ایک

۳۲۸

والا پتھے کی زندگی میں ہی ہلاک ہوا کرتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے مخالف بھی ہمارے مرلے کے بعد زندہ نہیں رہیں گے اور مخالفوں کے وجود کا قیامت تک ہونا ضروری ہے جیسے وَجَاءَ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا (الیٰ نوحہ انبیاء متوکلین ۵۶) سے ظاہر ہے۔

ہم تو ایسی باتیں سن سکر حیران ہوتے ہیں۔ وکیو ہماری باتوں کو کیسے الٹ پٹ کر پیش کیا جاتا ہے اور تحریف کرنے میں وہ کمال حاصل کیا ہے کہ یہودیوں کے بھی کان کاٹ دیئے ہیں۔ کیا یہ کسی نبی، اول، قطب، نوٹ کے زمانہ میں ہوا کہ اس کے سب اعداد مر گئے ہوں؟ بلکہ کافر منافق باقی رہ ہی گئے تھے۔ ان اتنی بات صحیح ہے کہ پتھے کے ساتھ جو بھڑٹے جاہل کرتے ہیں تو وہ پتھے کی زندگی میں ہی ہلاک ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے ساتھ جاہل کرنے والوں کا حال ہو رہا ہے۔

**جماعت کو خود سوچ کر عام سوالوں کا جواب دینا چاہیے** مجھے تو اپنی جماعت پر افسوس ہوتا ہے کہ کیا ان میں اتنی عقل

بھی نہیں کہ ایسے اعتراف کرنے والے سے پوچھیں کہ یہ ہم نے کہاں لکھا ہے کہ بغیر جاہل کرنے کے ہی بھڑٹے پتھے کی زندگی میں تباہ اور ہلاک ہو جاتے ہیں۔ وہ جگہ تو نکالو جہاں یہ لکھا ہے ہماری جماعت کو چاہیے کہ قتل میں فہم میں ہر طرح سے ترقی کریں اور ایسی باتوں کا خود سوچ کر جواب دیا کریں اور اپنی ایمانی روشنی سے ان باتوں کو حل کیا کریں۔ مگر دنیا داری کے دھندلوں میں مت باری جاتی ہے۔ اتنا نہیں کر سکتے کہ مقررین سے یہودی کتب کی وہ جگہ ہی پوچھیں جہاں یہ لکھا ہے کہ پتھے کی زندگی میں سب بھڑٹے مر جاتے ہیں۔ بلکہ بھڑٹے تو قیامت تک رہیں گے۔

**مبلغین کیلئے حضرت اقدس کی کتب کے مطالعہ کی اہمیت** فریاد: اس تحریک سے مجھے

یہ بھی یاد آ گیا ہے کہ وہ لوگ جو اشاعت اور تبلیغ کے واسطے باہر جاویں۔ وہ ایسے نہ ہوں کہ الٹ پٹ کر ہماری باتوں کو کچھ اور کا اور ہی بناتے رہیں اور بات تو کچھ اور ہو اور سمجھانے کچھ اور لگ جاویں۔ دوسروں کو تو ہمارے دعویٰ سے آگاہ کریں۔ ورنہ خود ہماری کتابوں کو کبھی پڑھا بھی نہ ہو۔ اس طرح سے ہی تحریف ہوا کرتی ہے۔ ایسے وقتوں میں صرف زبانی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ تحریر پیش کرنی چاہیے۔

ہم پر الزام لگائے جاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام حسین کی توہین کی جاتی ہے حالانکہ ہم ان کو راسخ اور مستحق سمجھتے ہیں۔ اعتراف کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت بے عزتی کی جاتی ہے اور ان کو گال دی جاتی ہے حالانکہ ہم ان کو ایک اولوالعزم نبی اور خدا تعالیٰ کا راسخ زندہ سمجھتے ہیں۔ ہاں اگر عیسیٰ کا مر جانا

# ملفوظات

## حضرت شیخ موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

۳۱۱، اگست ۱۹۹۱ء کو جناب پروفیسر مصلحی صاحب سینیٹر کشتروزیر آباد، قاریان دارالامان لائے تھے اس تقریب پر حضرت جید اللہ علی الارض علیہ السلام نے بطور تبلیغ مندرجہ ذیل تقریر فرمائی۔ جو القلم کی اس اور اگلی اشاعتوں میں درج ہوئی ہے۔ سہ ماہیہ التوفیق و موخر الفتن۔ ایڈیشن

### نئی بات سنتے ہی اس کی مخالفت نہ کریں

اصل بات یہ ہے کہ جب تک انسان کسی بات کو خالی الذہن ہو کر نہیں سوچتا اور تمام پہلوؤں پر توجہ نہیں کرتا اور غور سے نہیں سنتا اس وقت تک پرانے خیالات نہیں چھوڑ سکتا اس لئے جب آدمی کسی نئی بات کو سنے تو اسے یہ نہیں چاہئے کہ سنتے ہی اسکی مخالفت کے لئے تیار ہو جاوے بلکہ اس کا فرض ہے کہ اس کے سارے پہلوؤں پر پورا فکر کرے اور انصاف اور دیانت اور سب سے بیخبر خدا تعالیٰ کے خوف کو مد نظر رکھ کر تمنا کی میں اس پر سوچے۔ میں جو کچھ اس وقت کہنا چاہتا ہوں وہ کئی معمولی اور سرسری لگاؤ سے دیکھنے کے قابل بات نہیں بلکہ بہت بڑی اور عظیم الشان بات ہے میری اپنی بنا کی ہوئی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی بات ہے اس لئے جو اس کی کھنڈ کے لئے جرات اور دلیری کرتا ہے وہ میری کھنڈ نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی کھنڈ کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھنڈ پر دلیر ہوتا ہے مجھے اس کی کھنڈ سے کوئی رنج نہیں ہو سکتا البتہ اس پر رجم ضرور آتا ہے کہ نادان اپنی نادانی سے خدا تعالیٰ کے غضب کو بڑھاتا ہے۔

### ہر صدی کے سر پرچند کا ظہور

یہ بات مسلمانوں میں ہر شخص جانتا ہے اور غالباً کسی کو بھی اس سے بے خبری نہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو بھیجتا ہے

☆ میں سے سچے ایمان کی علامت ہوں ہوں۔

حافظ صاحب نے فی الفور بلا تامل منظور کیا کہ میں اس بارہ میں مباہلہ کروں گا۔ کیونکہ میرا یقین ہے کہ یہ تمہیں مسلمان ہیں۔ تب اسی بات پر حافظ صاحب نے عبدالحق سے مباہلہ کیا۔ اور گواہان مباہلہ منشی محمد یعقوب اور میاں نبی بخش صاحب اور میاں عبدالہادی صاحب اور میاں عبدالرحمن صاحب عمر پوری قرار پائے اور جب حسب دستور مباہلہ فریقین اپنے اپنے نفس پر لعنتیں ڈال چکے اور اپنے منہ سے کہہ چکے کہ یا الٰہی اگر ہم اپنے بیان میں سچائی پر نہیں تو ہم پر تیری لعنت نازل ہو۔ یعنی کسی قسم کا عذاب ہم پر وارد ہو۔ تب حافظ صاحب نے عبدالحق سے دریافت کیا کہ اس وقت میں بھی اپنے آپ پر بجمالت کا ذب ہونے کے لعنت ڈال چکا اور خدا تعالیٰ سے عذاب کی درخواست کر چکا اور ایسا ہی تم بھی اپنے نفس پر اپنے ہی منہ سے لعنت ڈال چکے اور بجمالت کا ذب ہونے کے عذاب الٰہی کی اپنے لیے درخواست کر چکے۔ لہذا اب میں تو اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اگر اس لعنت اور اس عذاب کی درخواست کا اثر مجھ پر وارد ہوا۔ اور کوئی ذلت اور رسوائی مجھ کو پیش آگئی تو میں اپنے اس عقیدہ سے رجوع کر لوں گا۔ سو اب تم بھی اس وقت اپنا ارادہ بیان کرو کہ اگر تم خدا تعالیٰ کے نزدیک کاذب ٹھہرے اور کچھ لعنت اور عذاب کا اثر تم پر وارد ہو گیا تو تم بھی اپنے اس تکفیر کے عقیدہ سے رجوع کر دینگے یا نہیں۔ فی الفور عبدالحق نے صاف جواب دیا کہ اگر میں اپنی اس بددعا سے سزا اور بندہ اور یہ کچھ بھی ہو جاؤں۔ تب بھی میں اپنا یہ عقیدہ تکفیر پر گزرنہ چھوڑوں گا اور کافر کا فرقے سے باز نہیں آؤں گا۔ تب حاضرین کو نہایت تعجب ہوا کہ جس مباہلہ کو حق اور باطل کے آزمائش کے لیے اس نے معیار ٹھہرایا تھا اور جو قرآن کریم کی رو سے بھی حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے ایک معیار ہے کیونکہ اور کس قدر جلد اس معیار سے یہ شخص پھر گیا اور زیادہ تر ظلم اور تعصب اس کا اس سے ظاہر ہوا کہ وہ اس بات کے لیے تیار ہے کہ فرقی نہ لگے پر مباہلہ کے بعد کسی قسم کا عذاب نازل ہو اور وہ اس کے اس عذاب کو اپنے صادق ہونے کے لیے بطور دلیل اور حجت کے پیش کرے، لیکن وہ اگر آپ ہی مورد عذاب ہو جائیں تو پھر منافق کے لیے اس کے کاذب ہونے کی یہ دلیل اور حجت نہ ہو۔ اب خیال کرنا چاہیے کہ یہ قول عبدالحق کا کس قدر امانت اور دیانت اور ایمان داری سے دور ہے۔ گویا مباہلہ کے بعد ہی اس کی اندرونی حالت کا مسخ ہونا کھل گیا۔ یہودی لوگ جو مورد لعنت ہو کر بندہ اور سوز ہو گئے تھے۔ ان کی نسبت بھی تو بعض تفسیروں میں یہی لکھا ہے کہ بظاہر وہ انسان ہی تھے لیکن ان کی باطنی حالت بندوں اور سوزوں کی طرح ہو گئی تھی اور حق کے قبول کرنے کی توفیق بکلی ان سے سلب ہو گئی تھی اور مسخ شدہ لوگوں کی یہی تو علامت ہے کہ اگر حق کھل بھی جائے تو اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ قرآن کریم اسی طرف اشارہ فرما کر کہتا ہے۔ **وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ وَتَوَلَّيْنَاهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔** یعنی کافر تھے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں۔ ایسے رقیق اور پتھے دل نہیں کہ حق کا انکشاف دیکھ کر اس کو قبول کریں۔ اللہ جتنا اس کے جواب میں فرماتا ہے کہ یہ کچھ خوبی کی بات نہیں بلکہ لعنت



۴۲۶

بہت سے اعتراضات محض نادانی اور ناہنجوسی سے قرآن شریف پر کئے گئے ہیں حالانکہ وہ تمام باتیں حق اور حکمت کا سرچشمہ ہیں۔ مگر تعصب ایک ایسی بلا ہے جو غور کرنے نہیں دیتا۔ اس مضمون کے لکھنے کے وقت مندرجہ ذیل مجھے الہام ہوئے۔ اور میں نے بہتر سمجھا کہ ان کو لکھ دوں۔ اور وہ یہ ہیں:-

اِنَّهُمْ قَاٰصِنُوْا هُوَ كَيْدُ سَلْحَرٍ ۙ وَلَا يَفْلِحُ السَّلْحَرُ حَيْثُ اَتَى - اَنْتَ حَيٌّ  
بِمَنْزِلَةِ رُوْحِي - اَنْتَ مَبْنِيٌّ بِمَنْزِلَةِ الْجَنَّمَ النَّاقِبِ ۙ جَاؤَ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْمُبَاطِلُ -  
اب ہم اس مضمون کو ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خفا یا تمام حاضرین کو بلکہ تمام  
دنیا کو راہ راست پر لادے۔ آمین۔ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتَّبَعَ الْهُدٰى۔

الرافت

فاکسار میرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود

۲۰ دسمبر ۱۹۰۶ء روز دوشنبہ ۲۵ شوال ۱۳۲۵ھ ۱۷ گھنٹہ ۱۹۶۴ء۔

گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکنے والے حق کے متلاشی قادیانیوں کے لیے ایک رہنما کتاب

# کلامِ مناظرہ

جزیبین خلد

ایک قادیانی سے فیصلہ کن مناظرہ جس کے نتیجے میں وہ قادیانیت سے تائب ہو کر اسلام کی آغوش میں آ گیا

ایسی علمی، تحقیقی اور دلچسپ کتاب جو اپنے اندر لیے ہوئے ہے

- ⊖ قادیانی مناظر کی عبرتناک شکست
  - ⊖ قرآن و حدیث کے فولادی دلائل و براہین کی طوفان خیزی
  - ⊖ قادیانی باطل تاویلات اور شکوک و شبہات کا خاتمہ
  - ⊖ قادیانی دجل و تلبیس کی نقاب کشائی
  - ⊖ قادیانی اعتراضات کے دندان شکن جوابات
  - ⊖ ہر صفحہ نئی کتاب..... ہر سطر نیا انکشاف..... ہر لفظ نئی معلومات
- مستند حوالہ جات سے مزین یہ کتاب تحفظ ختم نبوت کا کام کرنے والے تمام مجاہدین کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کے تمام افراد کے لیے بے حد اہمیت کی حامل ہے جو دلائل و براہین کی روشنی میں ”قادیانیت کا اصل چہرہ“ دیکھنا چاہتے ہیں۔

اس کتاب کے مطالعہ کے بعد کوئی قادیانی مناظر آپ سے کبھی مناظرہ نہ کر سکے گا۔ (ابن شاہین)

شیخ المشائخ حضرت خواجہ خان محمد دامت برکاتہم العالیہ

(امیر مرکزی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان) کی ایمان افروز تقریر کے ساتھ

کارکنان تحفظ ختم نبوت کے لیے خصوصی رعایت



عالم اسلام میں اپنی نوعیت کی منفرد کتاب

# ثبوتِ قادیانیت

قادیانی مذہب کے عقائد و عزائم، مضحکہ خیزیوں، تضاد بیانیوں اور کذب و ریا پر مبنی ناقابل تردید اور ہوش ربا عکس شہادتیں

محمد بن خالد

ہیرت انگیز  
معلومات

یہ ایک ایسی تاریخی و تحقیقی کتاب ہے

ہوش ربا  
انکشافات

سارے راز  
بے نقاب

● جو قادیانیوں کی اسلام کے خلاف ہرزہ سہائیوں اور گناہوں کے مستند دستاویزی ثبوت لیے ہوئے ہے۔  
● جسے 10 سال کی شبانہ روز انتھک محنت کے بعد مکمل کیا گیا ہے  
● جس میں قادیانی نکتہ اور اخبارات و رسائل کے 50 ہزار سے زائد صفحات کھنگالنے کے بعد قادیانیوں کے مذموم عقائد و عزائم کے تحریری ثبوت یکجا کر دیے گئے ہیں۔

سنہی خیز  
واقعات

بند کتابوں کی  
کلی کہانی

● جس کے مطالعے سے ہر قادیانی اپنے عقائد کی سچی اور بھیاں تک تصویر دیکھ کر راہ ہدایت پاسکتا ہے۔  
● جو سادہ لوح مسلمانوں کو فتنہ ارتداد سے بچانے کے لیے ایک مؤثر ہتھیار ثابت ہو سکتی ہے۔

ناقابل تردید  
مقائق

مرگھ اور  
لاذہیری کی  
ضرورت

● جس کا مطالعہ علماء و خطباء، وکلاء، مساتذہ اور طلباء کو فتنہ قادیانیت کے خلاف مضبوط دلائل اور ٹھوس معلومات کا ذخیرہ فراہم کرے گا۔  
● جسے قادیانیت کے خلاف ہر عدالتی مقدمہ، بحث اور مناظرہ میں مستند حوالے کی حیثیت سے پیش کیا جاسکتا ہے۔  
● جسے تمام مکاتیب کے جید علمائے کرام اور نامور اہل علم و دانش کی خواہش اور سرپرستی میں تیار کیا گیا۔

قادیانیت  
پر مکمل  
انسائیکلو پیڈیا

ایک ایسی دستاویز جس کا مذاقوں سے انتظار رہتا پڑھے اور تحفظ ختم نبوت کے لیے آگے بڑھے!

الحمد مارکیٹ، 40- اردو بازار، لاہور  
فون: 7352332، 7232336 فیکس: 7232336  
www.ilmoirfanpublishers.com  
Email: ilmoirfanpublishers@hotmail.com

علم و فن پبلشرز